بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَاُولٰٓئِکَ لَہُمُ الْخَیْرٰتُ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے

جہانِ امام ربانی

مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم یازدہم

زیرِ سرپرستی : پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظر ثانی
محمد عالم مختار حق

امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی
اسلامی جمہوریہ پاکستان

۱۴۲۷ھ/۲۰۰۶ء

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

وَاُولٰٓئِکَ لَھُمُ الْخَیْرٰتُ وَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۸۸)

اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے

جہانِ امام ربّانی

کوہِ قاف

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم یازدہم

زیرِ سرپرستی: پروفیسر ڈاکٹر محمّد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمّد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی
محمّد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء

(جملہ حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام .... جہان امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
مرتبین .... صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری
نظر ثانی .... محمد عالم مختار حق
اقلیم .... یازدہم (کامل سیٹ ۱۲ر مجلدات)
تصحیح .... مفتی محمد جان نعیمی، ابوالسرور محمد مسرور احمد، ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، کمانڈر (ر) محمد ظفر،
ڈاکٹر صفی الدین مسعودی، مولانا علی انور بگھیو، محمد عبدالستار طاہر مسعودی
حروف ساز .... سید شعیب افتخار مسعودی، قاری محمد شریف کمبوہ
طابع .... جاوید اقبال مظہری
مطبع .... برکت پریس، کراچی
طباعت ۱۴۲۸ھ/ ۲۰۰۷ء
اشاعت .... اول (بارہ سو)
ناشر .... امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی
ہدیہ ....

ناشر

امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی

فلیٹ نمبر اے۔۵، پلاٹ نمبر سی۔۷، اسٹیڈیم لین نمبر ا، فیز 7، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی، فون ۵۸۴۰۳۹۵_۰۱۲
(اسلامی جمہوریہ پاکستان)

ملنے کے پتے

☆ ادارۂ مسعودیہ......۲/۶، ۵_ای، ناظم آباد، کراچی فون ۰۲۱_۶۶۱۴۷۴۷

☆ ضیاء الاسلام پبلی کیشنز......ضیاء منزل (شوگن مینشن) محمد بن قاسم روڈ آف ایم۔اے۔جناح روڈ، کراچی فون ۰۲۱_۲۲۱۳۹۷۳

☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز......اردو بازار، کراچی فون ۰۲۱_۲۶۳۰۴۱۱

☆ مکتبہ غوثیہ ہول سیل......پرانی سبزل منڈی، یونیورسٹی روڈ، نزد پولیس چوکی محلہ فرقان آباد، کراچی فون ۰۲۱_۴۹۲۶۱۱۰

☆ مکتبہء نبویہ......گنج بخش روڈ، لاہور

☆ فرید بک اسٹال......۳۸_اردو بازار، لاہور فون ۰۴۲_۷۲۲۴۸۹۹

☆ مکتبہ جامعہ نقشبندیہ بستان العلوم......کڈہالہ (مجاہد آباد)، براستہ گجرات، آزاد کشمیر، اسلامی جمہوریہ پاکستان

☆ Khalifa Muhammad Sadique, Roza Shareef, Sirhind,
District Fategharh, Pin code-140406 (INDIA) Ph. 01763-30144.

☆ Dr. Mufti Muhammad Mukarram Ahmad, Nusratul Islam
Educational Society, Masjid Fatehpuri, Delhi-6,(INDIA)

☆ Mr. Masood Ahmad Ashrafi, Chairman, Global Islamic Mission,
335, Walnut Street # 2, Yonkers, New York-10701(U.S.A)

☆ Mr. Munir Hussain Masoodi, 46-Holly Lane Smethwich,
West Midlnds B67 7JD. (U.K)

☆ Hafiz Muhammad Qamaruddin Rizvi,Maktaba-i-Razvia
423-Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-110006. (INDIA)
Ph. 23264524

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٦٣٩٨

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

انتساب

☆☆

فرزند جلیل و جانشین امام ربانی
خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے نام

☆...... جو سولہ برس کی عمر میں علوم عقلیہ ونقلیہ سے فارغ ہوئے

☆...... جو حضرت مجدد الف ثانی کے معارف کا مجموعہ تھے

☆...... جن کو حضرت مجدد الف ثانی نے ''محمدی المشرب'' فرمایا

☆...... جن کو حضرت مجدد الف ثانی نے ''ثلۃ من الاولین'' سابقین کے گروہ میں شامل کیا

☆...... جن کو حضرت مجدد الف ثانی نے محرمان اسرار میں شامل کیا اور خطا و غلطی سے محفوظ قرار دیا

☆...... جن سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا اور ''عروۃ الوثقیٰ'' کا خطاب عطا فرمایا

☆...... جو حج بیت اللہ شریف اور زیارت حرمین شریفین سے سرفراز ہوئے اور فتوحات جلیلہ سے نوازے گئے

☆...... سفر حج میں جن کا عرب و عجم میں شاندار استقبال کیا گیا اور عدیم المثال پذیرائی ہوئی

☆...... شاہجہاں بادشاہ اور اورنگ زیب عالم گیر بادشاہ جن کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے

☆......شاہجہاں بادشاہ کی شہزادیاں روشن آراء اور گوہر آراء جن سے بیعت ہوئیں

☆......جن کے حکم سے شاہجہاں بادشاہ نے سکوں پر کلمہ طیبہ لکھوایا

☆......جن کی خدمت میں سلطان روم اور شاہ توران نے ہدایا اور تحائف بھیجے

☆......شاہ بدخشاں اور شاہ کاشغر جن سے بیعت ہوئے

☆......شاہ چین کی درخواست پر جن کے خلیفہ خواجہ ازغون چین گئے، اسلام پھیلایا، بکثرت مسلمان مرید ہوئے اور ایک ہزار خلفاء ہوئے

☆......جن کی اجازت اور خوابی اشارے پر شاہجہاں بادشاہ نے لال قلعہ دہلی اور جامع مسجد دہلی تعمیر کرائی

☆......جن کے عرب وعجم میں بکثرت مریدین وخلفاء ہوئے اور جن کا فیض عرب وعجم میں اب تک جاری ہے

(مرتبین)

☆......☆......☆

السیاسة وضع کلمات فی العالم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جہان امام ربانی

اقلیم یازدہم

نشانِ عزم و ایثار و عزیمت
مجدد تو امامِ عارفاں ہیں

(حفیظ نقشبندی)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم یازدہم

☆☆

نعت شریف ...... امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳

مناقب ...... ابوالبیان پسروری، سید یونس جمشید پوری، طارق سلطانپوری، محمد حفیظ نقشبندی، سید شبیر حسین شاہ ۱۷

ابتدائیہ ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹

تاثرات ...... ڈاکٹر سید محمد عارف، ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی، عبدالحی لکھنوی، محمد عظیم نقشبندی ۳۷

کشورِ اول

تجلیات امام ربانی ...... پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۵

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی ...... ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی ۶۵

شیخ احمد سرہندی ...... پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی
مترجم: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی ۹۹

ایک مردِ حق آگاہ ...... ڈاکٹر عبدالوارث خاں ۱۰۹

شجرۂ مصافحہ ۱۳۲

حقیقۃ محمدیہ، حقیقۃ احمدیہ اور حقیقۃ کعبہ مکتوبات کی روشنی میں ...... صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر ۱۳۳

علم الکلام میں حضرت مجدد کے اجتہادات ...... پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۱۵۱

✿ ...... مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے سلاطین کی ارادت وعقیدت — صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۲۰۱
✿ ...... مکتوب خواجہ محمد سعید بنام والی یمن امام اسماعیل — خواجہ محمد سعید ۲۰۵
✿ ...... شیخ محمد ناظم عادل قبرصی — مرتبین ۲۱۹
✿ ...... مولانا نور الدین نورانی نقشبندی — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۲۲۷
✿ ...... توضیحات — پروفیسر سید کبیر احمد مظہر ۲۳۷

کشورِ دوم

✿ ...... محفل تشکر بسلسلہ اجراء جہان امام ربانی، کراچی (یکم ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء) ۲۶۹
☆ ...... ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۷۰
☆ ...... تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن — مولانا جاوید اقبال مظہری ۲۷۱
☆ ...... خطبہ صدارت — ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۲۷۶
☆ ...... روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۸۴
✿ ...... قومی جہان امام ربانی کانفرنس، لاہور (۱۴/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء) ۲۹۱
☆ ...... خطبہ صدارت — ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۲۹۳
☆ ...... روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹۸
☆ ...... اظہار خیال — پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد ۳۰۶
✿ ...... حضرت مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس، دہلی (۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء) ۳۰۹
☆ ...... روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۳۱۱

کشورِ سوم

......آئینہء مجدد	شہزاد احمد مسعودی	۳۱۹
......مآخذ و مراجع جہان امام ربانی (اردو، عربی، فارسی، انگریزی)	صوفی محمد عبدالستار طاہر، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، صبا مسعودی، حنا مسعودی	۳۲۷

کشورِ چہارم

......اشاریہء رجال جہان امام ربانی	مولانا شجاع الرحمٰن، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، پروفیسر سید مقصود علی، مولانا نصیر احمد مولوی غلام جیلانی، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ، حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ شاہد، سمیعہ شاہد	۳۹۱
......اشاریہء کتب جہان امام ربانی	پروفیسر قاری محمد رفیق، صوفی عبدالستار طاہر مسعودی، سید زبیر حسین جیلانی، حاجی امجد افضل، حاجی محمود، محمد شریف اعوان، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، مدثر چوہدری، محمد عثمان، حافظ محمد سعید، حافظ محمد انس، محمد سجاد، محمد اشفاق، اسامہ امجد، حافظ شرافت، محمد عاطف، عامر اسلم، محمد عامر، محمد ہارون، حافظ بلال ساجد، بشریٰ، صبا مسعودی، حنا مسعودی	۶۱۷
......اشاریہء اماکن جہان امام ربانی	محمد عاصم مسعودی، محمد سہیل، ثروت، صبا مسعودی، حنا مسعودی، سمیعہ شاہد، ربیعہ شاہد، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ	۷۲۳

کشورِ پنجم

......جہان امام ربانی (منظوم) پروفیسر محمد حسین آسی ۷۷۵

......جام جم
(جہان تبریک وتشکر) ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۷۷

......فہارس جہان امام ربانی
(اقلیم اول تا یازدہم) ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۸۶۳

......اختتامیہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۹۰۳

......آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی (منظوم) پروفیسر محمد حسین آسی ۹۲۴

......مرقعاتِ کتب حکیم عبدالحی لکھنوی وابوالحسن علی ندوی ۹۲۹

......مرقعات ۹۵۱

......مناجات شیخ خالد کردی، مولوی وکیل احمد سکندر پوری ۹۷۸

☆......☆......☆



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

نعتِ رسول مقبول

(صلی اللہ علیہ وسلم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی

☆☆

سچی بات سکھاتے یہ ہیں
سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں

ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں
ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں

ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں
چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں

جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں
روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں

ماتم گھر میں ، ایک نظر میں
شادی ، شادی رچاتے یہ ہیں

اپنی بنی ہم ، آپ بگاڑیں
کون بنائے ؛ بناتے یہ ہیں

لاکھوں بُلائیں ، کروروں دشمن
کون بچائے ؛ بچاتے یہ ہیں

مرقد میں بندوں کو تھپک کر
میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں

ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
"آ آ" کہہ کے بُلاتے یہ ہیں

باپ جہاں بیٹے سے بھاگے
لُطف وہاں فرماتے یہ ہیں

اُس کے نائب ، ان کے صاحب
حق سے خلق ، ملاتے یہ ہیں

شافع، نافع ، رافع ، دافع
کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں

اُن کے نام کے صدقے جس سے
جیتے ہم ہیں ، جِلاتے یہ ہیں

اُس کی بخشش اِن کا صدقہ
دیتا وہ ہے ، دلاتے یہ ہیں

اِن کے ہاتھ میں ہر کُنجی ہے
مالکِ کُل کہلاتے یہ ہیں

اِنَّآ اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرْ
ساری کثرت پاتے یہ ہیں

خود سجدے میں گر کر اپنی
گرتی اُمت اُٹھاتے یہ ہیں

اپنے بھرم سے ، ہم ہلکوں کا
پلّہ بھاری بناتے یہ ہیں

ٹھنڈا ٹھنڈا ، میٹھا میٹھا
پیتے ہم ہیں ، پلاتے یہ ہیں

جن کے چھپّر تک نہیں ، اُن کے
موتی محل سجواتے یہ ہیں

ٹوپی جن کے ، نہ جوتی اُن کو
تاج و براق ، دلاتے یہ ہیں

کہہ دو رضاؔ سے خوش ہو ، خوش رہ
مژدہ رضا کا سُناتے یہ ہیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مجدّد الفِ ثانی

از بندہ ابو البیان محمد داؤد پسروری مصنف سیرت

ہوئے دُنیا میں کالمتروک جب اُحکامِ قُرآنی
زبانوں ہی پہ باقی رہ گیا نامِ مُسلمانی
ہزاروں بدعتیں پیدا ہوئیں آئینِ مذہب میں
مقولے این وآں کے بن گئے اِلہامِ رَبانی
ہر اِک نافہم نے دعویٰ کیا فہمِ مَعارِف کا
ہر اِک جاہل نے برپا کر دیا شورِ ہمہ دانی
غرض جب چھا گئی ہر سمت تاریکی ضلالت کی
مُکدّر ہوگئی حُسنِ صداقت کی دُرخشانی
ہُوا اُس وقت یکسر اِقتضا الطافِ سَرمد کا
کہ ہو دینِ متین کی پھر سے تجدید و نگہبانی

مجدِّدِ اَلفِ ثانی کے ہوئے پیدا زمانے میں
شبِ تاریک میں بَدْرُ الدُّجیٰ کی جیسے تابانی
شَرَفْ اِس کا مِلا سرہند کی خاکِ مقدس کو
کہ ہو ذِرات اُسپر بارشِ اَنْوارِ یَزْدانی
یہی ہے مُسْتَقَرِ اَوْرَنگِ سُلطانِ ولایت کا
یہی لَارَیْب ہے سَرچشمۂ فَیضانِ رُوحانی
دِیا اِس سَرزمین کو حق نے کیسا رُتبۂ وَالا
کہ ہر ذَرَّہ بنا آئینۂ اَسرارِ عرفانی
حَقَائِق مُنکَشِف اِسمیں ہوئے شرع وطریقت کے
مِلی نُشوُرِ ایمان کو یہیں فرخندہ عُنوانی
اِسی کی زِینتِ آغوش ہے وہ دُرگہِ عالی
ہوئی جو مَرْجَعِ تاتاری و رُومی و ایرانی
مجدِّدِ اَلفِ ثانی جس میں مَحْوِ اِستراحت ہیں
نہیں ہے اَنفُس و آفاق میں جنکا کوئی ثانی

تہِ پا مسندِ اَلفقرُ فخری جلوہ گُستر ہے
سَرِ اَقدس پہ زیبِندہ فَرِ تاجِ سُلطانی
دَبستانِ حقیقت میں مُؤدِّبِ عقلِ کُل[1] کے ہیں
گُلستانِ طریقت میں وہی ہیں سَروِ بُستانی
نہیں ہے دُور اُنکے فیض سے اے بوالبیان ہرگز
کہ پیدا بے تکلُّف ہو تری مُشکل سے آسانی

---

[1] علمائے ربّانی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

نذرانۂ عقیدت

سید یونس علی ثمر ماچوی جمشید پوری

☆☆

کتابوں میں لکھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا
مجدد اور الف ثانی کے بارے میں سنا ہوگا
یہی عبدالاحد کی گود کے نازوں کے پالے ہیں
یہ صابر قادری ، چشتی گھرانے کے اجالے ہیں
ہیں ثانی پیر خواجہ باقی باللہ کے مریدوں میں
مقام ان کو بہت اعلیٰ ملا اللہ کے ولیوں میں
گزاری آپ نے ہر سانس سجدوں میں عبادت میں
محمد کی اطاعت اور تبلیغ و ہدایت میں
ہے بدرالدین بھی ان کا لقب اور نام احمد ہے
ازل سے دل میں ان کے دولت عشق محمد ہے
انہیں سے دین کے سورج نے شان روشنی پائی
انہیں سے گلشن اسلام نے تازگی پائی
نوازا شیخ رکن الدین نے تاج خلافت سے
بلندی آپ نے پائی ولی اللہ کی نسبت سے
انھیں خرقہ خلافت کا ملا نوسوناسی میں
انہیں کا عشق رہتا ہے ہمارے دل کی بستی میں

سمجھ میں کچھ نہیں آتا قلم سے ان کو کیا کہیے
انھیں فاروق کہیے پیکر صدق و صفا کہیے
انھیں کو غوث الاعظم کی نظر کا نور کہیے
چراغ معرفت سے قلب کو پرنور بھی کہیے
بہار گلشن اسلام حق کا پاسباں کہیے
زمین کو ناز ہے جن پر انھیں وہ آسماں کہیے
ہیں شیخ احمد مجدد اور الف ثانی لقب پایا
مقدر کے سکندر ہیں یہ فاروقی نسب پایا
ولادت آپ کی نوسواکہتر ہجری پائی ہے
انھیں کے نام پر دیوانہ یہ ساری خدائی ہے
ولادت جب ہوئی والدنے ان کو خواب میں دیکھا
میرے گھر جلوہ گر صل علیٰ آقاؤں کے آقا
شہنشاہ دوعالم ہادی اعظم زباں کھولے
اذاں دی آپ کے کانوں میں اور تکبیر بھی بولے
خلیفہ شیخ عبدالعزیز نے یہ خواب دیکھے تھے
ملائک بھی فضائل آپ کے اب پیش ہیں کرتے
خدا کے لاڈلوں سے فیض روحانی بھی پایا ہے
لقب بے شک مجدد اور الف ثانی بھی پایا ہے
ثمر چمکے گا محشر تک یہ فاروقی نگینہ ہے
قسم اللہ کی یہ فیض سرکار مدینہ ہے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

☆☆

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ

مزار شریف، سرہند شریف، مشرقی پنجاب، بھارت

وصال: ۲۹/ صفر المظفر ۱۰۳۴ھ

"شہباز طریقت" "فیضان النبی" "آواز حق، حرارت ایمان" "صدق و یقین و جسارت"

۱۰۳۴ھ ۱۰۳۴ھ ۱۰۳۴ھ ۱۰۳۴ھ

قطعہ تاریخ (سال وصال)

اس کا جاہ و مرتبہ اس کا حشم انقلاب وقت سے ہوگا نہ کم
وہ طریقت کے حقائق کا علیم شرع کا دانائے اسرار حکم
رب معطی نے عطا اس کو کیا علم کا اجلال، عرفاں کا حشم
وہ سراپا غیرتِ دین نبی پاسبان عزت شاہِ اُمم
مصطفیٰ کا ایسا باعظمت فقیر جس کے آگے گردنِ شاہاں ہے خم
قول بھی کردار بھی باطل شکن حق نُما اس کی زباں اس کا قلم

آندھیاں طاغوت کی چلتی رہیں   اس نے گل ہونے نہ دی شمع حرم
تندیء طوفان باطل تھی مگر   سربلند اس نے رکھا حق کا علم
وہ جہاد و ابتلا میں سرخرو   کاروانِ حق کا میر محترم
دو تواریخ وصال اس کی کہیں
”جاں نثارِ مصطفیٰ“ ”فیض العجم“

……… سنہ ۱۰۳۴ھ ……… سنہ ۱۰۳۴ھ



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

ولایت کا میرِ کارواں

محمد حفیظ نقشبندی

☆

ولایت کے وہ میرِ کارواں ہیں   مجدد قصرِ حق کے پاسباں ہیں
سپاہ حق کے سالارِ اولوالعزم   وہ حزبِ مصطفیٰ کے ترجماں ہیں
نشانِ عزم و ایثار و عزیمت   مجدد تو امامِ عارفاں ہیں
کبھی خاطر میں شاہوں کو نہ لائے   وہ باخلاص مردِ حق زباں ہیں
وہ مقبول نگاہِ باقی باللہ   وہ فخرِ اولیاء و خواجگاں ہیں
جسور و باحمیت ، داعیِ حق   کہاں اقبالؔ سے اب نکتہ داں ہیں
یہ ہے فیضِ مجدد الفِ ثانی   جہاں میں نقشبندی کامراں ہیں
ملے دیدار حفیظِ بے نوا کو
سوالی کب سے اس کے قلب و جاں ہیں

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

حامیِ دینِ مصطفٰی، ماحیِ دینِ الٰہی

پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد

☆☆

صاحبِ تجدید دینِ احمد مختار آپ
ماحیِ دینِ الٰہی، ناہیِ اشرار آپ
علم و عرفاں کے خزانے ہیں مکاتیب آپ کے
اکبری فتنہ کے آگے چمکتی تلوار آپ
داعیِ علمِ شریعت، ہادیِ راہِ وفا!
سُنتِ عربی نبی کے ہند میں انصار آپ
آسمانی دینِ آخر کے مجدد آپ ہیں
"صاحبِ لولاک" کے دیں کے بڑے غم خوار آپ
گرنہ کرتے آپ باطل کا تعاقب دم بدم
دین ہوجاتا مسخ، کیسے ہوتے ابرار آپ
یہ سعادت حق نے دی کہ آپ نے تحریک کی
ہند میں اسلام کے احیا کے ہیں معمار آپ
باللسان والقلم رد کردیا اوہام کا
"دینِ الفی" کے لیے ثابت ہوئے ہیں نار آپ

سُنّت و شرع ملائی جارہی تھی کفر میں
ہیں شریعت احمدی کے حامئ بیدار آپ
علم وایماں سے بھرا ہے آپ نے ہر مکتوب کو
صاحبِ اسرار اور حق کے علمبردار آپ
ہر قلم نے اور زباں نے، ہر نفس نے مانا ہے
الف ثانی آپ ہیں، اور سید و سردار آپ
دینِ آخر جس گھڑی تھا پنجۂ اغیار میں
تو نے ہی کی تھی حمایت' دیں کو تھے درکار آپ
تونے ہی کی تھی حمایت
فیضیؔ' ابوالفضل نے اکبر کو گم راہ کردیا
گمرہانِ دہرکو ہیں گویا اک للکار آپ
لگ گئے تن من سے' دھن سے دینِ احمد کے لیے
ہے محبت دین سے' امت کے کھیون ہار آپ
تھی اِدھر تیری فقیری، اور جہانگیری اُدھر
حق سُنا حق کہہ دیا، حق کے بنے سالار آپ
سچ کہا اقبال نے: ''گردن ترِی نہ جُھک سکی''
کفر و باطل کے لیے جرّار آپ' کرّار آپ
فتنۂ بے پَر اُٹھا ناکام کرنے کو ترِے
رہنمائے اہلِ سُنّت کا حسیں کردار آپ

کی نہ پروا آپ نے دُنیا کے لَوم ولائم کی
کردیا اکبر کو خائبؔ تھے ہی باکردار آپ
شاہِ ختم الرُسل کے دِیں کے محافظ آپ ہیں
واہ وا خدمت گار آپؒ واہ کیسے ہونہار آپ
مَیں ترے اَوصاف لکھوں یہ بھلا ممکن کہاں
آپ ہیں حضرتِ مجدد، مطلعِ انوار آپ
یہ مگر ممکن ہے زاہدؔ سے کہے تجھ کو ولی
جبکہ کُل ولیوں کے ہندوستان میں سردار آپ

☆……☆……☆


واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

٦٥٢١



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

ابتدائیہ

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

الحمد للہ! حضرت مسعودِ ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کے زیر سرپرستی ، امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کراچی نے ”جہان امام ربانی مجدد الف ثانی“ کی گیارہ ضخیم جلدوں کا عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا تیار کرلیا، جس کی چھ جلدیں ۲۰۰۵ء میں شائع ہوئیں اور مزید پانچ جلدیں ۲۰۰۶ـ۷ء میں شائع ہو رہی ہیں، پیش نظر جلد اسی سلسلے کی گیارہویں اور آخری جلد ہے۔ جبکہ مرقعات پر مبنی ایک اور جلد ”نورٌ علیٰ نور“ کے نام سے الگ شائع ہوئی۔ اس طرح بحمد اللہ تعالیٰ بارہ جلدیں ہوگئیں۔

اس جلد میں شامل مقالات ومضامین کی اہمیت اپنی جگہ مگر ”اشاریات“ کی افادیت سے انکار ممکن نہیں...... اشاریہ کسی بھی دستاویز کے بارے میں بنیادی مأخذ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ مصنف ومحقق کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم ہوجاتی ہیں اور اپنے موضوع سے متعلق معلومات ایک ہی جگہ بآسانی مل جاتی ہیں...... اس اہم کام کی طرف اردو میں انتہائی کم توجہ دی گئی، تاہم اس کی افادیت اور آئندہ کام کرنے والے محققین کی آسانی کے لیے جہان امام ربانی کی اشاریہ سازی کی طرف بھرپور توجہ دی گئی اور درج ذیل اشاریہ تیار کیے گئے۔

۱......اشاریہء رجال
۲......اشاریہء کتب
۳......اشاریہء اماکن

اتنی بڑی کتاب کا اشاریہ مرتب کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مخلصین کی ایک جماعت نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا جن کے اسمائے گرامی ہر اشاریہ کے شروع میں درج کردیے گئے ہیں...... اشاریہ کی ترتیب وتدوین اور کمپوزنگ کا کام کمانڈر (ر) محمد ظفر نے نہایت محنت سے

اپنی نگرانی میں کرایا...... بعض اشاریہ نامکمل ہیں جس کا سبب مقالات میں حواشی کا نامکمل ہونا تھا...... حسب سابق مولانا محمد عالم مختار حق نے علالت کے باوجود متعدد مقالات و مضامین کو ملاحظہ فرما کر مفید مشوروں سے نوازا...... رب کریم ہر دو حضرات کو جزائے خیر سے نوازے (آمین)...... محققین کے لیے ایک اہم کام صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی کر رہے ہیں، وہ مندرجہ ذیل عنوان پر ایک کتاب مرتب کر رہے ہیں۔ ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا موضوعاتی جائزہ'' ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب ۲۰۰۷ء میں شائع ہو جائے گی۔

جہان امام ربانی کی گیارہویں اور آخری جلد آپ کے سامنے ہے...... بعض قارئین نے صرف یہی جلد ملاحظہ کی ہو تو ان کو تشنگی محسوس ہوگی اس لیے قارئین کی سہولت کے لیے اقلیم اول تا دہم کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے جبکہ اقلیم یازدہم کی فہرست شروع میں دے دی گئی ہے، نیز اقلیم اول تا یازدہم کی جامع فہرست مع صفحات نمبر اسی جلد کے آخر میں بھی شامل ہے۔

''جہان امام ربانی'' کی اقلیم یازدہم آپ کے پیش نظر ہے اس میں حسب سابق شروع میں نعت شریف، مناقب، ابتدائیہ اور تأثرات کے علاوہ پانچ کشور ہیں...... جن کی فہرست شروع میں دے دی گئی ہے...... نئے قارئین کی آگاہی کے لیے سابقہ دس جلدوں کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں......

اس سے قبل پیش گئی اقلیم اول میں تقدیم، ابتدائیہ اور افتتاحیہ کے بعد کشور اول میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب، احادیث مبارکہ، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں متقدمین و متاخرین علماء و صوفیہ کے تاثرات اور مثنوی در شان حضرت مجدد الف ثانی شامل ہیں...... کشور دوم میں تصوف...... کشور سوم میں اکابر نقشبندیہ پر مقالات ہیں...... کشور چہارم میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی حیات اور ان کے تأثرات پر مقالات ہیں...... کشور پنجم میں سرہند شریف کا تعارف، حضرت مجدد کے حالات زندگی، آپ کے امتیازات، خانقاہ شریف کا علمی ماحول، آپ کے لباس و حلیہ شریف کے علاوہ نگارخانہ (بعض مقالہ نگاروں کا مختصر تعارف) اور مرقعات شامل ہیں......

اقلیم دوم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں ماہ و سال، مکتوبات کی تخریج احادیث، فقہی خدمات، عربی زبان و ادب میں خدمات پر مقالات ہیں...... کشور دوم میں سنت، بدعت، ذکر الٰہی، مسلک امام ربانی اور آپ کے معمولات شامل ہیں...... کشور سوم میں علم لدنی، جذبہ و سلوک،

تعلیمات تصوف، تزکیہ نفس، صحو وسکر، علم النفسیات، علم الکائنات پر مقالات ہیں...... کشور چہارم میں ''مجدد الف ثانی'' اور '' منصب قیومت'' پر مقالات ہیں جبکہ کشور پنجم عرفان کے مجتہد اعظم، نظریہ وحدۃ الشہود، وحدۃ الوجود، ابن عربی اور امام ربانی کے نظریات کا تقابل اور نگار خانہ و مرقعات پر مشتمل ہے......

اقلیم سوم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں تعارف شیخ احمد سرہندی (اردو دائرہ معارف اسلامیہ، لاہور) مجدد نامہ، مقامات مجدد، مقام مجدد، مقامات روحانی کی جھلکیاں، ملی اور دینی خدمات پر مقالات ہیں...... کشور دوم میں اثبات نبوت، حضرت مجدد کی اصلاحی و تجدیدی تحریک، عقیدہ ختم نبوت اور وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالات ہیں...... کشور سوم میں امام ربانی کا رسالہ رد روافض، تقلید ائمہ مجتہدین اور رفع سبابہ پر مقالات ہیں...... کشور چہارم میں حضرت مجدد کا طریقہ ایصال ثواب، عقائد و معمولات، تعلیمات و مسلک، طریقۂ نماز و طہارت اور انداز تعلیم و تبلیغ پر مقالات ہیں جبکہ کشور پنجم، علم و علماء حضرت مجدد کی نظر میں، حضرت مجدد کے تعلیمی افکار، ارشادات، ملفوظات، کرامات امام ربانی اور نگار خانہ و مرقعات پر مشتمل ہے......

اقلیم چہارم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں آفتاب شرف، تعارف امام ربانی، حضرت مجدد مطلع تاریخ پر اور اکبر و جہانگیر اور حضرت مجدد کے حوالے سے مقالات ہیں...... کشور دوم میں برصغیر میں حق و باطل کے معرکے اور دو قومی نظریہ پر مقالات ہیں...... کشور سوم میں خاندان مجددیہ کا زریں کردار، سلسلۂ مجددیہ کا نقطۂ آغاز، حضرت مجدد اور محمد علی جناح، سرمایہ ملت کا نگہبان اور امام ربانی دانشوروں کی نظر میں شامل ہیں...... کشور چہارم میں سفر آخرت، اشک باری، تاریخ ہائے وصال، سلسلہ مجددیہ کے حضرات قدسیہ، مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، سرمایہ ملت کا نگہبان، خواجہ محمد معصوم مقامات آدمیہ کی روشنی میں، خواجہ محمد معصوم اور اورنگ زیب کے تعلقات، مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات سیفیہ بادشاہ، شہزادوں شہزادی کے نام، خلفاء مجدد الف ثانی، حضرت مجدد اور علماء عصر اور علماء عصر سے اختلافات کا جائزہ شامل ہیں جبکہ کشور پنجم، حالات مرزا مظہر جان جاناں، شاہ غلام علی دہلوی، ملفوظات شاہ غلام علی، مولانا شیخ خالد کردی اور نگار خانہ و مرقعات پر مشتمل ہے......

اقلیم پنجم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں امام ربانی کا تعارف، تصانیف

کا تحقیقی جائزہ، مکتوبات کی فہم و تفہیم اور حضرات مجددیہ، مکتوبات کا تحقیقی جائزہ، مکتوبات کا عربی ترجمہ، مقدمہ شرح مکتوبات، مکتوبات کا ایک مترجم قاضی عالم الدین نقشبندی شامل ہیں...... کشور دوم میں زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کا جائزہ، سلسلہ مجددیہ کا ایک ترک مصنف، مارکسی مؤرخین، حضرت مجدد کے دفاع میں لکھی گئی کتب اور اقوال پر مبنی کتب پر مقالات شامل ہیں...... کشور سوم میں افکار مجدد کا ایک مأخذ، حضرت مجدد مغرب میں اور دو عربی کتب ''الاجابة الربانیه'' اور'' الاشارات السنیه'' کا تعارف شامل ہیں...... کشور چہارم میں حضرت مجدد اور امام احمد رضا، امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ، امام ربانی اور امام اہل سنت، حضرت مجدد اور ڈاکٹر اقبال، فلسفہء اقبال پر اثرات مجدد اور تصانیف اقبال میں ذکر مجدد شامل ہیں جبکہ کشور پنجم، حضرت مجدد اور غوث اعظم اور حضرت مجدد اور امام اعظم کے حوالے سے مقالات کے علاوہ نگارخانہ و مرقعات پر مشتمل ہے......

اقلیم ششم میں نعت شریف، مناقب، ابتدائیہ اور تاثرات کے بعد کشور اول میں تعارف حضرت مجدد الف ثانی، دنیائے عرب کے نقشبندی مشائخ و علماء، تیرہویں صدی کے عرب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، متحدہ امریکہ، ترکی اور کردستان کے مشائخ نقشبندیہ اور حافظ عمر ضیاء الدین داغستانی و شیخ محمد معصوم ضیائے نقشبندی کے حالات ہیں...... کشور دوم میں افغانستان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اور افغانستان کے مشائخ نقشبندیہ، شاہان کابل و افغانستان سرہند میں، دہلی کے مشائخ نقشبندیہ، مولانا غلام محی الدین گھوسوی اور مولانا شاہ آل محی الدین ہادی کے حالات ہیں...... کشور سوم میں سندھ کے اولیاء و صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ کا ذکر ہے...... کشور چہارم میں بلوچستان، پنجاب اور کشمیر کے مشائخ کے تذکروں کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حسین پسروری کے حالات بھی شامل ہیں...... کشور پنجم میں سرحد کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ، خانقاہ نقشبندیہ موسیٰ زئی شریف، حضرت زندہ پیر گھمکول شریف پر مقالات کے علاوہ نگارخانہ، آئینہ جمال، کتابیات اور مناجات پیش کیے گئے ہیں......

اقلیم ہفتم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات، خواجہ بہاء الدین نقشبند کے حالات و واقعات، تصوف کی ضرورت و اہمیت، تبلیغ دین اور اشاعت تصوف میں خواجہ بہاء الدین نقشبند کا کردار اور ان کے ارشادات و کرامات کا ذکر ہے...... کشور دوم میں خواجہ باقی باللہ، تعارف امام ربانی، امام ربانی اور فیضان کمالات نبوت ہیں......

کشور سوم میں تفسیر مظہری اور تفسیر روح البیان میں معارف و اذکار امام ربانی کے حوالے سے مقالات ہیں...... کشور چہارم میں تخریج احادیث در مکتوبات (فارسی)، تخریج احادیثِ مکتوبات، جبکہ کشور پنجم، حضرت مجدد اور ترویج شریعت، شریعت طریقت حقیقت حضرت مجدد کی نظر میں، امام ربانی اور تنفیذ شریعت اور مرقعات و مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم ہشتم پر مشتمل ہیں......

اقلیم ہشتم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد کشور اول میں امام ربانی مجدد الف ثانی (حالات)، حضرت مجدد بحیثیت فقیہ اسلام، مسئلہ اشارۂ سبابہ، حضرت مجدد پر اعتراضات اور ان کے جوابات...... کشور دوم میں قطعات تاریخ طبع مکتوبات امام ربانی، تاریخ مکتوبات امام ربانی، جواہر مکتوبات مقدسہ، نرمی و آسانی مکتوبات کی روشنی میں، مسلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی، احمد بن عبد الاحد کے نزدیک عقائد اہل سنت...... کشور سوم میں امام ربانی کا سلسلہ نسب، حضرت مجدد کا شجرہ طریقت قادریہ صابریہ، حضرت مجدد کے سلسلہ ہائے طریقت، حضرت مجدد کے اربعہ سلاسل طریقت اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے ماہ و سال...... کشور چہارم میں شیخ احمد سرہندی اور مستشرقین، عہد حاضر اور حضرت مجدد پر کام کی رفتار، دور حاضر میں درپیش چیلنجز اور ان کا مقابلہ اور حضرت مجدد اور ذرائع ابلاغ شامل ہیں جبکہ کشور پنجم، حضرت مجدد کا کارنامہ، طالبان علم کے لیے مینارۂ نور، حضرت مجدد کا حسن ادب، مجدد الف ثانی کا پیغام، مرقعات اور مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم نہم پر مشتمل ہے......

اقلیم نہم میں نعت و مناقب اور ابتدائیہ و تاثرات کے بعد میں کشور اول میں شیخ احمد سرہندی (سوانحی خاکہ)، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (عربی/اردو)، الجنات الثمانیہ، (سوانح مجدد الف ثانی پر نادر عربی مخطوطہ)، حضرت مجدد لاہور میں، لاہور سے حضرت امام ربانی کی نسبت...... کشور دوم میں فکر مجدد الف ثانی میں خلفائے راشدین کا مقام، شیخ احمد سرہندی اور اہل حکومت میں شریعت کی ترویج، شیخ احمد سرہندی اصلاحی و تجدیدی خدمات کی روشنی میں...... کشور سوم میں مجدد الف ثانی کی عربی نگارشات اور کار تجدید میں ان کی اہمیت، مجدد الف ثانی کی علم پروری اور علماء نوازی، امام احمد رضا پر حضرت مجدد کے اثرات، خدمت خلق اور صوفیائے نقشبند...... کشور چہارم میں حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقدین، شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبد الحق دہلوی، شیخ عبد الحق دہلوی کے ایک معاصر مجدد الف ثانی شامل ہیں جبکہ کشور پنجم، خاندان مجددیہ اور فارسی ادب، خاندان مجددیہ سے قائداعظم کے اجداد کی عقیدت، نگارخانہ اور

مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم دہم پر مشتمل ہے……

اقلیم دہم میں نعت شریف، مناقب، ابتدائیہ اور تاثرات کے بعد کشور اول میں شیخ احمد سرہندی، مفکر اسلام شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد فاروقی سرہندی اور مقام مجدد الف ثانی کے عنوان سے آپ کے حالات پر مقالات ہیں……کشور دوم میں شیخ احمد سرہندی کی تحریک احیائے دین، اعلیٰ عربی زبان و ادب کی مثال مکتوبات امام ربانی، مکتوبات خواجہ محمد ہاشم کشمی بنام حضرت مجدد الف ثانی (فارسی، قلمی) خواجہ محمد معصوم حرمین شریفین میں اور شاہجہاں و اورنگ زیب کے مرشد کریم کے عنوان سے مقالات ہیں……کشور سوم میں نقشبندیہ سلسلہ تصوف، قادری شہرت پانے والے مشائخ نقشبندیہ، ارشادات سید امام علی شاہ مکان شریفی، مرزا مظہر جان جاناں، تصوف، ادیان و مذاہب کے درمیان وسیلہ اور ملفوظات مرزا مظہر جان جاناں کے عنوانات ہیں……کشور چہارم میں بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے حالات و خدمات کا ذکر ہے جن میں شاہ امان اللہ نقشبندی افغانی، خواجہ فیض محمد شاہ قندھاری، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سرحد، خواجہ غلام حسن نقشبندی مجددی (سواگ شریف)، خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی، خواجہ رکن الدین صدیق نقشبندی، شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پوٹھوہار، بلوچستان میں نقشبندی خانقاہیں، علامہ محمد نور بخش توکلی، مولانا سید حبیب اللہ نقشبندی توکلی، مولانا سید محمد یوسف نقشبندی، حافظ محمد رانجھا نقشبندی مجددی، خواجہ محمد نامدار، صوفی محمد علی، خواجہ سید امین، خواجہ محمد سعید نقشبندی المعروف پیر مٹھا، مولانا غلام محی الدین قصوری، خواجہ محمد فضل علی مجددی، خواجہ محمد عبدالغفار فضلی نقشبندی، علامہ سید حبیب احمد حبیب نقشبندی، حضرت کرماں والے، پروفیسر محمد حسین آسی اور سلسلہ نقشبندیہ کے مخطوطات کی اشاعت میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کی خدمات، شامل ہیں……کشور پنجم میں پہلے مرقعات علمی ہیں جس میں اکابر مشائخ نقشبندیہ، اکابر مجددیہ، حضرت مجدد الف ثانی کی تصانیف، حضرت مجدد الف ثانی پر تصانیف، صاحبزادگان، خلفاء و دیگر مشائخ کی تصانیف اور دیگر تصانیف کے سرورق شامل ہیں اس کے بعد مرقع جرائد نقشبندیہ، نقشبندیہ مآخذ و مراجع، نگارخانہ اور مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم یازدہم شامل ہیں……

اب اقلیم یازدہم آپ کے پیش نظر ہے اور حسب سابق وہی گزارش کی جاتی ہے کہ دوران مطالعہ جو بھی فروگزاشت نظر سے گزرے تو برائے کرم ہمیں ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی تصحیح کر لی جائے……ماشاءاللہ دنیا بھر سے مقالات کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے لیکن ''جہان امام ربانی'' کا یہ

عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا بارہ جلدوں پر ختم کیا جا رہا ہے جس میں گیارہ جلدیں مقالات و مضامین کی ہیں اور بارہویں جلد مرقعات جہان امام ربانی کے حوالے سے ہے جسے ''نورٌ علیٰ نور'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے...... جو مقالات تدوین کے بعد موصول ہوئے یا بعد میں آئیں گے، خیال ہے کہ انھیں ''باقیات جہان امام ربانی'' کے نام سے ایک اور جلد بنا کر شائع کیا جائے یا پھر اور کسی صورت شائع کرنے کی کوشش کی جائے گی...... ان شاء اللہ تعالیٰ

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کراں کے لیے

۱۸؍ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ
۸؍جنوری ۲۰۰۷ء

احقر
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری
(کراچی، پاکستان)

☆......☆......☆

ومن يتوكل على الله فهو حسبه
١٤٠٢

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

تأثرات

پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عارف

(اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور، پاکستان)

☆☆

مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے ہندوستان پر ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی کہا جائے لیکن دینی اعتبار سے اس کے دور کا آخری حصہ انتہائی تاریک ہی کہا جائے گا۔ جب اسے شعائر اسلام اور دین اسلام سے بوجوہ ایسی کد ہوئی کہ اس نے اس کے مدمقابل خرافات کا مجموعہ ''دین الٰہی'' کے نام سے رائج کیا۔ خوشامد اور جاہ پرست علماء سوء نے اس کی تائید و توجیہ بھی کی بلکہ غلاظت کے اس ڈھیر میں اپنے ہاتھ بھی سانے، نیز عوام پر اس کے ایسے برے اثرات مرتب ہوے کہ اکثریت روح اسلام سے بیگانہ ہوگئی...... ایسے میں شہر سرہند کے حضرت شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے مکتوبات گرامی اور اپنی سیرت و کردار کے ذریعے اپنے محبین اور معتقدین میں اسلام کے احیاء کی وہ بے مثال تحریک شروع کی کہ برصغیر اور اس سے باہر مشرق وسطیٰ کے ممالک خصوصاً اور دنیا کے تمام ممالک میں عموماً اسلام کی صحیح روح بیدار ہوئی اور آپ علماء، فقہاء اور خلق خدا کی نظر میں بجا طور پر مجدد الف ثانی قرار پائے۔

بجا کہے جسے عالم، اسے بجا سمجھو
زبانِ خلق کو نقارۂ خدا سمجھو

حقیقت یہ ہے کہ اکبر نے الحاد و بے دینی کا جو طوفان برپا کیا تھا، اگر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنی تجدیدی مہم کا آغاز نہ فرماتے تو برصغیر میں حالات و آثار ایسے نظر آتے تھے کہ معاذ اللہ اسلام کا وجود ہی ہندوستان سے مٹ گیا ہوتا...... اکبر نے علماء حق کو قتل کروایا، مقابر و مساجد کو مسمار کرایا، مدرسوں کو ویران کردیا...... جہانگیر کے دور کا آغاز بھی بدعات و مشرکانہ رسومات کے سیلاب میں بہہ رہا تھا......

دور جہانگیری میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلیں لیکن ان کی بے مثال سیرت وکردار اور ان کے پاکیزہ افکار وخیالات نے آہستہ آہستہ ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہیں ملتی...... وہی بادشاہ جہانگیر جو بدترین مخالف تھا، بالآخر آپ کی عظمت کا قائل ہوا اور پھر اس کے بعد آنے والے مغل بادشاہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے اخلاف کے مرید اور معتقد ہوئے یہاں تک کہ عالمگیر نے ان کے زیر اثر ایک مثالی دینی حکومت قایم کرنے کی کوشش کی...... حضرت علیہ الرحمۃ کے خلفاء نے برصغیر اور بیرونی دنیا میں اسلامی اور دینی شعائر کو زندہ کیا اور اسلام کی روشنی سے نہ صرف برصغیر بلکہ پورا عالم جگمگا اٹھا...... یہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ہی کا فیض ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نہ صرف وجود برقرار رہا بلکہ لوگ کثرت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور آنے والے قائدین اور مصلحین کو ان کی رہنمائی کا موقع ملا، ورنہ اسلام ہی باقی نہ رہتا تو یہ کاوشیں کون کرتا؟ کون کسی کی رہنمائی کرتا؟ تحریک پاکستان اور پاکستان کا وجود بھی اسی انقلاب کا مرہون منت ہے...... حقیقت یہ ہے کہ حضرت مجدد اگر یہ دعویٰ فرماتے کہ ہندوستان میں ان کے بعد آنے والے ہر مصلح، عالم اور ولی کی گردن پر ان کا قدم ہے تو بے جا نہ ہوتا بے شک ہر عالم حق اور شیخ طریقت پر آپ کا احسان مسلم ہے، تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے۔

اس حقیقت کو کون نہیں جانتا کہ برصغیر پاک وہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی، ڈاکٹر محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے اکابر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے افکار کے خوشہ چینوں میں ہیں۔ موجودہ دور میں مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کی نگرانی میں حضرت مجدد الف ثانی کی شخصیت، افکار وخیالات پر مشتمل ''جہان امام ربانی'' جیسے وقیع دائرۃ المعارف کی تدوین کا کام مکمل ہوا...... آپ نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز بھی ۱۹۶۰ء کی دہائی میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی سیرت وکردار پر ایک تحقیقی مقالہ سے کیا تھا جو معارف اعظم گڑھ میں قسط وار شائع ہوتا رہا، جو بعد ازاں کتابی صورت میں منظر عام پر آیا... آپ کی قلمی کاوشوں کا رخ ایک طویل عرصے مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کی شخصیت وکردار کی طرف رہا، سیکڑوں مقالات اور بیسیوں کتب تحریر کیں اور اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کیا اور اب حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر بارہ جلدوں پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا ان کی نگرانی میں مرتب کیا گیا ہے۔ آپ کی تحریروں نے عالم اسلام میں پذیرائی حاصل کر کے چراغ مصطفوی کی نورانیت کو فروغ عطا کیا ہے...... آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان

دین خصوصاً حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے مکتوب نگاری کی انقلاب آفریں روش کو اپنایا، ہزاروں ایمان افروز خطوط اپنے محبین، مخلصین اور مریدین کو لکھے...... آپ کی تحریروں نے آج بھی عالم اسلام کو متاثر کیا ہے اور آپ کی یہ دلکش اور مؤثر تحریریں صدیوں اذہان اور قلوب انسانی کو متاثر کرتی رہیں گی...... آپ کی تحریروں نے نہ صرف برصغیر اور عالم اسلام بلکہ عالمی سطح پر دلوں کو عشق مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمایا ہے، بھٹکے ہوؤں کو دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا ہے...... حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر تیرہ جلدوں میں نادر و نایاب ذخیرہ جمع کر کے گویا حضرت مجدد سرہندی کی تجدیدی تحریک کو حیات تازہ عطا کی ہے...... اللہ تعالیٰ انھیں تادیر سلامت رکھے کہ ان کا وجودِ مسعود عالمِ اسلام کے لیے ایک نعمت ہے......

ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی مارہروی

(استاد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی و مسند نشین خانقاہ قادریہ برکاتیہ، مارہرہ شریف، بھارت)

☆☆

ہم قادری، چشتی، نقشبندی، اور سہروردی بعد میں ہیں اس سے پہلے ہم سب سُنی ہیں اور اس رشتے سے ہم سب ایک ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نقشبندیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ چشتیوں اور قادریوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، حضرت مجدد نقشبندیوں سے پہلے قادریوں اور چشتیوں کے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے ان سلاسل میں بیعت ہوئے پھر بعد میں خواجہ باقی باللہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے...... انھوں نے کہا کہ اولیاء کرام کی طرح حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے پاس اللہ کا رنگ تھا جو انھوں نے جہانگیر بادشاہ پر چڑھا دیا تو انقلاب آ گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی جو چودھویں صدی کے مجدد ہیں اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی میں یہ قدرے مشترک ہے کہ دونوں عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے سینے ٹھوک کر کھڑے ہو گئے اور دشمنان اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا......

الشيخ احمد بن عبدالاحد السرهندى

الشيخ الاجل، الامام العارف، بحر الحقائق و الاسرار و المعارف، محى السنن النبوية، ناصر الشريعة البيضاء السنية، مشيد مبانى الطريقة، مجدد معالم الحقيقة، برهان العارفين و المحققين، وحجة الاولياء المتقين، مفتخر الاعصر والدهور، و معتمد الفارغين اليه فى جل الامور، آية من آيات الله العظام، ونادرة من نوادر الايام، الذى اختبط العلم لما زلت به القدم، وكاد ان يهوى فى مهاوى العدم، حتى جاء مجدد الالف الثانى، و برهاناً ساطعا على اشرفية النوع الانسانى۔

(عبدالحی، لکھنوی، نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر، ج ۲، مطبوعه دار ابن حزم، بیروت، ۱۹۹۹ء، ص ۲۷۹)

محمد عظیم نقشبندی مجددی

(مدرس اسلامیہ اسکول، لاہور)

(۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء)

☆

امام ربانی محبوب سبحانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کچھ ایسے نہیں کہ جو زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہوں بلکہ ایک عالم آں حضرت کے فیض و برکات کا خوشہ چیں ہے اور ایک جہاں حضور کے فضائل و کمالات کا مداح ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی یعنی ایک دن مجھے مولانا شرف الدین صاحب مرحوم فیروز پوری خلیفہ حضرت خواجہ الٰہ بخش علیہما الرحمۃ کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ آپ نے اپنا سفر حج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کے موقع پر مجھے ایک شامی قافلے سے اتفاق سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اثنائے گفتگو میں مجھ سے سکونت کے متعلق دریافت کیا تو میں نے جواب دیا کہ میں ''ہندی'' ہوں۔ اس پر انھوں نے کہا کہ اس ہند کے رہنے والے ہو جہاں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز گزرے ہیں؟۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس شامی قافلے کے بزرگ کو سرزمین ہند کی واقفیت بھی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود پاک کی شہرت سے حاصل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! کیا عالی شان ہے آپ کی۔

(محمد عظیم نقشبندی مجددی: ذکر مجدد، مطبوعہ لاہور ۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء، ص ۵)



الله نور السموات والارض

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کشورِ اول

سچ کہا اقبال نے ”گردن تری نہ جھک سکی“
حق سُنا ، حق کہہ دیا ، حق کے بنے سالار آپ
(شبیر حسین زاہدؔ)

٦٥٣٧

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

شیخ مجدد کے حضور

غلام مصطفٰی مجددی (ایم۔اے)

☆☆

دل و جاں میں سدا جلوہ نما شیخ مجدد ہیں
بحمداللہ! میرا آسرا شیخ مجدد ہیں
خدا نے مسندِ تجدیدِ دیں جن کے حوالے کی
جہان الف ثانی کی ضیاء شیخ مجدد ہیں
بہار زندگی جن کے تصدق سے ہوئی تازہ
گلستانِ محبت کی صبا شیخ مجدد ہیں
خدا کی حجت کامل ، نبی کے مظہر اکمل
صحابہ کا ظہور دلربا شیخ مجدد ہیں
ہویدا جن کے چہرے سے ہوا جلال فاروقی
گلِ باغِ عتیق و مرتضٰی شیخ مجدد ہیں
شب دیجور کے دامن سے نکلی صبح آزادی
دو قومی نظریے کے پیشوا شیخ مجدد ہیں
شہانِ دہر کیوں نازاں نہ ہوں ان کی غلامی پر
تعالٰی اللہ! غلام مصطفٰی شیخ مجدد ہیں

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

تجلیاتِ امامِ ربانی

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد
(ایم۔اے، پی۔ایچ۔ڈی)

☆☆

برصغیر پاک و ہند میں بہت سے مفکرین و مجددین ہوئے جن میں چار نہایت ممتاز ہیں:

۱...... شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی (م۔ ۱۰۳۴ھ/۱۶۲۴ء)
۲...... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م۔ ۱۱۷۶ھ/۱۷۶۲ء)
۳...... حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی (م۔ ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء)
۴...... ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹی (م۔ ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء)

ان چاروں مفکرین میں بعض حیثیات سے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مختلف محققین نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے اس امتیاز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے:

> ''شیخ احمد جو شاہ ولی اللہ اور اقبال سے پہلے اسلامی ہند کے نہایت طاقتور مفکر گزرے ہیں، نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے علماء و صوفیہ میں اعلیٰ ترین مقام کے مالک ہیں (ترجمہ انگریزی)''[1]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی علمی اور روحانی فضیلت کو پاک و ہند کے اکثر علماء و صوفیہ نے سراہا ہے اور اپنی تصانیف میں جابجا آپ کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں۔ چودھویں صدی کے جلیل القدر عالم و فقیہ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ نے اپنی تصانیف میں آپ کے اقوال وارشادات سے استدلال فرمایا ہے۔[2] اسی طرح ان کے صاحبزادے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں علیہ الرحمۃ (م۔ ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۲ء) نے بھی استدلال کیا ہے۔[3] اور دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا

خاں علیہ الرحمۃ نے مولانا عبدالغفار رامپوری کی کتاب ”**آثار المبتدعین لا ھدام حبل اللّٰہ المتین**“ کا تعاقب کرتے ہوئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا دفاع کیا ہے۔[۴]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے بارے میں بعض حضرات نے جو یہ لکھا ہے کہ آپ نے خود دعوٰی تجدید فرمایا[۵] صحیح نہیں۔ امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ کے متعلق بھی بعض لوگوں نے اسی قسم کا اظہار خیال کیا ہے، جو صحیح نہیں۔[۶] حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے عہد مبارک میں سیالکوٹ کے ایک جلیل القدر عالم مُلا عبدالحکیم سیالکوٹی (م۔ ۱۰۶۸ھ/ ۱۶۵۷ء) نے حضرت مجدد کے نام ایک مکتوب میں اس لقب سے نوازا[۷] پھر یہ لقب زبان زد خاص و عام ہوگیا، حتٰی کہ آپ کے نام نامی پر غالب آ گیا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا سلسلۂ نسب:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا سلسلہ نسب ۲۹ واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت مجدد کے چودھویں جد سلطان شہاب الدین المعروف فرخ علی شاہ کابلی والیِ کابل تھے۔[۸] پانچویں جد حضرت امام رفیع الدین، شیخ جلال الدین بخاری (م۔ ۷۸۵ھ/ ۱۳۸۳ء) کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور سہرند (سرہند) آباد کیا۔[۹] اسی شہر میں ۹۷۱ھ میں حضرت مجدد کی ولادت ہوئی۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے والد گرامی کا اسم گرامی شیخ عبدالاحد (م۔ ۱۰۰۷ھ/ ۱۵۹۸ء) تھا۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی (م۔ ۹۴۴ھ/ ۱۵۳۷ء) کے صاجزادے شیخ رکن الدین (م۔ ۹۸۳ھ/ ۱۵۷۵ء) سے آپ کو سلسلہ قادریہ چشتیہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔[۱۰] حضرت شیخ عبدالاحد جلیل القدر عالم و عارف تھے۔

تحصیل علم:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بیشتر علوم اپنے والد سے حاصل کیے۔ ان کے علاوہ مولانا کمال الدین کشمیری، مولانا یعقوب کشمیری اور قاضی بہلول بدخشی وغیرہ سے علوم معقولہ و منقولہ کی تحصیل فرمائی۔[۱۱] اسارتِ قلعہ گوالیار کے زمانے (۱۰۲۸ھ۔ ۱۰۲۹ھ) میں قرآن کریم حفظ کیا۔[۱۲] تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً ۹۹۸ھ میں دارالسلطنت اکبرآباد (آگرہ) تشریف لائے اور یہاں دربار اکبری کی دو اہم شخصیتوں یعنی ابوالفضل اور فیضی کے ساتھ صحبتیں رہیں۔ فیضی کی تفسیر ”سواطع الالہام“

(۱۰۰۲ھ/۱۵۹۳ء) میں ایک جگہ آپ نے اس کی مدد بھی کی۔ [۱۳] لیکن بعد میں ان دونوں بھائیوں کی بے راہ روی کی وجہ سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد علیہ الرحمۃ کے ہمراہ اکبر آباد سے واپس سرہند روانہ ہو گئے راستے میں تھانیسر کے شیخ سلطان کی لڑکی سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا عقد ہو گیا۔ شیخ سلطان متقی ومتدین اور اکبر بادشاہ کے مقربین میں سے تھے [۱۴] اس طرح اہل خانہ کا شاہی دربار سے ایک گونہ تعلق ہو گیا اور تبلیغ وارشاد کی ایک نئی راہ کھل گئی۔

سلسلہء طریقت:

حضرت مجدد کا سلسلہء طریقت متعدد واسطوں سے حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں ۲۱/ واسطوں سے اور سلسلہ قادریہ میں ۲۵/ واسطوں سے اور سلسلہ چشتیہ میں ۲۷/ واسطوں سے۔ [۱۵] سلسلہ چشتیہ میں والد ماجد شیخ عبدالاحد علیہ الرحمۃ سے بیعت تھے اور اجازت وخلافت حاصل تھی۔ سلسلہ قادریہ میں شاہ کمال کیتھلی سے خرقہ خلافت حاصل تھا۔ [۱۶] ۱۰۰۸ھ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ (م ۱۰۱۲ھ/۱۶۰۳ء) سے مستفیض ہو کر سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت وخلافت حاصل کی۔ [۱۷] اور آسمان علم وعرفان پر آفتاب بن کر چمکے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی نظر میں جو حضرت مجدد الف ثانی کا مقام ومرتبہ تھا وہ ''زبدۃ المقامات'' [۱۸] حضرات القدس اور ''مجمع الاولیاء'' وغیرہ معاصر کتب تاریخ وسیر سے واضح ہوتا ہے۔

اصلاحی کوششوں کا آغاز:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی اصلاحی کوششوں کا آغاز اکبر بادشاہ کے عہد حکومت سے ہوا اور جہانگیر بادشاہ کے عہد حکومت میں یہ کوششیں بارآور ہوئیں۔ اسی عہد میں آپ کا وصال ہوا آپ کی اصلاحی کوششوں کا جائزہ لینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تاریخی پس منظر پیش کر دیا جائے تا کہ ان کی صحیح قدر وقیمت کا اندازہ ہو سکے۔ [۱۹] پہلے دور میں اکبر مخلص مسلمان کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ دوسرے دور میں فتح پور سیکری میں عبادت خانے کی تعمیر ہوتی ہے جہاں علمائے اسلام مباحث علمیہ میں مصروف نظر آتے ہیں، رفتہ رفتہ یہاں عیسائی پادریوں اور ارباب عقل کا عمل دخل ہو جاتا ہے اور بات بگڑنے لگتی ہے۔ دوسرا دور تیسرے دور کا نقطہء آغاز ہے۔ تیسرے دور میں دین الٰہی کا آغاز ہوا اور وہ کچھ ہوا جو ناگفتنی ہے۔ ہر وہ کام کیا جانے لگا جو اسلام کے سراسر منافی ہے [۲۰] مثلاً:

☆......کلمہ طیبہ میں ''محمد رسول اللہ'' کی جگہ ''اکبر خلیفۃ اللہ'' پڑھا جانے لگا۔

☆......گائے کی قربانی پر پابندی لگادی گئی۔

☆......خنزیر اور کتوں کا احترام ہونے لگا۔

☆......شراب اور جوا عام ہوگیا۔

☆......اکبر نے علماء کو بالجبر شراب پلائی۔

☆......عورتوں کی بے حجابی عام ہوگئی۔

☆......پردہ پر پابندی لگادی گئی۔

☆......زمین بوس کے نام سے سجدہ کا آغاز کیا گیا۔

☆......عالم و عامی سب بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔

☆......بعض مساجد ڈھادی گئیں اور مدارس عربیہ مسمار کردیے گئے۔

☆......داڑھیاں منڈوادی گئیں۔

☆......شعائر اسلام کا برسرعام مذاق اڑایا جانے لگا۔

اس ساری خرابی میں بعض علمائے دین کی باہمی چپقلش، دنیا سے محبت، مختلف ادیان کے علماء کی اکبر سے ملاقات، اکبر کی جہالت و بے علمی، ہندو عورتوں کی حرم شاہی میں شمولیت اور ہندو سیاست کا بڑا دخل تھا۔

عہد اکبر کا تاریخ میں ذکر:

۱......عہد اکبری کے ایک بے باک و نڈر مورخ ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی کتاب ''منتخب التواریخ'' میں عہد اکبری کے چشم دید پوست کندہ حالات لکھے ہیں۔

۲......عہد اکبری کے مشہور شاعر ملا شبری سیالکوٹی نے تو اپنے فارسی قطعہ میں اکبر کے دعویٰ نبوت اور دعویٰ الہیت کا ذکر کیا ہے۔

بادشاہ امسال دعویٰ نبوت کردہ است
گر خدا خواہد پس از سالے خدا خواہد شدن[۲۱]

۳......عہد اکبری کے مؤرخ نظام الدین احمد نے ''طبقات اکبری''[۲۲] (۱۰۰۱ھ) میں اس محضر نامہ کا ذکر

کیا ہے۔ [۲۳] جو اکبر کے دعوای نبوت کی تمہید ثابت ہوا۔ لیکن نظام الدین احمد نے بڑی احتیاط سے قلم اٹھایا ہے ایک جابر و قاہر بادشاہ کے ہوتے کھل کر لکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔

۴......ابوالفضل کی ''آئینِ اکبری'' [۲۴] سے اکبر کی بے راہ روی سے متعلق بہت سی باتوں کا بالواسطہ علم ہوتا ہے۔ ابوالفضل کا انداز مؤرخانہ نہیں، خوشامدانہ ہے۔ [۲۵] ابوالفضل نے ''اکبر نامہ'' [۲۶] میں بھی یہی طرز اختیار کیا ہے مگر پھر بھی بہت سے سربستہ راز معلوم ہو جاتے ہیں۔

۵......عہد جہانگیر کے مؤرخ محمد قاسم ہندو شاہ استر آبادی نے اپنی ''تاریخ فرشتہ'' [۲۷] میں (۱۶۰۶ء تا ۱۶۱۱ء) اکبر کے بعض چشم دید حالات لکھے ہیں مگر حالات کے دباؤ کی وجہ سے اس نے بہت سی باتوں کو چھپایا ہے۔

۶......اس عہد کی ایک اور کتاب ''خلاصۃ المعارف فی اسرار العقائد'' (۱۰۳۵ھ۔۱۰۳۷ھ) میں شیخ آدم بنوری علیہ الرحمۃ نے بہت سی گمراہیوں اور برائیوں کا ذکر کیا ہے۔

۷......اسی عہد کے ایک مؤرخ معتمد خان نے ''جہانگیر نامہ'' [۲۸] میں اکبر کے بعض حالات لکھے ہیں جن کی عہد اکبری کے مؤرخوں کے بیانات سے تصدیق ہوتی ہے، بالواسطہ بھی اور بلاواسطہ بھی۔

۸......عہد عالمگیری کے مؤرخ محمد ہاشم خافی خان نے اپنی تاریخ ''منتخب اللباب'' (حصہ اول) میں بعض ایسے حالات لکھے ہیں جن سے بالواسطہ اکبر کی بے راہ روی کا علم ہوتا ہے، مگر اس نے بعض مقامات پر اکبر کا دفاع کیا ہے۔ اس میں جہانگیر کی شراب سے توبہ شاہجہان کی شراب نوشی اور پھر توبہ کا ذکر ہے۔

۹......عہد شاہجہانی کے صاحب ''دبستانِ مذاہب'' [۲۹] نے بھی ایسے ہی حقائق لکھے ہیں، جن سے آخری دور میں اکبر کی بے راہ روی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صاحب ''دبستانِ مذاہب'' ایک ایسا مؤرخ نظر آتا ہے جس نے ہر قدم پر مؤرخانہ احتیاط کو قایم رکھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں اٹھائیس سے زیادہ مذاہب و ادیان کا ذکر کیا ہے پھر بھی یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ لکھنے والے کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ بعض حضرات نے اس کا نام محسن خانی بتایا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ پارسی تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰......عہد شاہجہانی کے اطالوی سیاح نکولس مینوکی [۳۰] نے دین الٰہی کی اختراعات کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکبر نے سکندرہ میں ایک باغ کے اندر اپنا مقبرہ بنوایا تھا۔ باغ کے دروازہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور حضرت مریم کی تصاویر تھیں۔ اورنگ زیب نے اپنے عہد حکومت میں ان

کو ختم کروایا اور ان پر سفیدی پھروا دی۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اورنگ زیب شیوا جی سے برسر پیکار تھا تو باغی اس مقبرے میں گھس آئے تمام طلائی سامان اور جواہرات لوٹ لیے قبر کھود کر اکبر کی ہڈیاں نکالیں اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔[۳۱]

۱۱...... پروفیسر محمد مجیب[۳۲] اور پروفیسر محمد اسلم[۳۳] نے اپنی تصانیف میں عہد اکبری کی بہت سی بدعات اور گمراہیوں کا ذکر کیا ہے، جن کی دسترس میں، معاصر تاریخیں نہ ہوں وہ ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔

جن مقاصد کے حصول کے لیے اکبر نے جدوجہد کی۔ بقول کے ایم پانیکر[۳۴] وہ تین اہم مقاصد یہ تھے:

☆......قومی حکومت کا قیام
☆......ہندوؤں سے مفاہمت
☆......متحدہ ہندوستان

یہ تینوں مقاصد حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے مقاصد جلیلہ کی ضد تھے۔

حضرت مجدد کی تین مقاصد کے لیے جدوجہد:

☆......اسلامی حکومت کا قیام
☆......ہندوؤں سے عدم مفاہمت
☆......اسلامی ہند کی تعمیر

انہیں مقاصد کے لیے چودھویں صدی ہجری میں امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ نے بھرپور جدوجہد کی۔[۳۵]

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے ان مقاصد کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل شعبوں میں جدوجہد کی اور اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔

☆......شریعت و طریقت
☆......سیاست و حکومت
☆......معاشرت و معیشت

۱......عوام و خواص شریعت سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے آپ نے اپنے علمی مکالمات اور مکتوبات کے

ذریعے آشنائے شریعت کیا۔[۳۶] بیشتر صوفیہ طریقت کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے ان کو طریقت کا واقف کار بنایا۔[۳۷] نظریہ وحدۃ الوجود کی غلط تعبیرات کی بنا پر ایک عالم گمراہ ہو رہا تھا، آپ نے اس نظریہ کی لاج رکھی اور اس کے ساتھ نظریہ وحدۃ الشہود پیش کیا، جو دل و دماغ سے قریب تھا[۳۸] یہی نظریہ تھا جس نے فکر اقبال میں ایک انقلاب پیدا کیا اور ایک نئی روح پھونکی۔[۳۹] حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے۔ حضرت مجدد، اقبال کی آرزوتمنا تھے۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی

۲...... سیاست وحکومت میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جو اہم کارنامہ انجام دیا وہ اکبر کے ایک قومی نظریے کے خلاف دوقومی نظریہ کا اعلان تھا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اکبر نے ''دینِ الٰہی'' کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس دین کا مقصد وحید یہی تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ملا کر ایک نئی قوم تیار کی جائے، اسی نہج پر چودھویں صدی ہجری میں مسٹر گاندھی نے کام کیا، بہر کیف حضرت مجدد نے اس کے خلاف مؤثر جدوجہد کی اور یہ دین اپنی موت مر گیا اور رفتہ رفتہ اس کے اثرات بھی زائل ہو گئے۔۔ چنانچہ پاکستان ہسٹری بورڈ کی تالیف ''اے شارٹ ہسٹری آف ہندوپاکستان'' کے مؤلف نے لکھا ہے:

> ''جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد دین الٰہی اپنی موت مر گیا۔ بہر کیف اس الحاد وارتداد کے خلاف جو زوردار آواز اُٹھائی گئی وہ شیخ احمد کی آواز تھی، جن کو حضرت مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے''[۴۰]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اکبر کے ایک قومی نظریہ کے خلاف دوقومی نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ کفر واسلام دو علیحدہ حقیقتیں ہیں جو کسی طرح یکجا نہیں ہوسکتیں۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت سے مکتوبات تحریر فرمائے۔[۴۱] آپ کی کوششیں دور جہانگیر میں بارآور ہوئیں اور جہانگیر نے امور مذہب وسیاست میں مشورہ کے لیے علماء کا ایک کمیشن مقرر کیا۔[۴۲]

اس کے بعد دور شاہجہانی میں حضرت مجدد کی مساعی نے اپنا رنگ دکھایا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے دور عالمگیری کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی مساعی کا نقطہ عروج قرار دیا ہے۔[۴۳] اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت مجدد کی سیاسی تعلیمات کے اثرات آنے والی چار صدیوں پر بہت گہرے پڑے۔ ڈاکٹر اشتیاق

حسین قریشی نے لکھا ہے کہ:

> ''شیخ کے اثرات مغرب میں افغانستان، وسط ایشیاء اور سلطنت عثمانیہ تک اور مشرق میں ملایا اور انڈونیشیا تک پھیل گئے''[۴۴]

چودھویں صدی ہجری میں امام احمد رضا خاں بریلوی اور ڈاکٹر محمد اقبال[۴۵] نے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے دوقومی نظریہ کے احیاء کے لیے سخت جدوجہد کی۔ اس صدی میں دوسرے علماء نے بھی کوششیں کیں مگر ان کی کوششیں مصلحتوں کا شکار ہو کر ایسے نشیب و فراز سے گزریں کہ مؤرخ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ کوششیں خالص اسلام کے لیے تھیں یا مطلق آزادی کے لیے۔ بہرکیف گیارہویں صدی ہجری میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ہی وہ بطل جلیل نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر خوابیدہ قوم کو بیدار کیا اور ایک نئی روح پھونک دی۔ ڈاکٹر حفیظ ملک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

> ''فی الحقیقت آنے والی نسل کو شیخ احمد نے بے حد متاثر کیا۔ ان کا نعرہ تھا ''چلو چلو محمد مصطفیٰ (ﷺ) کی طرف چلو'' مذہبی اور سیاسی حیثیتوں سے یہ نعرہ نہایت ہی دوررس نتائج کا حامل ہوا، ان کی تعلیمات نے معاصر فکر کو مسلم بیادی طور پر متاثر کیا اور ہندوستان میں مسلم حکومت کو لادینی بنانے کی مخالفت کی''[۴۶]

۳...... ہندوستانی مسلم معاشرے اور معیشت کی اصلاح کے لیے بھی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بھرپور کوشش کی۔ آپ کے مکتوبات شریف اور دوسری تصنیفات کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔[۴۷]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی جدوجہد کے مختلف ادوار:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے مذہب و سیاست اور معاشرت کی اصلاح کے لیے جو جدوجہد فرمائی اس کو مختلف ادوار پر تقسیم کیا جا سکتا ہے مثلاً

☆...... دوراکبری ۱۰۰۰ھ/ ۱۵۹۱ء تا ۱۰۱۴ھ/۱۶۰۵ء

☆...... دور جہانگیری ۱۰۱۴ھ/ ۱۶۰۵ء تا ۱۰۳۴ھ/۱۶۲۴ء

☆...... قید جہانگیری سے پہلے ۱۰۱۴ھ/ ۱۶۰۵ء تا ۱۰۲۷ھ/۱۶۱۸ء

☆...... قید جہانگیری کے بعد ۱۰۲۷ھ/ ۱۶۱۸ء تا ۱۰۲۸ھ/۱۶۱۹ء

☆...... جہانگیر کے لشکر میں ؁۱۰۲۸ھ/ ؁۱۶۱۹ء تا ؁۱۰۳۳ھ/؁۱۶۲۳ء

☆...... جہانگیر کے لشکر سے رہا ہونے کے بعد ؁۱۰۳۴ھ/؁۱۶۲۳ء

اکبر کا آخری دور حکومت حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی اصلاحی اور تبلیغی مساعی کا نقطہ آغاز ہے۔ جہانگیری دور میں یہ مساعی تیز کردی گئیں۔ پھر اسی دور میں گوالیار میں آپ کی نظر بندی نے آپ کی اصلاحی کوششوں کے اثرات کو عوام اور حکومت وقت میں دیرپا اور مستحکم بنادیا۔ حضرت مجدد کی اسیری (؁۱۰۲۷ھ۔ ؁۱۰۲۸ھ) اسلامی نظام حکومت کے لیے رحمت بن گئی اور پُرخار وادیاں صاف ہوگئیں۔[48]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنی اسارت (اسیری) کے تینوں ادوار میں منزلِ مقصود کی جانب رواں دواں نظر آتے ہیں۔ یعنی

☆...... دورِ نظر بندی (؁۱۰۲۷ھ تا ؁۱۰۲۸ھ) جبکہ آپ ایک سال قلعہ گوالیار میں قید رہے۔

☆...... دورِ پابندی (؁۱۰۳۳ھ تا ؁۱۰۳۴ھ) جب آپ تقریباً پانچ سال جہانگیر کے لشکر میں رہے۔

☆...... دورِ زباں بندی (؁۱۰۳۳ھ تا ؁۱۰۳۴ھ) جب آپ تقریباً چھ ماہ اپنی خانقاہ (سرہند شریف) میں خلوت گزیں رہے اور آخر میں اسی خلوت گزینی میں ۲۹ رصفر المظفر ؁۱۰۳۴ھ کو وصال فرمایا۔[49] اناللہ وانا الیہ راجعون

حضرت مجدد کی جانبازی اور اصلاحات:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا۔ عزیمت پسندی کی ایسی شاندار مثال پیش کی جس سے مردہ دل زندہ ہوگئے اور ایک عظیم انقلاب آ گیا۔

☆...... بادشاہ کے حضور سجدہ تعظیمی (زمیں بوس) موقوف کردیا گیا۔

☆...... گائے کی قربانی عام ہوگئی اور سب سے پہلے خود جہانگیر نے قلعہ کانگڑا میں حضرت مجدد کی موجودگی میں گائے ذبح کرائی۔[50]

☆...... شراب پر پابندی لگادی گئی[51] اور بے شمار اصلاحات ہوئیں۔

بلاشبہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی انتھک جہدوجہد سے مذہبی سطح پر اسلام، سنیت اور حنفیت کو فروغ ہوا۔ سیاسی سطح پر اسلامی حکومت کا قیام ممکن ہوا۔ روحانی سطح پر تصور وحدۃ الوجود کی غلط تعبیرات سے جو ہلاکت پھیل رہی تھی تصور وحدۃ الشہود نے اس کا مؤثر دفاع کیا اور ناقابل فہم کو عام لوگوں کے لیے قابل فہم

بنا دیا گیا۔ اس طرح ہر سطح پر فکر مسلم کی اصلاح کر کے ایک عظیم انقلاب برپا کیا گیا، اسی لیے اقبال نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوے برملا کہا:

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

اکبری حکومت جس روش پر جا رہی تھی اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوتا، شاید اسلامی حکومت کا خواب کبھی شرمندۂ تعبیر نہ ہوتا۔[۵۲]

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جس سیاسی گھٹن اور قاہرانہ اقتدار کے ہوتے ہوے شاہان وقت پر تنقید کی، وہ انہیں کا حصہ تھا، اس نازک دور میں حکومت یا سربراہان حکومت پر تنقید کرنا اتنا آسان نہ تھا جتنا آج آسان ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا تھا بلکہ اکبر کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ اپنے مخالفین کو اپنے ہاتھ سے زہر دے کر تڑپا تڑپا کر مار دیا کرتا تھا۔[۵۳] ایسے خطرناک حالات میں جان جوکھوں میں ڈال کر اسلام کے لیے قدم بڑھانا کوئی آسان کام نہ تھا، بہت اہم کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ پاک و ہند کے مصلحین میں یہ فخر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو حاصل ہے کہ انھوں اسلام کی خاطر اپنا عیش و آرام، مال و دولت، آل و اولاد اور جان تک کی بازی لگا دی۔ مومنانہ بصیرت کے ساتھ سرگرم عمل ہوے اور چند برسوں میں وہ انقلاب آگیا جو دیدنی بھی ہے اور شنیدنی بھی۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے اصلاحی اور تجدیدی کارناموں پر بعض حضرات نے تنقید بھی کی ہے[۵۴] مگر یہ غلط فہمی اور معاصر تاریخ پر ڈھیلی گرفت کا نتیجہ ہے۔ حضرت زید ابوالحسن فاروقی دہلوی نے حال ہی میں ایک کتاب ''حضرت مجدد اور ان کے ناقدین'' دہلی سے شائع کی ہے اس سلسلے میں اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

حضرت مجدد کی باقیات صالحات (اولاد امجاد):

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی باقیاتِ صالحات میں اولاد امجاد، تصانیف اور خلفاء یادگار ہیں۔ اولاد میں سات صاحبزادے ہوے جن میں پانچ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی حیات ہی میں انتقال کر گئے، باقی دو صاحبزادگان حضرت خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ (م ۱۰۷۰ھ/ ۱۶۶۰ء) اور حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ (م ۱۰۷۹ھ/ ۱۶۶۸ء) نے بڑا نام پیدا کیا اور اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کے ان دونوں صاحبزادگان سے گہرے مراسم تھے۔[۵۵] بلکہ حضرت عالمگیر، خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔[۵۶]

ایک اور موقع پر خواجہ موصوف نے عالمگیر کی درخواست پر اپنے صاحبزادے خواجہ سیف الدین (م ۱۰۹۶ھ/ ۱۶۸۴ء) کو عالمگیر کے اصلاح باطن کے لیے لال قلعہ، دہلی بھیجا جہاں انھوں نے قیام فرما کر عالمگیر کی روحانی تربیت فرمائی۔ ۵۷

حضرت اورنگزیب عالمگیر نے پورے عالم اسلام پر احسان کیا ہے کہ انھوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا اور دو لاکھ کے خرچ سے ''فتاویٰ عالمگیری'' مرتب کرائی جو آج بھی فقہ حنفیہ کا عظیم مأخذ ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اور ان کے اخلاف کا عالم اسلام پر احسان ہے......خاندان مجددیہ اور عالمگیر کے تعلقات پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ:

> ''تاریخی حیثیت سے اورنگ زیب عالمگیر اور حضرت مجدد کے خاندان کے درمیان حتمی طور پر روابط تھے اور یہ حقیقت قابل توجہ ہے کہ قریباً وہ تمام اقدامات جو اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی سے متعلق تھے حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں ان سب اقدامات کی پرزور تبلیغ فرمائی تھی''۵۸

حضرت مجدد کی تصنیفات:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تصنیفات میں ان کے فارسی مکتوبات شریف زیادہ مشہور ہوے یہ تین جلدوں پر مشتمل ہیں اور علوم و معارف کا خزینہ ہیں۔ ۱۳۱۶ھ/ ۱۸۹۸ء میں ان کا عربی ترجمہ مکہ مکرمہ سے شائع ہوا۔ اب حال ہی میں بیروت سے شائع ہوا ہے۔ فارسی اور اردو ترجمہ کے متعدد اڈیشن پاکستان، ہندوستان اور ترکی سے شائع ہو چکے ہیں۔

مکتوبات شریف کے علاوہ مندرجہ ذیل تصانیف آپ سے یادگار ہیں:

☆......اثبات النبوۃ

☆......مبداء و معاد

☆......مکاشفات غیبیہ

☆......معارف لدنیہ

☆......رد الرفضہ

☆......شرح رباعیات خواجہ بیرنگ

☆......رسالہ تعین ولاتعین

☆......رسالہ مقصود الصالحین

☆......رسالہ در مسئلہ وحدۃ الوجود

☆......آداب المریدین

☆......رسالہ جذب وسلوک

☆......رسالہ علم حدیث وغیرہ وغیرہ

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی بیشتر نگارشات کی حیثیت خالص تخلیقی ہے۔ ایسی تخلیق بقول اقبال جس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور انگریزی زبان باین ہمہ وسعت وہمہ گیری ایسے الفاظ سے خالی ہے جو افکار مجددیہ کی ترجمانی کرسکیں۔ ۵۹

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خلفا:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خلفاء کی تعداد بھی کم نہیں، خلفاء میں صاحبزادگان کے علاوہ یہ حضرات زیادہ مشہور ہیں:

☆......خواجہ محمد ہاشم کشمی

☆......خواجہ میر محمد نعمان برہان پوری

☆......مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی

☆......شیخ محمد طاہر لاہوری

☆......شیخ آدم بنوری

☆......شیخ بدرالدین سرہندی وغیرہ وغیرہ

☆......☆......☆

حواشی:

۱......ایس ایم اکرام: مسلم سویلزیشن ان انڈیا اینڈ پاکستان، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۱ء، ص ۲۷۰

۲......(الف) احمد رضا خاں: انوار الاقمار من یم صلوٰۃ الاسرار، (۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۷ء) مطبوعہ بریلی، ص ۳۸

(ب) احمد رضا خاں: الھاد الکاف فی حکم الضعاف (۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء) مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۶

(ج) احمد رضا خاں: الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ (۱۳۱۲ھ) مطبوعہ کلکتہ ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۵ء، ص ۴۸، ۵۱، ۵۲

۳۔۔۔۔ حامد رضا خاں: سلامۃ اللہ لاھل السنۃ من سبیل العناد فی الفتنہ (۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء) مطبوعہ بریلی، ص ۵۷

۴۔۔۔۔ مصطفیٰ رضا خاں: مقتل کذب وکید، مطبوعہ بریلی ۱۳۳۲ھ، ص ۵۵۔۵۶

۵۔۔۔۔ نظامی بدایونی نے اس خیال کا اظہار کیا ہے (ملاحظہ ہو قاموس المشاہیر، جلد اول، مطبوعہ بدایون، ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء، ص ۶۷، اسی طرح فیض عالم صدیقی نے بھی یہی بات لکھی ہے (ملاحظہ ہو اختلاف امت کا المیہ، حصہ دوم، جہلم ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء، ص ۴۸۰)

۶۔۔۔۔ مولوی حسین احمد دیوبندی نے، یہ الزام لگایا ہے اور امام احمد رضا کو دجال المجددین لکھا ہے (الشہاب الثاقب، ص ۴۲) حالانکہ علمائے حرمین شریفین میں شیخ موسیٰ علی شامی دردیری مدنی نے آپ کو ''المجدد لھذہ الامۃ'' تحریر فرمایا ہے (الفیوضات الملکیہ، ص ۴۶۲) اور حافظ الکتب الحرم شیخ اسماعیل بن سید خلیل مکی نے تو یہاں تک لکھا ہے 'بل اقول **لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذ القرن لکان حقہ وصدقا** (حسام الحرمین، ص ۱۴۰، ۱۴۱)

۷۔۔۔۔ وکیل احمد سکندر پوری: ہدیہ مجددیہ، مطبوعہ دہلی ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء، ص ۹۸

۸۔ شاہ محمد فضل اللہ: عمدۃ المقامات، مطبوعہ لاہور، ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء، ص ۹۹

۹۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، مطبوعہ لاہور، ۱۳۰۷ء/۱۸۸۹ء، ص ۸۹، ۹۱

۱۰۔۔۔۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، ص ۹۶، ۱۰۳

۱۱۔۔۔۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، ص ۱۲۸

۱۲۔۔۔۔ مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، دفتر سوم، مکتوب ۴۳

۱۳۔۔۔۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، ص ۱۳۲

۱۴۔۔۔۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، ص ۱۵۹

۱۵۔۔۔۔ مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، دفتر سوم، مطبوعہ امرتسر ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء، مکتوب ۸۷

۱۶۔ محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، ص ۱۳۵

۱۷۔ (ا) آدم بنوری: خلاصۃ المعارف، مخطوطہ انڈیا آفس لائبریری، لندن (۱۰۳۵ھ/۱۰۳۷ھ) ورق ۳

(ب) محمد حسین مرادآبادی: انوار العارفین (۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء) مطبوعہ لکھنو (۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء) ص ۴۴۸، ۴۴۹

۱۸...... محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، مطبوعہ کانپور ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء، ص ۲۱۸، ۲۱۹

۱۹...... عہد اکبری کو مندرجہ ذیل ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

پہلا دور...... ۹۶۳ھ...... ۱۵۵۶ء تا ۹۸۳ھ/۱۵۷۵ء

دوسرا دور...... ۹۸۴ھ/۱۵۷۵ء تا ۹۸۹ھ/۱۵۷۸ء

تیسرا دور...... ۹۹۰ھ/۱۵۸۲ء تا ۱۰۱۴ھ/۱۶۰۵ء

۲۰...... ملاحظہ فرمائیں منتخب التواریخ، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء، ص ۲۶۱، ۳۲۲، ۴۶۶، ۴۷۱، ۴۹۹، ۵۲۹ وغیرہ

۲۱...... (ا) ہاشمی فرید آبادی: تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت، مطبوعہ کراچی، ص ۴۶۹، بحوالہ منتخب التواریخ، جلد سوم، ص ۲۵۳

(ب) شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اکبر بادشاہ کے انتقال کے بعد شیخ فرید بخاری کے نام جو تعزیتی خط ارسال فرمایا ہے اس سے اکبر کے دعویٰ نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

عبدالحق مجموعہ مکاتیب والرسائل، مطبوعہ دہلی ۱۳۴۲ھ/۱۹۱۳ء، ص ۱۴۳، ۱۴۷ (مسعود)

۲۲...... طبقات اکبری، مطبوعہ لکھنو ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۰ء

۲۳...... ایضاً، ص ۳۴۳، ۳۴۴

۲۴...... آئین اکبری، مطبوعہ حیدرآباد دکن (۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء)

۲۵...... مور لینڈ نے ابوالفضل کی خوشامد و چاپلوسی کا ذکر کیا ہے (ملاحظہ فرمائیں: اے شارٹ ہسٹری آف انڈیا، مطبوعہ لندن، ۱۹۵۷ء، ص ۲۱۲)

۲۶...... اکبرنامہ ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء

۲۷...... تاریخ فرشتہ، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء

۲۷...... جہانگیر نامہ، مطبوعہ لکھنو ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء

۲۹...... دبستان مذاہب، مطبوعہ بمبئی ۱۲۴۲ھ/۱۸۲۶ء

نوٹ: (دبستان مذاہب کا جو اردو ترجمہ ادارۂ ثقافت اسلامیہ، لاہور نے ۲۰۰۲ء میں شائع کیا ہے اس میں مصنف کا نام ''کیخسر و اسفندیار'' بتایا گیا ہے، محمد عالم مختار حق)

۳۰...... نکولس مینوکی ۱۸۵۶ء میں تقریباً سترہ سال کی عمر میں آگرے پہنچا اور شہزادہ داراشکوہ کے ہاں توپخانے میں بھرتی ہوگیا۔ ۱۶۵۸ء میں داراشکوہ اور اورنگزیب کے مابین جنگ میں داراشکوہ کی طرف سے لڑا، دارا کے قتل کے بعد واپس اٹلی چلا گیا۔ (مسعود)

۳۱...... نکولس مینوکی: فسانہ سلطنت مغلیہ، مترجمہ سید مظفر علی، مطبوعہ آگرہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء، ص ۱۲۲

۳۲...... محمد مجیب: انڈین مسلم، مطبوعہ لندن ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء

۳۳...... محمد اسلم: دین الٰہی اور اس کا پس منظر، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۶۹ء

۳۴...... کے ایم پانیکر: اے سروے، آف انڈین ہسٹری، مطبوعہ بمبئی ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۷ء، ص ۱۵۵

۳۵...... (ا) محمد مسعود: فاضل بریلوی اور ترکِ موالات، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء

(ب) محمد جلال الدین: خطبات آل انڈیا سنی کانفرنس، مطبوعہ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء

(ج) محمد مسعود احمد: تحریک آزادی ہند اور السواد الاعظم، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء

۳۶...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوبات ۴۳، ۴۸، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۱۵۲، ۱۹۱، ۱۹۴ وغیرہ

۳۷...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۸۴، نیز ملاحظہ کریں، تذکرہ مجدد الف ثانی، مطبوعہ لکھنو، ص ۱۰۴، ۱۱۰ تا ۱۱۴

۳۸...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۲۹۱...... دفتر دوم ۴۴

۳۹...... فکر اقبال پر تعلیمات مجددیہ نے جو اثرات مرتب کیے وہ اقبالیات کی ایک اہم کڑی ہے، جس کی طرف محققین نے ابھی تک کماحقہ توجہ نہیں دی۔ اس سلسلہ میں راقم نے مندرجہ ذیل تین مقالات قلمبند کیے اور دلائل و براہین سے حضرت مجدد سے اقبال کی عقیدت اور افکار اقبال پر افکار مجددیہ کے اثرات کو بیان کیا، اور یہ ثابت کیا کہ اقبال کے تصور خودی میں سب سے بڑا محرک حضرت مجدد کا نظریۂ وحدۃ الشہود ہے۔ (۱) علامہ اقبال اور حضرت مجدد الف ثانی، مطبوعہ اقبال ریویو، کراچی اپریل ۱۹۶۴ء/۱۳۸۴ھ (۲) اقبال کے فلسفۂ خودی میں مقام عبدیت، مطبوعہ اقبال ریویو، کراچی جولائی ۱۹۶۴ء/۱۳۸۴ھ (۳) شریعت و طریقت افکار اقبال کی روشنی میں، مطبوعہ اقبال ریویو، کراچی جنوری ۱۹۶۵ء/۱۳۸۵ھ۔ عرصہ ہوا یہ تینوں مقالات کتابی صورت میں بعنوان ”حضرت مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال“ مکتبہ نعمانیہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ سے شائع کردیے ہیں۔ اس کا ایک اردو اڈیشن اور اس کا انگریزی ترجمہ کراچی سے ادارۂ مسعودیہ نے شائع کیا ہے۔ (مسعود)

۴۰...... اے شارٹ ہسٹری آف ہندو پاکستان، مطبوعہ کراچی ۱۳۸۰ھ/۱۹۴۰ء، ص ۲۹۸

۴۱۔۔۔۔۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۶۵، ۸۱، ۱۶۳

۴۲۔۔۔۔۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۵۳، بنام شیخ فرید بخاری

۴۳۔۔۔۔۔ اشتیاق حسین قریشی: مقدمہ ہسٹری آف فریڈم مومنٹ، جلد اول، مطبوعہ کراچی ۱۹۵۷ء، ص ۲۰

۴۴۔۔۔۔۔ اشتیاق حسین: مسلم کمیونٹی آف انڈو پاکستان، ص ۱۵۲

۴۵۔۔۔۔۔ کلیات اقبال کے نام سے اقبال کے فارسی کلام کا مجموعہ ایران سے شائع ہوا ہے جس کا دیباچہ احمد سروش نے لکھا ہے، انھوں نے برصغیر پاک۔ و ہند کو صرف ہند کے نام سے یاد کیا ہے اسلام اور ہندوازم کا ایک قرار دیا ہے اور ہندو ازم کو دین حق سے تعبیر کیا ہے (معاذ اللہ) مسٹر گاندھی کو گاندھی بزرگ کے نام سے یاد کیا ہے اور اس کے آگے سر نیاز خم کیا ہے۔ ص شش۔ یہ بات سخت حیرت ناک ہے کہ کلام اقبال پر دیباچہ لکھنے والا فکر اقبال سے اتنا دور ہے (مسعود)

۴۶۔۔۔۔۔ ڈاکٹر حفیظ ملک: مسلم نیشنلزم ان انڈیا اینڈ پاکستان، مطبوعہ واشنگٹن ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء، ص ۵۵

۴۷۔۔۔۔۔ مکتوبات امام ربانی: دفتر اول، مکتوب ۱۶۳، ۱۹۱

۴۸۔۔۔۔۔ حضرت مجدد کی اسیری پر بحث کرتے ہوئے بعض حضرات نے مہابت خاں کی بغاوت کا اصل محرک اسی اسیری کو قرار دیا ہے مثلاً

(۱) ایس ایف محمود، اے شارٹ ہسٹری آف اسلام، مطبوعہ کراچی ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء، باب ۱۳، ص ۵۳۴

(۲) ڈاکٹر غلام جیلانی برق: فلسفیان اسلام، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء، ص ۲۷۷

(۳) جی الانا: آور فریڈم فائٹرس، مطبوعہ کراچی ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء، ص ۲۸ وغیرہ

تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ حضرت مجدد کی اسارت اور مہابت خان کی بغاوت میں کئی سال کا تفاوت ہے۔ صاحب ''روضۃ القیومیہ'' (مخطوطہ، مکتوبہ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء، مدینہ منورہ) ابو الفیض کمال الدین محمد احسان نے بہت سی غیر مؤرخانہ باتیں لکھ دی ہیں، یہ بات بھی وہیں سے لی گئی ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ مہابت خاں حضرت مجدد کا معتقد تھا اور ممکن ہے کہ حضرت مجدد کی اسارت کا جذبہ کئی سال بعد جوش میں آیا ہو، جو خود جہانگیر کی اسارت پر منتج ہوا۔ (مسعود)

۴۹ بدر الدین سرہندی: وصال احمدی، مطبوعہ سیالکوٹ ۱۳۶۶ھ/۱۹۷۶ء، ص ۱۸

۵۰ تزک جہانگیری، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء، ص ۶۹۸

۵۱…… (ا) بدرالدین سرہندی، مجمع الاولیاء، مخطوطہ لندن ۱۰۴۳ھ/۱۶۳۳ء، ورق ۴۳۳

(ب) تزک جہانگیری، ص ۶۵۶، ۶۹۶

۵۲…… یہ بات کتنی تکلیف دہ اور المناک ہے کہ چودھویں صدی ہجری میں بعض علماء اسلام نے وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جو مطلوب و مقصود اکبر تھا جس کے لیے حضرت مجدد نے عمر عزیز قربان کردی۔ امام احمد رضا خاں بریلوی نے علماء کی لاج رکھ لی اور پوری قوت سے اس مشن کے لیے کام کیا جو حضرت مجدد کا مطلوب و مقصود تھا اور بالآخر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ (مسعود)

(میاں عبدالرشید: اسلام ان انڈو پاک سن کونٹینٹ، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۷ء، ص ۶۷)

۵۳…… نکولس مینوکی: فسانہ سلطنت مغلیہ، مترجمہ سید مظفر علی، مطبوعہ آگرہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء، ص ۱۳۰

۵۴…… ملاحظہ فرمائیں: (ا) سید معین الحق: معاشرتی اور علمی تاریخ، مطبوعہ کراچی ۱۳۸۵ھ/۱۹۷۲ء، ص ۳۱۹

(ب) فیض عالم صدیقی: اختلاف امت کا المیہ، حصہ دوم ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء، ص ۴۸۳

نوٹ: (ا) ڈاکٹر شیخ محمد اکرام نے اپنی تصنیف ''رود کوثر'' میں غیر مؤرخانہ باتیں لکھی ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے جن کا مؤرخانہ تعاقب کرتے ہوئے ایک محققانہ کتاب ''حضرت مجدد الف ثانی …… ایک تحقیقی جائزہ'' (کراچی ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء) پیش کی۔

(۲) ایک بزرگ نے حضرت مجدد کی تعلیمات کو افیون سے تعبیر کیا ہے اور یہ خیال نہیں فرمایا کہ جو کام وہ تیس برس میں نہ کرسکے حضرت مجدد نے وہ کام چند برسوں میں کر دیے اور آنے والی صدیوں کو اتنا متاثر کیا کہ ہر مصلح کسی نہ کسی انداز میں متاثر نظر آتا ہے۔

(۳) ہبر یو یونیورسٹی یروشلم میں اسلامک کلچر کے لیکچرر، ڈاکٹر یوحنا فریڈمین نے انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میکگل یونیورسٹی (کینڈا) سے حضرت مجدد پر ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ انھوں نے شیخ احمد سرہندی کے عنوان سے انگریزی میں مقالہ پیش کیا جو ۱۹۷۱ء میں لندن میں طبع ہوا اس کی قیمت تقریباً دس ڈالر ہے۔ محترم بشیر احمد خاں کی عنایت سے لندن سے راقم کو یہ مقالہ موصول ہوا۔

اس مقالے میں فریڈمین نے حضرت مجدد کے بارے میں منفی انداز فکر اختیار کیا ہے۔ اکبری پالیسی کے خلاف حضرت مجدد کی مساعی، پھر جہانگیر، شاہجہاں اور آخر میں اورنگ زیب عالمگیر پر آپ کے اور آپ کی تعلیمات کے اثرات کو زیر بحث لایا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی غیر مؤرخانہ کوشش کی ہے کہ دوسرے مؤرخین نے اس بارے

میں جو مثبت انداز فکر اختیار کیا ہے، صحیح نہیں۔ سترہویں صدی عیسوی میں حضرت مجدد کے خلاف جو کچھ لکھا گیا فریڈ مین نے اس کو بھی ابھارا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضرت مجدد کو عالمی، سیاسی اور روحانی پیشوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ خیال بیسویں صدی عیسوی کی پیداوار ہے۔ راقم کے خیال میں بنیادی طور پر یہ مقالہ ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے جو گزشتہ تیس برسوں میں حضرت مجدد پر شاندار کام کے نتیجے میں مرتب ہوئے، کینڈا میکگل یونیورسٹی میں اسی قسم کے کام ہوتے ہیں (مسعود)

۵۵......ملاحظہ فرمائیں:

(ا) مکتوبات سعیدیہ، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۶۵ء

(ب) مکتوبات معصومیہ، مطبوعہ لکھنو ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۶۰ء

۵۶......محمد امین: مقامات احمدیہ و ملفوظات معصومیہ، ص ۱۰۸

۵۷......(ا) مکتوبات معصومیہ، دفتر سوم، مکتوب ۲۲۷

(ب) مستعد خاں: مآثر عالمگیری، مطبوعہ کلکتہ ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰ء، ص ۸۴

۵۸......محمد اکرام: ہسٹری آف مسلم سویلزیشن ان انڈیا اینڈ پاکستان، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۶۱ء، ص ۲۷۱

۵۹......تشکیل جدید الٰہیات، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۸ھ/ ۱۹۵۸ء، ص ۲۹۸-۲۹۹

☆......☆......☆

الحسد یاکل الحسنات
کما تاکل النار الحطب

ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی

(وکٹوریہ یونیورسٹی، نیوزی لینڈ)

☆

سترہویں صدی عیسوی سے اب تک کسی صوفی کے مکتوبات کا مجموعہ، مکتوبات کی تعداد، صوفیانہ نظریات کی وضاحت اور اپنے نکتہ نظر کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ۱۶۰۰ء سے ۱۶۰۳ء تک خواجہ باقی باللہ کو لکھے گئے مکتوبات اور چند دیگر مکتوب آپ نے اکبر کے دور میں تحریر کیے، زیادہ تر مکتوبات جہانگیر کے دور میں لکھے گئے۔ شیخ نظام تھانیسری کو لکھے گئے خطوط میں آپ نے وحدۃ الوجود سے اس اختلاف کا اعادہ کیا جو خواجہ باقی باللہ کے دور میں شروع ہوا تھا ان مکتوبات سے آپ کے پیش کردہ نظریہ وحدۃ الشہود کی روحانی فوقیت و بلندی کا اظہار ہوتا ہے۔

جہانگیری دور کی اہم شخصیات کو لکھے گئے مکتوبات زیادہ تر جلد اول میں شامل ہیں۔ یقیناً آپ کی یہ سوچ رہی کہ ان خطوط کے ذریعے آپ جہانگیر کو آمادہ کرلیں گے کہ وہ اکبر دور کی پالیسیوں کو ترک کر کے سُنّی نظام کو رائج کرے۔ مکتوبات کی ایک بہت بڑی تعداد شیخ فرید بخاری (نواب مرتضیٰ خان) اور مرزا خانِ خاناں عبدالرحیم کے نام ہے۔

جلد اول، حضرت مجدد الف ثانی کے مرید یار محمد جدید البدخشی التلقانی نے مرتب کی ان مکتوبات کی ترتیب و تعداد خود حضرت مجدد الف ثانی نے تجویز کی۔ ان کی تعداد آپ نے ۳۱۳/اس لیے مقرر کی کہ اللہ تعالیٰ کے صحیفے لانے والے رسولوں کی تعداد ۳۱۳ تھی، نیز بدر و حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد بھی ۳۱۳ تھی۔ جلد کے عنوان ''دُرّ المعرفت'' کے حروف سے اس کی تاریخ تدوین ۱۰۲۵ھ/ ۷-۱۶۱۶ء اخذ ہوتی ہے۔ تاہم متعدد مکتوبات کا مضمون (بالخصوص مکتوب نمبر ۱۱ جس میں آپ نے اپنے روحانی مکاشفات کا ذکر کیا ہے) ۱۰۲۵ھ سے بہت پہلے ہی منظر عالم پر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مریدین نے مطالعہ کی غرض سے آپ کے مکتوبات کی نقول حاصل کی تھیں اور یہی نقول مختلف صوفیہ (جن میں آپ کے مخالفین و معاندین بھی شامل تھے) میں گردش کرتی رہیں۔

جلد دوم آپ کے ایک اہم خلیفہ شیخ عبدالحیٔ بن خواجہ چکر حصاری نے تدوین کی۔ اس میں ۹۹/اسمائے حسنہ کی مطابقت سے ۹۹/مکتوبات شامل کیے گئے جو ۱۰۲۵ھ سے ۱۰۲۸ھ کے درمیان لکھے

گئے۔ جلد کے عنوان ''نور الخلائق'' کے حروف سے اس کی تاریخ تدوین ۱۰۲۸ھ/ ۱۹۔ ۱۶۱۸ء اخذ ہوتی ہے۔

جلد سوم میں ۱۲۴/ مکتوبات ہیں۔ ابتدائی ۳۰/ مکتوب شیخ محمد نعمان بن شمس الدین نے مرتب کیے لیکن اس جلد کی تکمیل حضرت مجدد کے اہم خلیفہ خواجہ محمد ہاشم کشمی نے کی۔ عنوان ''معرفۃ الخلائق'' سے تاریخ تدوین ۱۰۳۱ھ/ ۲۔ ۱۶۲۱ء اخذ ہوتی ہے اس میں ۱۰۲۸ھ سے ۱۰۳۱ھ تک لکھے گئے مکتوبات شامل ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تمام تحریروں کے مسودے کا ایک نادر نسخہ (۱۰۷۹ھ) تاشقند کی Oriental Tristitute Library میں دستیاب ہے۔

مکتوبات کی تینوں جلدیں سترہویں صدی سے اب تک ہندوستان کے مختلف شہروں دہلی، لکھنؤ، امرتسر وغیرہ سے متعدد بار شائع ہو چکی ہیں اور ان کا ترجمہ عربی، ترک اور اردو زبان میں چھپ چکا ہے۔

جلد اول میں حضرت مجدد کی وحدۃ الوجود سے وحدۃ الشہود کی طرف روحانی سفر کی منازل کا اشارہ ملتا ہے نیز ان سے آپ کے کٹر سُنّی رجحان کا اندازہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ کی شدید خواہش تھی کہ اکبر کی ہندوانہ پالیسیوں کو سُنّی نظام سے تبدیل کر دیا جائے۔

جلد دوم میں نظریہ وحدۃ الشہود کی تفصیلی وضاحت کی گئی ہے اور مخالفین و موافقین کے اعتراضات و سوالات کا تفصیلی جواب ملتا ہے۔ جلد دوم کے مکتوب ۴/ میں آپ نے اپنے مجدد ہزارۂ دوم ہونے کا واشگاف اعلان کیا ہے۔ جلد سوم میں زیادہ تر وہ مکتوب شامل ہیں جو آپ نے قید خانے سے رہائی ملنے کے بعد تحریر کیے تھے۔ ان میں آپ کے روحانی مکاشفات اور مقامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان ہی میں ایک مکتوب میں آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم کو مقام قیومیت پر فائز ہونے کا اعلان ہے۔

(ترجمہ: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی)

الجنۃ تحت ظلال السیوف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

بانی سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت احمد سرہندی

ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی

☆☆

نام و نسب:

اسم گرامی احمد کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین اور خطاب امام ربانی مجدد الف ثانی۔ آپ نسباً فاروقی ہیں شجرۂ نسب یہ ہے:

شیخ احمد مجدد الف ثانی بن مخدوم عبد الاحد بن زین العابدین بن عبد الحی بن محمد بن حبیب اللہ بن امام رفیع الدین بن نصیر الدین بن سلمان بن یوسف بن اسحاق بن عبد اللہ بن شعیب بن احمد یوسف بن شہاب الدین علی فرخ شاہ بن نصیر الدین بن محمود بن سلیمان بن مسعود بن عبد اللہ الواعظ الاصغر بن عبد اللہ الواعظ الاکبر بن ابوالفتح بن بن اسحاق بن ابراہیم بن ناصر بن عبد اللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین

(تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۸۸)

پندرہویں پشت میں جد امجد شہاب الدین علی فرخ شاہ کابلی کابل کے حکمراں، صاحب اقتدار بزرگ گزرے ہیں جو حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ کے بھی مورث اعلیٰ ہیں۔

وطن مالوف سرہند:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے چھٹے جد امجد امام رفیع الدین علیہ الرحمۃ ہیں۔ جو علم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ آپ نے حضرت جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں علیہ الرحمۃ سے خلافت حاصل کی تھی آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی اور شہر سرہند کی بنیاد رکھی۔ جس کی کیفیت اس طرح بیان کی جاتی ہے۔

سرہند ایک وحشتناک جنگل تھا جس میں درندے رہا کرتے تھے۔ جسے "سہرند" کہتے تھے ہندی میں سہہ بمعنی شیر، رند بمعنی جنگل یعنی شیر کا جنگل جس کے گرد و نواح میں کوئی شہر نہ تھا۔ چوبیس میل کے فاصلہ پر صرف ایک شہر سامانہ تھا۔ اس اطراف کے لوگ اپنا روپیہ جمع کرنے سامانہ جایا کرتے تھے، جنہیں کافی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ اطراف کے باشندے اُچہ گئے اور حضرت مخدوم جہانیاں (جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے مرشد تھے) سے عرض کی آپ سلطان دہلی سے کہیں کہ اس مقام پر ایک شہر آباد کرے۔ حضرت مخدوم دہلی تشریف لے گئے۔ سلطان نے پہلی ہی ملاقات میں اس مقام پر ایک شہر تعمیر کرنے کی اجازت دیدی۔ امام رفیع الدین کا بڑا بھائی خواجہ فتح اللہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے مقرر ہوا۔ خواجہ موصوف دو ہزار آدمیوں کو لے کر وہاں عمارت کے کام میں مشغول ہوئے ٧٦٠ھ میں قلعہ کی بنا اس ٹیلے پر رکھی جہاں پہلے جنگل تھا۔ مگر روزانہ جتنی تعمیر ہوتی دوسرے دن صبح کو گری ہوئی نظر آتی۔ جب اس امر کی اطلاع بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس کا علاج سید مخدوم جہانیاں کے سپرد کیا۔ حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ نے اپنے خلیفہ و امام نماز شیخ رفیع الدین کو حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے قلعہ کی بنیاد رکھو اور اس میں سکونت اختیار کرو۔ کیونکہ وہاں کی ولایت تم سے متعلق ہے۔ چنانچہ شیخ رفیع الدین وہاں پہنچے اور مکاشفہ سے معلوم کیا کہ شاہی کارندوں نے جبراً ایک ولی اللہ کو مزدوروں میں شامل کر لیا ہے اور وہ رات کو توجہ ڈال کر دیوار گرا دیتے ہیں۔ آپ نے اس مرد خدا کو مزدوری سے روک دیا اور خود اپنے ہاتھ سے قلعہ کی بنیاد رکھی۔ اس طرح قلعہ و شہر کی تعمیر آپ کی نگرانی میں انجام کو پہنچی اور وہیں سکونت اختیار کی۔

(تذکرہ مشائخ نقشبند، ص ٨٩۔٨٨)

امام رفیع الدین کی اولاد اس خطہ میں علم و معرفت اور روحانیت و طریقت کی جوت جگاتی رہی۔ حضرت مجدد کے والد گرامی حضرت مخدوم عبد الاحد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ سے سلسلہ چشت میں مرید تھے اور سلسلہ قادریہ کی بھی خلافت و اجازت حاصل تھی۔ بڑے بافیض اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ علوم ظاہری میں بھی کمال رکھتے تھے معقولات و منقولات کے طلبہ آپ سے تحصیل علم کرتے۔ کنوز الحقائق اور اسرار التشہد آپ کی تالیف ہیں۔

مخدوم عبد الاحد کا خواب:

ایک شب شیخ عبد الاحد نے خواب دیکھا کہ ساری دنیا تاریک ہے سور بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر

رہے ہیں یکایک آپ کے سینہ سے ایک نور نکلا جس سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک باوقار شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے روبرو تمام ظالم اور بے دین بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں اور کوئی کہنے والا باآواز بلند کہہ رہا ہے **"جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"**

صبح ہوئی تو اپنے زمانہ کے مرشد کامل قطب دوراں حضرت شاہ کمال علیہ الرحمۃ سے تعبیر دریافت کی، شاہ صاحب نے فرمایا:

> ''تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے الحاد و معصیت کا خاتمہ ہوگا'' (الخطبۃ الصوفیہ، ص۲)

ولادت:

اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ شب جمعہ ۱۴؍شوال المکرّم ۹۱۷ھ مطابق ۴؍جون ۱۵۶۴ء کو سرہند میں حضرت احمد کی ولادت ہوئی، بچپن ہی سے ذکاوت وسعادت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایام شیر خوارگی میں ایک بار سخت علیل ہوے والدہ ماجدہ شاہ کمال کیتھلی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں لے گئیں۔ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دیدی۔ جسے وہ دیر تک چوستے رہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا خاطر جمع رکھو یہ لڑکا بڑی عمر کا ہوگا اور عالم باعمل اور عارف کامل ہوگا۔ (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص۱۹۰)

تعلیم:

سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا پھر مروجہ علوم کی کتابیں اپنے والد گرامی اور سرہند شریف کے بعض نامور علماء سے پڑھیں۔ تحصیل علم کے ابتدائی دور ہی سے خداداد ذہانت واستعداد کے جوہر کھلنے لگے۔ دقیق اور پیچیدہ مضامین کے اخذ کر لینے اور اپنے الفاظ میں بیان کرنے میں کمال حاصل کر لیا پھر سیالکوٹ آئے جہاں جامع معقولات حضرت مولانا کمال کشمیری، استاذ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی سے معقولات وکلام کی منتہی کتابیں پڑھیں بعض کتب حدیث حضرت شیخ یعقوب صرفی کشمیری سے پڑھیں۔ جو وقت کے بڑے محدث تھے۔ مولانا قاضی بہلول بدخشی سے امام واحدی کی تفسیر بسیط، تفسیر بیضاوی، منہاج الوصول، الغایۃ القصوٰی، صحیح بخاری، الادب المفرد، ثلاثیات، مشکوٰۃ المصابیح، شمائل ترمذی، قصیدہ بردہ وغیرہ تحقیق کے ساتھ پڑھیں۔

سترہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری کی تکمیل کر لی فراغت کے بعد درس وتدریس کا کام شروع

کیا۔ اور عربی اور فارسی زبان میں کچھ رسائل بھی تحریر کیے۔ جن میں رسالہ تہلیلیہ اور رسالہ رد مذاہب شیعہ مشہور ہیں۔

قیام آگرہ:

اسی دور میں اکبر آباد تشریف لے گئے۔ جو شہنشاہ اکبر کا دار الحکومت اور علم وفن کا مرکز تھا جہاں ابو الفضل اور فیضی سے تعلقات قایم ہوے۔ اپنے منصب اور علمی وجاہت کے باوجود دونوں بھائی آپ کی عالمانہ شان کے معترف تھے۔ مجد. ہاشم کشمی لکھتے ہیں:

> ''چونکہ ابو الفضل اہل علم کی قدر کرتا تھا اور اہل علم کو بھی بعض مجبوریوں کی بنا پر اس سے ملنا پڑتا تھا اس لیے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کئی بار اس کی مجلس میں آئے گئے چونکہ اوہ بھی آپ کی خوبیوں سے واقف تھا اس لیے وہ آپ کا پاس ولحاظ کرتا تھا'' (زبدۃ المقامات، ص ۱۳۱)

زبدۃ المقامات ہی میں ہے:

> ''ایک مرتبہ حضرت مجدد ابو الفضل کے پاس گئے اس نے اپنے ہم نشینوں سے فلسفیوں اور ان کے علوم کی تعریف شروع کی اور اتنا مبالغہ کیا جس سے علمائے اسلام کی توہین مفہوم ہوتی تھی حضرت شیخ تاب نہ لا سکے اور فرمایا ''امام غزالی قدس سرہ نے رسالہ منقذ عن الضلال میں لکھا ہے کہ جن علوم کی ایجاد کا فلسفی دعوای کرتے ہیں ان میں سے جو کام کے ہیں مثلاً ہیئت اور نجوم وطب وہ انھوں نے قدیم انبیاء کی کتابوں اور ان کے کلام سے چرائے ہیں مگر ان کی اپنی ایجاد ریاضی وغیرہ ہیں وہ کسی دینی کام کے نہیں'' ابو الفضل یہ سن کر جوش میں آ گیا اور کہنے لگا غزالی نے نامعقول بات کہی ہے۔ حضرت فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر اہل علم کی صحبت کا شوق ہے تو اس طرح بے ادبی کے الفاظ نہ نکالنے چاہییں اور مجلس سے باہر چلے گئے کئی دن تک ابو الفضل کے پاس نہ گئے یہاں تک کہ اس نے اپنی گستاخی پر

معذرت کی‘‘ (ایضاً، ۱۳۲)

ابوالفضل کا حقیقی بھائی ابوالفیض فیضی جو بلند پایہ شاعر اور عالم تھا، نے قرآن مجید کی غیر منقوط تفسیر سواطع الالہام لکھی ہے ایک بار حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس کے مکان پر تشریف لے گئے اس وقت وہ تفسیر لکھ رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا آپ اچھے وقت آئے اس وقت میں تفسیر کے لیے ایسی بات لکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے غیر منقوط الفاظ نہیں ملتے۔ بہت دماغ سوزی کی لیکن خاطر خواہ عبارت نہیں لکھ سکا آپ نے اسی وقت اس مقام کی تفسیر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ غیر منقوط الفاظ میں تحریر کر دی کہ فیضی حیران رہ گیا۔ (ایضاً، ص ۱۳۲)

اکبر آباد کے دوران قیام جہاں تشنگان علوم و معارف نے حضرت مجدد سے فیض پایا وہیں ان کو اپنی معلومات بڑھانے اور علمی و فکری مسائل پر مختلف نقطہ ہائے نظر جاننے کا موقع ملا۔ لیکن آپ کا زاویہ ٔ نگاہ ابوالفضل اور فیضی سے بالکل مختلف رہا۔

شادی:

آگرہ کا قیام جب دراز ہوا تو والد ماجد باوجود کبر سنی کے سرہند سے آگرہ آئے اور فرزند بلند اختر کو ساتھ لے کر وطن لوٹے اثنائے راہ تھانیسر میں وقت کے جید عالم حاکم تھانیسر شاہ سلطان تھانیسری نے اپنا مہمان بنایا اور اپنی دختر نیک اختر سے حضرت مجدد کا عقد فرمایا مخدوم عبدالواحد اپنے صاحبزادے اور بہو کو لے کر سرہند آ گئے۔ سرہند سے واپسی کے بعد والد ماجد کی زندگی درس و تدریس علم باطن کی تحصیل اور طریقت کی تربیت میں مصروف رہے۔

بیعت و خلافت:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے والد ماجد سے سلسلہ چشتیہ قادریہ میں بیعت کی تھی اور دونوں سلسلوں میں رسوم طریقت کی تربیت حاصل کی۔ پھر اپنے استاذ مولانا شیخ یعقوب صرفی سے سلسلہ ٔ کبرویہ کا طریق بھی حاصل کیا۔ چشتیہ و قادریہ، کبرویہ کے طریقوں سے معرفت و سلوک کے مراحل طے کرنے کے باوجود طریقہ ٔ نقشبندیہ کا شوق دل میں باقی تھا۔

۲۷ / جمادی الاول ۱۰۰۷ھ میں جب والد گرامی کا انتقال ہو گیا، حج و زیارت کے شوق میں سرہند سے نکلے جب دہلی پہنچے ملا حسن کشمیری سے ملاقات ہوئی اور ان سے شیخ اجل، قطب الاقطاب شیخ

رضی الدین ابوالمؤید عبد الباقی بن عبد السلام بدخشی مشہور بہ باقی باللہ دہلوی علیہ الرحمۃ ۹۷۱ھ/۱۵۶۰ء تا ۱۰۱۲ھ/۱۶۰۳ء کے فیض باطنی وروحانی کا علم ہوا۔

شوق ملاقات حد سے بڑھا اور آپ حضرت باقی باللہ کی خدمت میں پہنچے حضرت شیخ گویا آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بڑی شفقت واحترام کے ساتھ آپ کی پذیرائی فرمائی یہ خداوندی انعام تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اپنی عادت کے برخلاف حضرت مجدد سے بہت زیادہ نرمی اور بشاشت سے پیش آئے۔ یہاں مطلوب خود طالب بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ نے سلسلۂ نقشبندیہ میں بیعت کی اور اپنے مرید خاص کی تربیت میں مصروف ہوگئے۔ حضرت مجدد پہلے ہی سے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ آئینہ دل شفاف ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ طریقت کی نگاہ کیمیا اثر دل میں نفوذ کرتی چلی گئی اور طریقت نقشبندیہ کے مدارج ومراحل طے کرنے لگے چند ماہ میں سلوک ومعرفت کے مقام بلند پر فائز ہوگئے۔

حضرت باقی باللہ نے ہندوستان وارد ہونے سے پہلے استخارہ کیا تھا جس سے انھیں معلوم ہوا کہ ایک خوبصورت شیریں مقال طوطی ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا خواجہ صاحب اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنی منقار سے ان کے منہ میں شکر دے رہا ہے۔ حضرت خواجہ نے اپنے مرشد سے یہ واقعہ بیان کیا تو انھوں نے ارشاد فرمایا طوطی ہندوستان کا پرندہ ہے ہندوستان میں تمہاری تربیت سے کوئی ایسا شخص تیار ہوگا جس سے ایک عالم روشن ہوگا اور تم کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ (زبدۃ المقامات۔ص ۱۴۰)

دو ڈھائی ماہ کی تعلیم وتربیت کے بعد جب حضرت شیخ سرہند کے لیے روانہ ہوئے تو مرشد برحق نے ارشاد فرمایا:

> ''تمہیں نسبت نقشبندیہ کامل طور پر حاصل ہوگئی اب قرب الٰہی میں ترقی کی امید ہے''

دوسری مرتبہ جب مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلافت سے سرفراز کیے گئے اور چند طالبان حق کی تربیت آپ کے سپرد ہوئی تیسری بار جب حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضرت مرشد نے چند قدم چل کر آپ کا استقبال کیا بڑی بڑی بشارتیں سنائیں اور اپنے حلقۂ توجہ میں آپ کو سرحلقہ بنایا بوقت رخصت فرمایا:

''جسمانی ضعف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میری حیات کم رہ گئی ہے''

حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے اپنے مقتدر مرید و خلیفہ کے بارے میں اپنے ایک مخلص کو تحریر فرمایا:

> ''شیخ احمد نے جو سرہند کے باشندے کثیر العلوم اور قوی العمل بزرگ ہیں فقیر کے ساتھ چند دن نشست و برخاست کی فقیر کے مشاہدہ میں ان کے عجیب کمالات و اوصاف آئے امید ہے کہ وہ ایک ایسا چراغ ہوں گے جس سے ایک عالم منور ہو جائے گا ان کے احوال کاملہ پر میرا یقین استوار ہے'' (ایضاً، ص ۱۴۵)

حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے میر محمد نعمان سے حضرت مجدد کے بارے میں ارشاد فرمایا:

> ''یہاں شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے ضمن میں گم ہیں کامل اولیاء متقدمین میں سے خال خال ہی ان کے مثل ہوے ہوں گے'' (زبدۃ المقامات بحوالہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۹۷)

مسند ارشاد:

علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل کے بعد جب سرہند واپس تشریف لائے تو ہر چند کہ شیخ طریقت نے کمالات باطنی کی سند عطا فرما دی تھی لیکن بیعت و ارشاد کا کام شروع نہیں کیا۔ بلکہ ہمہ تن اپنی روحانی ترقی و تکمیل کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ کا فیض عام ہوا ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

> ''جب حضرت خواجہ نے مجھے کامل و مکمل سمجھ کر تعلیم و طریقہ کی اجازت دے دی اور طالبوں کی ایک جماعت میرے سپرد کر دی اس وقت مجھے اپنے کمال و تکمیل میں کچھ تردد تھا، فرمایا یہ تردد کا محل نہیں کیونکہ مشائخ عظام نے ان مقامات کو کمال و تکمیل کا مقام بتایا ہے اگر اس مقام میں کچھ تردد ہو جائے تو ان مشائخ کی کمالیت میں شک لازم آئے گا میں نے حسب الارشاد طریقت کی تعلیم شروع کر دی اور

> طالبوں کے کام میں توجہات مبذول کیں۔ مریدوں میں بڑے اثر محسوس ہوئے۔۔۔۔۔ کچھ مدت اس کام میں سرگرم رہا آخر کار پھر اپنے ناقص ہونے کا علم پیدا ہوا اور ظاہر کیا گیا تجلی ذات برحق جس کو اکابر مشائخ نے نہایت بتایا ہے اس راہ میں پیدا نہیں ہوئی اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کیا ہیں لہٰذا اس قسم کے کمالات کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت اپنے ناقص ہونے کا علم دلائل قاطع سے ثابت ہو گیا جو طالب میرے پاس جمع تھے سب نے اپنا نقص بیان کیا اور ان کو رخصت کر دیا لیکن طالب اس بات کو کسر نفسی سمجھتے ہوئے اپنے عقیدے سے نہ پھرے کچھ مدت کے بعد حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل احوال منتظرہ عطا فرمادیے'' (دفتر اول، مکتوب ۲۹۰)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے مسند بیعت و ارشاد آراستہ فرمائی اور آپ کا آستانہء فیض طالبان طریقت و معرفت کا مرکز بن گیا ہر وقت ارادت کیشوں کی اصلاح وتربیت کا کام ہونے لگا۔

شیخ طریقت کے ایما و اشارہ پر حضرت مجدد نے لاہور کا سفر کیا جو ان دنوں علماء وصلحا کا بہت بڑا علمی و روحانی مرکز تھا جہاں ایک جم غفیر نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ لاہور میں حضرت شیخ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہزاروں افراد حلقہ بگوش ارادت ہوئے جن میں اکابر علماء لاہور بھی شامل تھے آپ لاہور میں تھے کہ حضرت باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے وصال (۳رنومبر ۱۶۰۳ء) کی خبر ملی اور اضطراب وغم سے نڈھال دہلی آئے۔ مرشد کے مزار پر حاضری دی پس ماندگان سے تعزیت کی اور کچھ دنوں قیام فرما کر سرہند تشریف لائے۔

ترویج سلسلہ:

۱۰۲۶ھ میں تبلیغ وہدایت کے لیے آپ نے اپنے کافی خلفاء ومریدین کو مختلف مقامات پر روانہ کیا۔ مولانا محمد قاسم کی قیادت میں ستر افراد ترکستان بھیجے گئے۔ مولانا فرخ حسین کی امارت میں چالیس اشخاص عرب، یمن، شام وروم کی طرف روانہ کیے گئے۔ مولانا محمد صادق کامل کے ماتحت دس کامل حضرات کو کاشغر

کی طرف بھیجا گیا مولانا شیخ احمد برکی کی قیادت میں تیس کاملین کو توران، بدخشاں اور خراسان کی طرف روانہ کیا گیا۔ ارشاد و ہدایت کے ان وفود کو ہر جگہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور لاکھوں انسانوں نے فیض پایا۔ (روضۃ القیومیہ، ص ۲۷، ۱۶۶)

بلاد اسلامیہ سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء سرہند حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے جن میں مولانا عبدالحی شادمانی، مولانا صالح کولابی، شیخ محمد برسی، مولانا یار محمد، مولانا یوسف، شیخ ظاہر بدخشی قابل ذکر ہیں۔ جن میں سے اکثر نے سند خلافت و اجازت حاصل کی اور دعوت و ارشاد کے لیے اپنے اپنے وطن آئے۔

۱۶۰۵ء/ ۱۰۱۴ھ میں بادشاہ اکبر کی وفات ہوئی اور اس کی جگہ نورالدین جہانگیر تخت مغلیہ پر بیٹھا، اکبر کی طرح وہ ملحد و بے دین نہ تھا اور نہ اسے دینی قائد و رہنما بننے کا خبط تھا وہ صحیح العقیدہ مسلمان تھا لیکن اکبری دور کی گمراہیاں اور گمراہ گر لوگوں کا اثر و نفوذ دور جہانگیری میں بھی باقی تھا۔ جو مسلم معاشرے کے لیے خطرناک تھا۔ اس سلسلہ میں بعض شیعہ امراء کا اقتدار و نفوذ بھی ایمان و عقیدہ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ شیعی عقائد کی تردید میں رسالہ رد روافض تحریر کیا امراء و سلاطین کی مجلسوں میں بھی شیعہ علماء سے بحثیں کیں۔

عہد جہانگیری میں کئی مشکلیں تھیں، لیکن ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے مشکلوں کو خاطر میں لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دربار میں ان کے مخالف امراء برسر اقتدار تھے۔ شیخ نے عوام سے رشتہ جوڑا اور اپنی روحانی عظمت، علم و فضل، قوت تحریر و تقریر اور انتظامی قابلیت سے سلسلۂ نقشبندیہ کو ملک میں بے انتہا وسعت دی۔ ہم خیال امراء کو ترویج شریعت کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔

سلسلۂ نقشبندیہ کی بڑی باقاعدگی سے تنظیم کی ملک کے تمام بڑے مرکزوں میں منتخب خلفاء پھیلے ہوئے تھے۔ جو آپ کے خیالات کی ترویج کرتے وہ اپنے مریدوں کی جس طرح خبر گیری کیا کرتے تھے اس کا اندازہ دو مثالوں سے ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک بنگالی خلیفہ تھے حمید دانشمند، وہ وطن واپس گئے تو دیر تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے پہلے تو انھیں محبت بھرے خط لکھے جب خاطر خواہ جواب نہ آیا تو اپنے پٹنہ کے ایک خلیفہ شیخ عبدالحئی شادمانی کو ان کے پاس بنگال بھیجا تا کہ ان کے احوال سے آگہی ہو اور جماعت سے ان کا ربط رہے۔ جہاں تک مریدوں کی انفرادی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے خواجہ بدرالدین سرہندی کا تفصیلی بیان پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

''ہر روز کم و بیش دس مرتبہ حضرت میرے احوال باطنی کو دریافت

فرماتے تھے یا خود اندازہ لگاتے اور مسلسل بہتر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرتے'' (حضرات القدس، ص ۱۲۹)

تربیت وارشاد:

مریدوں کی تربیت اخلاق اور تہذیب نفس کے لیے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جو بلیغ اور مؤثر پیرایہء بیان اختیار فرمایا اس کی عمدہ مثالیں مکتوبات میں جابجا ملتی ہیں۔ ذیل میں ایک نوجوان مرید کے نام لکھے گئے خط کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

> ''اے فرزند! دنیا ابتلاء و آزمائش کی جگہ ہے اس کے ظاہر کو طرح طرح کی ملمع کاریوں سے مزین کیا گیا ہے خیال وہمی خال وحظ اور زلف و خد سے آراستہ ہے۔ دیکھنے میں شیریں اور تر وتازہ لیکن حقیقت میں یہ دنیا ایک مردار ہے۔ عطر لگایا ہوا گندگیوں کا ڈھیر ہے۔ مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا ایک سراب ہے، آب نما اور ایک مٹھاس ہے زہر بھی اس کا باطن ظاہر کے برعکس خراب وابتر ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ ان گندگیوں کے باوجود اس کا معاملہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نہایت برا ہے۔ اس کا فریفتہ دیوانہ ومسحور ہے اور اس کا گرفتار فریب خوردہ ومجنون، جو بھی اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا ابدی نقصان اس کے پلے پڑا اور جو بھی اس کی حلاوت وطراوت پر مائل ہوا ندامت سرمدی اس کے حصہ میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دنیا اور آخرت سوکنیں ہیں اگر ایک راضی ہوئی تو دوسری ناخوش۔ لہٰذا جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہوئی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔
>
> اے فرزند! دنیا کیا ہے؟ جو چیز بھی تمہیں اللہ سے غافل کردے وہ دنیا ہے۔ زن وفرزند، مال ومتاع، جاہ وریاست، لہو ولعب اور لایعنی باتوں میں مشغول سب داخل دنیا ہیں۔ وہ علوم وفنون بھی جو آخرت

میں کام آنے والے نہیں دنیا میں داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی غیر مفید چیزوں میں مشغول ہو۔ موسم عنفوان جوانی کا ہے۔ دنیا کے اسباب میسر ہیں اور نامناسب دوستوں کی کثرت ہے۔ کام یہ ہے کہ فضول مباحات سے بچا جائے اور بقدر ضرورت پر اکتفا کی جائے اور مباحات کا بقدر ضرورت استعمال بھی جمعیت خاطر کی نیت سے ہونا چاہیے تاکہ وظائف بندگی ادا کرنے میں شورش پیدا نہ ہو۔ مثلاً کھانے کی غرض یہ ہے کہ ادائے طاعت پر قوت وقدرت نصیب ہو اور لباس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ستر عورت اور سردی گرمی کے دفعیہ کا کام لیا جائے اسی قیاس پر تمام مباحات کو سمجھنا چاہیے۔

کام کا وقت موسم جوانی ہے۔ جوانمرد وہ ہے جو اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور فرصت کو غنیمت سمجھے یہ بالکل ممکن ہے کہ اسے بڑھاپے تک زندگی ہی نہ ملے اور اگر بفرض بڑھاپے تک پہنچ گیا تو اطمینان میسر نہ ہو اور یہ بھی ہے کہ ضعف اور سستی کی وجہ سے کام نہ کر سکے۔ موسم فرصت میں اور زمانہ قوت واستطاعت پھر کس عذر کی بنا پر آج کو کل پر ٹالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''ھلک المسفون'' یعنی ادائے طاعت میں تاخیر کرنے والے ہلاک ہوے۔ ہاں اگر مہمات اور معاملات دنیا کو کل پر چھوڑ دیں اور آج کو اعمال آخرت میں مشغول رکھیں تو کیا کہنا۔

اے فرزند! انسان جو خلاصہ موجودات ہے اس کی تخلیق کا مقصد لہو ولعب ہے اور نہ کھانا اور سونا، بلکہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی اور تواضع، انکسار، عجز وافتقار اور بارگاہ الٰہی میں ہمیشہ تضرع ہے۔

اللہ کی بندگی و عبادت سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کی تعلیم شریعت محمدی نے دی، ہے ان عبادتوں کی منفعتیں اور مصلحتیں خود بندوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے پرہیز جان و دل کی جذبہء احسان مندی اور کامل اطاعت و انقیاد کے ساتھ ہونا چاہیے اور اپنی پوری کوشش صرف کر دینی چاہیے۔

بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی سعی بلیغ کرو تا کہ کسی کا حق تمہارے ذمہ باقی نہ رہ جائے۔ یہاں دنیا میں ان کا ادا کرنا آسان ہے کل قیامت میں یہ آسانی باقی نہیں رہے گی۔ وہاں کی جوابدہی مشکل اور ناقابل علاج ہے۔ احکام شرعیہ علمائے آخرت سے پوچھنے چاہییں ان کی باتوں میں تاثیر ہی دوسری ہے ممکن ہے کہ ان کی برکت توفیق عمل دیدے۔

ان علماء نے دنیا سے جنہوں نے علم کو مال اور جاہ و مرتبہ کے حصول کا ذریعہ و وسیلہ بنالیا ہے دور رہنا چاہیے۔

اے فرزند! یہ مسئلے اور نصیحتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوں گی لیکن مقصود عمل ہے نہ کہ صرف علم، جب بیمار اپنے مرض کی دوا جانتا ہے وہ جب تک اسے استعمال نہ کرے صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم پر ہوگا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا'' (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، ص ۷۳)

سلسلہء نقشبندیہ:

دسویں صدی ہجری میں اشراقیت، رواقیت، مانویت اور ویدانت ازم کی آمیزش سے ایک عجیب قسم کا فلسفیانہ تصوف پیدا ہو گیا تھا جسے اسلام کے نظام اعتقادی و اخلاقی میں داخل کر لیا گیا تھا، طریقت، حقیقت

شرع اسلامی سے الگ تھی۔ باطن کا کوچہ ظاہر سے جدا تھا جس کے اثر سے مسلم سوسائٹی میں اکثر صوفیہ پیدا ہو گئے تھے جو دین کی روح سے عاری اور دین و شریعت سے غافل ہو کر ہوائے نفس میں گرفتار عوام کے عقائد و افکار میں فساد پیدا کر رہے تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جب بیعت و ارشاد کی بساط آراستہ کی تو ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مروجہ فلسفیانہ تصوف اور غیر شرعی صوفیت کا انسداد تھا۔ چنانچہ آپ نے طریقت و حقیقت کی اصل روح سے اپنے حلقہ بگوشوں کو آشنا کیا۔ جو کتاب و سنت سے عبارت ہے اور جسے سلف صالحین نے اپنے اعمال و کردار کا لازمی عنصر بنا کر مشیخت کا معیار قایم کیا تھا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنے مکتب ارشاد کا جو لائحہ عمل تیار کیا وہ کتاب و سنت سے مستعار تھا اور جس میں طریقت و سلوک کو شریعت کے احتساب سے بے نیاز نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ہر سالک و مرید کے لیے ضروری تھا کہ وہ دین و شریعت کے سانچے میں ڈھلا رہے اور اس کا کردار و گفتار منہاج شریعت سے جدا نہ ہو اور وہ شریعت کی عظمت و توقیر کا ہر آن پاس و لحاظ رکھے۔

جواہر مجددیہ کے مصنف رقمطراز ہیں:

> ''اس طریقہ کے تمامی اصول اور فروع میں اتباع سنت سنیہ اور اجتناب بدعت نامرضیہ بدرجہ کمال ہے''

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ایک متبحر عالم اور کتاب و سنت کے رمز شناس تھے اس لیے تاویل و تشریح اور مخالف اقوال و احوال سے علیحدہ رہ کر تصوف کو احکام شرعی کی حدود میں لائے جس سے تصوف کی بنیادیں زیادہ مستحکم ہوئیں اور شریعت و طریقت کے اختلافات بھی کم ہوئے۔

آپ نے شیخ اکبر ابن العربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کی نئی توجیہ اور وحدۃ الشہود کا نظریہ قایم کر کے مسلمان صوفیہ اور علماء کے اختلافات دور کر دیئے۔ وحدۃ الوجود کی بعض غلط ترجمانیوں سے جو برائیاں پھیل رہی تھیں ان کا آپ کو بھرپور احساس تھا چنانچہ اس گتھی کو سلجھایا فرماتے ہیں:

> ''مقام وحدۃ الوجود سالک کو ابتدائے سلوک میں پیش آتا ہے جس سے اس کو گزر جانا چاہیے اور جو شخص اس سے بالاتر مقام پر عروج کرتا ہے اس پر مقام وحدۃ الشہود منکشف ہوتا ہے جو شرع کے عین مطابق ہے''

سلسلہء نقشبندیہ مجددیہ کے کامیاب طریقہ اشاعت اور اس سلسلہ کے مشائخ کبیر کے خلفاء کی کثرت کا ایک مبارک نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے سارے حصوں میں اہل ذوق اس سے منسلک ہو گئے اور اس روحانی یکسانیت و تنظیم سے ایک مستقل سلسلہ وجود میں آیا جسے سلسلہء مجددیہ کہا جاتا ہے۔

صدمات:

حضرت مجدد کو ۱۶۱۶ء میں مسلسل کئی اندوہناک حادثات سے دوچار ہونا پڑا۔ سرہند میں طاعون زوروں پر تھا جس میں بڑے صاحبزادے مولانا محمد صادق (جو مشکل کتب کا درس دیا کرتے تھے) دو کمسن بچے محمد فرح اور محمد عیسیٰ ایک لڑکی ام کلثوم اور دوسرے افراد خاندان نے انتقال کیا۔ چند دنوں میں ایسے جانکاہ حادثات پیش آئے جو کسی بڑے سے بڑے حوصلہ مند انسان کی ہمت توڑ دینے اور اس کی ذہنی قوت کو متاثر کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں مگر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پورے حوصلہ و عزم کے ساتھ صبر و شکر کا کوہ گراں بن کر جمے رہے۔

حضرت مجدد کی مخالفت:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے عہد اکبری کی گمراہیوں اور اس کے اثرات بد کو جو دور جہانگیری میں بھی اپنا رنگ دکھا رہے تھے انسداد کا ارادہ فرمایا اپنے مرید شیخ بدیع الدین کو آگرہ بھیجا (جو ان دنوں مغلوں کا پایہء تخت تھا) شیخ بدیع الدین نے جوش و جذبہ کے ساتھ منکرات کی تردید کی اور معروف کا حکم دیا ان میں مصلحت اور احتیاط کی کمی تھی ان کے طرز عمل سے اصلاح تو کم ہاں ان کے خلاف بدظنی عام طور پر پھیلنے لگی ایک خط میں حضرت شیخ نے لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

> ”بعض طلبہ نے کثرت امتداد کی وجہ سے ترک و خان و مان کر دیا ہے ان کے گھر والے اس بات پر مجھے سخت آزار دے رہے ہیں بعض لوگ جو دوسرے سلاسل سے متعلق تھے طریقہء عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر مسرور ہیں، کس کا اثر یہ ہے کہ آگرہ کے ایک شیخ نے میری اور مرشد برحق کی مخالفت شروع کر دی ہے اس کے مرید حضرت کو اور مخدوم باقی باللہ کو اور دوسرے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں“
>
> (زبدۃ المقامات)

شیخ بدیع الدین کے پرتشدد طریقہء کار سے جو شور و شر پیدا ہوا اس کا اثر ان کے مرشد کریم کو بھی پہنچا اور لوگوں نے ان کے مضامین پر اعتراضات کیے اور مکتوبات دفتر اول کے مکتوب یازدہم کے مندرجات پر شدت کے ساتھ حرف گیری کی گئی جس میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے عروج روحانی کا ذکر کیا ہے لوگوں نے کہنا شروع کیا شیخ احمد تو اپنے کو صدیق اکبر سے افضل سمجھتے ہیں شیخ نے ان کے اعتراض کے جواب میں لکھا۔

> ''وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیق سے افضل جانے اس کا حال دو امر سے خالی نہیں یا تو وہ زندیق محض ہے یا جاہل۔ وہ شخص جو حضرت امیر کو حضرت صدیق سے افضل کہے اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنے آپ کو افضل مانے''

اس جواب پر بھی لوگ مطمئن نہ ہوئے آگرہ کے علماء سوء نے جہانگیر بادشاہ کو یہ اطلاع دی کہ سرہند کا ایک شیخ زادہ اپنے کو صدیق اکبر سے افضل سمجھتا ہے اور ایسے دعوے کرتا ہے جس سے کفر لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مجدد کی خلائق میں یہ مقبولیت اور اس سے حکومت کو پہنچنے والے خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ مخالفین کی سازش کارگر ثابت نہ ہوئی اور مسئلہ کو اس طرح سیاسی رنگ دیا گیا کہ جہانگیر نے حاکم سرہند کی معرفت حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو دربار میں طلب کیا۔

شیخ دربار جہانگیری میں:

آگرہ میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو دربار شاہی میں حاضر کیا گیا جہانگیر بادشاہ نے دریافت کیا ہم نے سنا ہے آپ نے لکھا ہے کہ میرا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند تر ہے؟ آپ نے متذکرہ بالا جواب دیا اور ایک مثال بیان کی کہ ادنیٰ آدمی کو خدمت کے لیے بلائیں اور اس سے از راہ نوازش اسرار کی باتیں کریں تو لامحالہ پنج ہزاری امراء کے مقام کو طے کر کے پیشی تک پہنچ جائے پھر اپنے مقام پر جا کر کھڑا ہو جائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ امراء کے پنج ہزاری منصب سے زیادہ ہو جائے اس جواب سے بادشاہ مطمئن ہو گیا اور اس کا عتاب جاتا رہا۔

اسی دوران ایک درباری نے بادشاہ سے کہا کہ اس شیخ کا حال دیکھیے کہ حضور ظل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہیں

اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ معمولی تواضع بھی بجا نہیں لایا بادشاہ خفا ہوا اور قلعہ گوالیار حضرت کو قید کرنے کا حکم دیا۔

اس واقعہ سے قبل شاہزادہ شاہجہاں نے جو آپ سے عقیدت رکھتا تھا چند علماء کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور پیام دیا سجدۂ تحیۃ سلاطین کے لیے آیا ہے اگر آپ سجدہ کریں تو کوئی گزند آپ کو نہ پہنچے گا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلۂ ضعیف حکم رخصت ہے اور مسئلہ قوی عزیمت یہ ہے کہ غیر حق کو سجدہ نہ کریں۔ (حضرات القدس، دفتر دوم، ص ۹۰، ۸۹)

اسیری:

بالآخر ربیع الثانی سنہ ۱۰۱۸ھ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو قلعہ گوالیار میں اسیر کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جائیداد بھی ضبط کی گئی اور ان کے خاندان کو حویلی سرائے جاہ و باغ، کتب و اشیاء و دیگر سے محروم ہونا پڑا لیکن اس پیکر تسلیم صبر و رضا پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔

قید خانہ میں ان حالات کو آپ جس نظر سے دیکھتے تھے اس کا تفصیلی اظہار میر محمد نعمان کے ایک خط میں کیا ہے۔

> ''جب تک قید خانہ کے قفس میں قید نہ ہوا تھا تب تک ایمان شہودی کے تنگ کوچہ سے کلی طور پر نہ نکلا اور ظلال و خیال و مثال کے کوچوں میں سرگرداں رہا۔ ایمان بالغیب کی شاہراہ میں مطلق العنان ہو کر نہ دوڑا اور حضور سے غیب کے ساتھ اور عین سے علم کے ساتھ اور شہود سے استدلال کے ساتھ کامل طور پر نہ ملا اور ذوق کامل اور وجدان بالغ کے ساتھ دوسروں کے عیب کو ہنر معلوم نہ کیا لوگوں کے بلا و جفا کے حسن سے محظوظ نہ ہوا اور کلی طور پر اپنے ارادہ و اختیار کو ترک نہ کیا۔ آفاقی اور انفسی تعلقات کے رشتہ کو کامل طور پر نہ توڑا تضرع اور التجا و انابت و استغنا اور ذلت و انکساری حقیقت میں حاصل نہ ہوئی اور حق تعالیٰ کے استغنا کی رفیع الشان بارگاہ کو جس کے گرد عظمت و کبریائی کے پردے تنے ہوئے ہیں مشاہدہ نہ کیا''

گوالیار کی نظر بندی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتوں اور دینی مصالح پر مبنی تھی اور ترقیات باطنی اور مقبولیت ومحبوبیت کے اضافہ کا سبب تھی۔

رہائی:

شہنشاہ جہانگیر نے ایک سال بعد حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو زندان گوالیار سے آزاد کر دیا وہ لکھتا ہے شیخ جسے میں نے زندان میں محبوس. کیا تھا روبرو بلا کر آزاد کر دیا خلعت اور ہزار روپیہ خرچ عطا کر کے جانے یا رہنے کا اختیار دے دیا۔ (تزک جہانگیری)

فوج شاہی میں:

قلعہ گوالیار سے رہائی پانے کے بعد حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سرہند گئے وہاں اعزہ واقربا سے ملاقات کے بعد لشکر شاہی میں رہنے کا فیصلہ کیا تا کہ شاہی لشکر کے اندر اور یہ لشکر جہاں بھی جائے گا وہاں کے عوام وخواص میں ارشاد وہدایت کا موقع ہاتھ آئے گا چنانچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوے۔ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

> ''اس طرح کے احوال لائق حمد ہیں عجیب وغریب صحبتیں گزر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات سے ان گفتگوؤں سے اور امور دینیہ اور اصول اسلامیہ میں سر موسستی ومداہنت دخل نہیں پاتی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان محفلوں میں وہی باتیں بیان ہوتی ہیں جو خاص خلوتوں اور مجلسوں میں بیان ہوا کرتی ہیں'' (مکتوبات سوم، مکتوب ۱۰۶)

وفات:

۱۰۳۲ھ میں قیام اجمیر شریف کے دوران فرمایا سفر آخرت کے دن قریب ہیں سرہند آئے تو تمام دنیاوی تعلقات سے انقطاع کر لیا اور عزلت نشین ہو گئے مخدوم زادوں اور چند خادموں کے سوا کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی صرف نماز پنجگانہ اور جمعہ کے لیے باہر آتے سارا وقت ذکر وفکر اور عبادت میں بسر ہوتا کئی مہینے اسی حالت میں گذرے ۱۲رمحرم کو فرمایا:

> ''مجھے بتایا گیا ہے ۴۵ر دن کے اندر اس عالم میں سے دوسرے عالم

کا سفر کرایا جائے گا''

۲۲ رصفر المظفر کو اعزہ وخدام سے فرمایا کہ آج چالیس روز پورے ہو گئے دیکھنا چاہیے کہ اب کیا پیش آتا ہے ۲۳ رصفر کو اپنے تمام کپڑے خدام میں تقسیم کر دیے سرد ہوا کا اثر ہوا اور شدید بیماری میں مبتلا ہوئے مرض کی شدت کے باوجود معمولات میں فرق نہ آیا آداب شریعت وطریقت سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں فرمایا وصال سے کچھ دیر پہلے غیبت واستغراق کا غلبہ ہوا فرزندوں نے پوچھا یہ حالت کس وجہ سے ہے جواب دیا استغراق کی وجہ سے بعض حقائق ومعاملات درپیش ہیں اسی حالت میں یہ وصیت فرمائی۔

> ''سنت کو دانتوں سے پکڑنا چاہیے صاحب شریعت علیہ السلام نے ''الدین النصیحہ'' کے مطابق امت کی خیر خواہی اور نیک صلاح کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ دین کی معتبر کتابوں سے متابعت کامل کا راستہ حاصل کرنا اور اس پر کابند ہونا چاہیے میری تجہیز وتکفین میں سنت پر پورا عمل کیا جائے کوئی سنت ترک نہ کی جائے''

۲۸ رصفر المظفر سنہ ۱۰۳۴ھ سہ شنبہ بوقت چاشت جان جان آفریں کے سپرد فرمائی اس وقت عمر شریف ۶۳ رسال تھی۔ نماز جنازہ فرزند کلاں خواجہ محمد سعید نے پڑھائی اور جسد مبارک حویلی کے صحن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

شمائل وخصائل

حلیہ مبارک:

قد متوسط، چہرہ انور وجیہ، رنگ گندمی مائل بہ سفیدی، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی، آنکھیں بڑی بڑی، صورت انوار ولایت سے روشن، چہرۂ مبارک پر جس کی نظر پڑتی کہتا **تبارک اللہ احسن الخالقین**۔

عام اخلاق:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ انتہائی حلیم، کریم النفس، مدبر، ذہین، ذکی واقع ہوئے تھے۔ کلام نہایت شیریں اور شائستہ ہوتا، طبیعت غیور وخوددار تھی۔ بادشاہ جہانگیر سے تعلقات کے باوجود کسی جاگیر، منصب یا مستقل آمدنی کی خواہش ظاہر نہ کی۔ اخلاق وتواضع اور خلق خدا پر شفقت ورضا وتسلیم کی خو انتہائی درجہ پر پہنچی

ہوئی تھی آپ کو اور اعزہ کو ظالم حاکموں سے بڑی ایذائیں پہنچیں لیکن تسلیم و رضا سے کام لیا اور کبھی حرف شکایت زباں پر نہ لائے۔ کوئی ملاقات کے لیے آتا تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور مجلس میں جگہ دیتے اور اس کے ذوق کے مطابق گفتگو فرماتے سلام میں ہمیشہ سبقت کرتے تھے۔ اہل حقوق کی حد درجہ رعایت فرماتے۔

لباس:

آپ کا لباس انتہائی سادہ ہوتا ایک کرتا جس کے دونوں کاندھوں پر چاک ہوتا تھا اس کے اوپر عبا، لیکن گرمیوں میں صرف کرتا ہی ہوتا، دستار سر پر لپیٹ لیتے جیسا کہ سنت ہے۔ اور شملہ دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ پر رہتا، جب نیا لباس تبدیل کرتے، پرانا کسی خادم، عزیز یا مہمان کو دے دیتے۔

اتباع سنت:

زندگی کا ہر عمل سنت کی اتباع میں ہوتا وہ اپنے علمی و روحانی کمالات کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا فیض سمجھتے تھے فرماتے تھے:

> ''ہمارا ہر عمل اور کوشش بھی کیا چیز ہے جو کچھ بھی ہے وہ فضل خداوندی ہے لیکن اس کا کوئی ذریعہ کہا جا سکتا ہے تو وہ سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ہے جس پر مدار کار سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اسی پیروی اور اتباع کی وجہ سے عطا فرمایا ہے'' (حضرات القدس)

سنت کے آداب اور اس کی باریک باتوں میں سے کسی چھوٹی سی چیز کو بھی ترک نہ کرتے تھے۔ ایک بار کسی خادم سے فرمایا فلاں جگہ لنگیاں رکھی ہوئی ہیں جا کر کچھ لے آؤ۔ وہ گیا اور چھ عدد لے آیا۔ آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہمارے صوفی کو ابھی تک یہ خبر نہیں کہ جفت کے مقابلہ میں طاق کو بہتر قرار دیا گیا ہے اس کی رعایت مسنون ہے اللہ وتر ویحب الوتر میں تو منہ دھوتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ پہلے داہنے رخسار پر پانی پڑے کیوں کہ داہنی جانب کو مقدم رکھنا بھی مسنون ہے۔

(مکتوبات، ج ۱، ص ۴۵۶، مکتوب ۳۱۳)

لباس وضع قطع، رفتار و گفتار، خورد و نوش، آداب مجلس، نشست و برخاست، رنج و راحت غرض کہ

شعبہ ہائے زندگی کی معمولی سے معمولی چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا التزام کرتے۔

عبادت وریاضت:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

> ''یہ دنیا دار العمل ہے اور مزرع آخرت۔ حضور باطن کو آداب و اعمال ظاہری کے ساتھ جمع رکھنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک باوجود محبوبیت اور علوئے مرتبت کے کثرت عبادت سے متورم ہو جاتے تھے'' (حضرات القدس)

آپ کی پوری زندگی عبادت وریاضت کے معمولات سے عبارت ہے۔ فرض نمازیں باجماعت ادا فرماتے، نوافل واذکار کا خاص اہتمام رکھتے۔ جس کا اندازہ حضرت کے معمولات شب وروز سے بخوبی ہوتا ہے۔ نصف شب سے تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے ہر دو رکعت کے بعد توبہ واستغفار اور درود شریف اور دعاؤں کے بعد مراقبہ فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اشراق تک اپنے متوسلین کے ساتھ مراقبہ میں بیٹھتے تھے۔ بعد اشراق دیگر مشاغل میں مصروف ہوتے۔ نماز چاشت کے بعد کچھ غذا تناول فرماتے جو فقراء حاضر خانقاہ ہوتے وہ بھی کھانے میں شریک ہوتے یا ان کو کھانا تقسیم کر دیا جاتا۔ کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے پھر زوال کے بعد ظہر کی سنتیں اور فرض وغیرہ سے فراغت پا کر متوسلین حاضر خدمت ہوتے اور فیوض وبرکات سے مالا مال ہوتے یہ سلسلہ نماز عصر تک جاری رہتا اذان عصر کے بعد تحیۃ الوضو اور عصر کی نوافل پڑھتے پھر جماعت سے فراغت پا کر تلقین کا سلسلہ جاری کرتے نماز مغرب کے بعد نوافل کا طویل سلسلہ عشاء کے قریب تک جاری رہتا۔ نماز عشاء کے بعد آرام فرمانے کا وقت تھا رات دن کے نوافل میں پورا قرآن ختم کر لیتے۔ اسی اثناء میں تصانیف، مکاتیب اور درس وتدریس، وعظ وتلقین کا سلسلہ جاری رہتا۔ سفر میں بھی معمولات پر پابندی کی کوشش کی جاتی۔

(حضرات القدس، ص۸۲)

ضیافت:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے یہاں روزانہ بے شمار علماء، حفاظ، صوفیاء اور مہمان رہتے، جن کی تعداد اکثر دنوں میں سو تک پہنچ جاتی، خاص طور پر رمضان میں یہ تعداد کافی ہو جاتی ان تمام لوگوں کو حضرت کے مطبخ

سے کھانا دیا جاتا۔

اولاد:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے یہاں سات فرزند پیدا ہوئے جن میں چار کا وصال حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ شیخ محمد فرخ، شیخ محمد عیسیٰ، شیخ محمد اشرف ایام طفولیت ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔

۱......خواجہ محمد صادق: تکمیل علم کے بعد درس و تدریس میں مصروف ہوئے اور ۲۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ (۱۰۲۵ھ)

۲......خواجہ محمد سعید: ۱۰۰۵ھ تا ۱۰۷۰ھ نے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ سے خلافت لے کر ان کے کار ارشاد کو آگے بڑھانے میں حصہ لیا۔

۳......خواجہ محمد معصوم: (۱۱ شوال المکرّم ۱۰۰۷ھ / ۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ھ) علوم اسلامیہ کے ماہر اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خلیفہ و جانشین ہوئے۔ جن کی مساعی جمیلہ سے سلسلہ مجددیہ کو ہند و بیرون ہند میں بڑا فروغ و استحکام حاصل ہوا۔

چراغِ ہفت کشور خواجہ معصوم
منور از فروغش ہند تا روم

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر آپ ہی سے بیعت تھے جن کی روحانی تربیت آپ کے فرزند خواجہ سیف الدین نے کی تھی۔

خلفاء:

تلقین و ہدایت کے اس روشن مینار سے دلوں کی دنیا منور کرنے والے اہل ارادت کا کوئی شمار نہیں۔ اسی طرح آپ کی روحانی تربیت سے فیض یاب ہو کر کامل شیخ طریقت بننے والے اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہونے والوں کی صحیح تعداد کا تعین از بس دشوار ہے۔ خلفاء کی کثرت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ترکستان و افغانستان، روم و شام، عرب و عجم ہر جگہ خلفائے عظام سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی اشاعت میں مصروف تھے۔

چند اہم خلفاء کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

۱......خواجہ سید آدم بنوری
۲......خواجہ محمد معصوم
۳......شیخ محمد طاہر لاہوری
۴......خواجہ میر محمد نعمان
۵......خواجہ ہاشم کشمی
۶......شیخ بدیع الدین سہارنپوری
۷......مولانا بدرالدین سرہندی
8......شیخ عبدالاحد عرف گل شاہ
۹......مولانا محمد صدیق کشمی
۱۰......شیخ حمید بنگالی
۱۱......شیخ عبدالحی حصاری
۱۲......شیخ نور محمد پٹنی
۱۳......مولانا احمد برکی
۱۴......مولانا امان اللہ لاہوری
۱۵......شیخ حسن برکی
۱۶......حاجی خضر خاں افغانی
۱۷......میر صغیر احمد رومی
۱۸......مولانا طاہر بدخشی
۱۹......شیخ عبدالہادی فاروقی
۲۰......مولانا فرخ حسینی ہروی
۲۱......شیخ محمد صادق کابلی
۲۲......مولانا یوسف سمرقندی

تالیفات وتصنیفات:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ایک بلند پایہ ممتاز عالم تھے انھوں نے دین وشریعت کی حمایت اور احیائے دین کے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے چند بیش قیمت تصانیف بھی یادگار چھوڑیں جن کی افادیت وتاثیر آج بھی قایم ہے۔ یہ مصنفات طالب حق اور اہل بصیرت کے لیے گراں قدر سرمایہ اور تلقین وہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ کی مصنفات ومؤلفات کی فہرست یہ ہے:

۱......رسالہ تہلیلیہ
۲......رسالہ اثبات نبوت
۳......رسالہ رد روافض
۴......رسالہ معارف لدنیہ
۵......شرح شرح رباعیات باقی باللہ
۶......مبداء ومعاد
۷......مکاشفات غیبیہ (مکتوبات امام ربانی، دفتر۳)

دفتر اول کی ابتدا ان مکاتیب سے ہوتی ہے جن کو آپ نے حضرت باقی باللہ کو تحریر کیے۔ اس دفتر میں ۳۱۳ مکاتیب ہیں۔ جن کو خواجہ یار محمد جدید بدخشی طالقانی نے جمع کیا جس کا تاریخی نام درالمعرفت رکھا۔

دفتر دوم خواجہ عبدالحی حصاری نے مرتب کیا جس میں ۹۹؍ مکاتیب ہیں جس کا تاریخی نام نورالخلائق (۱۰۲۸ھ) رکھا سنہ ۱۰۳۳ھ میں ترتیب دیا۔

تیسرا دفتر خواجہ محمد ہاشم کشمی نے ترتیب دیا جو ایک سو چودہ خطوط پر مشتمل ہے جس کا نام بحرالمعارف رکھا۔

اصلاح وتجدید:

ہندوستان میں مسلم حکومت کے دور اول سے لے کر بادشاہ ہمایوں تک جتنے بھی امراء وسلاطین گزرے وہ سچے مسلمان اور راسخ العقیدہ سنی تھے۔ دین حق کے حامی اور اہل اسلام کے خیر خواہ تھے۔ خود اکبر بادشاہ اپنے ابتدائی عہد حکومت میں سچا مسلمان اور پکا سنی تھا۔ سفر وحضر میں جماعت سے پنجگانہ نماز ادا کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، اولیاء اللہ، علماء ومشائخ سے عقیدت واحترام کا سلوک کرتا، ان کی بارگاہوں میں ادب واحترام کے ساتھ حاضری دیتا۔ اس کے درباری امراء وعلماء بھی دین حق کے حامی اور مخلص تھے۔ مگر جب سلطنت کو وسعت واستحکام حاصل ہونے لگا اس کے مذہب پر سیاست غالب آنے لگی۔ رانی جودھا بائی اور دوسری راجکماریوں سے شادی کر کے اس نے ہندو راجاؤں سے رشتہ قرابت قایم کیا تو اسے ہندو مذہب اور اس کے فلسفہ ورسوم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو وہ جہالت کی بنا پر ہندو مذہب اور اس کے اعمال اور رسوم میں گہری دلچسپی لینے لگا۔ اس طرح اس کی راسخ العقیدگی صلح کلیت میں بدل گئی۔ اور وہ ہندو مذہب کے علاوہ دیگر ادیان باطل وملل کے افکار وعقائد کی معلومات فراہم کرنے کا شائق ہوگیا۔ اور اس نے اپنے دربار میں ہر مذہب وملت کے علماء وعقلاء کو جمع کر لیا، اور ان کے درمیان مختلف دینی ومذہبی موضوعات پر مناظرے کراتا۔ بحث ومناظرے کے دوران قسم قسم کی نکتہ آفرینیاں اور بے لاگ تبصرے کیے جاتے۔ مناظرے میں موشگافیوں اور عقلی دلائل کی گرم بازاریوں نے اکبر کے ذہن میں تشکیک کا مرض پیدا کر دیا۔ اسلامی عقائد وافکار کی بندشوں سے آزاد ہونے لگا۔ بین المذاہب والمسالک بحث ومناظرہ کے شوق نے اسے اس نتیجہ پر پہنچا دیا کہ تمام مذاہب کی صداقتوں کو یکجا کیا جائے۔ چنانچہ اس نے چالیس ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کی خوبیاں جمع کی جانے لگیں۔

ادھر ٹوڈرمل، بیربل، دیوی برہمن ۔۔۔۔ جیسے ہندو امراء واعیان سلطنت اور مفاد پرست تشکیک زدہ ملا مبارک اور اس کے بیٹے ابوالفضل فیضی اور شریف آملی جیسے دیگر خوشامدی علماء وامرائے دربار نے اکبر

کے ذہن و دماغ کو اسلام سے منحرف کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بادشاہ اور حکومت کو قانون شرع کی پابندیوں سے آزاد کرنے کی بتدریج جدوجہد شروع ہوئی۔

سب سے پہلے ملا مبارک ناگوری نے ایک محضر کے ذریعہ بادشاہ کو امام عادل اور مجتہد کا درجہ دیا جس کی رو سے بادشاہ کسی فقہی مسلک کا پابند نہیں رہا۔ وہ خود امور دینی میں اپنی رائے سے فیصلے کرنے کا مجاز قرار دیا گیا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ پہلی منزل تھی جہاں تقلید سے کنارہ کش کر کے اکبر کو اجتہاد کے درجہ پر پہنچا دیا گیا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اعلانیہ ائمہ مجتہدین کی توہین وتحقیر ہونے لگی۔ دین کا بھرم اٹھ گیا ابوالفضل اس قدر جری ہو گیا کہ بحث ومباحثہ کے دوران ائمہ کا قول نقل کیا جاتا تو وہ کہتا فلاں حلوائی، فلاں کفش دوز اور فلاں چمڑے والے کے قول سے تم مجھ پر حجت قایم کرتے ہو۔

بادشاہ عادل اور مجتہد قرار دیے جانے کے بعد اس کے دماغ میں فرعونیت سمائی اور جگت گرو بننے کا شوق پیدا ہوا اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا۔ ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں۔

> ''بادشاہ نے یہ خیال پیدا کر لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کل مدت ایک ہزار سال تھی جو پوری ہو گئی۔ بادشاہ کے دل میں اس کے بعد ان منصوبوں کے اظہار واعلان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ جو اپنے دل میں انھوں نے طے کیے تھے ادھر ایسے علماء جن کا کچھ رعب وداب تھا ان سے بھی بساط خالی ہو چکی تھی پھر کیا تھا اس کے بعد تو بادشاہ خوب کھل کر کھیلے اور اسلامی احکام وارکان کے ہدم وبربادی ان کی جگہ نت نئے اپنے ساختہ پرداختہ قوانین کی ترویج میں مشغول ہوے۔ جس کے بعد عقائد کی بربادی کا بازار گرم ہوا''
>
> (منتخب التواریخ، ص ۳۰۱)

الف ثانی کے اس نظریہ کو سکھوں کے ذریعہ عام کیا گیا اور عالم نما جاہلوں نے کہا اس صاحب زماں کا وقت آ گیا ہے جو ہندو اور مسلمانوں کے بہتر فرقوں کے اختلاف کو مٹانے والا ہو گا اور وہ صاحب زماں بادشاہ اکبر ہے۔ اکبر نے ہندو مت، جین مت، عیسائیت اور مجوسیت کے افکار وعقائد، اعمال ورسوم کا ایک مجموعہ مرتب کیا جسے ''دین الٰہی'' کا نام دیا گیا۔ اور اس باطل دھرم کا کلمہ لا الہ اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تھا۔

دین الٰہی کا غالب عنصر ہندو دھرم کے افکار و اعمال تھے کہنے کو تو اس نئے دین میں سارے مذاہب کی خوبیاں جمع کردی گئی تھیں مگر اسلام کے علی الرغم ایسے افکار و عقائد اور رسوم و اعمال کا مجموعہ تھا جو اسلام کے بنیادی عقائد کے سراسر خلاف تھا اسلام کے علاوہ تمام ادیان کی پذیرائی کی جاتی اور کھلے عام اسلام کے عقائد و شعار کا مذاق اڑایا جاتا تھا جس کا اندازہ دین الٰہی کے پیروؤں کے اعمال و افکار سے ہوتا ہے۔

۱......آفتاب کی عبادت دن میں چار بار کی جاتی

۲......صبح کو اکبر کا درشن اور اسے سجدہ کیا جاتا

۳......شراب اور جوا حلال گاؤ کشی حرام

۴......دختر عم و خال سے نکاح جائز

۵......لاشیں جلائی جائیں اگر دفن کی جائیں تو پاؤں قبلہ کی طرف ہوں

۶......مردوں کے لیے سونا اور ریشم حلال

۷......خنزیر اور کتوں کا احترام ناگزیر

۸......آگ کا احترام

۹......دیوالی، دسہرہ، راکھی، پونم، شیوراتری خاص تہوار تھے

۱۰......متعہ حلال

۱۱......عقیدۂ تناسخ

اکبری دور میں اسلام اور اہل اسلام کی زبوں حالی کا عالم کیا تھا حضرت مجدد علیہ الرحمۃ رقم طراز ہیں:

> ''مسلمانوں پر پچھلے دور میں کیا کچھ گزر گیا اسلام کی زبوں حالی پہلے زمانہ میں اس سے آگے نہ گئی تھی کہ مسلمان اپنے دین پر رہیں اور کفار اپنے دین پر، لیکن گزشتہ دور اکبری میں کھلے بندوں اور اسلامی سلطنت میں کفر کے قوانین غالب اور نافذ تھے۔ بحال یہ کہ مسلمان اسلامی قوانین کے اظہار سے عاجز تھے اگر ظاہر کرتے تو قتل کردیے جاتے'' (مکتوب ۶۵)

اکبری دور کے بعد بھی اس کے اثرات بد کا تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''اسلام اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ ہندوستان کے کفار بے کھٹکے مسجدوں کو گرار ہے ہیں اوران کی جگہ اپنے مندر بنار ہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی شبستان میں جو آگ لگی تھی اس کی شعلہ فشانیاں کس حدکو پہنچی ہوئی تھیں'' (مکتوبات اول، ص ۱۶۳)

حضرت مجدد کی اصلاحی سرگرمیاں:

اکبر کی موت کے بعد ۱۰۱۴ھ میدان عمل میں اس وقت اترے جب آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی اور علم ظاہر و باطن میں کمال پیدا کر لیا تھا چونکہ اس وقت بے دینی دربار ہی میں پیدا ہوئی تھی اور اسے شاہی سرپرستی حاصل تھی اس لیے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جہانگیری عہد کے امراء و اعیان سلطنت ہی کو دین حق کی طرف مائل کرنے اور اکبری عہد کی بدعات و خرافات کے دور کرنے اور اسلام کے نقصانات کی تلافی کے لیے آمادہ کیا اور اس مقصد کے لیے تمام نامور امراء کو خطوط لکھے ان تمام مکاتیب کا صرف ایک مقصد تھا کہ جس طرح ممکن ہو اس نقصان کی تلافی ہونی چاہیے جو اسلام کو عہد اکبری میں پہنچا ہے۔ لالہ بیگ کو لکھتے ہیں:

> ''اللہ ہم میں اور آپ میں اسلام کی حمیت زیادہ کرے تقریباً ایک قرن سے اسلام پر ایسی غربت چھا گئی ہے کہ کفار اسلامی علاقوں میں کفر کے احکام جاری کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کوشش میں ہیں کہ اسلام کے احکام پوری طرح زائل ہو جائیں۔ اسلام اور مسلمان کا نام تک باقی نہ رہے۔ اگر کوئی مسلمان اسلامی شعار کو ظاہر کرتا ہے تو اس کو قتل کرا دیا جاتا ہے'' (دفتر اول، مکتوب ۲۹)

شیخ فرید بخاری کے نام لکھے گئے مکتوبات کے بعض اقتباسات:

> ''آج جب کہ مانع دولت اسلام کے زائل ہونے کی نوید اور بادشاہ اسلام کے جلوس کی بشارت ہر خاص و عام کے کان تک پہنچی ہے اہل اسلام نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ بادشاہ کے مددگار اور معاون رہیں گے اور ترویج شریعت اور تقویت ملت میں ان کا ساتھ دیں

> گے۔ ان کی مدد کریں گے چاہے زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے، سب سے اول مسائل شرعیہ کی مدد ہے تاکہ کتاب وسنت و اجماع امت کے موافق عقائد باطلہ کا اظہار ہو۔ کوئی بدعتی اور گمراہ بیچ میں آکر راستہ نہ کاٹے اور کام کو نہ بگاڑے''

> ''اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل قدرت اور بادشاہ کا قرب عطا کیا ہے اس لیے آپ کی ذات سیادت پناہ سے امید ہے کہ ظاہر و باطن میں برابر شریعت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ کی ترویج کے لیے کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت و پستی سے نکالیں گے''

(دفتر اول، مکتوب ۴۷)

خان جہاں کو تحریر فرمایا:

> ''آپ سے التماس ہے کہ جب اس خاندان نقشبندیہ کے اکابر کی محبت کی برکت سے جو آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں تاثیر رکھی ہے اور آپ کے اقران میں آپ کی عزت ہے تو آپ کوشش کریں تاکہ کم از کم یہ صورت نکل آئے کہ کفر کے وہ بڑے احکام جو مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں ختم ہو جائیں۔ اور منکرات سے مسلمانوں کو نجات ملے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور سب مسلمانوں کی طرف سے اجر دے۔ پہلی حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت اور دشمنی مفہوم ہوئی تھی اس حکومت میں بھی پہلی حکومت کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے اور عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ ہو جائے'' (مکتوبات اول، ۶۵)

علمائے سوء:

ملا مبارک، ابوالفضل فیضی، شریف آملی جیسے دنیا دار علماء نے اپنی عقلیت پرستی اور حیلہ طرازی سے اکبر کو مہدی صاحب زماں اور امام مجتہد حتیٰ کہ اسے انسان کامل خلیفۃ الزماں قرار دے دیا اور اسے اسلام سے

برگشتہ کر کے لادینیت کا دروازہ کھول دیا، یہی علماء سوء درحقیقت دین الٰہی کے موسس اور بانی تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اس حقیقت سے بخوبی آشنا تھے کہ علمائے سوء اگر بادشاہ جہانگیر کے دربار میں داخل ہوئے تو اکبری دور کی لادینیت پوری قوت کے ساتھ ہندوستان کے طول وعرض میں پھیل جائے گی اس فتنے کو روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے کہ دربار شاہی کو خود غرض دنیادار، دین فروش علماء سے پاک کیا جائے۔

میر صدر جہاں کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

> ''سننے میں آیا ہے کہ بادشاہ اسلام اسلامی حسن اعتقاد کی بنیاد پر علماء کے طلبگار ہو گئے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلے دور میں خرابی پیدا ہوئی تھی علماء سوء کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لہٰذا علماء کے انتخاب میں آپ خوب چھان بین کریں، علماء سوء دین کے ڈاکو ہیں ان کا مقصد عزت ومنزلت اور ریاست ہے اللہ تعالیٰ ان کے فتنہ سے بچائے'' (مکتوبات اول، ص ١٩٤)

اب جبکہ حکومت پلٹ گئی اور اہل ہبل کے عناد کا زور ٹوٹ گیا ہے تو تمام مقتدایان اسلام پر چاہے وزرائے عظام ہوں یا علمائے کرام ہوں لازم ہے کہ اپنی تمام کوشش شریعت کی ترویج و اشاعت پر لگا دیں۔ اور اسلام کے منہدم ارکان کو قایم کریں، تغافل میں کچھ فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دل مضطرب ہیں، ان کی پچھلے دور کی مصیبتیں یاد ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تلافی مافات کی صورت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور اسلام کی غربت میں مزید اضافہ ہو۔

شیخ فرید بخاری کو لکھتے ہیں:

> ''پچھلے دور میں مسلمانوں پر جو بھی مصیبت آئی وہ اسی جماعت کی وجہ سے آئی بادشاہوں کو انھوں نے ہی بہکایا ہے وہ بہتر فرقے جنہوں نے گمراہی اختیار کی ان کے مقتدی یہی علمائے سوء تھے۔ اگر علمائے سوء کے علاوہ کسی نے راہ ضلالت اختیار کی ہے تو اس کی ضلالت دوسروں تک بہت کم متعدی ہوئی ہے اور اس زمانے کے اکثر صوفی نما جاہل علمائے سوء کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ ان کا فساد بھی متعدی

ہے'' (مکتوب ۴۷)

مکار صوفی:

عہد اکبری میں تصوف وطریقت کے جو افکار و رسوم ہوا پرست صوفیوں نے وضع کر لیے تھے جس میں فلسفۂ یونان، حکمت اشراق، عجمی و ہندی تصورات کی ایسی آمیزش کر لی گئی تھی جس سے اسلامی تصوف کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ جاہل صوفیہ نے شریعت وطریقت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر ایک ایسا نظام رائج کر دیا تھا جہاں دینی احکام اور شرعی نزاکتوں کا دور دور تک گزر نہ تھا، نام نہاد روحانیوں کا مسلک دین حق کے لیے سم قاتل تھا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس جانب خاص توجہ فرمائی اور شریعت کی برتری کا احساس دلایا اور اس زندیقی نظریہ تصوف وسلوک کی خامیوں سے لوگوں کو روشناس کر کے صحیح اسلامی فکر اور اسلامی تصوف کی راہ دکھائی۔ جو شریعت سے ماوراء نہیں بلکہ شریعت کی سراسر پابندی سے عبارت ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنے وقت کی گمراہیوں کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں:

> ''اس وقت عالم میں بدعات کا اس کثرت سے ظہور ہے کہ معلوم ہوتا ہے ظلمات کا دریا امنڈ رہا ہے اور سنت کا نور اس مواج دریا میں اس کے مقابلہ میں اس طرح ٹمٹما رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں کہیں کہیں جگنو اپنی چمک دکھا رہے ہیں''

(مکتوبات دوم، ۲۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی حکمت وبصیرت سے معلوم کیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ صوفیہ طریقت وحقیقت کو شریعت سے۔ بالاتر سمجھتے اور حقیقت کے نام پر گمراہی اور باطنی مسلک رائج کر رہے ہیں آپ نے ان مفاسد کا رد فرمایا لکھتے ہیں:

> ''منازل سلوک طے کرنے اور مقامات جذب قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ حاصل اور مقصد تمام سیر وسلوک کا یہ ہے کہ مقام اخلاص حاصل ہو جائے جو کہ تمام آفاقی اور انفسی معبودوں کی فنا پر منحصر ہے۔ شریعت کے تین اجزاء ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص۔ طریقت اور حقیقت اخلاص کے خادم ہیں۔ یعنی طریقت وحقیقت کے جتنے منازل طے

ہوں گے اسی قدر اخلاص میں قدم راسخ تر ہوتا جائے گا۔ اخروٹ اور کشمش جیسی معمولی اشیاء پر اکتفاء کیے ہوے ہے نہ وہ شریعت کے کمالات کو سمجھا ہے اور نہ طریقت وحقیقت کی تہ تک پہنچا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شریعت چھلکا ہے اور حقیقت گودا۔ اس کو اصل کار کی خبر تک نہیں ہے وہ صوفیہ کی لایعنی باتوں پر فریفتہ اور احوال و مقامات پر مفتوں ہو گیا۔ ہے ایسے لوگوں کو اللہ سیدھی راہ پر لگائے''

(مکتوبات اول، ۴۰)

بے عمل صوفیوں کی اس باطل لغزش سے باز رہنے کی تاکید فرمائی جس سے لوگ شرعی فرائض وواجبات سے غافل ہو جاتے تھے۔

''ضرورت دو باتوں کی ہے اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہ رہے اور ان اعمال کو پردے کا راز بنایا جائے جس کا تعلق بدن سے ہے اور شریعت نے ان کا حکم دیا ہے۔ جو شخص بغیر اعمال بدنیہ کے قلب کی سلامتی کا دعوٰی کرے اس کا دعوٰی غلط ہے۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں بغیر جسم کے روح نہیں ہوتی بلکہ اس کا خیال تک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح احوال قلبیہ کا ظہور بغیر بدنی اعمال کے محال ہے۔ اس زمانہ کے اکثر ملحد اس قسم کا دعوٰی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے برے اعمال سے بچالے'' (مکتوبات اول، ۳۹)

شیخ بدیع الدین کو لکھتے ہیں:

صوفیاء خام کی بے عملیوں کی تردید اس طرح فرماتے ہیں:

''یہ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پیر اس مقصد سے عبادت نہیں کرتا کہ وہ عبادت کا محتاج ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے متبعین اس کو دیکھ کر عبادت کریں'' (مکتوبات دفتر اول، ۲۷۶)

''خام صوفی ذکر و فکر کو اہم سمجھ بیٹھے ہیں فرائض وسنن کی بجا آوری میں

تساہل سے کام لیتے ہیں اور مغیبات اور ریاضات کو اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو چھوڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں کہ ایک فرض کو جماعت سے ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں جو ذکر و فکر آداب شرعیہ کے ساتھ کیا جائے وہ بہتر اور شایان اہتمام رہتا ہے''

(ایضاً: ۲۶۰)

آپ نے شیخ نظام تھانیسری کو تحریر فرمایا:

''معتبر افراد سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں وہ زمین بوسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ اس فعل کی قباحت اظہر من الشمس ہے آپ ان کو تاکید کے ساتھ منع کریں اس فعل سے بچنا ہر ایک کو لازم ہے اور خاص کر ایسے شخص کو جو خلق کا مقتدا ہو۔ آپ کی مبارک مجلس میں تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں چاہیے کہ فقہ کی کتابیں پڑھی جائیں فقہ کی کتابوں کا نہ پڑھنا احتمال ضرر رکھتا ہے'' (ایضاً: ۲۲۹)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی تجدیدی سرگرمیوں سے ایک طرف تو حکومت کو کفر کی گود میں جانے سے روکا اور اکبری دور کی دینی و سماجی گمراہیوں کو ختم کر کے اس عظیم فتنہ کے سیلاب کو روکا جو ہندوستان سے دین حق کو بہالے جانے کے لیے موجیں مار رہا تھا دوسری جانب تصوف کے چشمہء صافی کو ان آلائشوں سے جو فلسفیانہ اور راہبانہ گمراہیوں سے آلودہ ہو چکا تھا پاک کر کے اسلام کا اصلی اور صحیح تصوف پیش کیا اور عوام میں پھیلی ہوئی غیر اسلامی رسوم کا خاتمہ کیا اور سلسلہء بیعت و ارشاد کے ذریعے اتباع شریعت کی ایک ایسی تحریک پھیلائی جس کے ہزاروں کارکنوں نے ہند و بیرون ہند عوام کے اخلاق کو اعتقاد کی اصلاح کی۔

تیسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ علمائے سوء کی فتنہ طرازیوں اور ان کی گمراہیوں سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کی اور ان کے مکر و حیلہ کا پردہ فاش کیا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تحریریں گنجینہء اسرار و معارف ہیں اور ان کا ایک ایک لفظ ان کے سوز نہانی اور جذبہء ایمانی کا اظہار کرتا ہے۔

رسالت محمدی:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا اصل تجدیدی کارنامہ جس کے جلو میں سارے تجدیدی کارنامے انجام پاتے ہیں وہ نبوت محمدی اور اس کی ابدیت وضرورت پر امت مسلمہ میں اعتقاد واعتماد بحال کرنے اور مستحکم کرنے کا انقلابی کارنامہ ہے اس تجدیدی اقدام سے ان تمام فتنوں کا انسداد ہوتا ہے جو اس وقت عالم اسلام میں منہ پھیلائے اسلام کی حقانیت وصداقت کو نگلنا چاہتے تھے۔ ایران کی نقطوی تحریک نے نبوت محمدی کی بقاودوام کے خلاف بغاوت کی اور اعلان کیا کہ نبوت محمدی کا ایک ہزار سالہ دور ختم ہوا اور اب دینی راہنمائی اور زندگی کی تشکیل جدید کا وہ دور شروع ہونے والا ہے جس کی بنیاد عقلیت اور فلسفہ پر ہوگی۔ اسی فلسفہ سے متاثر ہو کر اکبر نے دین الٰہی کا اختراع کیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ رقم طراز ہیں:

> ''اس زمانے میں یہ بات میں نے دیکھی کہ خود نبوت ہی کے متعلق اور پھر کسی فرد واحد کے لیے نبوت کے اثبات کے سلسلہ میں لوگوں کے اعتقاد میں فتور آ چلا ہے۔ یہ خرابی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسلام کے وہ علماء جو شریعت کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں برداری میں جو ثابت قدم تھے قتل کر دیے گئے اور یہ حالت ہوگئی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم نام کو چھوڑا جا رہا ہے جس کا نام آپ کے نام مبارک کے نام پر ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں''

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی یہ تحریر دسویں صدی کے اواخر کی ہے جب کہ اکبر اس منحوس جماعت کی سرپرستی کر رہا تھا اور اس نے مختلف مذاہب کے ان افراد کو عبادت خانے میں جمع کیا تھا جنہوں نے اکبر کو خلیفۃ الزماں انسان کامل اور مظاہر حق کا مظہر اتم قرار دے کر معبودیت کے دائرہ میں شامل کیا تھا اور اس کے لیے ۔ ۔ ۔ تجویز کیا تھا اور رسالت محمدی اور شریعت مبارکہ کا برملا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔

ارشاداتِ عالیہ:

☆......فرائض کے مقابل نوافل کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرائض میں سے ایک فرض کا ایک وقت میں ادا کرنا ہزار سال کے نوافل کے ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ خالص نیت سے ادا ہوں اور خواہ کوئی نوافل ہوں

نماز و زکوٰۃ، روزہ، ذکر و فکر اور ان کے مثل۔

☆......مکلفین کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کو علماء اہل سنت و جماعت کی رایوں کے موافق درست کرلیں۔ کیونکہ نجات اخروی ان بزرگواروں کی صواب نما رایوں کی پیروی سے وابستہ ہے اور فرقہ ناجیہ یہی بزرگوار اور ان کے پیرو ہیں۔

☆......موت کے آنے سے پہلے اپنا کام کرنا چاہیے اور یا شوق کہتے ہوئے مرنا چاہیے۔ اول اعتقاد کی درستی سے چارہ نہیں اور جو کچھ بطریق ضرورت وتواتر دین سے معلوم ہے اس کی تصدیق ضروری ہے دوم جاننا اور عمل کرنا اس پر جو فقہ سے متعلق ہے ضروری ہے۔ سوم سلوک طریق صوفیہ بھی درکار ہے نہ اس لیے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اور انوار ورنگ دیکھیں۔

☆......صوفیوں کے اعتقادات آخر کار یعنی منازل سلوک کے پورا ہونے اور ولایت کے درجوں کی نہایت کو پہنچنے کے بعد وہی ہیں جو علمائے حق کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ علماء کو نقل یا استدلال سے حاصل ہوئے ہیں اور صوفیوں کو کشف یا الہام سے۔

☆......منازل سلوک کے قطع کرنے سے مراد مقامات عشرہ کا طے کرنا ہے اور مقامات عشرہ کا طے کرنا تجلیات ثلثہ سے وابستہ ہے۔ یعنی تجلی افعال، تجلی صفات اور تجلی ذات۔ ان مقامات میں سے سوائے مقام رضا کے سب افعال و تجلی صفات سے وابستہ ہیں۔

☆......طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کی توجہ تمام طرفوں سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف کرے۔ مرید ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑے یا پیر کے سایہ پر پڑے اور پیر کے مصلیٰ پر پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضو کی جگہ میں وضو نہ کرے اور اس کے برتنوں کا استعمال نہ کرے اور اس کے سامنے پانی نہ پیے اور کھانا نہ کھائے۔

☆......ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے جس طرح ہو سکے نہ یہ کہ ذکر کلمہ نفی و اثبات کی تکرار یا اسم ذات کے تکرار میں منحصر ہے۔ (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ: ص۲۳۴ تا۲۴۶)

(ماخوذ از: ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی: تذکرہ مشائخ عظام، شائع کردہ المجمع الاسلامی، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، ص۳۷۵۔۴۰۱)

☆......☆......☆

بسم اللّٰہ الرَّحمٰن الرَّحیم

الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی
انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرًا
ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والی
ربک فارغب

خط دیوانی

کتبہ گوہر قلم [illegible]

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

شیخ احمد سرہندی، حالات ونظریات

پروفیسر ڈاکٹر اطہر عباس رضوی
(ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ، آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، کینبرا، آسٹریلیا)
ملخصہ ومترجمہ
ڈاکٹر صفی الدین مسعودی

☆☆

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نسباً دوسرے خلیفہء راشد حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد میں فرخ شاہ کابلی علیہ الرحمۃ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمۃ کے جد امجد تھے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الاحد علیہ الرحمۃ نے شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ سے چشتیہ سلسلہ میں بیعت کی۔ شیخ عبد الاحد نے شیخ جلال تھانیسری سے بھی فیض حاصل کیا اور سلسلہء قادریہ میں سلوک کی منازل طے کیں۔

۱۴رشوال ۹۷۱ھ/ ۲۶رمئی ۱۵۶۴ء میں شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبد الاحد علیہ الرحمۃ وحدۃ الوجود کے بلند پایہ عالم تھے اور سرہند میں آپ کی خانقاہ سے فیض جاری وساری تھا[۱]۔ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں آپ سے بیعت ہوے[۲]۔ علوم نقلیہ وعلوم عقلیہ کی تلاش میں آپ نے متعدد ممتاز علماء کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا، مولانا کمال کشمیری علیہ الرحمۃ سے تحصیل علم کے لیے آپ سیالکوٹ گئے۔ آپ کے علم حدیث کے استادوں میں شیخ یعقوب کشمیری[۳] علیہ الرحمۃ بھی تھے جو شیخ حسین خوارزمی علیہ الرحمۃ اور ابن حجر عسقلانی[۴] علیہ الرحمۃ جیسے فضلا کے شاگرد تھے۔ شیخ یعقوب علیہ الرحمۃ ہمایوں بادشاہ کے دوستوں میں تھے اور اکبر بادشاہ کے دور حکومت کی ابتداء ہی سے دربار سے وابستہ رہے۔

۱۷ برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی شیخ احمد سرہندی نے حدیث اور فقہ میں کمال حاصل کرلیا تھا[۵-۶]۔ جہاں تک ابوالفضل اور فیضی سے آپ کے مراسم کا تعلق ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ احمد سرہندی شیخ یعقوب علیہ الرحمۃ کی معیت میں فتح پور سیکری گئے ہوں جہاں شیخ یعقوب علیہ الرحمۃ نے انہیں اپنے دوستوں ابوالفضل اور فیضی سے متعارف کرایا ہو ممکن ہے کہ ابوالفضل اور اس کے رفقاء نے فلسفیوں کی تعریف وتوصیف کی ہو جس پر شیخ احمد کو صدمہ ہوا ہو اور انھوں نے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی اس تحریر کا حوالہ دیا ہو کہ

''علم ریاضی کو مذہب میں فائدہ نہیں''[۷]

اس پر ابوالفضل نے امام غزالی کو ''نامعقول'' کہا جس پر شیخ احمد علیہ الرحمۃ سخت ناراض ہو گئے۔ بالآخر ابوالفضل نے شیخ احمد سے معافی مانگی اور انہیں اپنے یہاں مدعو کیا[۸]۔ قرین قیاس ہے کہ اس ملاقات کے بعد شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے ابوالفضل سے علیحدگی اختیار کرلی۔ ایک جدید مؤرخ کا یہ دعویٰ کہ شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے غیر معینہ مدت تک فتح پور سیکری یا آگرہ میں قیام کیا اور ابوالفضل کو اس کے علمی کام میں معاونت کی[۹]، شواہد سے عاری ہے۔ البتہ شیخ محمد ہاشم نے یہ لکھا ہے کہ صنعت غیر منقوط میں قرآن کریم کے ترجمہ میں شیخ احمد نے ایک مقام پر فیضی کی مدد کی[۱۰]۔

حضرات القدس میں لکھا ہے[۱۱] کہ فیضی کی سواطع الالہام کا قابل ذکر حصہ شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے تحریر کیا، جیسا کہ راقم نے ایک جگہ تحریر کیا ہے[۱۲] کسی ایک جگہ مدد تو قرین قیاس ہے مگر یہ دعویٰ کہ قابل ذکر حصہ شیخ احمد نے تحریر کیا ہے خارج از امکان ہے۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ، اکبر کے دربار میں پیغمبری، معجزات اور دیگر متنازعہ دینی عقائد پر ہونے والے آزادانہ مباحثوں سے سخت نالاں تھے۔ آپ نے خود کو اہل سنت کے عقائد کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا، آپ نے نبوت سے متعلق اہل سنت کے عقائد کی تشریح کے لیے رسالہ ''اثبات النبوۃ'' تحریر کیا۔ ۹۹۵ھ/ ۱۵۸۷ء میں آپ نے خود ایران کے شیعہ علماء کے خط کے جواب میں رسالہ ''ردالرفضہ'' تحریر کیا۔

اگست ۱۵۸۵ء میں شاہی قافلے کے آگرہ سے چلے جانے کے بعد شیخ احمد علیہ الرحمۃ آگرہ میں ہی رہے۔ یہاں آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کی طرف اپنا باطنی رجحان ظاہر کیا۔ اور خواجہ عبیداللہ کابلی علیہ الرحمۃ کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ آگرہ سے سرہند تشریف لے گئے جہاں شیخ کمال کیتھلی

علیہ الرحمۃ کے پوتے شاہ سکندر علیہ الرحمۃ نے آپ کو شیخ کمال علیہ الرحمۃ کا خرقہ قادریہ عطا کیا۔

چشتیہ سلسلے میں ہونے کے باوجود شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے ''سماع'' سے گریز کیا۔ آپ نے والد ماجد کے مریدین کی تربیت بھی کی اور خود بھی بہت سے لوگوں کو بیعت کیا تاہم روحانی شیفتگی کے حصول کے لیے حج بیت اللہ کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ لیکن والد کی ضعیف العمری کی بنا پر ۱۳؍فروری ۱۵۹۹ء / ۱۷؍رجب المرجب ۱۰۰۷ھ کو ان کی وفات تک سرہند ہی میں رہے[۱۳]۔

اوائل ۱۰۰۸ھ میں مکہ مکرمہ کے لیے عازم سفر ہوے راستے میں دہلی میں آپ کے دوست مولانا حسن کشمیری علیہ الرحمۃ نے آپ کو خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے ملاقات کا مشورہ دیا۔ ربیع الثانی ۱۰۰۸ھ/نومبر ۱۵۹۹ء میں آپ کی ملاقات خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے ہوئی[۱۴]۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے آپ کو کچھ عرصے اپنی خانقاہ میں رہنے کی دعوت دی بالآخر شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کی استدعا کی، اسی دن آپ کو معرفت اسم ذات حاصل ہوگئی۔ چند ہی دنوں میں آپ نے سلوک کے تمام مدارج طے کرتے ہوے فنا اور فناء الفناء کے مقامات طے کرلیے، تین ماہ کے عرصے میں آپ نے وہ منازل طے کرلیں جو دیگر صوفیہ کئی برسوں میں بھی طے نہ کر پائے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کو وطن واپسی کی اجازت دی اور اپنے چند مریدین بھی آپ کے ساتھ کر دیے، سال بھر بعد آپ نے دہلی میں خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے دوبارہ ملاقات کی۔

مکتوبات شیخ احمد کی جلد اول میں خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے نام آپ کے ۲۵ خطوط ہیں۔ ان مکتوبات سے شیخ احمد علیہ الرحمۃ کا تصور وحدۃ الوجود سے شیخ علاء الدولہ سمنانی علیہ الرحمۃ کے تصور ''وحدۃ الشہود'' کی طرف واضح ارتقاء محسوس و معلوم ہوتا ہے۔ شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے واضح کیا ہے کہ ''وحدۃ الشہود'' کو'' وحدۃ الوجود'' پر فوقیت ہے۔ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی وفات سے قبل شیخ احمد علیہ الرحمۃ تیسری بار دہلی حاضر ہوے جہاں ان کے پیر نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ کیونکہ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کو اپنی زندگی کی امید نہیں رہی تھی اس لیے انھوں نے شیخ احمد علیہ الرحمۃ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان سے اپنے دو بیٹوں اور ان کی والدات کو روحانی فیض عطا کرنے کی درخواست کی۔ (چنانچہ آپ نے صاحبزادگان اور ان کی والدات پر توجہ ڈالی) شیخ احمد علیہ الرحمۃ دہلی سے سرہند واپس تشریف لائے اور چند ماہ لاہور میں بھی مقیم رہے۔

خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی وفات کے بعد شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ اپنے شیخ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے تاہم ایک اہم وجہ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے دیگر تین اہم خلفاء کے مقابلے میں سجادہ نشینی کے دعوے کا معاملہ بھی تھا۔ شیخ اللہ داد علیہ الرحمۃ اور شیخ تاج الدین علیہ الرحمۃ کے مکہ مکرمہ ہجرت کر جانے اور خواجہ حسام الدین علیہ الرحمۃ کی عدم دلچسپی کے باعث شیخ احمد علیہ الرحمۃ کو اپنی برتری ثابت کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے پورے ہندوستان پر اپنی روحانی برتری کا اعلان کیا اور ''مجدد الف ثانی'' کی حیثیت سے تمام عالم اسلام کے عظیم ترین روحانی پیشوا ہوئے۔

۱۲/ جمادی الثانی ۱۰۱۴ھ/ ۱۵/ اکتوبر ۱۶۰۵ء کو اکبر کی بے وقت موت سے شیخ احمد علیہ الرحمۃ کو ہندوستان میں خالص اسلام کے نفاذ کی امید ہوئی۔ ان کی بصیرت نے یہ محسوس کیا کہ وہ امراء، جو خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی حیات میں سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہوئے ان کے ذریعے یہ انقلاب ممکن ہوگا۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے اپنی تحریروں میں بیان کیے گئے روحانی مکاشفات اور تصورات میں پائے جانے والے تضادات کی خود نشاندہی کی ہے اور اسے وقت اور حالات کے تقاضا اور نتیجہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق دراصل یہ تضاد ہی نہیں بلکہ یہ ویسا ہی فرق ہے جیسے مختلف حالات کے تقاضوں کے مطابق شریعت کے مختلف فقہوں میں فرق ہوتا ہے[15]۔ شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ جیسے عالم اور صوفی نے ان تضادات پر شیخ احمد علیہ الرحمۃ سے استفسار کیے ہیں[16]۔ تاہم یہ استفسارات آپ کے مکاشفات کی تفصیلی جزئیات اور ''وحدۃ الشہود'' کے تصورات تک محدود رہے بنیادی طور پر آپ کے نظریات اور عقائد غیر متزلزل رہے۔

علماء اور صوفیاء کے درمیان نظریاتی اختلاف کے معاملے میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ علماء کو صحیح مانتے تھے[17]۔ تاہم شیخ احمد علیہ الرحمۃ کا یہ دعویٰ تھا کہ علماء کے ظاہری علم کے مقابلے میں صوفیاء کے باطنی علم کو فوقیت حاصل ہے۔ انھوں نے اساتذہ کی درجہ بندی کی جس کے مطابق مرشدین طریقت، علماء سے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ علماء دین، دنیاوی علوم کے اساتذہ سے برتر ہیں۔ ظاہری علم پڑھانے والوں میں فقہ اور کلام کے اساتذہ کا درجہ صرف ونحو کے اساتذہ سے برتر ہے جب کہ صرف ونحو کے اساتذہ فلسفہ کے اساتذہ سے برتر ہیں[18]۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے یہ واضح کیا کہ کوئی صوفی یا ولی اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر روحانیت کے اعلیٰ درجات طے نہیں کر سکتا، ان کے مطابق کمال ولایت، کمال نبوت کے سمندر کے سامنے ایک

قطرے کی مانند ہے۔ پیغمبر، فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور ولایت کسی بھی لحاظ سے پیغمبری سے برتر نہیں ہو سکتی [۱۹]۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے روحانیت کے تین درجات بیان کیے۔ ولایت، شہادت، صدیقیت۔ ولایت ایک صوفی کی ترقی کا ابتدائی درجہ ہے جس میں وہ سکر کی کیفیت میں ہوتا ہے اور صحو سکر کے ماتحت ہوتا ہے۔

دوسرا درجہ شہادت کا ہے جس میں صحو سکر پر حاوی ہو جاتا ہے سب سے بلند درجہ صدیقیت ہے جس کے اوپر صرف نبوت کا درجہ ہے۔ صدیقیت اور نبوت میں سکر کا کوئی دخل نہیں لہٰذا ان درجات میں ہونے والے روحانی مکاشفات و معاملات شریعت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ صدیق کو تمام علوم ''الہام'' کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جبکہ پیغمبر کو فرشتے کے ذریعے وحی سے۔ صدیق مقام نبوت کی اتباع کی بنا پر ہے جبکہ نبی کا علم حتمی اور امت کے لیے شریعت کا حکم رکھتا ہے [۲۰]۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ کو یقین تھا کہ وہ درجۂ ولایت سے گزر چکے ہیں اور درجۂ شہادت پر قایم ہو چکے ہیں جبکہ درجۂ صدیقیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ روحانی ترقیاں انہیں سلسلۂ نقشبندیہ کے امتیاز کی بنا پر حاصل ہوئیں جس میں صوفیانہ روایات شجرہ، دستار اور مراقبہ سے زیادہ صحبت شیخ اہم ہوتی ہے [۲۱،۲۲]۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ کے مطابق سلسلۂ نقشبندیہ کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے روحانی فیوض و برکات جاری ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ والد کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور والدہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ پس سلسلۂ نقشبندیہ میں طریقت علی کرم اللہ وجہہ جس کی بنیاد علوم کی کثرت پر ہے اور طریقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کی بنیاد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کا امتزاج موجود ہے۔

شیخ احمد علیہ الرحمۃ کے مطابق سلسلہ نقشبندیہ کو اس لیے بھی یہ امتیاز حاصل ہے کیونکہ اس میں نظریہ ''وحدۃ الوجود'' کی تشریح تنزیہ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اور ''وحدۃ الوجود'' سے ''وحدۃ الشہود'' کی جانب عروج حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ''ہمہ اوست'' اور ''ہمہ از اوست'' کے لفظی معنی مختلف ہیں لیکن حقیقی مفہوم ایک ہی ہے۔ صوفیاء جب ہمہ اوست کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اظہار کی

مختلف شکلیں ہیں لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ اظہار کی یہ صورتیں خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہی مفہوم علماء کے ''ہمہ اوست'' کا ہے۔ اس معاملے میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ، علماء کے ہم خیال ہیں جن کے نظریے کی بنیاد تنزیہ پر ہے[٢٣]۔

تصوف میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ کے نظریہ ''وحدۃ الوجود'' کی ترویج سے یہ خیال راسخ ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہزار سال کے مجدد کے طور پر فائز کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن سنی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر صدی میں خالص سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک مجدد بھیجے گا، جن میں سب سے آخری حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے[٢٤]۔

شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کو انتہائی اہم فرائض انجام دینے تھے۔ یہ پہلے ہزار ہجری سال کا اختتام تھا اور اکبر کا دور حکومت جب حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے روحانیت کو ایک نیا رخ دیا۔ اپنے بڑے صاحبزادے محمد صادق کو ایک مکتوب میں آپ نے لکھا کہ:

> ''خاتم النبیین کی تشریف آوری سے پہلے دو عالم کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء بھیجے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو وہی رتبہ دیا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا لہٰذا ہر صدی کے اختتام پر شریعت کو زندہ کرنے کے لیے ایک مجدد بھیجا گیا۔ اسی طرح ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر ہزار سال کے آخر میں ایک جلیل القدر پیغمبر بھیجا گیا''

شیخ احمد علیہ الرحمۃ کے مطابق پچھلے ایک ہزار سال کے دوران کوئی عالم اور صوفی ایسا نہیں تھا جس نے روحانی اور دیگر شرعی علوم کی اتنی ترویج کی ہو جتنی انھوں نے خود کی۔ اس بات سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ شیخ احمد کو یہ یقین تھا کہ وہی دوسرے ہزار ہجری سال کے مجدد ہیں[٢٥]۔

اپنے خلیفہ میر محمد نعمان کے نام ایک مکتوب میں آپ نے لکھا کہ:

''دوسرے ہزار سال میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ مجدد ہزارہ دوم کے ذریعے ہی ممکن ہے[٢٦] اور اقطاب، اوتاد، ابدال اور نقبا بھی اسی مجدد سے فیض حاصل کرتے ہیں''[٢٧]

شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے اپنے خلیفہ شیخ محمد ہاشم کشمی کو مطلع کیا کہ وقت کے جلیل القدر عالم اور روحانی ـرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمۃ نے انہیں (شیخ احمد کو) ''مجدد الالف الثانی'' کے طور پر مخاطب کیا[۲۸]۔

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے مجدد ہزارہ دوم ہونے کے اعلان سے اس دور کے علماء اور درباری عہدیداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ چنانچہ جہانگیر نے اپنے دور حکومت کے چودھویں سال (۱۶۱۹ء) آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے نام مکتوب میں آپ نے جن روحانی مدارج کا تذکرہ کیا تھا ان کی وضاحت طلب کی[۲۹]۔ شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے تمام الزامات کا تسلی بخش جواب دیا تاہم جہانگیر کے مطابق آپ کے جوابات اطمینان بخش نہیں تھے اور اس نے عوامی اضطراب کو مدھم کرنے کے لیے انی رائے سنگھ دالان کی تحویل میں دے کر آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کرا دیا[۳۰]۔ آپ کی اسیری نے آپ کے خاندان اور خلفاء کو بے چین کر دیا اگرچہ آپ نے بڑے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ جہانگیر نے اپنے دور حکومت کے پندرہویں برس شیخ احمد علیہ الرحمۃ کو خلعت اور ہزار اشرفیاں دے کر رہا کر دیا۔ جہانگیر نے آپ کو شاہی دربار میں رہنے یا واپس سرہند جانے کا اختیار دیا بقول جہانگیر آپ نے اپنی اسیری کو نعمت قرار دیا اور شاہی قافلہ میں رہنا پسند کیا[۳۱]۔ (جہاں گیر کا یہ قول کہ شیخ احمد سرہندی نے قافلہ میں رہنا پسند کیا، مکتوبات شریف سے ثابت نہیں ہوتا) ایک روایت کے مطابق شیخ احمد علیہ الرحمۃ نے اپنی اسیری کو رحمت قرار دیا کیونکہ اس دوران انھوں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا[۳۲]۔ تقریباً تین برس تک شیخ احمد علیہ الرحمۃ شاہی دربار میں رہے اس دوران ان کا وقت تبلیغ و ارشاد اور وعظ و نصیحت میں گزرا، ایسی محافل میں بسا اوقات جہانگیر بادشاہ بھی شریک ہوتا تھا۔ شیخ احمد علیہ الرحمۃ کے مریدین اور خلفاء اس بات پر مسرور تھے کہ پورا شاہی قافلہ ہی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا تھا[۳۳]۔ شاہی دربار میں بے راہ روی کا قلع قمع ہو گیا اور نظام اہل سنت کی ترویج ہو سکی۔

اپنے دور حکومت کے اٹھارہویں برس (۴-۱۶۲۳ء) جہانگیر نے اپنی پچپن ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے وزن کے برابر سونا اور جواہرات لوگوں میں تقسیم کیے جن میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ بھی شامل تھے[۳۴]۔ (اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کی نظر میں آپ کی عزت و وقار تھا۔ شیخ احمد علیہ الرحمۃ وصال سے تقریبا چھے ماہ قبل ۱۰۳۳ھ/۱۶۲۳ء میں شاہی دربار سے سرہند تشریف لے گئے اور خلوت گزیں ہو گئے) ۲۸،

صفر المظفر ۱۰۳۴ھ/ ۱۰؍دسمبر ۱۶۲۴ء شیخ احمد کا وصال ہو گیا ۳۵۔

* * *

ماخذ و مراجع:

۱ زبدۃ المقامات، ص ۸۸۔۱۶۸، حضرات القدس، دفتر دوم ص ۲۷۔۳۱

۲ مولانا کمال کا تعلق کشمیر کے ایک مشہور اہل علم خاندان سے ہے ان کے بھائی ملا جمال سیالکوٹ میں فاضل استاد تھے۔ شیخ کمال کشمیری سلسلہ ء نقشبندیہ میں عبد الحکیم سیالکوٹی کی وساطت سے داخل ہوے۔ شیخ کمال نے ۱۰۱۷ھ/ ۹۔۱۶۰۸ء میں وصال فرمایا اور سیالکوٹ میں مدفون ہوے (واقعات کشمیر، ص ۱۱۹۔۱۲۵)

۳ سید اطہر عباس رضوی: ہسٹری آف صوفی ازم ان انڈیا، ج۔ اول، ص ۲۹۷۔۲۹۸
ریلیجس اینڈ انٹلیکچول ہسٹری آف مسلمز، ص ۱۸۹۔۱۹۰

۴ زبدۃ المقامات، ص ۱۲۷۔۱۲۸

۵ حضرات القدس، دفتر دوم، ص ۳۲

۶ زبدۃ المقامات، ص ۱۲۱

۷ المنقذ من الضلال، بیروت ۱۹۵۹ء، ص ۱۸، ۲۰۔۲۷

۸ زبدۃ المقامات، ص ۱۳۱۔۱۳۲

۹ یوحنا فریڈمین: شیخ احمد سرہندی، مکگل یونیورسٹی ۱۹۷۱ء، ص ۱۳

۱۰ زبدۃ المقامات، ص ۱۳۲

۱۱ حضرات القدس، دفتر دوم، ص ۳۳

۱۲ سید اطہر عباس رضوی: مسلم ریوائیولسٹ موومنٹ، ص ۲۵۷

۱۳ زبدۃ المقامات، ص ۱۳۷

۱۴ احمد سرہندی: مبداء و معاد، کانپور ۱۳۵۹ھ ۱۹۰۲ء، ص ۶

۱۵ مبداء و معاد، ص ۵۵۰

۱۶ مکتوبات شیخ عبد الحق بنام شیخ احمد سرہندی

۱۷ مبداء و معاد، ص ۳۱

۱۸ ایضاً، ص ۳۷۔۳۸

۱۹ مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب ۲۶۵، ۲۹۱

۲۰ معارف لدنیہ، مخطوطہ تاشقند، ورق۔ (۶۵-b)

۲۱ مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب ۲۹۵

۲۲ مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب ۱۸

۲۳ شرح رباعیات، مخطوطہ تاشقند، اوراق ۷۲ab

۲۴ سنن ابی داؤد، جلد دوم قاہرہ ۱۹۵۱ء، ص ۵۱۸

۲۵ مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب ۲۳۴

۲۶ ایضاً، جلد اول، مکتوب ۲۶۱

۲۷ ایضاً، جلد دوم، مکتوب ۴

۲۸ زبدۃ المقامات، ص ۱۷۶، مسلم ریوائیولسٹ موومنٹ، ص ۲۶۵

۲۹ مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب ۱۱

۳۰ مسلم ریوائیولسٹ موومنٹ، ص ۲۸۶، ۲۹۶

۳۱ تزک جہانگیری، ص ۳۵۸، مسلم ریوائیولسٹ موومنٹ، ص ۲۹۶

۳۲ معارج الولایت، مخطوطہ اوراق، ۵۸۷ab

۳۳ مکتوبات امام ربانی، جلد سوم، مکتوب ۴۳، ۷۲، ۱۰۶، مسلم ریوائیولسٹ موومنٹ، ص ۳۵۴، ۳۵۶

۳۴ تزک جہانگیری، ص ۳۷۵

۳۵ زبدۃ المقامات، ص ۲۸۲، ۲۶۵، حضرات القدس، ص ۲۱۲، ۲۱۹

* * *

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين

[illegible]

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ایک مردِ حق آگاہ

(مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ..... حیات و خدمات)

ڈاکٹر عبدالوارث خاں

(جامعہ ملیہ، نئی دہلی)

☆☆

زندگی کی راہ پانے کے لیے انسان ہمیشہ خدا کی رہنمائی کا محتاج رہا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، لیکن انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں کوئی ان کے ساتھ شریک ہوکر اپنے قول وعمل سے ان کی تربیت و رہنمائی کرے اور ان کے اندر اتباع حق کا جذبہ پیدا کرے۔ انسانوں کی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے خدا نے کتاب کے ساتھ رسول بھی بھیجے جنہوں نے لوگوں کے سامنے کتاب اللہ کے مفہوم کو واضح کیا اور انسانوں کی رہنمائی کی۔ ہندوستان بھی ان نفوس قدسیہ سے محروم نہ رہا۔

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ اپنے فرزند جلیل خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

> ''یہاں تک کہ سرزمین ہند میں بھی پیغمبر مبعوث ہوے ہیں اور صانع
> جل شانہٗ کی طرف دعوت فرمائی ہے اور ہندوستان کے بعض شہروں
> میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کے انوار شرک کے اندھیروں میں مشعلوں
> کی طرح روشن ہیں''[1]

ہندوستان کی سرزمین صوفیائے کرام اور بزرگان دین کی دعوتی سرگرمیوں کا بھی مرکز رہی ہے۔ ملک کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی سلسلے کے صوفی درویش نہ پہنچے ہوں۔ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور

سہروردیہ سلسلوں کے مشائخ ودیگر بزرگوں نے اس ملک کو اپنی دینی وتبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور بندگان خدا کے اندر مذہب اسلام کی شمع روشن کی اور مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا۔ ان بزرگوں میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ کی ذات گرامی عالم اسلام اور بالخصوص ہندوستان کے لیے باعثِ افتخار ہے۔

تعارف:

آپ کا نام احمد، لقب مدر الدین اور کنیت ابوالبرکات ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۹۷۱ھ/ ۱۵۶۴ء میں مشرقی پنجاب کے قصبہ سرہند میں ہوئی۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی نے لکھا ہے کہ خردسالی میں آپ علیل ہوگئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری کے پاس لے گئیں اور دعا کی درخواست کی۔ شاہ کمال نے فرمایا:

> ''پریشان خاطر نہ ہو یہ بچہ عمر پائے گا اور خلق خدا اس سے فیض یاب ہوگی''[۲۰۰]

آپ کا سلسلۂ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور کم عمری میں حافظ قرآن ہوگئے۔ تفسیر، فقہ اور دوسرے علوم ظاہری وباطنی کی تعلیم علامہ کمال الدین کشمیری، شیخ یعقوب صرفی اور قاضی بہلول بدخشانی وغیرہ سے حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالاحد کو شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے بیعت کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے آپ نے چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ سلسلہ کی خلافت شیخ رکن الدین سے حاصل کی۔

سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا بیان ہے کہ:

> ''شیخ احمد کابلی قدس سرہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا وطن سرہند ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے مرید ہیں اور قادریہ و چشتیہ مشائخ سے بھی اجازتِ ارشاد حاصل ہے، وہ صاحب ریاضت و مجاہدہ تھے، اواخر احوال میں آپ پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی کہ وہ اپنے مرتبے کو خلفائے راشدین کے مرتبہ سے زیادہ سمجھتے ہیں لیکن یہ

> بات خالص افتراء ہے'' ۳

آپ نے آگرہ میں فیضی کی تفسیر ''سواطع الالہام'' میں تعاون دیا۔ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے خلیفہ اور شاگرد مولانا بدرالدین سرہندی نے ''حضرات القدس'' میں لکھا ہے:

> ''آپ نے تفسیر غیر منقوطہ کی تحریر میں فیضی کو بڑی مدد دی اور تفسیر کا ایک حصہ لکھ کر دیا تھا'' ۴

لیکن شیخ احمد سرہندی نے ابوالفضل اور فیضی کے گمراہ کن افکار وخیالات پر بے باک تنقید کی اور اختلافات کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرلی۔ خواجہ محمد ہاشم کشمی زبدۃ المقامات میں لکھتے ہیں:

> ''ابوالفضل نے امام غزالی علیہ الرحمۃ کی شان میں گستاخی کی جس کی وجہ سے آپ نے اس سے یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کرلی کہ اگر ہم جیسے اہل علم سے تم کو ملنے کا شوق ہے تو ایسے دور از ادب الفاظ سے اپنی زبان کو روکو'' ۵

فیضی سے اختلاف کے بعد آپ سرہند چلے گئے مولانا احسان اللہ گورکھپوری، سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی علیہ الرحمۃ میں لکھتے ہیں:

> ''حضرت مجد: عرصے تک اکبر آباد میں رہے آپ کے والد مخدوم عبدالاحد آئے اور اپنے ساتھ سرہند واپس لے گئے۔ واپسی پر شیخ سلطان کی لڑکی سے حضرت مجد: کا عقد ہوا کہا جاتا ہے کہ اس عقد کی بابت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ سلطان کو خواب میں علم ہوا تھا۔ اس عقد سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی مالی حالت اچھی ہوگئی اور ایک نئی حویلی آپ نے اپنے لیے سرہند میں بنوائی'' ۶

حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت اور روحانی ارتقاء:

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے دوران سفر حج ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلہ کے بانی خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے دہلی میں ملاقات کی اور بیعت ہو کر نقشبندیہ سلسلہ اختیار کیا رودِ کوثر میں شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

> ''حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی تمام عمر میں تین بزرگوں سے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے ایک ان کے والد بزرگوار تھے دوسرے خواجہ باقی باللہ قدس سرہ تیسرے شیخ یعقوب صرفی کشمیری۔ موخر الذکر کا بھی ان کی علمی و روحانی زندگی میں ایک اہم مقام ہے''۷

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ اپنے مرشد سے ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہیں:

> ''آپ والد کی وفات کے بعد حج کے ارادے سے گھر سے نکلے راستے میں دہلی تھی جب آپ وہاں پہنچے تو مولانا حسن کشمیری کے ایک شاگرد جو آپ کے دوستوں اور حضرت خواجہ کے مخلصوں میں سے تھے آپ سے حضرت خواجہ سے محبت کا اظہار کر کے ملاقات کی تحریک کی اور آپ کے ہمراہ حضرت خواجہ کی خدمت عالیہ میں اواخر ربیع الثانی ۱۰۰۸ھ دسمبر ۱۵۹۹ء کے وسط میں پہنچے۔ حضرت خواجہ صاحب نے آپ سے خلاف عادت خانقاہ شریف میں چند دن قیام کرنے کے لیے کہا آپ نے ایک ہفتہ قیام کا وعدہ کیا لیکن رفتہ رفتہ دو ڈھائی مہینے کی نوبت پہنچ گئی اور رجب کا مہینہ آ گیا''۸

تیسری ملاقات میں مرشد خواجہ باقی باللہ (م۔ ۱۰۱۲ھ) نے آپ کو خلعت وخلافت عطا فرما کر اپنے فرزندوں کو تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے سپرد کر دیا حالانکہ شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے پہلی ہی ملاقات میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ باکمال صحبت بلندیوں تک لے جائے گی چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ محمد ہاشم کشمی سے فرمایا:

> ''جس روز سے فقیر نے اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں تعلیم طریقت حاصل کرنی شروع کی اسی روز مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھ کو راہ طریقت کی معراج تک پہنچا دے گا ہر چند کہ اپنے اعمال و احوال پر نظر جاتی تو اس یقین کی نفی کرتا مگر چین نہیں آتا اور زبان پر اکثر یہ شعر رہتا:

ازیں نورے کہ از تو بردلم تافت
یقیں دانم کہ آخر خواہمت یافت [۹]

شیخ احمد سرہندی اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ کے فیض روحانی کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں:

> ''اس فقیر کو یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد اس قسم کی صحبت اور تربیت وارشاد ہرگز کہیں نہیں دیکھی گئی ہوگی فقیر اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف نہیں ہوا لیکن اس صحبت کی سعادت سے محروم بھی نہیں رہا'' [۱۰]

جس طرح حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کو پہچانا اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ نے شیخ مجدد کو پہچانا لہٰذا خواجہ باقی باللہ نے کابل سے دہلی جاتے وقت راستے میں سرہند سے گزرنے کے دوران جو مشاہدہ کیا اس کا ذکر شیخ احمد سرہندی سے اس طرح فرمایا:

> ''فقیر نے دیکھا کہ ایک بڑا چراغ روشن کیا گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی بڑھتی گئی لوگ ہزاروں چراغ اس سے روشن کر رہے ہیں حتیٰ کہ میں سرہند کے قریب پہنچا تو وہاں کے دشت ودر کو چراغوں سے منور پایا یہ اشارہ بھی تمہاری ہی طرف تھا'' [۱۱]

ایک دوسری جگہ خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے آپ کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی:

''ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک ایسا روشن چراغ بن جائیں گے جس سے جہان روشن ہوں گے۔ الحمد للہ! ان کے احوال کامل کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہوگیا ہے'' [۱۲]

ایک دوسری جگہ اس سے بھی بڑی بات خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں:

''میاں شیخ احمد! ایک آفتاب ہیں کہ ہم جیسے بہت سے تارے ان کی روشنی میں گم ہیں'' [۱۳]

مکتوبات ایک تعارف:

صوفیہ ومشائخ نے بیعت وارشاد کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ملفوظات بھی لکھوائے۔ اسلامی شریعت سے روشناس کرانے کے لیے ہدایات بھی قلم بند کرائیں اور جن لوگوں سے دوری کی وجہ سے

ملاقات ممکن نہ تھی انھیں خطوط بھیج کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ مکتوبات کے حوالے سے صوفیا، کرام اور بزرگوں میں شیخ احمد سرہندی بہت مشہور ہیں۔ یہ مکتوبات دراصل فارسی زبان میں ہیں مگر ان کی سماجی افادیت کے پیش نظر دوسری زبانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

شیخ اکرام نے اپنی کتاب رودِ کوثر میں ان مکتوبات کے متعلق تفصیلات پیش کی ہیں وہ لکھتے ہیں:

> ''مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی زندگی ہی میں مرتب ہو گئے تھے ان کی تین جلدیں ہیں۔
>
> دفتر اول: جسے درالمعرفت بھی کہتے ہیں، ۳۱۳ خطوط پر مشتمل ہے۔ اسے خواجہ یار محمد بدخشی نے ۱۶۱۶ء میں یعنی محبوسی سے تین سال قبل ترتیب دیا ہے۔ یہ مجموعہ سب سے مفصل ہے۔
>
> دفتر دوم: جس کا تاریخی نام نور الخلائق ہے ۱۶۱۹ء میں یعنی واقعہ قید سے ذرا پہلے مرتب ہوا جسے خواجہ عبدالحی نے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے ایما پر جمع کیا۔ ان میں صرف ۹۹ خطوط ہیں، لیکن ان میں بعض بڑے طویل اور مفصل ہیں۔
>
> دفتر سوم: جو معرفت الحقائق کے نام سے مشہور ہے جس کی ترتیب میر محمد نعمان نے شروع کی لیکن انھوں نے صرف تیس کے قریب مکاتیب جمع کیے تھے باقی کو خواجہ محمد ہاشم کشمی برہانپوری نے ۱۶۲۲ء میں نقل کیا ہے۔''[۱۴۰]

مکتوبات امام ربانی نے ہر دور میں لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا کام کیا ہے۔ تاج الفحول نمبر میں

ہے:

> ''امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے مکتوبات جس میں دریافت طلب امور کا شریعت حقہ کی روشنی میں تفصیلی جواب دیا گیا ہے دو ضخیم جلدوں میں ہیں یہ مکتوبات کئی حصوں پر مشتمل ہیں جن میں مختلف دینی امور سے متعلق سیکڑوں خطو ہیں۔ ان خطوط کی علمی

> وادبی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ زبان وادب کے طالب علم اور متلاشیان دین ہر دور میں اس سے استفادہ کرتے رہیں گے‘‘ ۱۵

شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات کے ذریعہ جس طرح بندگان خدا کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صوفی عبدالستار طاہر لکھتے ہیں:

> ‘‘دور اکبری و جہانگیری میں ہزاروں کی اصلاح ہوئی وہ مومن صادق بنے۔ ہزاروں لوگ قشقہ و دیر سے تائب ہوکر داخل اسلام ہوے اور آج تک اس کا فیض جاری وساری ہے‘‘ ۱۶

مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں:

> ‘‘تصوف اسلام کے ذخیروں میں سب سے زیادہ اثر میرے اوپر دو ہی کتابوں کا پڑا ہے۔ نمبر اول پر مثنوی ہے جس نے دہریت والحاد سے کھینچ کر مجھے اسلام کی راہ دکھائی اس اجمال کے بعد ضرورت تفصیل کی تھی یعنی اسلام کے اندر عقائد واعمال میں متعین راہ کون سی اختیار کی جائے۔ اس باب میں شمع ہدایت کا کام مکتوبات ہی نے دیا‘‘ ۱۷

ان مکتوبات میں مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے نام نہاد صوفیاء کے گمراہ کن افکار وخیالات اور خلاف سنت طریقوں ورسم ورواج، درباری علماء سو کی ذاتی مفاد پر مبنی اسلام مخالف دشمنی جس کے نتیجے میں امراء اور خاص کر عہد اکبری و جہانگیری کی (ابتدائی حصہ میں) مخالفت، مذہب سے بیزاری اور اہل سنت والجماعت کے خلاف محاذ آرائی کا بڑا خوش اسلوبی سے احاطہ کیا ہے، خاص کر دین الٰہی کا وہ فتنہ جو درباری علماء کی ذہنی اختراع اور سلطان کو خوش کرنے کی مذموم کوشش تھی۔ آپ نے ان مکتوبات کے ذریعہ ملت اسلامیہ کا جس طرح تحفظ کیا ہے اس کے پیش نظر ان مکتوبات کی دینی وسماجی اہمیت سے ملت اسلامیہ کو عموماً اور صوفیائے کرام کو خصوصاً متعارف کرایا جائے۔

اکبری عہد حکومت اور شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی کوششیں:

مغل فرماں روا اکبر نے اپنے درباری علمائے سوء کے مشورے سے ایک نئے مذہب دین الٰہی کی

بنیاد رکھی تو شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے حالات کا جائزہ لیا اور اس ملحدانہ تحریک کے مقابلے کے لیے وسیع پیمانے پر تحریک چلائی۔ اصلاح معاشرہ اور اشاعت اسلام کے لیے اپنے خلفاء و مریدین کو ملک کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ اعیان مملکت، فوج کے اعلیٰ افسروں اور ریاست کے امراء و گورنروں کو خطوط کے ذریعہ احیائے اسلام اور نفاذ شریعت کی دعوت دی اور بدعات وخرافات کے خاتمہ کے لیے علماء ومشائخ کو لکھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب تذکرہ میں شیخ مجدد کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''شہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جہانگیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علماء ومشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ کیسے کیسے اکابر موجود تھے؟ لیکن مفاسد وقت کی اصلاح وتجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا صرف مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کا وجود گرامی ہی'' تن تنہا'' اس کاروبار کا کفیل ہوا''[۱۸]

حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے مغل بادشاہ اکبر کے عہد میں اپنی تحریری اور تبلیغی کوششوں کا آغاز کیا۔ یہ ظلم وستم کا دور تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ اسلام اور اسلامی شعائر کے متعلق کچھ کہہ سکے۔ ایک اطالوی سیاح ''مینوکی'' نے لکھا ہے:

> ''میں نے دیکھا ایک سڑک کے دونوں طرف درختوں پر مقتولوں کی گردنیں لٹکی ہوئی ہیں''[۱۹]

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے خسر شیخ سلطان بھی اسی زمانہ میں شہید کیے گئے ایک مکتوب میں ان ناگفتہ بہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں:

> ''بعض تکلیفیں لوگوں کی طرف سے اس فقیر پر گزریں اور انھوں نے بہت ظلم وستم کیے اور فقیر سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کو ناحق طور پر ان لوگوں نے برباد اور جلاوطن کر دیا''[۲۰]

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ان ایذا رسانیوں کے باوجود مسلسل جد وجُہد فرماتے رہے اپنی دعوتی سرگرمیوں میں حائل ان مشکلات کا آپ نے جس اولوالعزمی سے مقابلہ کیا ہے اس سے آپ کی ہمت مردانہ اور جرأت مومنانہ کا پتا چلتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس الحاد کا تھا جو دین

الٰہی کے نام سے ہندوستان میں فروغ پا رہا تھا۔

عہد اکبری میں دین الٰہی کے نام پر اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی مذموم کوشش جاری تھی اور شعائر اسلام کو ختم کرنے کی منصوبہ بند جدوجہد ہو رہی تھی۔ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جگہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا، گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، خنزیر ناپاک و نجس نہ رہا، شراب و جوا عام ہو گیا، پردہ پر پابندی لگا کر عورتوں کو بے حجاب کر دیا گیا، سجدۂ تعظیمی کو لازمی قرار دیا گیا، مساجد شہید اور مدارس بند کر دیے گئے اس سلسلے میں روضۃ القیومیۃ کے مصنف خواجہ محمد احسان مجددی رقم طراز ہیں:

> ''اکبر نے اسلام سے منحرف ہونے کے بعد چہل تن مجلس قایم کی۔ یہ مجلس ہر مسئلہ کو اپنی ناقص عقلوں کی سان پر چڑھاتی اگر کوئی مسئلہ ان کی عقل میں آتا تو اسے دین الٰہی کا حصہ بنا لیا جاتا ورنہ بازیچۂ اطفال قرار دے دیا جاتا، غسل جنابت ساقط کر دیا گیا، انسان کی منی کو خلاصۂ انسانیت قرار دیا گیا، تجہیز و تکفین کو ایک فرسودہ رسم قرار دیا گیا، ساری مملکت میں شراب نوشی کی عام اجازت دے دی گئی۔ ملا عبد القادر بدایونی نے ایسے علماء و قاضیوں کے نام لکھے ہیں جو کثرت شراب نوشی سے مر گئے تھے۔ نکاح کے معاملے میں یہ نعرہ عام تھا ''خدا یکے وزن یکے'' شیطان پورہ کی تعمیر کی گئی، جس میں زنا کی اجازت عام تھی، سود حلال کر دیا گیا، ایک درباری عالم قاضی عبد السمیع نے رشوت لینا فرض قرار دے ڈالا، داڑھی منڈانے کا عام رواج ہو گیا''[۲۱]

اکبر نے مذہب اسلام، اسلامی تعلیمات اور شعائر اسلام کو فرسودہ قرار دے کر اسلام اور مسلمانوں کی اپنی جداگانہ شناخت کو ختم کر کے ایک ہی لڑی میں پرونے کے لیے تمام مذاہب کی تعلیمات کو ملا کر ایک نئے مذہب دین الٰہی کی بنیاد رکھی تا کہ وحدت ادیان کے نظریہ کو مستحکم کیا جا سکے۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ وحدت ادیان کا تصور صرف سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان اپنی جداگانہ شناخت رکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد

ہیں اور اجتماع ضدین محال ہے کیونکہ ایک کا قریب ہونا اور قایم کرنا دوسرے سے دور ہونے کا سبب بنے گا ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

> ''حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغمبر کا دشمن قرار دیا ہے اس لیے خدا اور اس کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد اور محبت بڑا گناہ ہے''۲۲

ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمان ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلام جاری کرنے سے عاجز اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے قاصر تھے۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ ایک امیر کو اپنے مکتوب میں بادشاہ کی اصلاح کے لیے زبانی جہاد کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''سبحان اللہ وبحمدہ! کہا گیا ہے شریعت زیر شمشیر ہے اور شریعت کی رونق و صفا بادشاہوں کے دم سے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ افسوس صد افسوس۔ آج تمہارے وجود کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور سوائے تمہارے کوئی مرد میدان اس میدان میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے طفیل آپ کا حامی و مددگار رہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دیوانہ نہ کہا جائے۔ اس وقت دیوانگی جس کی بنیاد اسلامی غیرت و حمیت پر ہوتی ہے آپ ہی کی فطرت میں نظر آتی ہے۔ یہ زبانی جہاد جس کا موقع تمہیں آج میسر ہے بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ جہا کے طالب رہو۔ یہ زبانی جہاد تلوار کے جہاد سے افضل ہے۔ ہم جیسے بے دست و پا (جس کی بادشاہ تک رسائی نہیں) اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے تم کو اس خزانے کا پتا دے دیا ہے اگرچہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکا تو شاید تم ہی اس کو پالو''۲۳

عہد جہانگیری میں سلطنت کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کی جدوجہد:

اکبر بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو امام ربانی علیہ الرحمۃ نے احیائے اسلام کے اپنے مشن کو اور تیز کر دیا اور دربار کے مقربین وحکومت کے اہم اراکین وعمائدین مثلاً شیخ فرید بخاری، جبار خاں، حکیم فتح اللہ اور خان خاناں وغیرہ کو مکتوبات اور ملاقاتوں کے ذریعہ بادشاہ کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ دربار جہانگیری کے ایک مقرب شیخ فرید تجاری کے نام ایک مکتوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

> ''بادشاہ کی عالم سے وہی نسبت ہے جو دل کو بدن سے ہے اگر دل صحیح وصالح ہے تو بدن بھی صحیح وسالم ہوگا اور اگر وہ فاسد ہے تو بدن بھی فاسد ہوگا۔ بادشاہ کا صلاح عالم کا صلاح ہے اور اس کا فساد عالم کا فساد ہے۔ آج جبکہ اسلام کے غلبہ واقبال سے جو چیز مانع تھی، اس کے دور ہو جانے اور بادشاہ اسلام کے سریر آرائے سلطنت ہونے کا مژدہ خاص وعام کے کانوں تک پہنچا ہے۔ اہل اسلام نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ بادشاہ کے مدد ومعاون بنیں اور شریعت کی ترویج اور ملت کی تقویت کا راستہ دکھائیں۔ یہ امداد وتقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ ہاتھ سے جس قسم کی بھی ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ سب سے بڑھ کر مدد یہ ہے کہ کتاب وسنت اور اجماع امت کے طریقہ پر شرعی مسائل کو بیان کریں اور عقائد کلامیہ کو ظاہر کریں تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں آکر بادشاہ کو راستہ سے نہ بہکا دے اور کام خراب نہ کر دے۔ امید ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کا قرب پورے طور پر بخشا ہے تو خلوت وجلوت میں اور پوشیدہ وعلانیہ شریعت محمدی کو رواج دینے میں آپ پوری کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت وخواری سے نکالیں گے''[۲۴]

مفتی صدر جہاں جو جہانگیر کے بچپن میں تعلیم کے نگراں بھی رہے اور عہد اکبری میں منصب صدارت

ہیں اور اجتماع ضدین محال ہے کیونکہ ایک کا قریب ہونا اور قایم کرنا دوسرے سے دور ہونے کا سبب بنے گا ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

> ''حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغمبر کا دشمن قرار دیا ہے اس لیے خدا اور اس کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد اور محبت بڑا گناہ ہے''۲۲

ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمان ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلام جاری کرنے سے عاجز اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے قاصر تھے۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ ایک امیر کو اپنے مکتوب میں بادشاہ کی اصلاح کے لیے زبانی جہاد کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''سبحان اللہ وبحمدہ! کہا گیا ہے شریعت زیر شمشیر ہے اور شریعت کی رونق وصفا بادشاہوں کے دم سے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ افسوس صد افسوس۔ آج تمہارے وجود کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور سوائے تمہارے کوئی مرد میدان اس میدان میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے طفیل آپ کا حامی و مددگار ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دیوانہ نہ کہا جائے۔ اس وقت دیوانگی جس کی بنیاد اسلامی غیرت وحمیت پر ہوتی ہے آپ ہی کی فطرت میں نظر آتی ہے۔ یہ زبانی جہاد جس کا موقع تمہیں آج میسر ہے بہت بڑا جہاد ہے۔ اس کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ جہا کے طالب رہو۔ یہ زبانی جہاد تلوار کے جہاد سے افضل ہے۔ ہم جیسے بے دست و پا (جس کی بادشاہ تک رسائی نہیں) اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے تم کو اس خزانے کا پتا دے دیا ہے اگرچہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکا تو شاید تم ہی اس کو پا لو''۲۳

عہد جہانگیری میں سلطنت کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کی جدوجہد:

اکبر بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو امام ربانی علیہ الرحمۃ نے احیائے اسلام کے اپنے مشن کو اور تیز کر دیا اور دربار کے مقربین وحکومت کے اہم اراکین وعمائدین مثلاً شیخ فرید بخاری، جبار خاں، حکیم فتح اللہ اور خان خاناں وغیرہ کو مکتوبات اور ملاقاتوں کے ذریعہ بادشاہ کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ دربار جہانگیری کے ایک مقرب شیخ فرید تجاری کے نام ایک مکتوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

> ''بادشاہ کی عالم سے وہی نسبت ہے جو دل کو بدن سے ہے اگر دل صحیح وصالح ہے تو بدن بھی صحیح وسالم ہوگا اور اگر وہ فاسد ہے تو بدن بھی فاسد ہوگا۔ بادشاہ کا صلاح عالم کا صلاح ہے اور اس کا فساد عالم کا فساد ہے۔ آج جبکہ اسلام کے غلبہ واقبال سے جو چیز مانع تھی، اس کے دور ہو جانے اور بادشاہ اسلام کے سریر آرائے سلطنت ہونے کا مژدہ خاص وعام کے کانوں تک پہنچا ہے۔ اہل اسلام نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ بادشاہ کے مدد ومعاون بنیں اور شریعت کی ترویج اور ملت کی تقویت کا راستہ دکھائیں۔ یہ امداد وتقویت خواہ زبان سے میسر آئے خواہ ہاتھ سے جس قسم کی بھی ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ سب سے بڑھ کر مدد یہ ہے کہ کتاب وسنت اور اجماع امت کے طریقہ پر شرعی مسائل کو بیان کریں اور عقائد کلامیہ کو ظاہر کریں تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں آکر بادشاہ کو راستہ سے نہ بہکا دے اور کام خراب نہ کر دے۔ امید ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کا قرب پورے طور پر بخشا ہے تو خلوت وجلوت میں اور پوشیدہ وعلانیہ شریعت محمدی کو رواج دینے میں آپ پوری کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت وخواری سے نکالیں گے''۔ ۲۴

مفتی صدر جہاں جو جہانگیر کے بچپن میں تعلیم کے نگراں بھی رہے اور عہد اکبری میں منصب صدارت

پر بھی فائز تھے ان کو ایک مکتوب میں حضرت امام ربانی بادشاہ کی اصلاح اور اس کو علمائے سوء سے بچانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ”سننے میں آیا ہے کہ بادشاہ اسلام، اسلامی حسن استعداد کی بنا پر علماء کے طلب گار ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دور میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی علمائے سوء کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لہٰذا علماء کے انتخاب میں آپ خوب چھان بین کریں۔ علماء سوء دین کے ڈاکو ہیں ان کا مقصد عزت و منزلت اور ریاست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنہ سے بچائے“ ۲۵

میر صدر جہاں کو لکھا:

> ”اب جبکہ حکومت پلٹ گئی ہے اور اہل ملل کے عناد کا زور ٹوٹ گیا ہے تو تمام مقتدایان اسلام پر چاہے وہ وزرائے عظام ہوں یا علمائے کرام لازم ہے کہ اپنی تمام کوشش شریعت کی ترویج پر لگادیں اور اسلام کے منہدم ارکان کو قایم کریں۔ تغافل میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دل مضطرب ہیں ان کے پچھلے دور کی مصیبتیں یاد ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ تلافی مافات کی صورت ہاتھ سے نکل جائے اور اسلام کی غربت میں مزید اضافہ ہو۔ جب بادشاہ کو طریقہ نبویہ کی اشاعت کا خیال نہ ہو اور بادشاہ کے مقربین اپنے کو اس کام سے بچائیں اور چند روزہ حیات کی فکر میں رہیں تو اہل اسلام کا معاملہ کیوں کر نہ خراب ہو“ ۲۶

خان اعظم کو لکھا:

> ”آپ سے التماس ہے کہ جب اس خاندان (نقشبندیہ) کے اکابر کی محبت کی برکت سے جو آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں تاثیر رکھی ہے اور آپ کے اقران میں آپ کی مسلمانی کی

> عزت ہے تو آپ کوشش کریں تاکہ کم ازکم یہ صورت نکل آئے کہ کفر کے وہ بڑے احکام جو مسلمانوں میں رائج ہوگئے ہیں ختم ہوجائیں اور منکرات سے مسلمانوں کو نجات ملے۔ اللہ آپ کو ہمارے اور سب مسلمانوں کی طرف سے اجر دے'' ۲۷

ایک مرتبہ جہانگیر اہل تشیع و بدعت اور درباری علماء کے اکسانے سے شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ سے بدظن ہوگیا اور سجدۂ تعظیمی و آداب شاہی سے انکار کے نتیجے میں قید کا حکم صادر کردیا۔ مگر جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو گوالیار کے قلعے سے رہائی دلاکر خلعت وعطیات سے نوازا اور فوجی چھاؤنی میں رہنے کی اجازت دیدی۔ آپ کی موجودگی سے فوج اور محل دونوں میں اچھے اثرات رونما ہوئے اور آپ نے جہانگیر کو بہت سی بدعات کے خاتمہ پر راضی کرلیا جنہیں اکبر نے ایجاد کیا تھا۔ مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فوج میں قیام کے متعلق خواجہ حسام الدین کو تحریر فرماتے ہیں:

> ''برخورداران اور رفقاء میں سے جو بھی ساتھ ہے ان سب کو وابستگی حاصل ہے اور ان کے احوال میں ترقی ہے ان کے واسطے یہ چھاؤنی گویا کہ خانقاہ بن گئی ہے'' ۲۸

ایک دوسرے مکتوب میں ایک شاہی مجلس کا حال لکھتے ہیں:

> ''فرزندان گرامی کا صحیفۂ شریفہ پہنچا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ صحت وعافیت سے ہے ایک تازہ معاملہ جو آج ظاہر ہوا ہے لکھتا ہوں، اچھی طرح سماعت کریں۔ آج شنبہ کی رات کو بادشاہی مجلس میں گیا تھا ایک پہر رات گزرے وہاں سے واپس آیا اور تین سی پارہ قرآن مجید حافظ سے سنا۔ دو پہر سے زیادہ رات گزر چکی تھی کہ نیند میسر ہوئی'' ۲۹

مسلک اہل سنت والجماعت کی پیروی کی ترغیب:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی کوششیں صرف مسلمانوں کے بااثر طبقے کو اپنے فرائض یاد دلانے اور امراء کے خیالات کی اصلاح تک محدود نہ تھیں انھوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علماء اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی۔ آپ کا مسلک اہل سنت والجماعت کا وہ قدیم مسلک ہے جس پر صدیوں سے

علماء ومشائخ چلتے رہے ہیں آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے ان کی پیروی کو لازم قرار دیا۔ شیخ فرید بخاری کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

''اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ان بزرگوں کے صراط مستقیم سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہٹ گیا ہے تو اس کی صحبت زہر قاتل جاننا چاہیے اور اس کی مجالست کو سانپ کا زہر سمجھنا چاہیے''۳۰

ایک دوسرا مکتوب پندرہ غات کا خان جہاں کو تحریر فرمایا اور اس کے آخر میں لکھا:

''وہ نعمت جو اللہ نے آپ صاحبان کو دی ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کو نہ سمجھے ہوں، یہ ہے کہ بادشاہ وقت سات پشت سے مسلمان اہل سنت والجماعت اور حنفی مذہب ہے۔ اگرچہ بہ سالوں سے اس زمانے میں کہ قرب قیامت اور عہد نبوت سے بُعد کا زمانہ ہے بعض ایسے طلب گارانِ علم نے (علماء) جو کہ بد باطن، لالچی اور امراء وسلاطین کا قرب چاہنے والے ہیں، دین متین میں شکوک وشبہات پیدا کیے اور سادہ لوح لوگوں کو بھٹکایا ہے۔ ایسا بادشاہ جبکہ آپ کی بات سنتا اور قبول کرتا ہے تو آپ اسلام کی حق بات، موافق اہل سنت والجماعت، بادشاہ کے کان تک پہنچائیں کم یا زیادہ، اشارتاً یا صراحتاً''۳۱

بدعت کی مخالفت اور سنت کا احیاء:

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بدعت کے خلاف جس زور سے علم جہاد بلند کیا اور جس اعتماد وقوت اور علمی استدلال کے ساتھ اس کا انکار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بدعات کی ظلمتوں اور تاریکیوں کے تسلط کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایک مکتوب میں مخدوم زادہ خواجہ محمد عبداللہ کو لکھتے ہیں:

''اس وقت عالم میں بدعات کا اس کثرت سے ظہور ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلمات کا دریا امنڈ آیا ہے، اور سنت کا نور اس موج دریا میں اس کے مقابلہ میں اس طرح ٹمٹما رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رات

کے اندھیرے میں کہیں کہیں جگنو اپنی چمک دکھا رہے ہیں''۳۲

مخدوم زادہ خواجہ محمد عبداللہ کو سنت نبویہ کی ترویج واشاعت کی تحریص اور بدعات کے انسداد کی ترغیب دیتے ہوئے اسی مکتوب میں آپ آگے لکھتے ہیں:

> ''یہ وہ وقت ہے کہ حضرت خیر البشر کی بعثت پر ہزار سال گزر چکے ہیں اور علامات قیامت ظاہر ہونا شروع ہوگئی ہیں، عہد نبوت کے بُعد کی وجہ سے سنت مستور اور چونکہ زمانہ کذب و دروغ کا ہے بدعت رائج اور مقبول ہو رہی ہے، کسی شہباز کی ضرورت ہے جو سنت کی نصرت اور حمایت کرے اور بدعت کو پسپا اور مغلوب کرے۔ بدعت کی ترویج، دین کی تخریب کے مترادف ہے اور مبتدع کی تعظیم قصر اسلام کے منہدم کرنے کے ہم معنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی بدعت والے کی توقیر کرے گا اس نے اسلام کو منہدم کرنے کے کام میں حصہ لیا۔ پورے عزم و ہمت کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سنتوں میں سے کسی سنت کو رواج دیا جائے اور بدعتوں میں سے کسی بدعت کا ازالہ کیا جائے۔ یہ کام ہر وقت ضروری تھا، لیکن ضعف اسلام کے اس زمانہ میں کہ مراسم اسلام کا قیام، سنت کی تشریح اور بدعت کی تخریب کے ساتھ وابستہ ہوگیا ہے اور بھی ضروری ہے''۳۳

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے نزدیک تمام مفاسد کا علاج اتباع سنت ہی میں ہے۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں شیخ حسن برکی کو تحریر فرمایا:

> ''اللہ آپ کو استقامت دے اور مقاصد عالیہ کی نہایت تک پہنچائے آپ نے رفع بدعت کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو بدعات کے اس دور میں کسی خوش نصیب ہی کو ملتی ہے کہ وہ کسی بدعت کو مٹائے اور کسی سنت کو رائج کرے۔ صحاح کی

حدیث ہے کہ جو شخص کسی ایسی سنت کا احیاء کرے کہ اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس مبارک ارشاد سے اس کام کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور کہیں ایک بھائی بہت سی برائیوں کا سبب نہ بنے کیونکہ یہ آخر زمانہ اور اسلام کی کمزوری کا دور ہے'' ۳۴

سنت پر عمل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صوفی قربان کو لکھتے ہیں:

''فضیلت تمام تر سنت کی پیروی سے وابستہ اور امتیاز و اعزاز شریعت پر عمل کرنے سے مربوط ہے، مثلاً دوپہر کو سونا جو اتباع سنت کی نیت سے ہو واقع ہو کروڑوں شب بیداریوں سے افضل اور زکوٰۃ کا ایک پیسہ ادا کرنا سونے کے پہاڑ خرچ کر دینے سے جو اپنی طرف سے ہو افضل ہے'' ۳۵

مرتبہ رسالت اور اثباتِ نبوت:

شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے احیائے سنت کی تحریک کے ساتھ ساتھ مرتبہ رسالت اور اثبات نبوت کے سلسلے میں جو بھی کوششیں کیں اور فلسفیوں کے ان گمراہ کن خیالات کے خلاف آواز بلند کی جنہوں نے لوگوں کے اندر نبوت و رسالت کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے اس کے لیے ایک رسالہ ''اثباۃ النبوۃ'' لکھا جس میں تمہیدی عبارت کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں:

''اس زمانے میں یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ خود نبوت ہی کے متعلق اور پھر کسی فرد واحد کے لیے نبوت کے اثباۃ کے سلسلے میں لوگوں کے اعتقاد میں فتور آ چلا ہے۔ یہ خرابی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسلام کے وہ علماء جو شریعت کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں برداری میں ثابت قدم تھے قتل کر دیے گئے اور یہ حالت ہوگئی کہ حضرت خاتم الانبیاء کے مکرم نام کو چھوڑا جا رہا ہے، جس کا نام آپ

کے مبارک نام پر ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ ذبح بقر سے روکا جاتا ہے حالانکہ وہ ہندوستان میں اسلام کے بڑے شعائر میں سے ہے۔ مسجدوں، ومقبروں کو توڑا جا رہا ہے، کفار کے معابد اور ان کے رسم ورواج کی تعظیم کی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام کے شعائر اور اعلام کو مٹا کر کافروں کے رسوم ورواج اور ان کے باطل ادیان کو رائج کیا جا رہا ہے تا کہ اسلام کا نشان تک مٹ جائے۔

میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ شک وانکار کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے خود اطباء (علماء) بیمار ہو چلے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہلاکت تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے ایک ایک عقیدہ کو ٹٹولا ہے اور ان سے ان کے شبہات دریافت کیے ہیں ان کے دلی خیالات اور اعتقادات کی جانچ پڑتال کی تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس ساری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد سے یہ زمانہ دور جا پڑا ہے اور حکمائے ہند اور فلسفہ کی کتابوں سے شغف بڑھ گیا ہے''

مخالفین کے نقطۂ نظر کی توضیح اور ان کے بعض اعتراضات کا جواب دے کر آپ لکھتے ہیں:

''میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میرے سینے میں جم گئی کہ میں ان کے لیے ایسی تقریر کروں، جو ان کے شکوک دور کر دے، اور ان کے لیے ایسی بات لکھوں، جو ان کے شبہہ کو زائل کر دے''[۳۶]

اہل تشیع کی مخالفت:

جہانگیر نے ابتداء میں اپنے والد کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے علماء اہل سنت کو تکلیفیں دیں اور اس کے برخلاف اہلِ تشیع کو اپنے قریب کر کے اعزازات سے نوازا۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے اہل تشیع کی پر زور مخالفت کی اور ان کے خیالات کی تردید میں باقاعدہ ایک رسالہ ''رد روافض'' لکھا۔ اس سلسلے میں رودِ کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

''جن نئے فرقوں سے قومی نظام میں خلل کا اندیشہ تھا ان کی ہر طرح

مخالفت کی ۔ اس زمانہ میں صفویوں کی وجہ سے شیعیت ایران میں عروج پر آئی اور چونکہ ایران سے عہد مغلیہ میں گہرے روابط قایم تھے ، ہندوستان میں بھی شیعہ اثرات بڑھنے لگے ۔ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے انہیں روکنے کے لیے زبان وقلم سے کام لیا ۔ امراء وسلاطین کی محفلوں میں اس کی مخالفت کی اور شیعہ خیالات کی تردید میں ایک پُرزور رسالہ لکھا ۔ جب کہیں شیعہ طریقوں کو فروغ پاتا دیکھتے ذمہ دار حضرات کو ان کے خطرات سے آگاہ کرتے ''[۳۷]

''رسالہ ردروافض'' کے متعلق شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

> '' یہ رسالہ اصل میں اس رسالے کا جواب ہے جو علمائے شیعہ نے علمائے ماوراء النہر کو اس وقت بھیجا جب عبداللہ خاں ازبک نے ۱۵۸۸ء میں مشہد کا محاصرہ کر رکھا تھا ۔ لیکن اس کی تصنیف کی فوری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں شیعہ علمائے مشہد کے مضامین دہراتے اور امراء وسلاطین کی مجلسوں میں انھیں بڑے فخر سے بیان کرتے ۔ لیکن انھیں خیال ہوا کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ سپرد قلم ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس میں بھی غلط فہمیوں کی گنجائش نہ رہے ''[۳۸]

تصوف کی اصلاح:

شیخ مجدد علیہ الرحمۃ کی اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے کے ذریعہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے اور تصوف کے اندر جو غیر اسلامی چیزیں رائج ہوگئی تھیں ان کی اصلاح کی ۔ ''جواہر مجددیہ'' کے مصنف اس طرح لکھتے ہیں:

> '' اس طریقے کے تمام اصول اور فروع میں اتباع سنت اور اجتناب بدعت بدرجہ کمال ہے یعنی اصحاب کبار کا سا لباس مشروط ہے انہی کی سی معاشرت ، ویسے ہی کم ریاضتیں اور فیضان کثیر اور کمالاتِ ولایت کے علاوہ کمالاتِ نبوت کی بھی تعلیم ہے ۔ نہ اس میں چلہ کشی کی

> ضرورت ہے، نہ ذکر بالجہر کی اجازت ہے، نہ سماع بالمزامیر ہے، نہ قبروں پر روشنی، نہ غلاف وچادر اندازی نہ ہجوم عورات، نہ سجدۂ تعظیمی نہ سر جھکانا۔ نہ بوسہ دینا نہ توحید وجودی ودعوائے انا الحق وہمہ اوست، نہ مریدوں کو پیروں کی قدم بوسی کا حکم، نہ مرید عورتوں کی ان کے پیروں سے بے پردگی''[۳۹]

شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ تصوف کی اصلاح کے ضمن میں شیخ نظام تھانیسری کو سجدۂ تعظیمی کی ممانعت کے تعلق سے لکھتے ہیں:

> ''معتبر افراد سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں وہ زمین بوسی پر اکتفاء نہیں کرتے۔ اس فعل کی قباحت اظہر من الشمس ہے۔ آپ ان کو تاکید کے ساتھ منع کریں ایسے فعل سے ہر ایک کو بچنا لازم ہے اور خاص کر ایسے شخص کو جو خلق کا مقتدا ہو''[۴۰]

شیخ مجدد نے تصوف کی صحیح اسلامی شکل سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک ''رسالہ معارف لدنیہ'' لکھا اور تصوف میں شریعت کی مخالف باتوں کی تردید کی۔ اس رسالہ کے متعلق شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں:

> ''رسالہ معارف لدنیہ میں زیادہ تر معرفت الٰہی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ شریعت وطریقت کی ہم آہنگی پر زور دیا ہے اور ان نام نہاد صوفیہ کی مذمت کی ہے جو شریعت کے مخالف باتیں کہتے ہیں''[۴۱]

اس طرح شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کی تجدیدی تحریک کامیاب ہوئی اور ہندوستان میں اسلامی معاشرہ از سر نو زندہ ہوا۔ شیخ محمد اکرام نے رود کوثر میں لکھا ہے کہ:

> ''شرع کی ترویج، طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت، شریعت اور طریقت کی تطبیق اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے جو اہم کام کیا وہ اسلام کا عام احیاء تھا۔ اس زمانے میں جب ایک طرف اکبر کے ''صلح کل'' طریقے نے اسلام کو اس حمایت سے محروم کر دیا تھا

جو اسلامی حکومت کی ابتداء سے اسے حاصل تھی اور دوسری طرف ''ہندو احیائیت'' نے مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کردی تھیں۔ آپ نے شعائر اسلام کے احترام پر زور دیا۔ امراء وارا کین سلطنت کو اس کی تلقین کی۔ خود اپنی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کے احترام کی بڑی جرأت مندانہ مثال قایم کی۔ آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے عملی مخالفت کی۔ آپ کی اس نیک مثال نے لوگوں کو جرأت دلائی جو دبے بیٹھے تھے وہ دلیر ہوگئے۔ حکمراں طبقے میں جو اسلام پسند گروہ تھا اسے تقویت ملی اور جو غیر اسلامی آداب و رسوم دربار شاہی میں عجمی ملوکیت کی تقلید میں یا ہندو اثرات کی وجہ سے رائج ہوگئی تھیں ان کے ازالے کا سامان ہوا اور شعائر اسلامی کے احترام کا پھر سے خیال کیا جانے لگا''[۴۲]

آپ کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ۲۹ رصفر ۱۰۳۴ھ/ ۱۶۲۴ء میں ہوئی۔ آپ کے بیٹے خواجہ محمد سعید نے نماز جنازہ پڑھائی اور سرہند میں آپ کی تدفین ہوئی۔

وہ ہند میں سرمایہء ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

☆......☆......☆

حواشی:

۱.....مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۲۵۹، بنام فرزند جلیل خواجہ محمد سعید

۲.....زبدۃ المقامات، ص ۱۹۹، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۲۳

۳.....سفینۃ الاولیاء، محررہ ۱۰۶۱ھ، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۲۴

۴.....حضرات القدس، ص ۱۱، بحوالہ رود کوثر، ص ۲۲۸

۵.....زبدۃ المقامات، ص ۲۰۳، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۲۵

۶...... سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی، ص ۷۰، بحوالہ رود کوثر، ص ۲۳۶

۷...... رود کوثر، ص ۲۲۶

۸...... مبداء و معاد، ص ۶۷، بحوالہ رود کوثر، ص ۲۴۸

۹...... زبدۃ المقامات، ص ۱۴۵

۱۰...... مبداء و معاد، ص ۶۷

۱۱...... زبدۃ المقامات، ص ق ۱۴

۱۲...... زبدۃ المقامات، ص ۱۴۵

۱۳...... جواہر مجددیہ، ص ۱۲۰

۱۴...... رود کوثر، ص ۳۲۷

۱۵...... ماہنامہ مظہر حق بدایوں، تاج الفحول نمبر، ص ۴۸۱

۱۶...... مکتوبات مسعودی، ص ۲

۱۷...... رود کوثر، ص ۳۲۷

۱۸...... تذکرہ ابو الکلام آزاد، ص ۲۳۸، بحوالہ رود کوثر، ص ۲۷۷

۱۹...... فسانۂ سلطنت مغلیہ، آگرہ ۱۹۲۰، مینوکی

۲۰...... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب ۱، بنام مرشد کریم خواجہ باقی باللہ

۲۱...... روضۃ القیومیہ، جلد اول، ص ۲۲۴

۲۲...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ اول، ص ۲۷۱

۲۳...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب ۶۵

۲۴...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۴۷، بحوالہ دعوت و عزیمت حصہ چہارم، ص ۳۰۵

۲۵...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول. مکتوب ۱۹۴، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۰۲

۲۶...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۱۹۵، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۰۲

۲۷...... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب ۶۵، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۰۱

۲۸...... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۷۲، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۶۸

۲۹...... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۸۷، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۱۶۸

۳۰...... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۲۱۳، بنام مرتضٰی خاں شیخ فرید بخاری

۳۱...... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب ۶۷، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۹۸

۳۲...... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب ۲۳، بحوالہ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم، ص ۲۴۵

۳۳...... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب ۲۳، بحوالہ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم، ص ۲۵۸

۳۴...... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۱۰۵، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۵۳

۳۵...... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب ۱۱۴، بحوالہ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم، ص ۲۴۸

۳۶...... رسالہ اثبات النبوۃ، شیخ احمد سرہندی، بحوالہ رودکوثر، ص ۲۳۲

۳۷...... رودکوثر، شیخ محمد اکرام، ص ۲۸۷

۳۸...... رودکوثر، شیخ محمد اکرام، ص ۲۴۳

۳۹...... جواہر مجددیہ، ص ۲۴، بحوالہ رودکوثر، ص ۲۸۵

۴۰...... مکتوبات، دفتر اول مکتوب ۹-، بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ص ۹۴

۴۱...... رودکوثر، شیخ محمد اکرام، ص ۲۵۷

۴۲...... رودکوثر، ص ۲۸۷۔۲۸۸

مآخذ ومراجع:

۱...... زبدۃ المقامات، خواجہ محمد ہاشم کشمیؒ، مطبوعہ کانپور ۱۸۸۹ء

۲...... جواہر مجددیہ، خواجہ احمد حسین خاں، مطبوعہ کراچی ۲۰۰۲ء

۳...... خزینۃ الاصفیاء، سرور مفتی غلام، کانپور ۱۸۹۴ء

۴...... ماہنامہ مظہر حق بدایونی، تاج الفحول نمبر، مارچ ۱۹۹۸ء

۵...... مکتوبات مسعودی، صوفی عبدال نار طاہر، کراچی ۲۰۰۵ء

۶...... مبداء ومعاد، احمد سرہندی، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۶ء

۷...... مکتوبات امام ربانی، احمد سرہندی، مطبوعہ کراچی ۱۹۷۲ء

۸...... سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی، علامہ ابوالفضل محمد احسان عباسی گورکھپوری، مطبوعہ ہمدرد کامرس پریس

دہلی ۱۹۲۶ء

۹......رود کوثر، شیخ محمد اکرام، مطبوعہ تاج پرنٹرز نئی دہلی ۱۹۹۹ء

۱۰......حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، ابوالحسن زید فاروقی، مطبوعہ دہلی ۱۹۹۹ء

۱۱......تصوف اور شریعت (مجدد الف ثانی کے افکار کا مطالعہ) ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری، مترجم مفتی محمد مشتاق تجاری، مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۲۰۰۴ء

۱۲......تاریخ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مطبوعہ تحقیقات ونشریات اسلام لکھنو ۱۹۸۰ء

۱۳...... Contribution of Shaikh Ahmed Sirhindi to Islamic Thought Edited by Abdul Ali and Zafarul Islam-Published by the Institute of Islamic Studies A.M.U.Aligarh -2005

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

شجرۂ مصافحہ

☆☆

شجرۂ مبارکہ مصافحہ نمودن حضرت امام ربانی قیوم صمدانی پیر دستگیر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز

☆☆

آں جناب مصافحہ با حضرت حاجی عبد الرحمٰن بدخشی کابلی مشہور بہ حاجی رمزی کردہ اند اوشاں با حافظ سلطان اودھی کہ یک صد و دو سال عمر یافتہ مصافحہ کردہ واوشاں بحضرت شیخ محمود اسفرائینی واوشاں با حضرت شیخ سعید معمر چشتی واوشاں با جناب مقدس مطہر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم۔

(عکس مخطوطہ عطا کردہ: پروفیسر امین اللہ علوی، ڑکارپور، سندھ، پاکستان)

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

حقیقتِ محمدیہ، حقیقتِ احمدیہ اور حقیقتِ کعبہ مکتوباتِ امام ربانی کی روشنی میں

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر

☆☆

روحانیت کی دنیا میں جتنے بلند مدارج اور مراتب ہیں ان سب میں اعلیٰ اور ارفع مرتبہ حقیقتِ احمدیہ، حقیقتِ محمدیہ اور حقیقتِ کعبہ کا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ روحانیت کا منتہائے کمال اور معراج یہی مقامات ہیں رب کائنات نے اپنے خصوصی کرم سے اپنے ایک خاص بندے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اور روحانیت کے دیگر بلندترین مقامات عطا فرمائے وہاں روحانیت کی ان معراجوں سے بھی آپکو مشرف فرمایا۔

آیئے حضرت امام ربانی کے مکتوبات کی روشنی میں ہی دیکھیں کہ حقیقتِ محمدیہ، حقیقتِ احمدیہ اور حقیقتِ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور عالم مکاشفہ اور مشاہدہ میں اسکا کیا مقام ہے؟

لیکن چونکہ اس کی تعریف اور تشریح میں حضرت امام ربانی نے جابجا تصوف کی اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں لہٰذا جب تک ان اصطلاحات کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ کی عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آسکتا لہٰذا بطور تمہید اولاً چند اصطلاحات تصوف کی تشریح پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد حضرت امام ربانی کے ارشادات پیش کروں گا تاکہ ان اہم مقامات کا مفہوم صحیح سمجھ میں آجائے۔

لاتعین:۔

اللہ تعالیٰ کی خالص ذات جس میں کسی اسم نعت اور وصف کا کوئی دخل نہ ہو صرف اور صرف اس کی ذات ''من حیث ہو'' یہ مقام لاتعین کہلاتا ہے اسی کو غیب ہویت، غیب الغیب، ذات بحت اور مرتبہ ہویت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام ربانی نے اس کے لیے لاتعین کا لفظ اختیار فرمایا ہے۔

تنزلات:۔

جب اس کی ذات نے مرتبہ لاتعین اور وراء الوراٗ سے نزول فرما کر باغ کائنات کی گلشن آرائی فرمائی تو اسکو صوفیہ ''تنزلات'' کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

تعینات:۔

اس کی ذات نے جن مراتب اور جن منزلوں سے نزول فرمایا انہیں صوفیہ کی زبان میں تعینات (جمع تعین) تجلیات (جمع تجلی) اور اعتبارات (جمع اعتبار) کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔

تعین اول:۔

حق تعالیٰ نے غیب ہویت یعنی لاتعین سے جس چیز پر سب سے پہلے تجلی فرمائی اسکو تعین اول کہتے ہیں اسی کو تجلی اول، وحدۃ الحقیقہ، حجاب عظمت وغیرہ کے الفاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

تعین ثانی:۔

تعین اول کے بعد جس چیز پر تجلی فرمائی اسکے لیے صوفیہ تعین ثانی، تجلی ثانی، حضرت الوهیت، حقیقتِ انسانی حضر اسمآء الصفات وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

ظل:۔

کسی بھی چیز کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایک اسکا سایہ ہوتا ہے ظل سے سایہ مراد ہے اس کی جمع ظلال ہے۔

حقیقتِ محمدیہ

ان تمہیدی کلمات کے بعد آیئے اب دیکھتے ہیں کہ مکتوبات شریف میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت محمدیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ:

> "حقیقت محمدیہ علیہ وعلی وآلہ الصلاۃ والسلام جو کہ حقیقت الحقائق ہے مراتب ظلال کے طے کرنے کے بعد اس فقیر پر آخر کار کچھ اس طرح سے منکشف ہوئی کہ وہ تعین اور ظہور بھی ہے جو کہ تمام ظہورات کا مبداء اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا منشاء ہے مشہور حدیث قدسی میں آیا ہے۔ "**کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق**" (میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے محبوب رکھا کہ میں پہچانا جاؤں پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا) سب سے پہلی چیز جو اس مخفی خزانے سے ظہور کے تحت پر جلوہ گر ہوئی، وہ محبت تھی جو کہ مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں مستقل طور پر اپنا ٹھکانہ رکھتا۔ حدیث قدسی "**لولاک لماخلقت الافلاک**" (اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا) جو کہ خاتم الرسل کی شان میں واقع ہوئی ہے اس کا راز اس جگہ سے معلوم کرنا چاہیے اور "**لولاک لما اظھرت الربوبیہ**" (اگر تو نہ ہوتا تو ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا) کی حقیقت کو اس مقام پر تلاش کرنا چاہیے" (مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوبات ۱۲۲)

یہ بات تو تمام فلاسفر مناطقہ اور صوفیہ کہتے چلے آئے ہیں کہ کہیں حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ "**اول ماخلق اللہ نوری**" (کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا) اور کہیں فرمایا "**اول ماخلق اللہ القلم**" (کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا) اور کہیں کہا "**اول ماخلق اللہ العقل**" (کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا) تو ان تینوں احادیث میں تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ قلم اور عقل سے مراد بھی نور مصطفےٰ ہے اور یہ سب اسی نور کے نام ہیں۔ لہٰذا اس ذات وحدہ، لاشریک نے مرتبہ لاتعین اور غیب ھویت سے سب سے پہلے جو تجلی فرمائی اور جس چیز کو سب سے پہلے وجود عطا فرمایا وہ 'تعین اول' 'ظہور اول' "نور مصطفیٰ" ہے اسی کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔

لیکن مندرجہ بالا عبارت میں امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی نئی بات فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی صوفی اور فلاسفر نے نہیں کی آپ کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ

کنت کنزا مخفیا (میں مخفی خزانہ تھا) مرتبہ لاتعین اور غیب ھویت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ جل جلالہ پہلے مرتبہ لاتعین میں تھی جب مقام تعین اول میں سب سے پہلے کسی چیز کو اس نے وجود عطا کیا وہ ''احببت'' ہے۔ جس کے معنی ہیں میں نے محبوب رکھا کہ میں پہچانا جاؤں لہٰذا اسکے مخفی خزانہ عدم سے جو سب سے پہلے چیز منصۂ ظہور وشہود پر آئی وہ محبت تھی اور وہ ہی محبت دراصل حقیقت محمدی ہے کیونکہ اسی محبت کی وجہ سے سب کچھ ظہور پذیر ہوا اور باقی مخلوقات کو وجود عطا ہوا اگر یہ محبت نہ ہوتی تو کسی کو کوئی وجود نہ ملتا یہی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمائی ہے کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا بلکہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ تعین اول اور ظہور اول جو محبت ہے وہ حقیقت میں نور مصطفیٰ ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا **اول ماخلق اللہ نوری** اور اسی کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔

حقیقت الحقائق:۔

اس حقیقت محمدیہ کو حضرت امام ربانی حقیقت الحقائق سے بھی تعبیر فرماتے ہیں کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس ساری کائنات میں اسکے بعد جو چیز بھی عدم سے وجود میں آئی ہے اور مرتبہ تعین میں آئی ہے ان سب حقیقتوں کی اصل بھی یہی حقیقت محمدی ہے کیونکہ اسی حقیقت کی وجہ سے دیگر اعیان واشیاء کے حقائق کو وجود ملا اور وہ اسی کے دم سے حقیقتیں بنیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل آپ یوں بیان فرماتے ہیں۔

> حقیقت محمدی علیہ افضل الصلوات والتسلیمات جو کہ ظہور اول اور حقیقۃ الحقائق ہے اس معنی کے لحاظ سے کہ دوسرے حقائق خواہ وہ انبیاء کے حقائق ہوں یا ملائکہ عظام علیہ وعلیھم الصلوٰۃ السلام اسکے لیے ظلال کی طرح ہیں اور وہ حقائق کی اصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اول ماخلق اللہ نوری** (سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **خلقت من نور اللہ والمومنون من نوری** (میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور مومن میرے نور سے پیدا ہوئے) تو لازماً آپ تمام حقائق اور خداند تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہونگے انکے وسیلہ کے

بغیر کسی کو بھی مطلوب تک پہنچنا محال ہوگا پس آپ انبیاء و مرسلین کے نبی ہیں اور آپ کا بھیجنا جہان والوں کے لیے رحمت ہے علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیم یہی وجہ ہے کہ اولوالعزم انبیاء باوجود اصالت (براہ راست فیض پہنچنے کے) انکی تبعیت (تابع ہونا) چاہتے تھے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کے آرزو رکھتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم

اس مقام پر ایک سوال نقل کر کے اسکا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں

سوال:۔ یہ تعین بھی جو کہ تعین اول ہے اور حقیقت محمدی ہے علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام ممکن ہے یا واجب ہے حادث ہے یا قدیم ہے صاحب فصوص تعین اول کہ جسکو حقیقت محمدی کہا ہے اسکو انہوں نے وحدت سے تعبیر کیا ہے اور اسی طرح تعین ثانی کو جس کو واحدیت کہا ہے اعیان ثابتہ اور حقائق ممکنات کہا ہے اس مرتبہ میں ثابت کیا ہے اور وہ ہر دو تعین کو تعین وجوبی کہتے ہیں اور اسکو قدیم سمجھتے ہیں اور دوسرے تین تنزلات یعنی کہ روحی اور مثالی اور جسدی کو تعین امکانی تصور کرتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب:۔ اس فقیر کے نزدیک کوئی تعین بھی وجوبی نہیں وہ کونسا تعین ہوگا جو لاتعین کو متعین کرے یہ الفاظ حضرت شیخ محی الدین اور اس کے متبعین کے مذاق کے موافق ہیں اگر فقیر کی عبارت میں کہیں اس قسم کے الفاظ ہوں تو انکو صنعت مشاکلہ کے قبیلہ سے سمجھنا چاہیے بہرحال میں کہتا ہوں کہ وہ تعین تعین امکانی ہے، مخلوق اور حادث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اول ماخلق اللہ نوری ’سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور دوسری حدیث میں اس کی پیدائش کے وقت کا تعین بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا ’’قبل خلق السموات بالفی عام‘‘ (آسمانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل) اور اس کی مثل اور روایات بھی ہیں اور جبکہ وہ مخلوق ہے اور مسبوق بالعدم ہے تو وہ ممکن اور حادث ہوگا۔ (مکتوبات دفتر سوم مکتوب ۱۲۲)

آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکن اسے کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا اور واجب وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو یعنی اس کے لیے پہلے عدم نہ ہو وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے

اسے واجب کہتے ہیں اس تعریف کی روشنی میں یہ نور محمد یعنی حقیقت محمدیہ ممکن اور حارث قرار پائی ہے کیونکہ اسکے لیے خود سرکار نے فرمادیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسبوق بالعدم ہے یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے لہٰذا یہ واجب نہیں بلکہ ممکن ہے بلکہ جتنے تعینات اور موجودات اللہ کے سوا ہیں وہ سب ممکن اور حادث ہیں۔

امکان حقیقت محمدیہ:۔

اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ نور محمد اور حقیقت محمدیہ اول خلق ہونے کے باعث اور غیب ہویت کی پہلی تجلی ہونے کے باعث دیگر مخلوقات بالخصوص انبیائے کرام سے بیشک فضیلت اور فوقیت رکھتی ہے لیکن ممکن ہونے میں تو سب برابر ہیں اور نفس امکان میں تو نور محمد اور دیگر انبیائے کرام و رسل عظام اور ملائکہ مقربین سب برابر ہیں۔ اس خدشہ اور سوال کا جواب اپنے ایک اور مکتوب گرامی میں دیتے ہوئے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس نور محمد اور حقیقت محمدیہ کا امکان بھی نرالا اور بے مثل و بیمثال ہے نفس امکان اور ممکن ہونے میں بھی کوئی آپکا شریک اور ہم پلہ نہیں۔ کائنات ارضی و سماوی میں کسی کا ایسا امکان نہیں جیسا کہ حقیقت محمدیہ کا امکان ہے کیونکہ اس نور محمد کی تخلیق کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسکو اپنے نور سے بنایا ہے جبکہ اس کے علاوہ اور کسی ممکن کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا لہٰذا انکے امکان جیسا کسی کا امکان نہیں اور آپکے امکان میں کوئی آپکا شریک و مماثل نہیں۔ اس مضمون کو آپ اپنے مکتوبات میں یوں بیان فرماتے ہیں:

> جاننا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ جہاں کے تمام افراد میں سے کسی کے ساتھ آپکی پیدائش اور آپکا وجود انور مشابہت اور مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ حضور اکرم ﷺ باوجود جسم عنصری رکھنے کے نور حق تعالیٰ سے پیدا ہوئے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور دوسرے کسی کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔
>
> اور کتنی ہی باریک نظر سے صحیفہ ممکنات کا مطالعہ کیا جائے نبی کریم ﷺ کا وجود انور اس میں سے معلوم نہیں ہوتا اور چونکہ آنحضرت ﷺ اس

> عالم ممکنات میں سے نہیں ہیں بلکہ اس سے بلند اور ارفع سے پیدا ہوئے ہیں اس بنا پر آپ کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا اور نیز اس عالم شہادت میں شئی کا سایہ شئی سے لطیف تر ہوتا ہے اور جب حضور علیہ السلام سے زیادہ لطیف کوئی چیز جہاں میں نہیں ہے تو آپ کے جسم مبارک کے لیے سایہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

(مکتوبات دفتر سوم مکتوب ۱۰۰)

مقام حقیقت محمدیہ:۔

حقیقت محمدیہ کا تصوف اور روحانیت میں کیا مقام ہے؟ اسکے بارے میں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ چونکہ حقیقت محمدیہ حقیقۃ الحقائق ہے یعنی سارے حقائق کی اصل ہے اس لیے ممکنات میں سے کوئی حقیقت اس سے اوپر نہیں۔ اور نہ ہی ایک سالک اور عارف کے لیے اس مرتبہ سے اوپر کسی مرتبہ میں ترقی کا تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ممکنات میں یہ سب سے افضل اور آخری مرتبہ ہے اس سے اوپر لاتعین کا مرتبہ ہے جہاں سے وجوب کی سرحد شروع ہو جاتی ہے جبکہ اس مرتبہ تک وصول ناممکن ہے آپ فرماتے ہیں کہ

> جب اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس ظل سے اور تمام ظلال سے نجات میسر ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس میں حقیقۃ الحقائق سے آگے ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ جائز ہی نہیں کیونکہ اس مقام سے آگے قدم اٹھانا اور حقیقت وجوب میں قدم رکھنا ہے اور امکان سے باہر آنا ہے جبکہ یہ ایک خلق کے لیے شرعاً اور عقلاً محال ہے۔

(مکتوبات امام ربانی دفر سوم مکتوب ۱۲۲)

بلکہ ایک مکتوب میں تو اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت خاتم الرسل ﷺ کی شریعت کی متابعت فرمائیں گے اور اپنے مقام سے عروج فرما کر تبعیت کے

طور پر حقیقت محمدی کے مقام پر بھیجیں گے اور حضور اکرم ﷺ کے دین کو تقویت دینگے (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول مکتوب ۲۰۹)

حضرت امام ربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام کا مشاہدہ کرایا اور اسکے کمالات سے آپکو بھی مستفیض فرمایا چنانچہ ایک مقام پر آپ تحریر فرماتے ہیں۔

اس مقام پر ملاحظہ کیا گیا کہ آیا یہ تعین اول حقیقت محمدی ہے یا نہیں تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہ ہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔۔ ۔۔۔۔

> اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہے وہ کمالات نبوت کا آغاز ہے ان کمالات کا حاصل ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کمالات مقام نبوت سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں اور انبیا علیہم السلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی تابعداری کے سبب ان کمالات سے کچھ حصہ مل جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اسکے حبیب ﷺ کے صدقہ اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہود ہوا کہ اگر ایک قدم اور آگے بڑھایا تو عدم محض میں جا پڑے گا کیونکہ اسکے آگے عدم محض کے سواء کچھ نہیں۔ (دفتر اول مکتوب ۲۶۰)

کعبہ:۔

حقیقت کعبہ سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کعبہ کو سمجھیں کہ کعبہ کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ جو اینٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے یہ کعبہ نہیں اس کی دلیل امام ربانی یہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ عمارت نہ بھی ہو تو اسطرف رخ کر کے سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ کعبہ اس چیز کا نام نہیں بلکہ اس ہی مقام پر وہ کوئی اور شئے ہے جس کے اظہار سے نطق و گویائی عاجز ہے بلکہ وہ ایک ایسی نورانیت ہے جو عقل کی حدوں سے بھی ماوراء ہے اور عقل و قیاس بھی اسکا ادراک نہیں کر سکتے حضرت امام ربانی اپنے الفاظ میں اسکو یوں بیان فرماتے ہیں۔

> جاننا چاہیے کہ صورت کعبہ اینٹ اور پتھر سے عبارت نہیں کیونکہ اگر بالفرض اینٹ اور پتھر درمیان میں نہ ہوں تو بھی کعبہ، کعبہ ہے اور

خلائق کا مسجود ہے بلکہ صورت کعبہ باوجود اسکے کہ عالم خلق ہے لیکن دوسری اشیاء کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک مستور (پوشیدہ) امر ہے جو حس وخیال کے احاطہ سے باہر ہے وہ عالم محسوسات سے ہے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہے وہ تمام اشیاء کا متوجہ الیہا ہے اور کوئی توجہ بھی نہیں وہ ایسی ہستی ہے جس نے نیستی کا لباس پہنا ہوا ہے وہ ایسی نیستی ہے جس نے ہستی کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا ہے وہ جہت میں ہوتے ہوئے بھی بے جہت ہے اور سمت میں ہوتے ہوئے بے سمت ہے۔ مختصر یہ کہ یہ صورت حقیقت منش ایک عجیب چیز ہے کہ عقل اس کی تشخیص میں عاجز ہے اور عقلاء اس کے تعین میں حیران ہیں گویا وہ عالم بے چوں اور بے چگونی کا نمونہ ہے اور بے شبہی اور بے نمونی کا نشان اس میں پوشیدہ ہے ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مسجودیت کے لائق نہ ہوتا اور بہترین موجودات علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام شوق وآرزو سے اسکو اپنا قبلہ نہ بناتے فیہ آیات بینات (اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں) اس کی شان میں نص قطعی ہے من دخلہ کان آمنا (جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا) اس کی شان میں قرآن کی مدح سرائی ہے۔ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۴)

بیت اللہ:۔

اس مقام پر حضرت امام ربانی نے ایک بڑا نفیس نکتہ بیان فرمایا اور ذہن میں آنے والے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ولکن یسعنی قلب عبدی المومن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندہ کے قلب میں سما سکتا ہوں اس سے ثابت ہوا کہ بندہ مومن کا قلب بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے تو پھر اس بیت اللہ اور مکہ معظمہ کے بیت اللہ میں کیا فرق ہوا؟ اور جب قلب مومن بھی بیت اللہ ہے تو پھر اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیوں روا نہیں؟ بالخصوص ذات مصطفیٰ ﷺ جس کا قلب انوار الٰہی کی جلوہ گاہ ہے۔ امام ربانی نے اسکے جواب میں ایک اعلیٰ اور عقل سے ماوراء

حقیقت کو مجاز کے پردہ میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی دکان، بازار، باغ، گلی کوچہ، محلّہ ہر جگہ پر جا سکتا ہے اور وہاں موجود ہو سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے لیکن آرام اور راحت وہ صرف اپنے گھر میں حاصل کرتا ہے کیونکہ گھر وہ کہلاتا ہے جہاں کوئی غیر نہیں ہوتا بلا تشبیہ و بلا تمثیل خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ مومن کے قلب میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے لیکن خانہ کعبہ کیونکہ بیت اللہ ہے یعنی اس کا گھر ہے اس لیے اس میں اس کی جلوہ گری تمام اغیار سے ہٹ کر ہے تو چونکہ وہاں اسکے ساتھ کسی غیر کا کوئی دخل نہیں اس لیے وہ جگہ مخلوق کی سجدہ گاہ بنی سجدہ اسکے سوا کسی اور کو جائز نہیں لہٰذا جہاں کوئی اور ہوگا وہاں سجدہ جائز نہیں ہوگا جہاں صرف وہ ہوگا وہاں سجدہ ہوگا اور وہ صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے اب اس مفہوم کو خود امام ربانی کے الفاظ میں دیکھیے اور اسکا مزہ لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں:

> ''وہ بیت اللہ ہی ہے جس میں صاحب خانہ جل شانہ کی بے کیفیت بود و باش ہے اور اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مجہول الکیفیت نسبت اور اتصال ہے **وللہ المثل الاعلی** (اور اللہ کے لیے بلند مثال ہے) عالم مجاز میں جو کہ حقیقت کا پل ہے بیت یعنی گھر کا لفظ شب باشی کی خبر دیتا ہے جو کہ صاحب خانہ کے آرام اور قرار کی جگہ ہے اہل دولت کے لیے اگرچہ بے شمار نشست گاہیں ہیں اور بیٹھنے اٹھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن گھر پھر بھی گھر ہے جو کہ اغیار کی مزاحمت سے بیگانہ اور دوست کے آرام کی جگہ ہے اگرچہ بحکم حدیث **ولکن یسعنی قلب عبدی المومن** (لیکن میں اپنے بندہ کے قلب میں سما سکتا ہوں) مومن بندہ کا قلب بے چونی ظہور کی گنجائش پیدا کرتا ہے لیکن گھر ہونے کی نسبت جو کہ بود و باش کی خبر دیتا ہے وہ اس میں کہاں پیدا ہوگی اور اغیار کی مزاحمت جو کہ گھر کے لوازمات سے ہے وہ یہاں کہاں سے آئیں گے۔ تو جب بیت میں غیر اور غیریت کو دخل نہ ہوگا تو اب وہ لازماً مخلوق کی سجدہ گاہ ہوگا کہ غیر کو سجدہ نہ ہو کیونکہ غیریت مسجودیت کے منافی ہوتی ہے۔ محمد رسول ﷺ نے اپنی طرف سجدہ تجویز

> نہیں فرمایا اور بیت اللہ شریف کی جانب شوق اور رغبت سے سجدہ کرتے تھے فرق کا راز اس جگہ سے معلوم کرو کہ ساجد اور مسجود میں کتنا بڑا فرق ہے''۔ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۴)

حقیقتِ کعبہ:۔

صورت کعبہ کے معنی اور مفہوم کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آپ حقیقت کعبہ کی دو لفظوں میں تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

> اے بھائی! جب آپ نے صورت کعبہ کے متعلق معلوم کر لیا تو اب کچھ حقیقت کعبہ کے متعلق بھی سنو۔ حقیقت کعبہ ذات بے چون واجب الوجود سے عبارت ہے کہ ظہور اور ظلیت کی گرد بھی وہاں تک راہ نہیں پا سکتی۔ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۴)

یعنی حقیقت کعبہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے اپنے ایک اور مکتوب گرامی میں اس کی شرح اور تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

> ''دوسرا مرتبہ جو خالص نور ہے اور لاتعین سے متعین ہے اسکو بھی دوسروں کی طرح ذات محض اور احدیت مجردہ خیال نہ کریں کہ وہ بھی نورانیت خالص کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے ان للہ سبعین الف حجاب من نور و ظلمة (اللہ تعالیٰ کے نور و ظلمت سے ستر ہزار پردے ہیں) اگرچہ تعین نہیں ہے لیکن مطلوب حقیقی کا حجاب ہے اگرچہ یہ آخری حجاب ہے اور اللہ تعالیٰ وراء الوراء ہے یہ نور چونکہ تعین کے دائرہ میں داخل نہیں لہٰذا عدم کی ظلمت سے منزہ اور مبرا ہے (وللہ المثل الاعلی) اس کی مثال نور آفتاب کی شعاعوں کی سی ہے جو کہ سورج کی ٹکیہ کے لیے حاجب ہیں (یعنی پردہ ہیں) اور وہ ٹکیہ آفتاب کے عین سے منتشر ہو کر اسکا حجاب ہو گی حدیث میں آیا ہے۔ حجابہ النور کہ اسکا حجاب نور ہے اور یہ بلند مرتبہ تجلیات


2002
1423

ذاتیہ سے اوپر ہے پھر تجلیات فعل وصفت کے متعلق کیا کہوں کیونکہ تجلی تعین کی آمیزش کے بغیر متصور نہیں جبکہ یہ مقام تمام تعینات سے اوپر ہے لیکن ان تجلیات ذاتیہ کا منشاء وہ ہی خالص نور ہے اور تجلی اسکے واسطہ کے بغیر متصور نہیں ہوسکتی اگر وہ نہ ہو تو تجلی حاصل نہیں ہوتی اور حقیقت کعبہ ربانی میں سمجھتا ہوں کہ یہی نور ہے جو کہ سب کا مسجود ہے اور تمام تعینات کا اصل ہے اگرچہ تجلیات ذاتیہ کا ملجاء وماوٰی یہی نور تھا تو دوسروں کی مسجودیت ہے اس کی کیا تعریف کروں۔ جاننا چاہیے کہ یہ نور دوسرے انوار کی طرح ہرگز نہیں کہ امکان کا شائبہ رکھ کر ممکن ہو یا جوہر وعرض کی جنس سے ہو وہ تو ایک ایسا مرتبہ ہے کہ نور کے علاوہ اس پر کسی چیز کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وجوب وجود ہی کیوں نہ ہو کہ وجوب بھی اس سے نیچے ہے۔ (دفتر سوم مکتوب ۷۲)

حقیقت کعبہ کی جو آپ نے یہ تشریح فرمائی ہے اسکا نچوڑ یہ ہے کہ مقام لاتعین میں اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی ذات ہے جو 'احدیت مجردہ' اور 'ذات محض' ہے۔ اس پر ستر ہزار نور کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان نور کے پردوں میں سے جو آخری پردہ اس کی ذات وراء الوراء پر پڑا ہوا ہے اس نور کے پردہ کا نام حقیقت کعبہ ہے اور یہ نور چونکہ مقام لاتعین میں ہے لہٰذا تعینات کے اندر نہیں آئیگا البتہ تمام تعینات کی اصل اور تمام تجلیات ذاتیہ کا ملجاء وماوی یہی نور ہے۔

وصول حقیقت کعبہ:۔

حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کمال فضل وکرم ہوتا ہے تو وہ ہزاروں میں سے کسی ایک عارف کو اس دولت کے وصول سے مشرف فرما دیتا ہے اور وہ عارف اس مقام پر پہنچ کر فنا وبقا سے اس مقام میں سرفراز ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بقا اسکو اسی نور سے حاصل ہوتی ہے اور فوق الفوق سے اسکو وافر حصہ ملتا ہے اور وہ نور کے ساتھ نور سے گزرتا ہوا اصل نور تک پہنچ جاتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل واحسان ہے وہ جس خاص بندہ پر چاہا ہے اسی پر فرماتا ہے (دفتر سوم مکتوب ۷۶)

اس ارشاد سے پہلے اسی مکتوب گرامی میں آپ یہ بھی فرما چکے تھے کہ کعبہ ربانی کی حقیقت میں سمجھتا ہوں یہی نور ہے لہٰذا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپکو اس مقام سے واصل کر دیا تھا اور آپ اس عظیم دولت سے سرفراز فرما دیے گئے تھے۔

سوال:۔ البتہ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کو حضرت امام ربانی نقل فرما کے اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ارشاد کے مطابق ایک عارف کو یہ دولت نصیب ہوگی اور وہ اس مقام سے سرفراز کیا جائیگا تو اسکے حق میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام حجابات کا اٹھنا متحقق ہو جائیگا کیونکہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آخری حجاب اس نور کو کہتے ہیں جبکہ ایسا ہونا یعنی حجابات کا اٹھ جانا ناممکن ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نور وظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں اگر وہ اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار ہر اس مخلوق کو جلا کر رکھ دینگے جہاں تک اس کی نظر جائیگی۔

جواب:۔ اسکا جواب دیتے ہوئے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ تحقق بقا حجابات سے ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے اسباب ہیں نہ کہ حجابات کا دور ہونا اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ (دفتر سوم مکتوب ۷۶)

یعنی آپ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کعبہ کے مشاہدہ کا تحقق تو اس وقت ہوگا جب وہ حجاب نور باقی رہے اگر وہ اٹھ گیا تو پھر حقیقت کعبہ کا مشاہدہ تو نہیں ہوا لہٰذا اس مقام پر پہنچنے والوں کے لیے ان پردوں کا اٹھنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ حجابات اسباب ہیں اس آخری حجاب نور تک پہنچنے اور اسکے مشاہدہ کے لیے۔

سوال:۔ حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ پر آپ نے اپنی تصنیف مبداء ومعاد میں بھی بحث فرمائی ہے وہاں آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا کہ جس طرح صورت کعبہ صورت محمدی کی مسجود ہے اسی طرح حقیقت کعبہ حقیقت محمدیہ کی مسجود ہے اس بات پر آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ محمد طاہر نے اپنے خط کے ذریعہ آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ کی اس عبارت سے تو حقیقت محمدیہ سے حقیقت کعبہ کی افضلیت ثابت ہو رہی ہے حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ عالم کی تخلیق سے مقصود رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے اور حضرت آدم اور تمام کائنات آپکی طفیلی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر

نہ کرتا اس سے معلوم ہوا کہ آپ ساری کائنات سے افضل ہیں جبکہ آپ کے ارشاد سے حقیقت کعبہ کا آپ سے افضل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔

جواب:۔ اسکا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حقیقت کعبہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے اور حقیقت کعبہ ذات واجب الوجود سے عبارت ہے اور وہ ہی سب کا مسجود ہے اور وہ ہی مسجودیت کے لائق ہے لہٰذا اسکو اگر حقیقت محمدیہ کا مسجود کہیں اور اس سے ذات باری تعالیٰ کی انفلیت ثابت ہو تو اس میں کونسا استحالہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی افضلیت میں کسی کو کیا شک وشبہ ہو سکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہاں البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ضرور ہے کہ حقیقت محمدی عالم کے تمام افراد کے حقائق سے افضل ہے جبکہ کعبہ کی حقیقت اس عالم کی جنس سے ہے ہی نہیں لہٰذا اس کے حقیقت محمدیہ سے افضل ہونے میں کیا توقف ہو سکتا ہے۔

سوال:۔ یہاں ایک اور ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپکے مندرجہ بالا جواب اور حقیقت کعبہ کی جو تشریح آپ نے فرمائی ہے اس سے جب ثابت ہو گیا کہ حقیقت کعبہ حقیقت محمدیہ سے افضل ہے تو پھر آپ کے اس ارشاد کا کیا مطلب کہ حقیقت محمدیہ جو حقیقت الحقائق ہے ممکنات کے حقائق میں سے کوئی حقیقت اس سے اوپر نہیں اور نہ ہی اس سے اوپر ترقی جائز ہے۔ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۶)

جواب:۔ اس سوال کا جواب ہمیں آپ کے ایک مکتوب گرامی کی اس عبارت سے بخوبی مل جاتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت کعبہ تک جو اس سے برتر ہے پہنچ کر اس سے متحد ہو جاتی ہے اور حقیقت محمدی اس جگہ حقیقت احمدی کا نام پاتی ہے۔ اس وقت حقیقۃ کعبہ اس حقیقت کے ظلال میں سے ایک ظل ہوتا ہے۔

اس جواب سے معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی کی دو حیثیتیں ہیں ایک حقیقت کعبہ میں ضم ہو کر حقیقت احمدی بننے سے پہلے اور ایک اس کے بعد لہٰذا جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے اوپر ممکنات کے حقائق میں سے کوئی حقیفت نہیں اور اس سے اوپر ترقی ممکن نہیں یہ اس وقت کے

لیے فرمایا ہے جب حقیقت محمدی حقیقت کعبہ میں ضم ہو کر حقیقت احمدی کا نام پا لیتی ہے بلکہ اس وقت اسکا مقام یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کعبہ بھی اسکے ظلال میں سے ایک ظل ہوتا ہے۔ اپنے ایک دوسرے مکتوب گرامی میں آپ نے اسی مفہوم کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کے رحلت فرمانے سے ہزار اور چند سال کے بعد ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرما کے حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہو جائیگی اور اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جائیگا اور اس وقت وہ ذات احد جل سلطانہ کا مظہر بن جائیگی اور دونوں اسم مبارک اپنے مسمی کے ساتھ متحقق ہو جائیں گے۔ (دفتر سوم مکتوب ۲۰۹)

حقیقت احمدی:۔

حقیقت محمدی حقیقت کعبہ سے متحد کیسے ہوتی ہے؟ حقیقت محمدی عروج کر کے حقیقت احمدی کس طرح بنتی ہے یہ عالم مکاشفہ کا ایک نازک ترین مقام ہے جس کی تشریح اور تفسیر کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لیکن حضرت امام ربانی نے اس مشکل ترین مقام کو جس انداز سے بیان فرما کے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے اور اس ضمن میں آپ نے آنحضرت ﷺ کے اسمائے گرامی محمد احمد کے بارے میں جو خوبصورت نکات بیان کر کے عظمت مصطفےٰ ﷺ کو جس طرح آشکار فرمایا ہے وہ آپ جیسے عاشق رسول ہی کا کام تھا آپ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ﷺ تمام مخلوقات کی طرح عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہیں اور وہ اسم الٰہی جو انکے عالم خلق کی تربیت کرنے والا ہے شان العلیم ہے اور وہ جو انکے عالم امر کی تربیت فرماتا ہے وہ معنی ہے جو اس شان کے وجود اعتباری کا مبداء ہے جیسے کہ گزر چکا ہے اور حقیقتِ محمدی شان العلیم سے مراد ہے اور حقیقت احمدی اس معنی سے کنایہ ہے جو اس شان کا مبداء ہے اور حقیقتِ کعبہ سبحانی بھی اس معنیٰ سے مراد ہے اور وہ نبوت جو آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آنحضرت ﷺ کو حاصل تھی اور جس مرتبہ کی نسبت خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ ”کنت نبیا و آدم بین

الماء والطین "(میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے) وہ باعتبار حقیقت احمدی کے تھی جس کا تعلق عالم امر سے تھا اور اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو کلمۃ اللہ تھے اور عالم امر سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے تو آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کی خوشخبری اسم احمد سے دی اور فرمایا "**مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہٗ احمد**" (خوشخبری دیتے ہوئے ایک رسول کی جو میرے بعد آئیگا اسکا نام احمد ہوگا) اور وہ نبوت جو عنصری پیدائش سے تعلق رکھتی ہے وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے ہے اور اس مرتبہ میں آپکی تربیت کرنے والی وہ شان اور اس شان کا مبداء ہے یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی دعوت پہلے مرتبہ کی دعوت کی نسبت زیادہ اتم ہے کیونکہ اس مرتبہ میں آپکی دعوت عالم امر سے مخصوص تھی اور آپکی تربیت روحانیوں پر منحصر تھی (یعنی عالم امر اور عالم ارواح میں بھی ارواح کی تربیت حضور نے فرمائی) اور اس مرتبہ آپکی دعوت خلق و امر دونوں کو شامل ہے اور آپکی تربیت اجساد (اجسام) اور ارواح دونوں پر مشتمل ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس جہاں میں آپکی عنصری پیدائش کو آپکی فلکی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا تا کہ مخلوقات کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے وہ مناسبت جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے زیادہ پیدا ہو جائے۔

یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنی بشریت کے ظاہر کرنے کے لیے بڑی تاکید سے امر فرمایا کہ "**قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی**" (اے محبوب کہہ دیجیے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے) یہاں لفظ **مثلکم** کا لانا تاکید بشریت کے لیے ہے اور وجود عنصری سے رحلت کر جانے کے بعد حضور ﷺ کی روحانیت کی جانب غالب ہوگئی اور بشریت کی مناسبت گم ہوگئی اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہو گیا۔ بعض اصحاب کرام نے فرمایا کہ ابھی ہم آنحضرت ﷺ کے دفن سے فارغ نہ ہوئے کہ ہم نے اپنے دلوں میں فرق محسوس کیا یہاں ایمان شہودی ایمان غیبی سے بدل گیا اور معاملہ آغوش سے گوش تک آ پہنچا اور دیکھنے سے سننے تک آ گیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے جب ہزار سال گزرے جو بڑی لمبی مدت اور بڑا دراز زمانہ ہے تو روحانیت کی جانب اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کی تمام جانب کو اپنے رنگ میں رنگ دیا حتی کے عالم خلق نے عالم امر کا رنگ اختیار کر لیا پس ناچار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عالم خلق سے جس چیز نے اپنی حقیقت کی طرف رجوع کی تھی یعنی

حقیقتِ محمدی عروج کر کے حقیقتِ احمدی سے لاحق ہوگئی اور حقیقتِ محمدی حقیقتِ احمدی سے متحد ہوگئی اس جگہ حقیقتِ محمدی اور حقیقت احمدی سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلق وامر کا تعین امکانی ہے نہ کہ تعین وجوبی کہ تعین امکانی اسکا ظل ہے۔ کیونکہ تعین وجوبی کے عروج کے کچھ معنی نہیں اور اس تعین کے ساتھ متحد ہونا معقول نہیں۔ (دفتر اول مکتوب ۲۰۹)

ایک اور مکتوب گرامی آنحضرت ﷺ کے ان دنوں اسماء گرامی میں پوشیدہ رازہائے سربستہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر ﷺ دو ناموں سے موسوم ہیں اور دونوں اسم مبارک قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں فرمایا **محمد رسول اللہ** (محمد اللہ کے رسول ہیں) اور عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا **اسمہ احمد** (ان کا نام احمد ہے) اور ان دونوں کی ولایت علیحدہ ہے ولایت محمدی اگرچہ پیغمبر ﷺ کی محبوبیت کے مقام سے پیدا ہوئی ہے لیکن اس جگہ خالص محبوبیت ثابت نہیں بلکہ اس محبیت کی کیفیت کی آمیزش بھی ہے اگرچہ وہ آمیزش اس کے اصل میں ثابت نہیں لیکن محبوبیت خالص کے مقام سے مانع ہے اور ولایت احمدی خالص محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے جس میں محبیت کا شائبہ تک نہیں ہے اور یہ ولایت پہلی ولایت سے بلند تر ہے اور ایک منزل مطلوب سے نزدیک تر ہے اور محب کو زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جتنا بھی محبوبیت میں مکمل ہوگا اس کی بے نیازی استغنا بھی کامل تر ہوگی اور محبت کی نگاہ میں زیادہ خوبصورت اور زیباتر ہوگا اور محب کو اپنی طرف زیادہ کھینچے گا اور اسے زیادہ برگشتہ اور شیفتہ بنا دیگا۔

نہ تنہا آفتم زیبائی اوست
بلائے من ز ناپروائی اوست

بلا سے مراد عشق کا حد سے گزر جانا ہے جو کہ عاشق کو مطلوب ہے سبحان اللہ احمد عجیب مبارک نام ہے جو کلمہ مقدسہ احد سے مرکب ہے اور حرف میم کے حلقہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عالم بے چوں میں پوشیدہ اسرار میں سے ہے اور اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چوں میں اس پوشیدہ راز کو حلقہ میم کے بغیر تعبیر کیا جاسکے اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے تعبیر فرماتے اور احد احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حلقہ میم طوق عبدیت ہے کہ جس نے بندہ کو مولا سے الگ کر دیا ہے بس بندہ وہ ہی میم کا حلقہ ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے اور اس کے اختصاص کا اظہار کیا ہے۔

چوں نام ایں است نام آور چه باشد

(ترجمہ) جب نام ایسا ہے تو نام والا کیسا ہوگا

ہزار سال کے بعد اسکو امور عظام کے تغیر میں ایک تاثیر ودیعت کی ہے اسی ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا اور ولایتِ محمدی ولایتِ احمدی پر منتہی ہوگی اور کاروبار عبودیت کے طوق سے ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی جگہ الف جو کہ اسکے رب سے اشارہ ہے تمکن ہوا یہاں تک کہ محمد، احمد ہوا وعلیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اس کا بیان یہ ہے کہ عبودیت کے دو طوق میم کے دو حلقوں سے عبارت ہیں کہ جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ دو طوق ان کے دو تعین کی طرف اشارہ ہو ﷺ ان دو تعینوں میں سے ایک تعین بشری ہے اور دوسرا تعین روحی ملکی ہے اور تعین جسدی میں اگرچہ موت آجانے کی وجہ سے سستی ونقص آجاتا ہے اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کرلی لیکن اس تعین کا اثر باقی رہا تھا ہزار سال چاہیے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہو اور اس تعین کا کوئی نشان نہ رہے اور جب ہزار سال ختم ہوا اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ رہا اور ان دو طوق میں سے ایک طوق عبودیت کھینچ لیا گیا اور اس پر فنا اور زوال طاری ہوا اور الف الوھیت کہ اسکو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جاسکتا ہے اس کی جگہ بیٹھا تو لازماً محمد، احمد ہوا اور ولایتِ احمدی نے ولایتِ محمدی میں انتقال رمایا۔ پس محمد دو تعین سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین سے کنایہ ہے اور بس۔ لہٰذا یہ نام حضرت مطلق سے زیادہ قریب ہوگیا اور عالم سے دورتر ہوگا۔ (دفتر سوم مکتوب ۹۶)

☆……☆……☆



الحمد لله کوفی مربع

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدهٗ ونصلی علٰی رسوله الکریم

علم الکلام میں حضرت مجدد الف ثانی کے اجتہادات

پروفیسر غلام مصطفٰی مجددی نوری

(ایم۔ اے علوم اسلامیہ، پنجاب)

☆☆

پروفیسر غلام مصطفٰی مجددی نے اس موضوع پر بڑی تحقیق وتدقیق سے سیر حاصل مقالہ تحریر فرمایا ہے۔ اُن کا تحقیقی مقالہ کمپوز شدہ ۲۰۰ صفحات پر مشتمل تھا جس کی اس جلد میں گنجایش نہ تھی اس لیے معذرت کے ساتھ اس مقالے کے اقتباسات پیش کیے جارہے ہیں۔ اصل مقالہ کتابی صورت میں شائع ہوگا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ۔ حق یہ ہے کہ اس موضوع پر وہی لکھ سکتا ہے جو کسی مرشد کامل کا فیض یافتہ ہو۔ پروفیسر موصوف نے اس مقالے میں ۲۵ ذیلی موضوعات پر اظہار خیال فرمایا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔
(۱) قضائے مبرم وقضائے معلق (۲) وحدة الشہود (۳) اللہ نور السموات والارض (۴) فرشتے اور انسان (۵) ظلوماً جهولاً کی تفسیر (۶) کعبے کی صورت وحقیقت (۷) سیر فی اللہ (۸) حقیقت محمدی (۹) فضیلت نبوت بر ولایت (۱۰) مقام عبدیت (۱۱) شیونات و اعتبارات (۱۲) رویت حق تعالیٰ (۱۳) نظریۂ قیومیت (۱۴) تصور تجدید الف ثانی (۱۵) عرفانِ خدا کے دوراستے (۱۶) عالم مثال (۱۷) من عرف نفسہٗ (۱۸) تنزلات (۱۹) علم کون ومکان (۲۰) ولایت کے تین درجات (۲۱) جہاد اکبر (۲۲) تخلیق آدم و فلسفۂ روح (۲۳) قلب صنوبری (۲۴) شاہق الجبل واطفال مشرکین (۲۵) اقوال اولیاء کی توجیہات۔۔ (مرتبین)

تمام اہل اسلام کے لیے بالعموم اور اسلامیانِ ہند کے لیے بالخصوص حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ کی ذاتِ کمال علم وعرفان کا ایک لازوال سرچشمہ

ہے، جس کے توسل سے آج بھی لاکھوں تشنہ کام سیراب اور شاداب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پرآشوب عہد میں پیدا فرمایا جب شریعت اور طریقت کے بنیادی اصولوں پر علمائے سوء، صوفیائے خام اور شاہان برصغیر اپنے اپنے انداز میں تیرزنی اور انگشت نمائی کا ارتکاب کر رہے تھے اب ضرورت تھی ایسے عظیم القدر انسان کی جو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا بھی بحر زخار ہوتا اور اپنی جولانی موجوں سے دلوں اور ذہنوں کی بنجر زمین کو فکر و آگہی کی ہریالیوں سے مالا مال کر دیتا۔ حضرت علامہ بدرالدین سرہندی علیہ الرحمۃ رقمطراز ہیں:

> ''حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر صدی کے بعد قطبِ وقت کی صورت میں ظہور کرتا ہے اور ارشاد وہدایت فرماتا ہے لیکن قطب الاقطاب کی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے ایک ہزار سال تک اس کی طینت کی تخمیر کی جاتی ہے، مادر زمانہ اس کو تینتیس قرن (990 سال) اور دس سال تک اپنے شکم میں رکھتی ہے اور قضا وقدر کی دایہ اسے تین لاکھ اور سات ہزار دنوں تک تربیت دیتی ہے اور مشاطہ ازل بارہ ہزار ماہ تک اس کے ظاہر و باطن کو آراستہ اور مزین کرتی ہے اور اسکی ظاہری اور روحانی زینت کرتی ہے اور آخر کو اول سے ملاتی ہے اس لیے اس کا ظہور بھرپور اور زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ تجدید سراپا حقیقت و معنی (روحانیت) کا ظہور و بروز ہے اس لیے وہ سب کے لیے ہے اور سب کو شامل ہے یہی وجہ ہے کہ کارخانہء رحمت اور خزانہء فضل واحسان آپ کے حوالے کیا گیا اور وہ جو **وَمَا ارسلنک الارحمتہ للعالمین** کا خطاب مستطاب اللہ پاک کی طرف سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو ایک ہزار سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اس احمد (مجدد الف ثانی قدس سرہٗ) پر ڈالا گیا۔ آپ کا ازلی نام عبدالرحمٰن ہے اور آپ زمانے کے لیے عجوبہ اور عطیاتِ الٰہی کا اعلیٰ نمونہ ہیں، (حضرات القدس ۲/ ۲۵ مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ)۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے جہاں اپنی کوشش پیہم سے نظام اسلام کو نافذ کروایا وہاں علم الکلام اور عرفان التصوف کی صدیوں پرانی الجھنوں کو دور فرمایا اور جسمانی وروحانی طور پر امت محمدیہ کی قیادت کا حق ادا کر دیا، آپ خود تحریر فرماتے ہیں:

> ''وہ علوم جو مقام فنافی اللہ اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک نے محض اپنی عنایت سے مجھ پر منکشف فرما دیئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر چیز کی خاص وجہ کیا ہے اور سیر فی اللہ کے کیا معنی ہیں، برقی تجلی کیا ہے، محمدی المشرب کون ہے، اسی طرح کی دوسری باتیں، اور ہر مقام میں اس کے لوازم اور ضروریات بتائی جاتی ہیں اور ان کو سیر کرائی جاتی ہے، بہت کم چیزیں ایسی ہوں گی جن کی نشاندہی اولیاء اللہ نے کی ہوگی اور وہ راستے میں چھوڑ دی گئی ہوں اور نہ دکھائی گئی ہوں، وہ شخص مقبول ہو گیا جس نے اسکو بلاچون وچرا تسلیم کر لیا۔ (بحوالہ حضرات القدس ۲/۷۳)

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر ولایت کے تین درجات منکشف فرمائے گئے، یعنی ولایتِ صغریٰ، ولایتِ کبریٰ اور ولایتِ علیا، ان تینوں کی تفصیل آپ نے مکتوبات شریفہ میں تحریر فرمائی ہے، (مکتوب ۲۶ دفتر ۱، مکتوب ۲۸۲ دفتر ۱، مکتوب ۳۰۲ دفتر ۱) اسی طرح آپ پر حقیقتِ قرآن، حقیقتِ کعبہ، حقیقتِ بیت المقدس کے اسرار منکشف فرمائے گئے اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ ایک ہزار سال کے بعد حقیقتِ احمدی کے ساتھ حقیقت محمدی متحد کر دی گئی، اس کی تفصیل بھی آپ نے خود تحریر فرمائی ہے، (مکتوب ۷۷ دفتر ۳، مکتوب ۱۲۴ دفتر ۳، مکتوب ۷۲ دفتر ۲) آپ کو قلوب خمسہ کے اسرار وعلوم سے بھی نوازا گیا، مبداء معاد منہا ۱۲) آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سات درجہ متابعت سے نوازا گیا اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، (مکتوب ۲۵ دفتر ۲) آپ پر تعین وجودی کہ جس کے متعلق آج تک کسی عارف نے لب کشائی نہیں کی تھی، ظاہر کیا گیا اور اس عالی مقام کے اسرار وبرکات سے آپ کو ممتاز کیا گیا، (مکتوب ۸۹ دفتر ۳) آپ کی بلند استعداد کا یہ عالم ہے کہ دیگر صوفیہ کے نزدیک جو حق الیقین ہے وہ آپ کے نزدیک عین الیقین ہے، نیز فرمایا، یہ معارف احاطہ ولایت سے خارج ہیں اور علمائے ظاہر کی طرح ارباب ولایت بھی ان کو سمجھنے سے قاصر وعاجز ہیں، یہ علوم انوار نبوت کی مشکوٰۃ سے ماخوذ ہیں کہ دوسرے

ہزار سال والی تجدید سے محض تبعیت اور وراثت کی وجہ سے تازہ ہوئے ہیں، (مکتوب ۴ دفتر ۲) آپ کو خزینہ دار رحمت کے بلند درجے پر فائز کیا گیا جیسا کہ دفتر اول کے مکتوب ۳۱۱ میں ہائے دوچشمی کی حقیقت کے سلسلے میں اشارہ فرمایا ہے آپ قیومیت کے وصفِ عظیم سے بھی متصف ہوئے (مکتوب ۱۱ دفتر ۲، مکتوب ۹۳ دفتر ۲، مکتوب ۸۰ دفتر ۳، مکتوب ۲۵۶ دفتر ۱) اس حقیقت کو مبداء و معاد کے ابتدائی حصے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ الغرض جیسا وحشت ناک دور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے تقاضوں کے مطابق کامل المعرفت انسان کو ہویدا کر دیا جو امم سابقہ والے اولوالعزم پیغمبر کا قائم مقام تھا اور جس نے علوم شرعیہ کو نظریہ استدلالیہ کے مطابق بدیہی اور کشفی بنایا اور نظریت سے ضرورت کی طرف قدم اٹھا کر پیاسی قوم کو راہنمائی عطا فرمائی۔

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

زیرِ نگاہ مضمون میں آپ کے لاتعداد کمالات میں سے صرف ایک کمال کو اجاگر کرنے کی مقدور بھر کوشش کی گئی ہے اور وہ ہے آپ کا کمال اجتہاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم الکلام میں درجہ اجتہاد پر فائز فرمایا ہے، آپ خود تحریر فرماتے ہیں:

> مجھے توسطِ حال میں ایک رات جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم الکلام کے ایک مجتہد ہو، اس وقت سے لے کر مسائل کلامیہ میں میری رائے خاص اور میرا علم مخصوص ہے، اکثر مسائل خلافیہ میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کا خلاف ہے، شروع مسئلہ میں اشاعرہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں لیکن نور فراست سے دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ماتریدیہ حق بجانب ہیں، میری رائے ماتریدیہ کی رائے کے موافق ہے۔ (مبداء و معاد منہا ۲۸) مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور)۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ علم الکلام کے ساتھ عرفان و سلوک کے بھی مجتہد اعظم ہوئے جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک خطبہ یورپ میں ارشاد فرمایا ہے، (تشکیل جدید الٰہیات ص ۲۷۸ مطبوعہ لاہور) آپ کے صحیح مقام سے تو آپ کے شیخ کامل ہی آشنا تھے، انہوں نے آپ کے لیے کثیر العلم،

قوی العلم، چراغے شود کہ عالم ہا از وے روشن گردند‘‘ کے مبارک الفاظ استعمال کیے ہیں، (رقعات باقی باللہ ۶۵ بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین ص ۲۷ مطبوعہ دہلی)

قضائے مبرم اور قضائے معلق:

اللہ تعالیٰ کی قضا، قدر اور تقدیر کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، جب تک قرآن وحدیث کا سہارا نصیب نہ ہو، انسانی تفکر وتدبر اسکی گہرائیوں کو نہیں پا سکتا، حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی لکھتے ہیں۔ امام تفتازانی نے تلویح میں لکھا ہے، قضا کا معنیٰ حکم اور فعل ہے، حکم اس آیت سے ثابت ہے **وقضیٰ ربک الّاتعبدوا الّا ایاہ**، تمہارے رب نے حکم دیا کہ اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور فعل اس آیت سے ثابت ہے، **فقضاھن سبع سمٰوٰت**، پس ان کو مکمل سات آسمان بنایا، (حاشیہ علی الخیالی ص ۲۸۸ مطبوعہ کوئٹہ) آپ مزید فرماتے ہیں: قضا کے تین مطلب ہیں:

☆......لغوی طور پر حکم اور فعل کا نام قضا ہے۔

☆......اشاعرہ کی اصطلاح میں جتنی اشیا نفس الامر میں واقع ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ازل سے متعلق تھا، اسکا نام قضا ہے۔

☆......فلاسفہ کی اصطلاح میں تمام موجودات کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم ازلی کا نام قضا ہے۔ اور یہی علم تمام موجودات کے لیے فیض کا مبداء ہے۔ اسکو حکما اشیاء کے وجود اجمالی، وجود ظلی، لوح محفوظ اور جوہر عقّ ما سے تعبیر کرتے ہیں، محقق طوسی نے لکھا ہے کہ عالم عقلی میں موجودات کا تخلیق کے طور پر اکٹھا ہونا قضا کہلاتا ہے اور خارج میں اپنے مواقع پر یکے بعد دیگرے واقع ہونا قدر ہے۔ قرآن پاک میں ہے، **وان من شئ الا عندنا خزآئنہٗ وما نزلہ الا بقدر معلوم** اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے، (سورۃ الحجر آیت ۲۱) امام تفتازانی نے بھی رقم کیا ہے کہ حکما کے نزدیک مخلوقات کا وجود قضا ہے (حاشیہ علی الخیالی ص ۲۸۸ مطبوعہ کوئٹہ) امام تفتازانی نے تقدیر کے متعلق لکھا ہے: ہر مخلوق کے حسن، قبح، نفع، ضرر، زمان یا مکان اور اس کے ثواب اور عقاب کی حد مقرر کا نام اسکی تقدیر ہے۔ (شرح عقائد نسفی ص ۶۳ مطبوعہ دہلی)۔

اگر کسی عقلِ نارسا کی طرف سے یہ اعتراض کیا جائے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ کافر اپنے کفر اور فاسق اپنے فسق میں مجبور ہے، اسکو ایمان واطاعت کا مکلف ٹھہرانا کیونکر صحیح ہوگا، اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کافر اور فاسق اپنے اختیار سے کفر اور فسق کا ارتکاب کریں گے اس لیے اس نے ان کے اختیار سے ان کے کفر اور فسق کا ارادہ کیا لہٰذا یہ جبر نہیں ہے اور نہ انہیں محال امر کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر ثابت ہے اور اسکا معنی ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو مقدر کیا اور اسے علم تھا کہ یہ اشیاء ان اوقات میں اس طرح واقع ہوں گی تو اب وہ اشیاء اسکے علم ازلی کے مطابق واقع ہوتی ہیں۔ قدریہ تقدیر الٰہی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو مقدر نہیں کیا اور نہ ہی اسکو پہلے سے ان کا علم تھا، ان کے واقع ہونے کے بعد اسکو علم حاصل ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، قضا کی دو قسمیں ہیں، مبرم اور معلق قضائے مبرم اٹل ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں جبکہ قضائے معلق تبدیل ہوسکتی ہے، دونوں قضاؤں کا قرآن پاک میں ثبوت ہے، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے قضا کا تیسرا درجہ بھی بیان کیا ہے، اور غالباً یہ آپ کے فکر رسا کا نتیجہ ہے، فرماتے ہیں:

> اے میرے سعادت مند بھائی! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضا دو قسم پر ہے، قضائے معلق اور قضائے مبرم، قضائے معلق میں تغیر وتبدل کا احتمال ہے اور قضائے مبرم میں تغیر وتبدل کی مجال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، **مایبدل القول لدی**، میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ قضائے مبرم کے بارے میں ہے، اور قضائے معلق کے بارے میں فرماتا ہے، **یمحوا اللہ مایشاء ویثبت وعندہٗ ام الکتاب**، جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، میرے قبلہ حضرت گاہی قدس سرہٗ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہٗ نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے مگر مجھے ہے، اگر چاہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں، اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے اور بعید از فہم فرماتے تھے، یہ نقل بہت مدت تک

اس فقیر کے ذہن میں رہی یہاں تک کہ حضرتِ حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فرمایا، ایک دن ایک بلیّہ کے دفع کرنے کے درپے ہوا جس کسی دوست (طاہر بندگی) کے حق میں مقرر ہو چکی تھی، اس وقت بڑی التجا، عاجزی اور نیاز وخشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کسی امر سے معلق اور کسی شرط سے مشروط نہیں ہے، اس بات سے بڑی یاس اور ناامیدی حاصل ہوئی اور حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہٗ کی بات یاد آئی، دوبارہ پھر ملتجی اور متضرع ہوا اور بڑی عجز ونیاز سے متوجہ ہوا، تب محض فضل وکرم سے اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دو طرح پر ہے، ایک وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا لوحِ محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع ہے اور دوسری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ پر قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے اور قضائے معلق کی اس دوسری قسم میں بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے، پھر معلوم ہوا کہ حضرت سید جیلانی قدس سرہٗ کی بات بھی اسی اخیر قسم پر موقوف ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے نہ اس قضا پر جو حقیقت میں مبرم ہے کیونکہ اس میں تصرف وتبدیلی عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضا کی حقیقت پر اطلاع ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تصرف کیسے کر سکے، اس آفت ومصیبت کو جو اس دوست پر پڑی تھی قسم اخیر میں پایا اور معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس بلیّہ کو دفع فرما دیا ہے، **الحمد للّٰہ ذٰلک حمداً کثیراً طیباً مبارکاً**۔ (مکتوب ۲۱۷ دفتر ۱)

حضرت امام ربانی، مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے قضا اور قدر کے حوالے سے غور وفکر سے کام لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسکا تیسرا درجہ بھی متعین ہے یعنی جو صورۃً مبرم ہے لیکن حقیقتاً معلق ہے اور اس میں تصرف کی

اجازت خاص الخاص محبوبانِ خدا کو نصیب ہوتی ۔۔۔

وحدۃ الشہود کا نظریہ:

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی جلوہ گری سے پہلے عرفان و تصوف کی دنیا میں حضرت شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہٗ کے نظریہ وحدۃ الوجود کا راج تھا، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اس نظریے کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

> ''شیخ اکبر کہتے، وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسکی صفات کا ظہور ہوا۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت علم ہے۔ اللہ کے علم میں تمام اشیاء کی تفصیل موجود ہے، اشیاء کی تفصیل کا نام ''اعیان ثابتہ'' ہے۔ اعیان ثابتہ کا عکس باہر پڑا اور ان کا ظہور ہوا۔ ممکنات کی جو شکلیں نظر آرہی ہیں وہ موہومی ہیں، حقیقت میں صرف ایک ہی ذات وحدہٗ لاشریک کی ہے۔ اور چونکہ یہ موہومی شکلیں خلاق عظیم جل جلالہ کی صفت ہیں اس لیے ان میں اتفاق ہے اور اتفاق بھی ایسا ہے کہ ان پر ثواب وعقاب.. کا ظہور ہوتا ہے۔ شیخ اکبر نے جب تمام اشیاء کو موہومی عکس قرار دے دیا تو ہمہ اوست کہنا ان کے لیے جائز ہوا (مکتوب ۸۹ دفتر ۳)

اس نظریہ وحدۃ الوجود یعنی ہمہ اوست کا مفہوم کچھ بھی ہو، اکبر و جہانگیر جیسے آزاد منش بادشاہوں کے دور میں شریعت سے بیزار صوفیوں نے اس کو غلط معانی کا لباس پہنا کر عوام الناس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اول تو اسکو عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہی کیا تھا، یہ کوئی اسلام کا اعتقادی مسئلہ نہیں تھا جس پر انسان کی نجات کا دارومدار ہوتا ہے، حضرت علامہ غلام یحییٰ علیہ الرحمۃ ''کلمات الحق'' میں تحریر فرماتے ہیں ''وحدتِ الوجود اور وحدتِ الشہود کا مسئلہ دین کے ان ضروری مسائل سے نہیں ہے جن پر ایمان اور اسلام کا مدار ہو...... توحید وجودی حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمۃ اور ان کے معاصرین و تبعین کے دور سے کچھ اس طرح اشاعت پذیر ہوئی، اس مسئلہ کے مبادی و مقاصد کی تحقیق میں کچھ اتنی کتابیں اور رسالے لکھے گئے اور اس دور میں اسکا رواج کچھ اس قدر بڑھ گیا کہ نادانوں کا ایک گروہ زمرۂ صوفیہ میں داخل ہو گیا ہے اور صرف

اس مسئلہ پر اعتقاد رکھنے کو ہی دین کا کمال تصور کرتا ہے اور ظاہر شریعت کو ناقابل اعتنا اور ظاہر رسمیں قرار دیتا ہے، شریعت کا اتباع تو امتِ محمدیہ کا سب سے بڑا کمال ہے اور سعادتِ سرمدی کی کامیابی اسی سے وابستہ ہے، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے دور میں تو گمراہی کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوگیا تھا کہ اسکو روکنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، ملا عبدالقادر بدایونی کے بقول شیخ تاج الدین اکثر دربار اکبری میں باریاب ہوتے، رات بھر رہتے اور وجودی فلسفے پر تقریریں کرتے، خود ابوالفضل بھی اسی غلط تعبیر وتشریح سے متاثر نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے مقاصد پورے ہورہے تھے، ابوالفضل کے خیالات خاص قسم کی ذہنی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں کہ اے خدا! میں تیرے طالبوں کو ہر معبد میں دیکھتا ہوں، ہر زبان میں تیری ہی حمد کی جاتی ہے، ہر مذہب یہی تعلیم دیتا ہے کہ تو وحدہٗ لاشریک ہے، مسجد ومندر ہو یا گرجا، ہر جگہ تیری ہی عبادت کی جاتی ہے، کبھی میں تجھ کو گرجا میں تلاش کرتا ہوں اور کبھی مسجد میں، ہاں ایک معبد سے دوسرے معبد میں تلاش کرتا پھرتا ہوں، اے خدائے برتر! تیرے ہاں دین والحاد کا کوئی امتیاز نہیں وغیرہ، (سیرت مجدد الف ثانی ص ۱۰۰ مطبوعہ کراچی) اس ماحول میں فکر وعرفان اور علم وکلام کے اس عظیم مسئلے پر تفکر وتدبر کی شدید ضرورت تھی اور اس کام کے لیے وہی شخصیت مناسب تھی جسکو وحدۃ الوجود کا پورا پورا ادراک نصیب ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ کمالِ فکر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کو عطا فرمایا، آپ تحریر فرماتے ہیں: ''مخدوما! اس فقیر کا مشرب خردسالی سے اہل توحید کا مسلک رہا ہے، فقیر کے والد (حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ الرحمۃ) کا مشرب بہ ظاہر اس پر تھا، مع حصول نگرانی بہ جانب مرتبہ بے کیفی مشہور ہے کہ فقیہ کا بیٹا آدھا فقیہ، فقیر کو از روئے علم اسی مشرب سے حظِ وافر اور لذتِ عظیم حاصل تھی اور حضرت خواجہ (باقی باللہ علیہ الرحمۃ) سے بیعت ہونے کے بعد توحید کے اسرار کا انکشاف مجھ پر ہوا، مجھ پر ان تمام حقائق کا انکشاف ہوا جن کو شیخ اکبر علیہ الرحمۃ نے نصوص میں بیان کیا ہے، بلکہ وہ اسرار بھی ظاہر ہوئے جن کو شیخ اکبر خاتم الولایت سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ (مکتوب ۳۱ دفتر ۱)

آپ نے اپنی خداداد صلاحیت اور قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے صرف رضائے الٰہی کے لیے کشف وشہود کے سمندر میں غوطہ لگایا اور وحدۃ الشہود کے گوہرِ مراد سے فلاح یاب ہوئے، اس محنتِ دینی اور مشقتِ فکری کے نتیجے میں نہ مغرور ہوئے اور نہ بزرگانِ طریقت کے متعلق کوئی توہین آمیز رویہ اپنایا، خود تحریر فرماتے ہیں:

''مسئلہ وحدۃ الوجود میں کسی کی مخالفت سے مجھ کو کوئی اندیشہ نہیں، اندیشہ اس وقت ہوتا کہ مجھ کو اپنے کشف میں کچھ تذبذت ہوتا، جبکہ نور فجر کی طرح وضاحت کے ساتھ مجھ پر حقیقت واضح ہو چکی ہے تو پھر تذبذب کس بنا پر، اس مسئلہ کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اسکی تصدیق وتنزیہ سے نہ ہوتا تو میں ہرگز اپنے کشوفات کا اظہار نہ کرتا اور حضراتِ مشائخ کے خلاف ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتا، میں ان حضرات کے انبارِ دولت کا ایک ادنیٰ ریزہ گیر اور ان کے خوانِ انعامات کا ایک کمترین خوشہ چین ہوں۔ (مکتوب ۴۲ دفتر ۲)

آپ کے نزدیک وحدۃ الشہود کی تعریف یہ ہے:

''اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے ممکن کو پیدا فرمایا، عدم پر شر وفساد اور ظلمت وخرابی کا ماوٰی ہے، یہ عدمی حصہ بمنزلہ اصل اور مادہ کے ہے، اس عدمی حصہ پر اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا ظل و پرتو پڑا۔ جس اسم وصفت کا اصل پرتو پڑا وہ اس صفت سے متصف ہوا، اگر اسم الہادی کا پرتو پڑا ہے تو ہدایت پائی، اگر العلیم کا پرتو پڑا ہے تو علم سے مجلّی ہوا اور اگر المضل کا پرتو پڑا ہے تو ضلالت میں پڑا، اس طرح باقی صفات کی کیفیت ہے،

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کے موقف کی تائید اور بھی نصوصِ قطعی سے حاصل ہے، آپ نے علمی اور فکری طور پر اپنے نظریے کو قرآن وحدیث سے مزین فرمایا ہے، اور طریقت کے اس اہم موضوع کو شریعت کے اصولوں کی طرف لوٹایا ہے تا کہ گمراہی کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ آپ کی اس کاوش پیہم کی سب سے پہلے آپ کے مرشدِ کریم حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی علیہ الرحمۃ نے تصدیق فرمائی جو توحیدِ وجودی پر کاربند تھے اور اپنے رسالوں اور خطوں میں اسکو ظاہر فرماتے تھے۔ ان کے مخلص مرید حضرت میاں عبدالحق کا بیان ہے مرض الموت سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے فرمایا، مجھے عین الیقین سے معلوم ہو گیا ہے کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے اور شاہراہ اور ہے، اس سے پہلے بھی جانتا تھا مگر اب ایک قسم کا یقین حاصل ہو گیا ہے'' (مکتوبات مکتوب ۴۳ دفتر ۱)

اللہ نور السموٰت والارض:

اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کو فکرِ وسیع کی دولت سے مالا مال فرمایا جس کی بدولت آپ قرآن وحدیث کے بحرِ ناپیدا کنار سے انوکھے موتی تلاش کرتے رہے، قرآن مجید کی بہت مشہور آیت مبارکہ ہے:

> اللہ نور السموٰت والارض مثل نورہٖ کمشکوٰۃ فیھا مصباح ؕ المصباح فی زجاجۃ ط الزجاجۃ کانھا کوکب درّیٌّ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتُونۃٍ لا شرقیّۃٍ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یُضِیُٔ وَلَوْ لم تمسَسہ نارٌ نورٌ علیٰ نُورٌ ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغدان ہو اور اس کے اندر چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے میں ہو، وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو، نہ شرقی ہو، نہ غربی اور اس کا تیل آگ کے بغیر ہی روشنی دیتا ہو اور بہت ہی روشن ہو۔ (سورۃ النور آیت ۳۵)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ اپنی اجتہادی فکر وعرفان سے اسکی تفسیر کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ آیتِ کریمہ میں تمثیل کو اس واسطے اختیار کیا ہے تا کہ ان میں اس نور کے ظہور کو بلا واسطہ نہ سمجھ لیں اور ظلِ کو اصل سے مشتبہ نہ کریں اور نورِ ظل کو نورِ اصل سے مقتبس اور روشن ہوا ہوا خیال کریں یھدی اللہ لنورہٖ من یشآء اللہ اپنے نور کی طرف جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آیتِ کریمہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر محمول ہے لیکن ہم اسکی تاویل کرتے ہیں جو ہم پر منکشف ہوئی ہے۔ یہ بیان اللہ تعالیٰ کی مدد اور حسنِ توفیق ہی سے ہے۔

قلب انسانی اور عرش رحمانی کا موازنہ:

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے انسان کے قلب اور رحمان کے عرش کے درمیان اسرار ومعارف سے لبریز موازنہ پیش کیا ہے جس کی نظیر آپ سے قبل کسی عارف باللہ کے کلام میں نہیں پائی جاتی، آپ کا یہ کلام بھی آپ کے اجتہادی فکر وعرفان کا منہ بولتا ثبوت ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں: ”چونکہ قلب عالم صغیر کا عرش ہے اور عالم کبیر کے عرش کے مشابہ ہے جہاں کی تجلی میں ظلیت کی آمیزش نہیں، اس

لیے اس ظلیت کی آمیزش سے۔ خالی تجلی کا ایک لمحہ اس قلب کا حصہ ہے اگر چہ آسمانوں اور زمینوں کو بھی اس تجلی کی چمک پہنچی ہے لیکن ظلال میں سے کسی ظل کے پردے میں ہے، سوائے قلب کے جو عرش کی ظلیت کی ملاوٹ سے پاک ہے اگر چہ ظہور چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے متفاوت ہے۔

بقدر آئینہ حسنِ تو می نماید او
(بقدر آئینہ پاتا ہے تیرا حسنِ ظہور)

پس ظلیت کی آمیزش سے خالی تجلی عرش مجید کے بعد کاملین کے قلب کا حصہ ہے، دوسروں کے لیے ظلیت دامن گیر ہے، جاننا چاہیے کہ ظہور عرشی اگر چہ ظلیت کی آمیزش سے پاک ہے لیکن وہاں صفات ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور شیوں و اعتبارات ذات میں ثابت ہیں اگر چہ صفات و شیون اس مرتبہ میں ذات کا حجاب نہیں ہیں لیکن دید و دانش میں مشارکت اور محبت و گرفتاری میں برابر شریک ہیں، احدیتِ مجردہ کی محبت کے گرفتار کسی امر کی شرکت پر راضی نہیں ہیں، **الا للہ الدین الخالص**، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے، کے موافق دین خالص کو چاہتے ہیں، صفات کا شریک نہ کرنا انسان کی ہیئت وحدانی اور انسان کے جزء ارضی کے نصیب ہے، ان سب سے بڑھ کر ایک اور انسان کی ہئیت وجدانی ہے جس نے اس کی جزء ارضی کا رنگ اور اس کا حکم اختیار کرلیا ہے، غرض اس معاملہ میں عمدہ اور بہتر جزء ارضی ہے، دوسرے امور زایدہ تحسین و خوبی کی طرح ہیں، انسان میں دو چیزیں ایسی ہیں جو عرشِ مجید میں نہیں ہیں اور نہ ہی عالم کبیر کو ان کا کچھ حصہ ملا ہے انسان میں ایک جزء ارضی ہے جو عرش میں نہیں اور دوسری ہیئت وجدانی ہے جو عالم کبیر میں نہیں اور وہ شعور جو ہئیتِ وجدانی سے تعلق رکھتا ہے نورٌ علیٰ نورٌ ہے جو عالمِ صغیر کے ساتھ مخصوص ہے پس انسان ایک اعجوبہ ہے جس نے خلافت کی لیاقت پیدا کرلی ہے اور بار امانت اٹھالیا ہے، انسان کی عجیب و غریب خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ حضرت احدیتِ مجردہ کے آئینہ بننے کی قابلیت پیدا کرلیتا ہے اور صفات و شیون کے ملنے کے بغیر ذاتِ احد کا مظہر بن جاتا ہے حالانکہ حضرتِ ذات تعالیٰ ہر وقت صفات و شیونات کی جامع ہے اور صفات و شیونات کسی وقت بھی ذات تعالیٰ سے الگ نہیں ہیں، اس کا بیان یہ ہے کہ جب انسان کامل ذات احدیت کے ماسوا کی گرفتاری سے آزاد ہوکر ذاتِ احدیت سے گرفتاری حاصل کرلیتا ہے اور صفات و شیونات سے کچھ بھی اس کے ملحوظ و منظور اور

مقصود و مطلوب نہیں ہوتا تو المرء مع من اَحبّ کے موافق اسکو حضرت احدیتِ مجردہ کے ساتھ ایک قسم کا مجہول الکیفیت اتصال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گرفتاری جو ذاتِ احدیت کے ساتھ اسکو حاصل ہوتی ہے ذاتِ بیچون کے ساتھ قربِ بیچون کی نسبت اس میں ثابت کر دیتی ہے، اس وقت انسان کامل ذاتِ احد کا اس قسم کا آئینہ بن جاتا ہے کہ اس میں صفات و شیونات کچھ مشہود اور مرئی نہیں ہوتیں بلکہ احدیتِ مجردہ اس میں ظاہر و جلوہ گر ہوتی ہے، سبحان اللہ العظیم وہ ذات جو صفات سے ہرگز جدا نہ تھی، اس انسان کامل کے آئینہ میں مجرد اور تنہا طور پر ظاہر اور تجلی ہوگئی اور حسنِ ذاتی حسنِ صفاتی سے الگ ہوگیا، حضرت ذات صفات و شیونات کی آمیزش کے بغیر انسان کے سوا اور کسی چیز میں جلوہ گر نہیں ہوتی، عالم کبیر میں عرش مجید حضرت ذات مجمع الصفات کا مظہر ہے اور عالم صغیر میں انسان کامل ذاتِ احد کا مظہر ہے، جو اعتبارات سے مجرد ہے، اس قسم کا آئینہ اور مظہر بننا نسان کی نہایت عجوبہ باتوں میں سے ہے، **و اللہ سبحانہٗ المعطی لا مانع لما اعطاہ و لا معطی لما منعہ،** اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے جس کو وہ کچھ عطا کرے اسکو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ (مکتوب ۱۱ دفتر ۳)

فرشتے اور انسان میں امتیاز:

انسان ایک عجوبۂ روزگار ہے، خلاقِ عظیم نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے، پھر اسے خلافت ارضی کا سزاوار بنا کر جملہ مخلوقات پر تاجداری کا شرف عطا فرمایا۔

قطرہ ہے لیکن مثالِ بحر بے پایاں بھی ہے

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے فرشتے اور انسان کے مقام میں عجیب قسم کے معارف بیان فرمائے ہیں جو آپ کی اجتہادی فکر و عرفان کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کی بیمثال باریک بینی کا خوبصورت نتیجہ ہیں، فرماتے ہیں

> ”فرشتے اصل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ گرفتاری رکھتے ہیں، ظلیت کی آمیزش ان کے حق میں مفقود ہے، انسان بیچارہ اس جہان میں دائرہ ظلیت سے بمشکل قدم باہر نکال سکتا ہے اور انفسی و آفاقی آئینوں کے وسیلہ کے بغیر شہود دائمی

بمشکل حاصل کرسکتا ہے۔ اصل تک پہنچنے کے بعد اصل کے انوار کی شعاعوں کا پرتو اس کے قلب کے آئینہ میں جلوہ کر کے پھر اسکو عالم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ناقصوں کی تربیت اس کے حوالے کرتے ہیں، اس رجوع میں اسکی اپنی بھی تربیت ہے اور دوسروں کی بھی، کیونکہ اصلی انوار کا وہ پرتو جو اس کی جزء کی طرح بنایا گیا ہے رجوع کی مدت میں دوسرے اجزاء کو بھی اپنے رنگ پر لے آتا ہے اور اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے جس طرح کہ دوسروں کو نقص سے کمال تک لے آتا ہے اور غیب سے شہادت کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور جب اسکی دعوت اور رجوع کی مدت تمام ہو جاتی ہے اور کتاب وقت مقررہ تک پہنچ جاتی ہے تو اسکو اپنے اصل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور رفیق اعلیٰ کی ندا اس سے نکلتی ہے اور مختلف تعلقات سے آزاد ہو کر غیب سے شہادت کی طرف اسباب لے جاتا ہے اور گوش سے آغوش تک معاملہ آجاتا ہے، **الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب**، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، اس وقت صادق آتا ہے، جاننا چاہیے کہ فرشتہ اگرچہ اصل کا مشاہد ہے اور انسان کا شہود النفس کے آئینہ میں ہے لیکن اس دولت کو انسان میں جزء کی طرح بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسکو بقا بخشتا ہے اور اس کے ساتھ متحقق ہوا ہے برخلاف فرشتہ کے کہ اس دولت کو اس میں جزء کی طرح نہیں بنایا گیا، وہ باہر ہی سے نظارہ کرتا ہے اور بقا و تحقیق اس کے ساتھ حاصل نہیں کرتا، یہ انصباغ و تلون جو انسان کو اصلی رنگ سے میسر ہوا ہے فرشتہ نہیں رکھتا اور وہ خصوصیت جو خاکیوں کو حاصل ہے قدسیوں کو حاصل نہیں کیونکہ اندر سے باہر تک بہت فرق ہے اگرچہ اندرونی دولت جزء کی طرح ہوتی ہے اور بیرونی دولت کل کی طرح لیکن اندر اندر ہے اور باہر باہر، کلامنا اشارۃٌ

وبشارۃ، ہمارا کلام اشارت اور بشارت ہوتا ہے اس واسطے خواص بشر خواصِ ملک سے افضل ہوگئے اور ان کے ہوتے ہوئے خلافت کے مستحق بن گئے واللہ یختص برحمتہ من یشآءُ واللہ ذوالفضل العظیم۔

زمیں زادہ بر آسماں تاختہ
زمین و زماں راپس انداختہ

یہ دولت انسان کو جزءِ ارضی کے باعث میسر آئی ہے اور قلب کو جو عرش اللہ کہتے ہیں عنصرِ خاک ہی کی بدولت ہے جو کل کا جامع اور دائرہ امکان کا مرکز ہے، ہاں زمین کو اسکی پستی اور عاجزی کے باعث یہ رفعت وبلندی حاصل ہوئی ہے، اس فروتنی نے اسکو بلند کردیا ہے، مَنْ تواضع لِلّٰہ تعالٰی رفعه اللہ تعالٰی، جو اللہ تعالٰی کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالٰی اسکو بلند کرتا ہے، جب انسان رجوع اور دعوت کی مدت کے تمام ہونے اور اصلی رنگ میں رنگے جانے کے بعد اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور جناب پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت جو خصوصیت اور انبساط اس کو میسر ہوتا ہے یقین نہیں کہ دوسروں کو بھی ہو اور قرب ومرتبہ جو اسکو حاصل ہوتا ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اصل میں فانی ہوکر اسکے ساتھ بقا پیدا کرلیتا ہے اور اصل کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، کسی اور کی کیا مجال ہے کہ اس کے ساتھ برابری کرے کیونکہ دوسروں کا انصباغ چونکہ درونی ہے اس لیے ذاتی حکم رکھتا ہے، شتان مابینھما، ان دونوں میں بہت فرق ہے، یہ کمال انبیاءِ کرام علیہم السلام کے ساتھ جن کو خواص بشر کہتے ہیں، مخصوص ہے اور جس کسی کو چاہیں ان کی وراثت اور تبعیت کے طور پر اس دولت سے مشرف کرتے ہیں، یہ دولت انبیاء علیہم السلام کے اصحاب کو ان کی صحبت کی برکت سے زیادہ تر حاصل تھی، اصحاب کرام کے سوا اور لوگ جن کو اس دولت سے مشرف فرماتے ہیں بہت کم بلکہ اس سے بھی کمتر ہیں۔ (مکتوب ١٢ دفتر ٢)

ظلوماً جھولا کی انوکھی تفسیر:

قرآن پاک کی دو مشہور آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کے فکر وعرفان کی پرواز نقطہ کمال کو چھورہی ہے، پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کیجیے:

ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لِنفسہٖ ومنُھُم مقتصدٌ ومنھم سابقٌ بالخیرات باذن اللہ،

پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چُن لیا، کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی اعتدال پر چلنے والا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیرات میں سب سے بڑھنے والا ہے۔

انّا عرضنا الامانة علی السموت والارض والجبال فابَین ان یحملنھا واشفقن منھا وحملھا الانسان انّہٗ کان ظلوما جھولا ○

ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی لیکن انہوں نے اسکے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا، یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔

''ان دونوں آیتوں کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ہم تاویل بیان کرتے ہیں جو ہم پر ظاہر ہوگئی ہے، **ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا** ، اے پروردگار تو ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ فرمانا، جاننا چاہیے کہ **ان اللہ خلق آدم علیٰ صورتہ**، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ صورت سے پاک اور برتر ہے، پس آدم کا اسکی صورت پر پیدا ہونا اس طرح پر ہوسکتا ہے کہ اگر مرتبہ تنزیہ کی صورت عالم مثال میں فرض کی جائے تو بے شک یہ صورت جامع ہوگی جس پر انسان جامع موجود ہوا ہے، دوسری صورت کو یہ قابلیت حاصل نہیں کہ اس مرتبہ مقدسہ کی تمثال ہوسکے اور اس کا آئینہ بن سکے، یہی باعث ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہوا ہے کیونکہ خلیفہ جب شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو اس شے کی خلافت کا مستحق نہیں ہوتا اس لیے کہ شے کا خلیفہ اسکا خلف اور قائم مقام ہوتا

ہے، چونکہ انسان رحمان کا خلیفہ بن گیا اس لیے بار امانت بھی اسی کو اٹھانا پڑا، **لا یحمل عطایا الملک اِلاَّ مطایاہ**، بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں۔ آسمان، زمین اور پہاڑ اتنی جامعیت کہاں سے لاتے تاکہ حق تعالیٰ کی صورت پر پیدا ہوتے اور اسکی خلافت کے لائق ہوکر بار امانت کو اٹھا سکتے، محسوس ہوتا ہے کہ بالفرض اگر اس بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے حوالے بھی کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ان کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا، وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قیومیت ہے جو انسان کامل کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی انسان کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو خلافت کے حکم سے تمام اشیاء کا قیوم بنا دیئے ہیں، تمام مخلوق کو تمام ظاہری باطنی کمالات کا اضافہ اور بقا اسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اگر فرشتہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ متوسل ہے اور اگر جن وانس ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ وسیلہ پکڑتا ہے، غرض یہ کہ حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں خواہ وہ اس امر کو جانیں یا نہ جانیں، فرمایا، انّہٗ کان ظلوماً جھولا، یعنی انسان اپنی جان پر یہاں تک ظلم کرتا ہے کہ اپنے وجود اور توابع وجود کا کوئی نام ونشان اور حکم واثر باقی نہیں چھوڑتا۔ واقعی جب تک اس طرح کا حکم نہ کرے بار امانت کے لائق نہیں ہوسکتا، جھولا یعنی اس قدر جاہل ہے کہ اسکو اپنے مطلوب کا علم وادراک نہیں بلکہ ادراک سے عاجز ہونا اور علم سے جاہل ہونا اس کا مقصود ہے، یہ عجز اور جہل اس مقام میں کمالِ معرفت ہے کیونکہ سب سے زیادہ جاہل اس مقام میں سب سے

زیادہ عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ عارف ہوگا وہی بار امانت کے لائق ہوگا، یہ دونوں صفتیں گویا بار امانت کے اٹھا لینے کا باعث ہیں یہ عارف جو اشیاء کی قیومیت کے مرتبہ سے مشرف ہوا ہے وزیر کا حکم رکھتا ہے، جس کی طرف تمام مخلوقات کے ضروری کام اور معاملات راجع ہیں، انعام اگرچہ بادشاہ کی طرف سے ہیں لیکن وزیر کے ذریعے پہنچتے ہیں، اس دولت کے رئیس ابوالبشر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ السلام ہیں، یہ مرتبہ اصلی طور پر اولوالعزم پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو ان بزرگوں کی وراثت وتبعیت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمائیں۔

بر کریماں کارہا دشوار نیست

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک انسان عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے مراد ہے، عالمِ خلق کو انسان کی صورت اور ظاہر تصور کرتے ہیں اور عالم امر کو اسکا باطن اور حقیقت جانتے ہیں لہٰذا اتنی جامع مخلوق ہی حق تعالیٰ کی امانت وخلافت کی سزاوار ہوسکتی ہے اور تمام مخلوقات سے اشرف واعلیٰ کہلاسکتی ہے، اب حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے لامتناہی عرفان کا عالم دیکھیے کہ اتنے اعلیٰ درجے کی مخلوق بھی ایسے حیرت زدہ ہے جیسے کوئی بچہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوکر اسکی بیکرانیوں پر نقش حیرت بنا ہوا ہے۔

کعبہ کی صورت وحقیقت:

کعبہ مشرفہ، زاداللہ شرفھا اللہ تعالیٰ کا مقدس ومطہر گھر ہے جس کی طرف چہرہ کر کے تمام اہل اسلام نماز پڑھتے ہیں، جس کا حج اور عمرہ عبادتوں کی جان ہے اور دیدار ریاضتوں کی شان ہے، جس کے طواف سے عشق ومستی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، جو کائنات میں مرکز توحید ہے، محورِ مساوات ہے، ذریعہ اخوتِ اسلامی ہے، حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، یارسول اللہ! زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی، آپ نے فرمایا، مسجد حرام (یعنی کعبہ مشرفہ) (صحیح مسلم کتاب المساجد) قرآن پاک نے بھی فرمایا۔

اِنَّ اول بیت .... وھدی للعلمین

یعنی بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کا راہنما، (آل عمران آیت ۹۶)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے کعبہ مشرفہ کے متعلق بہت ہی بلند افکار و اسرار کا اظہار فرمایا ہے جس کو پڑھ کر اسکی شان و عظمت اور جلالت و منزلت کا ادراک حاصل ہوتا ہے، آپ رقمطراز ہیں:

''جاننا چاہیے کہ صورتِ کعبہ پتھر اور مٹی سے مراد نہیں ہے کیونکہ بالفرض پتھر اور مٹی نہ بھی ہوں تو پھر بھی کعبہ کعبہ ہے، اور خلائق کا مسجود (الیہ) ہے، بلکہ صورت کعبہ باوجودیکہ عالم خلق میں سے ہے لیکن اور اشیاء کی خلق کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک ایسا پوشیدہ امر ہے جو حسن وخیال کے احاطہ سے باہر ہے، گو عالم محسوسات میں سے ہے لیکن کچھ بھی محسوس نہیں اور اگرچہ اشیاء کا متوجہ الیھا ہے لیکن کچھ بھی توجہ میں نہیں ہے، وہ ایک ہست ہے جس نے نیستی کا لباس پہنا ہے، اور ایک نیست ہے جو ہستی کے لباس میں ظاہر ہے، جہت میں ہو کر بے جہت ہے اور سمت میں ہو کر بے سمت ہے غرضیکہ یہ صورت حقیقت نما نہایت ہی عجیب ہے جس کی تشخیص میں عقل عاجز ہے اور عقلمند اس کے تعین میں حیران ہیں، گویا عالم بیچونی وبیچگونی کا نمونہ رکھتی ہے اور بے شبہی اور بے نمونی کا نشانہ اس میں پوشیدہ ہے، ہاں اگر ایسی نہ ہوتی تو مسجود (الیہ) ہونے کے لائق نہ ہوتی اور بہترین موجودات بڑے شوق سے اسکو اپنا قبلہ نہ بناتے، **فیہ آیات بینات** اس میں نشان ظاہر ہیں، اسکی شان میں نص قاطع ہیں اور **من دخلہ کان امنا،** جو اس میں آگیا وہ امن میں ہو گیا اس کے حق میں ہے، بیت اللہ ہے کہ صاحب خانہ جل شانہ کی بیوتیت خاص اسی میں ہے اور بیچون بے چگون کا مجہول الکیفیت اتصال ونسبت اسی کے ساتھ ہے واللہ

المثل الاعلیٰ ،اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عالم مجاز میں جو حقیقت کا پل ہے، بیت یعنی خانہ اور گھر اس بیوتیت کی خبر دیتا ہے کہ صاحب خانہ کے قرار و آرام کی جگہ ہے، اگر چہ دولتمندوں کی نشست گاہیں بہت ہیں اور نشست و برخاست کے مکان بے شمار ہیں لیکن یہ ایسا گھر ہے جو اغیار کی مزاحمت سے بیگانہ ہے اور معشوق حقیقی کا مکان اور آرام گاہ ہے اگر چہ حدیث قدسی ہے **ولکن یسعنی قلب عبدالمومن** ،لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں، کے موافق مومن بندے کا دل بیچونی ظہور کی گنجائش حاصل کر لیتا ہے لیکن بیتیت یعنی گھر ہونے کی نسبت جو بیوتیت کی خبر دیتی ہے کہاں حاصل کر سکتا ہے اور اغیار کی مزاحمت کو جو گھر کے لوازم سے ہے کس طرح دور کر سکتا ہے، چونکہ غیر و غیریت کا اس مقام میں دخل نہیں اس لیے خلائق کا مسجود ہے تا کہ غیر کو سجدہ نہ ہو کیونکہ غیریت مسجود ہونے کے منافی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سجدہ تجویز نہ کیا لیکن بیت اللہ کی طرف بڑے شوق و رغبت کے ساتھ سجدہ کیا، اس بیان سے فرق محسوس کر لیں، ساجد اور مسجود کے درمیان بہت فرق ہے، میرے بھائی جب تو نے صورت کعبہ کا تھوڑا سا حال سن لیا تو اب حقیقت کعبہ کی نسبت بھی سن لے، حقیقت کعبہ اس بیچون واجب الوجود کی ذات سے مراد ہے جہاں تک ظہور اور طلب کی گرد بھی نہیں پہنچی اور مسجود اور معبود ہونے کے لائق ہے، اس حقیقت کو اگر حقیقت محمدی کی مسجود کہیں تو اس میں ڈر ہے اور اس سے اس کے افضل ہونے میں کیا حرج ہے، ہاں حقیقت محمدی جہان کے تمام افراد کی حقیقتوں سے افضل ہے لیکن کعبہ معظمہ کی حقیقت عالم کی قسم سے نہیں تا کہ اسکی طرف یہ نسبت کی جائے اور اس کے افضل ہونے میں توقف

کیا جائے، تعجب ہے ان دونوں صاحب دولتوں کی صورتوں کا فرق ساجد اور مسجود ہونے کے باعث ہے، صاحب ہنر عقلمندوں نے ان دونوں حقائق کا تفاوت معلوم نہیں کیا، اسی لیے اعراض وانکار کے مقام میں رہتے ہیں اور طعن وتشنیع کے لیے زبان دراز کی ہے، حق تعالیٰ ان کو انصاف دے تاکہ بے سوچے سمجھے ملامت نہ کریں، (مکتوب ۱۲۴ دفتر ۳)

سیر فی اللہ کے بارے میں:

سیر آفاقی کے بعد جو سیر واقع ہوتی ہے اسکو سیر انفسی کہتے ہیں اور اسی کو سیر فی اللہ قرار دیتے ہیں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

> ''صاحب مقام کا حال کیا ہے اور اس بات کے قائل کی مراد کیا ہے تو ہر شخص اپنی عقل و دانش کے مطابق کچھ کہتا ہے، اس بات کا کہنے والا کچھ مطلب نکالتا ہے اور سننے والا کچھ اور ہی سمجھتا ہے، یہ لوگ بلاتکلف سیر انفسی کو ''سیر فی اللہ'' کہتے ہیں اور بلاتردد کے اسکا نام ''بقا باللہ'' رکھتے ہیں اور اس مقام کو وصل واتصال سمجھتے ہیں، فقیر پر اس قسم کی باتیں نہایت شاق گزرتی ہیں اور ان کی تصحیح اور توجیہ کے لیے مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے، سیر آفاقی میں اوصاف رذیلہ سے تخلیہ حاصل ہوا ہے اور سیر انفسی میں اخلاقِ حمیدہ سے تجلیہ نصیب ہوا ہے چونکہ تخلیہ کو مقام فنا سے مناسبت ہے اس لیے تجلیہ کو بقا سے مناسبت ہوئی۔ ان کے نزدیک سیر انفسی کی نہایت نہیں ہے، اگر ابدی عمر ہو تب بھی کوئی اسکے اختتام کو نہیں پا سکتا کیونکہ حضرت محبوب جل شانہٗ کے شمائل واوصاف کی کوئی حد نہیں ہے لہذا سالک کے آئینے میں اسکے کمالات اور اوصاف میں سے کسی نہ کسی کمال اور وصف کا ظہور ہوتا رہے گا اور سالک اس سے متخلق اور متجلی ہوتا رہے گا۔

ذره گر بس نیک ور بس بد بود
گرچه عمرے تگ زند درخود بود

مشائخ اس فنا و بقا کو جو سیر آفاقی و انفسی سے حاصل ہوئی ہے ولایت کا نام دیتے ہیں اور کمال کی نہایت اس مقام کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو ان کے نزدیک وہ سیر رجوعی ہے جس کو سیر عن اللہ باللہ کہتے ہیں اور اسی طرح چوتھی سیر کو سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں اور اس کا تعلق بھی نزول سے ہے، ان دو سیروں کو برائے تکمیل وارشاد تجویز کرتے ہیں جیسا کہ پہلی دو سیروں کو حصول ولایت و کمال کے لیے کیا ہے، مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خبر میں وارد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ستر ہزار پردے نور اور ظلمت کے ہیں، سیر آفاقی میں ان تمام پردوں کا چاک کرنا شامل ہے، سات لطائف ہیں اور ہر لطیفہ کے دس ہزار پردے ہیں، جب سیر آفاقی پوری ہوتی ہے تو تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، سالک کو سیر فی اللہ نصیب ہوتی ہے اور وصل کا مقام مل جاتا ہے، گویا ان کے نزدیک نسخہ جامعہ کے کمال و تکمیل کی یہ کیفیت ہے، اے اصحاب بینش! سنجیدگی سے کام لو اور توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ تم کو فہم اور راہ مستوی پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بے کیف و بے مثل ہے، جس طرح وہ آفاق سے برتر ہے اسی طرح انفس سے بالاتر ہے، لہٰذا سیر الی اللہ اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کہنا کب درست ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں سیر الی اللہ میں داخل ہیں اور سیر فی اللہ وہ سیر ہے جو بہت ہی زیادہ آفاق و انفس سے بعید ہے اور آگے اور بہت آگے ہے، عجب معاملہ ہے کہ یہ لوگ سیر انفسی کو سیر فی اللہ قرار دے کر کہتے ہیں کہ اس سیر کی کوئی انتہا نہیں اگر کوئی عمر ابدی پالے جب بھی اسکو طے نہ کر سکے جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے حالانکہ

انفس بھی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے تو اسکے معنی یہ ہوئے کہ دائرہ امکان کا طے کرنا ممکن نہیں، اندریں صورت حرمان دائمی اور خسران ابدی کے سوا کیا نتیجہ نکلے گا، نہ فنا کا تحقق ہوگا اور نہ بقا کا تصور تو پھر وصل واتصال اور قرب وکمال کیسے نصیب ہوگا، سبحان اللہ! جب کہ مشائخ بزرگ پانی کے عوض سراب پر اکتفا کر بیٹھیں اور الی اللہ کو فی اللہ سمجھ لیں اور امکان کو وجوب تصور کریں اور مثل کو بے مثل قرار دیں تو پھر چھوٹوں اور پست ہمتوں سے کیا گلہ کیا جائے اور کیسی شکایت، چہ بلا شُد، آخر کس اعتبار سے انفس کو حق جلا وعلا سمجھ لیا ہے کہ اسکی سیر کو جبکہ اسکی حد ونہایت ہے، بے حد وبے انتہا لکھ گئے ہیں، سیر انفسی کے دوران آئینہ سالک میں جو کچھ نظر آیا ہے اسکو یہ لوگ عین اسما وصفات پروردگار قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہ اسما وصفات کے ظلال میں سے ایک ظل کا ظہور ہے، میں کیا کروں اور باوجود علم اور واقفیت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوءِ ادب کسطرح برداشت کروں اور اس کی بادشاہت میں کس طرح کسی کو تریک کردوں، بے شک ان اکابر قدس اللہ اسرارہم کے مجھ پر حقوق ہیں کہ ان کی نیک تربیتوں کا پروردہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کے حقوق سے بالاتر ہیں اور اسکی تربیت اوروں کی تربیت سے بہتر ہے، اس کے حسن تربیت کی بدولت اس ورطہ سے میں نے نجات پائی اور اسکی بادشاہت میں غیر کو اسکا شریک نہیں بنایا ہے، حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اسکی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ بے مثل وبے کیف ہے اور ہر وہ شے جس پر مثلیت اور کیفیت کا دھبہ ہو اس سے مسلوب ہے، اس صورت میں آفاق وانفس کے لیے

آئینوں میں اس کے کیا گنجائش کیونکہ ان آئینوں میں جو بھی ظاہر ہو وہ مثل وکیف کے مظاہر کی طرح ہے لہٰذا آفاق وانفس کے ورا اسکو تلاش کرنا چاہیے، اس دائرہ امکان میں جس میں آفاق وانفس شامل ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے گنجائش نہیں ہے اسی طرح اس کے اسماوصفات کے لیے گنجائش نہیں ہے، جو کچھ دائرہ امکان میں ظاہر ہو رہا ہے وہ اسماوصفات کے ظلال وعکوس ہیں بلکہ ظلال وعکوس بھی اس سے بالاتر ہیں، یہاں تو صرف ان کا سراغ ہے اور قدرت کی کاریگری اور انتقاش ہے، بھلا ظہور کس کا اور تجلی کہاں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اسماوصفات بھی بے مثل و بے کیف ہیں، جب تک آناق وانفس سے نہ نکلو گے اللہ تعالیٰ کے اسماوصفات کی ظلیت کو نہ پاسکو گے، جبکہ آفاق وانفس میں ظلیت کو نہیں پاسکتے تو اسماوصفات تک وصول کیسا، عجب معاملہ ہے، اگر میں اپنے مکشوفات اور یقینی معلومات کی کوئی ایسی بات بیان کروں جو مشائخ کے مذاق اور ان کے کشوفات کے مطابق نہ ہو تو کون یقین کرے گا اور کون اسکو قبول کرے گا اور اگر میں وہ بات نہ کہوں اور اس کو چھپاؤں تو میں نے حق کو باطل کے ساتھ ملانا تجویز کرلیا اور جو بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہنے کی ہے اسکے کہنے کو جائز قرار دے دیا، لہٰذا میں مجبور ہوں کہ حق کا اظہار کروں اور جو اس کے شایان نہیں ہے اسکو سلب کروں، مجھکو اوروں کے خلاف کا نہ ڈر ہے نہ غم ...... اللہ تعالیٰ کے فضل سے انکشاف ہوا کہ یہ تمام کھیل ظلال کا ہے اور یہ سب شبح ومثال میں گرفتاری کے اسباب ہیں، مطلوب تو ان سب سے وراء ہے اور مقصود ان کے سوا ہے، لہذا سب سے منہ موڑ کر رب العزت کی طرف فقیر متوجہ ہوا ہے اور کہتا ہے، **انی وجھت وجھی للذی**

فطر السموات والارض حنیفاً وما انا من المشرکین، اگر مولا تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اکابر کے مکشوفات کے سامنے کب زبان ہلاتا، میں ان کی نعمتوں کے خرمنوں کا ایک ادنیٰ خوشہ چین ہوں، (مکتوب ۴۲ دفتر ۲)

حقیقت محمدی واجب نہیں:

آپ تحریر فرماتے ہیں:

''یعنی فقیر کے نزدیک کوئی تعین متعین نہیں ہے، وہ کونسا تعین ہے جو لا تعین ذات کو متعین بنائے (مکتوب ۱۲۲ دفتر ۳) پھر فرمایا، اگر فقیر کی عبارتوں میں اس قسم کے الفاظ ہوں تو ان کو صنعتِ مشاکلہ کے قبیل سے جاننا چاہیے، (کسی شے کا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کی مصاحبت کی وجہ سے ذکر کرنا مشاکلہ کہلاتا ہے)

حقیقت محمدی باقی تمام حقائق اور حق تعالیٰ کے درمیان کا واسطہ ہے، آنحضرت کے واسطہ کے بغیر کوئی مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا (مکتوب ۱۲۲ دفتر ۳)

حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے، اس حب کا تعین اور ظہور ہے جو ظہورات کا مبداء اور مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، ''میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں بس میں نے خلق کو پیدا کیا''، اول اول جو چیز اس پوشیدہ خزانہ سے میدان ظہور میں آئی یہی حب ہے جو مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی، اگر حب نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں راسخ اور مستقر نہ ہوتا، حدیث قدسی ''اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا'' کے راز کو جو حضرت خاتم الرسل ﷺ کی شان میں ہے اس جگہ ڈھونڈنا چاہیے، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا کی حقیقت کو اس مقام میں طلب کرنا چاہیے، عالم کے ایجاد کے لیے

> پہلے جو اعتبار پیدا ہوا وہ حب ہے بعد ازاں اعتبار وجود جو ایجاد کا مقدمہ ہے کیونکہ حضرت ذات جل شانہٗ اس حب اور اس وجود کے اعتبارات کے بغیر عالم اور عالم کی ایجاد سے مستغنی ہے، بے شک وہ تمام جہانوں سے غنی ہے، آیتِ قرآنی اس پر نص قاطع ہے، جاننا چاہیے کہ تعین اول جو کہ تعین حبی ہے جب بڑی باریک نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعین کا مرکز حب ہے جو حقیقت محمدی ہے، (مکتوب ۱۲۲ دفتر ۳)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک پہلے دونوں تعینوں کو وجوبی کہنا غلط ہے کیونکہ جب حقیقۃ الحقائق (سب سے پہلی حقیقت) یعنی حقیقت محمدی مخلوق و حادث ہے تو دوسرے مابعد کے حقائق بھی مخلوق و حادث ہوں گے، تعین وجوبی ممکنات کی حقیقت نہیں ہوسکتا ممکن کی حقیقت بھی ممکن ہوگی نہ کہ واجب، آپ کے نزدیک حقیقت محمدی کا مخلوق ہونا حدیث نبوی اول ماخلق اللہ نوری سے ثابت ہے، اس طرح قبل خلق السمٰوٰت بالفی عام اور قبل خلق ادم باربعۃ عشر الف عامٍ وغیرہ کے الفاظ احادیث سے خلقت کا وقت متعین بھی ثابت ہوتا ہے جو حقیقت محمدی کے مخلوق اور حادث ہونے کی دلیل ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں:

> ''تعجب ہے کہ جناب شیخ اکبر قدس سرہٗ حقیقت محمدی کو اور تمام ممکنات کی حقائق کو جن کو وہ اعیان ثابتہ کہتے ہیں قدیم سمجھتے ہیں اور ان کو واجب قرار دیتے ہیں وہ کس بنا پر وجوب کا حکم تجویز کرکے ارشادات نبویہ کے خلاف جاتے ہیں، ممکن تو اپنے اجزاء سے اپنی صورت سے، اپنی حقیقت سے ممکن ہے، اس کی حقیقت کے واسطے تعین وجوبی کس بنا پر، ممکن ممکن ہی رہے گا، اس کا واجب سے کوئی اشتراک نہیں، صرف یہ نسبت ہے کہ وہ مخلوق ہے اور واجب تعالیٰ اسکا خالق ہے، (مکتوب ۱۲۲ دفتر ۳)

اس مکتوب کے خاتمہ حسنہ میں حضور اقدس ﷺ کے متعلق کمالِ محبت سے تحریر فرماتے ہیں:

"جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی کیونکہ آنحضرت ﷺ باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے جیسے کہ آپ نے فرمایا خلقت من نور اللہ، دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں، اس دقیقہ کا بیان یہ ہے کہ حضرت واجب الوجود کی صفاتِ ثمانیہ حقیقہ اگرچہ دائرۂ وجوب میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کے باعث جو ان کو حضرتِ ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی بو پائی باتی ہے اور جب صفات حقیقیہ قدیمہ میں امکان موجود ہے تو حضرت واجب الوجود کی صفات اضافیہ میں بطریق اولیٰ مکان ثابت ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر پختہ دلیل ہوگا، کشف صریح سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے، ممکناتِ عالم کے صحیفہ کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن وہاں آپ کا وجود مشہود نہیں ہوتا بلکہ ان کی خلقت و امکان کا منشا صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے، جب آپ کا وجود عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں بلکہ اس عالم سے برتر ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جہان میں آپ سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھر آپ کا سایہ کیسے متصور ہوسکتا ہے، واضح ہو کہ یہ صفتِ علم صفاتِ حقیقہ میں سے ہے۔ اور موجود خارجی کے دائرے میں داخل ہے اور جب اس صفت کو اضافت عارض ہوجائے اور اس سے تقسیم ہوجائے جیسے علم اجمالی اور علم تفصیلی تو یہ قسمیں صفاتِ اضافیہ میں سے ہوں گی اور

ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی جو صفاتِ اضافیہ کا مقر و مقام ہے جیسے کہ گزر چکا ہے اور مشہود ہوتا ہے کہ علم جملی جو صفاتِ اضافیہ میں سے ہے وہی نور ہے جس نے عالم عنصری میں بہت سی پشتوں سے رحموں میں منتقل ہونے کے بعد بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے بموجب صورت انسانی میں جو احسن تقویم ہے ظہور فرمایا ہے اور جسکا نام محمد اور احمد ہوا ہے، ......پس پیدائشِ محمدی باوجود حدوث کے قدم ذات کی طرف منسوب ہے اور اسکا امکان بھی وجوب ذات تک منتہیٰ ہے اور اسکا حسنِ حسن ذاتِ تعالیٰ ہے، جس میں حسن کے سوا کسی اور چیز کی آمیزش نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جمیل مطلق کی محبت کا تعلق ہے اور حق تعالیٰ کی محبوب ہے۔

(مکتوب ۱۰۰، دفتر ۳)

نبوت افضل ہے ولایت سے:

آپ تحریر فرماتے ہیں:

''کمالات ولایت، کمالات نبوت کے مقابلے میں کسی گنتی میں نہیں ہیں کاشکے از، کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی جو قطرے کو دریا کے محیط کے ساتھ ہے مگر ایسا نہیں پس وہ فغیلت جو نبی کو نبوت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ ہے جو ولایت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا فضیلت مطلق انبیائے کرام کا حصہ ہے اور جزئی فضیلت۔ ملائکہ کرام کے لیے ہے، پس درست وہی ہے جو علمائے کرام نے فرمایا ہے، (مکتوب ۲۶۶ دفتر ۱)

ولایت، نبوت سے افضل ہے کہ قائلین ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوعین میں سے ہیں اور مقام نبوت کے کمالات سے بے خبر ہیں، مقام نبوت کو مقام ولایت کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسی غیر متناہی کو

متناہی کے ساتھ ہے، نبوت ہبوط کے مرتبہ میں کلی طور پر مخلوق کی طرف متوجہ ہے اور ولایت کو ہبوط کے مرتبہ میں مخلوق کی طرف پوری توجہ نہیں ہے بلکہ اسکا باطن حق کی طرف ہے اور اس کا ظاہر مخلوق کی طرف، اسکا راز یہ ہے کہ صاحب ولایت نے مقاماتِ عروج کو پوری طرح طے نہیں کیا اور نزول کرلیا ہے اس لیے لازمی طور پر اس کو فوق کی نگرانی ہر وقت دامن گیر ہے، اور کلی طور پر اسکی توجہ خلق کے ساتھ ہونے میں مانع ہے برخلاف۔۔ صاحب نبوت کے کہ اس نے عروج کے تمام مقامات طے کرکے ہبوط فرمایا ہے لہٰذا وہ پورے طور پر مخلوق کو حق جل سلطانہٗ کی طرف دعوت دینے میں متوجہ ہے، ولایتِ اولیا، اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف سراغ دیتی ہے اور ولایت انبیاء حق تعالیٰ کی اقربیت کا نشان بتاتی ہے، ولایت اولیا شہود کی طرف دلالت کرتی ہے اور ولایت انبیا اس مجہول کیفیت کی نسبت کا ثبوت دیتی ہے، ولایت اولیا اقربیت کو نہیں پہچانتی کہ کیا ہے اور جہالت کو نہیں جانتی کہ کہاں ہے اور ولایت انبیاء اقربیت کے باوجود قرب کو عین بُعد جانتی ہے اور شہود کو عین غیبت سمجھتی ہے۔ (البینات شرح مکتوبات مکتوب ۷۷، جلد ۲)

مقام عبدیت کی بلندی:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے تصوف وعرفان کے تین گروہوں کا ذکر کیا ہے۔

''اہل عبدیت، اہل ظلیت اور اہل وجودیت پھر اہل عبدیت کے متعلق فرماتے ہیں:

''اس عالی گروہ کو عبدیت کے مقام سے جو تمام مقاماتِ ولایت کی انتہا ہے کامل حصہ مل چکا ہے اور ان بزرگوں کے حال کی صحت پر اس سے بڑھ کر اور کونسی دلیل ہوسکتی ہے کہ ان کے تمام کشف کتاب وسنت کے موافق اور ظاہر شریعت کے مطابق ہیں اور ان حضرات نے ظاہر شریعت سے سرمو مخالفت نہیں کی، (بحوالہ مکاتیب اقبال جلد ا ص ۳۹)

پھر آپ خود اپنے سفرِ عرفان کے متعلق لکھتے ہیں کہ پہلے پہل آپ توحید وجودی کے قائل تھے بعد ازاں مقام ظلیت میں قدم رکھا اور سارے عالم کو ظل محسوس کیا، اس مقام پر بہت سے مشائخ کو اقامت پذیر ملاحظہ کیا، یہ مقام اس قدر رنگین تھا کہ وہاں سے باہر نہ جانے کی آرزو نے گھیر لیا کیونکہ اس دوران اس مقام کو منتہائے کمال تصور کرتے تھے، دوسرے مشائخ کی موجودگی بھی اس تصور پر دلیل تھی، آخر حق تعالیٰ نے کمال مہربانی اور غریب نوازی سے اس مقام سے بھی عروج عطا فرمایا اور آپ کو مقام ''عبدیت'' پر پہنچا دیا، جب اس مقام کا کمال ظاہر ہوا اور اسکی بلندی ظاہر ہوئی تو گزشتہ مقامات سے تائب ہو کر استغفار کی، (ایضاً ص ۳۹) جناب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں، '' وہ مقام عبدیت پر فائز ہو جاتے ہیں جو اعلیٰ ترین مقام ہے، عبدیت پر پہنچ کر عالم اور خدا کی اثنینیت ان پر اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، (نظریہ توحید ص ۸۹ مطبوعہ لاہور) گویا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے، رب اور بندے میں کسی طرح بھی اتصال واتحاد ثابت نہیں، یہ آپ کا آخری عرفان ہے لہٰذا پہلے راستے کے معارف کو آپ کا عقیدہ تصور نہ کیا جائے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

> جب سالک اس مقام سے بلند چلا جاتا ہے اور سکر کے افراط سے آنکھ کھولتا ہے تو حضرت محمد ﷺ جو کہ حق تعالیٰ کے کمالات کے مظہر ہیں کو بھی بندہ پاتا ہے اور اسکا رسول جانتا ہے جیسے کہ ابتدا میں جانتا تھا، **النھایة ھی الرجوع الی البدیة**، نہایت یہی بدایت کی طرف رجوع کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا، (مکتوب ۸۵ دفتر ۲)

حضرت علامہ اقبال جیسے اسکالر نے آپ کے نظریہ عبدیت پر ہی نظریہ خودی کی بنیاد رکھی ہے جناب ابوسعید نورالدین نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کے اس نظریۂ عبدیت سے انسانی خودی کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے، اقبال ان کے نظریے سے متاثر ہوئے، اس تاثر کی بنا پر وہ ان کی طرف اشارہ کر کے التجا کرتے ہیں۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اے ساقی

شیونات واعتبارات:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ شیونات کی تعریف میں رقمطراز ہیں:

اللہ تعالیٰ کی شیونات اسکی ذات کی فرع ہیں اور اسکی صفات ان شیونات پر ہی متفرع ہیں اور اس کے اسما جیسے خالق ورازق صفات پر متفرع ہیں اور اسکے افعال ان اسما پر متفرع ہیں اور تمام موجودات افعال کے نتائج ہیں اور ان ہی پر متفرع ہیں، پس معلوم ہوگیا کہ شیونات اور چیز ہیں اور صفات اور چیز اور شیونات خارج میں عین ذات ہیں جبکہ صفات خارج میں ذات پر زائد ہیں۔ (معارف لدنیہ، معرفت ۲۰)

وہ فیض جو حق تعالیٰ کی طرف سے سالک کو پہنچتا ہے دو قسم کا ہے، ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ایجاد (موجد کرنا) ابقا (باقی رکھنا) تخلیق (پیدا کرنا) ترزیق (رزق دینا) احیا (زندہ کرنا) اماتت (مارنا) وغیرھا کے ساتھ ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان، معرفت اور مراتب ولایت ونبوت کے تمام کمالات سے متعلق ہے، پہلی قسم کا فیض سب کو صفات کے ذریعے سے آتا ہے اور دوسری قسم کا فیض بعض کو صفات کے ذریعے سے اور بعض کو شیونات کے ذریعے سے آتا ہے، صفات وشیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشرب اولیا کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور نے اس کی نسبت کلام کیا، اس بیان کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، مثلاً پانی بالطبع اوپر سے نیچے کو آتا ہے، یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادہ کا اعتبار پیدا کرتا ہے کیونکہ صاحبانِ علم اپنے ثقل کے باعث بتقضائے علم اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے اور علم حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے، اس طرح قدرت بھی ثابت ہوگئی کیونکہ ارادہ میں احد المقدورین (دو

مقدوروں میں سے ایک کو اختیار کرنا) کی تخصیص ہے پس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں ثابت کیے جاتے ہیں بمنزلہ شیونات کے ہیں، اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں صفاتِ زائدہ ثابت ہو جائیں تو وہ وجود زائد کے ساتھ صفات موجودہ کی طرح ہوں گی، پانی کو پہلے اعتبارات کے لحاظ سے حی، قائم، عالم، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے، ان اسموں کو ثابت کرنے کے لیے صفاتِ زائدہ کا ثابت کرنا ضروری ہے، لہٰذا جو کچھ مشائخ کی عبارات میں پانی کے متعلق مندرجہ بالا اسموں کے ثبوت میں واقع ہوا ہے ان کی بنیاد شیونات. وصفات میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور اس طرح صفات کے وجود کی نفی کا حکم بھی اس فرق کے معلوم نہ ہونے پر محمول ہے، شیون وصفات میں دوسرا فرق یہ ہے کہ مقام شیون صاحب شان کا مواجہہ ہے، اور مقام صفات ایسا نہیں ہے (مکتوب ۲۸۷ دفتر ۱)

رویت اخروی کی تحقیق:

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

''صورت جامعہ مثالیہ کی رویت حق تعالیٰ کی رویت نہیں ہے بلکہ اس کے کمالات کے مظاہر میں سے ایک مظہر کی رویت ہے جس نے عالم مثال میں حصول پیدا کیا ہے جیسا کہ کسی کا قول ہے،

میراہ المومنون بغیر کیفٍ
وادراکِ وضرب من مثالٍ

یعنی مومن خدا تعالیٰ کو بے کیف، بے تصور، بے شبہہ اور بے مثال دیکھیں گے، حق تعالیٰ کی رویت کو صورت کی رویت پر مقرر کرنا حق تعالیٰ کی رویت کی نفی کرنا ہے، نیز وہ صورت جو عالم مثال میں حاصل ہو اگر چہ جامع ہو لیکن عالم مثال ہی کے اندازہ پر ہوگی، عالم مثال

اگرچہ وسعت رکھتا ہے لیکن اس کے عوالم مخلوقہ میں سے ہے وہ جامعیت صورت جو اس میں ہے کیا گنجائش رکھتی ہے کہ تمام کمالاتِ وجوبیہ ذاتیہ کی جامع ہو سکے اور سب کو ضبط کر سکے تاکہ اس مرتبہ مقدسہ کا آئینہ بن سکے اور اسکی رویت حق تعالیٰ کی رویت ہو سکے، جب صفتِ علم جو صفاتِ وجوبیہ میں سے ہے اور تمام ذاتی صفات میں سے زیادہ جامع ہے، اس امر کی گنجائش نہیں رکھتی تو پھر عالم مثال جو ممکن و مخلوق ہے اس کی صورت تمام کمالاتِ وجوبیہ کی جامع کس طرح ہو سکتی ہے، اگر فرضاً اور تقدیراً اس کو جامع کہیں بھی تو اس مرتبہ مقدسہ کے (کمالات کے) ظلال میں سے ایک ظل ہوگا اور ظل کی رویت درحقیقت اسکی رویت نہیں ہے، مخبر صادق نے رویتِ آخرت کو چودھویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور کوئی پوشیدگی نہیں چھوڑی، ظل کی رویت ایسی ہے جیسے طشتِ آب میں چاند کو دیکھیں جسکو بلند فطرت والے لوگ پسند نہیں کرتے ...... لیکن حق تعالیٰ کی رویت وہ ہے جو ان ظہورات اور صور سے ماورا ہے اور بے کیف و بیچون کی قسم سے ہے، رویت آخرت پر ایمان لانا چاہیے اسکی کیفیت اور چند و چوان میں مشغول نہ ہونا چاہیے، آخرت کے خلق اور وجود کو دنیا کے خلق اور وجود کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تاکہ ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کیا جائے، وہاں کی آنکھ جدا ہے اور فہم و ادراک الگ ہے، اس کے لیے دوام ابدی ہے اور اس کے لیے دوام ابدی ہے اور اس کے لیے زوال و فنا' اس کے لیے سراسر نظافت و لطافت ہے اور اس کے لیے خبث کثافت، شیخ اکبر قدس سرہٗ خانہ علم کے باہر حق تعالیٰ کا ظہور ثابت نہیں کرتے اور مجال و مظاہر کے ماسوا مشاہدہ، و رویت اور شہود تجویز نہیں کرتے۔ (مکتوب ۷۹ دفتر ۳)

نظریہ قیومیت کا اعلان:

بے شک آپ نے امتثالاً لامر اللہ تبارک وتعالیٰ واما بنعمۃ ربک محدث، واظہار الشکرہ عمّ احسانہٗ لقولہ عزوجل ان شکرتم لازیدنکم، ان بعض احسانات اور انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو پروردگار جل شانہٗ نے آپ پر کیے ہیں مثلاً خلت کا مقام آپ کو عنایت ہوا اور قیومیت کا درجہ آپ کو عطا ہوا، قیومیت کا درجہ کیا ہے اور اس مقام پر کس شان کا برگزیدہ بندہ اللہ کے فضل وکرم سے فائز ہوتا ہے، اس کے متعلق کتاب برکاۃ الاحمدیہ الباقیہ معروف بہ زبدۃ المقامات کی عبارت قلمی نقلی کی جاتی ہے:

> ''باید دانست کہ قیوم دریں عالم خلیفہ حق است جل وعلا ونائب مناب او' اقطاب وابدال در دائرہ ظلالِ او مندرج اند وافراد واوتاد در محیط کمالِ او مندمج، افراد عالم ہمہ بہ وے روئے دارند وقبلہ توجہ جہانیاں اوستِ دانند تانہ دانند بلکہ قیام عالمیان بہ ذاتِ اوست چہ افرادِ عالم چوں کہ مظاہر اسما وصفات اند ذاتے درمیان شان کائن نیست ہمگی اعراض واوصاف را۔ ذات وجوہ چارہ نیست تا قیام شان بہ آن بود، سنۃ اللہ جاری است کہ بعد از قرونِ متطاولہ عارفے رانصیبے از ذات ارزانی داشتہ، وے را ذاتے عطا می فرمایند کہ بحکم نیابت وخلافت قیوم اشیاء می گردد، اشیائے بوئے قائم می باشند''۔

قیوم کے متعلق یہ بیان حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہٗ کے مکتوب شریف ۸۰ دفتر سوم کا خلاصہ سمجھنا چاہیے جسکو آپ کے زمانے سے اب تک ہزارہا جلیل القدر علما دیکھ چکے ہیں، ان کے لیے سرانقیاد خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔

تجدید الف ثانی کا تصور:

آپ سے پہلے کسی شخص نے ہزار سالہ تجدید پر گفتگو نہیں کی، یہ آپ کے فکر وعرفان کا اجتہادی کارنامہ ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں:

> ''یہ علوم انوار نبوت کی مشکوۃ سے اقتباس کیے گئے ہیں جو الف ثانی کی تجدید کے بعد تبعیت ووراثت سے تازہ ہوئے ہیں اور تروتازگی

کے ساتھ ظہور میں آئے ہیں، ان علوم ومعارف کا صاحب اس موجودہ الف کا مجدد ہے چنانچہ لوگ اس کے علوم ومعارف دیکھتے ہیں جو ذات وصفات وافعال اوولواحوال ومواجید اورتجلیات وظہورات کے متعلق ہیں ان پر پوشیدہ نہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ علوم ومعارف علما کے علوم اور اولیاء کے معارف سے پرے کے ہیں بلکہ علما اور اولیا کے علوم ان علوم کی نسبت پوست ہیں اور یہ معارف اسکا مغز ہیں، اللہ پاک ہادی ہے اور معلوم رہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد گزرا ہے لیکن صدی کا مجدد اور ہے اور ہزار سال کا مجدد اور ہے، جتنا سو اور ہزار میں فرق ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے مجددوں میں بھی فرق ہے، مجدد وہ ہوتا ہے کہ اسکی مدت میں جو فیوض امتیوں کو پہنچتے ہیں اسی کی وساطت سے پہنچتے ہیں خواہ وہ اس وقت کے اقطاب اور اوتاد ہوں یا ابدال اور نجبا ہوں۔ (مکتوب ۴ دفتر ۲)

حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں:

”میرے مخدوم! مجدد الف ہونا ایک کشفی اور الہامی امر ہے جو اس معاملے والے کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایسے امر کا التزام نہیں کہ آثار وعلامات کے ساتھ آشنا وبیگانہ کو قائل کیا جا سکے، جو شخص آشنا اور ازلی سعادت سے بہرہ ور ہے وہ باطنی مناسبت کے ذریعے اہل اللہ کے اسرار قبول وبرکات کا مورد ہو جاتا ہے، جو بیگانہ اور بے سعادت ہے، باطنی نامناسبت کی وجہ سے ان اسرار کی تہ تک نہیں پہنچتا تو انکار کر دیتا ہے اور ان حضرات کے فیوض وبرکات سے محروم رہتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر نہ کرے، غیر لوگ خارج از بحث ہیں، ہمیں ان کے انکار واقرار سے کوئی واسطہ نہیں، منکروں نے قرآن جیسا روشن معجزہ دیکھ کر بھی انکار کر دیا، اس کے باوجود جس شخص کو تیز نظری کی

قوت عطا کی گئی ہے اگر وہ حضرت عالی (مجدد الف ثانی قدس سرہٗ) کے اطوار و عادات میں اچھی طرح غور کرے اور جن فیوض و برکات، کمال واکمال اور اعلام واسرار سے وہ پیشوائے صالحین میں ممتاز ہیں، مشاہدہ کرے تو بلا تکلف ان کے (الف ثانی کے) مجدد ہونے کا اقرار کرے گا، (مکتوباتِ معصومیہ دفتر ۲ مکتوب ۲)

عرفانِ خدا کے دو راستے:

آپ تحریر فرماتے ہیں:

''ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب واوتاد اور بدلاء ونجباء اور عام اولیاء اس راہ سے واصل ہیں اور راہ سلوک اسی راہ کا نام ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے اور اس راہ میں توسط وحیولیت ثابت ہے، اس راہ کے واصلین کے سردار اور منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ عظیم الشان منصب انہی سے تعلق رکھتا ہے، اس راہ میں رسول اللہ ﷺ کے دونوں قدم ان کے سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم بھی اس مقام میں ان کے شریک کار ہیں، (معارف لدنیہ ص ٦٦)

جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کامل متبعین جب تبعیت کے طور پر مقام نبوت کے کمالات کو پوری طرح حاصل کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض کو منصب امامت پر فائز کر دیا جاتا ہے اور بعض کو ان کمالات کے مجرد حصول پر کفایت فرماتے ہیں، یہ دونوں قسم کے بزرگ نفس کمال کے حصول میں برابر ہیں، فرق صرف منصب پر فائز کرنے اور نہ کرنے کا ہے یا ان امور کا جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں، کامل متبعین جب ولایت نبوت وکمالات کو تمام کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو مجرد حصول پر اکتفا کرتے ہیں، یہ دونوں

> منصب کمالات اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں کامل تبعین جب ولایت نبوت کے کمالات کو تمام کر لیتے ہیں تو ان میں سے بعض کو منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کو مجرد حصول پر اکتفا کرتے ہیں، یہ دونوں منصب کمالاتِ اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کمالات ظلیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب الارشاد کا منصب ہے، اور منصبِ خلافت کے مناسب قطب، مدار کا منصب، یعنی یہ نیچے والے دونوں مقام اوپر والے دونوں مقام کے ظل ہیں، شیخ ابن عربی علیہ الرحمۃ کے نزدیک قطب مدار ہی غوث ہوتا ہے جبکہ فقیر کا عقیدہ ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہوتا ہے اور وہ اس کے فرائض میں معاون ہوتا ہے، قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے، ابدال کے مناسب مقرر کرنے میں بھی اسکا دخل ہے، قطب مدار کو اس کے اعوان وانصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی قطب حکمی ہیں۔ (مکتوب ٦١ دفتر ١)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کے اس اجتہادی فکر وعرفان سے معلوم ہوا کہ قرب ولایت کے کمالات کے حصول پر خلافت کا منصب ملتا ہے اور قطب الارشاد اسکا ظل ہے گویا منصبِ امامت منصب خلافت سے بھی افضل ہے اور قطب الارشاد قطب الاقطاب سے اعلیٰ ہے اور آپ کے ایک اور مکتوب گرامی کے مطابق کمالاتِ فردیہ کا جامع ہے، عزیز الوجود اور نایاب ہوتا ہے، قرنوں اور زمانوں کے بعد ایسا گوہر یکتا ہاتھ آتا ہے اور عالم تیرہ وتاریک اسکی نورانیت سے منور ہو جاتا ہے، جو شخص اس بزرگ کا منکر ہے تو اگرچہ وہ ذکر الٰہی میں مشغول کیوں نہ رہے، رشد وہدایت کی حقیقت سے محروم رہے گا اور جو اس بزرگ سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ذکر وفکر سے خالی ہوں لیکن اسکی محبت کے سبب انہیں رشد وہدایت کے نور سے حصہ مل جائے گا۔ (مکتوب ٢٦٠ دفتر ١)

عالم مثال کے متعلق اجتہادی رائے:

آپ تحریر فرماتے ہیں:

”میرے مخدوم! اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو کچھ اس فقیر

پر ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب آدم جو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے گزرے ہیں، ان کا وجود عالم مثال میں ہوا ہے نہ عالم شہادت میں حضرت آدم علیہ السلام یہی ہیں جو عالم شہادت میں موجود ہوئے ہیں اور زمین میں خلافت پاکر مسجود ملائک ہوئے ہیں، حاصل کلام یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جامعیت کی صفت پر مخلوق ہوئے ہیں، اپنی حقیقت میں بہت سے لطائف اور اوصاف رکھتے ہیں، ان کے وجود سے بیشمار قرن پہلے ہر وقت ان کی صفات میں سے کوئی صفت یا ان کے لطائف میں سے کوئی لطیفہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے عالم مثال میں موجود ہوا ہے اور آدم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور اسی کے نام کا مسمّیٰ ہوا ہے اور منتظر آدم کے کاروبار اس سے وقوع میں آئے ہیں حتی کہ توالد وتناسل بھی جو اس عالم مثال کے مناسب سے ظاہر ہوا ہے اور اس عالم کے مناسب ظاہری باطنی کمالات بھی حاصل ہوئے ہیں اور ثواب وعذاب کا مستحق ہوکر بلکہ اس کے حق میں قیامت قائم ہوکر بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں گئے ہیں، بعدازاں پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے کوئی صفت یا لطیفہ آدم علیہ السلام کا اس عالم میں ظاہر ہوا اور وہ کاروبار جو ظہور اول سے وجود میں آئے تھے، ظہور ثانی سے بھی وہی کاروبار ظاہر ہوئے، جب یہ دورہ بھی تمام ہوگیا، صفات ولطائف کا تیسرا ظہور حاصل ہوا، جب اس ظہور نے بھی اپنا دورہ ختم کیا تو چوتھا ظہور ثابت ہوا الی ماشاء اللہ، جب ان کے مثالیہ ظہورات کے دورے جو ان کے لطائف وصفات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تمام ہوگئے، آخرکار وہ نسخۂ جامعہ عالم شہادت میں حق تعالیٰ کی ایجاد سے وجود میں آیا اور فضل خداوندی سے معزز ومکرم ہوا۔

مَنْ عَرَف نفسَہ‘ کی اجتہادی تشریح:

حضرت امام ربانی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں:

> ’’پاک ہے وہ ذات جس نے نور (روح) کو ظلمت (نفس) کے ساتھ جمع کیا اور لامکانی (روح) جو کہ جہت سے بری ہے، کو مکانی (نفس) جسکو جہت حاصل ہے، کا ساتھی بنایا ہے اور ظلمت کو نور کی نظر میں محبوب کر دیا اور وہ نور اس ظلمت پر فریفتہ ہو گیا اور کمالِ محبت سے اسکے ساتھ مل گیا تاکہ اس تعلق سے اسکی روشنی زیادہ ہو جائے اور ظلمت کی ہمسائیگی سے اسکی صفائی کامل ہو جائے جس طرح کہ آئینہ کو جب صیقل کرنا اور اسکی لطافت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسکو مٹی سے آلودہ کرتے ہیں تاکہ مٹی کی ظلمت کی ہمسائیگی سے اسکی صفائی ظاہر ہو جائے اور مٹی کی کثافت کی وجہ سے اسکی روشنی زیادہ ہو جائے پس اس نور (روح) نے ظلمانی معشوق کے مشاہدہ میں غرق ہونے اور عنصری جسم سے تعلق ہونے کے باعث جو کچھ اسکو پہلے قدسی شہود سے حاصل تھا فراموش کر دیا بلکہ اپنی ذات اور وجود کے متعلقات سے بھی بے خبر ہو گیا، پس وہ اسکی ہمنشینی سے اصحابِ مشئمہ یعنی بائیں ہاتھ والوں میں سے ہو گیا، اور اسکی صحبت میں اصحاب میمنہ یعنی دائیں ہاتھ والوں کے فضائل کو ضائع کر دیا، پس اگر اسی استغراق کے تنگ کوچہ میں پڑا رہا اور اطلاق و آزادی کے میدان میں نہ پہنچا تو اس پر ہزار افسوس ہے کیونکہ اس کے وجود سے جو مقصود تھا حاصل نہ ہوا۔ (مکتوب ۲۲ دفتر ۱)

تنزلات کیا ہیں؟

تنزلات، تنزل کی جمع ہے جس کا لغوی معنیٰ ہے نیچے اترنا، اصطلاحی معنیٰ میں ذات کے ظہور کو تنزل کہا جاتا ہے، صوفیہ کرام کے نزدیک لغوی معنیٰ مراد نہیں بلکہ اصطلاحی معنیٰ مراد ہے، یعنی وجودِ مطلق نے اپنی

ذات وصفات کو قائم رکھتے ہوئے ظہور فرمایا ہے مگر وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس تنزل اور ظہور کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر وتبدل پیدا نہیں ہوا، حضرتِ شیخ اکبر علیہ الرحمۃ کے نزدیک وجود مطلق ہے اور مراتبِ وحدت میں لاتعین ہے۔ پھر اس نے جن مرتبوں سے علی الترتیب نزول فرما کر کائنات میں ظہور فرمایا ہے ان مرتبوں کو تنزلات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حسب موقع ان مرتبوں کو تعینات، تجلیات، اعتبارات اور تقیدات کے ناموں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یہ جملہ تنزلات شہود میں واقع ہوئے ہیں نا کہ وجود میں، تنزلات وتعینات کے پانچ مرتبے ہیں، پہلے دو مرتبے علمی ہیں اور بعد کے تین مرتبے عینی یا خارجی ہیں۔ ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ پہلے تنزل میں ذات کو اپنا شعور بحیثیت وجودِ محض حاصل ہوتا ہے اور شعورِ صفات اجمالی رہتا ہے۔ دوسرے تنزل میں ذات کو اپنا شعور بحیثیت متصف بہ صفات ہوتا ہے۔ یہ صفاتِ تفصیلی کا مرتبہ ہے (یعنی صفات کے بالتفصیل واضح ہونے کا) یہ دونوں تنزلات بجائے واقع ہونے کے ذہنی یا محض منطقی تنزلات کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ غیر زمانی ہیں اور خود ذات وصفات کا امتیاز بھی صرف ذہنی ہے، اس کے بعد تنزلات عینی (یا تعیناتِ خارجی) شروع ہوتے ہیں، تیسرا تعین (تنزل) روحی ہے یعنی وحدت بصورت روح یا ارواح نزول کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت سی ارواح میں تقسیم کر دیتی ہے مثلاً فرشتے وغیرہا، چوتھا تنزل تعینِ مثالی ہے جس سے عالمِ مثال وجود میں آتا ہے، پانچواں تنزل تعین جسدی ہے، اس سے مظاہر یا اشیاء طبعی ظاہر ہوتی ہیں (تحقیق الحق فی کلمۃ الحق مترجم ص ۸۴) ان تنزلات کو حضراتِ خمسہ بھی کہا جاتا ہے، گویا پہلے مرتبے میں خود حق تعالیٰ نے اپنا آپ علم اجمالی کی صورت میں اور دوسرے مرتبے میں علم تفصیلی کی صورت میں ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح تیسرے مرتبے میں عالم ارواح، چوتھے مرتبے میں عالم مثال اور پانچویں مرتبے میں عالم اجسام کی صورتوں میں ظاہر فرمایا ہے۔ آخری تین تنزلات کو تعینات خارجیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں۔ وجودی صوفیہ کے نزدیک تنزلات وتعینات کی بنیاد یہ ہے کہ وجود تو فقط ایک ہے، ہر دوسری چیز اس کا مظہر ہے لہٰذا خالق اور مخلوق، عالم اور معبود، ذات اور صفات میں اتحاد وعینیت پائی جاتی ہے۔

حضرتِ مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے مکمل تحقیق فرمانے کے بعد یہ نتیجہ رقم فرمایا ہے:

> **''پس عالم کو حق تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی مناسبت نہیں، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز**

ہے، حق تعالیٰ کو عالم عین کہنا اور اس کے ساتھ متحد جاننا بلکہ نسبت دینا بھی اس فقیر پر بہت گراں اور دشوار ہے۔ (مکتوب ادفتر ۲)

”کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ تمام ماسوائے حق یعنی آسمانوں، زمینوں، عرش و کرسی، لوح و قلم اور عالم و آدم کی نفی کرتا ہے اور دوسرا حصہ معبود برحق کا اثبات کرتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، حق تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ آفاق و انفس میں ہے سب چونی و چندی کے داغ سے داغدار ہے۔ پس جو کچھ آفاق و انفس کے آئینوں میں جلدہ گر ہو بطریق اولیٰ چند و چون ہوگا جو نفی کے لائق ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ ہمارے علم و وہم میں آسکے اور جو ہمارا مشہود و محسوس ہو سب چونی اور چگونی سے متصف اور حدوث و امکان کے عیب سے عیب ناک ہے کیونکہ ہمارا معلوم اور محسوس ہمارا تراشا ہوا ہے، وہ تنزیہ جس کا تعلق ہمارے علم سے ہے عین تشبیہ ہے اور وہ کمال جو ہمارے فہم میں اس کے عین نقص ہے۔ پس جو کچھ ہم پر متجلی اور مکشوف اور مشہود ہو وہ سب حق تعالیٰ کا غیر ہے۔ حق تعالیٰ اس اسے وراء الوراء ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا ہے، ہمارا اپنا تراشا ہوا اور بنایا ہوا خواہ ہاتھ کے ذریعے ہو خواہ عقل و وہم کے ساتھ، سب حق تعالیٰ کا مخلوق ہے جو عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق وہی خدائے بیچون و بیچگون ہے جس کے دامن ادراک سے ہماری عقل و وہم کا ہاتھ کوتاہ ہے اور کشف و شہود کی آنکھ اس کی عظمت و جلال کے مشاہدے سے خیرہ و تباہ ہے۔ ایسے خدائے بیچون و بیچگون کے ساتھ غیب کے طریق کے سوا ایمان میسر نہیں ہوتا کیونکہ ایمان شہود حق تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں ہے

> بلکہ تراشیدہ چیز کے ساتھ ہے کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ میرے خیال میں جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا (کی حیات) میں دولتِ رویت سے مشرف ہوئے تو ان کے حق میں اگر ایمان شہودی ثابت کریں تو زیبا اور محمود ہے اور اپنی طرف سے بنانے اور تراشنے سے صاف آزاد ہے کیونکہ جس چیز کا اوروں کے لیے قیامت کا وعدہ ہے ان کو اسی جگہ میسر ہے۔ (مکتوبات ۹ دفتر ۲)

عالم کون ومکان کی حقیقت:

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے نظریہ تخلیقِ عالم کی اصل قرآنِ پاک کی یہ نصِ قطعی ہے۔ فرمایا: صنع اللہ الذی اتقن کل شیء اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط کر دیا ہے۔ حضرت شیخ اکبر اور حضرت شیخ مجدد میں فرق یہ ہے کہ وہ ممکنات کے حقائق وجودات متنزلہ کو تصور کرتے ہیں اور یہ عدمات کو تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو اربابِ بصیرت پر ہرگز پوشیدہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

> ''جو کچھ فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ممکنات کی ماہیتیں مع ان کے کمالاتِ وجودیہ کے جو ان میں منعکس ہو کر ان سے مل گئی ہیں، عدمات ہیں جیسے کہ مفصل گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ظاہر کرتا ہے اور وہی راہِ راست کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ علوم ومعارف جن کی نسبت کسی اہل اللہ نے نہ ہی صراحت سے اور نہ ہی اشارہ سے گفتگو کی ہے بڑے اعلیٰ معارف ہیں اور اکمل علوم ہیں جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آئے ہیں اور واجب تعالیٰ اور ممکنات کی حقیقت کو جیسے کہ ممکن اور لائق ہے بیان کیا ہے۔ جو نہ کتاب وسنت کی مخالفت رکھتے ہیں اور نہ ہی اہلِ حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔ (مکتوب ۲۳۴، دفتر اول)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ممکناتِ عالم کی حقیقت عدم ہے لیکن وہ حق تعالیٰ کے اسماء وصفات کے کمالات وظہورات کا مظہر ہیں اور ان کے ساتھ ان کا قیام ہے اس لیے ان میں

اتقان واقع ہوا ہے جبکہ حضرتِ ذات کو عالم سے ذاتی استغنا ہے۔ اس درجہ بلند کے ساتھ عالم کا قیام کیسے ہوسکتا ہے اگرچہ اسماء وصفات کا قیام حضرتِ ذات کے ساتھ ہے۔

ما تماشا کنان کوتاہ دست
تو درختِ بلند بالائی

لیکن آپ کے نزدیک عارفِ اکمل کا معاملہ باقی ممکنات عالم سے جدا ہے اور اس کا حکم ممکناتِ عالم کے احکام سے الگ ہے۔ وہ محبتِ ذاتی کے ذریعے **المرء مع من احب** کے موافق اپنے اصل سے گزر کر اصل الاصل کے ساتھ معیت پیدا کرلیتا ہے اور اپنے آپ کو اصل الاصول میں فانی کردیتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

> ''مرادوں کے سردار اور محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ اس دعوت سے مقصود ذاتی اور مدعو اولیٰ آپ ہی ہیں اور دوسروں کو خواہ مراد ہوں یا مرید آپ ہی کی طفیل بلایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا چونکہ دوسرے سب ان کے طفیلی ہیں اور وہ اس دعوت کے مقصود اصلی ہیں اس لیے سب ان کے محتاج ہیں اور انہی کے ذریعے فیوض و برکات اخذ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر سب کو ان کی آل کہیں تو بجا ہے کیونکہ سب ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے وسیلے کے بغیر کمال حاصل نہیں کرسکتے۔ جب ان سب کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے وسیلے کے بغیر متصور نہیں ہوسکتا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تابع ہیں۔ ان کے وسیلہ کے بغیر کس طرح متصور ہوسکتے ہیں۔ ہاں رب العالمین کا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیے (مکتوب ۱۲۱، دفتر ۳)

جہادِ اکبر کا مفہوم:

صوفیہ کرام کے کلام میں ایک حدیثِ مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ **رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الا كبر** ۔ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا۔ صوفیہ کرام فرماتے

ہیں کہ اس سے مراد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے جو ہر وقت احکام شرعیہ کے خلاف انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے اجتہادی علم وعرفان سے ثابت کیا ہے کہ نفس مطمئنہ شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جو ولایت کبریٰ کے لوازم سے ہے۔ اپنے مقام سے عروج فرما کر تخت صدر پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں تمکین وسلطنت حاصل کر لیتا ہے اور ممالکِ قرب پر غلبہ پالیتا ہے۔ یہ تخت صدر حقیقت میں ولایت کبریٰ عروج کے تمام مقامات سے برتر ہے۔ اس تخت پر چڑھنے والے کی نظر بطن البطون کی طرف نفوذ کرتی ہے اور غیب الغیب میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہاں جو شخص بہت اونچے مقام پر چڑھ جائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔ اس مطمئنہ کو تمکین کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نکل کر اس سے مل جاتی ہے اور عقل معاد کا نام پاتی ہے اور دونوں اتفاق بلکہ اتحاد سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس مطمئنہ کے لیے اب مخالفت کی گنجائش اور سرکشی کی مجال نہیں رہی اور وہ پورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے درپے ہے۔ رضائے حق کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی عبادت واطاعت کے سوا اس کا کچھ مطلب نہیں۔ سبحان اللہ وہ امارہ جو اول بدترین خلائق تھا۔ اطمینان اور حضرت سبحان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم امر کے لطائف کا رئیس ہوگیا اور اپنے ہمسروں کا سردار بن گیا۔ مخبر صادق نے کیا سچ فرمایا ہے۔ **خیارکم فی الجاهلية خیارکم فی الاسلام اذافقهوا،** جو لوگ جاہلیت میں تم سے اچھے تھے وہ اسلام میں بھی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین سمجھ لیا اس کے بعد اگر خلاف اور سرکشی کی صورت ہے تو اس کا منشاء اربع عناصر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو قالب کے اجزاء ہیں یعنی اگر قوتِ غضبیہ ہے تو وہیں سے پیدا ہے۔ اگر شہویہ ہے تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اگر خست وکمینہ پن ہے تو بھی وہیں سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس امارہ نہیں ہے ان کو یہ اوصافِ رذیلہ پورے اور کامل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ مراد اس جہاد اکبر سے جہاد بالقلب ہو نہ کہ جہاد بالنفس، جیسے کہ کہا گیا ہے کیونکہ نفس اطمینان تک پہنچ چکا ہے اور راضی ومرضی ہوگیا ہے۔ پس خلاف وسرکشی کی صورت اس سے متصور نہ ہوگی۔ اجزائے قالب سے خلاف وسرکشی صورت سے مراد ترک اولیٰ امور مرفعہ کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہ اشیائے محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائض وواجبات کا ارادہ کہ یہ اس کے حق میں نصیب اعدا ہو چکا ہے۔ (مکتوب ۲۶۰، دفتر ۱)

تخلیقِ آدم اور فلسفۂ روح:

حضرتِ مجدد الف ثانی روح کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

''روح بھی چونکہ عالم بیچونی سے ہے اس واسطے اس کے لیے بھی لامکان ہونا تحقق ہے لیکن اس کی بیچونی بمقابلہ وجوبِ ذاتِ حق عین چون ہے اور اس کا لامکان ہونا حقیقی لامکان کی لامکانیت کے سامنے عین مکانیت ہے گویا عالم ارواح اس عالم اور مرتبہ بیچونی کے مابین برزخ ہے۔ چونکہ روح میں دونوں رنگ پائے جاتے ہیں اس لیے عالم بیچون اسے بے چون جانتے ہیں لیکن اصلی بیچون کے مقابلہ میں عین چون ہے۔ یہ برزخ ہونے کی نسبت اسے اس کی اصلی فطرت کے اعتبار سے حاصل ہے لیکن جب اس کا تعلق ایک ہیکل اور قفسِ عنصری سے ہو جاتا ہے تو عام برزخیت سے نکل کر بالہام عالم چون میں اتر آتا ہے اس واسطے بیچونی کا رنگ اس سے جاتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہاروت و ماروت کی سی ہے۔'' (مبدء و معاد منھا ۱۳، مطبوعہ لاہور)

آپ تحریر فرماتے ہیں:

''ان اللہ خلق ادم علیٰ صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیچون و بیچگون ہے۔ آدم علیہ السلام کی روح کو جو اس کا خلاصہ ہے'' بیچونی اور بیچگونی کی صورت پر پیدا کیا۔ بس جس طرح حق سبحانہٗ لامکانی ہے، روح بھی لامکانی ہے اور روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ کو عالم کے ساتھ ہے۔ نہ داخل ہے نہ خارج ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے اور قیومیت سے زیادہ اور کوئی نسبت مفہوم نہیں ہوتی اور بدن کے ذرات میں سے ہر ذرہ کا قیوم روح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم کا قیوم ہے۔ بدن کے لیے حق تعالیٰ کی قیومیت روح کی قیومیت کے سبب

سے ہے جو فیض وارد ہوتا ہے اس فیض کے وارد ہونے کا محل پہلے روح ہے اور پھر روح کے ذریعے وہ فیض بدن کو پہنچتا ہے اور چونکہ روح بیچونی اور بچگونی کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے اس لیے حقیقی بیچون وبچگون کی اس میں گنجائش ہوگئی۔ **لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مومن** ، میں اپنی زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن آدمی کے دل میں سما سکتا ہوں کیونکہ زمین و آسمان باوجود وسعت وفراخی کے چونکہ دائرہ امکان میں داخل ہیں اور چونی اور چگونی کے نشان سے داغدار ہیں۔ اس لیے لامکانی کی جو چندی اور چونی سے مقدس و پاک ہے گنجائش نہیں رکھتے۔ کیونکہ لامکانی مکان میں گنجائش نہیں رکھتا اور بیچون چون میں آرام نہیں پاتا پس ناچار مومن آدمی کے دل میں جو لامکانی ہے اور چندی اور چونی سے مبرا ہے گنجائش ثابت ہوگئی۔ مومن آدمی کے دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ غیر مومن آدمی کا دل لامکانی کی بلندی سے نیچے اترا ہوا ہوتا ہے اور چندی و چونی میں گرفتار ہو کر اسی کا حکم حاصل کیے ہوتا ہے۔ پس نزول اور گرفتاری کے باعث چونکہ دائرہ امکان میں داخل ہوگیا ہے اور چونی کا حکم حاصل کرلیا ہے اس لیے اس نے قابلیت کو ضائع کردیا ہے۔ **اولئک کا لانعام بل ھم اضل** ، ,,لوگ چار پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور مشائخ میں سے جس نے اپنے دل کی وسعت کی نسبت خبر دی ہے اس کی مراد قلب کی لامکانیت ہے کیونکہ مکان خواہ کتنا ہی وسیع ہو پھر بھی تنگ ہی ہے۔ عرش اپنی فراخی وعظمت کے باوجود چونکہ مکانی ہے اس لیے لامکانی کے مقابلے میں جو روح ہے دانہ رائی کا حکم رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کم معلوم ہوتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ

جب یہ قلب انوار قدس کی تجلی کا محل ہے اور قدیم کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے تو عرش و مافیہا کو اگر اس میں ڈال دیں تو محو و متلاشی ہو جائیں اور ان میں سے کچھ باقی نہ رہے جیسے کہ سید الطائفہ (حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ) نے اس مقام کے بارے میں فرمایا ہے۔ **ان المحدث اذاقورن بالقدیم لم یبق لہٗ اثر** کہ جب حادث قدیم کے ساتھ مل جائے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ ایسا یکتا لباس ہے جو خاص روح کے قد پر سیا ہوا ہے۔ ملائکہ کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ بھی دائرہ امکان میں داخل ہیں اور چون کے داغ سے موسوم ہیں۔ اسی واسطے انسان خلفیۂ رحمٰن بن گیا۔ ہاں شے کی صورت اس شے کا خلیفہ ہوتی ہے اور جب تک شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو شے کی خلافت کے لائق نہیں ہوتا۔ اپنے اصلی امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں۔۔۔۔ اگر کسی عبارت میں ایسا لفظ واقع ہو جائے جس سے حق تعالیٰ کی شان میں ظرف یا مظروف ہونے کا وہم گزرتا ہوا تو اس کو میدانِ عبارت کی تنگی پر محمول کرنا چاہیے اور کلام کی مراد کو اہل سنت و جماعت کی آراء کے موافق سمجھنا چاہیے'' (مکتوب ۲۸۷، دفتر ۱)

قلب صنوبری موردِ الہام ہے:

آپ تحریر فرماتے ہیں:

''جب بدن عنصری اپنی جائے قرار میں آ جاتا ہے تو لطائف ستہ کی جدائی اور ان کے عالم امر میں چلے جانے کے بعد اس جہان میں ان کا خلیفہ بلاشک و شبہ یہی بدن رہ جاتا ہے اور یہی ان سب کے کام کرتا ہے۔ بعد ازاں اگر الہام ہوتا ہے تو گوشت کے اسی

ٹکڑے کو جو حقیقت جامعہ قلبیہ کا خلیفہ ہے اور اس حدیث نبوی ''**من اخلص لله اربعین صباحاً ظهرت منابیع الحکمة من قلبه علیٰ لسانه**'' یعنی جو شخص چالیس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرتا ہے۔ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ میں قلب سے مراد واللہ اعلم یہی گوشت کا ٹکڑا ہے اور دوسری حدیثوں میں بھی یہی مراد مقرر ہے..... جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کے واسطے اطمینان کی درخواست کی تو اس وقت آپ کی مراد اسی گوشت کے ٹکڑے سے تھی نہ کہ کسی اور چیز سے کیونکہ آپ کا حقیقی دل تو بلا شک وشبہ مطمئن تھا بلکہ آپ کا نفس بھی آپ کے حقیقی دل کی سیاست کی وجہ سے مطمئن تھا۔ (مبدء و معاد منہا ۱۴)

شاہق الجبل اور اطفال اہل شرک:

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے کشف صریح سے اس مسئلے کا یہ حل بیان فرمایا ہے!

''بہت مدت کے بعد خداوند تعالیٰ کی عنایت نے راہنمائی کی اور اس معما کو حل کر دیا اور منکشف فرمایا کہ یہ لوگ نہ بہشت میں رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعث و احیاء کے بعد ان کو مقام حساب میں کھڑا کر کے گناہوں کے اندازہ کے موافق ان کو عتاب و عذاب دیں گے اور حقوق پورے کر کے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیں گے۔ پس خلود کس کے لیے اور مخلد کون ہوگا۔ اس معرفت غریبہ کو جب انبیائے کرام علیہم السلام کے حضور پیش کیا گیا تو سب نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کو مقبول فرمایا۔ **والعلم عند الله سبحانه**' فقیر پر یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ حق تعالیٰ باوجود اپنی کمال رافت و

رحمت کے غیر اس بات کے کہ انبیاء کرام کے ذریعے ابلاغ مبین فرمائے، صرف عقل کے اعتبار پر جس میں غلطی اور خطاء کی مجال ہے اپنے بندے کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرے جس طرح کی باوجود شرک کے اس کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کا حکم کرنا ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنت و دوزخ کے درمیان واسطہ کے قائل نہ ہونے کے باعث امام اشعری کے مذہب سے لازم آتا ہے۔ پس حق وہی ہے جو مجھے الہام ہوا کہ قیامت کے دن محاسبہ کے بعد ان کو معدوم کیا جائے گا اور فقیر کے نزدیک دار الحرب کے مشرکین کے اطفال کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ بہشت میں داخل ہونا ایمان پر وابستہ ہے۔ خواہ ایمان اصالت کے طور پر ہو یا تبعیت کے طور پر، اگرچہ تبعیت دار الاسلام میں ہوتی ہے جیسے کہ اہل ذمہ کے لڑکوں کے لیے لیکن ان کے حق میں ایمان مطلق طور پر مفقود ہے پس بہشت میں ان کا داخل ہونا متصور نہیں ہوتا اور دوزخ میں داخل ہونا اور اس میں ہمیشہ رہنا تکلیف کے ثابت ہوتے کے بعد مشرک پر منحصر ہے اور یہ بھی ان کے حق میں مفقود ہے، پس ان کا حکم حیوانوں کا سا حکم ہے کہ بعث ونشور کے بعد حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور ان سے حقوق پورے کر کے ان کو معدوم اور نیست و نابود کر دیں گے اور ان مشرکوں کے حق میں بھی جو پیغمبروں کی فترت کے زمانہ میں ہوئے ہیں اور جن کو کسی پیغمبر کو دعوت نصیب نہیں ہوئی۔ (مکتوب ۲۵۹، دفتر ۱)

اقوال اولیاء کی توجیہات:

اقوال اور احوال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے بکثرت اولیاء اللہ کے اقوال کی صحیح توجیہ بیان کر دی یا قرآن وسنت کی روشنی میں ان کا اصل حکم ظاہر فرما دیا۔ صدیوں سے تشریح طلب اقوال کا صحیح خ

پیش کرنا بھی آپ کے اجتہادی فکر و عرفان کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔

محترم قارئین! حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات اور رسائل علوم و معارف کا بحر زاخار ہیں، چند جواہر پارے آپ کی خدمتِ اقدس میں پیش کر دیئے جن کی چمک دمک سے آپ کے اجتہادی فکر و عرفان کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مولا کریم آپ کے فیوضات کو عام فرمائے اور آپ کے مزار پر انوار پر کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کی توجہات سے ہم جیسے تشنہ کاموں کو سیراب فرمائے۔

تو مری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ
تیرے پیمانے میں ہے ماہِ تمام اے ساقی

☆……☆……☆

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے سلاطین کی ارادت وعقیدت

(ہندوستان، افغانستان، ترکی)

صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد

☆☆

مشائخ طریقت اور اہل اللہ کا شاہان وقت کی طرف توجہ نہ کرنا عزیمت کی نشانی ہے لیکن ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر بہت کم مشائخ کرام نے عمل کیا۔ مشائخ مجددیہ نقشبندیہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ شاہان وقت اور اعیان مملکت ان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور سلطنتوں میں انقلابات آئے۔[1] بلکہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے عالم اسلام متاثر ہوا۔ حضرت خواجہ محمد احسان مجددی سرہندی[2] نے حق فرمایا:

> ”حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی بزرگی کا شہرہ اور ارشاد کا غلغلہ جہاں اور اہل جہاں تک پہنچ گیا اور آنجناب کی تجدید کی نوبت ساتوں ولایتوں میں بجنے لگی اور قیومیت کی شہرت وخوشبو تمام جہاں میں پھیل گئی اور ان کی ولایت کے نعرہ کی گونج آسمانوں میں سنی جانے لگی“[3]

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ و جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ نے ترویج اسلام اور اشاعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے لیے اپنے خلفاء و مریدین کو مختلف ملکوں اور شہروں میں بھیجا مثلاً کابل، بدخشاں، ترکستان، دشت قبچاق، کاشغر، ختا، روم، شام، یمن، خراسان، ماوراء النہر، تہران، اندراب، قہستان، طبرستان، بجستان، عرب، بحرین، مشرقی ہند وغیرہ۔ پھر ان

علاقوں کے بادشاہوں نے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے ارادت وعقیدت کا اظہار کیا اور بہت سے بیعت بھی ہوئے۔ چنانچہ شاہ روم بیعت ہوئے[4]۔ والیِ بلخ سلطان عبدالرحمٰن بیعت ہوئے[5]۔ بادشاہ بدخشاں نے غائبانہ بیعت کی[6]۔ سلاطین قبچاق، ترکستان غائبانہ بیعت ہوئے[7]۔ بادشاہ ایران شاہ سلیمان نے حاضر ہوکر توبہ کی[8]۔ شاہ کاشغر نے غائبانہ بیعت کی، والی یمن نے غائبانہ بیعت کی[9]۔ چین کے بادشاہ قآن چین کے دربار میں خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ نے اپنے خلیفہ خواجہ ارغون کو تین سو سالکین ومریدین کے ساتھ روانہ کیا، بادشاہ نے اس نورانی قافلہ کا شاندار استقبال کیا۔ لاکھوں کی فوج نے سلامی دی، پھر جب خواجہ ارغون نے شاہ چین کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے ساتھ بہت سے درباری اور چینی مسلمان ہوگئے[10]۔ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کی شان یہ تھی کہ آپ کے خلفاء کا استقبال بھی شاہان وقت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ والی مکہ یعنی شریف مکہ نے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے خلیفہ شیخ مراد کا استقبال کیا[11]۔ بندرگاہ یمن پر خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کا والی یمن کے اراکین سلطنت نے استقبال کیا[12]۔ والیِ یمن امام اسماعیل حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ کے بھی عقیدت مند تھے موصوف کے نام مکتوبات سعیدیہ میں عربی زبان میں ایک مکتوب شریف ملتا ہے۔[13]

خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمۃ جس وقت حج بیت اللہ کے سفر کے دوران مسقط پہنچے تو سلطان مسقط تمام اراکین سلطنت کے ساتھ خود حاضر ہوئے اور مرید ہوئے۔ اور مسقط کے ہزاروں مسلمان بیعت ہوئے[14]۔

خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمۃ کی خدمت میں سلطانِ کاشغر حاضر ہوکر مرید ہوا[15]۔ شاہ بدخشاں حاضر ہوا[16]، بادشاہ توران قلی علی خان غائبانہ مرید ہوا[17]، ملائیشیا، انڈونیشیا کے سلاطین بھی مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے۔ چنانچہ ملایا کی تاریخ میں شیخ پاہانگ Pahang نقشبندی مجددی، شیخ ریو (Riev) نقشبندی مجددی، ملایا اور انڈونیشیا کے بادشاہوں کے مشیر رہے۔ بیت المقدس میں بھی ایک نقشبندی خانقاہ موجود ہے جو بخاری خاندان نے ۱۶۱۶ء میں قایم کی تھی جب وہ بخارا (ازبکستان) سے بیت المقدس آئے تھے۔ اس نقشبندی مرکز کا نام The Naqshbandi Centre in Jeruselum تھا۔ ابھی حال ہی میں دنیا نے دیکھا کہ ایک نقشبندی مجددی تاجدار خوشی خوشی موت کو گلے لگا رہا ہے۔ مملکت عراق کے صدر صدام حسین (م۔ ۱۴۲۷ھ/ ۲۰۰۶ء) نقشبندی مجددی تھے اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے

عقیدت رکھتے تھے۔ مملکت عراق اور دیگر ممالک میں جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پھیلا اس کا آنکھوں دیکھا حال شیخ خالد کردی نقشبندی مجددی کی زبانی سنیے:

> ''تمام مملکت روم، عرب اور حجاز و عراق اور بعض ممالک عجم اور سارا کردستان طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تاثیرات وجذبات سے سرشار ہے اور شب و روز محافل ومجالس، مساجد و مدارس میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ' کے محاسن ومحامد کا ذکر اس طرح ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے کہ اس کا گمان نہیں ہوسکتا کہ کبھی کسی ملک میں اور کسی وقت گوشِ زمانہ نے ایسا زمزمہ سنا ہو یا چشم فلک نے ایسی رغبت یا ایسا اجتماع دیکھا ہو''
>
> (ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم، کراچی، ص ۳۶۹)

الغرض حضرات نقشبندیہ مجددیہ سے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ سارا عالم متاثر ہوا۔ اس موضوع پر سیر حاصل لکھنے کی ضرورت ہے لیکن سردست ہم اس مقالہ میں ہندوستان، افغانستان اور ترکی کے سلاطین کی مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے ارادت وعقیدت کا ذکر کریں گے۔

☆

ہندوستان کے شاہان وقت کا کسی نہ کسی شیخ طریقت سے تعلق رہا ہے۔ بادشاہوں کے ساتھ ساتھ اعیان مملکت بھی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے عقیدت مند رہے۔ چنانچہ اکبری دربار کے مقربین ابوالفضل اور ابوالفیض فیضی خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے[18]۔ پھر جب تعلقات بڑھ گئے تو آپ بھی تشریف لے گئے لیکن ان دونوں کی بے راہ روی سے آخر میں تعلقات منقطع ہو گئے۔ اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کے اراکین سلطنت بھی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے عقیدت مند و مرید تھے مثلاً خان جہاں لودھی، سکندر خاں لودھی، دریا خاں لودھی[19]، صدر جہاں، خان اعظم[20]، خان خاناں، تربیت خاں، اسلام خاں، قاسم خاں، جباری خاں، مہابت خاں، مرتضی خاں[21] اور دلیر خاں آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم علیہ الرحمۃ سے بیعت ہوئے اور بہادر خاں آپ کے خلیفہ سے[22]۔ جہانگیر بادشاہ نے اگرچہ ابتداء میں شاہانہ جاہ وجلال سے ۱۰۲۸ھ/ ۱۶۱۸ء حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ[23]

کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا جب جہانگیر بادشاہ کے دربار میں سوال و جواب ہو رہے تھے تو ایک ہندو راجہ بھی موجود تھا جو دربار شاہی میں آپ کی استقامت دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا بعد میں بہت سے اس کے ہمنوا مسلمان ہو گئے اور اس نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی بڑی خدمت کی[۲۴]۔ انجام کار جہاں گیر بادشاہ آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ کی خدمت میں خلعت اور اشرفیاں بھی نذر کیں[۲۵]۔ اور تقریباً ۱۰۲۹ھ/ ۱۶۱۹ء سے ۱۰۳۴ھ/ ۱۶۲۴ء تک چار پانچ سال تک اپنے ساتھ رکھا اور فرمائش کر کے آپ کے گھر کا کھانا بھی کھایا اور کھانے کی تعریف بھی کی یہاں تک کہ تھوڑا کھانا تبرکا رات کو کھانے کے لیے رکھوا دیا۔[۲۶]

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جہانگیر بادشاہ کے ساتھ لشکر میں بھی رہے اور قلعہ آگرہ کے دربار شاہی میں بھی رہے اور ہر موقع پر تبلیغ دین متین کا اہم فریضہ ادا کیا۔[۲۷] شاہجہان بادشاہ بھی آپ کا خاص عقیدت مند تھا۔ آپ کے وصال کے بعد سرہند شریف حاضر ہو کر ایصال ثواب کا بڑا اہتمام کیا۔[۲۸] جہانگیر بادشاہ بھی وصال کے بعد تعزیت کے لیے سرہند شریف حاضر ہوا[۲۹]۔ شاہ جہاں بادشاہ تخت نشینی کے بعد خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔[۳۰] شاہ جہاں بادشاہ کے بیٹے اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ تو آپ کے صاحبزادہ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے مرید تھے[۳۱]، ان کے وصال پر اورنگ زیب عالم گیر خود تعزیت کے لیے سرہند شریف حاضر ہوے[۳۲]۔ اور آپ کے صاحبزادے خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ نے لال قلعہ دہلی میں قیام فرما کر اورنگ زیب عالمگیر کو منازل سلوک طے کرائے۔[۳۳] یہ وہی لال قلعہ ہے جس کی بنیاد شاہ جہاں بادشاہ نے حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے رکھوائی۔

حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ جب حج بیت اللہ شریف کے لیے خلفاء و مریدین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ سرہند شریف سے دہلی روانہ ہوے[۳۴] تو شاہجہاں بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا[۳۵]۔ اورنگ زیب عالم گیر اور ان کے شہزادے اور شہزادیاں حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے بیعت تھیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ محمد سیف الدین علیہ الرحمۃ کے مکتوبات کے مجموعوں میں اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ اور شہزادے اور شہزادیوں کے نام مکتوبات ملتے ہیں۔ جن کی تفصیل حضرت مسعود ملت نے ایک تحقیقی مقالے میں پیش کی ہے جو جہان امام ربانی مجدد الف ثانی (مطبوعہ کراچی ۲۰۰۵ء) کے چوتھی جلد میں شامل ہے۔ اس مقالے میں اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کے نام حضرت خواجہ

محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے چھ مکتوبات شریف ہیں۔ [۳۶] خواجہ محمد سیف الدین علیہ الرحمۃ کے سولہ مکتوبات شریفہ اورنگ زیب عالمگیر کے نام ہیں۔ [۳۷] اور آپ ہی کے پانچ مکتوبات شریفہ شہزادہ معظم کے نام ہیں [۳۸] اور گیارہ مکتوبات شریفہ شہزادی روشن آرا کے نام ملتے ہیں [۳۹]۔ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمۃ جب علیل ہوئے تو اورنگ زیب عالمگیر نے تبدیلی آب وہوا کے لیے دہلی آنے کی دعوت دی [۴۰] خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمۃ کے پوتے خواجہ محمد زبیر علیہ الرحمۃ کا حاکم کابل شہزادہ معظم بہادر شاہ نے استقبال کیا [۴۱]۔ شاہ جہاں تخت نشینی کے بعد خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا [۴۲] وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ دہلی کے لال قلعہ کی بنیاد بھی آپ سے رکھوائی [۴۳]۔ شاہ جہاں بادشاہ کے صاحبزادے اورنگ زیب عالم گیر حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے بیعت ہوئے [۴۴] اورنگ زیب عالم گیر نے حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے علاوہ خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ [۴۵] اور خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ کے نام بھی خطوط لکھے [۴۶]۔ شاہ جہاں کی بیٹیاں روشن آراء گوہر آراء بھی خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سے بیعت تھیں [۴۷]۔

شاہان مغلیہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے اولاد امجاد سے خاص عقیدت رکھتے تھے چنانچہ آپ کے پوتے خواجہ محمد نقشبند علیہ الرحمۃ کے انتقال پر اورنگزیب عالمگیر نے شہزادہ معظم کو تعزیت کے لیے بھیجا [۴۸]۔ خود اورنگزیب عالمگیر نے آپ کے دست حق پرست پر تجدید بیعت کی [۴۹]۔ اور آپ کے پوتے خواجہ محمد زبیر علیہ الرحمۃ کی خدمت میں مغل بادشاہ فرخ سیر نے تحائف وہدایا پیش کیے [۵۰]۔ اور اس سے قبل بہادر شاہ بھی اعلان شاہی کے بعد سرہند شریف حاضر ہوا اور اس خاندان کے شہزادوں کو تحفہ تحائف پیش کیے [۵۱]۔ سلطان ہند کا وزیر اعظم ملاقات کے لیے حاضر ہوا [۵۲]، شاہ شام [۵۳]، شاہ روم [۵۴]، اور والی کاشغر [۵۵] آپ سے ارادت و بیعت رکھتے تھے۔ الغرض سلاطین مغلیہ میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور آپ کے اولاد واحفاد کا بڑا اثر تھا۔

☆

شاہان افغانستان مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے چنانچہ افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمٰن حضرت پیر فضل الرحمٰن مجددی کے جد امجد حضرت ضیائے معصوم مجددی کے عقیدت مند تھے اور ان کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان (۱۹۰۱ء۔ ۱۹۱۹ء) جو افغانستان کے بادشاہ ہوئے حضرت ضیائے معصوم علیہ الرحمۃ کے

خاص مریدوں میں تھے [۵٦]۔ آپ کے دامن سے وابستگی پر فخر کرتے تھے۔ امیر حبیب اللہ روضہ شریف پر بھی حاضر ہوئے [۵۷]۔

۲۰۰۵ء میں جب فقیر کی سرہند شریف حاضری ہوئی تو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے قدموں میں شاہان افغانستان کے مزارات تھے۔ کبھی ایسا سننے میں نہ آیا کہ کوئی افغانی جنازہ دفن کے لیے ہندوستان آیا ہو۔ یہ ضرور سننے میں آیا کہ افغانی جنازہ تدفین کے لیے ہندوستان سے افغانستان گیا۔ لیکن روضہ شریف دربار عالیہ سرہند شریف کی یہ شان ہے کہ شاہان افغانستان کے جنازے تدفین کے لیے سرہند شریف آرہے ہیں [۵۸]۔ اس سے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی روحانی جذب وکشش کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آج بھی جانے والا شاہان افغانستان کے مقابر روضہ شریف کے احاطے میں دیکھ سکتا ہے۔ چند شاہان افغانستان کے نام پیش کرتا ہوں۔

۱ والی ریاست رام پور نواب کلب علی خان نے جو نقشبندی مجددی تھے روضہ شریف کے جنوب میں احمد شاہ ابدالی (۱۷۹۳ء۔ ۱۸۰۰ء) کے پوتے شاہ زمان شاہ (۱۷۴۷ء۔ ۱۷۷۳ء) کا خوبصورت اور شاندار مقبرہ تعمیر کرایا۔

۲ شاہ شجاع (۱۸۰۳ء۔ ۱۸۰۹ء) جو سید عبدالرحیم المعروف میر لالہ شاہ نقشبندی مجددی کا مرید تھا یہاں مدفون ہوا۔

۳ شاہ زمان کے پوتے امیر محمد یعقوب خان (۱۷۸۹ء۔ ۱۸۸۰ء) کا مرقد سفید سنگ مرمر کا روضہ شریف میں واقع ہے۔

۴ افغانستان کے جرنیل عبدالرحمٰن خان کا مزار معصومی باغ سرہند میں واقع ہے۔

☆

ترکی میں شاہان سلطنت عثمانیہ مشائخ نقشبندیہ اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ مرمرا یونیورسٹی استانبول کے پروفیسر نجدت طوسون (Prof. Necdet Tosun) نے شاہان ترکیہ کی مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے ارادت وعقیدت کے سلسلے میں مختصر تفصیلات بھیجی ہیں جو پیش کی جارہی ہیں۔ [۵۹]

۱..... سلطان بایزید دوئم (۸۸۶ھ۔ ۹۱۸ھ/ ۱۴۸۱ء۔ ۱۵۱۲ء) نے استانبول میں خانقاہ کی تعمیر میں

امیر احمد بخاری نقشبندی (م۔ ۹۲۰ھ/۱۵۰۶ء) کی مدد کی۔ امیر احمد بخاری عبداللہ الٰہی کے مرید تھے جو خواجہ عبیداللہ احرار کے مرید تھے۔

۲...... قانونی سلطان سلیمان (۱۵۲۰ء-۱۵۶۶ء) نے مکہ مکرمہ میں عبد الرحمٰن غباری نقشبندی (م۔ ۹۷۴ھ/ ۱۵۶۶ء) کی خانقاہ تعمیر کرائی۔

۳......عبداللطیف محدومی جامی (م۔ ۹۶۳ھ/۱۵۶۶ء) یہ نقشبندی کبروی تھے انھوں نے قانونی سلطان سلیمان کو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت فرمایا۔

۴......سلطان عبد الحمید (۱۷۷۴ء- ۱۷۸۹ء) نے شیخ مصطفیٰ آفندی نقشبندی مجددی (م۔ ۱۱۵۷ھ/ ۱۷۸۵ء) کو ایک گاؤں نذر کیا۔

۵...... بایزید مصطفیٰ نقشبندی مجددی (م۔ ۱۲۰۰ھ/ ۱۷۸۵ء) سلطان مصطفیٰ سوئم کے زمانے میں عساکرِ عثمانیہ کے ساتھ جہاد پر گئے۔

۶......سلطان محمود دوئم (۱۸۰۸ء-۱۸۳۹ء) نے استانبول میں دو نقشبندی خانقاہوں کو بحال کرنے میں مدد دی۔

۷...... بزم عالم ولیدہ سلطان (والدہ سلطان محمود دوئم) شیخ محمد جان نقشبندی مجددی مکی کی مریدہ تھیں اور شیخ محمد جان شاہ غلام علی عبداللہ دہلوی کے خلیفہ تھے۔

۸...... سلطان عبد المجید (۱۸۳۹ء- ۱۸۶۱ء) یہ شیخ مصطفیٰ عصمت نقشبندی خالدی (م۔ ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲ء) کے مرید تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد ہر جمعہ کو ان کی قبر پر دس نقشبندی صوفی حضرات ختم خواجگان پڑھتے رہیں۔

۹......سلطان عبدالعزیز (۱۸۶۱ء-۱۸۷۶ء) نے شیخ سلیمان بخاری نقشبندی مجددی کا وظیفہ مقرر کیا جب وہ استانبول تشریف لائے۔

۱۰......سلطان عبدالحمید (۱۸۷۶ء-۱۹۰۹ء)، شیخ حسن خیالی آفندی نقشبندی مجددی کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔

الغرض ہندوستان، افغانستان اور ترکی کے بادشاہ و سلاطین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے۔ اور یہ سلسلہ عالیہ کا خاص امتیاز ہے کہ اس نے جہاں عوام و خواص کو متاثر کیا وہاں شاہان وقت پر بھی

اثر انداز ہوا۔

ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہونے والی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کو دنیا کے مختلف ممالک کے باشندوں میں یہ قبول عام حاصل ہوا ہو جو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور ان کی اولاد و امجاد کو حاصل ہوا۔ ان کا فیض اور غلغلہ ہندوستان سے گزر کر افغانستان و ایران، روس و چین، شام و یمن سلطنت عثمانیہ میں پھیلا جو تین براعظموں، یورپ، ایشیا اور افریقہ پر پھیلی ہوئی تھی اور جس میں یہ ممالک شامل تھے۔

قبرص، یونان، بلغاریہ، سرویا، بوسنیا، ہنگری، رومیلیا، کریمیا، آرمیدیا، مصر و حجاز، لیبیا، فلسطین وغیرہ۔

دور جدید میں بھی روس، افغانستان، بوسنیا وغیرہ کی آزادی کی جنگوں میں حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے مجاہدین کا خون شامل ہے اور ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے اثرات آج بھی نظر آرہے ہیں چنانچہ قبرص ہی کے شیخ ناظم قبرصی، نے یورپ و امریکہ میں سلسلۂ نقشبندیہ مجددیہ کا غلغلہ بپا کر رکھا ہے۔ کوئی فاضل محقق عالمی سطح پر سربراہان مملکت اور عوام و خواص پر حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے اثرات کا جائزہ لیں تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اسلامی حکومتوں اور سربراہان مملکت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ تعلیمات مجددیہ سے فیض حاصل کر کے اپنی اپنی حکومتوں کو مستحکم کریں اور اسلام کی خدمت کی سعادت حاصل کریں۔ اس میں شک نہیں یہ دور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی تعلیمات اور فیضان کا محتاج ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اے ساقی

☆......☆......☆

حواشی:

۱...... پروفیسر محمد اقبال مجددی نے روس و افغانستان کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پر تحقیق سے متعلق مندرجہ ذیل ماخذ کا ذکر کیا ہے۔

(۱) وین گارڈ: صوفی ازم ان سوویت یونین، لندن

(۲) شیخ محمد مرادکی: وقائع کاغان (۴ جلد) بیروت

(۳) محمد علی بیضون: ذیل علی دشحات

(۴) عبدالحئ حبیبی: تاریخ افغانستان درعصر گانیان

(۵) عزیزالدین وکیلی: تیمور شاہ درانی

(۶) اعزازالدین وکیلی: ذرالزمان

(۷) ڈاکٹر ساجدہ سلطانہ علوی (کینڈا) نے انگریزی میں ایک مقالہ قلم بند کیا ہے جس کا عنوان ہے

''وسط ایشیا میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا عروج...... مجددی مشائخ اور خلفاء کی نظر میں''

(سولہویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی عیسوی تک) یہ مقالہ غیر مطبوعہ ہے اور اس میں بہت مفید اور جدید معلومات ہیں۔

(۸) ایک اور مقالہ نگار Richard Foltz نے بھی مندرجہ ذیل عنوان پر انگریزی میں مقالہ لکھا ہے جو چھپ گیا ہے۔

''وسط ایشیائی نقشبندی حضرات کے شاہان مغلیہ سے تعلقات'' جے آئی ایس ۷، (۱۹۹۶ء) ص ۲۲۹۔۲۳۹

(۹) ڈاکٹر آرتھر بوہیلر نے بھی انگریزی میں ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے

''تیموری ہند میں نقشبندیہ حضرات...... وسط ایشیا کا ورثہ'' جے آئی ایس ۷، (۱۹۹۶ء) ص ۲۰۸، ۲۲۸ (ماہنامہ نور اسلام، گولڈن جوبلی نمبر ۲۰۰۶ء)

۲...... خواجہ محمد احسان مجددی مرید وخلیفہ خواجہ محمد زبیر بن خواجہ محمد ابوالعلاء بن خواجہ محمد نقشبند بن خواجہ محمد معصوم بن شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی علیہم الرحمۃ

۳...... خواجہ محمد احسان: روضۃ القیومیہ، ج ۱، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۲۹۵

۴...... ایضاً، ج ۲، ص ۸۶

۵...... ایضاً ص ۱۱۶

۶...... ایضاً ص ۱۱۸

۷...... ایضاً ص ۱۲۰

۸...... ایضاً ص ۱۲۵

۹…… ایضاً، ص۱۲۹

۱۰…… ایضاً، ص۱۴۳

۱۱…… ایضاً، ص۱۵۳

۱۲…… ایضاً، ص۱۷۸

۱۳…… مکتوبات سعیدیہ، مطبوعہ لاہور، مکتوب نمبر ۸۷، ص۱۴۹

۱۴…… روضۃ القیومیہ، ج ۳، ص۸۲ ۔ ۸۳، لاہور ۲۰۰۲ء

۱۵…… ایضاً، ص۱۲۰

۱۶…… ایضاً، ص۱۴۴

۱۷…… ایضاً، ص۱۵۴

۱۸…… ایضاً، ج۱، ص۱۲۷

۱۹…… ایضاً، ص۲۲۷

۲۰…… ایضاً، ص۱۹۵

۲۱…… ایضاً، ص۳۰۷

۲۲…… ایضاً، ص۳۱۵ ۔ ۳۱۶

۲۳…… جہانگیر، تزک جہانگیری (اردو)، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۰ء، ص۵۶۳

۲۴…… روضۃ القیومیہ، ج۱، ص۳ ۔ ۵

۲۵…… جہانگیر، تزک جہانگیری، مطبوعہ لکھنو، ص۲۷۴ ۔ ۲۷۵

۲۶…… بدرالدین سرہندی: مجمع الاولیاء (۱۰۴۳ھ)، مخطوطہ انڈیا آفس لائبریری، لندن، نمبر ۱۴۵، ورق ۴۴۲

۲۷…… مکتوبات امام ربانی: جلد سوم، مکتوب ۴۳

۲۸…… کمال الدین محمد احسان: روضۃ القیومیہ، جلد اول، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء

(فاضل جلیل شیخ کامل میرک۔ شاہ علیہ الرحمۃ سے شاہجہاں بادشاہ نے دریافت کیا کہ سلطان روم کی خدمت میں ہندوستان کا کون سا ایسا تحفہ پیش کروں جس کی نظیر روم میں بھی نہ ہو۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ مکتوبات امام ربانی پیش کردیں کیونکہ یہ وہ پاکیزہ اعجوبہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں۔ (ترجمہ از عربی، رسالہ الجنات الثمانیہ مشمولہ

مخطوطہ مجموعہ، رسائل خواجہ عبدالاحد، ورق ۳۴، مخزونہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لٹن لائبریری)

۲۹......روضۃ القیومیہ، ج ۲، ص ۶۳

۳۰......ایضاً، ج ۲، ص ۴۷

۳۱......محمد امین نقشبندی: مقامات احمدیہ و ملفوظات معصومیہ، ص ۱۰۸

۳۲......روضۃ القیومیہ، ج ۲، ص ۲۷۹

۳۳......مکتوبات معصومیہ، جلد ۳، مکتوب ۲۴۲

۳۴......مکتوبات سعیدیہ، مطبوعہ لاہور، مکتوب ۸۷، ص ۱۴۹

۳۵......زوار حسین شاہ: انوار معصومیہ، مطبوعہ کراچی ۱۴۰۱ھ، ص ۶۶

۳۶......مکتوبات معصومیہ، مکتوب نمبر ۶، جلد ۳۔ مکتوب نمبر ۵، جلد ۲۔ مکتوب ۴۲، جلد ۱۔ مکتوب ۱۲۲، جلد ۳۔ مکتوب ۲۲۱، جلد ۳۔ مکتوب ۲۲۷، جلد ۳

۳۷......خواجہ سیف الدین: مکتوبات سیفیہ، مطبوعہ حیدرآباد، سندھ، مکتوب ۲۶، ۶، ۲۳، ۲۰، ۵۳، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۷۴، ۷۶، ۸۰، ۱۲۱، ۱۶۵، ۱۸۶

۳۸......خواجہ سیف الدین: مکتوبات سیفیہ، مطبوعہ حیدرآباد، سندھ، مکتوب ۵۲، ۵۳، ۵۸، ۶۹، ۱۷۶

۳۹......خواجہ سیف الدین: مکتوبات سیفیہ، مطبوعہ حیدرآباد، سندھ، مکتوب، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۴، ۴۳، ۴۶، ۶۲، ۷۷

۴۰......روضۃ القیومیہ، ج ۳، ص ۳۶

۴۱......ایضاً، ج ۴، ص ۵۵

۴۲......ایضاً، ج ۲، ص ۴۳

۴۳......ایضاً، ص ۹۳

۴۴......ایضاً، ص ۱۰۰

۴۵......ایضاً، ص ۲۲

۴۶......ایضاً، ص ۳۹

۴۷......ایضاً، ص ۱۰۴۔۱۰۵

۴۸......زوار حسین شاہ: انوار معصومیہ، کراچی ۱۴۰۱ھ، ص ۱۶۹

۴۹..... ایضاً، ص ۱۶۸

۵۰..... خواجہ محمد احسان: روضۃ القیومیہ، ج ۴، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء

۵۱..... ایضاً

۵۲..... ایضاً، ص ۱۷۱

۵۳..... ایضاً، ص ۱۱۹

۵۴..... خواجہ محمد احسان: روضۃ القیومیہ، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء، ج ۴، ص ۱۲۱

۵۵..... ایضاً، ص ۱۷۷

۵۶..... ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر: تجلیات ضیائے معصوم، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۶ء، ص ۴۴۔۵۱

۵۷..... محمد ظاہر شاہ بادشاہ (دور حکومت ۱۹۳۳ء۔۱۹۵۸ء) جو حضرت نور المشائخ فضل عمر مجددی کابلی (م۔ ۱۳۷۶ھ) کا مرید تھا۔ ۱۹۴۵ء۔۱۹۴۶ء میں روضہ شریف پر حاضر ہوا۔

۵۸ احمد شاہ ابدالی (۱۷۴۷ء۔۱۷۷۳ء) کے پوتے شاہ زمان شاہ (۱۷۹۳ء۔۱۸۰۰ء) دربار سرہند میں مدفون ہوئے۔

۵۹ پروفیسر نجدت طوسون نے اپنے ایک تحقیقی مقالے (The Contribution of the Ottoman Naqshbandia to the Persian Language and Letrature) میں ان نقشبندی مجددی مصنفین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ترکی میں فارسی زبان و ادب کی خدمت میں حصہ لیا۔ انھوں نے ان حضرات کا ذکر کیا:

(۱) شیخ نعمت اللہ بن احمد، صوفیہ (م۔ ۹۶۹ھ/ ۱۵۶۲ء)
(۲) میرک محمد نقشبندی تاشقندی (مابعد ۱۰۲۲ھ/ ۱۶۱۳ء)
(۳) محمد مراد بن عبدالحلیم نقشبندی (م۔ ۱۲۶۴ھ/ ۱۸۴۸ء)
(۴) علی بہجت قونوی (م۔ ۱۲۳۸ھ/ ۱۸۲۲ء)
(۵) عبداللہ الٰہی ساوی (م۔ ۸۹۶ھ/ ۱۴۹۱ء)
(۶) امیر احمد بخاری (م۔ ۹۲۲ھ/ ۱۵۱۶ء)
(۷) احمد بن محمود حزینی (م۔ ۱۰۰۲ھ/ ۱۵۹۳ء)

(۸) ابوعبداللہ محمد سمرقندی (م۔ ۱۱۱۶ھ/۱۷۰۴ء)

(۹) عبداللہ ندائی کاشغری (م۔ ۱۱۷۴ھ/ ۱۶۶۰ء)

(۱۰) خواجہ نشمت آفندی (م۔ ۱۲۲۲ھ/۱۸۰۷ء)

(۱۱) عبدالقادر برقی (م۔ ۱۹۲۳ء)

(**وضاحت**) راقم نے اس مقالے میں روضۃ القیومیہ سے استفادہ کیا ہے جس میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو معاصر کتب تاریخ میں نہیں ملتیں۔ لیکن چونکہ فاضل مصنف خواجہ محمد احسان مجددی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے پڑپوتے قیوم رابعہ خواجہ محمد زبیر علیہ الرحمۃ کے مرید و خلیفہ تھے اس لیے ایسے مصنف سے غلط بیانی یا مبالغہ آرائی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے علاوہ تاریخ کی بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مؤرخ لکھنا نہیں چاہتا یا حالات لکھنے کی اجازت نہیں دیتے اس لیے بہت سی سچ باتیں بھی تاریخ میں جگہ نہیں پاتیں۔ فاضل مصنف کو بہت سی باتیں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خاندان کے افراد سے بھی معلوم ہوئیں جو اکثر خاندان میں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں۔ ایسی باتوں کی اگرچہ، معاصر تاریخ کتب سے تصدیق نہ بھی ہو تو قرائن سے قابل اعتبار سمجھی جاسکتی ہیں۔

☆......☆......☆



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مکتوب گرامی

خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ
(م۔ ۱۰۷۰ھ/ ۱۶۵۰ء)

بنام

والیٔ یمن امام اسماعیل

مکتوب ہشتاد وہفتم بنام امام اسماعیل والی یمن در بیان بعض فضائل اعمال و مناقب اہل بیت نبوت۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَزِیْزِ الْغَفَّارِ، وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ سَیِّدِ الْاَبْرَارِ، وَعَلٰی اٰلِہٖ الْاَطْہَارِ وَصَحْبِہٖ الْاَخْیَارِ، نَخُصُّ بِالسَّلَامِ وَالتَّحِیَّۃِ الحضرۃ الَّتِیْ اتَّصَلَ نَسَبُہَا بِالنُّبُوَّۃِ الطَّاہِرَۃِ وَالْاِمَامَۃِ الْبَاہِرَۃِ، وَالسُّفْرَۃِ الَّتِیْ تَمَسَّکَتْ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰی مِنَ الْوَلَایَۃِ وَالْخِلَافَۃِ الْقَاہِرَۃِ مِنْ شَمَخَ اَنْفُ الزَّمَانِ بِاَوَامِرِہِ النَّافِذَۃِ، وَارْتَفَعَتْ اَعْلَامُ الْعَدَالَۃِ وَالْاِحْسَانِ بِاَحْکَامِہِ الْجَارِیَۃِ ؎

خَلِیْفَۃٌ مَلَکَ الْاٰفَاقَ سَطْوَتُہٗ وَالْحَقُّ کَانَ مَدٰی اٰیَاتِہٖ مَسْلَکَا
یَحُوْمُ حَوْلَ ذُرَاہُ الْعَالَمُوْنَ کَمَا تَرَی الْحَجِیْجَ بِبَیْتِ اللّٰہِ مُعْتَرِکَا

اَعْنِیْ اَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاِمَامَ الْمُسْلِمِیْنَ نَاصِرَ الشَّرِیْعَۃِ الْقَوِیْمَۃِ سَالِکَ الطَّرِیْقَۃِ الْمُسْتَقِیْمَۃِ، نَتِیْجَۃَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ سَیِّدِ الْاَنَامِ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ، صَفْوَۃَ اَہْلِ الْبَیْتِ الْکِرَامِ، سَیِّدَنَا وَمَوْلَانَا الْمُتَوَکِّلَ عَلَی اللّٰہِ الْجَلِیْلِ الْمُبِیْنِ اَلْاِمَامَ اِسْمَاعِیْلَ بْنَ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ، لَا زَالَتْ رَایَاتُ مَعْدِلَتِہٖ مَنْشُوْرَۃً، وَعَسَاکِرُ سَلْطَنَتِہٖ مُظَفَّرَۃً مَنْصُوْرَۃً۔ اَمَّا بَعْدُ فَلَمَّا مَنَّ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْنَا بِاِحْرَازِ السَّعَادَۃِ الْعُظْمٰی وَالْفَوْزِ بِالنِّعْمَۃِ الْقُصْوٰی مِنْ طَوَافِ الْکَعْبَۃِ الْمُعَظَّمَۃِ الْمُکَرَّمَۃِ وَزِیَارَۃِ الرَّوْضَۃِ الْمُطَہَّرَۃِ الْمُنَوَّرَۃِ الَّتِیْ ہِیَ رَوْضَۃٌ مِّنْ رِیَاضِ الْجَنَّۃِ، زَادَہُمَا اللّٰہُ سُبْحَانَہٗ تَشْرِیْفًا وَتَکْرِیْمًا وَتَعْظِیْمًا الوطر مِنْ اَدَاءِ الْمَنَاسِکِ الْعِظَامِ فِی الْمَشَاعِرِ الْکِرَامِ مَعَ اعْتِرَافِنَا بِالْعَجْزِ وَالْقُصُوْرِ عَنْ اِیْفَاءِ الْحَقِّ الْمَاْمُوْرِ، وَرَجَعْنَا امْتِثَالًا لِلْحَدِیْثِ الْمَاْثُوْرِ بِرِوَایَۃِ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا قَالَتْ قَالَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰی اَحَدُکُمْ حَجَّتَہٗ فَلْیُعَجِّلِ الرُّجُوْعَ اِلٰی اَہْلِہٖ فَاِنَّہٗ اَعْظَمُ لِاَجْرِہٖ۔ اَخْرَجَہُ الْحَاکِمُ وَالْبَیْہَقِیُّ۔ وَوَصَلْنَا اِلَی الْہِنْدِ اِلَی الدِّیَارِ الْمَعْمُوْرَۃِ الْمُکَرَّمَۃِ بِبِشَارَۃِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلٰی مَا رَوَاہُ اَبُوْ ہُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ،

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، مَشْمُولَةً عَلَى أَنْوَاعِ أَفْضَالِكُمْ وَإِكْرَامِكُمْ مَغْمُورَةً بِحَمَاسَتِكُمْ وَحِمَايَتِكُمْ. وَأَلْفَيْنَا أَهْلَهَا بَلْ كُلَّ عَاكِفٍ وَبَادٍ وَمُقِيمٍ وَوَارِدِيهَا شَاكِرِينَ عَلَى إِحْسَانِكُمْ وَإِنْعَامِكُمْ، وَحَامِدِينَ عَلَى مَكَارِمِ أَخْلَاقِكُمُ الْحَسَنَةِ الْمَوْرُوثَةِ مِنْ جَدِّكُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَشْغُوفِينَ بِحُبِّكُمْ. إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ النَّاسِ إِلَيْهَا. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أَحْرَزْتُمْ مَجَامِعَ الْكَمَالَاتِ بِحَذَافِيرِهَا، وَفُزْتُمْ بِمحاسن الْأَوْصَافِ بِشَرَاشِرِهَا. مِنْهَا بَذْلُ النَّدَى وَكَفُّ الْأَذَى وَتَعْجِيلُ الثَّوَابِ وَتَأْخِيرُ الْعِقَابِ وَتَقْدِيمُ الْعَدَالَةِ الَّتِي يَفُوزُ صَاحِبُهَا بِالْبِشَارَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. تَشَوَّقْنَا إِلَى زِيَارَتِكُمُ الشَّرِيفَةِ، وَتَقْبِيلِ أَيْدِيكُمُ الْمُنِيفَةِ عَلَى أَنَّ مَحَبَّتَكُمْ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً لِقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَلِمَا رَوَى الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَنَرْجُو مِنَ اللهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَحْشُرَنَا بِفَضْلِهِ مَعَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ. وَذٰلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى۔

ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی

(وکٹوریہ یونیورسٹی، نیوزی لینڈ)

☆

مکتوبات خواجہ باقی باللہ جو حال ہی میں شائع ہوئے ہیں، ٨٧ر مکتوبات پر مشتمل ہیں اور مختلف علماء و صوفیہ کے نام ہیں جن میں شیخ تاج الدین، شیخ احمد سرہندی، شیخ الہٰ داد، خواجہ حسام الدین، شیخ فرید بخاری، صدر جہاں، مرزا خان خاناں اور شیخ نظام تھانیسری وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کے مکتوبات میں سلسلہ نقشبندیہ احراریہ کی تعلیمات کے اہم پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ ان مکتوبات کے ذریعے تصوف کے مختلف نظریات بالخصوص نظریہ وحدۃ الوجود کی عمیق گہرائیوں پر آپ کے غیر معمولی عبور کی عکاسی ہوتی ہے۔

(ترجمہ: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

شیخ محمد ناظم عادل القبرصی

الحقانی النقشبندی المجددی

شیخ محمد ناظم قبرصی نقشبندی مجددی اس وقت دنیا میں مشرق ومغرب اور جنوب وشمال کے مختلف ممالک میں سلسلہء عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کر رہے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً تراسی سال ہوگی مگر دین ومسلک کی اشاعت کے لیے ان کا والہانہ جذبہ جوانوں کو بھی شرمندہ کیے دیتا ہے۔ بقول مولانا جامی:

ہمہ شیرانِ جہاں بستہء ایں سلسلہ اند
(دنیا کے سارے بہادر شیر سلسلہء عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں)

اور بقول ڈاکٹر اقبال مرحوم سلسلہء عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ایک ''حرکی'' (Dynamic) سلسلہ ہے۔ شیخ ناظم قبرصی ان اقوال کے آئینہ دار معلوم ہوتے ہیں اور اگرچہ نقشبندی مجددی ہیں مگر سنا گیا ہے کہ ان کی محفل میں ذکر جہر بھی ہوتا ہے اور رقص و پاکوبی بھی...... شاید ذکر جہر ددھیال کی نسبت سے ہو، کیونکہ ان کے والد قادری تھے اور رقص و پاکوبی نھیال کی نسبت سے ہو۔ ان کی والدہ مولانا جلال الدین رومی کے سلسلہء مولویہ سے وابستہ تھیں۔ شیخ محمد ناظم قبرصی ظاہر میں متبع سنت ہیں اور سلف صالحین کی یادگار معلوم ہوتے ہیں اس دور کے شیخ معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ان کی شخصیت متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ ان کا پیغام، پیغام محبت والفت اور پیغام امن واتحاد ہے لیکن اس کے باوجود وہ بدعقیدہ لوگوں کے سخت مخالف ہیں جن کی نفرت وگستاخی کی تحریک نے ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کر دیا۔ شیخ محمد ناظم قبرصی کھلم کھلا نہایت جوش وجذبے کے ساتھ اس فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں......

شیخ محمد ناصر قبرصی کے مندرجہ ذیل حالات ویب سائٹ نمبر

www.naqshbandi.org

www.naqshbandi.act

سے ملے ہیں جو ایک لبنانی فاضل نے انگریزی میں لکھے ہیں، ہم اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔

(مرتبین)

۶۷۱۳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

شیخ محمد ناظم عادل القبرصی

☆☆

شیخ محمد ناظم قبرصی ۲۳/ اپریل ۱۹۲۲ء/ ۲۶/ شعبان المعظم ۱۳۴۰ھ کو قبرص کے قریہ لارنکا (Larnaca) میں بروز اتوار پیدا ہوئے...... والد کی طرف سے سلسلۂ نسب بانی سلسلۂ قادریہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے بانی سلسلۂ مولویہ مولانا جلال الدین رومی سے ملتا ہے شیخ محمد ناظم حسنی اور حسینی ہیں اور مشرباً نقشبندی مجددی...... والد کی طرف سے قادری اور والدہ کی طرف سے مولویہ نسبتیں ان کو حاصل ہیں۔

شیخ محمد ناظم قبرصی بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ رہے جو سلسلۂ قادریہ کے شیخ تھے۔ آپ کے والد نے جدید تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کرا دیا۔ لیکن شام کو وہ مذہبی تعلیم دیتے تھے...... آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، منطق وغیرہ علوم وفنون حاصل کیے...... قبرص میں علوم وفنون کی تعلیم ختم کر کے استنبول آ گئے جہاں استنبول یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ میں ۱۳۵۹ھ/ ۱۹۴۰ء میں داخلہ لیا...... اس کے ساتھ ساتھ شیخ جمال الدین (م۔ ۱۳۷۵ھ/ ۱۹۵۵ء) کے پاس عربی بھی پڑھتے رہے...... آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی...... لیکن شیخ محمد ناظم کہتے تھے کہ ”میرا دل سائنس کی طرف مائل نہیں، روحانیت کی طرف مائل ہے“...... قیام استنبول کے پہلے سال اپنے مرشد شیخ سلیمان نقشبندی مجددی (م۔ ۱۳۶۸ھ/ ۱۹۴۸ء) سے ملے (جنہوں نے روحانی تربیت کے بعد شیخ محمد ناظم کو اپنے مرشد شیخ عبد اللہ داغستانی سے بیعت و اجازت کے لیے شام بھیجا) جب انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، شیخ کی محفلوں میں شریک ہوتے اور طریقۂ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ ساتھ سلاسل قادریہ اور مولویہ میں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے...... نقشبندیہ مجددیہ میں آپ کا سلسلۂ طریقت اس طرح ہے......

☆ ...... شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی

☆ ...... خواجہ محمد معصوم

☆……خواجہ سیف الدین

☆……سید نور محمد بدایونی

☆……مرزا مظہر جان جاناں

☆……شاہ غلام علی دہلوی

☆……شیخ خالد البغدادی

☆……شیخ خاص محمود داغستانی

☆……شیخ محمد آفندی یراغی داغستانی

☆……شیخ جمال الدین غموقی حسینی داغستانی

☆……شیخ احمد سغوری داغستانی

☆……شیخ ابو محمد مدنی

☆……شیخ شرف الدین داغستانی

☆……شیخ عبداللہ فائز داغستانی

☆……شیخ محمد ناظم قبرصی

۱۳۶۴ھ/ ۱۹۴۴ء میں شیخ محمد ناظم تریپولی چلے گئے جہاں انھوں نے طریقہ نقشبندیہ پھیلانا شروع کیا…… بہت سے لوگ سلسلے میں داخل ہوے…… یہ اس زمانے کی بات ہے جب ترکی میں مذہبی سرگرمیوں پر پابندی تھی…… اذان تک دینا منع تھا…… جب شیخ ناظم اپنی جائے پیدائش قبرص میں گئے تو بلند آواز سے اذان دی…… چنانچہ ایک ہفتے کے لیے گرفتار کر لیے گئے …… جب رہا ہوے جامع مسجد کے مینارے پر جا کر اذان دی، اس کے علاوہ نکوسیا اور قرب و جوار کے دیہاتوں کی مساجد میں اذانیں دیتے رہے…… جس نے سرکاری افسروں کو چوکنا اور غضبناک کر دیا…… شیخ ناظم بڑی بے باکی سے ہر جگہ اذان دیتے رہے…… چنانچہ آپ پر ایک سو چودہ مقدمات قایم کر دیے گئے…… ان مقدمات پر انھیں سزا ملتی تو ایک سو برس سے کم نہ ہوتی…… خدا کی شان! اسی زمانے میں ترکی میں الیکشن ہوے اور عدنان مندریز جیت گئے جو ترکی کے صدر ہوے…… انھوں نے ساری مسجدیں کھول دیں اور اذان دینے کی اجازت دے دی…… یہ شیخ ناظم کے مرشد کی کرامت تھی…… قبرص کے قیام کے زمانے میں شیخ محمد ناظم نے پورے قبرص کا

دورہ کیا...... اس کے علاوہ لبنان، مصر، سعودی عرب اور دوسرے بہت سے مقامات پر سلسلہ ٔ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے لیے گئے...... ۱۹۵۲ء میں وہ دمشق آ گئے، لیکن ہر سال اپنے خاندان کے ساتھ رجب، شعبان، رمضان میں قبرص جاتے...... شیخ محمد ناظم ہر سال حج بیت اللہ شریف اور زیارت اقدس کے لیے حاضر ہوتے...... آپ نے اب تک ۲۷/حج کیے ہیں......

شیخ محمد ناظم قبرصی اپنے مرشد شیخ عبداللہ داغستانی کے مریدوں کی بھی دیکھ بھال کرتے...... ایک مرتبہ مرشد نے حکم دیا کہ دمشق سے (Aleppo) پا پیادہ جائیں اور راستے میں ہر قریہ میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کریں...... دمشق سے (Aleppo) چار سو کلومیٹر ہے...... آپ نے یہ دورہ ایک سال میں پورا کیا...... گئے بھی اور واپس بھی آئے...... اس علاقے میں ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام تھا...... ۱۹۷۸ء سے آپ ہر سال تین چار ماہ ترکی کے اندر دورہ کرتے اور سلسلہ ٔ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کرتے...... آپ نے اعتدال کی راہ اختیار کی...... جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے......

۱۹۷۴ء سے آپ نے یورپ کا دورہ شروع کیا...... ہر سال قبرص سے لندن جاتے...... ہر زبان، ہر مذہب وملت، ہر رنگ ونسل کے لوگوں سے ملتے رہے اور لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے رہے سلسلہ ٔ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہوتے رہے...... جس طرح شاہ نقشبند بخارا میں مجدد تھے اور سیدنا احمد سرہندی دوسرے ہزارے کے مجدد ہوئے...... اور سیدنا خالد البغدادی مشرق وسطیٰ میں اسلام، شریعت اور طریقت کے مجدد تھے...... اسی طرح مشرق وسطیٰ میں شیخ محمد ناظم اس عہد کے مجدد ہیں جو ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کا عہد ہے...... آپ کے مسکراتے چمکتے چہرے سے یورپ میں سب کو پیار ہے کیونکہ شیخ محمد ناظم نے لوگوں کو روحانیت اور زندگی کی اصل لذت سے آشنا کیا......

۱۹۹۱ء سے آپ نے امریکہ کے لیے سفر شروع کیا...... پہلے دور میں آپ امریکہ کی ۱۵/ریاستوں میں گئے...... آپ بہت سے لوگوں سے ملے...... مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ، بدھ مت، ہندو اور نئی نسل کے جوان...... اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی امریکہ میں سلسلہ ٔ نقشبندیہ مجددیہ کے پندرہ مراکز قائم ہو گئے...... شیخ محمد ناظم قبرصی نے ۱۹۹۳ء میں دوسرا دورہ کیا...... بہت سے شہروں، مساجد، منادر، گرجا اور بدھ مت کی عبادت گاہوں میں گئے...... شمالی امریکہ میں دس ہزار غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے اور سلسلہ ٔ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہوئے......

۱۹۸۶ء میں شیخ محمد ناظم مشرق بعید میں برونائی، ملائشیا، سنگاپور، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان اوران ملکوں کے ہر بڑے شہر میں گئے...... اور مملکت کے سربراہوں، بادشاہوں اور وزیروں سے ملے...... اور اسلام کا پیغام پہنچایا...... برونائی کے صدر سلطان حاجی حسن البُلکائی نے خاص طور پر پذیرائی کی...... پاکستان، سری لنکا اور سنگاپور میں آپ کے ہزاروں مریدین ہیں...... آپ نے لبنان کا بھی دورہ کیا...... جہاں ہم ان سے متعارف ہوئے اور آپ کو بہت قریب سے دیکھا...... شیخ محمد ناظم کا گھر کبھی زائرین سے خالی نہ ہوتا

کم سے کم سو زائرین روزانہ مستفیض ہوتے ہیں...... وہ ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں...... آپ کا گھر دمشق کے جنوب مشرقی سمت مرشد کریم شیخ عبداللہ داغستانی کے گھر کے قریب جبل قاسیون پر ہے...... آپ معمولی مکان میں رہتے ہیں...... آپ کے شیخ نے آپ کے بارے میں پیش گوئی کی:

> ''بیسویں صدی کے آخر اور اکیسویں صدی کے شروع میں سلسلہء
> عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا...... ایک بھی براعظم
> اس کی خوشبو سے محروم نہ رہے گا''

شیخ عبداللہ داغستانی (م۔ ۱۹۷۳ء) کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی...... ان کے وصال کے چند ماہ بعد ہی ۱۹۷۴ء میں شیخ ناظم نے لندن میں پہلا مرکز قایم کیا...... شیخ محمد ناظم یورپ، امریکہ، کینیڈا، شمالی امریکہ کا ہر سال دورہ کرتے...... آپ نے لندن میں بھی مراکز کھولے اور آپ کی تعلیمات یورپ، شمالی امریکہ، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، خلیج کے ممالک، جنوبی امریکہ، برصغیر پاک و ہند، جنوب مشرقی ایشیا، روس، چین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تمام علاقوں میں پھیل گئے......

شیخ محمد ناظم کی محفل میں آپ کو دنیا کی ہر زبان بولتا ہوا آدمی نظر آئے گا...... ہر سال رمضان المبارک میں لندن میں محفل ہوتی ہے...... جس میں تمام دنیا کے پانچ ہزار مہمان شریک ہوتے ہیں...... شیخ محمد ناظم کے مریدین میں زندگی کے ہر شعبے کے لوگ ہیں...... اس میں غریب بھی ہیں، امیر بھی...... تجارت پیشہ بھی ہیں، ہنر پیشہ بھی...... ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی...... ماہر نفسیات بھی ہیں، حکومت کے صدور، وزراء، بادشاہ وسلاطین، وزرائے اعظم اور سینئر پارلیمنٹ ممبر بھی ہیں...... ہر شخص آپ کی مسکراہٹ، سادگی، آپ کی نورانیت اور روحانیت سے متاثر نظر آتا ہے......

شیخ محمد ناظم کی زندگی بہت ہی متحرک ہے...... آپ دین و مسلک کی اشاعت کے لیے ہر وقت سفر میں رہتے ہیں...... آج مشرق میں ہیں تو کل مغرب میں...... آج جنوب میں ہیں تو کل شمال میں...... آپ نے دنیا میں محبت والفت اور اتحاد و امن کی تخم ریزی کر رہے ہیں...... آپ سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلۃ الذہب (Golden Chain) کے امین ہیں اور پوری قوت سے مسلک اہل سنت و جماعت اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کر رہے ہیں...... اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے...... اور آپ کی مقدس جدوجہد میں آپ کی مدد فرمائے۔ آمین......

شیخ ھشام محمد قبانی نقشبندی مجددی

(خلیفہ شیخ محمد ناظم قبرصی)

شیخ ھشام قبانی مشرق وسطیٰ کے ایک فاضل صوفی شیخ ہیں...... آپ نے امریکن یونیورسٹی بیروت سے بی۔اے کیا...... وہاں سے آپ اپنی میڈیکل ڈگری کے لیے بلجیم آئے...... پھر آپ نے دمشق سے فقہ اسلامی میں ڈگری حاصل کی...... آپ بچپن سے شیخ عبد اللہ داغستانی نقشبندی مجددی اور شیخ محمد ناظم قبرصی سے وابستہ رہے جو آج کل سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم شیوخ ہیں...... ۱۹۹۱ء میں شیخ محمد ناظم قبرصی نے انھیں امریکہ جانے اور وہاں نقشبندی مجددی مرکز قایم کرنے کا حکم دیا...... اس وقت سے آپ کینیڈا اور امریکہ میں ۱۳ مراکز قایم کر چکے ہیں...... آپ نے کئی یونیورسٹیوں میں اسلام تصوف اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے متعلق لیکچر دیے...... مثلاً شکاگو یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی برکلے یونیورسٹی، میکگل یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ...... اس کے علاوہ شمالی امریکہ، یورپ، مشرق بعید اور مشرق وسطیٰ میں بہت سے مذہبی اور روحانی مراکز میں لیکچر دیے...... شیخ ھشام کو آپ کے دادا پیر شیخ عبد اللہ داغستانی اور مرشد کریم شیخ محمد ناظم قبرصی حقانی نے چالیس سال تربیت کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا......

☆......☆......☆


لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم
كتبه گوهر قلم

ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی

(وکٹوریہ یونیورسٹی، نیوزی لینڈ)

☆

کتاب ''المکاتیب و الرسائل '' شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ٦۸ رمکتوبات کا مجموعہ ہے۔ ان مکتوبات میں آپ نے اتباع شریعت کی اہمیت پر زور دیا ہے نیز صوفیہ وعلماء کے اختلافات کو کم کرنے کی سعی کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک اہم خط جو آپ نے حضرت مجدد کو لکھا تھا، کتاب المکاتیب میں شامل نہیں تاہم ''معاج الولایت'' میں ملتا ہے۔ اس مکتوب میں آپ نے حضرت مجدد کے روحانی مکاشفات اور مقامات کے دعووں پر تنقید کی ہے اگر چہ حضرت مجدد نے ان اعتراضات کا جواب دیا اور آپ کے خلفاء نے بھی یہ ظاہر کیا کہ شیخ عبدالحق کو مخالفین نے غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا جس کی بنا پر آپ نے یہ مکتوب لکھا اور کچھ ایسے خطوط بھی پیش کیے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ عبدالحق اور حضرت مجدد کے درمیان غلط فہمی دور ہوگئی تھی، تاہم ایک عظیم ہمعصر صوفی کے خیالات قابل توجہ ہیں۔ (ترجمہ: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی)

الحسد یاکل الحسنات
کما تاکل النار الحطب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

مولانا محمد نور الدین النورانی

(سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم روحانی شخصیت)

پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی

☆☆

برصغیر پاک ہند میں ترویج اسلام کے لیے بزرگان دین نے جو عظیم الشان خدمات سرانجام دیں، ان کی تاریخی اہمیت کو کسی مؤرخ نے بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ محمد بن قاسم کی آمد ۷۱۲ء کے بعد ان کی تشریف آوری کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ رفیع المرتبت لوگ اعلیٰ اخلاق، عمدہ عادات اور پاکیزہ خصائل کے مالک تھے۔ جو ان کی محفل میں آتا بس ان کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ ان عظیم بزرگان دین میں سے حضرت حجۃ الاسلام خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ منفرد مقام کے حامل ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب نقشبندی فیض لے کر اس علاقے میں آئے اور اپنی کوششوں سے اسلام کے خزاں رسیدہ گلشن کو دوبارہ بہار آشنا کر دیا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی آپ کی ہی نگاہ حق شناس سے مستفیض ہوئے اور عہد اکبری کے کفر و الحاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر عہد جہانگیری میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں مگر پرچم اسلام کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی مساعی جمیلہ کا ہی نتیجہ تھا کہ سرزمین ہند کو اورنگ زیب عالمگیر جیسا متقی اور خدادوست بادشاہ نصیب ہوا جس نے اپنے ۴۹ سالہ دور حکومت میں تمام بدعت و ضلالت کے اندھیرے کافور کر دیے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے مخلصانہ کوشش کی اور دین حق کی شوکت رفتہ کو بحال کیا جو عہد اکبری اور عہد جہانگیری میں مٹ چکی تھی۔ اللہ کریم نے اس سلسلہ عالیہ کو خواجہ محمد معصوم المتوفی ۱۰۷۹ھ، خواجہ مظہر جان جاناں المتوفی ۱۱۹۵ھ، خواجہ غلام علی شاہ المتوفی ۱۲۴۰ھ، الشاہ ولی اللہ دہلوی فاروقی المتوفی ۱۱۷۶ھ، میاں احمد سعید دہلوی المتوفی ۱۲۷۷ھ، شاہ لاثانی علی پوری المتوفی ۱۳۵۸ھ، میاں شیر محمد شرقپوری المتوفی ۱۳۴۷ء اور خواجہ دوست محمد قندھاری المتوفی ۱۲۴۸ھ جیسی

عرش پایہ شخصیات سے مزین فرمایا۔ یہ لوگ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے عالم گیر پیغام کو لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں پھیل گئے اور ہزاروں گمراہوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا، ہزاروں تشنہ لبوں کو جام وحدت سے سرشار کیا اور ہزاروں کفر کے صحراؤں میں بھٹکنے والوں کو منزل حقیقی تک پہنچایا۔ انہیں قد آور شخصیات میں سے ایک ہمارے ممدوح مولانا محمد نورالدین قدس سرہ بھی ہیں۔

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

احوال وآثار:

حضرت مولانا محمد نور الدین قدس سرہ المتین ۱۲۷۶ھ کو موضع انو انکھا تھانہ دینا نگر ضلع گورداسپور (انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا یہ سنہ ولادت قرآن پاک کی اس آیہ قدسیہ سے اخذ ہوتا ہے۔

والذین امنوا اشد حبا للہ

(ترجمہ) ''اور اہل ایمان کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں'' (سورۃ البقرہ:۲)

آپ کے والد ماجد آپ کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ والدہ ایک صالحہ خاتون تھیں انھوں نے آپ کی پرورش کی، شومئی قسمت کہ وہ جلد وفات پاگئیں۔ یوں آپ زندگی کے سفر پہ بالکل اکیلے رہ گئے آپ کا بچپن عام بچوں کی ڈگر سے ہٹ کر تھا آپ کھیل کود کی بجائے بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھتے، ان کی پاکیزہ باتیں بڑے شوق سے سنتے تھے۔ صوم وصلوٰۃ کے بچپن ہی سے پابند تھے۔ آپ چودہ ایکڑ زمین کے مالک تھے مگر وہ نظائر دنیا سے بے اعتنائی کے باعث نذر وقت ہوگئی۔ جوانی کے عالم میں قدم رکھا اور کسی اللہ والے کی تلاش شروع کردی۔ بالآخر گوہر مقصود مل گیا۔ آپ نے سید برکت علی نقشبندی مجددی قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔

حضرت سید صاحب ظاہری و باطنی علوم کے بحر زخار تھے ان کی صحبت نے آپ کو لعل رخشاں بنا دیا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ نے اپنے مرشد حقانی سے ہی ظاہری و باطنی علم حاصل کیا۔ پھر سلاسل اربعہ کی خلافت حاصل کی اور مسند ارشاد پر فائز المرام ہوئے۔ آپ کی محفل میں علمائے وقت حاضر ہوتے اور مکتوبات امام ربانی کا درس سنتے تھے آپ کو تعلیمات مجددیہ کے اسرار ورموز پہ مکمل دسترس حاصل تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے علوم ومعارف کا دریا بہ رہا ہے۔

کارہائے نمایاں:

آسمان ہند پہ مغلیہ سلطنت کا سورج ہچکیاں لے کر دم توڑ گیا اب تقریباً آٹھ سو سال تک برصغیر کو چار چاند لگانے والی قوم غلامی کی تاریک وادی میں بھٹک رہی تھی، جہاں اس قوم کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی پہلوؤں میں کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، وہاں اس کے مذہبی عقائد وافکار کا استحصال کرنے کے لیے بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیا۔ انگریزوں کا مقصد یہ تھا۔

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو (ﷺ)

انھوں نے مختلف فرقوں کا بیج بویا، نئے نئے نظریات ترشوائے، محبت رسول کے جگمگاتے چاند کو گہنانے کے لیے توہین آمیز کتابوں کا سلسلہ شروع کیا کہ نئی پود اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے گانہ ہو جائے۔ ختم نبوت کے آفاقی عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے ''فتنۂ قادیان'' کو ہوا دی۔ یہ وہ دردناک حالات تھے کہ ہر ذی احساس خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمارے ممدوح علیہ الرحمۃ نے دوسرے معاصر اولیائے کرام کے ساتھ مل کر احیائے دین کے لیے دن رات کام کیا اور ''جدید نظریات'' کی ہولناکی سے اہل اسلام کو بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کانٹوں کی سیج پہ بسر کی۔

معاشی اصلاحات:

ہندوستان میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً معاشی شعبہ حیات پہ ہندو مسلط تھے۔ غریب مسلمان محنت کرتے اور ہندو اس محنت کو سود کی تلوا سے پاش پاش کر دیتے تھے، ضلع گورداسپور کے اکثر دیہات ہندوؤں کے مقروض تھے۔ آپ نے ان دیہاتوں میں اجتماعی ''بیت المال'' قایم کیے اور ان میں اپنے پاس سے گندم خرید کر جمع کی۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ گندم لے جاتا۔ بعض غریب لوگوں کے قرض مع سود ادا کر کے ہندو ساہوکاروں سے جان چھڑوائی۔ آپ کی معاشی اصلاحات سے چکراجہ اور الڑ پنڈی جیسے گاؤں ہندو سامراج کے شکنجے سے باہر نکل گئے۔

مذہبی خدمات:

آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر لوگ اسلام کی حقیقی دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔ غلامی کی تاریک

رات کے شروع ہوتے ہی یہ مسلمان ہندو رسوم و رواجات میں گرتے جا رہے تھے۔ ہمارے پنجاب میں شادی بیاہ کے موقعوں پر ناچ، گانا، مہندی، سہرا، لاگ اور جہیز وغیرہ کی غلط رسمیں ہندو معاشرے کی رہین منت ہیں، اسلام میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ آپ نے ان رسموں کے خاتمے کے لیے بہت جہاد کیا اور اپنے زیر اثر لوگوں کو سختی سے منع کیا۔ آپ شریعت کے ازحد پابند تھے خلاف شرع کام پر اس قدر جلال آرا ہوتے کہ سامنے والوں کا پتہ پانی ہو جاتا۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیتے۔ سالانہ عرس پر علماء اور نعت خوانان حضرات کا جم غفیر ہوتا، وعظ و نصیحت کے قیمتی موتیوں سے لوگ دامن بھر کر جاتے۔

قیامِ پاکستان:

قیام پاکستان میں آپ نے حصہ لیا اپنے ارادت مندوں کو دیگر بزرگان دین کی طرح قیام پاکستان کی اہمیت سے روشناس کرایا پھر وطن عزیز آئینہ تاریخ میں جلوہ ریز ہوا تو آپ نے مہاجروں کی بہت امداد کی دریائے راوی کی سرکش لہریں اپنی نگرانی میں سیکڑوں افراد کو عبور کروائیں۔ پاکستان میں ان کی آباد کاری کے لیے جدوجہد کرتے رہے آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے زندگی کے ہر موڑ پہ ہماری دستگیری فرمائی۔

سیرت طیبہ:

آپ سراپا اخلاق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے ورع و تقویٰ، سخاوت و دریا دلی، علم و فراست، تواضع اور ذکر و فکر والے تھے۔ نمائش سے پرہیز کرنا آپ کی سیرت طیبہ کا روشن پہلو ہے۔ آپ کی بہت سی کرامات بھی آپ کی سوانح حیات ''مخزن انوار'' میں جمع کر دی گئی ہیں مگر سب سے بڑی کرامت یہی استقامت علی الدین ہے جو آپ کے ہر انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔

معاصر اولیاء:

حضور شاہ لاثانی علی پوری، حضرت نقش لاثانی علی پوری، حضرت ظہور الحق گورداسپوری اور الشاہ سراج الدین مجددی عثمانی موسیٰ زئی، آپ کا ازحد احترام کرتے فرماتے۔ شاہ ظہور الحق علیہ الرحمۃ فرماتے:

> ''مولانا نور الدین کے پاس نجانے کونسا کمال ہے جو بڑے بڑے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے''

حضرت نقش لاثانی علیہ الرحمۃ نے ایک بار فرمایا:

”میاں صاحب بہت عظیم بزرگ ہیں“

خواجہ سراج الدین موسیٰ زئی والوں نے آپ کو سرہند شریف میں اپنی مسند پہ بٹھایا حالانکہ موصوف حضرت مولانا علیہ الرحمۃ کے دادا مرشد تھے۔ آپ نے شاہ لاثانی قدس سرہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)

سانحہء ارتحال:

۳؍رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ کو آپ بارہ منگاہ کی جامع مسجد میں مکتوبات شریفہ کا درس دے رہے تھے کہ فرمایا:

”اگر کوئی روزہ دار تمہارے پاس آئے اور حکم الٰہی سے وصال کر جائے تو تم نزع کے وقت اس کے منہ میں پانی نہ ڈالنا“

پھر آپ ظہر کی نماز تیاری کے لیے اٹھے اور وضو تازہ کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ لوگ اسی وقت سمجھ گئے کہ حضرت صاحب نے اپنی ہی مثال بیان فرمائی تھی۔ آپ کو شکر گڑھ میں دفن کیا گیا وہاں آپ کے خلیفہء اعظم الحاج محمد لعل الدین نقشبندی نوری علیہ الرحمۃ نے آپ کا مزار مبارک تعمیر کرایا جو بحمد اللہ مرجع خاص و عام ہے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک جیٹھ کے آخری ہفتے کو منایا جاتا ہے۔ علماء و عوام دور دور سے حاضر ہوتے ہیں۔

قبلہ حاجی صاحب کے فیضان سے ”ادارہ تعلیماتِ مجددیہ“ تن دہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ادارہ ہذا اپنی علمی و فکری مطبوعات ملک کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حرف مدعا:

سب طریقوں سے طریقہ باشریعت نقشبند
دنیا و عقبیٰ کے لیے اللہ، نبی کو ہے پسند

میں ہوں عاصی پر معاصی، پر خطا
یاالٰہی مانگتا ہوں صدقہ ان حضرات کا
اپنے در کا رکھ سوالی غیر کے در سے بچا
پُر ضیاء ہو زندگی صدقہ شہ لولاک کا
شہ مجدد الف ثانی ، پیکر انوار ہے
جو گدا ہے ان کے در کا اس کا بیڑا پار ہے
حضرت احرار صاحب سلسلہ سالار ہے
شیر سب حضرات ہیں یہ سلسلہ بے عار ہے
نقشبندی ہے بحمد اللہ یہ عاجز فقیر
سلسلہءِ نورجاری ہے شروع تا بہ اخیر
(مولانا محمد نورالدین نقشبندی مجددی)

کرامات:

اللہ تعالیٰ نے خواجہ ما حضرت مولانا نورالدین سرکار نقشبندی علیہ الرحمۃ کو بہت سی کرامات سے سرفراز فرمایا تھا۔ چند ایک کرامات کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے۔

☆

معروف نعت خواں جناب محمد سلیم عابد اور ان کے برادر اصغر جناب محمد اسلام کا بیان ہے کہ ہمارے دادا کا نام پرتاپ سنگھ تھا اور سارا خاندان آبائی طور پر سکھ مذہب کا پیروکار تھا۔ ہمارے دادا حضور قبلہ عالم قدس سرہ کے گاؤں انوانکھا شریف میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ پر کوڑھ کا مرض پھیل گیا، بہت علاج کرائے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، سب عزیز و اقارب ان سے نفرت کرنے لگے۔ ان کی زندگی کا سارا حسن ختم ہوکر رہ گیا، ایک دن و اپنی زندگی سے مایوس ہوکر بیٹھے تھے کہ قبلہ عالم قدس سرہ تشریف لے آئے۔ فرمایا چودھری پرتاپ سنگھ کیا بات ہے بڑے پریشان ہوکر بیٹھے ہو، عرض کی حضرت! مجھے کوڑھ کا مرض لاحق ہوگیا ہے اپنے بھی بیگانے بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں آرام چاہیے تو ہماری بات مان لو گے۔

ان کے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ کہنے لگے، آپ حکم تو دیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کے کردار کا میں سکھ ہو کر بھی قائل ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے آرام نصیب ہو جائے گا، آپ نے اس کے حقے کی ٹوپی سے تھوڑی سی راکھ لی اور اس میں اپنا لعاب دہن شریف ملا کر مرہم تیار فرمائی۔ پھر ان کے کوڑھ والے ہاتھ پر لگا دی۔ اس کے بعد اللہ مالک کہہ کر چلے گئے، ایک ہفتے بعد پھر تشریف لائے تو دیکھا۔ پرتاپ سنگھ انتظار بنا ہوا تھا اس نے قدموں میں گر کر عرض کی، حضور! حکم دیجیے آپ کی برکت سے مجھے بالکل آرام آچکا ہے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ جیسے کبھی کوڑھ کا مرض لاحق نہیں ہوا، آپ نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، پرتاپ سنگھ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کریں، ہماری بات بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، انھوں نے عرض کیا، حضرت حکم کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پرتاپ سنگھ! ہمارے نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اللہ اللہ! کتنی عظیم گھڑی تھی، جب پرتاپ سنگھ نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے چونکہ باثر انسان تھے، ان کی دیکھا دیکھی تمام خاندان نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہمارے خواجہ قدس سرہ کا فیضان نظر ہے کہ انھوں نے ہمارے دادا کو کلمہ پڑھایا تو آج ہم بھی مسلمان ہیں، اولیائے کرام کے نام لیوا ہے۔

☆

صوفی دین محمد جلال پوری کا بیان ہے کہ میں بھی حضور قبلہ عالم قدس سرہ کے گاؤں انوانکھا شریف میں رہا کرتا تھا وہاں ہندوؤں کی آبادی تھی، ایک ہندو بڑا سر پھرا تھا۔ اس نے اپنے مکان کی چھت پر اپنے بت نصب کیے اور علی الاعلان ان کی پوجا شروع کر دی، آپ نے اس ہندو کو طلب کر کے فرمایا، بھائی صاحب! یہ بت اپنی چھت سے اتار دو اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس نے گستاخانہ انداز سے کہا، آپ کون ہوتے ہیں اتارنے والے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا، اچھا! تم جاؤ۔ ہم میں طاقت ہوگی تو اتار لیں گے، اسی دن شام کو شدید آندھی آئی جس سے سارا گاؤں تو بالکل محفوظ رہا لیکن اس ہندو کی چھت اس کے جھوٹے خداؤں سمیت اڑ گئی، سارے مسلمان آپ کی شان کرامت سے عش عش کر اٹھے اور ہندوؤں پر آپ کی ہیبت طاری ہو گئی۔

☆

صوفی محمد علی نقشبندی نوری کا بیان ہے کہ آپ موضع فولاد پور (نزد سیالکوٹ) تشریف فرما تھے شکر گڑھ

جانے کا ارادہ فرمایا تو مریدین نے ایک باثروت آدمی سے کہا، تم اپنی گھوڑی آپ کی خدمت میں پیش کرو، آپ ضعیف العمر ہیں، اسٹیشن تک آسانی سے سفر کرلیں گے، اس نے کہا، گھوڑی تو گھر نہیں ہے، یہ اس ۔ جھوٹ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا، چلو، واقعی گھوڑی تو گھر نہیں ہے، آپ تو تشریف لے گئے، لیکن اس باثروت آدمی کی گھوڑی رسہ تڑا کر دوڑ گئی، اس نے لاکھ تلاش کیا، جگہ جگہ کی خاک چھانی، گھوڑی نے نہیں ملنا تھا نہ ملی۔ وہ جس گاؤں بھی جاتا لوگ کہتے، ہاں ایسے رنگ کی گھوڑی ہم نے دیکھی ہے، یہیں کہیں ہوگی، وہ اسی آس میں ذلیل وخوار ہوتا رہا۔

گفتہ ء او گفتہ ء اللہ بود
گرچہ از حلقومِ عبداللہ بود

☆……☆……☆





ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی

(وکٹوریہ یونیورسٹی، نیوزی لینڈ)

☆

''کلمات الصادقین'' اور ''طبقات شاہجہانی'' محمد صادق کشمیری ہمدانی نے تحریر کیں۔ کلمات صادقین میں دہلی میں مدفون ۱۲۵/صوفیہ کے احوال ملتے ہیں جبکہ طبقات شاہجہانی میں تیمور کے دور سے شاہجہان کے دور تک ۸۷۱/ممتاز ہستیوں کی سوانح ملتی ہے۔ محمد صادق ہمدانی کا پنجاب، کشمیر اور دہلی کی خانقاہوں میں آنا جانا رہا۔ آپ کے ماموں/ چچا مولانا حسن کشمیری، خواجہ باقی باللہ کے مرید اور شیخ احمد سرہندی کے رفیق تھے۔ صادق ہمدانی کی ابتدائی تربیت مولانا حسن کے گھرانے کے صوفیانہ اور عالمانہ ماحول میں ہوئی۔ آپ خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے آپ نے خواجہ باقی باللہ اور ان کے خلفاء شیخ تاج الدین سنبھلی، خواجہ حسام الدین، شیخ الٰہ داد اور شیخ احمد سرہندی کی اول ترین سوانح حیات لکھیں جو کلمات الصادقین میں شامل ہیں۔ (ترجمہ: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی)

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

توضیحات

پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر

☆☆

پیش نظر تحریر کسی موضوع پر مقالہ نہیں ہے بلکہ ایک فاضل کے جواب میں دوسرے فاضل پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر کی چند فاضلانہ اور محققانہ توضیحات ہیں چوں کہ توضیحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے متعلق ہیں اس لیے جہان امام ربانی میں شامل کی جا رہی ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

پہلی توضیح...... سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ محمود الخیر فغنوی کے نام میں ''الخیر'' نہیں بلکہ ''انجیر'' ہے (امام ربانی فاؤنڈیشن کے رکن شیخ صبور احمد صاحب جب ازبکستان میں مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو وہاں نام کے ساتھ ''انجز'' لکھا ہوا تھا لیکن مزار شریف پر جو روایت مشہور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انجیر صحیح ہے۔)

دوسری توضیح...... سلسلۂ عالیہ نقشبندیہ کے معروف بزرگ سائیں توکل شاہ انبالوی ''سید'' تھے۔

تیسری توضیح...... اقبال کے کلام میں ''عبدہٗ'' سے مراد ''انسان کامل'' ہے۔ اس ضمن میں تصور وحدۃ الوجود سے متعلق بعض مباحث بھی آ گئے ہیں۔

چوتھی توضیح...... سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ''خواجگان'' سے مراد کیا ہے؟

پانچویں توضیح...... شیخ محمد علی السنوسی ابن تیمیہ کے پیرو تھے اس لیے کسی سنی حنفی بزرگ کے ساتھ ''سنوسی'' لگانا ہرگز مناسب نہیں۔ (مرتبین)

پہلی توضیح...... حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی کا نام ''محمود انجیر فغنوی'' ہی ہے۔ اس بارے میں چند حوالہ جات درج کیے جاتے ہیں۔

۱...... رشحات (فارسی)، مصنف ملا علی بن حسین الواعظ الکاشفی، کانپور ۱۹۱۱ء، منشی نول کشور، ص ۳۳، یہاں آپ کا نام ''خواجہ محمود انجیر فغنوی قدس سرہ'' لکھا ہے اور پھر حالات میں درج ہے۔

''مولد ایشاں انجیر فغنی است کہ دہی است در ولایت بخارا از
مضافات وابکنی کہ دہے بزرگ ومشتمل است بر چندین دہ مزرعہ
وسہ فرسنگ از شہر دور است۔ وایشاں در وابکنی مقیم اند وقبر مبارک
ایشاں آنجا است''

۲ رشحات عین الحیات (فارسی)، تالیف: مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی، با مقدمہ وتصحیحات و حواشی وتعلیقات، دکتر علی اصغر معینیان، تہران، شہریور ماہ ۲۵۳۶، انتشارات بنیاد بادشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی، جلد اول، ص ۵۹

یہاں پر بھی مصنف نے آپ کا نام ''خواجہ محمود انجیر فغنوی'' لکھا ہے اور وہی عبارت درج ہے جو نولکشور کے ایڈیشن کے حوالہ سے اوپر درج کی گئی ہے مثلاً لکھا گیا ہے:

''مولد ایشاں انجیر فغنوی است کہ دہی است در ولایت بخارا از
مضافات وابکنی کہ دہی بزرگست ومشتمل بر چندین دہ مزرعہ وسہ
فرسنگ از شہر دور است وایشاں در وابکنہ مقیم بودہ اند، قبر مبارک
ایشان آنجا است''

۳ نفحات الانس من حضرات القدس (فارسی: نور الدین عبد الرحمٰن جامی، مقدمہ تصحیح وتعلیقات، دکتر محمود عابدی، تہران ۱۳۷۳، مؤسسہ اطلاعات، چاپ دوم، ص ۳۸۵

اس صفحہ پر آپ کا نام ''خواجہ محمود انجیر فغنوی'' لکھا ہے۔ جبکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۸۳۱ پر درج حواشی میں مذکورہ بالا حوالہ رشحات (فارسی) طبع ایران درج کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

''محمود انجیر فغنوی: از مؤلف، ونیز رک: رشحات/ ۵۹ (از انجیر فغنی
است، وآن دہی است در ولایت بخارا از مضافات وابکنی)''

۴ نفحات الانس (فارسی) طبع کلکتہ ۱۸۵۸ء، ص ۴۳۳ پر آپ کا نام ''خواجہ محمود انجیر فغنوی'' ہی لکھا ہے جیسا کہ دکتر محمود عابدی کے نسخہ میں تحریر ہے۔

۵ طرائق الحقائق (فارسی)، تالف محمد معصوم علی شیرازی، طبع تہران، کتابخانہ سنائی، ج ۲، ص ۳۳۲ اور ۳۵۲ پر بھی ''خواجہ محمود انجیر فغنوی'' ہی لکھا ہے۔

۶……مقاماتِ مظہری (فارسی)، تصنیف حضرت شاہ غلام علی دہلوی، دہلی ۱۳۰۹ھ، مطبع مجتبائی، ص ۵ پر بھی مشائخ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا نام ’’خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ ہی لکھا ہے اور اس کے بعد اسی کتاب کے آخر میں ضمیمہ مقامات مظہری (فارسی)، تصنیف حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی کے صفحہ ۳۹ پر شجرۂ سلسلہ عالیہ مشائخ نقشبندیہ میں آپ کا نام ’’حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ ہی لکھا ہے اور رشحات کا حوالہ درج کیا گیا ہے۔

۷……انیس الطالبین وعدۃ السالکین (فارسی): صلاح الدین مبارک بخاری، تصحیح ومقدمہ: دکتر خلیل ابراہیم صاری اوغلی، تہران، ۱۳۷۱ھ، انتشارات کیہان کے مقدمہ کے صفحہ نمبر ۲۲ پر بھی آپ کا نام ’’حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ ہی لکھا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی کتاب کے متن کے صفحہ نمبر ۱۱۳ پر زیر عنوان ’’ذکر سلسلۂ خواجگان نور اللہ مرقدھم‘‘ بھی آپ کا نام ’’حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ ہی لکھا گیا ہے۔

۸…… آنجناب کی کتاب تذکرہ نقشبندیہ خیریہ (اردو)، تالیف: محمد صادق قصوری، لاہور ۱۹۸۸ء، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ص ۴۰۷ پر بھی آپ نے خواجہ صاحب کا نام ’’حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ ہی لکھا ہے۔

۹……نفحات الانس (فارسی): تالیف مولانا عبد الرحمٰن جامی، تصحیح ومقدمہ وپیوست مہدی توحیدی پور تہران، کتاب فروشی محمودی، ص ۳۸۰ ملاحظہ فرمائیے جہاں ’’حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ کی بجائے ’’محمود الخیر‘‘ درج ہے جبکہ اس تبدیلی کے بارے میں کوئی حوالہ درج نہیں کیا گیا اور یہ نسخہ سخت مخدوش اور غیر معتبر ہے۔

۱۰……رسالہ انسیہ، تالیف: خواجہ یعقوب چرخی، مشمول ستہ ضروریہ، دہلی ۱۳۱۲ھ، مطبع مجتبائی، ص ۱۸ یہاں بھی حضرت ’’خواجہ محمود ابوالخیر فغنوی‘‘ لکھا ہوا ہے۔ لیکن کاتب کی غلطی ہے یا پروف پڑھنے والے کی غلطی ہے۔ کیونکہ اس کے قدیم مخطوطہ میں جو راقم کے پاس ہے ’’خواجہ محمود انجیر فغنوی‘‘ درج ہے۔ نیز ’’فغنہ‘‘ نام کا کوئی گاؤں نہیں ہے۔ جس قصبہ کا نام تواریخ اور جغرافیہ کی کتب میں موجود ہے وہ ’’انجیر فغنہ‘‘ ہے لہٰذا صرف ’’فغنوی‘‘ نسبت غلط ہے۔

نوٹ:

واضح رہے کہ اصل نام ’’محمود‘‘ ہے اور ’’انجیر فغنوی‘‘ مکانی نسبت ہے۔ ’’انجیر فغنہ‘‘ ایک گاؤں ہے جو قصبہ وابکنہ کے تحت واقع ہے۔ جیسے کہ ان کے شیخ طریقت کا اصل نام ’’عارف‘‘ ہے اور اس کے ساتھ

''ریوگری'' مکانی نسبت ہے۔ گاؤں کا نام ''ریوگر'' تھا اس نسبت سے ''ریوگری'' مشہور ہوے۔ ''انجیر فغنہ'' اور ''وابکنہ'' مردم خیز علاقے تھے۔ جن سے مشاہیر اٹھے اور ان کے ناموں کے ساتھ انجیر فغنی یا انجیر فغنوی اور وابکنی یا وابکنوی کی نسبت موجود ہے۔ ان شخصیات کے حوالہ جات دینا ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے راقم کے پاس سردست وقت نہیں ہے۔ البتہ آپ درج ذیل کتب دیکھ سکتے ہیں:

۱۔ معجم الادباء، تصنیف: یاقوت حموی
۲۔ معجم البلدان، تصنیف: یاقوت حموی
۳۔ فتوح البلدان، تصنیف: البلاذری
۴۔ البلدان، تصنیف: الیعقوبی
۵۔ احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم، تصنیف المقدسی
۶۔ لغت نامہ دھخدا، طبع ایران
۷۔ الاعلام، تصنیف: الزرکلی
۸۔ معجم المولفین: عمر رضا کمالہ
۹۔ لباب الالباب، تصنیف: عوفی
۱۰۔ الجغرافیہ، تصنیف: الادریسی
۱۱۔ المسالک والممالک، تصنیف: الاصطخری
۱۲..... حدود العالم، انگریزی ترجمہ: "The Regions of the World" by V.Minorsky
۱۳..... حبیب السیر، تصنیف: خواند امیر
۱۴..... تاریخ بخارا، تصنیف: النرخشی
۱۵..... "History of Bukhara" by Arminious Vembrey
۱۶..... "The History of Bukhara"by Havard
۱۷..... "Bukhara"by L.Rempel & G.Pogacenkova
۱۸..... "The History of Bukhara"by W.Barthold
۱۹..... "The Land of Eastern Calefate" by Le.Strange

۲۰...... تیموریوں کی تواریخ

اس موضوع کو Bibliography یعنی مصادر و مراجع کا علم کہا جاتا ہے اور اس کا نصاب باقاعدہ طور پر ایم۔ اے اور پی ایچ ڈی کی سطح پر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں خصوصاً زبانوں اور تاریخ کے شعبہ جات کے نصابات میں ایک لازمی پرچہ کے طور پر موجود ہے اور اس کی تدریس کی جاتی ہے۔ راقم نے خود اس موضوع پر عربی زبان و ادب کے مصادر و مراجع پر ایک تحقیقی کتاب بعنوان ''علوم العربیہ'' لکھی ہے جو مطبوع ہے اور ایم اے عربی پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ لہٰذا راقم ''محمود انجیر فغنوی'' کو ''محمود الخیر'' لکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ ارباب تحقیق کتب تراجم پر اپنی تحقیق کی بنیاد نہیں رکھتے بلکہ اصل زبان کی کتب ہی کو مراجع سمجھتے ہیں اور مطبوعات پر مخطوطات کو ترجیح دیتے ہیں اور ان میں بھی مصنف کے قریب العہد مخطوطات کو ترجیح دیتے ہیں۔

دوسری توضیح...... راقم کی تحقیق یہ ہے کہ ''حضرت خواجہ سید محمد توکل شاہ'' سید تھے۔ اس بارے میں چند حوالہ جات درج ذیل ہیں۔

۱...... ملاحظہ فرمائیے ذکر خیر المعروف بہ صحیفہ محبوب تصنیف حضرت خواجہ محبوب عالم نقشبندی مجددی توکلی م۔ ۱۹۱۷ء گجرات، ۱۳۶۹ھ/ ۱۹۴۹ء تیسرا ایڈیشن، ص ۱۸ جہاں یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں۔

> ''بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نام مبارک یعنی ''توکل شاہ'' والدین ہی
> نے رکھا ہوا ہے نسب کی بابت نہ ہم کچھ لکھتے ہیں اور نہ ضرورت ہے
> کیونکہ بظاہر پنجاب میں ''شاہ'' کا لفظ ''سید'' پر مستعمل ہوتا ہے''

اور یہ کہ آپ کے نانا کا نام ''شاہ الہ دین مست'' تھا جن کو کافی لوگ ملتے تھے اور ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ''حضرت خواجہ سید محمد توکل شاہ'' کی تربیت انھوں نے کی تھی۔ آپ کے دو ماموں انبالہ شریف میں آپ کے پاس آتے رہے وہ دونوں شاہ کہلاتے تھے چنانچہ آپ کے نانا اور دونوں ماموں صاحبان کا ذکر ''تذکرہ توکلیہ'' اور ''ذکر خیر'' دونوں میں ہے۔ اور وہ بالاتفاق ''شاہ اور سید'' تھے۔ شجرہ نسب تحریر کرنے کی نہ کسی نے ضرورت سمجھی نہ تحریر کیا۔ جبکہ کتب تذکرہ جات میں بے شمار بزرگان سادات کے حالات میں ان کے شجرہ جات نسب تحریر نہیں کیے گئے۔

۲...... ''حضرت خواجہ سید محمد توکل شاہ'' کی پہلی شادی ۱۲۷۷ھ/ ۱۸۶۱ء میں ''حضرت سید خادم حسین دہلوی

کی کنواری صاحبزادی صاحبہ سے ہوئی۔ ''حضرت سید خادم حسین دہلوی بہت بڑے بزرگ اور جہاندیدہ آدمی تھے اگر حضرت سید توکل شاہ ''سید'' نہ ہوتے تو ان کو سادات کا یہ رشتہ کیسے ملتا۔ (ملاحظہ فرمائیے تذکرہ توکلیہ، ص ۲۱۔۲۲)

۳ ملاحظہ فرمائیے تذکرہ توکلیہ تالیف: نور احمد منشی، انبالہ ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۲ء، بلالی پریس، ص ۷۰، ۷۱: میر محمد یوسف علی صاحب نے سلسلہ توکلیہ کا منظوم شجرہ شریف لکھا اور حضرت خواجہ توکل شاہ انبالوی نے سنا اور جو نام شجرہ میں نہیں آتے تھے ان کو لکھنے سے منع فرمایا ازاں بعد شجرہ توکلیہ منظوم سنایا اس میں حضرت خواجہ توکل شاہ کے بارے میں درج ذیل شعر درج تھا۔

آپڑا ہوں تیرے در پر اپنا کر لے اب مجھے
شاہ توکل شاہ پیر رہنما کے واسطے

حضرت سید توکل شاہ انبالوی نے یہ شعر سنا اور منع نہیں فرمایا کہ ''شاہ'' کا لفظ نہ لکھو اگر آپ ''سید'' نہ ہوتے تو ضرور منع فرماتے۔ اور اس شجرہ توکلیہ میں آپ کے نام کے ساتھ ''شاہ'' کا لفظ نہ آتا۔

۴ ملاحظہ فرمائیے الہامات غیبی معروف بہ کمالات توکلی تالیف: حضرت مولانا سید اکرام حسین شاہ نقوی، سادھورہ ضلع انبالہ ۱۴۰۶ء، بلالی سٹیم پریس، ص ۴، ۶

یہاں آپ کا نام مبارک ''شاہ توکل شاہ صاحب علیہ الرحمۃ'' لکھا ہے۔ اور اسی کتاب کے آخر میں ص ۱۲۰ پر منظوم شجرہ میں آپ کے نام کے شعر میں آپ کا نام جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ''شاہ توکل شاہ'' لکھا ہے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر خواجہ صاحب اپنے نام کے ساتھ ''شاہ'' کا لفظ لکھنے سے منع کرتے تو الہامات غیبی معروف بہ کمالات توکلی نامی اس کتاب میں جو شجرہ طریقت درج ہوا ہے اس میں بھی آپ کے نام کے ساتھ ''شاہ'' کا لفظ نہ آتا۔

۵ راقم سلسلہ توکلیہ سے وابستہ ہے اور اس سلسلہ کا خانہ زاد ہے۔ لہٰذا راقم وثوق سے کہتا ہے کہ اس کے پیران طریقت حضرت خواجہ محبوب عالم اور ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا سید محمد حبیب اللہ شاہ نقشبندی توکلی حضرت خواجہ توکل شاہ کو معتبر طور سے ''سید'' ہی سمجھتے تھے۔ لکھتے اور بولتے تھے۔ نیز تذکرہ توکلیہ، ذکر خیر اور کمالات توکلی کے علاوہ بھی کتب آپ کے حالات میں لکھی گئی ہیں۔ ان سب میں آپ کو زیادہ وثوق سے ''سید'' لکھا ہے۔ حضرت خواجہ توکل شاہ پر راقم نے بھی ایک تحقیقی کتاب ترتیب دی ہے اس میں بھی

آپ کو ان حوالہ جات کے ساتھ ''سید'' تحریر کیا ہے۔

تیسری توضیح...... (اقبال کی نظم میں جو ''عبدہٗ'' ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) اس کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے کلیات اقبال (حصہ جاوید نامہ) فارسی، لاہور ۱۹۹۰ء، شیخ غلام علی اینڈ سنز، ص ۱۳۷ پر زندہ رود کا حسب ذیل شعر درج ہے:

صد جہاں پیدا دریں نیلی فضا ست
ہر جہاں را اولیاء و انبیاء ست؟

اور اس کے بعد ص ۱۳۷ اور ۱۴۷ پر غالب کے حسب ذیل دو اشعار درج ہیں:

نیک بنگر اندریں بود و نبود
پے بہ پے آید جہانہا در وجود
ہر کجا ہنگامہء عالم بود
رحمۃ للعالمینے ہم بود

ازاں بعد ص ۱۵۷ پر غالب کا یہ شعر درج ہے۔

خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است
رحمۃ للعالمینی انتہا ست

اس کے بعد ص ۱۶۷ پر حلاج کے حسب ذیل دو اشعار درج ہیں۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو
آں کہ از خاکش بروید آرزو
یا ز نورِ مصطفیٰ او را بہا ست
یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است

پھر ۱۶۷ پر ہی زندہ رود کے دو اشعار درج ہیں۔

از تو پرسم، گرچہ پر سیدن خطاست

سرِّ آں جوہر کہ نامش مصطفٰی است
آدمے یا جوہرے اندر وجود
آں کہ آید گاہے گاہے در وجود؟

اگرایسا ہے تو پھر کئی جہاں کے ساتھ ہر جہان میں ایک نئے رحمۃ للعالمین کا وجود ضروری ہے کیا آپ کی نگاہ میں ایسا ہونا شرعاً جائز ہے۔ یعنی رحمۃ للعالمین متعدد اشخاص ہیں یا ایک ہے۔ اس روشنی میں مندرجہ بالا ان اشعار کی تشریح کیجیے۔ ازاں بعد ص۷۱۶ پر حلاج کی زبان سے کہے گئے یہ اشعار درج ہیں۔

پیش او گیتی جبیں فرسودہ است
خویش را خود عبدہٗ فرمودہ است
عبدہٗ از فہمِ تو بالا تر است
زانکہ اوہم آدم و ہم جوہر است
جوہرِ او نے عرب نے اعجم است
آدم است وہم ز آدم اقدم است
عبدہٗ صورت گرِ تقدیر ہا
اندر و ویرانہ ہا تعمیر ہا
عبدہٗ ہم جانفزا ہم جانستاں
عبدہ ہم شیشہ ہم سنگِ گراں
عبد دیگر عبدہٗ چیزے دیگر
ماسراپا انتظار او منتظر
عبدہٗ دہر است و دہر از عبدہٗ ست
ماہمہ رنگیم او بے رنگ و بو ست
عبدہٗ با ابتدا بے ست

عبدهٗ را صبح و شام ما کجاست
کس ز سرّ عبدهٗ آگاہ نیست
عبدهٗ جز سر الا اللہ نیست
لا الٰہ تیغ و دم او عبدهٗ
فاش تر خواہی بگو ہو عبدهٗ
عبدهٗ چند و چگونِ کائنات
عبدهٗ راز درون کائنات
مدعا پیدا نگردد زین دو بیت
تا نہ بینی از مقامِ مارمیت
بگزر از گفت و شنود اے زندہ رود
غرق شو اندر وجود اے زندہ رود

ازراہ مہربانی وضاحت کیجیے کہ حلاج کے یہ اشعار کیا صرف نعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں آتے ہیں۔ یا ان کا مدلول اور موصوف کوئی اور بھی ہے مثلاً

آدمے یا جوہرے اندر وجود
آں کہ آید گاہے گاہے در وجود؟

یہ شعر اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ کیونکہ زندہ رود کے اس سوال کے جواب میں حلاج نے مذکورہ اشعار کہے ہیں۔ اور یہ کہ زندہ رود سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ واضح فرمائیں کہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ جس میں فلک مشتری کی سیر کرتے ہوے حلاج و غالب و قرۃ العین کی ارواح جلیلہ کا کلام درج کیا گیا ہے جس میں منجملہ غالب اور قرۃ العین کے کلام کے حلاج کے یہ اشعار درج ہیں۔ تو ان اشعار کو درج کرنے سے علامہ اقبال کی غرض و غایت کیا تھی؟ جاوید نامہ لکھنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرۃ العین طاہرہ ایران کے بہائی مذہب کی مبلغہ اور شاعرہ تھی اسے ارواح جلیلہ میں کیوں شامل کیا گیا اور اس کے پیغام کو کیوں اہمیت

دی گئی۔ اگر ان سوالوں کے جوابات آپ کے پاس ہیں تو بواپسی ڈاک ضرور دیجیے۔

نیز واضح کیجیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتبہ ءنبوت وکمال انسانیت ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو کیا انسان کامل کا پیدا ہونا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بند ہو گیا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کامل کا پیدا ہونا بھی بند ہو گیا ہے تو پھر حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات کیوں آئیں۔

> مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ۔۔۔(الفتح:۲۹)
>
> (ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں) (فتح الحمید)

اور ان کے بارے میں "الصحابی کالنجوم" کیوں کہا گیا؟ لفظ نجوم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال انسانیت پر دلالت کرتا ہے اور انھیں "انسان کامل" کا درجہ دیتا ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کامل پیدا کرنا مقصود نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کو بنی نوع انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا اور کہا گیا:

> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب:۲۱)
>
> (تم سب کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کی ذات اقدس میں ایک اچھا نمونہ (Good Specimen) ہے)

اور قرآن مجید جیسی آخری کتاب کو اگر انسان سازی کے لیے نہیں اتارا گیا تو پھر اس کے نازل کرنے کی غرض وغایت کیا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنید، بایزید، نجم الدین کبریٰ، الغزالی، الجیلانی، رومی، ابن عربی، عبدالکریم الجیلی، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کیا انسان کامل تھے؟ اور انسان کامل کے بارے میں ان سب اکابر کے نظریات کیا تھے؟ اور انھوں نے یہ نظریات کیوں وضع کیے؟

ڈیوائن کامیڈی کیا ہے؟ کیوں لکھی گئی؟ مصنف کون ہے؟ مسلمان یا عیسائی؟ علامہ اقبال نے اس کا جواب دینا کیوں ضروری سمجھا" اور کونسی کتاب لکھ کر اس کا جواب دیا؟ اقبال کی مندرجہ بالا نظم جو حلاج کی

زبان سے کہلوائی گئی محض نعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس ''آدمے'' یا ''جوہرے'' کے بارے میں ہے؟ جو گاہے گاہے وجود میں آتا رہتا ہے۔ جیسا کہ زندہ رود نے سوال کیا جس کے جواب میں یہ نظم کہی گئی۔

ماہرین اقبالیات کے نزدیک اور راقم کے نزدیک اقبال کے فکری نظام میں یہ نظم انسان کامل کے وصف میں کہی گئی ہے اور اس بنا پر کہ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح ان کے بعد ان کے سردار اور خاتم ہونے کی رو سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجہ کے انسان کامل ہیں۔ یہ نظم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں بھی ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین اسوۂ حسنہ ہی انسان کامل کی کھیپ تیار کرنے کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کامل کا پیدا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند نہیں ہوا بلکہ حقیقت میں قرآن مجید میں انسان کامل کے اوصاف کے بیان کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے ماڈل کی فراہمی کے بعد ہی انسان کامل کی تیاری کا اصل سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال لکھتے ہیں:

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید
کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکون

اس انسان کامل کو بقول اقبال خدا نے کہا ہے:

گفتند جہان ما آیا بتو می سازد؟
گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ برہم زن

مولانا روم فرماتے ہیں:

علم حق در علم صوفی گم شود
ایں سخن کے باورِ مردم شود

اقبال اس کے پہلے مصرع میں تصرف کر کے کہتے ہیں:

مرضی حق در رضائش گم شود
این سخن کے باور مردم شود

لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کامل، جو بہ انسان یا آدم کامل ہر زمانہ میں نہیں ہوتا بلکہ صدیوں کے بعد

گاہے گاہے وجود میں آتا ہے جیسا کہ رومی کہتے ہیں۔

قرن ہا باید کہ تا یک مرد صاحبدل
بایزید اندر خراساں یا اویس اندر قرن

اقبال فرماتے ہیں:

عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
تا ز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں
ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی
وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں

چنانچہ جان لینا چاہیے کہ حلاج، ابن عربی، عبدالکریم الجیلی، مولانا روم، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہم الرحمۃ کے انسان کامل کے بارے میں نظریات کیا کیا ہیں۔ نیز یورپ کے فلسفیوں کے نزدیک انسان کامل (The perfact man) کے بارے میں خصوصاً نیٹشے کے نزدیک اس کے فوق البشر (The Supper Man) کے بارے میں کیا نظریات ہیں۔ علامہ اقبال کا نظریہ انسان کامل کیا ہے۔ منصور حلاج کے اوپر درج اشعار جو نعت نبوی لگتے ہیں درحقیقت یہ اشعار حلاج کے نظریہ، وحدۃ الوجود کے مطابق انسان کامل کے اوصاف ہیں۔ چنانچہ ''پیش او گیتی جبیں فرسودہ است'' سے مراد انسان کامل یا جوہر مصطفوی ہے۔ جس کی سمت سجدہ کا حکم ہوا۔ ھو عبدہ سے مراد انسان کامل کا اپنی ذات وصفات میں خدا کا عین ہونا ہے۔ جس کی طرف یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتی ہے۔

ان الله خلق الانسان علی صورته ای علی اوصافه

(خدا نے انسان کامل کو اپنی صورت پر یعنی اپنے اوصاف پر پیدا کیا)

چنانچہ یہ مرد کامل اس حدیث نبوی کی رو سے مولا صفات ہوتا ہے اور دوسری حدیث نبوی ہے۔

تخلقوا باخلاق الله

(اپنے اوصاف اللہ کے اوصاف کے مطابق بنالو)

کا مظہر ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ خدا کا خلیفۃ فی الارض ہے اور اس کے اس بار امانت کو اٹھانے والا ہے

جس کو اٹھانے سے زمین و آسمان ڈر گئے تھے اور انکار کر گئے تھے۔ اور اس وجہ سے اس انسان کامل کا وصف ظلوم وجہول ہے اور یہ اس کی مدح ہے مذمت نہیں۔

اس مضمون سے متعلق وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ادائے فرائض کے بعد کثرت نوافل کے ذریعہ بندۂ خدا متواتر خدا کا قرب تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وغیرہ بن جاتا ہے۔ حدیث نبوی درج ذیل ہے۔

> **وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل (بعد ان يؤدى الفرائض) حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها** (المشکوٰۃ: حدیث قدسی)
>
> (اور جب میرا بندہ (فرائض کی ادائیگی کے بعد متواتر) نوافل کے ساتھ میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے)

چنانچہ اس معنیٰ میں اقبال کا ایک شعر درج ذیل ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفرین، کارکشا، کارساز

اور مندرجہ بالا نظم کے شعر

مدعا پیدا نگردد زیں دو بیت
تانہ بینی از مقام مارمیت

میں مقام مارمیت سے اشارہ ہے بہ آیت شریفہ:

وما رمیتَ اذ رَمیتَ ولکنّ اللہ رَمی (سورۃ الانفال: ۱۷)
(اور (اے محمد ﷺ) جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے
نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دے دیا۔ اس نظم میں یہ آیت اور اس کے الفاظ عبدہٗ، ھوعبدہٗ، عبدہٗ جز سر الا اللہ نیست، لا الہ تیغ ودم او عبدہٗ، غرق شو اندر وجود اے زندہ رود، اور قرب نوافل والی حدیث سب وحدۃ الوجود کے نظریہ کے دلائل ہیں جنہیں وجودی حضرات پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری نظم وحدۃ الوجود کے نظریہ انسان کامل کو پیش کرتی ہے کیونکہ اس کے مستدلات ارباب وجود کے مستدلات ہیں۔ حسین بن منصور حلاج (م۔ ۳۰۹ھ) کو پہلے حلول واتحاد کے نظریہ کا حامل سمجھا جاتا تھا مگر جب فرانسیسی فلسفی ماسینوں (Massignon) نے حلاج کی کتاب ''الطواسین'' ایڈٹ کر کے طبع کی اور اس کے حالات زندگی پر بھی مفصل کتاب ''جذبہ حلاج (Le Pasion de Hallaj)'' طبع کی اور علامہ اقبال نے ان دونوں کتابوں کو پڑھا تو اس کا نظریہ حلاج کے بارے میں تبدیل ہو گیا اور وہ اسے حلول واتحاد کی بجائے وحدۃ الوجودی سمجھنے لگے۔ اس بنا پر انھوں نے اپنی کتاب ''جاوید نامہ'' میں جو ان کا معراج نامہ ہے حلاج کو وجودی افکار کا حامل دکھایا۔ اور خصوصاً یہ نظم ان کے وجودی نقطہ نظر کو خوب واضح کرتی ہے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوہر ہیں اور یہ جوہر ہر دور کے انسان کامل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کے انسان کامل کا نام محمد مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انسان کامل جوہر مصطفوی سے فیضیاب تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسان کامل جوہر مصطفوی سے فیضیاب ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جوہر مصطفوی ہی تھا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد تھا۔ علامہ اقبال نے جوہر مصطفوی کا تصور عبدہٗ کے فکر کے تحت حلاج کے حوالہ سے نقل کیا ہے حالانکہ حلاج کے علاوہ عبدالکریم الجیلی کا انسان کامل کے بارے میں جوہر مصطفوی کا تصور بھی یہی ہے چنانچہ ذیل میں دو حوالہ جات سے اس کی توضیح پیش کی جاتی ہے۔

ایس ایم فاروق لکھتے ہیں:

''اس جہان کا تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف ہونے کا

تصور الجیلی کے مرد کامل کے تصور سے جاملتا ہے۔ اقبال نے سوال پوچھا کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوہر ہے جو وجود کے اندر گاہے گاہے ظاہر ہوتا ہے؟ الجیلی (عبدالکریم) کہتا ہے کہ جب مرد کامل پیدا ہوتے ہیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں ہر زمانے میں انہی کا نام دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے''

(طواسین اقبال: تالیف ایس ایم فاروق، لاہور ۱۹۸۷ء، طابع اقبال اکادمی پاکستان، جلد اول، ص ۹۰)

اور ڈاکٹر ملک حسن اختر اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الجیلی (عبدالکریم) نے کمال کا یہ مرتبہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی مختص کیا ہے۔ اس کا خیال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہر زمانہ میں اولیاء کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اس کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت چاہیں اختیار کر سکتے ہیں''

چنانچہ وہ شبلی کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

''کیا تجھے نہیں معلوم کہ جب آپ شبلی کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے تلمیذ سے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تلمیذ صاحب کشف تھا اس نے نور کشف سے پہچان لیا اور کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے مگر انھیں فوراً ہی خیال آیا کہ کہیں ان پر تناسخ کے مسئلہ کا قائل ہونے کا الزام نہ لگ جائے''

چنانچہ وہ اسی صفحہ پر کہتے ہیں:

''مبادا میرے قول میں مذہب تناسخ کا تجھے وہم گزرے۔ میں خدا کی اور پھر رسول کی اس بات سے پناہ لیتا ہوں کہ میری یہ مراد ہو بلکہ

میری غرض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت ہے کہ وہ ہر صورت میں منصور ہوں حتی کہ وہ ان صورتوں میں متجلی ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور جاری ہے کہ وہ ہمیشہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے اکمل (انسانوں) کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تا کہ ان کی شان بلند ہو اور زمانہ کا ان کی طرف میلان درست اور قایم ہو وہ ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں اور باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقیقت ہیں''

ڈاکٹر ملک حسن اختر مزید لکھتے ہیں:

''علامہ اقبال اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مختلف ہستیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ الجیلی کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف اکمل انسان میں ہی متجلی ہوتی ہے ہر کامل انسان میں ان کی ذات جلوہ گر نہیں ہوتی ورنہ وہ یہ کہتے کہ کامل اپنی اکملیت میں ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ رسول اکرم کی ذات تو کمال کے اعلیٰ ترین درجہ پر ہے''

(اقبال اور مسلم مفکرین: تالیف ڈاکٹر ملک حسن اختر، لاہور ۱۹۹۲ء، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ص ۱۲۲)

عبدہٗ کے ذیل میں چند مزید توضیحات درج ذیل ہیں:

۱ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

''نہایت مراتب ولایت مقام عبدیت است و در درجات ولایت فوق عبدیت مقامے نیست''

(مراتب ولایت کا آخری مقام عبدیت ہے اور درجات ولایت فوق عبدیت کے اوپر اور کوئی مقام نہیں ہے) (مکتوبات امام ربانی،

دفتر اول، مکتوب ۳۰)

۲...... علامہ اقبال اسی مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

> ''آپ (لوگوں) کی اصطلاح میں اگر میں اپنے مذہب کو بیان کروں تو (وہ) یہ ہوگا کہ شان عبدیت انتہائے کمال روح انسانی ہے۔ اس سے آگے اور کوئی مرتبہ یا مقام نہیں''
>
> (مضمون: سرِ سرخودی، از علامہ اقبال، اخبار وکیل، امرتسر، بھارت، ۹ر فروری ۱۹۱۴ء، بحوالہ مجلّہ اقبال، لاہور، اپریل ۱۹۵۴ء، ص ۴۵)

۳...... علامہ اقبال نے حسین بن منصور حلاج سے منسوب نظم میں عبد اور عبدہٗ کے درمیان بڑا نازک فرق بتایا ہے۔ بندے تو سبھی ہوتے ہیں مگر اس کا بندہ ہونا اور محسوس کرنا ہی مقام عبدیت ہے اور یہی معراج انسانیت ہے۔ (حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی ۱۴۰۰ھ/ ۱۹۸۰ء، ادارۂ مسعودیہ)

۴...... اس آیت قرآنی میں جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو ایک رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی 'اسری بعبدہٖ' (اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی) کا لفظ آیا ہے ''اسری بحبیبہٖ'' (اپنے حبیب کو رات کے وقت سیر کرائی) کا لفظ نہیں آیا۔ اور اسری بنبیہٖ'' (اپنے نبی کو رات کے وقت سیر کرائی) کا لفظ بھی نہیں آیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اور نبی ہونا لاریب ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں عبدہٗ کو اختصاص دیا گیا ہے۔

۵...... ایسے ہی سورہ نجم میں مقام ''قاب قوسین او ادنی'' پر آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ''فاوحی الی عبدہٖ ما اوحی'' کہا ہے اور یہاں بھی لفظ ''عبدہٗ'' کا لحاظ رکھا ہے حبیب اور نبی وغیرہ القابات استعمال نہیں کیے۔

۶...... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے جواب میں جب انھوں نے آپ کی ماں حضرت مریم سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہا:

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ (سورۃ مریم: ۳۰)

(میں اللہ کا بندہ ہوں)

۷ اس کے علاوہ عبدہ کے بارے میں چند مزید آیات درج ذیل ہیں۔

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ
(الکهف:۱)

(سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے (محمد ﷺ) پر (یہ) کتاب نازل کی) (فتح الحمید)

(۲) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا (مریم:۲)

(یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان (ہے جو اس نے) اپنے بندے زکریا پر (کی تھی)) (فتح الحمید)

(۳) تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِيْرًا (الفرقان:۱)

''وہ (خدائے عزوجل) بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل علم کو ہدایت کرے'' (فتح الحمید)

(۴) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

''کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟'' (فتح الحمید)

۸ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "**نعم العبد**" (ص:۳۸:۴۴) (اچھا عبد)

۹ دوسرے کلمہ، کلمہ شہادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں "**اشهد ان محمدا عبدهٗ ورسوله**" میں عبدہ کا لفظ درج کیا گیا ہے۔

۱۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ آپ کو ملک یعنی بادشاہ کہا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار مربع پر مشتمل ریاست مدینہ بنائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکمران تھے تو آپ نے جواب دیا "**لا انا عبدهٗ ورسوله**" یہاں لفظ عبدہٗ کو استعمال کیا۔

۱۱ اور دیگر کئی مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق عبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے واضح

ہوا کہ مقامِ عبدیت یعنی مقامِ بندگی ہی انسان کامل کا اصل مقام ہے اور اسی پر قیام اس کا کمال اور اس کی معراج ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں:

متاعِ بے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی
مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

علامہ اقبال مثنوی "پس چہ باید کرد اے اقوامِ شرق" میں مردِ حر کے عنوان کے تحت اس کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ما ہمہ عبدِ فرنگ او عبدہٗ
او نگنجد در جہانِ رنگ و بو
صبح و شامِ ما بفکرِ ساز و برگ
آخرِ ما چیست؟ تلخیہائے مرگ
در جہانِ بے ثبات او را ثبات
مرگ او را از مقاماتِ حیات
اہلِ دل از صحبتِ ما مضمحل
گل زفیضِ صحبتش دارائے دل
کارِ ما وابستۂ تخمین و ظن
او ہمہ کردار و کم گوید سخن
ما گدایانِ کوچہ گرد و فاقہ مست
فقرِ او از لا الٰہ تیغے بدست

عبدیت کے بارے میں علامہ اقبال اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا نقطۂ نظر:

اس بارے میں واضح رہے کہ ان دونوں حضرات کا نقطہ نظر وجودی نہیں بلکہ شہودی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال اپنی کتاب "اسرارِ خودی" میں کہتے ہیں کہ مردِ مومن یا مردِ کامل میں

۱......صفات کی بجائے بے پردہ ذات ملحوظ ہے

۲ سرّ الوصال کی بجائے سرّ الفراق ملحوظ ہے

۳ فنا کی بجائے بقا اور گم شدہ کی بجائے انفرادیت کو قایم رکھنا ملحوظ ہے۔

چنانچہ وہ کہتے ہیں:

مرد مومن در نسازد باصفات
مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات
کمال زندگی دیدارِ ذات است
طریقش رستن از بندِ جہات است
چناں با ذاتِ حق خلوت گزینی
ترا او بیند و او را تو بینی
بخود محکم گزر اندر حضورش
مشو ناپید اندر بحر نورش

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں کہ:

''۱۹۳۲ء میں لندن میں ارسطا طالیسی سوسائٹی (Aristotle Sorcity of London) کی دعوت پر اقبال نے جو لیکچر دیا تھا اس میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے افکار و خیالات کو اہل انگلستان کے سامنے پیش کیا تھا مولانا غلام رسول مہر نے ۱۴ر جولائی ۱۹۶۳ء کو لاہور میں راقم سے فرمایا تھا کہ ۱۹۳۲ء میں سفر انگلستان میں اقبال کے ساتھ وہ بھی شریک و رفیق تھے موصوف نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال نے روما میں "Religious Experience" کے عنوان سے ایک تقریر کی تھی پھر جب مصر پہنچے تو وہاں بھی قریب قریب وہی تقریر دہرائی تھی

> اور ان دونوں تقریروں میں علامہ اقبال نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا ذکر فرمایا تھا۔ علامہ اقبال کا لیکچر جو انھوں نے ۱۹۳۲ء میں لندن میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں دیا تھا وہ اب اقبال کے مشہور مجموعہ خطبات Reconstruction of Religious Thought کا ساتواں خطبہ (بعنوان: Is Religion Possible) ہے۔ جس میں اقبال نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی تعلیمات سے یورپ کو روشناس کرایا تھا''
>
> (حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: ۲۰۰۲ء، ضیاء الاسلام پبلی کیشنز: ص ۷۱، مطبوعہ کراچی)

حضرت مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال کے افکار میں شہودیت یا وحدۃ الشہود کے بارے میں انتہائی اور گہری مماثلت اور یکسانیت کے مطالعہ کے لیے ملاحظہ فرمائیے مندرجہ ذیل کتب:

۱ حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: تصنیف پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کراچی پاکستان ۲۰۰۲ء، ضیاء الاسلام پبلی کیشنز)

۲ اقبال اور مسلم مفکرین: تصنیف ڈاکٹر ملک حسن اختر، لاہور ۱۹۹۲ء، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ص ۲۱۳، مضمون اقبال اور امام ربانی مجدد الف ثانی۔

۳ ...... طواسین اقبال: تصنیف ایس ایم فاروق، لاہور ۱۹۹۰ء اقبال اکادمی پاکستان، جلد دوم، سوم یکجا، ص ۸۴، مضمون اقبال اور حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی۔

چوتھی توضیح ...... لیکن خواجگان کا لفظ بخارا اور سمرقند کے خواجگان کے لیے مخصوص ہو گیا'' اس ضمن میں راقم کی تحقیق بچند حوالہ جات درج ذیل ہے۔

۱ بحوالہ رشحات عین الحیات، تہران، جلد اول کے مقدمہ نگار دکتر اصغر معینیان کے تحقیقی مقدمہ کی چند عبارات درج ذیل ہیں:

(۱) مقدمہ رشحات عین الحیات، طبع مذکور، ص ۳۸ ''این طائفہ (نقشبندیہ) کہ (از عبدالخالق غجدوانی)

تا زمان خواجہ بہاء الدین محمد معروف و موسوم بہ خواجگان یا خواجگانیہ بودہ است"

(۲) مقدمہ ص۴۳ "خواجہ عبدالخالق غجدوانی سومین شخصیت از مشایخ بزرگ صوفیہ در قرن ششم کہ مؤسس اصلی و بنیان گزار واقعی سلسلہء خواجگان است کہ بعداً بہ نقشبندیہ معروف ہمانا شیخ المشایخ خواجہ عبدالخالق غجدوانی است کہ بحق اورا "سرحلقہ طریقت خواجگان" و "سردفتر این عزیزان قدس اللہ ارواحہم" نامیدہ اند"

(۳) مقدمہ ص۶۴ "از عہد شیخ المشایخ خواجہ عبدالخالق غجدوانی کہ "سرحلقہ سلسلہء خواجگان" است تا عہد خواجہ بہاء الدین محمد نقشبند بخاری "خواجگان و خواجگانیہ" نام دادہ اند"

نوٹ:

اس سلسلہ کے مختلف ادوار میں مختلف نام از روئے تاریخ بحوالہ مقدمہ نگار رشحات عین الحیات حسب ذیل ہیں۔ یہ سلسلہ:

۱ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ تک صدیقیہ کہلاتا تھا۔

۲ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی تک طیفوریہ کہلاتا تھا (اس کا ذکر عبدالرحمٰن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ، عبدالکریم القشیری کی کتاب الرسالۃ القشیریہ، علی بن عثمان الہجویری کی کتاب کشف المحجوب، J.A.Arberry کی کتاب Sufism اور J.Spencer Trimingham کی کتاب 'The Sufi Orders in Islam" میں بھی ہے)

۳ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی سے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ تک جیسا کہ پہلے اوپر ذکر ہو چکا ہے یہ سلسلہ خواجگان کہلاتا تھا۔

۴ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ سے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ تک "نقشبندیہ" کہلاتا تھا اگرچہ درمیان میں حضرت خواجہ عبیداللہ احرار علیہ الرحمۃ کے بعد کچھ دیر احراریہ بھی کہلایا لیکن غالب نام نقشبندیہ ہی رہا۔

۵..... حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نقشبندیہ مجددیہ کہلایا۔

۶ آگے اپنی شاخوں کے لحاظ سے زبیریہ، مظہریہ، توکلیہ، چوراہیہ، موہڑویہ اور شرقپوریہ وغیرہ بھی کہلایا۔ مگر ان سب پر ابھی تک غالب نام نقشبندیہ مجددیہ ہی ہے۔

(رشحات، ایران، ج ۱، مقدمہ ص ۶۳، ۶۴/ دی صوفی آرڈرز ان اسلام، جے سپینسر ٹرائی منگھم، لندن ۱۹۷۱ء، ص ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ـ۳۰، ۶۲، ۹۱ـ۱۹۵ اور ۲۶۲)

سلسلۂ خواجگان کے نام:

اوپر درج رشحات کے مقدمہ نگار کی تحقیق اور توضیح کی روشنی میں سلسلۂ خواجگان کے تحقیق کردہ سات خواجگان کے نام حسب ذیل ہیں:

۱.....خواجہ عبدالخالق غجدوانی

۲.....خواجہ عارف ریوگری

۳.....خواجہ محمود انجیر فغنوی

۴.....خواجہ عزیزان علی رامتینی

۵.....خواجہ محمد بابا سماسی

۶.....خواجہ محمد امیر کلال بخاری

۷.....خواجہ محمد بہاء الدین نقشبند بخاری

نوٹ:

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی سلسلۂ خواجگان کے اصل بانی اور حقیقی مؤسس ہیں۔ چنانچہ ان کو "سر دفتر طبقۂ خواجگان" اور "سر سلسلہء این عزیزان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم" کا لقب دیا گیا ہے۔ (رشحات عین الحیات (فارسی)، ایران، ج ۱، متن، ص ۳۴/ رشحات عین الحیات، نولکشور، متن ص ۱۸) آپ نے تربیت سالکین کے لیے اپنی مشہور ہشت شرائط پر مبنی سلوک ترتیب دیا۔ بانی سلسلۂ خواجگان خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی ہشت شرائط میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند نے تین شرائط کا اضافہ کر دیا تھا پھر ایک شرط بڑھا دی۔ ازاں بعد کل بارہ شرائط پر مبنی یہ خواجگان کا نصاب تربیت اب تک جاری ہے۔ اور راقم نے اپنے شیخ طریقت قطب الارشاد حضرت مولانا سید حبیب اللہ نقشبندی مجددی توکلی محبوبی (م ۱۹۶۱ء) سے ان بارہ شرائط کو علمی طور پر سمجھا اور پھر ان کی توجہات اور واردات سے بہرہ ور ہوا۔ **الحمد للہ علیٰ ذلک۔**

اس بنا پر یہ بات ایک قطعی حقیقت ہے کہ خواجگان کا مشہور عام سلسلہ انہیں سات مشائخ کے اسماء پر مشتمل ہے اور یہ بات واضح رہے کہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند سلسلہ خواجگان کے بانی نہیں ہیں۔

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ سے سلسلہ نقشبندیہ شروع ہوا لہٰذا حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند سلسلہ ٔ نقشبندیہ کے بانی ہیں نہ سلسلہ ٔ خواجگان کے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند حضرت خواجہ بابا محمد سماسی کے فرزند ہیں۔ اور حضرت خواجہ امیر کلال کے مرید ہیں۔ لیکن انھوں نے تمام فیض حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی روح مبارک سے پایا۔ اور وہ ان کے اویسی ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کا نصاب تربیت ان کی مشہور آٹھ شرائط اور ان کی ایک وصیت پر مشتمل ہے۔ یہ وصیت انھوں نے اپنے معنوی فرزند اور اپنے خلیفہ ٔ دوم خواجہ اولیا کبیر بخاری کو کی تھی۔ آٹھ مذکورہ شرائط درج ذیل ہیں۔

۱ ہوش دردم
۲ نظر برقدم
۳ سفر دروطن
۴ خلوت درانجمن
۵ یادکرد
۶ بازگشت
۷ نگہداشت
۸ یادداشت

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی چار اضافی شرائط درج ذیل ہیں:

۹ وقوف زمانی
۱۰ وقوف قلبی
۱۱ وقوف عددی
۱۲ اندراج النہایۃ فی البدایۃ

تذکرہ شرائط خواجگان:

ان شرائط خواجگان کا ذکر صرف چار اشخاص نے کیا ہے جو کہ حسب ذیل ہیں:

۱ صلاح بن مبارک بخاری نے اپنی کتاب انیس الطالبین وعدۃ السالکین، با مقدمہ و تصحیح: دکتر خلیل ابراہیم صاری اوغلی، تہران، بہار ۱۳۸۱، انتشارات کیھان، کے مقدمہ کے صفحہ ۳۳ سے لے کر ۴۲ تک رشحات کے

حوالہ سے گیارہ شرائط کا نہایت مفصل و مشرح ذکر کیا ہے۔

۲..... مولانا فخر الدین علی بن حسین الواعظ کاشفی نے اپنی کتاب رشحات عین الحیات، با مقدمہ و تصحیحات و حواشی و تعلیقات: دکتر علی اصغر معینیان، تہران، شہریور ماہ ۲۵۳۶، انتشارات بنیاد بادشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی، جلد اول متن کے صفحہ ۳۸ سے لے کر صفحہ ۵۰ تک گیارہ شرائط کا بیان بڑی مفصل شرح اور تفصیل سے کیا ہے۔ جبکہ اس کتاب کی دوسری جلد کے متن کے ص ۵۰۶ پت بارہویں شرط ''اندراج النہایۃ فی البدایۃ'' کا ذکر اس طرح کیا ہے:

> ''حضرت خواجہ بہاء الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمودہ اند کہ نہایۃ
> را در بدایۃ درج میکنم''

وصیت:

یہ وصیت آپ نے اپنے معنوی فرزند اور خلیفہ دوم خواجہ اولیاء کبیر کو کی تھی۔ (رشحات عین الحیات، جلد ۱، متن ص ۳۷)

۳..... حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں ان شرائط کا مفصل اور مشرح ذکر کیا ہے۔ دیکھیے مکتوبات مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، اردو ترجمہ: سید زوار حسین شاہ، کراچی ۱۹۹۱ء، ادارہ مجددیہ، ناظم آباد

دفتر نمبر	مکتوب نمبر	صفحہ نمبر	موضوعات/شرائط
دفتر اول	۱۵۱	۳۴۰	یادداشت
دفتر اول	۲۲۱	۱۱۷	سفر در وطن، خلوت در انجمن، اندراج النہایۃ فی البدایۃ
دفتر اول	۲۶۶	۲۵۲	سفر در وطن، اندراج النہایۃ فی البدایۃ
دفتر اول	۲۸۵	۳۵۲	یادداشت
دفتر اول	۲۹۵	۴۵۱	ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، اندراج النہایۃ فی البدایۃ: اس کو سفر در وطن کی شرح میں یوں لکھا ہے۔ 'سفر در وطن سے مراد انفس کی سیر ہے جس کا منشاء اندراج النہایۃ فی البدایۃ ہے یعنی ابتداء میں انتہا کا حاصل ہونا جو اس طریقہ عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے'' (ص ۴۵۳)

دفتر دوم	۴۲	۱۴۵	سفر در وطن، **اندراج النهاية فی البداية**
دفتر دوم	۴۳	۱۵۱	**اندراج النهاية فی البداية** (یہ مکتوب اس بنا پر اہم ہے کہ یہ تمام مکتوب صرف اس ایک اصطلاح کی شرح میں ہے)

۴ حضرت خواجہ محبوب عالم نقشبندی مجددی توکلی نے اپنی کتاب خیر الخیر معروف بہ مرغوب السلوک، لاہور ۱۹۵۳ء، اردو پریس، ص ۸ سے ص ۱۵ تک ان بارہ شرائط کا ذکر نہایت اچھی شرح اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی مذکورہ وصیت کو اپنی کتاب خیر الخیر کے ص ۱۲۲ پر درج کیا ہے۔

۲ بحوالہ کتاب انیس الطالبین، سلسلۂ خواجگان کے بارے میں یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمیں دستیاب ہوئی ہے اور جو رشحات اور بلکہ رسالہ قدسیہ سے بھی اقدم ہے۔ یہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کے ایک مرید صالح بن مبارک بخاری (۷۲۳ھ - ۷۸۳ھ) کی تصنیف ہے۔ اور دکتر ابراہیم خلیل ساری اوغلی کی تصحیح و مقدمہ کے ساتھ ایران/ تہران سے بہار ۱۳۷۱ شمسی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے محقق متن اور مقدمہ نگار نے بھی مقدمہ کے صفحہ نمبر ۲۱ سے صفحہ ۲۵ تک اور متن کے صفحہ ۱۱۳ پر زیر عنوان "سلسلۂ خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم" کی تعداد وہی سات دی ہے۔ جو رشحات کے حوالہ سے پہلے مذکور ہوئی ہے۔ یہ کتاب خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری کی وفات ۷۹۳ھ کے فوراً بعد لکھی گئی ہے۔

۳ بحوالہ رسالہ قدسیہ خواجہ محمد پارسا مشمول ستہ ضروریہ، دہلی ۱۳۱۹ھ، مطبع مجتبائی، ص ۴۳ اور ۴۴ اس میں سلسلۂ خواجگان کے زیر عنوان پہلے سات اکابر کا ذکر موجود ہے۔

۴ بحوالہ کتاب نفحات الانس من حضرات القدس، نورالدین عبدالرحمٰن جامی، مقدمہ و تصحیح دکتر محمود عابدی، اس کتاب کے متن کے صفحہ ۳۸۳ سے لے کر ۳۸۹ تک اس سلسلۂ خواجکان اور ان کے سات مشائخ کا ذکر آیا ہے۔

۵ بحوالہ کتاب "The Sufi Orders in Islam" تصنیف "J.Spencer Triminigham"، لندن ۱۹۷۱ء، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔

اس کتاب کے متن کے ص ۶۲ اور ۶۳ کے حوالہ سے سلسلہ خواجگان کے سات اکابر کے اسماء جو حسب سابق ہیں قند مکرر کے طور پر درج ذیل ہیں:

Khawajagan:

1. Abdul-Khaliq Al-Ghujdawani (d.A.D.1220)
2. Arif Riwgari, d. 657/1259
3. Mahmud Anjir Faghnawi, d. 643/1245 (or 670/1272)
4. Azizan Ali ar-Ramitani, d 705/1306 (721/1321)
5. Muhammad Babab Sammasi, d 740/1340 (755/1354)
6. Amir Sayyid Kulal al-Bukhari, d. 772/1371
7. Muhammad ibn M. Baha ad-din an-Naqshabandi,

717/1318---791/1389.

۷۔ ..... ملاحظہ کیجیے مقامات مظہری: حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی، دہلی ۱۳۰۹ھ، مطبع مجتبائی، ص ۱۱۵، یہاں معمولات مظہریہ کے ذیل میں ختم خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جلی عنوان کے بعد لکھا گیا ہے:

> ''ثواب ایں ختم بہ ارواح حضرات بزرگواران (خواجگان) کہ ایں
> ختم بہ ایشان منسوب است باید گذرانید زیرا کہ در تعین اسامی ایں
> اکابر اختلاف است''
>
> (اس ختم شریف کا ثواب ''حضرات بزرگواران (خواجگان) کی
> ارواح کو پہنچا دیا جائے جن سے یہ منوسب ہے وجہ یہ کہ ان اکابر
> بزرگواران (خواجگان کے ناموں کے تعین میں اختلاف ہے)

چونکہ یہ کتاب مقامات مظہری حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی نے اپنے شیخ طریقت حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید کے حالات اور معمولات کے بارے میں لکھی ہے اس لیے انھوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جاناں کا یہ ارشاد کمال دیانت سے نقل کر دیا ہے کہ ان بزرگواران (خواجگان) کے ناموں کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے۔ جس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے حضرت مرزا مظہر جان جاناں کی پیروی میں لکھا کہ ان بزرگواران (خواجگان) کے ناموں کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے

اوران کا تعین نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی نے اپنا رسالہ ''ایضاح الطریقہ'' لکھا تو اس میں ان خواجگان کے ناموں کا تعین کر دیا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حضرت خواجہ محبوب عالم نقشبندی مجددی توکلی (م۔ ۱۹۱۷ء) نے اپنی کتاب ''ذکر کثیر'' کے آخر میں ختم خواجگان کو بیان کرنے کے بعد ان خواجگان کے ناموں کا تعین کر دیا ہے۔ اور یہ وہی سات اسماء ہیں جن کو رشحات اور انیس الطالبین کے محققین متن اور مقدمہ نگاروں اور کتاب The Sufi Orders in Islam کے حوالہ جات سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

اس ساری تفصیل کو نقل کرنے کے بعد راقم کا مقصد از روئے تحقیق یہ بیان کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ناموں کا تعین نہیں کیا ان کا علم ''سلسلہ خواجگان'' کے بارے میں قطعی نہیں تھا۔ وہ خواجہ محمد بہاء الدین نقشبند کے بعد آنے والے سب مشائخ بخارا مثلاً خواجہ علاء الدین عطار، خواجہ یعقوب چرخی، خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ محمد زاہد، خواجہ درویش محمد، خواجہ امکنگی کو بھی غلطی سے خواجگان میں شمار کرتے تھے۔ جبکہ یہ سب مشائخ اس سلسلہ کے تاریخی ادوار کے لحاظ سے سلسلہ نقشبندیہ کی ذیل میں آتے ہیں اور جن لوگوں نے سلسلہ خواجگان کے ناموں کا تعین کر دیا ہے ان کا یہ تعین از روئے تحقیق قطعی ہے۔ کہ یہ خواجگان صرف سات مشائخ ہیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ ان کے بعد آنے والے مشائخ اگرچہ بخارا اور سمرقند (ماوراء النہر) میں ہوئے ہیں لیکن وہ ان خواجگان میں شامل نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اس بنا پر کہ وہ خواجہ بہاء الدین نقشبند کے بعد آئے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کی ذیل میں آتے ہیں۔ لہٰذا راقم کی اس توضیح کے بعد سلسلہ خواجگان اور اس کے سات مشائخ کے ناموں کے بارے میں اب کوئی ابہام اور شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔

نوٹ:

۱ سلسلہ خواجگان/خواجگانیہ کے اولین بزرگ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی ہوئے اور آخرین بزرگ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند ہوئے۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں سمیت سلسلہ خواجگان/خواجگانی کے سات بزرگ ہوئے جیسا کہ پہلے اوپر ذکر ہو چکا ہے

۲ خواجہ بہاء الدین نقشبند سے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا۔ جس کے آخری بزرگ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ (م۔ ۱۰۱۲ھ) ہیں۔ ان بزرگوں پر نقشبندیہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی سے سلسلہ مجددیہ کا آغاز ہوا لیکن ان کے ساتھ نقشبندیہ کا لفظ بھی آتا رہا۔ یعنی نقشبندیہ مجددیہ۔ اور

نسبت نقشبندیہ نسبت مجددیہ پر غالب ہے۔ ایسے ہی ماوراء النہر/ وسط ایشیا میں نسبت نقشبندیہ پر نسبت خواجگانیہ دسویں صدی ہجری تک۔ غالب رہی۔ اور یہ سلسلہ اگرچہ نقشبندیہ تھا مگر خواجگانیہ نقشبندیہ کہلاتا رہا۔ درمیانی بزرگوں میں سے حضرت احرار اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دونوں خواجہ بہاء الدین نقشبند کے اویسی تھے۔ یعنی ان دونوں نے ان کی روح مبارک سے زیادہ فیض پایا تھا۔ لہٰذا خواجہ احرار کا سلسلہ احراریہ کہلایا۔ مگر اس پر بھی نقشبندیہ ہی غالب تھا اور یہ سلسلہ نقشبندیہ احراریہ کہلاتا رہا اور یا پھر خواجگانیہ نقشبندیہ احراریہ کہلاتا رہا۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر کہا گیا کہ سلسلہ خواجگان کے بزرگوں کا تعین نہیں ہوسکتا۔

(مقدمہ رشحات، ایران، ج۱ص۴۵، ۴۶)

پانچویں توضیح...... الجزائر/ لیبیا کے شیخ سید محمد بن علی السوسی المجاہری الحسنی الادریسی بانی تحریک سنوسیہ متولد بمقام مستغانم (الجزاء) ۱۲۰۶ھ/ ۱۷۹۱ء متوفی بمقام جغبوب (برقہ) ۱۲۷۶ھ/ ۱۸۵۹ء انھوں نے اپنی تعلیم اپنے وطن میں پائی۔ پھر ۱۸۳۰ء سے لے کر ۱۸۴۳ء تک تیرہ سال مکہ معظّمہ میں مقیم رہے۔ یہاں وہ سلسلہ اویسیہ کے بانی شیخ طریقت احمد بن عبداللہ بن ادریس الفاسی (۱۷۶۰ء۔ ۱۸۳۷ء) سے بیعت ہوئے اور خلافت پائی۔ ۱۸۳۷ء میں انھوں نے مکہ کے پہاڑ ابوقبیس پر اپنے سلسلہ کا پہلا زاویہ قایم کیا۔ پھر واپس اپنے وطن برقہ آئے۔ برقہ کے قریب رفاعہ میں پہلا زاویہ قایم کیا پھر درنہ (جبل الخضر) کے قریب البیضاء میں پھر تمسہ میں اور آخر کار جغبوب میں زاویہ قایم کیا۔ انھوں نے اپنے وطن میں ۱۸۴۰ء سے ۱۸۵۹ء تک ۱۹/ سال اپنے سلسلے کی تبلیغ کی اور ۱۸۵۹ء میں جغبوب میں فوت ہوئے ان کا سلسلہ درویشیہ افریقہ کے سلسلہ ادریسیہ کی تین شاخوں میں سے ایک شاخ تھا اور انھوں نے دوسری شاخوں کے ساتھ مل کر اخوان کے نام عالمگیر اخوت اسلامیہ کے فکر پر مبنی تنظیم بنالی۔ اور طرابلس کی آزادی کے لیے سنوسی تحریک چلائی۔ سنوسیوں نے آزادی کے حصول کے لیے جان کی بھی پروا نہیں کی۔ اٹلی طرابلس پر قابض تھا۔ ان کی جنگیں اس کے ساتھ ہوتی رہیں۔ وہ طیاروں میں سنوسیوں کو بھر کر اوپر فضا میں لے جاتے تھے اور پھر بلندی سے نیچے گرا دیتے تھے۔ اس طرح بے شمار سنوسی شہید ہوئے۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے سوڈان، اس کا صحرائے اعظم صحارا اور مغربی افریقہ میں لاکھوں زنگی اسلام لائے۔ لاکھوں رہزن اور جرائم پیشہ اقوام کے مسکن امن وسلامتی کا گہوارہ بن گئے۔ پھر یہاں تک کہ جنگ عظیم اول میں جرمنی کا ساتھ دینے کی بنا پر انھیں جاگیریں مل گئیں۔ ان کا صدر مقام ۱۸۹۵ء تک جغبوب رہا، پھر کُفرہ بنا اور ان

کے زاویوں کی تعداد شیخ سنوسی (وفات ۱۸۵۹ء تک بائیس تھی پھر بڑھتے بڑھتے ۱۹۲۲ء میں تین سو ہوگئی۔ سنوسی تحریک دینی اور سیاسی تحریک تھی دینی لحاظ سے یہ مالکی مذہب کے پیرو تھے لیکن اجتہاد بھی کرتے تھے۔ یہ فقہ اور قیاس کو نہیں مانتے تھے، صرف کتاب وسنت پر عمل کرنے کے داعی تھے اور ابن تیمیہ ظاہری المذہب (م ۷۲۸ھ) کی پیروی کرتے تھے اور سعودی عرب کی وہابی تحریک کے زیر اثر تھے ان کے حالات کے اہم مراجع درج ذیل تین ہیں:

۱ السنوسیہ دین ودولة: محمد شکری، قاہرہ ۱۹۴۸ء

۲ Sanusiyah by N.A Ziadah، لائیڈن ۱۹۰۸ء

۳ الدرر السنیہ فی اخبار السلالة الادریسیة، قاہرہ ۱۳۵۹ھ (یہ کتاب شیخ سنوسی کی ذاتی تصنیف ہے)

یہ کتب ان کے دینی و سیاسی مسلک کی مفصل تواریخ ہیں۔ یہ لوگ سادہ ذکر و اذکار جو ان کی کتابوں میں درج ہیں کرتے تھے۔ مگر شیخ سنوسی محمد بن علی صاحب ولایت صوفیاء میں شمار نہیں ہوتے۔ اور مالکی المذہب ہونے کے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ کی پیروی کرنے کی بنا پر یہ لوگ برصغیر پاک و ہند کے اہل حدیث/ وہابی طبقہ سے مختلف نہیں تھے۔

امیر ملت محدث علی پوری اور ان کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو سنوسی تحریک سے مشابہ ہو۔ امیر ملت صاحب ولایت، باکرامت اور عالی مرتبت شخصیت تھے۔ وہ ابن تیمیہ کے پیروکار نہیں تھے نہ وہابی تھے نہ مالکی تھے بلکہ خالصتاً حنفی تھے اور مقلد تھے۔ انھوں نے سیاسی زندگی کے طور پر مسلم قوم کے الگ آزاد وطن پاکستان کے حصول کے لیے قائداعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ جس نے برصغیر میں مسلم قومیت کی جنگ تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے جیتی تھی۔ سلسلہ عالیہ مجددیہ کی تعلیمات اور سلسلہ سنوسیہ ادریسیہ کی تعلیمات میں کوئی توافق نہیں اور نہ کوئی تشابہ۔ لہذا میرے نزدیک حضرت امیر ملت کی حنفی اور مجددی شخصیت کو شیخ السنوسی کی غیر مقلد اور وہابی شخصیت سے تشبیہ دینا اور ان کو سنوسی ہند کہنا حضرت امیر ملت محدث علی پوری کی شان میں گستاخی کرنا ہے اور ان کے مسلک کو مسخ (Disfigure) کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے دل میں ان کی شخصیت حنفی اور نقشبندی مجددی ہے۔ وہ غیر مقلد اور وہابی نہیں تھے۔ اور وہ طرابلس کے شیخ سنوسی سے کہیں زیادہ بڑی اور معتدل شخصیت کے مالک تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کشورِ دوم

رہے زباں پہ شانِ امام ربانی
سُنا اے کلک بیانِ امام ربانی
(محمد حسین آسی)

نصر من الله وفتح قريب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

محفل تشکر

بسلسلہء اجراء جہان امام ربانی، کراچی

(یکم ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء)

☆☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

ابتدائیہ

امام ربانی مجدد الف ثانی کانفرنس

(کراچی، لاہور، دہلی)

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

۲۰۰۵ء میں ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی سات جلدیں شائع ہوئیں تو ۱۰/ اپریل ۲۰۰۵ء کو کراچی میں امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، کراچی کے زیر اہتمام ایک شاندار ''محفل اظہار تشکر'' منعقد کی گئی جس میں پاک و ہند کے علماء و فضلاء شریک ہوئے اور علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے صدارت فرمائی...... ۲۴/ اپریل ۲۰۰۵ء کو لاہور میں حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی کے زیر اہتمام ''قومی امام ربانی مجدد الف ثانی کانفرنس'' کا انعقاد ہوا یہ کانفرنس بھی ''جہان امام ربانی'' کے حوالے سے ہوئی جس میں پاکستان بھر سے علماء و مشائخ اور فضلاء و محققین نے مقالات پیش کیے اور اس کی صدارت بھی ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے فرمائی پاکستان کی ان کانفرنسوں کی آواز بازگشت دنیا بھر میں سنی گئی بالخصوص ہندوستان میں پھر ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے دہلی میں ''المجدد اکیڈمی'' قایم کی، مفتی محمد معظم احمد جس کے صدر بنائے گئے اور ۳۱/ مارچ ۲۰۰۶ء کو المجدد اکیڈمی اور نصرۃ الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے نئی دہلی میں ''امام ربانی مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس'' منعقد کی گئی جس میں ملک و بیرون ملک کے علماء و مشائخ اور فضلاء نے مقالات پیش کیے۔ اس کانفرنس کی صدارت امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں مارہروی برکاتی نے کی جبکہ حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے پاکستان سے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرمائی......

قارئین جہان امام ربانی کی آگاہی کے لیے ان تینوں کانفرنسوں کی روئداد پیش کی جا رہی ہے جبکہ بعض اہم مقالات کو جہان امام ربانی میں شامل کرلیا گیا ہے......

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ‘ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل

مولانا جاوید اقبال مظہری مجددی
بانی امام ربانی فاؤنڈیشن

☆☆

وہ ساعت بڑی مبارک تھی جب فقیر کے قلب میں امام ربانی فاؤنڈیشن کا خیال آیا اس خیال کے پس منظر میں فقیر کا وہ خواب ہے جس میں فقیر نے دیکھا کہ وہ قبلہ مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کے ساتھ ایک سفر پر ہے دورانِ سفر حضرت قبلہ مسعود ملت نے فقیر سے فرمایا:

ہم سرہند شریف کے سفر پر جارہے ہیں

ایک مقام پر پہنچ کر حضرت قبلہ مسعود ملت رک گئے اور فقیر سے فرمایا کہ یہ حضرت مجدد الف ثانی کی قبر شریف ہے۔ فقیر نے قبر شریف کی زیارت کی تو یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ قبر شریف پر انوار وتجلیات کی بارش ہورہی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ

اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار

اس مبارک خواب کے بعد مستی و بے خودی طاری ہونے لگی اور قلب ونظر حضرت مجدد الف ثانی کی قبر شریف کی نورانیت سے منور ہوگئے چند ہی دنوں کے بعد یہ فقیر حضرت قبلہ مسعود ملت کی زیارت اور قدم بوسی کے لئے دولت کدہ پر جارہا تھا اور قبر شریف کی نورانیت کے خیال میں گم تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فقیر پر کرم فرمایا اور فقیر کے قلب میں ’’امام ربانی فاؤنڈیشن‘‘ کے قیام کا خیال آیا فقیر نے حضرت مسعود ملت کی زیارت اور دست بوسی کے بعد اپنے اس مبارک خیال کا اظہار کیا۔ حضرت قبلہ مسعود ملت نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایہ علامہ محمد رضوان احمد خاں صاحب نے بھی تحریک فرمائی ہے اور صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری کے ’’نور اسلام مجدد الف ثانی نمبر‘‘ نے مزید ہمت افزائی

کی جو صوفی غلام سرور مجددی کے انتھک مساعی کا مرہون منت ہیں۔ بہرحال حضرت نے ''امام ربانی فاؤنڈیشن'' کے قیام کی منظوری دے دی جبکہ درس حضرت امام ربانی کی محفلِ مبارک کے بعد ادارۂ مسعودیہ کی مجلس عاملہ کا اجلاس مورخہ ۳۰ رمئی ۲۰۰۲ء کو ہوا جس میں امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام کی منظوری دی گئی۔ فقیر کی تحریک پر حضرت صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد صاحب کو متفقہ طور پر فاؤنڈیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا جبکہ فقیر کو امام ربانی فاؤنڈیشن کا بانی اور منتظم اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جس وقت امام ربانی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا اس وقت عاشقانِ امام ربانی کے سامنے درج ذیل اغراض و مقاصد تھے۔

اغراض و مقاصد

☆...... حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ کے حالات، خدمات اور مقامات پر تحقیقی مقالات کے عظیم مجموعہ کی تیاری

☆...... آپ سے متعلق مختلف بین الاقوامی اور علاقائی زبانوں میں لٹریچر کے تراجم

☆...... آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوشش

☆...... عالمی جامعات میں آپ پر تحقیقی کام کو آگے بڑھانا

☆...... عالم اسلام کے علماء و مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کے حالات، خدمات و علمی کارناموں پر ایک انسائیکلوپیڈیا کی تیاری

☆...... آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اتباع سنت نبوی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ

☆...... سالانہ امام ربانی کانفرنس کا انعقاد اور اس موقع پر مجلّہ ''یادگار مجدد'' کا اجراء

☆...... عالمی سطح پر نقشبندیہ مجددیہ علماء و مشائخ سے رابطے، ان کے علمی و تحقیقی کام سے آگاہی اور لٹریچر کا حصول

چنانچہ سرمایہ اہلسنت آبروئے لوح و قلم حضرت قبلہ مسعود ملت کی سرپرستی میں سرعت سے کام شروع ہوا جس میں آپ کے معاونین کے طور پر حضرت صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد صاحب، یہ فقیر، ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، برادرم حاجی معراج الدین مسعودی، برادرم شیخ محمد الیاس مسعودی اور برادرم سید محمد منصور مسعودی قابل ذکر ہیں۔ محمد مختار عالم حق صاحب نے پورے مسودے پر نظر ثانی فرمائی امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ابر بہاری کی

طرح برسنے لگا۔ دنیا بھر سے حضرت مجدد الف ثانی کی علمی اور روحانی خدمات آپ کے فضائل و کمالات اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ کے حالات موصول ہونے شروع ہوئے اور ''جہاں امام ربانی مجدد الف ثانی'' کے عظیم انسائیکلو پیڈیا کی سات حسین وجمیل گجروں یعنی سات جلدوں پر مشتمل یہ عظیم علمی کاوش صفحہ قرطاس کی زینت بنی۔

جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ''جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی'' کا عظیم انسائیکلو پیڈیا سات جلدوں پر مشتمل ہے [illegible] کے عدد کو علم الاعداد کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور سات زمین پیدا کی، ہفتہ کے دن سات مقرر ہوئے، تخلیقِ انسانی سات مرحلوں پر ہوئی، حرم شریف کا طواف سات مرتبہ مشروع فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی سات مرتبہ مقرر فرمائی، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم بھی سات برس کی عمر میں مقرر رہوا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے دوران سات مشکیزہ سے غسل کرانے کے لئے فرمایا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ طاق عدد کا بہت خیال فرماتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد ہے کہ ان کے حالات وافکار اور علمی وروحانی کارناموں پر مشتمل عظیم انسائیکلو پیڈیا بھی سات جلدوں پر مشتمل ہے جبکہ مزید دو جلدیں ابھی زیر تدوین ہیں اس طرح مستقبل قریب میں یہ انسائیکلو پیڈیا نو جلدوں پر مشتمل ہوگا جو طاق عدد پر مشتمل ہوگا...... امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام کے بعد حضرت قبلہ مسعودِ ملت کی سرپرستی میں یہ عظیم علمی کام شروع ہوا...... بارگاہ مجددیہ سے قبولیت کا شرف عطا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر سے علماء کیا فضلاء کیا، معلمین کیا، محققین کیا، شعراء کیا غرض ہر طرف سے حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے علمی روحانی کارناموں کے علاوہ سیرتِ طیبہ کے مختلف گوشوں پر علمی مواد جمع ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دس سال کا کام صرف تین سال میں ہو گیا۔

سرزمین سرہند وہ مے خانہ، علم ومعرفت ہے جو عہد جہانگیری سے مئے عرفان پلانے میں مصروف ہے اور تا ابد پلاتا رہیگا تشنہ کامانِ علم وعرفان تشنہ تھے وہ ساقی علم وعرفان کے علمی وروحانی کمالات سے بے خبر تھے جب ہی تو اقبال نے تڑپ کر فرماد کی تھی کہ

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اے ساقی

اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی جلیل القدر خدمات کے لئے جس مرد خود آگاہ کا انتخاب فرمایا وہ کوئی غیر نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی کے اپنے ہی فرزند طریقت اور میخانۂ مظہریہ کے ساقی دوراں ہیں یعنی مسعود ملت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ”جہاں امام ربانی مجدد الف ثانی“ کے کام میں بہت سے اہل علم وفضل اور معاونین نے حضرت قبلہ مسعود ملت کی سرپرستی میں دن رات کام کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا...... حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو عظیم انسائیکلو پیڈیا مرتب ہوا اس پر حق سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، حضرت مجدد الف ثانی کے علوم و معارف ایک سمندر کی مانند ہیں ابھی تو اس سمندر میں سے ایک دریا تیار ہوا ہے ابھی اس مغزنِ علم وعرفاں کے سمندر عشق ومحبت سے اور بھی قیمتی موتی اور مرجان تلاش کرنے ہیں، ان شاء اللہ ان قیمتی علمی پتھروں کے ماہر یعنی اہل علم وعرفان اس سمندر عشق ومحبت میں غوطہ زن ہو کر علم وعرفان کے اور بھی موتی تلاش کریں گے اور جہان امام ربانی میں منزل بہ منزل اضافہ ہوتا جائے گا۔

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی سات جلدوں کی اشاعت سے ابھی تو حرم محبت کا صرف ایک طواف مکمل ہوا ہے جبکہ چھ طواف محبت ابھی باقی ہیں ہاں

وہ در ہے مری نسبت حق کا کعبہ
طوافِ زیارت کئے جارہا ہوں

چنانچہ اس عظیم علمی کام کی تکمیل پر امام ربانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مورخہ ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء رنگون والا ہال کراچی میں ایک محفل تشکر کا اہتمام کیا گیا جس کی سرپرستی خانوادہ مجددیہ کے چشم چراغ حضرت پیر فضل الرحمٰن آغا مجددی اور خانوادہ عالیہ مسعودیہ مظہریہ کے چشم وچراغ حضرت مسعود ملت نے فرمائی جبکہ صدارت کے فرائض نبیرہؑ مفتی اعظم شاہی امام وخطیب مسجد فتح پوری دہلی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ مسعودیہ مظہریہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد مکرم احمد صاحب نے فرمائی محفل میں ملک کے چاروں صوبوں سے علماء اور مشائخ نے شرکت فرمائی جبکہ بیرون ممالک سے بھی مہمان تشریف لائے۔ ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کے مہمانانِ گرامی بھی محفل تشکر میں تشریف لائے جس میں سرمایۂ اہلسنت شرف ملت حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری قابل ذکر ہیں۔

حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی قابل مبارک باد ہیں کہ جنہوں نے لاہور میں جہان امام

ربانی مجدد الف ثانی کی اشاعت کی خوشی میں محفل تشکر کا اہتمام کیا اور اپنے محبین کے تعاون سے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد فرمائی شہر لاہور کو حضرت مجدد الف ثانی سے خصوصی نسبت ہے حضرت مجدد الف ثانی نے اس شہر کو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے حوالے سے ''قطبِ ارشاد'' کا شہر قرار دیا ہے اور پھر لاہور میں حضرت مجدد الف ثانی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت طاہر بندگی علیہ الرحمہ بھی آرام فرما ہیں۔

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی صورت میں اتنی عظیم کتاب منظر عام پر آنے کے باوجود فقیر کا ذاتی تاثر یہ ہے کہ کام کا ابھی آغاز ہوا ہے انشاء اللہ آنے والے سالوں میں بہت کچھ لکھا جائے گا کیوں کہ آپ کی شخصیت وتعلیمات محیط بیکراں ہے۔

صدر ذی وقار وحضراتِ گرامی

حضرت مجدد الف ثانی کے مقامات جلیلہ کا چرچا فضائے بسیط پر اس وقت سے جاری ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دی، الحمد للہ اب جہاں امام ربانی مجدد الف ثانی کی اشاعت سے صفحہ قرطاس آپ کے نور عرفان سے روشن ہو گیا...... ہاں

ترے انوار تاباں یا مجدد
گلستان در گلستانِ یا مجدد
تو اقلیم رضا کا شاہ یکتا
تو ملکِ حق کا سلطان یا مجدد
لقب ترا مجدد الف ثانی
ہزاروں میں نمایاں یا مجدد

جاوید اقبال مظہری مجددی

مورخہ ۱۷ اپریل ۲۰۰۵ء

بانی امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی

☆......☆......☆

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہ و نصلّی و نسلّم علیٰ رسولہ الکریم

خطبۂ صدارت

بموقع

محفلِ تشکّر بسلسلہ اجراء جہان امام ربانی مجدد الف ثانی

۱۰/ اپریل ۲۰۰۵ء رنگون والا کمیونٹی ہال، کراچی (سندھ)

ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نقشبندی

شاہی امام وخطیب، مسجد جامع فتحپوری، دہلی (بھارت)

☆☆

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سید الانام والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرتضین واولیاء ہ المتقین ومن تبعھم اجمعین. امابعد

فاعوذباللّٰہ من الشیطٰن الرجیم

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

الاان اولیاء اللہ لاخوف علیھم ولاھم یحزنون.

صدق اللہ العلی العظم .

آ گاہ ہوجاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم۔ جواُن سے نسبت قائم کرلیتے ہیں وہ بھی اسی نعمت سے مالا مال ہوجاتے ہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا شکر بے حساب ہے اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی محبوب سبحانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت اور فیوض و برکات کے صدقہ میں آج کراچی کے انٹرنیشنل اجلاس میں

اس ناچیز کی شرکت ہورہی ہے۔ کہاں ہندوستان کی راجدھانی دہلی اور کہاں پاکستان کا مرکزی شہر کراچی۔ فخر اہلسنت عالم اسلام کے نامور محقق ومفکر عارف باللہ مجدد دین وملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی اور حضرت آغا فضل الرحمٰن مجددی خانوادۂ مجددیہ کے روشن چراغ کی سرپرستی میں علماء ومشائخ، عقدتمندوں اور عاشقوں کی اس محفل میں شرکت کر کے جتنی خوشی ہورہی ہے بیان سے باہر ہے۔ انہی ایام میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرہند شریف میں بارگاہ مجدد میں ہزاروں عقدتمند اپنی جھولیاں پھیلائے عُرس منور کی محفل میں حاضر ہورہے ہیں۔ اور نہ جانے کہاں کہاں بلکہ سارے جہان میں حضرت مجدد الف ثانی کے عُرس شریف کی محفلیں سجائی جارہی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ سب ہی حضرات جو اس سلسلے میں وابستہ ہیں اور ایسی مبارک محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کے ذکر کی محفل میں اور اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے والے کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوتے۔ یہ ہی عقیدت ومحبت اس زندگی میں بھی کام آتی ہے اور آنے والی زندگی میں بھی کام آئے گی۔ ان شاء اللہ سب کی مرادیں پوری ہونگی۔ ان کا فیض قیامت تک جاری ہے اور رہے گا۔

خطۂ سرہند عالم اسلام کا ایک عظیم خطہ ہے جہاں سلسلہ نقشبندیہ کے قافلہ سالار خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے ایک عظیم الشان چراغ دیکھا تھا جس کے انوار سے پورا خطہ سرہند روشن تھا پھر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے خود یہ انوار ملاحظہ فرمائے۔ یہ وہی انوار تھے جن کا آپ سے ظہور ہوا اور یہ روشنی اور نور سارے عالم میں پھیلا۔ اُس وقت میں ٹرانسپورٹ اور سفر کی سہولتیں نہیں تھیں سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ آپ نے اسی خطہ سے دین متین کی تبلیغ کی۔

آپ کے مُرید اور عقیدتمند دور دراز سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے اس طرح تبلیغ کا جوق در جوق سلسلہ جاری رہا حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے بادشاہوں، وزراء، اُمراء اور ذمہ داران سلطنت سے خط وکتابت کی اور انہیں شریعت وطریقت کی طرف متوجہ کیا۔ الناس علی دین ملوکھم ''عوام اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں'' اسی لئے آپ نے سربراہان مملکت کی اصلاح کو ضروری سمجھا۔ اس وقت ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ شہنشاہ اکبر اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خوشامدی درباریوں سے گھرا ہوا تھا خوشامدی لوگوں نے اُسے اتنا گمراہ کر دیا تھا۔ دین الٰہی تک اُس نے ایجاد کر دیا اور شریعت میں طرح طرح سے بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کیں لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے ہندوستان میں امام، اللہ کے ولی، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی کرامت سے وہ دین الٰہی کو رائج نہ کر سکا۔ بادشاہ کی ایک نہ چلی اللہ کے ولیوں کی چلی اور چلتی رہے گی۔ حضرت مجدد نے نہ صرف مغلیہ شہنشاہوں کی اصلاح کی بلکہ اپنے خلفاء کے ذریعہ بیرون ہند بھی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ ۱۰۱۵ھ میں مولانا صالح کولابی کو خلافت دے کہ طالقان اور مولانا قاسم علی کو ماوراء النہر تبلیغ دین کے لئے

بھیجا۔ خراسان۔ توران۔ اور بدخشان کے ہزاروں عقیدتمند جن میں علماء و مشائخ بھی تھے آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوئے جنہیں آپ نے اپنے اپنے علاقہ میں تبلیغ دین کے لئے مامور کیا۔ خواجہ میر نعمان کو دکن میں اور شیخ حمید اللہ کو بنگال میں مامور کیا۔ خواجہ محمد اشرف کابلی اور شیخ میرک علیہما الرحمۃ آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوئے اور آپ نے انہیں بھی تبلیغ دین کے لئے مامور کیا۔ مولانا محمد قاسم کو ترکستان، مولانا فرخ حسین کو عرب، یمن، شام، روم کی طرف، مولانا محمد صادق کابلی کو کاشغر کی طرف، شیخ احمد برکی کو تمیں خلفاء کے ساتھ توران، بدخشاں، خراسان اور نواحی علاقوں میں بھیجا، شیخ بدیع الدین کو شاہی لشکر میں تبلیغ کے لئے مامور کیا۔ ملک الاجنۃ اپنی جماعت کے ساتھ حضرت مجدد کے حلقۂ ارادت میں شامل ہوا جس سے جنات میں دین کی تبلیغ ہوئی ١٠٢٨ھ مطابق ١٦١٨ء میں جہاں گیر نے گوالیار کے قلعہ میں محبوس کیا تو وہاں بھی ایک سال کے عرصہ میں آپ نے گمراہوں کی اصلاح کی۔ آپ نے براہ راست جہاں گیر کو بھی خط لکھا اور دین کی طرف آنے کی دعوت دی۔ جہاں گیر کا دور مغلیہ شہنشاہیت کے عروج کا زمانہ تھا حضرت مجدد رضی اللہ عنہ دبدبۂ شاہی سے مرعوب نہ ہوئے اور فرض مجدد انجام دیا۔

حاضرین آپ نے اس مختصر سی تفصیل سے اندازہ کرلیا ہوگا حضرت مجدد کا دعوتی مشن صرف خطۂ سر ہند شریف تک محدود نہیں تھا۔ صرف عوام کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اکناف عالم میں دعوتی مشن خلفاء کے ذریعہ اور مکتوبات شریف کے ذریعہ جاری و ساری تھا۔ پھر آپ کے صاحبزادگان خواجہ محمد سعید، خواجہ محمد معصوم علیہما الرحمۃ اور پوتوں میں خواجہ سیف الدین۔ خواجہ عبدالاحد اور خواجہ محمد نقشبند علیہم الرحمۃ نے اس سنت پر عمل کیا۔ احیاء دین کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے خود جہاں گیر کے دور میں قید و بند کی صعوبتیں کمال استقامت کے ساتھ برداشت کیں مگر جہاں گیر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔

گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے
جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے تصور توحید اور تصور ختم نبوت کا احیاء کیا...... ملت اسلامیہ میں عشق مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کا ذوق و شوق پیدا کیا...... بدعات سیۂ کے خلاف جدو جہد کی اور بدعاتِ حسنہ کی ترغیب و تشویق فرمائی اور کئی مقامات پر اس حدیث شریف کا حوالہ دیا من سنّ سنتہً الخ ...... باطل فرقوں کی سرکوبی فرمائی اور ان کی صحبت کو سم قاتل قرار دیا۔ ان فرقوں میں ملحدین بھی تھے۔ ختم نبوت کے منکرین بھی اور گستاخان رسول بھی...... تقریباً تین سو سال کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے انہیں خطوط پر کارہائے نمایاں انجام دے کر ملت کی رہنمائی فرمائی اور حضرت مجدد کو عملاً خراج عقیدت پیش کیا۔

حضرت مجدد علم و فضل میں یگانۂ روزگار تھے، آپ کے معارف لدنیہ بے مثال و بے نظیر ہیں جن کا ادراک اخص الخواص کے لئے بھی شکل ہے...... آپ الف ثانی کے مجدد ہیں۔ آپ کے وجود مسعود سے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوگئی۔ پوری دنیا اور بالخصوص دنیائے عرب میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے مکتوبات شریف کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا اور مکہ معظمہ سے شائع ہوا۔ حال ہی میں اس کا ایک اڈیشن بیروت سے بھی شائع ہوا ہے۔ دنیائے عرب میں بکثرت نقشبندی مجددی مشائخ ہیں اس حوالے سے کئی مقالات جہانِ امام ربانی میں شامل ہیں۔ ۲۰۰۱ء میں احقر بغداد شریف حاضر ہوا تھا۔ جس قبرستان میں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ اور حضرت سری سقطی علیہ الرحمۃ کے مزارات ہیں اُسی قبرستان میں ایک احاطہ مخصوصہ ہے جس میں قدیم دور کے نقشبندی مشائخ مدفون ہیں اور اس احاطہ پر عربی میں اس حوالہ سے عبارت بھی لکھی ہوئی ہے۔ جس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان عرب و عجم میں ہر طرف موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفر پر بھی وہاں نقشبندیہ سلسلہ کے علماء سے ملاقات ہوئی تھی۔ ۱۹۹۷ء میں ایران میں ایوان صدر میں جو سنّی مسائل کے انچارج تھے وہ بھی نقشبندی تھے۔ ۹ اور ۱۰ تاریخ اپریل ۲۰۰۵ء میں ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا کی سلور جوبلی میں مفتی اعظم شام مدیر معہد الفتح الاسلامی دمشق فضیلۃ الشیخ عبدالفتاح البزم اور محمد عدنان درویش استاذ معہد الفتح الاسلام دمشق (شام) سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا یہ دونوں حضرات بھی نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں اور وہاں اس سلسلہ کے بزرگ صاحب فیض کثیر تعداد میں گزرے ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے مکتوبات شریف کے علاوہ آپ کی گرانقدر تصانیف بھی گرانبہا ہیں، بعض معارف کے ادراک سے تو متبحر علماء بھی عاجز نظر آتے ہیں یہ آپ کے علم لدنّی کے کمالات کا ایک مظہر ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے جب انگلستان میں اپنے خطاب کے دوران حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے معارف کا ذکر کیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انگریزی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں کہ ان معارف کو بیان کیا جاسکے۔ غور فرمائیں۔ انگریزی زبان باوجود اتنی وسعتوں کے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی فکر کا احاطہ نہ کرسکی۔ آپ کی اولاد امجاد نے آپ کی تحریک احیاء اسلام کو پروان چڑھایا اورنگ زیب عالمگیر اور کئی شہزادے اور شہزادیاں حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے دامن سے وابستہ تھے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا دائرہ فیض واثر چھے براعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور مختلف ممالک میں آپ پر تحقیقی کام انجام دیئے جارہے ہیں۔ بہت سے فضلاء ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے چکے ہیں۔ استانبول (ترکی) کی مارمرا یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر نجدت توسون ترکی زبان میں حضرت کے حالات وافکار پر تحقیق کررہے ہیں...... ڈاکٹر عبدالغنی نقشبندی نے کولمبو یونیورسٹی سے ۲۰۰۳ء میں حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے طریقۂ سلب امراض کا یورپ کے

طریقۂ سلب امراض کا تقابلی جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے۔ جو طریقہ آج ڈاکٹر یوسوئی (Usui) نے متعارف کرایا ہے وہ صدیوں پہلے حضرات نقشبندیہ مجددیہ میں رائج تھا۔ ابھی حال ہی میں مسجد فتح پوری میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں نقشبندی سلسلہ کے عقیدتمندوں کی ایک جماعت کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اسی جماعت کے ایک فرد دہلی تشریف لائے تھے اور سرہند شریف بارگاہ مجدد علیہ الرحمۃ میں حاضر ہوئے تھے۔ بتارہے تھے وہاں پر اور بھی لوگ اس حلقہ میں داخل ہورہے ہیں۔ ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اور حضرات نقشبندیہ کا کہاں کہاں ذکر مبارک ہے۔

ماضی میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر تحقیقی اور علمی کام ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ خدمت انجام دی ہے مگر چار نام ان میں ممتاز ہیں۔

۱۔ صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرق پوری ۲۔ پروفیسر محمد اقبال مجددی

۳۔ محمد صادق نقشبندی مجددی قصوری ۴۔ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا پیغام عالمگیر بھی ہے اور ہمہ گیر بھی...... اتحاد بین المسلمین کے لئے آپ کی تعلیمات تریاق واکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ پھر سب مسلمان بلکہ مسلمان کہلانے والے فرقے بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں..... اتحاد بین المسلمین کے اس مقصد عظیم کے لئے مولانا جاوید اقبال مظہری نے ۲۰۰۲ء میں امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) قائم کی جس نے صرف تین سال کی قلیل مدت میں عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ ''جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی'' جس کی سات جلدیں اس محفل میں پیش کی جارہی ہیں اور دو جلدیں انشاء اللہ ۲۰۰۶ء تک شائع ہوجائیں گی۔ اس طرح حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی سوانح چھ ہزار صفحات پر مشتمل ہوگی۔ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کسی کی اتنی ضخیم سوانح شائع نہیں ہوئی ہوگی۔ **الحمد للہ علیٰ ذلک**

یوں تو دنیا میں روحانی سلسلے کئی ہیں لیکن نقشبندیہ سلسلہ میں جو مقبولیت اور کمال ہے وہ دوسروں میں نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوضات مکیہ میں اس پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے۔ اس میں روحانی طاقت جو پائی جاتی ہے وہ دوسرے سلاسل پر غالب ہے۔ کیوں نہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد شریعت پر ہے۔ جو اتباع شریعت اور اتباع سنت میں جتنا کامل ہوگا اُتنا ہی سلسلۂ نقشبندیہ سے اُسے فیض حاصل ہوگا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بڑی گہرائی، وسعت وہمہ گیری، جاذبیت وکشش ہے۔ یہ جلال وجمال کی آئینہ دار ہے ان کی تعلیمات نے بگاڑا نہیں بنایا ہے۔ غافلوں کو ڈرایا دھمکایا نہیں بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کردیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبت وپیار سے سب کو سمجھایا ہے۔ آپ کی فکر میں روشنی اور آپ کی تحریر میں دانائی ہے وہ علم وحکمت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس وقت تعلیمات مجددیہ کی

اشاعت کے لئے خانقاہوں کا فعال ہونا ضروری ہے۔ جس کے لئے مشائخ مجددیہ کو اپنے اپنے دائروں سے نکل کر ایک بڑے دائرے میں آنا ہوگا تا کہ آفاقی سطح پر کام ہو سکے اور اتحاد بین المسلمین کا خواب شرمندۂ تعبیر ہو سکے۔ اخلاص عمل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جہانِ امام ربانی کی تیاریوں میں اسی جذبہ کے تحت کام ہوا ہے اور یہ انٹرنیشنل محفل تشکر بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ مجدد قرن حاضر مسعود الملت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ، امام ربانی فاؤنڈیشن کے چیرمین جناب صاحبزادہ مسرور احمد صاحب مدظلہ اور سب ہی رفقاء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے انتھک کوششوں سے اس آفاقی سطح پر کام کی داغ بیل ڈالی۔ مکتوبات شریف میں سے انتخاب کر کے عوامی آگاہی کے لئے انہیں ہر زبان میں لایا جائے اور اتنی وافر تعداد میں انہیں شائع کیا جائے کہ ایک ایک نسخہ ہر گھر میں موجود ہو۔ آپ کے مکتوبات شریف کا امتیاز یہ ہے کہ خط میں ذاتی غرض ظاہر نہ فرمائی۔ ہم لوگ بھی خط لکھتے ہیں۔ جن میں خانگی حالات اور ذاتی زندگی سے متعلق مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ بس! حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خط لکھنے کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا جبکہ دور جدید میں بعض علماء ومشائخ بادشاہوں اور وزیروں کی قربت سے ذاتی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوشامدی انداز اپناتے ہیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی کسی وزیر یا سربراہ مملکت سے اللہ کے لئے ملتا ہوگا۔ بادشاہوں وزیروں سے ملنا بُرا نہیں ہے۔ بُرا یہ ہے ان کو ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے۔ جب اصلاح کی قدرت یا ضرورت ہو تو ان کو تنہا چھوڑ دینا دانائی نہیں دانائی یہ ہے کہ ان سے ملکر ان کو بنایا جائے۔ سنوارا جائے تا کہ وہ اللہ کی مخلوق پر جابر وقاہر نہ ہوں بلکہ رحمدل وکرم فرما ہوں۔ نیز ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حوالے سے کام کرنے والوں اور اُن سے بالواسطہ یا بلاواسطہ عقیدت رکھنے والوں کے لئے مژدہ یہ ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا

> "جو لوگ ہمارے طریقے میں قیامت تک بالواسطہ یا بلاواسطہ داخل ہوں گے۔ خواہ مرد ہوں یا عورتیں سبھوں کو ہماری نظر کے سامنے لایا گیا۔ نام ونسب، مولد ومسکن بتایا گیا۔ اگر میں چاہوں سب کو ایک ایک کر کے بیان کردوں۔" (ص ۲۲ نورٌ علیٰ نور)

لہٰذا جتنے حضرات اُن سے عقیدت رکھتے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کے سلسلہ میں داخل ہیں یہ اُن کے لئے مژدہ ہے۔ انشاء اللہ سب ہی حضرت مجدد سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور یہ فیضِ خاندانی خوشحالی کا ذریعہ ہوگا۔

ان بارگاہوں سے جڑنے والے خوش نصیب ہیں انہیں شیخ طریقت کی صحبت ملی جس سے انہیں اس راہ کا پتہ

لگا۔ بغیر رہنما کے رہنمائی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ۱۹۶۴ء میں احقر اپنے جدامجد مرشد کامل شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت وشفقت سے انہی کی معیت میں پہلی مرتبہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ تب ہی سے الحمد للہ یہ فیض جاری ہے۔ ہمہ وقت فیض وکرم کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے سال ۸؍مئی ۲۰۰۴ء کو احقر زادے حافظ قاری مولوی محمد انس احمد مسعودی سلمہٗ اپنے مرشد وجد امجد حضرت مسعود الملت مجدد القرن الحاظر علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی صحبت میں بارگاہ مجدد رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ انہیں اور سب ہی صاحبزادوں کو اسلام کے نقش قدم پر گامزن فرمائے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خدمات انجام دیں۔

پاکستان کے سب ہی احباب خوش نصیب ہیں مسعود ملّت کی صحبت عظیم المرتبت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں مجھے کامل یقین ہے ان شاء اللہ یہ فیض مجددی مظہری مسعودی ہمارے لئے دین ودنیا کی سعادت وشادمانی کا ذریعہ ہوگا۔

جو حضرات جہان امام ربانی جیسے عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں ہر کام غیب سے ہوا اور غیب سے ہوتا ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ جتنا عظیم کام جتنے کم وقت سے انجام پایا ہے یہ بھی حضرت مجدد کا فیض اور مسعود الملّت کی عظیم الشان کرامت ہے جس نے بہت سوں کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ آپ تیس سال سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اور مجدد ماۃ سابقہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ پر تصنیف وتحقیق کا کام فرما رہے ہیں۔ آپ بھی مجددیت کے منصب پر فائز ہیں جس روز سے آپ نے ان مجددوں کی حیات اور خدمات پر کام شروع کیا تھا اسی روز سے آپ مجدد ماۃ حاضرہ کے جلیل القدر منصب پر فائز ہیں کہ آپ کا فیض سالہا سال سے ہمہ وقت جاری ساری ہے آپ نے سب کے ساتھ فراخدالی کا معاملہ فرمایا ہے اور اپنے علم سے بھی کنجوسی نہیں کی۔ ہر اک کو فیض پہنچایا جو آپ کے در پر آیا آپ نے خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ آج کے دور میں آپ سا فراغ دل فاضل اور شریعت وسنتوں کا پیکر نہیں ملے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ خطوط لکھتے ہیں۔ خط کے برابر جواب دیتے ہیں اور اس پر بھی آپ معقول صرف ہر مہینہ فرماتے ہین جدید وسائل کا آپ بھرپور استعمال فرما کر فیض رسانی فرما رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعہ، فیکس کے ذریعہ، فون کے ذریعہ، ای میل کے ذریعہ غرض ہر طریقہ سے آپ خلق خدا کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سیکڑوں رسائل اور کتابیں آپ نے لکھیں کبھی اُس پر رائلٹی نہیں لی۔ اپنے علم کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ادارۂ مسعودیہ اور امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے احباب لاکھوں روپے کا مذہبی لٹریچر شائع کر کے مفت تقسیم کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں مسعود ملّت اور مجدد برحق کا فیض جاری ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں آپ کا لٹریچر نہ پہنچا ہو۔ یہی تو شان مجددیت ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے مُریدین۔ خلفاء اور مکتوبات شریف کے ذریعہ فیض ہدایت کو

عام فرمایا وہی خدمت آج حضرت مسعود ملّت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ اُن کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے اور فیض مجددی جاری ہے۔

ہم سب کو اس میں تعاون کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس سے فیض پانے کی ضرورت ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت ہو رہی ہے میں سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (آمین)

۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء

احقر
محمد مکرم احمد عفی عنہٗ

☆......☆......☆

وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

روئداد محفل تشکر

بسلسلہ اجراء جہان امام ربانی مجدد الف ثانی

(منعقدہ ۱۰ اپریل ۲۰۰۵ء رنگون والا کمیونٹی ہال، کراچی)

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

(مدیر اعزازی ماہنامہ المظہر کراچی، کالم نگار روزنامہ جنگ، کراچی)

☆☆

مہک اُٹھے جس کی مہک سے دو عالم
عجب رنگ پر ہے جہان مجدد

''حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بڑی گہرائی، وسعت، ہمہ گیری اور جاذبیت وکشش ہے۔ یہ جلال و جمال کی آئینہ دار ہیں، ان کی تعلیمات نے بگاڑا نہیں، غافلوں کو ڈرایا دھمکایا نہیں بلکہ ان کو سوچنے پر مجبور کردیا۔ حضور انور ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبت و پیار سے سب کو سمجھایا۔ آپ کی فکر میں روشنی اور آپ کی تحریر میں دانائی ہے جو علم وحکمت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے''۔ ان خیالات کا اظہار خانوادۂ مسعودیہ مظہریہ کے چشم و چراغ، مسند نشین آستانہ مسعودیہ مظہریہ مفتی اعظم ہند علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی امام وخطیب مسجد جامع فتحپوری، دہلی) نے امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کراچی کے زیر اہتمام کراچی میں منعقدہ ''محفل تشکر بسلسلہ اجراء جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' میں خطبۂ صدارت پیش کرتے ہوئے کیا، یہ محفل تشکر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وافکار اور گرانقدر انقلابی خدمات کے حوالے سے عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی اشاعت اور

اجراء کے موقع پر حضرت پیر آغا فضل الرحمٰن مجددی اور حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی زیر سرپرستی منعقد کی گئی تھی ...... صدر محفل ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی امام وخطیب، مسجد جامع فتحپوری، دہلی) تھے جبکہ حضرت خواجہ محمد عبداللہ جان نقشبندی (پشاور)، حضرت مخدوم زادہ سید سرمد الحسینی (لاہور)، حضرت پیر نثار احمد جان سرہندی (میر پور خاص)، حضرت صاحب زادہ جلیل الرحمٰن نقشبندی (راولپنڈی)، حضرت پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی (مانچسٹر)، حاجی محمد الیاس کشمیری (اسٹاک پورٹ) بطور مہمانان خصوصی تشریف لائے ...... ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر ازہری، علامہ رضوان احمد خان نقشبندی، ڈاکٹر قاری حافظ محمد رفیق مسعودی اور علامہ مفتی محمد جان نعیمی نے فاضلانہ اور محققانہ مقالات پیش کیے ...... محفل کو تین نشستوں میں منقسم کیا گیا تھا، نظامت کے فرائض مولانا جاوید اقبال مظہری، بانی امام ربانی فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل (کراچی) نے ادا کیے۔

نشست اول کا آغاز نبیرہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ قاری محمد ظفر احمد مظہری نے تلاوت قرآن کریم سے کیا، صاحب زادہ سید محمد طاہر مظہری (اسلام آباد) نے ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ امام ربانی فاؤنڈیشن کے بانی مولانا جاوید اقبال مظہری نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے اغراض ومقاصد، ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی تدوین اور اشاعت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس عظیم منصوبے کا اعلان کیا گیا دنیا بھر کے علماء ومشائخ کے مقالات آنا شروع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دس سال کا کام تین سال میں ہی ہو گیا، اس عظیم کام کا سہرا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند طریقت حضرت مسعود ملت مجدد مأۃ حاضرہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد دامت برکاتہم کے سر ہے۔ الحمدللہ سات جلدیں تیار ہو چکی ہیں جبکہ مزید دو جلدیں تیار ہو رہی ہیں اس طرح نو جلدوں پر یہ کام پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ انہوں نے سرپرستان محفل، صدر محفل، مہمانان خصوصی، مقالہ نگار حضرات اور تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا......

نبیرہ شاہ رکن الدین الوری، فرزند مفتی محمد محمود الوری، ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر ازہری (رکن قومی اسمبلی، پاکستان) نے ''تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی اور مقامات مجدد الف ثانی'' کے عنوان سے فاضلانہ مقالہ پیش کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے مختصراً پیش کیے پھر

خدمات کا ذکر فرمایا اس کے بعد مقامات مجدد الف ثانی کے حوالے سے آپ کے مقام مجدد الف ثانی، قیومیت، متشابہات کا علم، محدث، قضائے مبرم میں تصرف، تتبع رسول، قلوب خمسہ، مقام شفاعت، علم لدنی، فنائے حقیقی، جمع الجمع، فرق بعد الجمع، مریدین کا علم، انبیاء کا علم، اصحاب فترت کا علم، آسمانوں کا علم، متقی ہونے کی بشارت، مژدہ شفاعت، وساوس سے حفاظت، مقام اخلاص، مقام رضا، محبت ذاتی، رفعت ذکر، حب مصطفی (ﷺ)، قطب ارشاد، مراد محبوب، ولایت سہ گانہ، حقیقت کعبہ، مقامات نقشبندیہ، عرش پر عروج، تجلی ذاتی واحسان وشہود، سیر الی اللہ وسیر فی اللہ، مقامات محبوبیت، فناء وبقاء، لطائف پنجگانہ، معراج، نبوت کی مہر تصدیق، مجتہد علم کلام، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود اور مژدہ مغفرت پر اہم نکات پیش کیے، انہوں نے کہا کہ ''جہان امام ربانی'' کی اشاعت پر مسعود ملت حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، ان کے رفقاء کار اور اس عظیم کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ سات جلدوں پر مشتمل ''جہان امام ربانی'' کو شائع کر کے انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ذات کے محاسن ومحامد کا جو جہاں آباد کیا ہے اور اس طرح ان کی بارگاہ میں جس خوبصورت انداز میں نظرانۂ عقیدت پیش کیا ہے وہ تصوف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اور بارگاہ مجدد سے دنیا وآخرت میں بہت بڑے بڑے انعام واکرام کا موجب بنے گا......

محفل تشکر کے نام ملک و بیرون ملک سے متعدد پیغامات بھی موصول ہوئے تھے جن میں سے بعض دوران محفل پڑھ کر سنائے گئے، چنانچہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کا پیغام کمانڈر محمد ظفر نے، صاحب زادہ محمد حبیب الرحمٰن (برطانیہ) کا پیغام علامہ رضوان احمد خاں نقشبندی نے اور پیر سید عاشق حسین مجددی (شیخوپورہ) کا پیغام ڈاکٹر قاری محمد رفیق احمد مسعودی نے پڑھ کر سنایا: سید محمد انیس شاہ مسعودی اور محمود الحسن اشرفی نے ہدیہ نعت پیش کیا اور نماز عصر پر پہلی نشست کا اختتام ہوا......

نشست دوم کا آغاز نبیرۂ مفتی محمود الوری، فرزند صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نقشبندی، مولانا قاری محمد عزیر محمود ازہری (پرنسپل رکن الاسلام جامعہ مجددیہ، حیدرآباد) کی تلاوت قرآن کریم سے ہوا، پروفیسر عبد الرحمٰن قادری اور صاحبزادہ محمد جنید مجددی نے ہدیہ نعت پیش کیا، مولانا جاوید اقبال مظہری نے درگاہ ابو الخیر دہلی کے مسند نشین حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی کے پوتے صاحبزادہ ابو النصر محمد انس فاروقی مجددی کا بذریعہ فون موصولہ پیغام سامعین تک پہنچایا......

حضرت مسعود ملت کے فرزند طریقت علامہ رضوان احمد خاں نقشبندی (ناظم تعلیمات و صدر مدرس نصرۃ العلوم و استاد خواتین اسلامک مشن یونیورسٹی کراچی) نے جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی سات مطبوعہ جلدوں کا تفصیلی تعارف پیش کیا اور کہا کہ جہان امام ربانی واقعی ایک جہاں ہے، اب آپ کی حیرانی یقیناً یقین میں بدل گئی ہوگی کہ ایک ایسا جہان جو ایمان و عرفان، علم و ادراک، فقہ و اجتہاد، تاریخ و سیاست، عشق و محبت، سیر و سلوک، حقائق و معارف، روحانیت و وجدانیت، اور جذب و کیف کے حسین و دلکش نظاروں سے معمور ہے، جہان امام ربانی کو اپنے موضوع پر یقیناً ایک انسائیکلو پیڈیا کا درجہ دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخصیت پر اتنا مواد جمع ہو جانا عجائبات سے ہے۔ اس عظیم منصوبے کی تکمیل پر ہم حضرت مسعود ملت اور ان کے رفقاء کار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں...... تعارف جہان امام ربانی کے بعد محمد سعید نقشبندی نے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی......

علامہ مفتی محمد جان نعیمی (مہتمم دار العلوم نعیمیہ مجددیہ کراچی) نے “تفسیر مظہری میں معارف و اذکار امام ربانی” کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفسیر مظہری کی دس جلدون میں تقریباً اسّی مقامات سے زائد جگہ پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا ذکر ملتا ہے جبکہ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض آیات کی تشریح و تفسیر کے لیے مکتوبات امام ربانی کے حوالے دیے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات کی تفسیر میں مکتوبات کے حوالے ہیں حروف مقطعات کے اسرار و معارف کے حوالے سے بھی حضرت مجدد الف ثانی کا قول بطور استدلال نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا مقالہ طویل ہے بعد از اشاعت اس کا مطالعہ اہل طریقت کو محظوظ کرے گا انہوں نے جہان امام ربانی کی اشاعت پر حضرت مسعود ملت اور تمام معاونین کو خراج تحسین پیش کیا...... دوسری نشست کا اختتام نماز مغرب کے ساتھ ہوا......

تیسری نشست کا آغاز مولانا قاری محمد رفیق درانی کی تلاوت قرآن کریم اور صاحبزادہ محمد بلال مجددی کی نعت رسول مقبول ﷺ سے ہوا...... پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق مسعودی نے “تفسیر روح المعانی میں افکار امام ربانی مجدد الف ثانی” کے حوالے سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تفسیر روح المعانی علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی کی تصنیف ہے جو ۱۵ جلدوں میں استانبول اور پھر پاکستان سے شائع ہوئی، اس تفسیر میں جگہ جگہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار عالیہ کی بھرپور ترجمانی نظر آتی

ہے، انھوں نے درج ذیل عنوانات کے تحت دونوں بزرگوں کے افکار عالیہ کا جائزہ پیش کیا......

☆......اولیاء کرام کی فضیلت

☆......نسبت نقشبندیہ کا اظہار

☆......نسبتوں کی بہار

☆......چمن ابوحنیفہ کی رنگینی

☆......وجہ فضیلت صحبت کاملاں

☆......حضور ﷺ وجہ تخلیق کائنات

☆......نورانیت مصطفی ﷺ

انھوں نے مزید کہا کہ ۲۰۰۵ء میں ''جہان امام ربانی'' کا منظر عام پر آنا حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی کرامت اور سرکار دو عالم ﷺ کا معجزہ ہے جس کی مثال سابقہ چار صدیوں میں نہیں ملتی اور یہ سعادت مجدد مأۃ حاضرہ محبوب ملت مسعود ملت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حصے میں آئی......

صدر محفل علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نقشبندی نے خطبہء صدارت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فخر اہل سنت عالم اسلام کے نامور محقق و مفکر عارف باللہ مجدد دین و ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی اور حضرت پیر آغا فضل الرحمٰن مجددی خانوادۂ مجددیہ کے روشن چراغ کی سرپرستی میں علماء و مشائخ، عقیدتمندوں اور عاشقوں کی اس محفل میں شرکت کر کے جتنی خوشی ہو رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت مجدد علم و فضل میں یگانہء روزگار تھے آپ کے معارف روحانیہ بے مثال و بے نظیر ہیں جن کا ادراک اخص الخواص کے لیے بھی مشکل ہے۔ آپ الف ثانی کے مجدد ہیں آپ کے وجود مسعود سے دور رسالت مآب ﷺ کی یاد تازہ ہوگئی......آپ کی تعلیمات میں بڑی گہرائی وسعت و ہمہ گیری، جاذبیت و کشش ہے۔ اس وقت تعلیمات مجددیہ کی اشاعت کے لیے خانقاہوں کا افعال ہونا ضروری ہے، اخلاص عمل وقت کی اہم ضرورت ہے......''جہان امام ربانی'' کی تیاریوں میں اسی جذبہ کے تحت کام ہوا اور یہ انٹرنیشنل محفل تشکر بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ

مجددِ قرنِ حاضر مسعود الملت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ' فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحبزادہ مسرور میاں صاحب اور سب ہی رفقاء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنھوں نے انتھک محنت کر کے اس آفاقی سطح پر کام کی داغ بیل ڈالی۔ انھوں نے کہا کہ آج میں اس محفل میں حضرت مسعود ملت کی شان مجددیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ۳۵ سال امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ کی ذات پر کام کیا۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے تقریباً تین سو سال بعد انہی خطوط پر کارہائے نمایاں انجام دے کر ملت کی رہنمائی فرمائی اور حضرت مجدد کو عملاً خراج عقیدت پیش کیا۔ بے شک اعلیٰ حضرت چودھویں صدی کے مجدد تھے۔ مجددِ قرنِ سابقہ کے بعد حضرت مسعود ملت نے مجدد الف ثانی پر عظیم الشان کام سرانجام دیا، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ دو مجددوں پر کام لینا تھا اس لیے مجددوں پر کام کے لیے مجدد ہی کا انتخاب فرمایا۔ بے شک مسعود ملت ''مجددِ قرنِ حاضر'' ہیں اور پاکستان کے سب ہی احباب خوش نصیب ہیں جو مسعود ملت کی صحبت عظیم المرتبت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں، انھوں نے مزید کہا کہ آج دنیا کے ہر کونے میں حضرت مسعود ملت کا فیض جاری ہے، ایشیاء، افریقہ، یورپ کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں آپ کا لٹریچر نہ پہنچا ہو، یہی تو ''شان مجددیت ہے''۔ حضرت مجدد الف ثانی نے مریدین خلفاء اور مکتوبات کے ذریعے فیض ہدایت کو عام کیا وہی خدمت آج حضرت مسعود ملت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے۔

صاحبزادہ سید محمد طاہر مظہری نے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا انھوں نے ''جہان امام ربانی'' کے روح رواں حضرت مسعود ملت مدظلہ العالی، مرتبین صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری، ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس نیک کام میں معاونت پر پرنٹر ملک شوکت، کمپوزر سید شعیب افتخار مسعودی، بائینڈر محمد سلیم سواتی اور تمام معاونین ومحبین کا شکریہ ادا کیا ...... علامہ قاری محمد ظفر احمد مظہری نے صلوٰۃ وسلام کا نذرانہ پیش کیا جب کہ آغا پیر فضل الرحمٰن مجددی نے دعائے خیر فرمائی......

محفل کے اختتام پر طعام کے علاوہ مہمانانِ خصوصی اور علماء ومشائخ کو جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا سیٹ پیش کیا گیا جبکہ تمام شرکاء کو ایک خوبصورت دستی بیگ میں درج ذیل کتب تقسیم کی گئیں۔

۱..... مقالہ ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر	(تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی)
۲..... مقالہ علامہ رضوان احمد خان نقشبندی	(تعارف جہان امام ربانی)
۳..... مقالہ ڈاکٹر قاری محمد رفیق مسعودی	(تفسیر روح المعانی میں افکار مجدد الف ثانی)
۴..... فہرست کتب ۲۰۰۵ء	(مطبوعات ادارہ مسعودیہ کراچی)
۵..... جہاں نما	(جہان امام ربانی کا موضوعاتی جائزہ) ڈاکٹر سید عدنان خورشید/ڈاکٹر اقبال اختر القادری

یہ محفل تشکر عام محفلوں سے مختلف بڑی پروقار اور روحانیت و نورانیت سے معمور تھی ہر شریک محفل اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ **فالحمد للہ علیٰ ذلک**

* * *



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

قومی

جہانِ امامِ ربانی کانفرنس، لاہور

(۱۴/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء)

☆☆



الأمثال للناس والله بكل شئ عليم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

خطبۂ صدارت

جہان امام ربانی کانفرنس، لاہور

۲۴ر اپریل ۲۰۰۵ء ایوان اقبال، لاہور

مفتی اعظم علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد
(شاہی امام مسجد جامع فتح پوری، دہلی، بھارت)

☆☆

فقیر امام احمد رضا سلور جوبلی اور جہان امام ربانی مجدد الف ثانی علیہما الرحمۃ والرضوان کی محفل تشکر میں شرکت کے لیے کراچی حاضر ہوا تھا۔ الحمد للہ محفل تشکر انتہائی شاندار اور پروقار رہوئی کثیر تعداد میں علمائے کرام اور مشائخ عظام ونیز دانشوران ملت نے اس میں شرکت کی۔ جس کے لیے امام ربانی فاؤنڈیشن کے بانی مولانا جاوید اقبال مظہری اوران کے تمام اراکین ورفقاء ومعاونین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ۱۸ر اپریل کو فقیر کا دہلی واپسی کا ارادہ تھا کیونکہ مسجد فتح پوری دہلی میں تقریباً ایک صدی سے ۱۱ر ربیع الاول شریف سے ۱۲ر ربیع الاول شریف تک محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جاتی ہے اس میں شرکت اور نگرانی ضروری تھی مگر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی نے اصرار فرمایا کہ فقیر لاہور کی جہان امام ربانی کانفرنس میں ضرور شریک ہو، فقیر ان کے ارشاد کی تعمیل میں ٹھہر گیا اور آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب بھی اس کانفرنس میں تشریف لاتے مگر ضعف اور کمزوری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے۔ جس کا ان کو بھی شدید قلق تھا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)۔ فقیر صوفی غلام سرور کا ممنون ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس کی صدارت کا اعزاز بخشا۔ الحمد للہ یہ محفل پاک بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ اس میں شرکت کر کے

فرحت وانبساط محسوس کرر ہا ہوں ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی عظیم الشان روحانی ونورانی کانفرنس میں شرکت ہو رہی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۹۷۱ھ میں سرہند میں ہوئی اور ۱۰۳۴ھ میں وصال ہوا ۶۳ سال کی عمر شریف پائی اور ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ آپ علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ و پیراستہ تھے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سرہند میں گویا دارالعلوم بھی تھا اور خانقاہ بھی۔ جس کا علمی اور روحانی فیض دور اور نزدیک پھیلا۔ آپ نے احیاء اسلام کے لیے سخت جدوجہد کی اور بڑی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ صاحب استقامت تھے۔ آپ کی تعلیمات نے اعیان مملکت کو بھی اس حد تک متاثر کیا کہ لاہور کے گورنر مرزا قلیج بیگ، صاحب علم وفضل تھے اور درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ کے فیض صحبت سے عوام خواص بن گئے۔

آپ کی اولاد امجاد اور گرانہا تصانیف نے اصلاح امت کا فریضہ ادا کیا آپ کے مکتوبات شریف علم ودانش اور علم لدنی کا خزانہ ہیں جس کا ادراک کم لوگوں کو ہوسکا۔ آپ کے نظریات نے علماء ومشائخ اور سیاست دانوں کو چونکا دیا۔ نظریہ قومیت سے اہل علم چونک گئے۔ یہ نظریہ حق ہے۔

نظریہ وحدۃ الشہود سے اہل طریقت چونک گئے۔ مگر یہ نظریہ حق ہے جب وہ حضرات نظریہ وحدۃ الوجود کی تشریح فرماتے ہیں تو ان کو وحدۃ الشہود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کچھ الجھاؤ نہیں۔

دو قومی نظریے سے سیاست داں چونک گئے۔ مگر یہ نظریہ بھی حق ہے اور بانی اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی ہے یہ نفرت کے لیے نہیں انسانی وحدۃ کے لیے ہے جس کی بنیاد لکم دینکم ولی دین پر ہے۔

اسی طرح آپ کے اور نظریات ہیں۔ مثلاً نظریہ عروج وزوال، نظریہ علم وحصولی وعلم حضوری، نظریہ شان علم وشان حیات، نظریہ الف ثانی، نظریہ توحید وجودی، نظریہ توحید شہودی، نظریہ صحو وسکر، نظریہ سیر نفسی وسیر آفاقی، سیر الی اللہ وسیر فی اللہ، نظریہ حقیقت محمدی، نظریہ حقیقت کعبہ، نظریہ ولایت ونبوت، نظریہ شریعت وطریقت، نظریہ عالم صغیر وعالم کبیر، نظریہ عبدیت اور نظریہ قضائے مبرم وغیرہ۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور سے خاص تعلق تھا۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے جس سے اولیاء اللہ کو نسبت رہی ہے۔ آپ کے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے اور یہاں سے ہوتے ہوئے دہلی تشریف لے گئے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ بھی کئی سال لاہور میں رہے۔ آپ کے خلیفہ شیخ طاہر بندگی یہاں ہی مدفون ہیں۔ مکتوبات شریف میں سے چار مکتوبات میں لاہور کا ذکر آیا ہے۔ گورنر لاہور مرزا قلیج خان

(۱/۶۷/۶۵) شیخ فرید بخاری (۱/۱۹۳/۸۱) مرزا حسام الدین (۲/۱۷/۴۵) اور ملا مظفر (۱/۱۰۲/۱۰۴) کے نام خطوط میں لاہور کا ذکر ہے۔

بڑے بڑے علماء و مشائخ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ رہے۔ ریاض کے ایک فاضل نے عرب کے تیرہویں صدی کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پر دو تحقیقی مقالات لکھے ہیں اور اب وہ مندرجہ ذیل مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پر تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں۔ مولانا خالد کردی، ابن عابدین شامی، شیخ عابد سندھی، مولانا زاہد الکوثری ...... ابن عابدین شامی، مولانا خالد کردی کے خلیفہ شیخ عبدالرسول نقشبندی مجددی سے بیعت تھے جن کی مشہور زمانہ کتاب ردالمحتار پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فاضلانہ اور محققانہ انداز کا حاشیہ جدالممتاز کے نام سے لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ تھے۔ آپ نے تفسیر مظہری میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے عظمت واحترام سے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مونگیری نقشبندی مجددی کے نام جو خط تحریر فرمایا ہے اس سے بھی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے بارے میں آپ کے جذبات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے آپ کو مجدد الف ثانی کے خطاب سے نوازا جس کی زمانے نے تصدیق کی آپ نے خود مکتوبات شریف میں تصدیق فرمائی۔ حلقۂ طریقت وعقیدت میں ہر ولی کے قول کو تسلیم کیا گیا ہے جو قرآن وحدیث کے خلاف نہ تھا۔ اس لیے یہ قول بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی ضیاء الدین مدنی، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کی اولاد امجاد سے تھے بقول خلیفہ محمد عارف مدنی آپ فرمایا کرتے تھے کہ

''حضرت مجدد تو ہمارے سر کے تاج ہیں''

''حضرت مجدد تو ہمارے سر کے تاج ہیں''

یہ جملے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتے تھے جس سے کمال عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا فضل الرحمٰن قادری (جن کا نام بھی فضل رحمٰن گنج مرادآبادی نقشبندی کے نام نامی پر رکھا گیا ہے) پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب سے بہت محبت فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آخری ملاقات ہوئی اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو فقیر کی وجہ سے تکلیف ہوئی ...... آپ نے فرمایا

''نہیں نہیں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے''

بلاشبہ حضرت مسعود ملت کی شخصیت آج ہمارے درمیان بڑے احترام وعظمت کا مقام رکھتی ہے۔ نہ صرف برصغیر بلکہ اکناف عالم میں آپ کی علمی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جارہا ہے۔ آپ نے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر ان کی علمی خدمات بے نظیر اور فقید المثال ہیں...... مرکزی مجلس رضا لاہور کے بانی محسن اہل سنت، محقق بے بدل حضرت حکیم محمد موسیٰ امرتسری علیہ الرحمۃ نے ان خدمات کو شائع کر کے عالم گیر بنایا۔ معاصرین اور متاخرین علماء نے حضرت مجدد کے پیغام کو عام کیا۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات زمانے پر اثر انداز ہوئیں اور سلطنتوں میں انقلاب برپا کیا۔ اگر آپ تجدید واحیاءِ دین کے لیے جدوجہد نہ فرماتے تو اکبر کے دین الٰہی نے برصغیر میں اسلام کا نام ونشان ہی مٹا دیا ہوتا۔ جس طرح صدیوں عروج کے بعد اندلس میں نام ونشان مٹا دیا گیا۔ ملا عبدالقادر بدایونی کی منتخب التواریخ پڑھ کر اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ بعد کے آنے والوں نے اس زمین پر کام کیا جس کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے خون پسینہ ایک کر کے ہموار کیا تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

عالم اسلام میں صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جس سے تمام علماء اہل سنت متفق ہیں اور تمام مسلمان کہلانے والے فرقے بھی متفق ہیں اور وہ عظیم شخصیت حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت وفکر ہی اتحاد بین المسلمین کا کردار ادا کرسکتی ہے۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بلا کسی تنگ نظری اور تعصب کے آپ کے افکار کو عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ مسلمانان عالم قریب سے قریب تر ہوجائیں۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر برسوں سے تحقیق ہورہی ہے بارہ تحقیقی مقالات پر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں مل چکی ہیں۔ فقیر نے بھی عربی میں حضرت مجدد کے حالات وخدمات پر تحقیقی مقالہ قلم بند کیا ہے جو تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے ان شاء اللہ ادارۂ مسعودیہ کراچی عنقریب شائع کرے گا۔ امام ربانی فاؤنڈیشن کا قیام اور جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی تدوین واشاعت اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔

حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری (جن کی مساعی جمیلہ اور ان کے رفیق کار صوفی غلام سرور صاحب کی جدوجہد سے نصف صدی سے پاکستان میں مجدد علیہ الرحمۃ کے ذکر وفکر کا چرچا ہے) نے لاہور میں حوزۂ نقشبندی ایک علمی ادارہ قائم کیا ہے جس کے سکریٹری محمد مختار عالم حق ہیں۔ جس نے کام شروع کر دیا ہے اس کے معاونین میں پروفیسر اقبال احمد مجددی جیسے محقق ہیں اس سے اس کے کام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

امام احمد ربانی فاؤنڈیشن نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وافکار وخدمات پر ایک عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا سات جلدوں میں شائع کیا ہے اور دو مزید جلدیں آئندہ سال منظر عام پر آجائیں گی۔ ان شاء اللہ اس طرح یہ انسائیکلوپیڈیا تقریباً چھ ہزار صفحات پر محیط ہوگا۔ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے بعد آپ کے غلاموں میں کسی بھی شخصیت کی سیرت پر اتنا عظیم کام نہ ہوا ہوگا بے شک یہ ایک تاریخ ساز کام ہے۔ ۱۰ اراپریل کو کراچی میں محفل تشکر منعقد کی گئی اور اب لاہور میں جہان امام ربانی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا سہرا صوفی غلام سرور صاحب کے سر ہے جن کی ہمت بلند اور معاونین کے تعاون اور دور ونزدیک سے مہمانان گرامی کی شرکت نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ قدم قدم پر خانوادۂ مجددیہ کے مشائخ اور صاحبزادگان کی دعائیں شامل حال رہیں۔ اظہار تشکر اور تحدیث نعمت کے طور پر ہم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مدظلہ العالی کے مشکور ہیں جن کی سرپرستی اور رہنمائی سے یہ تحقیقی وعظیم الشان خدمت انجام پائی۔ آپ نے مجدد مأۃ سابقہ اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے علمی معارف کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پچھلے تیس سال سے حضرت اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور ہر پہلو سے اخلاص نیت کے ساتھ بے لوث دین متین کی خدمات فرما رہے ہیں جو حضرات حضرت مسعود ملت سے قریب ہیں وہ ان کی کاوشوں سے بخوبی واقف ہیں انہی خدمات کے سلسلے میں برصغیر میں علماء مشائخ آپ کو مأۃ حاضرہ کا مجدد تسلیم کر چکے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کی اس عظمت کو امت مسلمہ تسلیم کرے گی۔ ان شاء اللہ

یہ تو اللہ کی نعمت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) کے مولانا جاوید اقبال مظہری اور حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور کے صدر صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی اور ان کے تمام معاونین وارا کین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

آمین

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

روئداد جہان امام ربانی کانفرنس

(منعقدہ ۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء، ایوان اقبال لاہور)

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

''آج عالم اسلام میں صرف ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جس پر تمام علماء اہل سنت متفق ہیں اور تمام مسلمان کہلانے والے فرقے بھی متفق ہیں اور وہ عظیم شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت وفکر ہی اتحاد بین المسلمین کا کردار ادا کر سکتی ہے، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بلا کسی تنگ نظری اور تعصب کے آپ کے افکار کو عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ مسلمانان عالم قریب سے قریب تر ہو جائیں'' ...... ان خیالات کا اظہار خاندان مسعودیہ مظہریہ کے شیخ طریقت و مسند نشین آستانہ مسعودیہ مظہریہ دہلی، مفتی اعظم ہند علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی امام وخطیب مسجد جامع فتح پوری، دہلی) نے حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور اور شیر ربانی اسلامک سینٹر لاہور کے اشتراک سے ایوان اقبال لاہور میں منعقدہ ''جہان امام ربانی کانفرنس'' میں خطبۂ صدارت پیش کرتے ہوئے کیا ...... ایوان اقبال، لاہور میں ادبی وعلمی محافل کا مرکز ہے جو کہ ہوٹلوں اور کلبوں سے مختلف پارلیمنٹ ہاؤس کی طرح بنایا گیا ہے، جدید سہولتوں سے آراستہ ہے...... یہ کانفرنس حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حالات وافکار اور عظیم انقلابی کارناموں کے حوالے سے شائع ہونے والے عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی اشاعت واجراء کے موقع پر صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی کی مساعی جمیلہ سے منعقد کی گئی تھی، علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صدرِ محفل تھے جبکہ حضرت پیر آغا فضل الرحمٰن مجددی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، مولانا محمد عالم مختار حق، علامہ

عبدالستار سعیدی، علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی اور چوہدری میاں محمد اسلم اقبال (وزیر سیاحت، حکومت پنجاب) بطور مہمانان خصوصی تشریف لائے...... یہ عظیم منصوبہ مسعود ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی زیر نگرانی تکمیل پایا، آپ کو بھی خصوصی شرکت کی دعوت تھی مگر بوجہ ضعف و کمزوری آپ تشریف نہ لا سکے بلکہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جہان امام ربانی کے مرتبین کے تین رکنی وفد صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری اور ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ ادارۂ مسعودیہ کراچی کے ایک بیس رکنی وفد کے علاوہ ملک کے طول وعرض سے سیکڑوں علماء و مشائخ اور اسکالرز نے کانفرنس سے استفادہ کیا...... منتخب علماء و مشائخ اور اسکالرز نے فاضلانہ و محققانہ مقالات پیش کیے......

قاری غلام رسول کی تلاوت قرآن کریم اور محبوب احمد ہمدانی و نصیر احمد نقشبندی کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کانفرنس کا آغاز ہوا...... حضرت پیر آغا فضل الرحمٰن مجددی، علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد، صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی، صاحبزادہ جمیل الرحمٰن نقشبندی، صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد، علامہ رضوان احمد خاں نقشبندی، مولانا محمد مختار عالم حق، مولانا جاوید اقبال مظہری اور جناب جمیل اطہر سرہندی اسٹیج پر رونق افروز تھے، ڈاکٹر سید شجاع الحسن نظامت فرما رہے تھے...... اسٹیج کی پشت پر کانفرنس کے حوالے سے ایک خوبصورت بینر آویزاں تھا جبکہ ڈائس اور سامعین کی درمیانی جگہ پر ”جہان امام ربانی“ کی سات جلدوں کو نہایت خوبصورت ڈسپلے میں سجایا گیا تھا۔

تلاوت و نعت کے بعد حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور کے سکریٹری جنرل اور روزنامہ جرأت لاہور کے چیف ایڈیٹر جناب جمیل اطہر سرہندی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور سوسائٹی کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی آج سے تیس برس قبل قایم کی گئی تھی جس کا مقصد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی شخصیت کو جدید میڈیا کے ذریعے عالمی سطح پر متعارف کرانا ہے، سوسائٹی ہر سال لاہور میں امام ربانی کانفرنس کرتی ہے اور اخبارات میں ایڈیشن شائع کراتی ہے، انہوں نے کہا کہ آج کی جہان امام ربانی کانفرنس منفرد ہے کہ اس میں ممتاز محقق، دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی زیر نگرانی مرتبہ کتاب کا اجراء کیا جا رہا ہے ڈاکٹر مسعود احمد جیسے لوگ کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں وہ حضرت مجدد کے سچے اور پکے عاشق ہیں اُن کا یہ کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا......

”جہان امام ربانی مجدد الف ثانی“ کا ناشر ادارہ' امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے بانی مولانا جاوید اقبال مظہری نے فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ فاؤنڈیشن

۲۰۰۲ء کو کراچی میں قایم ہوئی اور الحمدللہ صرف تین سال کی مدت میں جہان امام ربانی کا عظیم منصوبہ مکمل کیا، حضرت مسعود ملت اس کے سرپرست اعلیٰ جبکہ ان کے فرزند و جانشین ابوالسرور محمد مسرور احمد اس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ صوفی غلام سرور نقشبندی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے جہان امام ربانی کی اشاعت کی خوشی میں اپنے محبین ومعاونین کے تعاون سے لاہور میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی......

علامہ محمد رضوان خاں نقشبندی (ناظم تعلیمات وصدر مدرس' نضرۃ العلوم واستاد خواتین اسلامک مشن کراچی) نے جہان امام ربانی کی سات مطبوعہ جلدوں کا تفصیلی تعارف پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ایک جہان ہے اسے اپنے موضوع پر یقیناً ایک انسائیکلو پیڈیا کا درجہ دیا جاسکتا ہے جو جذب وکیف کے حسین ودلکش نظاروں سے معمور ہے کسی ایک شخصیت پر اتنا مواد جمع ہو جانا عجائبات سے ہے' اس عظیم منصوبہ کی تکمیل پر حضرت مسعود ملت اور ان کے رفقاء کار خراج تحسین کے مستحق ہیں......

امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے چیئرمین اور جگر گوشہ مسعود ملت صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا مختصراً تعارف پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا طریقہ تبلیغ نہایت عارفانہ اور حکیمانہ تھا آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے علماء ومشائخ، وزراء وامراء اور بادشاہوں کو خطوط لکھے اور برصغیر کے مختلف علاقوں اور دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے خلفاء کی قیادت میں وفود بھیجے، آپ کی حکیمانہ مساعی' بے مثال صبر وتحمل اور حیرت انگیز تفکر وتدبر سے برصغیر میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا، آپ کی تعلیمات میں زندگی ہے کیونکہ ان تعلیمات کے پیچھے ایک زندہ مثالی نمونہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہم حضرت مجدد کے محبوب شہر لاہور میں آپ کی یاد منا رہے ہیں جہاں آپ نے تین چار سال قیام فرمایا اور علم وعرفان کی دولت لٹائی، آپ نے لاہور کے علماء ومشائخ کو خطوط لکھے گورنروں کو ہدایت کی، صوفی غلام سرور نقشبندی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی وہ کئی برس سے لاہور میں امام ربانی کانفرنس کا انعقاد کررہے ہیں اور اب حوضہ نقشبندی لاہور نے بھی میاں جمیل احمد شرق پوری کی قیادت میں کام شروع کردیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مجدد پر کام کرنے والوں کی غیب سے مدد فرمائے......

جناب سید ریاض الحسن گیلانی نے ''حضرت مجدد الف ثانی اور تحفظ ناموس رسالت'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کا سہرا روز اول سے حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے سرایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے کارہائے گراں مایہ انجام دیے پھر حضرت مجدد نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واطاعت کو لازم وملزوم قرار دے

کر، عقائد ختم نبوت کی ترویج واشاعت کی، ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی سے سخت ترین مقابلہ کرنے والے بزرگ امیر ملت سید جماعت علی شاہ بھی نقشبندی تھے اور میں جو اس حوالے سے مقالہ پیش کر رہا ہوں میں بھی نقشبندی مجددی ہوں میرا مقالہ طویل ہے جب شائع ہوگا تو آپ لوگ تفصیلات پڑھ لیں گے کہ تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں حضرات نقشبندیہ مجددیہ کو دیگر سلاسل پر سبقت حاصل ہے......

ڈاکٹر محمد سلطان شاہ نے ”حضرت مجدد الف ثانی اور مستشرقین“ کے عنوان سے نہایت فاضلانہ مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شخصیت اور تعلیمات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جس سے اپنے تو اپنے پرائے بھی متاثر ہیں، آپ کے افکار و تعلیمات پر مسلمان ہی نہیں مستشرقین نے بھی کام کیا ہے اور برابر کر رہے ہیں......

حافظ اللہ بخش قادری نے حضرت مجدد الف ثانی کے حضور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی منقبت ”حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر“ پیش کی......

فاضل جامعہ الازہر (مصر) علامہ ڈاکٹر محمد آصف جلالی ازہری نے ”حضرت مجدد اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کے عنوان سے بڑا عاشقانہ مقالہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جس انسان میں بوئے محبت نہیں وہ انسان انسان نہیں، قاسم اسرار روحانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور تعلیمات جس خوشبوئے پاک سے معطر ہیں وہ خوشبو، خوشبوئے محبت رسول ہے......

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس نے ”حضرت مجدد بحیثیت مفسر“ کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں آیات قرآنی کی تفسیر میں جو اسرار و نکات پیش فرمائے ہیں اس کی بدولت تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری نے دنیائے تفسیر کو نئے ابواب سے متعارف کرایا......

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی (سابق وائس چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی، آزاد کشمیر) نے ”خانوادہ مجددیہ کی عربی ادب میں خدمات“ کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عہد اکبری میں عربی ادب کے حوالے سے حضرت مجدد اور ان کے خاندان نے جو خدمات سرانجام دیں وہ قابل قدر ہیں۔ حضرت مجدد اپنے مکتوبات میں جو کہ فارسی زبان میں ہیں دینی مسائل بیان کرتے وقت عربی زبان کو اہمیت دیتے ہیں اور علماء و مشائخ کو لکھتے وقت تو اصل عربی متن نہایت سرعت سے تحریر فرماتے ہیں جبکہ عوام کو اصل عربی مأخذ کا حوالہ دے کر اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں......

مولانا سید صابر حسین شاہ قادری نے ''خانوادۂ مجددیہ سے قائداعظم کے اجداد کی عقیدت'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا حلقہ بہت وسیع تھا آپ کے مریدین میں قائداعظم کے اجداد بھی شامل تھے قائداعظم کو خدمت اسلام کا جذبہ ورثہ میں ملا تھا' ان کے آباء واجداد نے مغل بادشاہ اکبر کے ''دین الٰہی'' کے خلاف حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی عظیم قیادت میں لازوال اور قابل تقلید قربانیاں دی ہیں۔ ان کی گہری عقیدت ومحبت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ خود میں ایک قسم کی تشنگی اور کمی محسوس کرتے تھے تاوقتیکہ وہ حضرت مجدد کے مزار پُر انوار سرہند شریف حاضری نہ دے لیں۔

پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی نے ''امام احمد رضا بریلوی پر مجدد الف ثانی کے اثرات'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی تحریروں میں شان مجددیت نمایاں چمک رہی ہے۔ امام احمد رضا نے چودھویں صدی کے زمانۂ انتشار میں حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے بدمذہب فتنوں کا تدارک کیا، حضرت امام احمد رضا نے حضرت مجدد الف ثانی کی ذات بابرکات اور مکتوبات شریف کو بطور مثال ذکر کر کے ان سے محبت وعقیدت کا اظہار فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجدد نے دوقومی نظریہ کا پرچار کیا تو امام احمد رضا نے بھی دوقومی نظریہ کا احیاء کیا آج کا پاکستان ان ہر دو بزرگوں کا ہی فیضان ہے۔

مجدد الف ثانی، امام احمد رضا دونوں
ہمارے رہنما دونوں ہمارے پیشوا دونوں

پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد نے اپنی مطبوعہ کتاب ''عقیدۂ ختم نبوۃ اور امام ربانی'' کے حوالے سے مقالہ پیش کیا...... پروفیسر قاری مشتاق احمد نے ''شریعت، طریقت اور حقیقت نگاہ مجدد میں'' کے عنوان سے مقالہ پیش کیا جبکہ پروفیسر محمد اقبال مجددی نے ''حضرت مجدد لاہور میں'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد کو لاہور سے خاص تعلق تھا، آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ بھی یہاں تشریف لائے۔ خود حضرت مجدد کئی برس لاہور میں رہے، آپ کے خلیفہ حضرت طاہر بندگی بھی لاہور میں مدفون ہیں، مکتوبات شریف میں کئی مقامات پر لاہور کا ذکر ہے آپ نے لاہور کے علماء ومشائخ اور گورنر کو بھی خطوط تحریر فرماتے ہیں......

علامہ محمد صدیق ہزاروں سعیدی ''حضرت مجدد بحیثیت فقیہ'' کے عنوان مقالہ پیش کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب وقت تنگ ہے میں مقالہ پیش نہیں کر رہا' جب شائع ہوگا تو سب حضرات پڑھ لیں گے لیکن ایک خاص نکتہ ضرور بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج لاہور میں جس جگہ جامعہ نظامیہ رضویہ قایم ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں گورنر لاہور مرزا قلیچ خان کا مدرسہ تھا...... انہوں نے مفتی مکرم احمد صاحب کا پاکستان اور لاہور میں خیر مقدم کیا اور مسعود ملت اور صوفی غلام سرور کو ہدیہ تبریک پیش کیا......

صدر محفل مفتی اعظم ہند علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے خطبۂ صدارت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب چونکہ وقت زیادہ ہوگیا اور میرا خطبہ صدارت بڑا ہے جو کہ آپ کو مطبوعہ صورت میں پیش کر دیا گیا ہے میں اس میں سے اختصار پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ عالم اسلام میں صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے جس سے تمام علماء اہل سنت متفق ہیں اور تمام مسلمان کہلانے والے فرقے بھی متفق ہیں اور وہ عظیم شخصیت حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت وفکر ہی اتحاد بین المسلمین کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بلا کسی تنگ نظری اور تعصب کے آپ کے افکار کو عالم اسلام میں زیادہ سے زیادہ عام کریں تا کہ مسلمانان عالم قریب سے قریب تر ہو جائیں۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر برسوں سے تحقیق ہو رہی ہے بارہ تحقیقی مقالات پر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں مل چکی ہیں۔ فقیر نے بھی عربی میں حضرت مجدد کے حالات وخدمات پر تحقیقی مقالہ قلم بند کیا ہے جو تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے ان شاء اللہ ادارۂ مسعودیہ کراچی عنقریب شائع کرے گا۔ امام ربانی فاؤنڈیشن کا قیام اور جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی تدوین واشاعت اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے......

حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری (جن کی مساعی جمیلہ اور ان کے رفیق کار صوفی غلام سرور صاحب کی جدوجہد سے نصف صدی سے پاکستان میں مجدد علیہ الرحمۃ کے ذکر وفکر کا چرچا ہے) نے لاہور میں حوزہ نقشبندی ایک علمی ادارہ قایم کیا ہے جس کے سیکریٹری محمد عالم مختار حق ہیں...... جس نے کام شروع کر دیا ہے اس کے معاونین میں پروفیسر محمد اقبال مجددی جیسے محقق ہیں اس سے اس کے کام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے...... امام احمد ربانی فاؤنڈیشن نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وافکار اور خدمات پر ایک عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا سات جلدوں میں شائع کیا ہے اور دو مزید جلدیں آئندہ سال منظر عام پر آ جائیں

گی۔ ان شاءاللہ۔ اس طرح یہ انسائیکلو پیڈیا تقریباً چھ ہزار صفحات پر محیط ہوگا۔ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے بعد آپ کے غلاموں میں کسی بھی شخصیت کی سیرت پر اتنا عظیم کام نہ ہوا ہوگا بے شک یہ ایک تاریخ ساز کام ہے۔ ۱۰ اراپریل کو کراچی میں محفل تشکر منعقد کی گئی اور اب لاہور میں جہان امام ربانی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا سہرا صوفی غلام سرور صاحب کے سر ہے جن کی ہمت بلند اور معاونین کے تعاون اور دور ونزدیک سے مہمانان گرامی کی شرکت نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ قدم قدم پر خانوادہ مجددیہ کے مشائخ اور صاحبزادگان کی دعائیں شامل حال رہیں۔ اظہار تشکر اور تحدیث نعمت کے طور پر ہم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کے مشکور ہیں جن کی سرپرستی اور رہنمائی سے یہ تحقیقی وعظیم الشان خدمت انجام پائی۔ آپ نے مجدد مأۃ سابقہ اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے علمی معارف کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پچھلے تیس سال سے حضرت اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور ہر پہلو سے اخلاص نیت کے ساتھ بے لوث دین متین کی خدمت فرما رہے ہیں جو حضرات حضرت مسعود ملت سے قریب ہیں وہ ان کی کاوشوں سے بخوبی واقف ہیں انہی خدمات کے سلسلے میں برصغیر میں علماء ومشائخ آپ کو مأۃ حاضرہ کا مجدد تسلیم کر چکے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ کی اس عظمت کو امت مسلمہ تسلیم کرے گی ان شاءاللہ۔

یہ تو اللہ کی نعمت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) کے بانی مولانا جاوید اقبال مظہری اور حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور کے صدر صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی اور ان کے تمام معاونین واراکین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین!

صدارتی خطاب کے بعد حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور کی طرف سے جناب جمیل اطہر سرہندی نے بعض قراردادیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج حضرت مجدد کا پیغام ہر گھر، دکان اور مکان میں پہنچانے کی ضرورت ہے...... حضرت مجدد برصغیر میں دوقومی نظریہ کے بانی ہیں لہٰذا حکومت پاکستان یوم مجدد کو سرکاری سطح پر منائے...... پاکستان کا آئین فقہ حنفی کے مطابق بنایا جائے جو کہ حضرت مجدد کا فقہ ہے...... افکار وتعلیمات مجددیہ کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے...... مکتوبات امام ربانی کو سرکاری سطح پر تراجم کرا کے بلاد اسلامیہ میں پھیلایا جائے...... حضرت مجدد اوران کی تعلیمات کو نصاب میں شامل کیا جائے...... انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور اور شیر ربانی اسلامک سینٹر لاہور کی طرف سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا......

حضرت پیر آغا فضل الرحمٰن مجددی نے دعا فرمائی، نماز ظہر با جماعت ادا کی گئی پھر مہمانوں کو ظہرانہ دیا گیا اور یوں یہ محفل مبارک اختتام کو پہنچی ...... اس موقع پر حضرت مسعود ملت کی طرف سے بعض محققین کو ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کا سیٹ اور تمام شرکاء کو امام ربانی فاؤنڈیشن کی طرف سے درج ذیل کتب کا تحفہ پیش کیا گیا۔

۱...... خلقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم	(ڈاکٹر محمد مسعود احمد)
۲...... خطبۂ صدارت	(ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد)
۳...... مقالۂ امام ربانی مجدد الف ثانی	(ابوالسرور محمد مسرور احمد)
۴...... مقالۂ تعارف جہان امام ربانی	(علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی)
۵...... تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن	(مولانا جاوید اقبال مظہری)
۶...... جہاں نما	ڈاکٹر سید عدنان خورشید
(جہان امام ربانی کا موضوعاتی جائزہ)	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

جبکہ شیر ربانی فاؤنڈیشن لاہور اور ادارۂ مظہر اسلام لاہور کی طرف سے بھی متعدد رسائل تقسیم کیے گئے۔

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری
L-317 /5-B-2، نارتھ کراچی
اسلامی جمہوریہ پاکستان

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانیؒ کانفرنس لاہور، ایک تأثر

پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد

☆☆

۲۴ را پریل ۲۰۰۵ء کو صبح ۱۰ بجے جب میں ایوان اقبال کے کانفرنس ہال میں داخل ہوا تو ہال کا منظر ہی بڑا دیدنی تھا۔ علامہ اقبال کے اشعار، مینا کاری، سادہ پچی کاری، بہترین انتظام، مقالہ نگاروں کی نشستیں مخصوص، نمایاں اور روشنیوں میں گھرا ہوا اسٹیج، یہ سب مَن کو بہت بھا رہے تھے۔ اسٹیج کے بالکل سامنے ''جہان امام ربانی'' انسائیکلو پیڈیا کی ساتوں جلدیں ایک تختے پر بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھیں۔ تین چار کیمرے، فلڈ لائٹس اور ہال کی چھت پر سیکڑوں قمقموں نے ہال کو خصوصی رونق بخشی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے دائیں طرف ڈائس بھی نمایاں تھا اور اس پر لگے مائیک بھی نمایاں تھے اسٹیج سکریٹری کا اندازِ گفتگو بہت میٹھا، دھیما اور مہذب تھا۔ اسٹیج پر تشریف رکھنے والے تمام اصحاب خصوصی شناخت کے حامل تھے۔ بالخصوص نبیرہ مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد مکرم احمد صاحب، صاحبزادہ محمد مسرور احمد صاحب، جاوید اقبال مظہری صاحب، علامہ رضوان احمد مسعودی صاحب، پیر فضل الرحمٰن مجددی صاحب، محمد عالم مختار حق صاحب اور صوفی غلام سرور صاحب کی نورانی شخصیت نے تو اسٹیج کو سجا دیا تھا۔ جناب جمیل اطہر سرہندی صاحب بھی۔۔۔ اسٹیج پر بیٹھے تھے۔

تلاوت قرآن کے بعد جناب جمیل اطہر سرہندی صاحب کے افتتاحی کلمات سُنے گویا ان کی آواز پُر مٹھاس سے ہم آشنا ہوئے۔ صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد صاحب کا خطاب صفت اناب بھی سُنا۔ جاوید اقبال مظہری صاحب سے امام ربانی فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اور جہان امام ربانی کے بارے میں رضوان احمد خان مسعودی صاحب کا خطاب بھی معلوماتی اور دلچسپ تھا۔ فظ قاری اللہ بخش

صاحب نے جو کلام اقبال سنایا اس نے بھی بہت مسرور اور مسحور کیا۔

مقالہ نگار حضرات میں سے سب سے پہلے سید ریاض الحسن گیلانی صاحب آئے آپ کا خطاب بڑا وقیع اور معلوماتی تھا مگر انہوں نے اپنے خطاب کو ایک تو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ طویل کر دیا جو مجدد الف ثانی سوسائٹی کے قواعد وضوابط کے خلاف تھا۔ دوسرا حضرت مجدد الف ثانی کی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے خدمات نہ ہونے کے برابر بیان کیں، دوم عدالتی پلیٹ فارم پر قادیانیوں کے خلاف اپنی کوششوں کو زیادہ پروجیکٹ کیا۔ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کا خطاب عالمانہ تھا۔ علمی باریکیاں' وضاحتیں' حوالے اور لفاظی' سب قابل تعریف تھا۔ مگر آپ بھی آدھ گھنٹہ سے زیادہ وقت لے گئے۔ ڈاکٹر سلطان شاہ صاحب کا خطاب حاضرین وسامعین کے لیے غیر دلچسپ ہوا ہوگا کیونکہ مختلف مستشرقین کے انگریزی اقتباسات کا اردو ترجمہ بیان کرتے رہے۔ خطاب اگرچہ معلوماتی تھا مگر عوام الناس کی فہم سے بلند تھا۔ ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس کا خطاب بھی ٹھیک تھا مگر حاضرین کی توجہ مکمل طور پر حاصل نہ کر سکا آپ کی یہ بات زیادہ قابل توجہ تھی کہ ایک خطاب وقت کی پابندی پر بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد اسحٰق قریشی صاحب کا خطاب موضوع سے متعلق رہا۔ اگرچہ حوالہ جات کی تعداد کم رہی۔ مولانا صابر حسین شاہ بخاری کا خطاب دراصل ایک انکشاف تھا۔ جو ان سے اس لیے قابل قبول ہے کہ آپ قائداعظمیات کے محقق ہیں۔ مگر دو باتیں محل نظر ہیں۔ قائداعظم کے والدین (آباواجداد) مسلکاً شیعہ تھے اہل تشیع کی حضرت مجدد الف ثانی سے ارادت کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ آپ شیعیت کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ محترم شاہ صاحب نے اس سلسلے میں کوئی تاریخی حوالے پیش نہیں کیے۔ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب کا خطاب معلوماتی بھی تھا اور برمحل بھی۔ پروفیسر محمد اقبال مجددی کا خطاب بڑا معلوماتی تھا اور پُر اثر بھی۔ پروفیسر شبیر حسین شاہ (ناچیز) کا خطاب اگرچہ باربط تھا مگر شاید آیہ ختم نبوت کا آخری حصہ ذہن سے اتر گیا۔ علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب کا خطاب مہمانان گرامی کے شکریہ اور کچھ اپنے موضوع سے متعلق تھا۔ دلچسپی سے سنا گیا۔ پروفیسر قاری مشتاق احمد صاحب کی زیارت پہلی دفعہ ہوئی۔ دعوت نامہ میں آپ کا اسم گرامی سب سے پہلے تھا مگر خطاب سب سے آخر میں ہوا بڑا معلوماتی' علمی' وقیع' دھیما دھیما اور ایک ہی لہجہ۔ مفتی مکرم صاحب کا خطاب بھی پُر اثر اور جامع تھا۔ جمیل اطہر سرہندی صاحب کا ''شکریہ'' بھی خوب تھا اور نقیب محفل کا ''شکریہ'' بھی خوب تھا۔ سب خوب تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ناخوب معلوم ہوا وہ بھی خوب تھا۔

بہت شاندار قسم کا کھانا پیش کیا گیا۔ گرامی ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی طرف سے انسائیکلو پیڈیا کا تحفہ ''واہ بھئی واہ'' ہے۔ جس کا شکریہ اگرچہ میں روایتاً ادا کروں گا مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس تحفے کا شکریہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کانفرنس میں جو کتابیں، کتابچے اور دوسرا مواد مہمانوں کو پیش کیا گیا۔ وہ آپ کی انتظامی قابلیت اور علمی سخاوت کا ثبوت ہے۔ یہ بھی خوب رہا کہ آپ کانفرنس میں اول تا آخر خاموش رہے۔

آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کی کوشش اور محنت قابل تعریف ہے۔ ہال میں رضا کاروں کی خدمات، عزت و احترام اور تعاون سب قابل داد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ (آمین)

(صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی کے نام پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد کے مکتوب محررہ ۲۹ر اپریل ۲۰۰۵ء سے ماخوذ)

☆......☆......☆

اللہ نور السموات والارض

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس

دہلی، بھارت

(۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء)

☆☆

سرزمین دہلی پر پہلی بار

حضرت امام ربانی

مجدد الف ثانیؒ

شیخ احمد فاروقی سرہندی

عالمی کانفرنس

زیر سرپرستی

[illegible]
ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب [illegible]
[illegible] خلیفہ محمد تقی صاحب
سجادہ نشین [illegible]
حضرت [illegible] ابوالحسن شاہ [illegible] فاروقی [illegible]
سجادہ نشین [illegible]

[illegible]

[illegible]
ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب
[illegible] دہلی

مہمانان خصوصی مقررین

حضرت [illegible] عبیداللہ خاں اعظمی (دہلی)
حضرت [illegible] مفتی محمد زبیر صاحب [illegible]
حضرت [illegible]
حضرت [illegible] حسن ثانی نظامی صاحب
[illegible]
حضرت [illegible] مفتی محمد مظفر احمد صاحب
[illegible]
حضرت [illegible] محمد فضل حق صاحب (دہلی)
[illegible] فاروق احمد صدیقی صاحب
[illegible]
جناب [illegible] جاوید اقبال [illegible] صاحب

31/مارچ 2006ء بروز جمعہ بوقت 2:30 بجے دوپہر

بمقام: ایوان غالب، ماتا سندری روڈ، نئی دہلی

زیر صدارت: حضرت مرشد برحق علامہ پروفیسر سید شاہ امین میاں صاحب قبلہ
امین الملت سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ، مارہرہ شریف، یوپی۔

✽ ✽ ✽ مہمانان خصوصی ✽ ✽ ✽

محترم جناب مرزا نواب [illegible] الدین بیگ صاحب
محترم جناب عبدالعزیز صدیقی صاحب سجادہ نشین خانقاہ [illegible] (اندور)
محترم جناب ڈاکٹر محمد حبیب صاحب، سجادہ نشین آستانہ باقی باللہ
محترم جناب ڈاکٹر فقیہ محمد [illegible] صاحب (انگلینڈ)
محترم جناب غلام مصطفے نورا قادری (کشن گنج، بہار)
محترم جناب مولانا محمد آفاق مجددی (قنوج)

محترم شیخ عبدالمجید مجددی، سجادہ نشین خانقاہ معصومیہ (رامپور)
محترم جناب محمد عمر فریدی صاحب، سجادہ نشین ومتولی درگاہ شاہ عبدالسلام (نئی دہلی)
محترم جناب مولانا ابوالسرور محمد مسرور احمد صاحب
محترم جناب پیر طریقت مولانا صوفی عبدالرحمن نقشبندی مجددی (احمد آباد)
محترم جناب مولانا مفتی محمد شعیب رضا صاحب، خلیفہ تاج الشریعہ (بریلی شریف)
محترم جناب پروفیسر ضیاء الدین شمسی تبرانی صاحب، سجادہ نشین وخطیب عیدگاہ (ٹونک)

محترم جناب پیر طریقت اقبال بھائی صاحب، سجادہ نشین خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ (احمد آباد)

نیز ہندوستان کے مشہور ومعروف علماء کرام ومشائخ عظام اور یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے پروفیسر حضرات حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان فرمائیں گے۔ شعراء اور نعت خواں حضرات بھی کلام پیش کریں گے۔ آغاز محفل تلاوت کلام الٰہی سے ہوگا۔ نماز باجماعت کا انتظام ہوگا۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ محفل کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے برہنہ سر نہ رہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر ''انوار مجدد'' مجلہ بھی پیش کیا جائیگا۔

زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر بارگاہ مجدد الف ثانیؒ میں اپنی عقیدت پیش کریں۔

زیر اہتمام: مجددی اکیڈمی انٹرنیشنل دہلی باتعاون نصرت الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی (رجسٹرڈ) دہلی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

روئداد

امام ربانی مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس

(منعقدہ ۳۱/ مارچ ۲۰۰۶ء، ایوان غالب، دہلی)

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات نقشبندیوں ہی کے لیے نہیں وہ قادری، چشتی اور سہروردیوں کے لیے بھی قابل احترام ہیں، حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نقشبندیوں سے پہلے چشتیوں اور قادریوں کے ہیں کیوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے ان سلاسل میں بیعت ہوے پھر بعد میں سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے بیعت کی، ان خیالات کا اظہار امین ملت پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی مدظلہ العالی (مسند نشین خانقاہ قادریہ برکاتیہ، مارہرہ شریف) نے دہلی میں منعقدہ ''امام ربانی مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس'' سے بحیثیت صدر محفل خطاب کرتے ہوے کیا...... یہ کانفرنس المجدد اکیڈمی دہلی اور نصرۃ الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی دہلی کے اشتراک سے ۳۱/ مارچ ۲۰۰۶ء کو ایوان غالب، دہلی میں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی خطیب و امام مسجد فتحپوری، دہلی) کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی، جس میں حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد پاکستان سے بطور مہمان خصوصی شریک تھے...... کانفرنس میں پاک و ہند کے علماء و مشائخ اور دانشوروں نے اپنے مقالات کے ذریعے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کو خراج تحسین پیش کیا۔

سید خالد قیصر فردوسی کی نظامت میں تلاوت قرآن کریم سے کانفرنس کا آغاز ہوا...... مولانا محمد معظم احمد اور مولانا محمد محسن احمد نے سعادت قرأت حاصل کی...... محمد مستقیم احمد اور متین احمد امروہوی نے

ہدیہ نعت اور پروفیسر فاروق احمد صدیقی، پروفیسر عبد الحفیظ کاردار قادری اور متین احمد امروہوی نے نذرانہء مناقب پیش کیے۔

المجدد اکیڈمی کے بانی ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت مسلمانوں کو عطا فرمائی، انھوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات کے ذریعے اسلام کی تبلیغ فرمائی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس سنت کی اتباع میں مکتوبات کے ذریعے تبلیغ و دعوت کا کام کیا، یہ مکتوبات ادب عالیہ کا نمونہ بھی ہیں اور افکار و معارف کا سمندر بھی، یہ مکتوبات علم و معرفت کا عظیم خزانہ ہیں، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے مکتوبات کا مطالعہ نہایت ضروری ہے، انھوں نے المجدد اکیڈمی کی غرض و غایت اور کانفرنس کے مقاصد کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مسعود ملت کی سرپرستی میں کراچی سے شائع ہونے والے انسائیکلوپیڈیا ''جہان امام ربانی'' اور امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے کام کو سراہا نیز دہلی میں ہر سال اسی طرح کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا......

کانفرنس میں مولانا محمد انس مسعودی، ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباحی، ابو السرور محمد مسرور احمد، پروفیسر فاروق احمد صدیقی، خواجہ حسن ثانی نظامی، پروفیسر ضیاء الدین شمسی طہرانی، مولانا محبوب المرسلین وغیرہ نے مقالات پیش کیے چنانچہ مولانا محمد انس مسعودی (فرزند مفتی محمد مکرم احمد) نے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات درگزر کرنے والی تھی جو کہ اسوۂ حسنہ کا نہایت اہم پہلو ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی کی ساری زندگی عفو و درگزر کا درس دیتے گزری آپ کی حیات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار تھی......

ہمدرد یونیورسٹی دہلی میں شعبہء تقابل ادیان کے صدر، ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباحی نے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے ساڑھے چار سو سال قبل اپنے علم و فن کا، اپنے تقویٰ و تدبر کا اور اپنی ہمت مردانہ کا جو نقش باندھا تھا آج اس پر دن بدن نکھار آتا جا رہا ہے:

ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

آج دنیا حضرت امام ربانی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے

جہان امام ربانی کے نام سے جو کام شروع کیا اس کی سات جلدیں شائع ہو کر مزید کام جاری ہے، دہلی میں المجدد اکیڈمی کا قیام اور آج کی یہ کانفرنس بھی اس سلسلے کی کڑی ہے جس پر محترم مفتی محمد مکرم احمد اور ان کے رفقاء قابل مبارکباد ہیں......

جانشین مجدد عصر ابوالسرور محمد مسرور احمد (چیئر مین امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی) نے ''امام ربانی اور فیضان کمالات نبوت'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی ذات تاریخ اسلام میں نہایت ممتاز ہے آپ کے مقامات عالیہ کا ادراک عوام تو عوام اخص الخواص کو بھی ممکن نہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقامات عالیہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میاں شیخ احمد سرہندی ایک ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے بہت سے تارے ان کی روشنی میں گم ہیں، حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مقامات عالیہ کا بطور تحدیث نعمت خود بھی ذکر فرمایا ہے۔ جس کی روشنی میں آپ قرب نبوت اور کمالاتِ نبوت کے فیض سے مستفیض ہوئے اور خوب نوازے گئے، آپ کے حالات وخدمات اور مقامات ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی گیارہ جلدوں میں بھی نہ سما سکے جن کے صفحات کی مجموعی تعداد سات ہزار سے متجاوز ہے اور جسے امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی شائع کر رہی ہے......

پروفیسر فاروق احمد صدیقی (شعبہ اردو، بہار یونیورسٹی، بھارت) نے ''امام ربانی مجدد الف ثانی اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال'' کے عنوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کی امام ربانی سے گہری عقیدت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے بیٹے کی ولادت کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کے دربار میں حاضر ہو کر دعا کی پھر چند سال بعد بیٹے (ڈاکٹر جاوید اقبال) کی ولادت پر بچے کو ساتھ لے کر سرہند شریف حاضر ہوئے، حضرت مجدد کی شان میں ڈاکٹر اقبال کے اشعار سے کون واقف نہیں، انھوں نے حضرت مسعود ملت کی علمی ودینی خدمات کو بھی سراہا اور ان کے زیر سرپرستی تیار ہونے والی ''جہان امام ربانی'' کو خراج تحسین پیش کیا......

خواجہ حسن ثانی نظامی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی شان میں کچھ لب کشائی کرنا میرا کام نہیں البتہ ان کے فیض یافتہ حضرات کے مقام ومرتبہ سے ان کی شان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، آج یورپ، امریکہ اور کردستان وغیرہ میں جن شیوخ کا سلسلہ تیزی سے پھیل رہا ہے ان میں سب کے سب نقشبندی مجددی ہیں اور زیادہ تر کا شجرہ طریقت حضرت شاہ غلام علی دہلوی سے ملتا

ہے، انھوں نے عالمی سطح پر سلسلہ نقشبندیہ کے کام کا جائزہ پیش کیا اور عالمی سطح پر حضرت مسعود ملت کی علمی و دینی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا......

کانفرنس کے مہمان خصوصی، شیخ طریقت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، مجدد عصر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (سرپرست اعلیٰ، امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی) نے حضرت مجدد الف ثانی ان کی اولاد و خلفاء کا دہلی سے تعلق کے حوالے سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ دہلی میں خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ تشریف لائے پھر حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ دہلی تشریف لائے اور دہلی ہی میں سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے، پھر تین چار مرتبہ دہلی تشریف لائے......آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ سفر حج کے لیے نکلے تو دہلی تشریف لائے، یہاں شاہجہاں بادشاہ نے استقبال کیا اور اپنے فرزند اورنگ زیب عالمگیر کو بیعت کرایا......خواجہ محمد معصوم کے فرزند خواجہ سیف الدین، اورنگ زیب عالمگیر کی تربیت کی خاطر شاہجہاں کی درخواست پر دہلی تشریف لائے اور یہاں قیام فرمایا......دہلی میں مرزا مظہر جان جاناں اور ان کے خلیفہ شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی مجددی تھے جن کے خلیفہ شیخ خالد کردی کے ذریعے سلسلہ مجددیہ عرب و عجم میں پھیلا اور ایک بات قابل غور ہے کہ ہندوستان میں تمام سلاسل باہر سے آئے ہندوستان سے باہر نہیں گئے مگر یہ امتیاز سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کو حاصل ہوا کہ برصغیر سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلا، انھوں نے کہا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں اتحاد عالم اسلامی کے لیے رہنمائی ہے، اب رہنمائی حاصل کرنا ہمارا کام ہے اور اسی مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ المجدد اکیڈمی کے بانی ڈاکٹر مفتی مکرم احمد، صدر مفتی محمد معظم احمد اور ان کے تمام معاونین کو جزائے خیر سے نوازے، آمین......

صدر محفل حضرت امین ملت ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی قادری مارہروی (زیب مسند آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، مارہرہ شریف) نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ ہم قادری، چشتی، نقشبندی اور سہروردی بعد میں ہیں اس سے پہلے ہم سب سُنی ہیں اور اس رشتے سے ہم سب ایک ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نقشبندیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ چشتیوں اور قادریوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، حضرت مجدد نقشبندیوں سے پہلے قادریوں اور چشتیوں کے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے ان سلاسل میں بیعت ہوئے پھر بعد میں خواجہ باقی باللہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے......

انھوں نے کہا کہ اولیاء کرام کی طرح حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے پاس اللہ کا رنگ تھا جو انھوں

نے جہانگیر بادشاہ پر چڑھا دیا تو انقلاب آ گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی جو چودھویں صدی کے مجدد ہیں اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی میں یہ قدرے مشترک ہے کہ دونوں عظمت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے سینے ٹھوک کر کھڑے ہو گئے اور دشمنان اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا......قید رہ کر انسان ٹوٹ جاتا ہے مگر حضرت مجدد میں اور پختگی آ گئی، آپ کی قید سے سیکڑوں انسان مشرف باسلام ہوئے ایسی عظیم ہستی کے حوالے سے المجدد اکیڈمی کا قیام اور پھر یہ عظیم الشان کانفرنس ماشاء اللہ، میں حضرت مفتی محمد مکرم احمد اور ان کے رفقاء کو مَنو مَن مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسی کانفرنس بجائے سالانہ، سال میں تین مرتبہ کی جائے، میں اس سلسلے میں خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے انہیں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلاتا ہوں، انھوں نے کہا کہ حضرت مسعود ملت میرے محبوب ہیں انھوں نے دین کا جو کام کیا وہ ہم سب پر احسان ہے اور آج ان کے صاحبزادے میاں مسرور احمد کا مقالہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی...... انھوں نے مکتوبات امام ربانی کا ایک انتخاب ہندی میں ترجمہ کر کے ہندوستان بھر میں پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا اور جہان امام ربانی کے کام کو سراہا......

صدر المجدد اکیڈمی مفتی محمد معظم احمد نے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے تمام مہمانان گرامی اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا......تمام شرکاء میں یادگاری دستی بیگ اور چند بروشر تقسیم کیے گئے اور یوں صلوٰۃ وسلام اور صدر محفل ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی مارہروی کی دعائے خیر پر اس کانفرنس کا اختتام ہوا۔

☆......☆......☆

الحسد یأکل الحسنات
کما تأکل النار الحطب


لا حول ولا قوة إلا بالله

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کشورِ سوم

امامِ علمِ ربانی علیمِ سرِ پنہانی
بیاں کس منہ سے ہو رتبہ مجدد الف ثانی کا
(احمد حسین مجددی)



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

آئینۂ مجدد

حضرت مجدد الف ثانی کے حالات و خدمات پر اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ترکی، سندھی، بنگالی، انڈونیشی، ملائی اور اطالوی زبانوں میں کتابوں کی مختصر فہرست

☆☆

پیش کردہ
شہزاد احمد مسعودی
(بی بی سی......لندن)

Anvar-i Ahmadiyeh.
by Vakil Ahmad Sikandarpuri
Type: Persian : ◆ Book
Publisher Delhi, 1309 [1892]
Anvar-i Amadiyah; Hadyah-i mujaddidiyah
by Ahmad Sikandarpuri
Type: Persian : ◆ Book
Publisher: Dihli : Mạtba Mujtaba-i, [1894?]
.
Hadiyah-i Ahmadiyah : mushtamil bar ansab-i sahibzadagan-i Mujaddidiyah az avan-i Hazrat-i Imam-i Rabbani Mujaddid-i Alf-i Sani...ta in zaman
by Aḥmad Abu al-Khayr Makki
Type: Persian : ◆ Book
Publisher: Kanpur : Mạtba-i Nizami, 1313 [1895 or 1896]
.
Majmuah-yi halat o maqamat-i imam-i rabbani, mujaddid-i alf-i sani Hazrat Ahmad Faruqi Sirhindi
by Muḥammad Abdulaḥad
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Dihli : Matba-i Mujtabai, [19--].
Maqamat-i Imam-i Rabbani Mujaddid-i Alf-i Sani : jismen halat va muqamat hazrat sultan ummat ...
by Muhammad Hasan, Maulana.
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lakhnau : Shahi Pres, 1915.
Imam-i Rabbani Mujaddid-i-Alf-i Thani Shaikh Ahmad Sirhindi's conception of tawhid, or, The Mujaddid's conception of tawhid
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: English : ◆ Book : ▦ Microform
Publisher: Lahore (India) : Sh. Muhammad Ashraf, 1940.
2.
Imam-i Rabbani Mujaddid-i-Alf-i Thani Shaikh Ahmad Sirhindi's conception of tawhid = or, The Mujaddid's conception of tawhid
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: English : ◆ Book
Publisher: Lahore : Sh. Muhammad Ashraf, 1940.
Imam-i Rabbani Mujaddid-i-Alf-i Thani Shaikh Ahmad Sirhindi's conception of tawhid = or, The Mujaddid's conception of tawhid
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: English : ◆ Book
Publisher: Lahore : Sh. Muhammad Ashraf, 1943, 1970 printing.
al-Khutbah ash-shauqiyyah fi [illegible]zratulmujaddidiyyah
by Muḥammad Abdushshakur Faruqi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lakhnau : mdatulmatabi, [195-?]
Vahdet'i suhud-vahdet'i vucud meselesi.

by Cavit Sunar
Type: Turkish : ◆ Book
Publisher: Ankara: [Resimli Posta Matbaası], 1960.
2.
Imam Rabbani-Ibn Arabi vahdet'i suhud-vahdet'i vucud meselesi.
by Cavit Sunar
Type: Turkish : ◆ Book
Publisher: Ankara, Resimli Posta Matbaasi, 1960.
Havarata Mujaddeda Alphechani.
by A F M Abdul Aziz; S A Siddiq Khan
Type: Bengali : ◆ Book
Publisher: [1961-
Anvar-i Ahmadiyah : dar bayan-i halat ... Hazratu Imamu Rabbani Mujaddid-i Alf-i Sani
by Muḥammadu Sulaimanu Ajizu
Type: Sindhi : ◆ Book
Publisher: Ḥaidarabadu, (Pak) : Ar. Ec. Aḥmadu ainḍ Bradars, [1963]
Talimat-i Mujaddidiyyah, Maktubat ki raushni men.
by Malik Ḥasan Ali Jamai Sharqpuri
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Sharqpur [Maghribi Pakistan] Anjuman-i Ishaat al-Tauḥid va as-Sanat [1965]
Shaykh Aḥmad Sirhindi an outline of his thought and a study of his image in the eyes of posterity.
by Yohanan Friedmann
Type: English : ◆ Book : Thesis/dissertation/manuscript : ▤ Microform ▨ Archival Material
Publisher: 1966.
Hazrat Imam-i Rabbani Mujaddid-i Alf-i Sani ka nazriyah-yi tauhid : ma savanih-i hayat
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Labor : Maqbul Akeḍami, 1967.
Zubdat al-maqamat
by Muḥammad Hashim ibn Muḥammad Qasim Badakhshani
Type: Persian : ◆ Book
Publisher: Lahur : Bustan-i Adab, 1969.
2.
Imam Rabbani-Ibn Arabi: Vahdeti-suhud-Vahdeti vucud meselesi.
by Cavit Sunar
Type: Turkish : ◆ Book
Publisher: Ankara, 1960.
Javahir-i Mujaddidiyyah : mazaminah jadidah yaniaksi savanihumari-yi Mujaddid Alf-i Sani ...
by Ahmed Husain Khan
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Muzaffar Nagar : Abdulmjid : milne ka patah, Hashimi Bukḍipo, [197-]

Shaykh Ahmad Sirhindi: an outline of his thought and a study of his image in the eyes of posterity.
by Yohanan Friedmann
Type: English : ◆ Book
Publisher: Montreal, McGill University, Institute of Islamic Studies, 1971.
2.
Hazarat al-quds
by Badr al-Din ibn Muḥammad Ibrahim Sirhindi; Mahbub Ilahi
Type: Persian : ◇ Book
Publisher: Lahur, Maḥkamah-i Awqaf, Panjab, 1971.
.
Hazrat Mujaddid-i Alf-i Sani.
by Syed Zawwar Husain Shah
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Karaci, Idarah-yi Mujaddidiyah, 1972.
Muarrab al-Maktubat al-sharifah al-marsum bi-al-Durar al-maknunat al-nafisah
by Aḥmad Sirhindi; Ḥusayn Dawsari; Muḥammad Anas Murad
Type: Arabic : ◆ Book
Publish ·r: I□stanbul : Enver Baytan Kitabevi, [1973?]
2.
Maktubat-i Imam-i Rabbani ; Hazrat Mujaddid-i Alf-i Sani al-Shaikh Aḥmad Sarhindi
by Aḥmad Sirhindi; Muḥammad Said Aḥmad Naqshabandi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Karaci : Madinah Pablishing Kampani, 1973.
3.
Maslak-i Imam Rabbani : Mujaddid-i Alf-i Sani Hazrat Shaikh Aḥmad Faruqi Naqshabandi Sirhindi qaddasa sirra-hu, maktubat ki raushni men
by Muḥammad Said Aḥmad
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Maktabah-yi Ja□madiyyah, 1973.
Hazrat Imam Rabbani Mujaddid Alf-i Sani ka nazariyyah-yi tauḥid : masavaniḥ-yi ḥayat
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Ainah-yi Adab, 1974.
.
Maktubat-i Mujadid-i Alf-Sani : khulasah maktubat-i Imam Rabani Hazrat Mujadid-i Alf-i Sani Raḥmatullah aliyyah jis men shariat ke anvar, tariqat ke asrar, haqiqat ke bahar, marifat ke asmar hain ...
by Aḥmad Sirhindi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Maktabah-yi Nabviyyah, 1976.
2.
Visal-i Aḥmadi : Imam-i Rabbani Mujaddid Alf-i Sani ke akhiri ayyam ke ḥalat aur karamat ka mustanad majmuah

by Badr al-Din ibn Muḥammad Ibrahim b 1593 or 4 Sirhindi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Siyalkoṭ : Islami Kutub Khanah, [1396 H i. e. 1976]
3.
Sirat-i Mujaddid Alf-i Sani
by Muḥammad Masud Aḥmad
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Karaci : Madinah Pablishing Kampani, 1976.
Imam-i-Rabbani Mujaddid-i-Alf-i-Thani Shaikh Ahmad Sirhindi's conception of tawhid : or, the Mujaddid's conception of tawhid
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: English : ◆ Book
Publisher: Delhi : Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1977.
2.

یاث فلا ددجم ترضح ینابر ماما تابوتکم
Maktubat-i Imam-i Rabbani Hazrat Mujaddid Alf-i Sani
by ادمح یدنهرس، 1563-1624. Aḥmad Sirhindi
Type: Persian : ◆ Book
Publisher: هبتکملا قیشیا، Istanbul, Turkiyah : al-Maktabah Ishiq, 1977-
3.
Tazkirah-yi Imam Rabbani Mujaddid Alf-i Sani
by Muḥammad Manẓur Numani
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Maktabah-yi Sarajiyyah : Musá Zai Sharif, Zila Derah Ismáil Khan, 1977.
4.
Barakat-i Aḥmadiyah : nam-i digar-i Zubdat al-maqamat
by Muḥammad Hashim ibn Muḥammad Qasim Badakhshani; Hu□seyin Hilmi Isık
Type: Persian : ◆ Book
Publisher: Istanbul, Turkyah : Isık Kitabevi, 1977. --
5.
Hazrat Mujaddid aur un ke naqidin
by Shah Abulḥasan Zaid Faruqi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Dihli : Shah Abulkhair Akadmi, 1977.
6.
Ulama-i Hind ka shandar mazi : Hazrat Mujaddid Alf Sani ... ke halat va kamalat aur islahi karname
by Sayyid Muḥammad Miyan
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Maktabah-yi Maḥmud : Milne ke pate, Kutub Khanah Shan-i Islam, 1977-1979.
Ikinci bin yılın yenileyicisi Imam Rabbani Aḥmad Şirhindi : hayatı, eserleri, cocukları, halifeleri
by Muhammed Halim Sarkpuri; Aḥmad Sirhindi
Type: Turkish : ◆ Book

Publisher: Konya : Islami Nesriyat, 1978.
2.
Tajalliyat-i Imam Rabbani : Mujaddid Alf-i Sani ke ... aḥval va maarif par ek taḥqiqi kitab
by Muḥammad Abdulḥakim Akhtar Shahjahanpuri
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Maktabah-yi Nabaviyyah, 1978.
Hazrat Mujaddid Alf-i Sani aur Daktar Muḥammad Iqbal
by Muḥammad Masud Aḥmad
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Siyakoṭ : Islami Kutub Khanah : milne ke pate, Maktabah-yi Numaniyah, 1980
Hazarat al-quds
by Badr al-Din ibn Muḥammad Ibrahim Sirhindi; Muḥammad Ashraf Mujaddidi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Siyalkuṭ : Maktabah-yi Numaniyyah, 1401-1403 [1981-1982]
Hazrat Mujaddid & his critics
by Shah Abulḥasan Zaid Faruqi
Type: English : ◆ Book
Publisher: Lahore : Progressive Books, 1982.
2.
Tazkirah-yi Imam Rabbani Mujaddid-i Alf-i Sani quds sirah
by Muḥammad Manẓur Numani
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lakhnau : Kutub Khanah al-Furqan, 1982.
al-Imam al-Sirhindi : ḥayatuhu wa-amalah
by Abulḥasan Ali Nadvi
Type: Arabic : ◆ Book
Publisher: Kuwayt : Dar al-Qalam, 1983.
Sufism and Shariah : a study of Shaykh Aḥmad Sirhindı's effort to reform Sufism
by Muhammad Abdul Haq Ansari
Type: English : ◆ Book
Publisher: Leicester : Islamic Foundation, ©1986.
al-Shaykh Aḥmad al-Faruqi al-Sirhindi wa-arauhu al-kalamyah wa-al-sufiyah
by Aḥmad Abd al-Wahhab
Type: Arabic : ◆ Book
Publisher: 1988.
Devrimci sufi hareketleri ve Imam-ı Rabbani
by Ibrahim Edhem Bilgin
Type: Turkish : ◆ Book
Publisher: Istanbul : Kultur Basın Yayın Birligi, 1989.
2.
The Mujaddid's conception of tawhid : study of Shaikh Ahmad Sirhindis doctrine of unity
by Burhan Ahmad Faruqi
Type: English : ◆ Book
Publisher: Lahore, Pakistan : Institute of Islamic Culture, 1989.

3.
Mujaddid Alf-i sani ki taḥrik-i iḥya-yi Islam aur salatin-i Mughaliyah
by Abṣar Alam
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Lahaur : Ḥira Pablikeshanz, [1989]

Antara sufisme dan syariah
by Muhammad Abd Haq̣ Ansari; Achmad Nashir Budiman
Type: Indonesian : ◆ Book
Publisher: Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

Follower and heir of the prophet : Shaykh Aḥmad Sirhindi (1564-1624) as mystic
by J G J ter Haar
Type: English : ◆ Book
Publisher: Leiden : Het Oosters Instituut, 1992.
2.
Imam-ı Rabbani ve Islam tasavvufu
by Hayreddin Karaman
Type: Turkish : ◆ Book
Publisher: [Istanbul] : Nesil Yayınları, 1992.
3.
Din ka taṣavvur Ḥazrat Mujaddid ki nigah se : Ḥazrat Mujaddid-i Alif Sani ke makatib ki raushnimen, din va aḥkam-i din ki tabir va tashriḥ, sirat ki tamir, kirdar va amal ki tashkil, sunnat-i Nabavi ki pairavi ke lie bihtarin rah-i amal
by Azuzurraḥman Usmani; Mufti Fuzailurraḥman Hilal Usmani
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Malyarkoṭlah, Panjab : Jamiah Darussalam, 1992.
4.
al-Makatib al-muntakhabah min al-jild al-awwal wa-al-thalith min Maktubat al-Imam al-Rabbani al-Mujaddid lil-Alf al-Thani... –
by Aḥmad Sirhindi
Type: Arabic : ◆ Book : Letter
Publisher: Istanbul, Turkiya : Ihlas Vakfi ; Hakikat Kitabevi, 1992.

Penyelamat kerohanian Islam
by Abulḥasan Ali Nadvi; Daud Hamid.; Hanafi Mohd Nor.
Type: Malay : ◆ Book
Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Penyelamat kerohanian Islam
by Abulḥasan Ali Nadvi; Daud Hamid.; Hanafi Mohd Nor.
Type: Malay : ◆ Book
Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Shaykh Aḥmad Sirhindi : an outline of his thought and a study of his image in the eyes of posterity
by Yohanan Friedmann
Type: English : ◆ Book
Publisher: New Delhi : Oxford University Press, c 2000.

Faharis-i tahlili-i hashtganah-i maktubat-i Aḥmad Sirhindi
by Arthur F Buehler

Type: Persian : ◆ Book
Publisher: Lahur, Pakistan : Iqbal Akadimi, 2001.
2.
Hazrat Mujaddid Alf Ṣani aur un ke mashhur khulfa
by Muḥammad Ḥusain Ṣiddiqi
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Karaci : Zamzam Pablisharz : Digar milne ke pate, Darulishaat, 2001.
Maarif-i maktubat-i Imam-i Rabbani : tafsili fihrist maktubat-i Imam-i Rabbani Mujaddid-i Alif-i Sani
by Muḥammad Naimullah Khayali
Type: Urdu : ◆ Book
Publisher: Dihli : Shah Abulkhair Akaḍmi, 2002.
Il rinnovamento mistico dell'Islam : un commento di Abd al-Gani al-Nabulusi a Aḥmad Sirhindi
by Samuela Pagani
Type: Italian : ◆ Book
Publisher: Napoli : Università degli studi di Napoli L'Orientale, 2003.
The rhetoric of religious revival in 17th century India : a hermeneutical investigation into the life and writings of Shaikh Aḥmad Sirhindi (1564-1624)
by Sherali Tareen
Type: English : ◆ Book : Thesis/dissertation/manuscript : ▦ Microform ■ Archival Material
Publisher: 2005.

كل من عليها فان

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

مآخذ و مراجع جہان امام ربانی

(اردو، عربی، فارسی، انگریزی)

☆☆

محمد عبدالستار طاہر، کمانڈر (ر) محمد ظفر، شاہد احمد
حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ، سمیعہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدهٗ و نصلی علٰی رسوله الکریم

مآخذ و مراجع جہان امام ربانی

(اردو، عربی، فارسی، انگریزی)

صوفی محمد عبدالستار طاہر، کمانڈر محمد ظفر

شاہد احمد، صبا مسعودی، حنا مسعودی

☆☆

کتب:

آ

آبادشاہ پوری: حضرت مجدد الف ثانی کے سیاسی مکتوبات، مطبوعہ مکتبہ چراغ اسلام، لاہور ۱۹۷۷ء

آدم بنوری: خلاصۃ المعارف فی اسرار العقائد، مخطوط انڈیا آفس لائبریری لندن، نمبر ۱۸۹۲، مکتوب ۱۰۳۷ھ/۱۶۲۷ء

آر۔ بی مظہری: جہان مسعود، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۵ء

آرتھر بیولر سالم یوسف، پروفیسر ڈاکٹر: فہارس تحلیلی هشتگانہ مکتوبات احمد سرہندی، مطبوعہ اقبال اکیڈمی پاکستان، لاہور، ۲۰۰۱ء

آل احمد رضوی، سید: عظمتِ رفتہ، سرحد اردو اکیڈمی۔ قلندر آباد ۱۹۹۴ء،

ا

ابراہیم دروبی، شیخ: **شیخ الاسلام سیدنا عبدالقادر الکیلانی واولاده،** مطبوعہ کراچی

ابن ابی العوام: فضائل ابی حنیفہ

ابن ابی الوفاء: **البستان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان**

ابن ابی الوفا: **الدر المنیفہ فی الرد علی ابن شیبہ عن الامام ابی حنیفہ**

ابن ابی شیبہ: مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۸

ابن اسماعیل، ابومحمد عبدالرحمٰن: **کتاب الباعث علی انکار البدع الحوادث**، تحقیق مشہود حسن سلیمان، مطبوعہ دارالسرایہ، الریاض ۱۹۹۰ء

ابن الجوزی سبط: مرأة الزمان فی تاریخ الاعیان ، دائرۃ المعارف عثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۹۵۱ء

ابن الجوزی، امام: العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، جلد اول

ابن الجوزی، امام: الموضوعات

ابن الجوزی، امام: صفة الصفوة ، جلد ۱

ابن الضیاء المکی: مناقب الامام الاغظم ابی حنیفہ

ابن تغری بردی، جمال الدین یوسف: النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر وا لقاہرہ، دارالکتب المصریہ، قاہرہ

ابن تیمیہ: اقتضاء الصراط المستقیم (قلمی)

ابن تیمیہ: نکھری ہوئی توحید (ترجمہ)

ابن حبان، امام: صحیح ابن حبان، جلد ۳

ابن حجر عسقلانی، شہاب الدین احمد بن علی بن محمد: نزهة الخواطر فی توضیح نخبة الفکر ، دہلی ۱۹۴۶ء

ابن حجر مکی، امام: الفتاوی الحدیثیہ

ابن حجر، علامہ: لسان المیزان

ابن سعد، علامہ: طبقات ابن سعد، جلد ششم، مطبوعہ مصر

ابن شیبہ، ابی بکر، قاضی: طبقات الشافعیة الکبریٰ، طبع عبدالعلیم خان، حیدرآباد دکن ۱۹۷۹ء

ابن عابدین دمشقی، علامہ: رسالة الفوائد العجیبہ، مطبوعہ مکہ مکرمہ

ابن عابدین شامی، علامہ: رد المحتار

ابن عابدین شامی، علامہ: سل الحسام الهندی لنصرة مولانا خالد النقشبندی

ابن عبدالبر، علامہ: جامع بیان القلم، جلد اول

ابن عربی، شیخ: الفتوحات المکیہ

ابن عطاء سکندری: شرح الحکم

ابن قیم، ابوعبداللہ محمد بن ابی بکر: زاد المعاد، جلد اول تحقیق شعیب الارنوؤط، موسسة الرسالة، بیروت ۱۹۹۶ء

ابن ماجہ: سنن ابن ماجہ، جلد اول دوم

ابن نجیم، زین الدین: البحر الرائق، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی

ابن وضاح القرطبی، محمد: البدع والنهی عنها، تحقیق محمد احمد، مطبوعہ دار الصفاء، القاہرہ ۱۹۹۰ء

ابن یحییٰ منیری، شیخ: سہ صدی مکتوبات

ابواشرف مجددی، محمد: آفتاب شرف۔ مطبوعہ کلکتہ ۱۹۳۲ء

ابوالاعلیٰ مودودی: تجدید و احیائے دین، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۹۸ء

ابوالحسن زید فاروقی و ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کلیاتِ باقی، ملک دین محمد اینڈ سنز۔ لاہور

ابوالحسن زید فاروقی: حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، مطبوعہ استانبول

ابوالحسن زید فاروقی: مقاماتِ خیر، دہلی ۱۹۸۹ء

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا برہان احمد فاروقی، ڈاکٹر: کلیات باقی باللہ، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۸ء

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا: القول السنی فی الذب عن الشیخ عبدالغنی (۱۳۶۰ھ)

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا: المجموعۃ السنیہ، دہلی ۱۹۸۳ء

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا: حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، مطبوعہ دہلی۔ ۱۹۷۷ء

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا: سوانح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ، مطبوعہ لاہور

ابوالحسن زید فاروقی، مولانا: وحدۃ الوجود، مطبوعہ دہلی ۱۹۷۱ء

ابوالحسن علی ندوی: تاریخ دعوت و عزیمت جلد چہارم، مطبوعہ کراچی۔

ابوالحسن ندوی، شیخ: سیرت سید احمد شہید، مجلس نشریات اسلام، کراچی، ۱۹۸۷ء

ابوالخیر مکی: ہدیہ احمدیہ مطبوعہ کانپور ۱۳۱۳ھ

ابوالسرور محمد مسرور احمد: امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ، مطبوعہ کراچی

ابوالفداء ابن کثیر: البدایہ و النہایہ، مطبوعہ محمد سعید زغلول، دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان ۱۹۸۷ء

ابوالفضل جمال الدین محمد مصری: لسان العرب، مطبوعہ ایران ۱۴۰۵ھ

ابوالفضل: اکبرنامہ، مطبوعہ لکھنؤ ۱۲۸۲ھ/ ۱۸۶۵ء

ابوالفضل: آئین اکبری (مترجم اردو: مولوی محمد فدا علی طالب) سنگ میل پبلی کیشنز۔ لاہور

ابوالقاسم محمد عتیق: حرمت سود

ابوالکلام آزاد: تذکرہ، مرتبہ فضل الدین احمد مرزا، مطبوعہ البلاغ پریس، کلکتہ ۱۹۱۹ء، مرتبہ مالک رام، ساہتیہ اکادمی، دہلی ۱۹۹۰ء

ابوالکلام آزاد، مولانا: غبار خاطر (مرتبہ: مالک رام) ساہتیہ اکادمی، دہلی ۱۹۸۳ء

ابوالکلام آزاد: رسالہ فی تائید رفع سبابہ، مطبع خادم الاسلام، دہلی ۱۳۰۹ء

ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر: اقبال اور مسلک تصوف، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، پاکستان لاہور، ۱۹۷۷ء

ابوالمکارم، مولانا: رسالہ (۱۳۰۹ھ) مطبع خادم الااسلام۔ دہلی

ابوالنصر عبداللہ بن علی سراج طوسی: کتاب اللمع فی التصوف

ابوبکراحمد بن حسین بیہقی: شعب الایمان، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت لبنان ۱۹۹۰ء

ابوبکراحمد بن حسین بیہقی: کتاب الزهد

ابوبکرمحمد بن احمد السرخسی: اصول السرخسی، مطبوعه دار المعرفة، بیروت (تحقیق ابوا لوفا الافغانی)

ابوبکرصدیق، پروفیسرڈاکٹر: Shaykh Ahmad Sirhindi & his Reforms, 1986 مقالۂ ڈاکٹریٹ (ڈھاکہ یونیورسٹی، ڈھاکہ، بنگلہ دیش)

ابوسعید شاہ: ہدایت الطالبین، (مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں) مطبوعہ ۱۹۵۴ء

ابوسعید نورالدین، ڈاکٹر: اسلامی تصوف اور اقبال، مطبوعہ اقبال اکیڈمی پاکستان، کراچی ۱۹۵۹ء

ابوسہل محمد السہر وردی: التلویح فی شرح الفصیح

ابوشجاع دیلمی، امام: فردوس الاخبار

ابوطالب مکی، امام: قوت القلوب، جلد۲

ابوطاہر بن کمال ملتانی: عمدۃ الاسلام

ابوظفرندوی، مولانا: تاریخ سندھ، اعظم گڑھ ۱۹۴۷ء

ابوظفرندوی، سید: تاریخِ سندھ، کراچی ۱۹۸۹ء

ابوعبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی: الجامع الاحکام القر آن (داراحیاء التراث العربی، بیروت لبنان)

ابوعبداللہ مکحول بن عبداللہ الشامی: المسائل فی الفقه

ابوعلی حسن بن علی مکی عجمی: العصب الهندی لاستیصال كفريات احمد السرهندی، ۱۰۹۳ھ

ابویعلیٰ موصلی امام: مسند ابویعلیٰ موصلی،

ابومحمد روز بہان: شرح الحجب والأستار

ابومحمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان: ابوالشیخ الاصبہانی، جلد اول، مطبوعہ الریاض ۱۴۰۸ھ

ابومحمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان: کتاب الأمثال فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطبوعہ الدار السلفیہ، مومبائی ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء

ابونعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی، امام حافظ: طبقات الاصفیاء

ابونعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی، امام حافظ: حلیۃ الاولیاء. جلد۱

ابی بکر قاضی ابن شہید: طبقات الشافعیہ، مطبوعہ عبدالعلیم خان، حیدرآباد دکن، ۱۹۷۹ء

احسان اللہ گورکھپوری، علامہ: سوانح مجدّد الف ثانی، مطبوعہ رام پور، ۱۹۲۶ء

احمد ارشاد، شیخ: بلاسود بینکاری

احمد البشیشی مصری شافعی، علامہ شیخ: رسالہ فی تائید حضرت مجدّد الف ثانی

احمد امین صالح مرشد: طیبۃ و ذکریات الاحبۃ مطبع دار البلاد جدہ طبع دوم ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ء

احمد بن حجر مکی: الخیرات الحسان

احمد بن حسین کاتب: تاریخ جدید یزد، طبع ایرج افشار، تہران ۱۳۴۵ھ

احمد بن حنبل، امام: مسند احمد بن حنبل، جلد اول، دوم

احمد بن حنبل، امام: کتاب الزہد

احمد بن شعیب نسائی: عمل الیوم واللیلۃ (تحقیق دکتور فاروق حماد)، موسسۃ الرسالہ بیروت ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷ء

احمد بن علی خطیب بغدادی، حافظ: تاریخ بغداد، جلد نمبر ۲۲

احمد بن محمد حضراوی مکی، شیخ: القبول فی فضائل المدینہ

احمد بن محمد حضراوی مکی، شیخ: زیارۃ الرسول

احمد بن محمد حضراوی مکی، شیخ: نزھۃ الفکر، فیما مضیٰ من الحوادث والعبر فی تراجم رجال القرن الثانی عشر والثالث عشر، تحقیق محمد مصری، طبع اوّل ۱۹۹۶ء، وزارت ثقافت، دمشق

احمد بن محمد حضراوی مکی، شیخ: نفحات الرضا

احمد بن مصطفیٰ طاش کبری زادہ: شرح المقدمۃ الجزریہ، مطبوعہ مطبع میریہ، مکہ مکرمہ

احمد بن مصطفیٰ طاش کبری زادہ: مفتاح السعادۃ، مطبوعہ دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد دکن ۱۹۸۵ء

احمد حسن الحسنی: فیوضاتِ حسنیہ مطبوعہ لیہ۔ (پنجاب)

احمد حسن دہلوی، شیخ: تنقیح الرواۃ فی تخریج احادیث مشکوٰۃ، المجلس العلمی السّلفی، لاہور

احمد حسین خان، خواجہ؛ جواہر مجددیہ، ادارہ مسعودیہ، کراچی

احمد حسین خاں، خواجہ: جواہر مجددیہ، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ کراچی ۲۰۰۲ء

احمد حسین، خواجہ: جواہر معصومیہ، مشہور عام پریس۔ لاہور

احمد حسین، مولانا: حضرات القدس (ترجمہ) مطبوعہ لاہور ۱۳۴۳ھ

احمد خان، ڈاکٹر: معجم المطبوعات العربیہ فی شبہ القارۃ الھندیہ الباکستانیہ، مطبوعہ ریاض، ۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰ء

احمد دحلان، علامہ: اسنی المطالب فی نجاۃ ابی طالب

احمد رضا خاں بریلوی: اطائب التہانی فی مجدد الف ثانی (قلمی) مؤلفہ ۱۳۰۲ھ/۱۹۰۷ء

احمد رضا خاں، امام: حدائق بخشش: مطبوعہ کراچی

احمد رضا خاں، امام: ابریق المنار بشموع المزار (۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۲ء)

احمد رضا خاں، امام: اعز الاکتناہ فی رد صدقۃ مانع الزکوۃ (۱۳۰۹ھ/ ۱۸۹۱ء) بریلی شریف

احمد رضا خاں، امام: الحجۃ الفائحہ لطیب التعین و الفاتحہ (۱۳۰۷ھ/ ۱۸۸۹ء)

احمد رضا خاں، امام: الدولۃ المکیہ مطبوعہ کراچی

احمد رضا خاں، امام: الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجود التحیہ، بریلی شریف

احمد رضا خاں، امام: الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ (۱۳۱۲ھ) مطبوعہ کلکتہ ۱۳۳۴ھ/ ۱۹۱۵ء

احمد رضا خاں، امام: الہاد الکاف فی حکم الضعاف (۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۵ء) مطبوعہ لاہور

احمد رضا خاں، امام: انوار الاقمار من یم صلوٰۃ الاسرار (۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۷ء) مطبوعہ بریلی

احمد رضا خاں، امام: تمہید ایمان مع حسام الحرمین، مطبوعہ مکتبہ نبویہ، لاہور

احمد رضا خاں، امام: جلی الصوت لنہی الدعوت امام الموت، بریلی شریف

احمد رضا خاں، امام: جمل النور فی نہی النساء عن زیارۃ القبور، بریلی شریف

احمد رضا خاں، امام: حسام الحرمین، مطبوعہ مکتبہ نبویہ، لاہور

احمد رضا خاں، امام: رسائل رضویہ، مکتبہ حامدیہ، لاہور ۱۹۸۸ء

احمد رضا خاں، امام: شفاء الوالہ فی صور الحبیب مزارہ و نعالہ (۱۳۱۵ھ/ ۱۸۹۷ء)

احمد رضا خاں، امام: صلاۃ الصفاء فی نور المصطفیٰ، گوجرانوالہ ۱۹۸۲ء

احمد رضا خاں، امام: فتاوٰی رضویہ، جدید ایڈیشن (تخریج شدہ) مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور

احمد رضا خاں، امام: مروج النجاء لخروج النساء، بریلی شریف

احمد رضا خاں، امام: مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹ء مطبوعہ بزم قاسمی، کراچی

احمد رضا خاں، امام: ملفوظات، مطبوعہ فرید بک اسٹال، لاہور

احمد رضا خاں، امام: مواہب ارواح القدس لکشف حکم العرس (۱۳۲۴ھ/ ۱۹۰۶ء)

احمد رضا خاں، امام: ہادی الناس فی رسوم الاعراس (۱۳۱۲ھ/ ۱۸۹۴ء) لاہور

احمد سرہندی، شیخ: اثبات النبوۃ (اردو) ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں، مطبوعہ ادارۂ مجددیہ کراچی ۱۹۸۴ء

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ اثبات النبوۃ، مطبوعہ کراچی، ۱۳۸۳ھ/ ۱۹۶۳ء

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ تعیین ولاتعیین

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ تہلیلیہ، مطبوعہ کراچی، ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۶۵ء

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ جذب و سلوک

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ دررد شیعہ، مطبوعہ رام پور، ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ در مسئلہ وحدۃ الوجود

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ رد روافض مطبوعہ رام پور ۱۳۸۵ھ/ ۱۹۶۵ء

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ علم حدیث

احمد سرہندی، شیخ: رسالہ مقصود الصالحین

احمد سرہندی، شیخ: شرح رباعیات خواجہ بیرنگ، مطبوعہ کراچی، ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء

احمد سرہندی، شیخ: مبداء و معاد، مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء

احمد سرہندی، شیخ: معارف لدنیہ، مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء

احمد سرہندی، شیخ: مکاشفات غیبیہ، مطبوعہ ادارہ مجددیہ کراچی، ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء

احمد سرہندی، شیخ: مکتوبات شریف جلد اول ''در المعرفت'' مرتبہ خواجہ یار محمد، (۱۰۲۶ھ)

☆ مطبوعہ مطبع احمدی، دہلی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء

☆ مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء

احمد سرہندی، شیخ: مکتوبات شریف جلد دوم ''نور الخلائق'' مرتبہ خواجہ عبدالحیٔ (۱۰۲۸ھ)

☆ مطبوعہ مطبع احمدی، دہلی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء

☆ مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء

احمد سرہندی، شیخ: مکتوبات شریف جلد سوم ''معرفۃ الخلائق''، مرتبہ خواجہ محمد ہاشم کشمی برہانپوری ۱۰۳۱ھ

☆ مطبوعہ مطبع احمدی، دہلی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء

☆ مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء

احمد سرہندی، شیخ: مکتوبات شریف مطبوعہ باہتمام لالہ اسرار محمد خاں، گارڈن ویسٹ کراچی ۱۹۷۲ء

احمد سرہندی، شیخ: مکتوبات شریف، جلد اول، دوم، سوم (مترجم)

☆ سید زوار حسین شاہ، مطبوعہ کراچی، ۱۹۸۸ء-۱۹۹۳ء

☆ قاضی عالم الدین نقشبندی، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء

☆ مولانا محمد سعید نقشبندی، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی ۱۹۷۲ء

☆ مولوی عبدالرحیم، مطبوعہ روز بازار اسٹیم پریس، امرتسر ۱۳۳۰ھ

احمد سرہندی، شیخ: آداب المریدین

احمد سرہندی، شیخ: المکتوبات الربانیۃ (۳ مجلدات) دار الکتب علمیہ، بیروت ۲۰۰۴ء

احمد سرہندی، شیخ: المکنونات النفیسہ (تین مجلدات)، مطبعۃ الامیریہ، مکہ مکرمہ ۱۸۹۹ء

احمد سعید خازن دار: فہرس المخطوطات العربیہ المصورہ الموجودہ بمکتبۃ المخطوطات بجامعۃ الکویت، مطبوعہ جامعہ کویت، ۱۹۸۹ء

احمد سعید دہلوی، شاہ: تحقیق الحق المبین، مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۶ء

احمد سعید دہلوی، شاہ: سعید البیان، مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۹ء

احمد سعید شاہ: تحفۂ زواریہ مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۳ء

احمد شاہ رضوانی، میر: تحفۃ الاولیاء، ۱۳۲۱ھ مفید عام پریس۔ لاہور

احمد شہاب الدین ابن حجر الہیتمی: الفتاویٰ الحدیثیہ، مطبوعہ نور محمد کتب خانہ، کراچی

احمد طاہری عراقی: انیس الطالبین وعدۃ السالکین، نقل از قدسیہ، مقدمہ وتصحیح، مطبوعہ کتاب خانہ ظہوری

احمد عبد القادر قرشی: الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، دائرۃ المعارف عثمانیہ، حیدر آباد دکن ۱۳۳۲ھ

احمد علاونہ: ذیل الاعلام، مطبوعہ دار المنارہ، جدہ، ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۸ء

احمد علی شاہ نقشبندی، سید: مسئلۃ الاشارہ بالسبابہ فی التشہد فی الصلوٰۃ، مکتبہ فیض نقشبندیہ سیفیہ کراچی ۱۹۹۷ء

احمد علی شاہ، سید: مسئلۃ الاشارہ بالسبابہ۔ مکتبہ فیضِ نقشبندیہ۔ کراچی

احمد فردولی، علامہ، منح المعانی

احمد مکی، شیخ: ہدیۂ احمدیہ، مطبع انتظامی، کانپور

احمد ملاجیون: نور الانوار، مطبوعہ نور محمد کتب خانہ، کراچی

احمد، ذہبی: مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ

احمد النقشبندی الفاروقی: مکاتیب قدسیہ، عربی ترجمہ الشیخ یونس النقشبندی، "تعریب المکتوبات الصوفیہ"

اخبار طلال عطیہ: اخبار البلاد، جدہ

اختر راہی، پروفیسر: تذکرہ علمائے پنجاب، لاہور ۱۹۸۶ء

اختر حسین علی پوری، سید: سیرت امیر ملت، علی پور سیداں سیالکوٹ ۱۹۷۵ء

اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلد دوم، ناشر شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ۱۹۸۸ء

ارشاد الحق اثری: توضیح الکلام، مطبوعہ ادارۂ علوم اثریہ، فیصل آباد، ۱۹۸۷ء

ارِدل خٹک، پروفیسر: پشتو شاعری، (اکادمی ادبیات پاکستان) اسلام آباد۔ ۱۹۸۷ء

اسمٰعیل بن حماد الجوہری: الصحاح، مطبوعہ بیروت، ۱۹۵۶ء

اسمٰعیل حقی المناستری: مواھب الرحمٰن فی مناقب الامام ابی حنیفۃ النعمان،

اشرف خان ایم۔ اے: مولانا شاہ آل محی الدین ھادی نقشبندی

اشرف جہاں گیر سمنانی: شیخ: لطائف اشرفی

اطہر عباس رضوی ڈاکٹر: شمال ہند میں سولھویں اور سترھویں صدی عیسوی میں مسلم تجدیدی تحریکیں (انگریزی) مطبوعہ آگرہ۔ یونیورسٹی ۱۹۶۶ء

اعجاز انجم لطیفی ڈاکٹر: ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی ادبی، دینی وعلمی خدمات (مقالہ ڈاکٹریٹ، بہار یونیورسٹی، بھارت) مطبوعہ کراچی ۲۰۰۲ء

اعجاز حسن قریشی، ڈاکٹر: شجرہ عالیہ سلسلہ نقشبندیہ ورابطہ بہ سلاسل دیگر، مطبوعہ لاہور

اعزاز الدین احمد، منشی محمد: ارتحال مجددی، مکتبہ امجد علی، مراد آباد

افروغ احسن، حافظ: حضور جی، لاہور ۱۹۹۱ء

افضل جالندھر، ڈاکٹر محمد: مطبوعہ لاہور ۱۹۴۶ء

اقبال احمد اختر القادری: امام ربانی، مطبوعہ کراچی ۲۰۰۳ء

اقبال احمد اختر القادری، ڈاکٹر: امام ربانی کی تحریک اصلاح تصوف، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۳ء

اقبال احمد فاروقی: تذکرہ علمائے اہل سنت وجماعت لاہور، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۵ء

اقبال احمد فاروقی، پیرزادہ: رسائل نقشبندیہ، مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ۔ لاہور

اکبر حسین قریشی، ڈاکٹر: مطالعہ تلمیحات واشارات اقبال، مطبوعہ اقبال اکیڈمی لاہور، ۱۹۷۶ء

اکرام شیخ محمد: روضہ کوثر، کراچی

الانوار القدسیہ فی مناقب سادات النقشبندیہ مطبوعہ مصر

البنانی: حاشیہ البنانی علیٰ جمع الجوامع' مطبوعہ مطبع اصح المطابع، بمبئی

اللہ بخش عباسی، مخدوم: تذکرہ مخادیم کھڑہ (قلمی)

المولیٰ اسمٰعیل الحقی: تفسیر روح البیان، مطبوعہ مصر ۱۲۵۵ء

الواعظ البغدادی: المطالب المنیفۃ فی الذب عن الامام ابی حنیفہ

الیاس انطون الیاس: القاموس المدرسی، مطبوعہ دار الاشاعت، کراچی ۱۹۴۷ء

امام الدین کھوتکوی: تذکرہ اعلیٰ حضرت للّٰہی، لاہور ۱۹۸۶ء

امام بخش بن پیر بخش حدیقۃ الاسرار فی اخبار الابرار

امام مناوی: فیض القدیر

امیر حسن علا سجزی دہلوی: فوائد الفواد

امیر خسرو: افضل الفوائد

انارت الاشارہ ۱۳۱۰ھ مطبع محمدی۔ لاہور

انصار محمد، ڈاکٹر: مکتوبات امام ربانی کی تاریخی تعیین (مقالہ ڈاکٹریٹ، سندھ یونیورسٹی ۱۹۹۳ء)

انعام الحق کوثر، ڈاکٹر: بلوچستان میں تحریک تصوف، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۰ء

انعام الحق کوثر، ڈاکٹر: تذکرہ صوفیائے بلوچستان، لاہور۔ ۱۹۷۴ء

انور اقبال قریشی، ڈاکٹر: اسلام اور سود

انور علی شاہ: سلوک مجددی کی خصوصیات، لاہور ۱۹۵۲ء

اوجِ نعت نمبر: جلد اول

اوسپنسکی: ٹرٹیم اورگنم

اوسپنسکی: چوتھا راستہ

اوسپنسکی: معجزے کی تلاش میں

اوشا سانیال ڈاکٹر: سُنی اسلام اور احمد رضا خاں بریلوی (انگریزی) مطبوعہ دہلی ۱۹۹۴ء

اویس بن عبداللہ المجتبی الحسینی: الاشارۃ السنیہ لسالکی الطریقۃ النقشبندیہ، دار المصطفی

ایم زمان کھوکھر: پشاور سے کوئٹہ تک ۲۰۰۳ء یاسر اکیڈمی، گجرات (پنجاب)

اے۔ جی ھسنگز: تاریخ پشاور، زیر اہتمام رائے بہادر منشی گوپال داس اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر

ب

باقی باللہ دہلوی و میر محمد نعمان: رسالہ سُلوک و مشائخ طرقِ اربعہ۔ مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں مطبوعہ ۱۹۶۹ء

باقی باللہ، خواجہ: رسالہ سلسلۃ الاحرر

باقیات باقی: مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، مطبوعہ ۱۹۹۰ء

بخاری، امام: التاریخ الکبیر، جلد ۸

بدرالدین سرہندی حضرات القُدس (حصہ اول) مترجم محمد اشرف مجددی سیالکوٹ۔ ۱۹۸۱ء

بدرالدین سرہندی حضرات القُدس (حصہ دوم) مترجم: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سیالکوٹ۔ ۱۹۸۳ء

بدرالدین سرہندی: حضرات القدس، (تحقیق و تصحیح مولانا محبوب الٰہی) محکمہ اوقاف پنجاب لاہور ۱۹۷۱ء

بدرالدین سرہندی: حضرات القدس (مترجم ڈاکٹر مصطفیٰ خاں)، قومی ہجرہ کونسل پاکستان، اسلام آباد ۱۴۰۴ھ

بدرالدین سرہندی، شیخ: حضرات القدس، مطبوعہ لاہور ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء، مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ سیالکوٹ ۱۴۰۳ھ

بدرالدین سرہندی، شیخ: درجات الابرار

بدرالدین سرہندی، شیخ: روائح

بدرالدین سرہندی، شیخ: سیر احمدی

بدرالدین سرہندی، شیخ: فتوح الغیب

بدرالدین سرہندی، شیخ: کرامات اولیاء

بدرالدین سرہندی، شیخ: مجمع الاولیاء (۱۰۴۳ھ/۱۶۳۴ء) مخطوطہ نمبر ۱۶۴۵، انڈیا آفس لائبریری، لندن

بدرالدین سرہندی، شیخ: وصال احمدی، (مترجم اعزاز الدین احمد) حیدرآباد سندھ ۱۳۸۸ھ، مکتبہ نعمانیہ، سالکوٹ
۱۳۹۷ھ

بدرالدین، سرہندی: حضرات القدس (قلمی) مخزونہ کتب خانہ شاہ ابوالخیر دہلی، مکتوبہ ۱۱۵۰ھ

بدرالدین۔ سرہندی: وصال احمدی، ترجمہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۸ء۔ سیالکوٹ

بدعت الاربعین (ترجمہ اردو۔ سید محمد ایوب بُخاری) ۲۰۰۰ء۔ اٹک

بدعت الاربعین، شائع کردہ سید محمد ایوب بخاری ۱۹۹۱ء، اٹک

برہان الدین علی المرغینانی: **الهدایه فی الفروع الحنفیه**

بزم اقبال: منشورات اقبال، مطبوعہ بزم اقبال لاہور، ۱۹۸۸ء

بزم صُوفیہ

بزاز، امام: کشف الاستار عن زوائد البزار، جلد ۴

بشیر احمد ڈار: انوار اقبال، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، لاہور، ۱۹۷۷ء

بشیر احمد سعدی، سید: دس ولی، مطبوعہ لاہور

بشیر احمد نقشبندی: تذکرہ پیران زکوڑی شریف، مطبوعہ زکوڑی شریف ڈیرہ اسماعیل خاں ۱۹۸۲ء

بشیر الدین احمد: واقعات دار الحکومت دہلی، شمسی پریس آ ۱۹۱۹ء

بغوی، امام: شرح السنۃ

بقا محمد قریشی، مولانا: تحفہ سلطانیہ، مطبوعہ اگہار، کوٹلی آزاد کشمیر ۱۹۹۳ء

بلوچ خان، میر: فردوس العارفین (قلمی) مؤلفہ ۱۲۰۱ھ/۱۷۸۶ء

بیہقی، امام: الزھد الکبیر

بیہقی، امام: شعب الایمان، جلد ۴

پائندہ محمد، صوفی: مجمع البحرین، مرتبہ: ڈاکٹر غلام علی مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۵ء حیدرآباد سندھ

ت

تاریخِ مشائخ چشت
تحفۂ زاہدیہ، زوار اکیڈمی، کراچی ۱۴۲۰ھ
تذکرہ پیر سباگ وساداتِ پیر سباگ
تفتازانی، علامہ: شرح التعرف
تقی الدین احمد مقریزی: کتاب السلوک معرفة دول الملوک، مطبوعہ محمد مصطفیٰ زبادة، دارالکتب المصریہ، قاہرہ، ۱۹۳۴ء
تواریخ مجمع الانساب (قلمی) کتب خانہ راجہ نور محمد نظامی، بھوئی گاڑ، (ضلع اٹک)
تورپشتی، امام: المعتمد فی المعتقد، مطبوعہ استانبول ترکی، ۱۹۹۰ء
تورپشتی، امام: المیسر شرح مصابیح السنة
تورپشتی، امام: تحفة السالکین
تورپشتی، امام: تحفة المرشدین
تورپشتی، امام: مطلب المناسک فی علم المناسک

ث

ثروتِ صولت: ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، مطبوعہ اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۲ء
ثناءاللہ پانی پتی قاضی، ارشادالطالبین، مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۱ھ
ثناءاللہ پانی پتی، قاضی: تفسیر مظہری جلد اول، چہارم، پنجم، ششم مطبوعہ بیروت
ثناءاللہ پانی پتی، قاضی: ارشاد الطالبین، مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء
ثناءاللہ پانی پتی، قاضی: رسالہ احقاق
ثناءاللہ پانی پتی، قاضی: رسالہ در جواب شبہات بر کلام امام ربانی
ثناءاللہ پانی پتی، قاضی: مالابُدّ منہ

ج

جامی، مولانا: لوائح
جامی، مولانا: نفحات الانس، مطبوعہ کتاب فروشی محمودی، تہران (مصحح مہدی توحیدی پور)
جاوید اقبال مظہری، مولانا: وصال مجدد الف ثانی، مطبوعہ کراچی ۲۰۰۲ء
جاوید اقبال مظہری، مولانا: آفتاب ولایت، مطبوعہ مظہری پبلی کیشنز کراچی ۲۰۰۲ء

جاوید اقبال، ڈاکٹر: افکار اقبال (تشریحات جاوید) مطبوعہ اقبال اکیڈمی، لاہور ۱۹۹۴ء
جاوید اقبال، ڈاکٹر: زندہ رود، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۸۵ء
جعفر برزنجی، علامہ: مولود نامہ
جعفر بلوچ، پروفیسر: اقبالیات اسد ملتانی، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، لاہور ۱۹۸۴ء
جعفر شاہ پھلواری، مولانا: انٹرنیٹ کی فنی حیثیت
جعفر علی فرید، مولوی: مکتوبات عالیہ، کراچی ۱۹۸۵ء
جلال الدین سیوطی، علامہ: التعقبات علی الموضوعات
جلال الدین سیوطی، علامہ: الجامع الصغیر، جلد ۲
جلال الدین سیوطی، علامہ: اللآلی المصنوعة، جلد اول
جلال الدین رومی، مولانا: فیہ مافیہ، مطبوعہ تہران ۱۹۲۸ء
جلال الدین رومی، مولانا: مثنوی مولوی معنوی، مترجم قاضی سجاد حسین، مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی، لاہور
جلال الدین سیوطی، علامہ: الدرر المنتشرہ
جلال الدین سیوطی: جمع الجوامع
جلال الدین سیوطی، امام: الدر المنثرہ
جلال الدین سیوطی، امام: تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، مطبوعہ لاہور
جلال الدین سیوطی، امام: جمع الجوامع، جلد دوم (اردو) مطبوعہ لاہور ۱۴۰۳ھ
جلال الدین سیوطی، امام: متشابہ القرآن
جلال الدین قادری، علامہ: حضرت مجدد الف ثانی اور ان کا مقام تجدید، مطبوعہ ادارہ مظہر علم لاہور
جلال الدین قادری، مولانا: حضرت مجدد الف ثانی اور ان کا مقام تجدید، مطبوعہ ادارہ مظہر علم، لاہور
جمال الدین یوسف: النجوم الزاہرة، مطبوعہ دار الکتب المصریہ، قاہرہ
جمال محمد صدیقی ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی اور مارکسی مؤرخین
جمال محمد صدیقی ڈاکٹر: مغل ہندوستان کا طریق زراعت (اردو ترجمہ) ترقی اردو بورڈ دہلی ۱۹۷۷ء
جمیل احمد شرقپوری، میاں: ارشادات مجدد الف ثانی، شرقپور شریف
جمیل اطہر سرہندی: شیخ سرہندی، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۹ء
جنید شیرازی، معین الدین ابو القاسم: شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار، طبع محمد قزوینی و عباس اقبال، تہران
جہانگیر بادشاہ: تزکِ جہانگیری، (ترجمہ اردو) مطبوعہ لاہور ۱۹۶۰ء

ح

حافظ محمد رانجھا: ذکر العارفین، مطبوعہ گجرات
حاجی بہادر کوہاٹی: شرحِ مشکوٰۃ (قلمی) کتب خانہ ڈاکٹر عبدالقادر سلطان، پشاور
حاجی خلیفہ: کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۹۹۴ء مطبوعہ محمد شرف الدین، بغداد، مکتبہ المثنی (مسنون)

حازم محفوظ مصری، ڈاکٹر: بساتین الغفران، مطبوعہ لاہور، کراچی
حازم محفوظ مصری، ڈاکٹر: امام احمد رضا والعالم العربی، مطبوعہ قاہرہ
حافظ الدین الخوارزمی: مناقب الامام ابی حنیفہ
حامد علی خاں، مولانا: تذکرۃ المشائخ، مطبوعہ ملتان ۱۹۶۸ء
حامد رضا خاں: سلامۃ اللہ لاہل السنۃ من سبیل العناد فی الفتنہ (۱۳۳۲ھ/ ۱۹۱۳ء) مطبوعہ بریلی
حبیب الرحمٰن خاں شیروانی: قرۃ العین، مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۳ء
حجۃ اللہ نقشبندی: وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول
حسن بصری، خواجہ: رسالۃ فی فضل مکۃ
حسن بن شیخ مرادمکی، علامہ شیخ: العرف الندی فی نصرہ الشیخ احمد سرہندی
حسن رضا اعظمی ڈاکٹر: فقہ اسلامی میں اعلحضرت احمد رضا خاں کی خدمات، مطبوعہ پٹنہ ۱۹۸۱ء
حسن علی، ملک: تعلیماتِ مجددیہ، مطبوعہ لاہور، ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء
حسن محمد صغانی، امام: مشارق الانوار
حسن نظامی خواجہ: نظامی بنسری

حسنین رضا خاں بریلوی، مولانا: ایمان افروز وصایا شریف، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء
حسین احمد دیوبندی: الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب، مطبوعہ دیوبند ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء
حسین بصری نقشبندی خالدی، شیخ: الرحمۃ الهابطہ فی تحقیق الرابطہ، ۱۲۳۷ھ
حسین بن علی، قاضی: اخبار ابی حنیفہ واصحابہ

حسین علی شاہ سید: الفیض، فیصل آباد
حسین گردیزی چشتی نقشبندی، مفتی سید: تجلیاتِ مہر انور، مطبوعہ مکتبہ مہریہ، گولڑہ شریف ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء

حسین مجیب مصری، ڈاکٹر: صفوۃ المدیح، مطبوعہ قاہرہ
حفظ الرحمٰن سیوہاروی: دعوت نامے، مطبوعہ دہلی

حفظ الرحمٰن سیوھاروی: قصص القرآن

حمد اللہ مستوفی: تاریخ گزیدہ، مطبوعہ عبدالحسین لوائی، تہران ۱۳۶۲ھ

حمید الدین فراہی: الامعان فی اقسام القرآن (مترجم: امین احسن اصلاحی) مطبوعہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، ۱۹۷۵ء

حیات وآثار حضرت میاں محمد عمر چمکنی

حلمی ایشیق: منتخباتِ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی، استانبول مطبوعہ ۱۹۹۲ء

خ

خافی خاں، نظام الملک: منتخب اللباب، کراچی ۱۹۶۳ء

خالد امین الخیری، پروفیسر: سلسلۂ خیریہ، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء

خالد بغدادی شیخ: الایمان والاسلام، استانبول ۱۹۸۸ء

خالد کردی، شیخ: دیوان مولانا خالد کردی، استانبول ۱۹۵۵ء

خالد مجددی سلطانی: سوانح شیخ تاج بندگی

خطیب بغدادی، امام: تاریخ بغداد، جلد ۲، ۱۲

خطیب تبریزی، علامہ: مشکوٰۃ المصابیح

خطیب خوارزم الموفق بن احمد: مناقب الامام ابو حنیفہ

خلیق احمد نظامی، پروفیسر: سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۰۸ء

خلیق احمد نظامی، پروفیسر: تاریخ مشائخ چشت، مطبوعہ دہلی ۱۹۵۳ء

خلیق احمد نظامی، پروفیسر: حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مطبوعہ دہلی ۱۹۵۳ء

خلیق احمد نظامی، پروفیسر: شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۵۰ء

خلیق انجم: مرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، مطبوعہ دہلی ۱۹۶۲ء

خلیل احمد انبیٹھوی: البراھین القاطعہ، مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ، سہارنپور

خلیل احمد خلیل، ڈاکٹر: گلزار طریقت، لاہور ۲۰۰۲ء

خواص خان: تذکرۂ علمائے ہزارہ، تحقیقاتی اکیڈمی ادب وثقافت، بفہ، ہزارہ ۱۹۸۹ء

خواص خان: روائدادِ مجاہدین ہند، مکتب رشیدیہ، لاہور ۱۴۰۳ھ

خیال بخار: اردو کلام معز اللہ مہمن، پشتو اکیڈمی، پشاور یونیورسٹی، پشاور ۱۹۹۲ء

خیر الدین زرکلی: الاعلام، قاموس تراجم الاشہر الرجال والنساء من العرب والمستعربین، مطبوعہ دار العلم للملایین، بیروت، ۱۹۸۴ء

د

داراشکوہ، شہزادہ: سفینۃ الاولیاء، اردو ترجمہ محمد علی لطفی، مطبوعہ نفیس اکیڈمی، کراچی ۱۹۷۵ء

داؤد بغدادی، سید: **الفوائد الجلیلة فی نظم الرسالة الوضعیه**

داؤد بغدادی، سید: **بیان الدین القیم فی تبرئة ابن تیمیه وابن القیم**، مطبوعہ بمبئی، ۱۸۸۹ء

داؤد بغدادی، سید: **تشطیر البردة**

داؤد بغدادی، سید: **دوحة التوحید**

داؤد بغدادی، سید: **رسالة فی الرد علی محمود الآلوسی**، مطبوعہ بمبئی، ۱۸۸۹ء

داؤد بغدادی، سید: **رونق الصفافی بعض مناقب والد المصطفیٰ**، مخطوطہ ریاض یونیورسٹی

داؤد بغدادی، سید: **صلح الاخوان من اهل الایمان**، مطبوعہ بمبئی، ۱۸۸۹ء

داؤد بغدادی، سید: **مسلی الواحد** مخطوطہ،

داؤد بغدادی، سید: **مناقب المذاهب الاربعة**

داؤد بغدادی، علامہ سید: **اشد الجهاد فی ابطال دعوی الاجتهاد**، مطبوعہ بمبئی، ۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۸ء

داؤد بن یوسف خطیب الحنفی: فتاویٰ غیاثیہ

دہخدا: لغت نامہ، مطبوعہ تہران، ۱۳۴۸ھ و بہ بعد

دیانت سلوب، مولوی: تصحیح البشارہ تبصریح الاشارہ، ۱۳۰۹ھ مطبع خدم الاسلام، لاہور

دیوان دُھنی چند: کیگو ہرنامہ، پنجابی ادبی اکیڈمی۔ لاہور

ڈ

ڈاکٹر اُم سلمیٰ گیلانی: محدث کبیر حضرت شاہ محمد غوث پشاوری ثم لاہوری، پشاور، ۱۹۹۰ء

ڈاکٹر غلام علی مصطفیٰ خان: لَنَا اَعمالُنَا

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان: سندھ کے نقشبندی اولیاء، مطبوعہ کراچی، ۱۹۷۶ء

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان؛ تائید اہل سنت، مطبوعہ لاہور

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں: حضرت مجدد الف ثانی۔ ایک تحقیقی جائزہ، مطبوعہ کراچی ۱۹۶۵ء

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں: رسائل مشاہیر نقشبندیہ، مطبوعہ ۱۹۵۸ء

ڈاکٹر قتیبہ شہابی: مشیدات دمشق ذوات الاضرحہ، وزارہ الثقافہ۔ دمشق ۱۹۹۵ء

ڈی اولیری: فلسفۂ اسلام (مترجم: احسان، احمد) نفیس اکیڈمی، کراچی ۱۹۸۰ء

ڈی۔ ایم۔ قریشی: بلاسود بینکاری

ذ

ذخیرۃ الملوک

ذکی محمد مجاہد: الاعلام الشرقیۃ فی المائۃ الرابعۃ عشر الھجریۃ، مطبوعہ دار الغرب لاسلامی، بیروت

ذہبی، امام: میزان الاعتدال، جلد ۳

ر

رازی، امام: مطالب عالیہ

رحمان علی، مولانا: تذکرہ علماء ہند (اردو) مطبوعہ کراچی، ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء

رحیم بخش شاہین، ڈاکٹر: ارمغان اقبال، مطبوعہ اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۱ء

رحیم بخش شاہین، ڈاکٹر: اوراق گم گشتہ، مطبوعہ اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۷۹ء

رسالہ خواجہ علی متقی: علامہ علی قری حنفی: (۱۳۰۹ھ)، مطبع خادم الاسلام، دہلی

رسائلِ ستہ ضروریہ، مطبوعہ مجتبائی دہلی مع ۱۳۱۲ھ

رشید احمد، مفتی: احسن الفتاوی، مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی

رضوی سا شاہ ولی اللہ اور آسٹریلیا، ۱۹۸۰

رفیع الدین ھاشمی، ڈاکٹر: خطوط اقبال، مکتبہ خیابانِ ادب، لاہور، ۱۹۷۶

رفیع الدین، شاہ: رسالہ اذان، دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

رکن الدین: لطائف قدوسی

روزبھان بقلی: تفسیر عرائس البیان

روزنامچہ سلطان الطاف علی ۱۹۷۸ء کوئٹہ

روزنامچہ سلطان الطاف علی ۔ ۲۰۰۲ء ۱۷ اپریل، کوئٹہ

رؤف احمد مجددی، شاہ: دُرالمعارف (ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی) مترجم: عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، نوری بکڈپو، لاہور

رؤف احمد، شاہ: درّالمعارف، فارسی (ملفوظات شاہ غلام علی) مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، گجرات

رؤف احمد، شاہ: جواہر علویہ، لاہور

رئیس احمد جعفری: انوار اولیاء، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، طبع دوم، ۱۹۵۸ء

ریاض احمد صمدانی، مولانا: حیات محی الدین غزنوی، مطبوعہ نیریاں شریف (آزاد کشمیر) ۱۹۹۷ء

ز

زاماو: معجم الانساب والاسرات الحاکمۃ، مترجم ذکی محمد حسین بک، مطبوعہ بیروت ۱۹۸۰ء

زاہد الکوثری: النکت الطریفۃ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ

زرکوب شیرازی: ابوالعباس معین الدین احمد: شیراز نامہ، مطبوعہ اسمٰعیل جوارمی، تہران ۱۳۵۰ھ

زکریا یحییٰ بن شرف النووی: ریاض الصالحین، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۶ء

زوار حسین شاہ، سید: تذکرہ مجدد الف ثانی، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۹ء

زوار حسین شاہ، سید: ترجمہ مبداء معاد، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۳ء

زوار حسین شاہ: حیات سعدیہ، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۷ء

زوار حسین شاہ: مقاماتِ فضلیہ مطبوعہ فیصل آباد ۱۹۷۳ء

زوار حسین شاہ: انوار معصومیہ، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۰ء

زید بن عبدالمحسن آل حسین، ڈاکٹر: دلیل الرسائل الجامعیۃ فی المملکۃ العربیہ السعودیۃ، شاہ فیصل ریسرچ سینٹر، ریاض طبع دوم ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۴ء

زید بن علی: المجموع الفقہی

زید ابوالحسن فاروقی: المجموعۃ السنیۃ، شاہ ابوالخیر اکیڈمی۔ دہلی

س

سبط ابن الجوزی: مرأہ الزمان فی تاریخ الاعیان، مطبوعہ دائرۃ المعارف عثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۹۵۱ء

سخاوی، امام: المقاصد الحسنۃ

سراج احمد خاں، ڈاکٹر: مکتوبات امام ربانی کی سیاسی و معاشرتی اہمیت (مقالہ ڈاکٹریٹ، سندھ یونیورسٹی) مطبوعہ کراچی

سراج الدین ابو حسن علی الاوشی الفرغانی: فتاویٰ سراجیہ

سراج الرحمان، ڈاکٹر: حضرت مولانا محمد یعقوب، یعقوبیہ پبلی کیشنز، بگھار شریف کہوٹہ

سرفراز خاں صفدر: راہِ راست، مطبوعہ مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ ۱۹۹۵ء

سرفراز خاں صفدر: احسن الکلام، مطبوعہ مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ ۱۹۹۵ء

سعد اللہ نسیم، میاں: حضرت شیخ شہباز بابا، ۱۹۹۳ء دانش کتب خانہ، پشاور

سعدی، شیخ: بوستان

سعید احمد اکبر آبادی، مولانا: مسلمانوں کا عروج و زوال، ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۶۲ء

سعید احمد نقشبندی: مسلک امام ربانی، مطبوعہ لاہور

سعید راشد، پروفیسر: گفتار و کردار قائداعظم، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۶ء
سکندر خان: بیاضِ اباسین (قلمی) کتب خانہ۔ اٹک
سلطان الطاف علی، ڈاکٹر: تحقیق دربارۂ احوال و آثارِ فارسی حضرت سلطان باہو و نظر در افکارِ او، اسلام آباد ۲۰۰۳ء
سلطان باہو: عقل بیدار، لاہور
سلمان منصور پوری، قاضی: رحمۃ للعالمین
سلیم اختر، ڈاکٹر: کلمات الصادقین (انگریزی)
سلیمان ندوی، مولانا: عرب و ہند کے تعلقات، مطبوعہ الہٰ آباد ۱۹۳۰ء
سہیل بخاری، ڈاکٹر: اقبال ایک صوفی شاعر، مطبوعہ مکتبہ اسلوب کراچی، ۱۹۸۸ء
سید احمد خاں، سر: آثار الصنادید، مطبوعہ لکھنؤ، جون ۱۸۷۶ء
سید احمد، ابوالبرکات علامہ: ۱۴۰ ارشادات مجدد الف ثانی، مطبوعہ کراچی، ۲۰۰۲ء
سید احمد قادری: تذکرہ شیخ عبدالحق، شاد بک ڈپو، پٹنہ ۱۳۷۰ھ
سیدھا راستہ (ماہنامہ) شمارہ لاہور
سیرت رسول عربی، (محمد نور بخش توکلی: مطبوعہ لاہور ۱۹۸۹ء
سیرت غوث اعظم، مطبوعہ لاہور
سیف الدین، خواجہ: مکتوبات سیفیہ مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، حیدر آباد سندھ مطبوعہ ۱۹۶۶ء
سیف الرحمٰن ڈار: ٹیکسلا، پاکستان پنجاب ادبی بورڈ، ۱۹۶۶ء

ش

شائق الحال سرہندی: مواهب القيوم فی تائيد احمد و معصوم
شاہ گل وحدت سرہندی: رسالہ فی منع رفع سبابہ
شاہ مراد سہروردی، علامہ: محفل اولیاء مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء
شاہنواز خاں: مآثر الامراء (انگریزی ترجمہ: ایس بورتج) جانکی پرکاش، پٹنہ ۱۹۷۹ء
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: انفاس العارفین، اردو ترجمہ مطبوعہ لاہور ۱۳۹۴ھ
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: القول الجمیل ترجمہ اردو شفاء العلیل ۱۲۶۰ھ، مطبوعہ دہلی
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: المقالة الوضيه فی النصيحه و الوصيه
شاہ ولی اللہ دہلوی: ہمعات (مترجم محمد سرور جامعی) طبع سوم لاہور ۱۹۶۴ء
شاہنواز خان صمصام الدولہ: مآثر الامرا مترجم محمد ایوب قادری، مرکزی اردو بورڈ، لاہور ۱۹۶۸ء

شبلی نعمانی: امام غزالی
شبلی نعمانی: سیرۃ النعمان، مطبوعہ کراچی
شبیر احمد عثمانی: فتح الملہم، مطبوعہ مکتبہ الحجاز، کراچی
شبیر حسین شاہ زاہد، پروفیسر سید: عقیدہ ختم نبوت اور مجدد الف ثانی، مطبوعہ گنبد خضرا، پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۰ء
شریف الدین، خواجہ: مکتوبات خواجہ محمد معصوم جلد دوم، مطبع نظامی کانپور، ۱۸۸۷ء
شفیق بریلوی: محمد بن قاسم سے محمد علی جناح تک
شمس الدین احمد، پروفیسر ڈاکٹر: شاہ ہمدان، حیات اور کارنامے، مطبوعہ جان شیخ غلام محمد تاجران کتب مالسیہ بازار، سری نگر
شمس الدین محمد ذہبی: سیر اعلام النبلاء، طبع جماعۃ المحققین، بیروت ۱۹۸۸ء
شمس الدین محمد کوھستانی خراسانی: جامع الرموز
شوکت محمود سید: حضرت حاجی بہادر کوہاٹی، ضیاء سنز پرنٹرز، پشاور ۲۰۰۱ء
شہاب الدین السید محمود الآلوسی البغدادی، ابو الفضل: تفسیر روح المعانی، جلد اول، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان
شہاب الدین رضوی: مفتی اعظم اور ان کے خلفاء، مطبوعہ بمبئی ۱۹۹۰ء
شہاب الدین سہروردی، شیخ: عوارف المعارف، مکتبۃ الوھیہ، مصر ۱۲۹۲ھ
شہاب الدین، مولانا: آگاہی سید امیر کلال، مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں، مطبوعہ کراچی ۱۹۶۱ء
شیر بہادر پنی، ڈاکٹر: تاریخ ہزارہ، دار الشفاء، ایبٹ آباد ۱۹۶۹ء
شیریں خان ناصر: دپشتو قبیلو، ۱۹۹۳ء غنی شجری، اوٹو یالی، لاہور

ص

صابر حسین بخاری سید: حضرت محدث سورتی اور امام احمد رضا، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۷ء
صابری: دیوانِ شاکر، مجلسِ نوادراتِ علمیہ، اٹک ۱۹۷۰ء
صادق قصوری محمد: تحریک پاکستان اور علمائے کرام، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۹ء
صباح الدین عبد الرحمان، سید: بزم تیموریہ
صباح الدین عبد الرحمان، سید: ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر
صدر الدین محمد مفتی کشمیری، مولانا: ذکر الصادقین (قلمی) در ذکر خواجہ بزرگ، ریسرچ لائبریری، کشمیر یونیورسٹی
صدیق حسن خان نواب: ابجد العلوم، جلد سوم، مطبوعہ بھوپال، ۱۲۹۵ھ
صدیق حسن خاں محمد بھوپالی، نواب: تقصار جیود الاحرار من تذکار جنود الابرار، مطبوعہ بھوپال، ۱۲۹۸ھ
صدیق حسن خاں محمد بھوپالی، نواب: فتح البیان، مطبوعہ مطبع بولاق مصر، ۱۳۰۱ھ

صدیق حسن خاں نواب: ریاض المرتاض

صغیر احمد مخدومی، شیخ: مقاماتِ معصومی معروف بہ برکات معصومی

صفدر حیات صفدر: عہدِ مغلیہ مع دستاویزات، مطبوعہ نیو بک پیلس، لاہور

صفر احمد معصومی میر: مقاماتِ معصومی ت (تصحیح وتقابل محمد اقبال مجددی) ضیاء القرآن ۲۰۰۲ء پبلی کیشنز، لاہور

صلاح الدین ناسک: تحریک آزادی، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۲ء

ض

ضیاء الدین شامی: ملتقط

ط

طارق مجاہد جہلمی: اہم فکری مسائل، مطبوعہ ورلڈ اسلامک مشن، بریڈفورڈ برطانیہ ۱۹۸۴ء

طاہر فاروقی پروفیسر محمد: سیرتِ امیر ملت، علی پور سیّداں، ۱۹۷۵ء

طبرانی، امام: المعجم الکبیر، جلد ۶

طبرانی، امام: المعجم الاوسط

طفیل احمد، سید: جواز سود

ظ

ظفر امام: مارکسزم ایک مطالعہ، مطبوعہ دہلی ۱۹۷۱ء

ظہور الحسن شارب، ڈاکٹر: خم خانۂ تصوف، مطبوعہ صابری دار الکتب، لاہور ۱۹۸۰ء

ظہور الدین احمد، ڈاکٹر: پاکستان میں فارسی ادب، ادارہ تحقیقات پاکستان، لاہور ۱۹۷۷ء

ظہور الدین، شیخ: رموز العاشقین

ع

عابد حسین عابد سہوانی: الجذبة الشوقيه الی حضرة المجددية، مطبوعہ شاہی پریس لکھنؤ

عارف احمد عبد الغنی: تاريخ امراء المدينة المنوره، طبع اوّل ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء، دار کنان، دمشق

عارف ریوگری: عارف نامہ (اردو ترجمہ: قدیر محمد قریشی)، مطبوعہ کراچی، ۱۹۹۷ء

عالم الدین قاضی: کنز القدیم فی آثار الکریم، راولپنڈی

عالم الدین نقشبندی مجددی، مولانا: مکتوبات شریف اردو ترجمہ، مطبوعہ اللہ والے کی قومی دکان، لاہور

عائض رداوی، ڈاکٹر: الاسرة الطبرية المكيه من اسر العلم فی الحرمين الشريفين، مطبوعہ دار رفاعی، ریاض طبع اول ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۵ء

عباس اقبال: جگوز بک نصر ایرانی اور جنگھای صلیبی فرمانده جنگ وواسطہ صلح بورد، مقالہ مشمولہ مجلہ اطلاعات، تہران

عباس بن صالح تاشقندی، ڈاکٹر: الطباعة فی المملكة العربيه السعودية، طبع اوّل، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء

عبدالحسین زرین کوب، ڈاکٹر: ارزش میراث صوفیہ، تہران ۱۳۴۴ھ

عبدالحق محدث دہلوی، شیخ: مجموعہ مکاتیب والرسائل الی ارباب الکمال والفضائل، مطبوعہ دہلی ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء

عبدالحکیم شرف قادری، محمد: لمعات امام ربانی، مطبوعہ لاہور

عبدالرحمٰن جامی، مولانا: نفحات الانس

عبدالرزاق، امام: مصنف عبدالرزاق

عبداللہ خان حکیم، ڈاکٹر: گلدستہ حکیم، مطبوعہ لاہور ۱۳۲۲ھ

عبدالاحد شاہ گل وحدت: رسالہ سبیل الرشاد در رد مخالفین

عبدالاحد وحدت: مرتبہ: شیخ محمد مراد کشمیری م، صحح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ۱۹۶۶ء

عبدالاحد: وحدت مجموعہ رسائل شیخ، مخطوطه، شیفة کلکشن (مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)
عربی ۲۷/ ۶۵

عبدالاحد، وحدت خواجہ: گلشن وحدت، مطبوعہ کراچی

عبدالاحد، خواجہ: سبیل الرشاد، مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، مطبوعہ ۱۹۷۷ء حیدرآباد سندھ

عبدالاحد، محمد: مجموعہ حالات ومقامات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، مطبوعہ، دہلی

عبدالاوّل نیشاپوری، میر: احوال وسُخنان خواجہ عبیداللہ احرار، (مرتبہ عارف نوشاہی) مرکزِ نشر دانش گاہی، تہران۔ ۱۳۸۰ھ

عبدالباری صدیقی: مکتوبات امام ربانی بحیثیت مآخذ ایمانیات، مطبوعہ کراچی، ۱۹۸۵ء

عبدالباقی نہاوندی: مآثر رحیمی، جلد اوّل، مطبوعہ کلکتہ ۱۹۲۴ء

عبدالجلیل اثری، ابومعاذ: تحفہ اہل النظر فی مطلح اہل الخیر، ندوۃ المحدثین، گوجرانوالہ ۱۹۹۷ء

عبدالحق انصاری، ڈاکٹر: تصوف اور شریعت (اردو ترجمہ) مفتی محمد مشتاق تجاروی، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۲۰۰۱ء

عبدالحق محدث دہلوی: اخبار الاخیار

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: اخبار الاخیار اردو، مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: تتمہ اخبار الاخیار اردو، مطبوعہ مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: تحصیل التعرف فی معرفة الفقه والتصوف، مخطوطہ ۱۰۵۰ھ/۱۶۴۰ء، مطبوعہ لاہور

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: تکمیل الایمان محشی امام احمد رضا، مترجمہ علامہ اقبال احمد فاروقی، مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور ۱۹۸۰ء

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: شرح سفر السعادۃ

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: مدارج النبوت (مترجم غلام معین الدین نعیمی) مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: مرج البحرین اردو، مطبوعہ لاہور

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: مشکوٰۃ المصابیح عربی، شرح لمعات التنقیح، فارسی،

عبدالحق محدّث دہلوی، شیخ: اشعۃ اللمعات، مطبع تیج کمار، لکھنؤ

عبدالحق ہاشمی، قاضی: خزینۃ الشائخ، دارالاشاعتِ فیض القرآن، قطبال۔ کیمبل پور

عبدالحکیم اثر افغانی، قاضی: روحانی رابطہ، درالاشاعت، باجوڑ ۱۹۶۷ء

عبدالحکیم اختر، شاھجہانپوری، حضرت امام اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں، مطبوعہ، لاہور

عبدالحکیم بن مصطفیٰ ارواسی: اصحاب الکرام

عبدالحکیم شرف قادری، محمد: تذکرۂ اکابر اہل سنت، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۰ء

عبدالحلیم اثر افغانی: روحانی رابطہ، یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور ۱۹۶۵ء

عبدالحمید داغستانی، شیخ: حاشیہ علی تحفۃ المحتاج، مطبوعہ مکہ مکرمہ

عبدالحمید طہماز: العلامۃ المجاہد شیخ محمد الحامد، مطبوعہ دمشق، ۱۹۸۱ء

عبدالحمید لاہوری: بادشاہ نامہ، مطبوعہ بمبئی ۱۹۶۲ء

عبدالحیؒ بن عبدالکبیر کتانی، علامہ سید: فہرس الفہارس والاثبات و معجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، تحقیق ڈاکٹر احسان عباس، مطبوعہ دار الغرب اسلامی، بیروت ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء

عبدالحیؒ لکھنوی و ابوالحسن علی لکھنوی: نزھۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، طبع اوّل ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء جلد ۲ دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدر آباد، دکن، ۱۹۷۸ء

عبدالحیؒ لکھنوی: السعایہ شرح وقایہ، مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور

عبدالحیؒ لکھنوی: علوم وفنون ہندوستان میں (ترجمہ اردو: ابوالعرفان ندوی) دار المصنفین، اعظم گڑھ، ۱۹۶۸ء

عبدالحیؒ، جیبی: پنجاند شعراء، یونیورسٹی ایجنسی، پشاور

عبدالخالق غجدوانی: جامع الکلم (قلمی) (مخزونہ کتب خانہ قاری احسان اللہ، کوئٹہ)

عبدالخالق غجدوانی: رسالہ مقاصد السالکین (قلمی) (مخزونہ کتب خانہ قاری احسان اللہ، کوئٹہ)

عبدالخالق، ڈاکٹر: علم فلسفہ، مطبوعہ عزیز پبلیشرز، اردو بازار، لاہور ۱۹۸۱ء

عبدالدائم، قاضی: حیات صدریہ، خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ صدریہ ہری پور، ۱۹۹۹ء

عبدالرحمٰن بن حسن جبرتی، شیخ: عجائب الآثار فی التراجم والاخبار، تحقیق ڈاکٹر عبدالرحیم، طبع مطبع دارالکتب مصریہ، قاہرہ ۱۹۹۸ء

عبدالرحمٰن بن محمد سعید دمشقی: النقشبندیه عرض و تحلیل، مطبوعہ دار طیبہ، ریاض، ۱۹۸۸ء

عبدالرحمٰن بن محمد سعید دمشقی: حقائق خطیره عن الطریقة النقشبندیه، مطبوعہ دار مسلم، ریاض ۱۹۹۸ء

عبدالرحمٰن، شیخ: الفتح المبین فی الرد علی تریاق

عبدالرحمٰن، شیخ: المواعظ

عبدالرحمٰن، شیخ: رسالۃ فی الادب

عبدالرحیم خان قادری، علامہ: سیرت غوث اعظم، مطبوعہ کانپور ۱۹۷۰ء

عبدالرحیم، شاہ: ارشادِ رحیمیہ (مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان) مطبوعہ ۱۹۵۹ء

عبدالرسول للّٰہی، پروفیسر: تاریخ مشائخ نقشبندیہ، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء

عبدالرسول، صاحبزادہ: تاریخ پاک و ہند، مطبوعہ ایم آر برادرز، لاہور، ۱۹۶۵ء

عبدالرشید خواجہ: تذکرۂ شعرائے پنجاب، اقبال اکیڈمی۔ کراچی ۱۹۷۶ء

عبدالرشید، پروفیسر ڈاکٹر: اسلامی تصوف اور صوفیائے سرحد، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۷ء

عبدالرشید، پروفیسر ڈاکٹر: تصوف، اولیاء مانکی شریف اور تحریک پاکستان، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۱ء

عبدالرشید، پروفیسر ڈاکٹر: صوفیائے خٹک، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۶ء

عبدالرشید، میاں: جاوید نامہ سلیس اردو ترجمہ مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور ۱۹۹۲ء

عبدالستار دہلوی مکی، شیخ: نشر المآثر فی ادرکة من الاکابر، مخطوطہ بخط مصنف مخزونہ بہاء الدین زکریا لائبریری، ضلع چکوال

عبدالستار، طاہر نقشبندی: باقیات مظہری، ۲۰۰۲ء ضیاء الاسلام پبلی کیشنز، کراچی

عبدالسلام صدیقی: بشائر الحسنات فی الصلوٰۃ والسلام علیٰ سید الکائنات، دار العلوم سلطانیہ جہلم، پاکستان

عبدالسلام صدیقی، مولانا: بشائر الخیرات

عبدالشکور لکھنوی: تذکرۂ امام ربانی

عبدالعزیز دہلوی، شاہ: حواشی بر رسالہ اعتراضات شیخ عبدالحق دہلوی

عبدالعزیز سنیدی، ڈاکٹر: معجم ماۃ الف عن مکہ، طبع اول ۱۴۲۰ھ/ ۱۹۹۹ء بریدہ، سعودی عرب

عبدالعزیز قریشی: اسرار الاولیاء، مطبوعہ اگہار شریف، کوٹلی آزاد کشمیر ۱۹۹۴ء

عبدالعزیز محدث دہلوی، رسالہ مغرہ ۱۳۰۹ھ، مطبع خادم الاسلام۔ دہلی،

عبدالعلیم قریشی: معدن کرم، لاہور ۲۰۰۱ء

عبدالغنی دہلوی مدنی، شیخ: الدرر المکنونات النفیسه، جلد اوّل مطبوعہ ۱۳۱۶ھ/ ۱۸۹۸ء، جلد دوم سوم ۱۳۱۷ھ

عبدالغنی مجددی، شیخ: المسلسل باجابة الدعاء فی الملتزم، مخطوطہ مخزونہ مکتبہ حرم مکی

B-22 (11)

عبدالغنی مجددی، شیخ: انجاح الحاجة عن سنن ابن ماجه، مطبوعہ دہلی ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء

عبدالغنی مجددی، شیخ: خلاصة الجواهر العلويه

عبدالغنی نابلسی، شیخ: حدیقۂ ندیہ

عبدالغنی نابلسی، شیخ: كفاية العلام، مطبع میریہ، مکہ مکرمہ

عبدالغنی نابلسی، شیخ: نتيجة العلوم و نصيحة علماء الرسوم فى شرح مقالات السرهندى المعلوم، مصنفہ ۱۱۱۲ھ مخطوطہ بخط مصنف، مخزونہ دارالکتب ظاہریہ، دمشق

عبدالغفار نقشبندی، محمد: ملفوظات فضلیہ (حصہ اول) مکتبہ غفاریہ۔ سٹھارجا، خیر پور میرس ۱۹۸۸ء

عبدالقادر بدایونی: منتخب التواریخ (ترجمۂ اردو) لاہور ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء

عبدالقادر بدایونی، ملاّ: منتخب التواریخ، مطبوعہ کلکتہ ۱۸۶۸ء، مطبوعہ کلکتہ ۱۹۸۹ء

عبدالقادر جیلانی، شیخ سید: سرّ الاسرار

عبدالقادر جیلانی، شیخ سید: غنیۃ الطالبین

عبدالقادر عیسیٰ الشاذلی، شیخ: تصوف کے روشن حقائق، اردو ترجمہ محمد اکرم الازہری، مطبوعہ زاویہ ٹریڈرز، لاہور، ۱۹۹۸ء

عبدالقادر خاں، خٹک: حدیقہ خٹک، یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور

عبدالقدوس ہاشمی: تقویم تاریخی، کراچی ۱۹۶۵ء

عبدالکریم بن ہوازن قشیری، شیخ: الرسالۃ القشیریہ

عبدالکریم ثمر: ارشادات مجدد، مطبوعہ مکتبہ شیر ربانی، شرقپور شریف

عبدالکریم جیلی: انسانِ کامل

عبدالکریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقہ، مطبوعہ فاران اکیڈمی، لاہور

عبداللطیف بن محمد جیلانی، ڈاکٹر: كتب المسلسلات عندالمحدثين، مکتبہ شاہ فہد ریاض، طبع اول ۱۴۲۴ھ/۲۰۰۳ء

عبداللہ سمندر غوریالی: گزیدہ از مکتوباتِ میاں فقیر اللہ جلال آبادی، کابل ۱۳۵۹ھ

عبداللہ قطب: مکتوبات شریف

عبداللہ محدث دکن: سلوک مجددیہ، مطبوعہ۔ لاہور

عبدالماجد دریابادی: تصوف اسلام، مطبوعہ مکتبۂ شاہکار، لاہور، ۱۹۷۷ء

عبدالمجتبیٰ رضوی، مولانا: تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، مطبوعہ بنارس ۱۹۸۹ء

عبدالمجید بن محمد الخانی: الحقائق الوردیہ فی حقائق اجلاء النقشبندیہ، جامع الدرو شید، دمشق ۱۳۰۶ھ

عبدالمجید بن محمد الخانی: السعادت لابدیہ فی ماجاء بہ النقشبندیہ، استانبول ۱۹۹۲ء

عبدالجید بن محمد خانی: السعادة الابدية فيما جاء به النقشبنديه، مطبوعہ مكتبة الحقيقة، استانبول، ترکی، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء

عبدالجید بن محمد خانی: مقاماتِ سبع

عبدالجید بن محمد خانی: وجه الحل فی جهد المقل

عبدالجید بن محمد خانی، شیخ: الحدائق الوردية فی حقائق اجلاء النقشبنديه، مطبوعہ قاہرہ، عبدالوکیل دروبی جمع درویشیہ، دمشق ۱۳۰۸ھ

عبدالنعیم عزیزی، ڈاکٹر: اردو نعت گوئی اور فاضلِ بریلوی۔ بریلی ۱۹۹۶ء

عبدالواحد معینی، سید: مقالات اقبال، مطبوعہ آئینہ ادب، انارکلی، لاہور ۱۹۶۳ھ / ۱۹۸۸ء

عبدالودود خاں: ربا، انٹرنیٹ، سود

عبدالوہاب سبکی: طبقات الشافعية الكبرىٰ، مطبع عبدالفتاح محمد الحلو، قاہرہ ۱۹۶۴ء

عبدالوہاب شعرانی، امام: المنح السنية فی الوصية المقبولية، مطبوعہ مکہ مکرمہ

عبدالوہاب شعرانی، امام: اليواقيت والجواهر، داراحیاء التراث العربی، بیروت ۱۹۹۷ء

عبدالوہاب شعرانی، امام: طبقات الاولياء، مطبوعہ مصر

عبدالوہاب موسری نیازی، سید: نبذة لطيفه فی ترجمه شيخ الاسلام داؤد البغدادی، مطبوعہ بغداد ۱۳۰۵ھ

عبداللہ ابوالخیر مراد شہید مکی حنفی، شیخ: نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزهر فی تراجم افاضل مكة، تلخیص وترتیب

عبداللہ بن احمد ابوالخیر مراد شہید مکی حنفی، شیخ: المختصر من كتاب نشر النور والزهر فی تراجم افاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر، اختصار محمد سعید عامودی واحمد علی، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء دارالمعرفہ، جدہ

عبداللہ بن احمد: كشف الاسرار، مطبوعہ دارالباز للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ، ۱۹۸۶ء

عبداللہ بن عبدالرحمٰن معلمی، شیخ: اعلام المكيين من القرن التاسع الى القرن الرابع عشر الهجری، طبع اوّل، ۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰ء مؤسسۃ الفرقان للتراث الاسلامی، لندن

عبداللہ بن عبدالرحمٰن معلمی، شیخ: معجم مؤلفی مخطوطات مكتبة الحرم المكی الشريف، طبع اوّل ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶ء شاہ فہد قومی کتب خانہ، ریاض

عبداللہ بن مبارک: کتاب الزہد

عبداللہ بن محمد السید مدنی: كشف الآثار الشريفه فی مناقب الامام ابی حنيفه

عبداللہ جان عرف شاہ آغا، خواجہ: مونس المخلصین، مطبوعہ کراچی ۱۳۶۶ھ

عبداللہ جبوری: **فہرس المخطوطات العربیہ فی مکتبۃ الاوقاف العامۃ فی بغداد**۔ طبع اوّل، ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء وزارت اوقاف، بغداد

عبداللہ خان حکیم، ڈاکٹر: محمود نامہ، مطبوعہ لاہور ۱۳۲۲ھ

عبداللہ خان حکیم، ڈاکٹر: مناجات حکیم مع نعت رسول کریم، مطبوعہ لاہور

عبداللہ خویشگی قصوری، مولانا: معارج الولایت فی مدارج الہدایت (۱۰۶۴ھ/۱۰۹۴ء)

عبداللہ غازی بن محمد غازی مکی، شیخ: **فتح القوی فی ذکر اسانید السید حسین الحبشی العلوی**، طبع اول، ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء مکہ مکرمہ

عبداللہ غازی ہندی مکی، شیخ: مخطوطہ بخط مرتب، عکس مخزونہ، بہاء الدین زکریا لائبریری، ضلع چکوال

عبداللہ غازی ہندی مکی، شیخ: **نشر الدرر فی تذیل نظم الدرر**، مخطوطہ بخط مصنف عکس مخزونہ، بہاء الدین زکریا لائبریری، ضلع چکوال

عبداللہ غازی ھندی مکی، شیخ: **نظم الدرر فی اختصار نشر النور و الزھر فی تراجم افاضل مکۃ، من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر**، مخطوطہ، بخط مصنف، ذخیرہ محمد نصیف، جدہ یونیورسٹی لائبریری

عبداللہ قطب، شیخ: مکتوبات شیخ عبداللہ قطب (قلمی)، مکتوبہ ۸۸۷ھ

عبداللہ محمد بن ابی بکر ابن قیم: زاد المعاد، تحقیق شعیب الارنوڈا، موسستہ الرسالۃ، بیروت ۱۹۹۶ء

عبداللہ محمد حبشی: **مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن**، مکتبہ عصریہ بیروت، طبع ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء

عبداللہ آفندی، مولانا: **رسالہ فی رفع مطاعن عن الامام الربانی و اولادہٗ**

عبداللہ بن محمد غازی مکی، شیخ: **نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزھر فی تراجم افاضل مکۃ من القرن العاشر القرن الرابع عشر**، عکس مخطوطہ بخط مصنف، بہاؤ الدین زکریا لائبریری ضلع چکوال

عبداللہ محمد حبشی: **فہرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصۃ فی الیمن**، تحقیق چولیان یوحانس الفرقان اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن لندن، طبع ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۴ء

عبداللہ، ڈاکٹر سید: کیا اقبال وجودی تھے؟

عبداللہ، ڈاکٹر سید: مسائل اقبال، مطبوعہ اردو اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۷ء

عبیداللہ احرار خواجہ: رسالۂ والدیہ

عبیداللہ معروف بہ خواجہ کلاں، خواجہ: مبلغ الرجال

عبیداللہ احرار خواجہ: تحفۃ الاحرار

عبید اللہ احرار، خواجہ، رسالہ (قلمی) مخزونہ کتب خانہ قاری احسان اللہ، کوئٹہ
عبید اللہ قدسی: آزادی کی تحریکیں، لاہور ۱۹۸۸ء
عثمان بن سند الوائلی النجدی: اصفی موارِد فی سلسالِ احوال الامام خالد
عثمان بن سند وائلی، شیخ: مطالع السعود، ڈاکٹر عماد عبد السلام رؤف و سھیلہ عبد المجید قیسی، طبع وزارت ثقافت و اطلاعات عراق ۱۹۹۱ء
عجلونی، علامہ: کشف الخفا، جلد ۲
عدنان خورشید، ڈاکٹر: جہاں نما، مطبوعہ کراچی
عراقی، علامہ،: المغنی بہامش احیاء علوم الدین، جلد ۲
عز الدین کاشانی، علامہ: مصباح الہدایۃ
عزیز الرحمٰن بجنوری، مفتی: احسن الفتاویٰ، مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی
عزیز الرحمٰن بجنوری، مفتی: امام اعظم ابو حنیفہ، مطبوعہ لاہور بجنور ۱۹۷ ء
عزیز حسن بقائی، حافظ: سیرت باقی
عزیز الرحمٰن، مفتی: فتاویٰ دار العلوم، جلد ۱، مکتبہ دار الاشاعت، کراچی
عصام الدین ھروی، مولانا: حاشیہ شرح وقایہ
عطاء اللہ، شیخ: اقبال نامہ، مطبوعہ شیخ محمد اشرف کشمیری بازار، لاہور، ۱۹۵۱ء
عطاء الرحمٰن قاسمی: دہلی میں دفن خزینے، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۳ء
عظمت اللہ: حضرت مجدد الف ثانی کی دینی و علمی خدمات، لاہور ۱۹۶۷ء
علاء الدین علی: کنز العمال
علی بن ابو القاسم زید البیہقی: **المواهب الشريفة فى مناقب الامام ابى حنيفه**
علی بن حسین الواعظ الہربی: رشحاتِ عین الحیات، (مترجم شیخ محمد بن مراد بن عبد اللہ القرانی، المکتبۃ الاسلامیہ، ترکی
علی بن سلطان القاری، ملاّ: جمع الوسائل فی شرح الشمائل، مطبوعہ بیروت، لبنان
علی بن سلطان القاری، ملاّ: شرح شفا، جلد اول
علی بن عبد العزیز المرغینانی: مناقب الامام اعظم
علی رامیتنی، خواجہ: رسالہ خواجہ عزیزاں (قلمی) (مخزونہ کتب خانہ قاری احسان اللہ، کوئٹہ)
علی قاری، ملاّ: **الحزب الاعظم والورد الافخم**، مطبوعہ مکہ مکرمہ
علی قاری، ملاّ: **المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع**
علی قاری، ملاّ: شرح فقہ اکبر، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، کراچی

علی قاری، ملاّ: مرقاۃ شرح مشکوٰۃ

علی قاری، ملاّ: مناقب الامام اعظم

علی لکھنوی ندوی ابوالحسن: الامام السرھندی حیاتہٗ واعمالہ، مطبوعہ دارالقلم کویت ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۴ء

علی متقی، علامہ: کنزالعمال، جلدا

علی متقی، خواجہ: رسالہ فی تائید رفع سبابہ، مطبع خادم الاسلام، دہلی ۱۳۰۹ھ

علی ندوی، ابوالحسن: تاریخِ دعوت وعزیمت، حصہ چہارم، مطبوعہ کراچی

علی ہجویری، داتا گنج بخش: کشف المحجوب اردو، مطبوعہ رائٹرز بک کلب لاہور ۱۹۷۷ء

عمادالاسلام عبدالرحیم: تعلیقات

عمادالدین ابن کثیر، حافظ: البدایہ والنہایہ، دارالفکر بیروت

عمادالدین: حیاۃ القلوب

عمار بن سعید تمالت: فھرس مخطوطات الحدیث الشریف وعلومہ فی مکتبۃ الملک عبدالعزیز بالمدینۃ المنورہ، طبع اول ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۲ء مکتبہ عبدالعزیز مدینہ منورہ

عمر عبدالجبار مکی: سیر وتراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للھجرۃ، طبع سوم ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء مکتبہ تہامہ، جدہ

عنایت اللہ نذیر نیازی، ڈاکٹر: مقالہ اردو، احمد سرہندی، دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور

عیسیٰ بن جنید شیرازی: ملتمس الاحیاء (تذکرہ ہزار مزار ترجمہ شدالازار) طبع نورانی وصال، کتاب خانہ احمدی، شیراز ۱۳۶۴ھ

عین القضاۃ ہمدانی: تمہیدات

غ

غزالی، امام: احیاء علوم الدین

غزالی، امام: المنقذ من الضلال

غزالی، امام: ایھاالولد (ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحٰق ابرو)

غزالی، امام: کتاب الوسیط

غلام جیلانی پشاوری، مرزا: حضرت مجدد کا شجرہ طریقت قادریہ صابریہ مشمولہ ''کلیات دیوان صحیح سالم پشاوری، مطبوعہ مجلس قادریہ صابریہ، پشاور

غلام رسول سعیدی، علام: تذکرۃ المحدثین، مطبوعہ فرید بک اسٹال، لاہور

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: لوائحِ خانقاہِ مظہریہ، (مکتوباتِ مدرسہ دُیر) مطبوعہ ۱۹۷۵ء

غلام احمد: ذکرالعارفین، (مترجمہ: غلام قادر اشرفی فریدی کوٹی)، مطبوعہ گجرات، پاکستان

غلام جیلانی برق، ڈاکٹر: فلسفیان اسلام، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء

غلام دستگیر قصوری، مولانا: تحفہ دستگیریہ

غلام دستگیر نامی: تاریخ جلیلہ درگاہِ جلیلہ میکلوروڈ، لاہور ۱۹۳۵ء

غلام رسول سعیدی، علامہ: شرح صحیح مسلم، مطبوعہ فرید بک اسٹال، لاہور

غلام سرور لاہوری: خزینۃ الاصفیاء، نول کشور، کانپور ۱۹۱۴ء

غلام سرور، صوفی: حضرت مجدد الف ثانی کی دینی وملی خدمات، مطبوعہ لاہور

غلام سرور، مفتی: حدیقۃ الاولیاء بہ تحقیق وتعلیق پروفیسر محمد اقبال مجددی، مطبوعہ اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۷۶ء، ۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء

غلام سرور، مفتی: خزینۃ الاصفیاء، کانپور ۱۸۹۴ء

غلام صابر قدیری سندیلوی: دامن محبوب، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۸۶ء

غلام علی دہلوی، شاہ: مقاماتِ مظہری (ترجمہ محمد اقبال مجددی) اردو سائنس بورڈ۔ لاہور ۱۹۸۳ء

غلام علی مہر: الیواقیت المہریہ، مطبوعہ ۱۹۶۴ء

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: احوال بزرگان

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: احوال شاہ نقشبند

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: درّ المعارف، (مرتبہ شاہ رؤف احمد مجددی) ۱۳۳۱ھ

☆ مطبوعہ ترجمہ اردو علامہ محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، نوری بکڈپو، لاہور ۱۹۸۳ء

☆ مطبوعہ ۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: ردمخالفین حضرت مجددؒ (قلمی)

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: رداعتراضات

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: رسالہ اذکار

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: رسالہ دررداعتراضات شیخ عبدالحق

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: رسالہ مشغولیہ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: رسائل سبع سیارہ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: سلوک رزاقیہ نقشبندیہ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: طریق بیعت واذکار

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: طریقہ شریفہ شاہ نقشبند

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: فیضان مجددیہ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: کمالات مظہری، ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: مقامات مجدد الف ثانی

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: مقامات مظہری ۱۲۱۱ھ/۱۷۹۶ء، ترجمہ و تحقیق پروفیسر محمد اقبال مجددی،

- ☆ مطبوعہ اردو سائنس بورڈ لاہور ۱۹۸۳ء
- ☆ مطبوعہ مطبع احمدی دہلی ۱۲۶۹ھ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: مکاتیب شریفہ، مرتبہ (شاہ رؤف احمد مجددی،)

- ☆ مطبوعہ استنبول ترکی، ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء
- ☆ مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۱ھ
- ☆ مطبوعہ مدراس، ۱۳۳۴ھ

غلام علی نقشبندی دہلوی، شاہ: ملفوظات طیبہ، (مرتبہ و ترجمہ اردو غلام محی الدین قصوری)، ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء

غلام علی نقشبندی، شاہ: ایضاح الطریقة ۱۲۱۲ھ، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۱ھ

غلام علی آزاد بلگرامی، شاہ: شرح صحیح البخاری

غلام علی آزاد بلگرامی، شاہ: روضة الاولیاء

غلام علی آزاد بلگرامی، شاہ: سبحة المرجان فی آثار هندوستان، مطبوعہ ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء

غلام علی آزاد بلگرامی، شاہ: مآثر الکرام فی تاریخ بلگرام، جلد اوّل مطبوعہ آگرہ ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء

غلام فرید: احوال العارفین، نذیر سنز، لاہور ۱۹۷۹ء

غلام محمد گرامی: تحفہ لواری شریف، مطبوعہ حیدرآباد ۱۹۷۶ء

غلام محی الدین قصوری: تحفۂ رسولیہ، مطبوعہ ۱۲۳۴ھ

غلام محی الدین قصوری، مولانا: ملفوظات چہل روزہ

غلام مصطفیٰ خاں ڈاکٹر: باقیاتِ باقی مطبوعہ لاہور ۱۹۹۰ء

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: ادبی جائزے، مطبوعہ کراچی ۱۹۵۹ء

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: باقیات باقی، مطبوعہ حیدرآباد، سندھ

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: بیان روشن، مطبوعہ ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی، ایک تحقیقی جائزہ، مطبوعہ کراچی ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء

غلام مصطفیٰ خاں، ڈاکٹر: سندھ کے نقشبندی اولیاء، مطبوعہ غلام مصطفیٰ اکیڈمی، کراچی، ۲۰۰۰ء

غلام مصطفیٰ مجددی، پروفیسر، مجدد الف ثانی۔ کردار وافکار، مطبوعہ۔ لاہور

غلام مصطفیٰ مجددی، پروفیسر: حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا، مطبوعہ لاہور
غلام معین الدین عبداللہ: معارج الولایت (قلمی) ۱۰۹۴ھ، مخزونہ دانش گاہ پنجاب، لاہور

ف

فاروق القادری، پروفیسر: فاضل بریلوی اور امور بدعت، مطبوعہ لاہور
فخر الدین علی ابن حسین واعظ کاشفی: رشحات عین الحیاۃ، مطبوعہ تہران

فخر مدبر: تاریخ فخر الدین مبارک شاہ
فدا علی طالب، مولوی: آئین اکبری، اردو ترجمہ، مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

فراج عطا سالم، شیخ: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة، طبع اول ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۷ء مکتبہ شاہ فہد، ریاض
فرخ شاہ، مولوی: رسالہ کشف الغطاعن وجہ الخطاء

فرید بھکری، شیخ: ذخیرۃ الخوانین، کراچی
فصیح احمد خوانی: مجمل فصیحی، جلد ۳، طبع محمود فرخ، مشہد ۱۳۶۲ھ
فضل احمد لدھیانوی، قاضی: انوار آفتاب صداقت، مطبوعہ لاہور
فضل الرحمان۔ ڈاکٹر: انتخابات مکتوبات شیخ احمد سرہندی، مطبوعہ، کراچی (انگریزی)
فضل الرحمٰن، ڈاکٹر: انتخابات مکتوبات شیخ احمد سرہندی، مطبوعہ اسلام آباد

فضل الرحمٰن، مولانا: کلمات طیبات، دہلی ۱۸۹۱ء
فضل اللہ مجددی: عمدۃ المقامات، استانبول حقیقت کتابوی، ترکی ۱۹۹۶ء
فضل اللہ نقشبندی قندھاری، حاجی: عمدۃ المقامات، مطبوعہ، خانقاہ مجددیہ، ٹنڈو سائیں داد، حیدرآباد سندھ، ...۱۳۵۵ھ

فضل اللہ تورپشتی: المعتمد فی المعتقد، استانبول، ترکی ۱۹۹۰ء
فضل رسول قادری، علامہ: المعتقد المنتقد مع تعلیقہ "المستند المعتمد بناء نجات الابد" از امام احمد رضا حنفی، مطبوعہ مکتبہ حامدیہ، لاہور

فقیر اللہ علوی: مکتوبات شریف، مطبع اسلامیہ پریس، لاہور

فقیر محمد جہلمی: حدائق الحنفیہ، اردو بازار لاہور ۲۰۰۵ء

فقیر محمد جہلمی، مولانا: حدائق الحنفیہ، تحقیق ترتیب وحواشی مع تکملہ خورشید احمد خان، طبع چہارم ۱۴۰۰ھ/ ۱۹۸۶ء مکتبہ حسن سہیل، لاہور و نولکشور، لکھنؤ

فواد سید: فہرست المخطوطات، مطبع دار الکتب مصریہ، قاہرہ مطبوعہ ۱۳۸۳ھ/ ۱۹۶۳ء

فواد سید: فہرست المخطوطات دار الکتب المصریہ مصطلح الحدیث، دار الکتب قاہرہ، ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء

فیض اللہ منصور، پروفیسر: مہر صفا حضرت پیر محمد عبد اللطیف زکوڑی شریف، مطبوعہ مسلم لیگ رائٹرز اکیڈمی، لاہور

فیض عالم صدیقی: اختلافاتِ امت کا المیہ، جلد دوم، ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء

فیضانِ کرم (ماہنامہ)، شمارہ جون ۲۰۰۴ء کراچی

فیضی: سواطع الالہام۔ مطبع نولکشور لکھنؤ ۱۳۰۶ء

فیوض الرحمان جدون، ڈاکٹر: مشاہیر علمائے سرحد، مجلس نشریاتِ اسلام، ناظم آباد۔ کراچی

فیوض الرحمان، ڈاکٹر: تذکرۂ مولانا عبد الغفور مدنی مطبوعہ کراچی

ق

قادر بخش شیخ: سوانح عمر امام ربانی مجدد الف ثانی، مطبوعہ منشی فخر الدین، لاہور ۱۳۱۴ھ

قاسم بن قطلوبغا: **الاجوبة المضیه عن اعتراضات ابن ابی شیبه علی ابی حنیفه**

قاسم محمود سید: شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا، مطبوعہ مکتبہ شاہکار، لاہور، ۱۹۷۸ء

قشاشی: اسرار المناسک

قطب الدین نہروانی: **ادعیة الحج والعمرة**

قطب شہید، سید: سود

ک

کاشانی: مصباح الہدایۃ

کاظم موسوی بجنوردی: دائرۃ المعارف الاسلامیۃ الکبریٰ، جلد ۳، عربی ایڈیشن، اول مرکز دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی تہران، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء

کامگار حسینی: مآثر جہانگیری

کامل سلمان جبوری: **معجم الشعراء من العصر الجاهلی حتیٰ سنه ۲۰۰۲م**، طبع اول دار الکتب علمیہ، بیروت ۱۴۲۴ھ/۲۰۰۳ء

کریم بخش، مولانا: تعلیماتِ امام اہل سنت

کریم بخش، مولانا: مسئلہ سود

کمال الدین اسمٰعیل: حاشیہ قرۃ کمال قری

کیرانوی، مولانا: اظہار الحق

گ

گلزار محمد، خواجہ: گلزار معانی، مطبوعہ خواجہ بک ڈپو اردو بازار، لاہور
گوہر رحمٰن، مولانا: حرمت سود، اشکالات کا علمی جائزہ
گرڈجیف: قابلِ قدر ہستیوں سے ملاقات

ل

لطائفِ قدوسی

لطیف اللہ، پروفیسر: تصوف اور سرّیت، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور طبع اول ۱۹۹۰ء
لوئیس معلوف: المنجد، مطبوعہ دارالمشرق، بیروت، ۱۹۷۳ء
لیاقت علی خان ڈاکٹر: تاریخ چکوال انجمنِ توقیرِ ادب، چکوال ۱۹۹۲ء

م

ماوردی، امام: ادب الدنیا و الدین
مجدالدین فیروز آبادی: سفر السعادۃ
مجدد الف ثانی و خواجہ محمد سعید و خواجہ سیف الدین: مکتوبات شریف فارسی (قلمی) مخزونہ کتب خانہ سید عاشق حسین شاہ مرحوم۔ شیخوپورہ
مجدد الف ثانی: تعلیمات و شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ ادارہ سعدیہ مجددیہ۔ لاہور
مجدد الف ثانی: جمال السلوک (قلمی) مخزونہ کتب خانہ مدینہ منورہ
مجدد الف ثانی: رسالہ تہلیلیہ (قلمی)، مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسالہ ردِ روافض (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسالہ شرح بعض رباعیات (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسالہ مبدأ و معاد (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسالہ معارف لدنیہ (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسالہ مکاشفاتِ غیبیہ (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی
مجدد الف ثانی: رسائل مجددیہ ادارۂ سعدیہ مجددیہ، لاہور
مجدد الف ثانی: شرح رباعیاتِ خواجہ باقی باللہ (مترجم: ثناء الحق صدیقی) ادارہ مجددیہ، کراچی
مجدد الف ثانی: لوامع الاسرار (قلمی) شرح مطویات الاسرار، مکتوبہ ۱۲۱۴ھ، مخزونہ کتب خانہ قاری احسان اللہ، کوئٹہ

مجدد الف ثانی: مکتوبات امام ربانی (ترجمہ اردو قاضی عالم الدین نقشبندی۔ مطبوعہ السروں کی قوفی دکان۔ لاہور

مجدد الف ثانی: مکتوبات امام ربانی، قلمی (حصہ اول) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی

مجدد الف ثانی: مکتوبات امام ربانی، قلمی (حصہ دوم) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی

مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، جلد اول درالمعرفت، مطبوعہ مطبع مجددا مرتسر ۱۹۱۰ء،

مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، جلد اول دُرّ المعرفت، دہلی ۱۲۸۸ھ

مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، جلد دوم ن؛ درالخلائق ا۷ ۱۸اھ مطبوعہ، دہلی

مجدد الف ثانی: مکتوبات امام ربانی قلمی، (حصہ سوم) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی

مجدد الف ثانی: مکتوبات شریف، جلد اول دُرّ المعرفت۔ مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۲۸ھ

مجدد الف ثانی: اثبات النبوۃ (قلمی) مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر۔ دہلی

مجید اللہ قادری، پروفیسر ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا، مطبوعہ کراچی

مجید اللہ قادری ڈاکٹر کنز الایمان اور دیگر معروف اردو قرآنی تراجم، کراچی ۱۹۹۳ء

محبوب احمد نقشبندی: ملفوظات سعدیہ (قلمی)

محبوب عالم، محمد مصطفیٰ، سیدی نقشبندی، خواجہ: خیر الخیر، ۱۹۵۴ء

محسن ترھٹی، مولانا: الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبدالغنی، مطبوعہ دہلی ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء

محشر بدایونی: روضۂ صفا

محمد ابراہیم خلیل، تکملہ مقالات الشعراء، مطبوعہ سندھی ادبی بورڈ کراچی ۱۹۵۸ء

محمد ابراہیم قصوری: خزینۂ معرفت، مطبوعہ شرق پور ۱۹۷۶ء

محمد ابن البز ارالکردی: المناقب

محمد ابن عابدین شامی دمشقی، علامہ سید: عقود اللآلی فی الاسانید العوالی، مطبع المعارف دمشق طبع اول ۱۳۰۲ھ

محمد ابن وضاح القرطبی: البدع والنهی عنها، تحقیق محمد احمد، مطبوعہ دار الصفا، القاہرہ ۱۹۹۰ء

محمد ابوزہرہ مصری: ابوحنیفہ،

محمد ابوزہرہ مصری: اصول الفقه، مطبوعہ دار الفکر العربی، بیروت

محمد احسان اللہ مجددی: روضۃ القیومیہ، جلد اول مطبوعہ مکتبہ نبویہ، لاہور

محمد احسان عباس: سوانح عمری حصرت مجدد الف ثانی، رام پور ۱۹۲۶ء

محمد احسان عباس: سوانح حضرت مجدد الف ثانی سرہندی ہمدرد کامریڈ پریس، دہلی

محمد احسان مجددی: روضۃ القیومیہ (قیوم اول) مرتبہ اقبال احمد فاروقی، مکتبہ بنوریہ، لاہور ۱۹۹۶ء

محمد احمد درنیقہ، ڈاکٹر: الطریقہ النقشبندیہ، لبنان

محمد احمد درنیقہ، ڈاکٹر: الطريقة النقشبنديه واعلامها، طبع اول ۱۹۸۷ء مطبع جروس برس، طرابلس، لبنان

محمد احمد قادری: مکتوبات امام احمد رضا خاں بریلوی، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۶ء

محمد اختر رضا خاں ازہری، علامہ مفتی: شجرہ طیبہ، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۵ء

محمد ارشاد خان تاریخ ہزارہ (عہد تُرکاں)، طفیل آرٹ پرنٹر، لاہور ۱۹۷۶ء

محمد اسحٰق بھٹی: فقہائے ہند، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۴ء

محمد اسلام، پروفیسر: سرمایہ عمر، ندوۃ المصنفین، لاہور

محمد اسلم سہول، مولانا: شان، مصطفیٰ، مطبوعہ آیدیان شیخوپورہ

محمد اسلم پروفیسر: دینِ الٰہی اور اسکا پس منظر، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۰ء

محمد اسلم، پروفیسر: دین الٰہی اور اس کا پس منظر، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، سمن آباد، لاہور، ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء

محمد اسلم، پروفیسر: وفیات مشاہیر پاکستان، اسلام آباد ۱۹۹۰ء

محمد اسماعیل روشن: دیوان روشن، مطبوعہ ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء

محمد اسماعیل سراجی نقشبندی: مقاماتِ سراجیہ، مکتب سراجیہ مجددیہ، خانقاہِ احمدیہ سعیدیہ، موسیٰ زئی شریف، ۱۹۸۹ء

محمد اسمٰعیل نقشبندی، ڈاکٹر: سیرت نقشبند، مطبوعہ ۱۹۱۷ء

محمد اشرف احمد، نقشبندی: جواہر علویہ، کنول کشکور، گیس پرنٹنگ پریس، لاہور

محمد اشرف عثمانی؛ ارشادات مجدد الف ثانی، مطبوعہ لاہور

محمد اشرف، خواجہ: حل المغلقات فی الرد علی اهل الضلالات

محمد اشرف، صاحبزادہ: سوانح حیات حضرت سید امیر صاحب، صاحبزادہ بک فاؤنڈیشن۔ گوٹھ، ضلع صوابی ۱۴۱۹ھ

محمد اعظم، خواجہ: تاریخ کشمیر اعظمی، مطبوعہ لاہور، ۱۳۰۳ھ

محمد اقبال احمد باروی صاحبزادہ: شہباز قُدس، مکتب حامدیہ بارویہ، جامع نعمانیہ رضویہ، لیہ ۱۹۸۱ء

محمد اقبال ڈاکٹر: بال جبریل مطبوعہ لاہور، ۱۹۴۷ء

محمد اقبال مجددی، پروفیسر: مقامات معصومی جلد اول مطبوعہ لاہور ۲۰۰۵ء

محمد اقبال مجددی: حسنات الحرمین (افتتاحِ سخن)، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۱ء

محمد اقبال مجددی: مقامات معصومی، سہ مجلات، مطبوعہ لاہور

محمد اقبال مجددی، پروفیسر: احوال و آثار عبداللہ خویشگی قصوری مطبوعہ لاہور ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲ء

محمد اقبال مجددی، پروفیسر: مقدمہ ملفوظات شریفہ، مطبوعہ لاہور، ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ء

محمد اقبال مجددی، پروفیسر: مکاتیب مظہر جان جاناں، مطبوعہ لاہور

محمد اقبال، ڈاکٹر: تاریخ تصوف، مرتبہ پروفیسر صابر کلوری، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور ۱۹۸۷ء

محمد اقبال: پاکستانی معیشت میں بلاسود اسکیم کے نفاذ کا جائزہ

محمد اقبال، ڈاکٹر تشکیل جدید الٰہیات اسلامیہ (اردو ترجمہ سید نذیر نیازی) مطبوعہ لاہور، ۱۹۵۸ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: بال جبریل، مطبوعہ لاہور، ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: تاریخ تصوف، مطبوعہ اقبال اکادمی، لاہور، ۱۹۷۷ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: جاوید نامہ، مطبوعہ لاہور ۱۹۴۷ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: ضرب کلیم، مطبوعہ لاہور ۱۳٦۴ھ/۱۹۴۴ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: کلیات اقبال (اردو) مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۹۱ء

محمد اقبال، ڈاکٹر: کلیات اقبال (فارسی) مطبوعہ اقبال اکادمی، لاہور ۱۹۹۰ء

محمد اقبال، ڈاکٹر، مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق، مطبوعہ لاہور ۱۹۳٦ء

محمد اکبر اعوان: شاہ احمد رضا بز مبح افغانی، مطبوعہ کراچی ۱۹۹٦ء

محمد اکبر شاہ دہلوی، سید: مجموعہ فوائد عثمان، طبع ثانی ۱۳۸۳ھ، لائل پور

محمد اکرام شیخ: آب کوثر۔ مطبوعہ لاہور ۱۹۴۰ء، ۱۹۵۸ء

محمد اکرام شیخ: رُودِ کوثر، مطبوعہ لاہور ۱۹٦۴ء

محمد اکرام، شیخ: رود کوثر، مطبوعہ بمبئی، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۸ء

محمد اکرام، شیخ: آب کوثر، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۸ء

محمد اکرم خاں: بلاسود بینکاری

محمد امیر شاہ گیلانی: تذکرہ علماء ومشائخ سرحد، جلد اول، مطبوعہ لاہور ۱۹٦۴ء

محمد امیر شاہ گیلانی: تذکرہ علماء ومشائخ سرحد، جلد دوم، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۲ء

محمد امین: شرح قصیدة العمری فی مدح الامام ابی حنیفه

محمد امین الکُردی: الاجابت الربانیہ، شائع کردہ نجم الدین محمد امین الکردی م ۱۴۲٦ھ

محمد امین بدخشی شیخ: مناقب الحضرات) (مترجم ڈاکٹر معین نظامی)، خانقاہ فتحیہ، گلہار، کوٹلی ۲۰۰۲ء،

محمد امین بدخشی: مقاماتِ احمدیہ وملفوظاتِ معصومیہ، مطبوعہ لاہور

محمد امین بدخشی: مناقب الحضرات (قلمی) مکتوب ۱۱۴۰ھ/۱۷۳۱ء برٹش میوزیم، لندن

محمد امین بدخشی، مولانا: المفاضله بین الانسان والکعبه

محمد امین بدخشی، مولانا: مناقب آدمیہ وحضرات احمدیہ (۱۰۷۰ھ)، مخطوطہ مکتوبہ ۱۱۴۰ھ/ ۱۷۲۷ء، برٹش میوزیم، لندن
محمد امین شرقپوری: تذکرہ اولیائے نقشبند، مطبوعہ مقبول اکیڈمی لاہور ۱۳۷۱ھ
محمد امین عاصی، خواجہ: سیرت طالب کنجاہی، کنجاہ گجرات ۱۹۹۱ء
محمد امین، حافظ: تحفۂ احمدیہ لکشمی آرٹ پریس، راولپنڈی ۱۹۲۹ء
محمد انور علی فریدی: تذکرہ آبادانیہ خانقاہ قادریہ ابادانیہ فریدہ، بدایوں ۱۹۹۴ء
محمد انور شاہ، پیرزادہ: انوار حمید: مطبوعہ قصور ۱۹۸۶ء
محمد ایوب قادری، پروفیسر: خواجہ محمد معصوم اوراورنگ زیب عالمگیر کے تعلقات پر ایک نظر
محمد ایوب قادری، پروفیسر: مجموعہ وصایا اربعہ، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد
محمد بابر بیگ مطالی، ڈاکٹر: مقالہ ایم فل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد
محمد بابر بیگ مطالی، ڈاکٹر: مکتوبات مجدد الف ثانی، تخریج احادیث (مقالہ ڈاکٹریت) پنجاب یونیورسٹی لاہور ۱۹۹۲ء
محمد باقر بن شرف الدین: کنز الہدایات مطبوعہ۔ لاہور ۲۰۰۲ء
محمد باقی باللہ، خواجہ: مکتوبات شریف، مطبوعہ لاہور
محمد برزنجی، سید: رسالہ ایراد البرزنجی
محمد برزنجی، سید: قدح الزند
محمد بن ابراہیم الکشنی: **مناقب الامام ابی حنیفه**
محمد بن احمد ابن عقیلہ: الفوائد الجلیلۃ فی مسلسلات ابن عقیلہ، تحقیق ڈاکٹر محمد رضا قھوجی، طبع اول، دار البشائر الاسلامیۃ
بیروت ۱۴۲۱ھ/ ۲۰۰۰ء
محمد بن چاند: دُرِ نظامی (مترجم حسین علی نظامی) مطبوعہ ۱۹۳۵ء
محمد بن رسول برزنجی: الناشرۃ الناجرہ للفرقۃ الفاجرہ ۱۰۹۳ھ
محمد بن سلیمان البغدادی: الحدیقۃ الندیّہ فی طریقۃ النقشبندیہ، مکتبۃ الحقیقہ استانبول ۱۹۹۲ء
محمد بن عبد الدائم شافعی المعروف بہ ابن بنتِ میلق: قصیدہ ابن بنت میلق
محمد بن عبد اللہ الخانی: البہجۃ السنیہ وارغام المریدین۔ استانبول ۱۹۷۹ء،
محمد بن عبد اللہ، الخطیب ولی الدین: مشکوٰۃ شریف، عربی، طبع کراچی
محمد بن عبد اللہ باجورہ: نشر القلم فی تاریخ مکتبة الحرم، طبع اوّل ۱۴۲۳ھ/ ۲۰۰۲ء شاہ فہد قومی کتب خانہ، ریاض
محمد بن عمر جاوی، شیخ: شرح البردة، مطبوعہ مطبع میریہ مکہ مکرمہ
محمد بن محمود: ملتقی البحار فی شرح المنظومۃ

محمد بن نیشاپوری: مناقب الامام ابی حنیفه

محمد بن یحییٰ ابوبکر الحفار: تاریخ بغداد، جلد ۳

محمد بن یحییٰ ابوبکر الحفار: میزان الاعتدال، جلد ۴

محمد بیگ اوزبکی برھانپوری، شیخ: عطیة الوهاب الفاصله بین الخطاء والصواب (قلمی) مصنفہ ۱۰۹۴ھ مکتوبہ ۱۱۹۴ھ/۱۷۸۰ء، ایران، پاکستان، اسلام آباد

محمد پارسا، خواجہ: رسالہ قدسیہ، مطبوعہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد ۱۹۷۵ء

محمد پارسا، خواجہ: فصول ستہ

محمد پارسا، خواجہ: رسالہ قدسیہ، قلمی (مخزونہ قاری احسان اللہ۔ کوئٹہ)

محمد تقی عثمانی: تقلید کی شرعی حیثیت، مکتبہ دار العلوم، کراچی ۱۴۱۳ھ

محمد تونجی حلبی، پروفیسر ڈاکٹر: تراجم اعیان المدینة المنوره فی القرن ۱۲ الهجری، طبع اول دار الشروق، جدہ ۱۴۰۴ھ/۱۹۸۴ء

محمد جلال الدین: سلاسل اربعہ، مطبع براہمن سٹیم پریس لاہور

محمد جلال الدین: سلاسل ستہ، باہتمام صوفی رضا خاں مروت المعروف بہ رضوگل، مطبع براہمن سٹیم پریس لاہور

محمد جلال الدین: خطبات آل انڈیا کانفرنس، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۹ء

محمد جمیل احمد شرقپوری، میاں: مسلک مجدد الف ثانی، مطبوعہ انجمن حزب الرسول دار المبلغین، شرقپور شریف

محمد جمیل بن ابوتراب بدخشی حارثی کشمیری: منتخب العقائد (۱۰۱۶ھ) قلمی، مملوکہ خلیل الرحمٰن داؤدی، لاہور

محمد حسن جان سرھندی: طریق النجات، مکتبہ نعمانیہ، سیالکوٹ ۱۴۰۰ھ/۱۹۷۹ء

محمد حسن جان مجددی، انساب الانجاب، مطبوعہ۔ لاہور

محمد حسن نقشبندی: مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، قادری رضوی کتب خانہ، لاہور

محمد حسن، شاہ: تواریخ آئینہ تصوف

محمد حسین مرادآبادی: انوار العارفین (۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء) مطبوعہ لکھنؤ ۱۳۹۳ھ / ۱۸۷۶ء

محمد حسین آزاد، مولوی: دربار اکبری، لاہور ۱۹۴۷ء، مکتبہ کلیان لکھنؤ ۱۹۱۰ء

محمد حسین آسی، پروفیسر: حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت و قومیت، مطبوعہ مکتبہ شاہ نقش لاثانی، سیالکوٹ ۱۹۹۹ء

محمد حسین، مولوی: الطاف رحمانی ترجمۂ اردو مکتوبات امام ربانی، مطبوعہ مولوی امام الدین تاجر کتب، لاہور، ۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء

محمد حلیم: مجدد اعظم، مطبوعہ لاہور، ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء

محمد حمید اللہ، ڈاکٹر: امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی

محمد حنیف رضوی، مولانا: جامع الاحادیث (۱۰ مجلدات) پوربندر، گجرات، بھارت)
محمد حیات سندھی: رسالہ رد بدعات
محمد حیات: فیوضاتِ حسنیہ (تصحیح تجدید صاحبزادہ احمد حسن حسنی)، مکتبہ حسنیہ دربار عالیہ سواگ شریف (ضلع لیہ) ۱۹۹۹ء
محمد خلیل المرادی: سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر، (تحقیق اکرم حسن العلمی بیروت)
محمد خلیل مرادی، شیخ: سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر، تحقیق اکرم حسن علی، طبع اوّل ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء دار صاد، بیروت

محمد داؤد پسروری، ابوالبیان: سیرت امام ربانی، مطبوعہ امرتسر ۱۳۴۳ھ/ ۱۹۲۵ء
محمد درویش لاہور: تحفۃ السالکین، مطبع آفتاب، کوہاٹ ۱۲۹۴ء

محمد دین کلیم قادری: تذکرہ مشائخ قادریہ مطبوعہ لاہور ۲۰۰۱ء

محمد ذوقی، شاہ: ، سر دلبراں، مطبوعہ محفل ذوقیہ، کراچی طبع ثانی ۱۳۸۸ھ

محمد رفیق احمد رزاقی، حاجی: معارف رزاقیہ، دیپالپور، ۱۹۹۵ء
محمد رفیق افضل: گفتار اقبال، ادارۂ تحقیقات پاکستان پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۸۶ء

محمد ریاض صالح: فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهرية، قسم التصوف، مطبوعہ مجمع اللغۃ العربیہ، دمشق، ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء
محمد زاہد اٹکی، خواجہ: قصۃ مشائخ (قلمی) ۱۱۴۶ھ کتب خانہ راجہ نور محمد نظامی۔ اٹک

محمد زبیر، ابوالخیر، ڈاکٹر: سندھ کے صوفیائے نقشبند، مطبوعہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ، حیدرآباد سندھ جلد اول ۱۹۹۶ء، جلد دوم ۱۹۹۷ء
محمد زبیر، ابوالخیر ڈاکٹر: تجلیات معصوم، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۶ء

محمد زبیر، ابوالخیر، ڈاکٹر: بزم جاناں، مطبوعہ حیدرآباد سندھ ۱۹۸۰ء
محمد زبیر، ابوالخیر: امام ربانی اور اتباع رسول، مطبوعہ حیدرآباد سندھ

محمد ساقی مستعد خان، مآثر عالمگیری، مطبوعہ کلکتہ ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰ء

محمد سرفراز خان صفدر: مقام ابی حنیفہ
محمد سعید احمد مجددی، ابوالبیان: البینات شرح مکتوبات، تنظیم الاسلام پبلی کیشنز۔ گوجرانوالہ۔ پاکستان
محمد سعید احمد نقشبندی، مولانا: امام ربانی مکتوبات کی روشنی میں، مطبوعہ مکتبۂ حامدیہ، لاہور، ۱۹۸۸ء
محمد سعید خواجہ: مکتوباتِ سعیدیہ، لاہور
محمد سعید رمضان بوطی: هذا والدی، مطبوعہ دار الفکر، دمشق ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۸ء

محمد سعید، خواجہ: رسالہ فی منع رفع سبابہ

محمد سلیمان ندوی: عرب و ہند کے تعلقات، مطبوعہ الٰہ آباد ۱۹۳۰ء

محمد شعیب تور زہری: مرأۃ الاولیاء (تصحیح تحشیہ ڈاکٹر غلام ناصر مروت)، مرکزِ تحقیقات فارسی ایران، پاکستان، اسلام آباد ۱۴۲۱ء

محمد شفیع تھانوی، مفتی: ختم نبوت، مطبوعہ ادارۃ المعارف، کراچی ۱۹۸۴ء

محمد شفیع نقشبندی: برکات نقشبندیہ، مع انوار شیرامی، چورہ شریف۔ ۱۹۹۷ء

محمد شفیع، ڈاکٹر: صنادید سندھ

محمد شفیع، مفتی: مسئلہ سود

محمد شفیع، صابر: شخصیات سرحد، یونیورسٹی بک ایجنسی، پشاور

محمد شہاب الدین رضوی: علماء عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام، مطبوعہ ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء، رضا اکیڈمی، بمبئی

محمد صادق قصوری: اکابر تحریک پاکستان حصہ دوم، مطبوعہ لاہور، ۱۹۸۹ء

محمد صادق قصوری: تذکرہ اولیاء علی پور سیداں، مطبوعہ برج کلاں، قصور

محمد صادق قصوری: تذکرہ نقشبندیہ خیریہ، لاہور ۱۹۸۸ء

محمد صادق قصوری: ارمغان مجاہد ملت، برج کلاں قصور ۲۰۰۳ء

محمد صادق قصوری: تاریخ مشائخ نقشبندیہ، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۳ء

محمد صادق قصوری: تحریک پاکستان اور علماء کرام، لاہور ۱۹۹۹ء

محمد صادق قصوری: تحریک پاکستان اور مشائخ عظام، لاہور ۱۹۹۶ء

محمد صادق قصوری: مکاتیب مجاہد ملت، لاہور ۱۹۹۵ء

محمد صادق قصوری: مولانا عبدالستار خاں نیازی، حیات، خدمات وتعلیمات، لاہور ۲۰۰۲ء

محمد صادق کابلی، مولانا: حیاتِ باقی (ترجمہ اردو مولانا ابوالحسنات سید محمد دہلوی، ڈاکٹر برھان احمد فاروقی) لاہور

محمد صادق کابلی، مولانا: خواجہ محمد عبدالباقی کابلی،

محمد صادق کشمیری: کلمات الصادقین مطبوعہ ادارہ نشر المعارف کراچی ۱۹۹۵ء

محمد صالح الزواوی نقشبندی الحمودی، شیخ: نفائس السانحات فی تذییل الباقیات الصالحات، مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء

محمد صالح کمبوہ: عملِ صالح

محمد صالح کولابی: ہدایت الطالبین، نول کشور، گیس پرنٹنگ پریس، لاہور

محمد صالح گجراتی: رسالہ اشتباہ

محمد صبغۃ اللہ سرہندی، خواجہ: رسالہ ردمنکران حضرت مجدد

محمد صدیق مجاہد: تذکرہ شعرائے کنجاہ، کنجاہ (گجرات)، ۱۹۹۶ء

محمد طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر: بلاسود بینکاری

محمد طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر: بلاسود معیشت اور اسلامی بینکاری

محمد ظفر الدین رضوی، علامہ: حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، مطبوعہ لاہور

محمد عادل شاہ: انوارِ شیراحی، مطبوعہ ۱۹۱۰ء

محمد عارف ریوگری: عارف نامہ، ۱۹۶۳ء مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان

محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ: دوقومی نظریہ حضرت مجدّد الف ثانی اور علامہ اقبال کی نظر میں، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۷ء

محمد عبدالرسول، صاحبزادہ: مجمع البحار، مطبوعہ قصور

محمد عبدالاحد: مجموعہ حالات ومقامات امام ربانی، مطبوعہ مطبع مجتبائی، لاہور، ۱۹۸۸ء

محمد عبدالباری صدیقی ڈاکٹر: حضرت احمد رضا خاں بریلوی کے حالات اور اصلاحی کارنامے سندھ یونیورسٹی جامشورو، ۱۹۹۳ء

محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، علامہ: حضرت امام اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں، مطبوعہ: مرکزی مجلس امام اعظم، لاہور ۱۹۸۵ء مرکزی مجلس رضا، لاہور ۱۹۹۶ء

محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، علامہ: سنن ابن ماجہ مترجم، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۰ء

محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، علامہ: سنن ابی داؤد مترجم، مطبوعہ لاہور، ۱۹۸۳ء

محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، علامہ: صحیح بخاری مترجم، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء

محمد عبدالحکیم خاں اختر شاہجہان پوری، علامہ: تجلیاتِ امام ربانی، مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور، ۱۹۷۸ء

محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ: تذکرہ اکابر اہل سنت پاکستان، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء

محمد عبدالستار طاہر: تخصصات مسعود ملت، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۳ء

محمد عبدالستار طاہر: تذکار مسعود ملت، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۹ء

محمد عبدالستار طاہر: محسن اہل سنت، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۹ء

محمد عبدالستار طاہر: مسعود ملت اور رضویات، مطبوعہ لاہور ۱۹۹۱ء

محمد عبدالستار طاہر: منزل بہ منزل، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۱ء

محمد عبداللہ قریشی: اقبال بنام شاد، مطبوعہ بزم اقبال، لاہور، ۱۹۸۶ء

محمد عبیداللہ: مکتوبات معصومیہ، جلد سوم (مترجم سید زوار حسین) ادارہ مجددیہ ناظم آباد، کراچی ۱۴۰۶ء

محمد عبیداللہ، خواجہ: حسنات الحرمین، مرتبہ: پروفیسر محمد اقبال مجددی، موسیٰ زئی، سرحد

محمد عبیداللہ اسعدی، مولانا: الربا

محمد علاء الدین الحصنی الحصکفی: درمختار فی شرح تنویر الابصار

محمد علی صدیقی: امام اعظم اور علم حدیث، سیالکوٹ ۱۹۶۶ء

محمد علی مغربی: اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، طبع دوم ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۴ء، مطابع دار البلاد جدہ

محمد علی نقشبندی، اصلاحات نقشبندیہ

محمد علیم الدین نقشبندی، مفتی: خانقاہ محمدی کا علمی ماحول، مطبوعہ جہلم

محمد علی، چوہدری: ظہور پاکستان، لاہور

محمد عمر چمکنی: ظواہر السرائر، (قلمی) ۱۱۱۹ھ کتب خانہ راجہ نور محمد نظامی، اٹک

محمد عمر زمخشری: شقائق النعمان فی مناقب النعمان

محمد عیسیٰ گورمانی: چشمہ حیات، دار العلوم محمدیہ لنگی جنوبی، تونسہ شریف ۱۳۹۸ء

محمد غوثی: اذکار ابرار، ترجمہ گلزار ابرار ۱۰۲۲ھ، مطبوعہ ۱۳۲۶ھ ترجمہ: فضل احمد جیوری، مطبوعہ اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور ۱۳۹۵ھ

محمد غوث، قادری: اسرار الطریقہ (قلمی) کتب خانہ سید امیر شاہ، پشاور

محمد فرخ بن خواجہ محمد سعید سرہندی: كشف الغطاء عن اذهان الاغبياء (قلمی) ۱۲۴۹ھ

محمد فرخ، شیخ: رسالہ فی نفی رفع سبابہ

محمد فرمان ایم۔اے، پروفیسر: انتخاب مکتوبات شیخ احمد سرہندی، مطبوعہ اسلام آباد

محمد فرمان، پروفیسر: حیات مجدد، مجلس ترقی ادب، لاہور

محمد فضل الرحمٰن: تجارتی سود

محمد فضل اللہ: عمدۃ المقامات، مطبوعہ لاہور ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۹ء

محمد فیض احمد اویسی، علامہ: حضرت مجدد الف ثانی کی شان قومیت، مطبوعہ سیالکوٹ

محمد فیض احمد اویسی، علامہ: حضور امام ربانی کا لقب مجدد الف ثانی، مطبوعہ سیالکوٹ

محمد قاسم، ہندوشاہ: تاریخ فرشتہ (اردو ترجمہ از عبدالحیٔ خواجہ ایم اے)، مطبوعہ لاہور ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء

محمد قزوینی: تعلیقہ "شد الازار" مؤلفہ جنید شیرازی

محمد قطب و خلیل الرحمان: احوال العارفین ۱۳۱۷ھ مطبوعہ حیدر آباد دکن

محمد کاظم: عالمگیر نامہ، جلد اول مطبوعہ کلکتہ (انڈیا)

محمد کرم شاہ، پیر: ضیاء النبی، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور ۱۴۱۸ھ

محمد مبارک، شیخ: **المقامات العشر لطلبة العصر**

محمد مبارک، شیخ: **المقامة اللغزية و المقالة الادبية**

محمد مبارک، شیخ: **بهجة الرائح و الغاوى فى احاسن محاسن الوادى**

محمد مبارک، شیخ: **غريب الانباء فى مناظرة الارض و السماء، مطبوعه دمشق ۱۳۰۲ھ**

محمد مبارک، شیخ: **غناالهزار فى محاورة الليل و النهار**

محمد مبارک، شیخ: **لوعة الضمائر فى رثاء عبدالقادر**

محمد مبارک، شیخ: **معارج الارتقاء الى سماء الانشاء**

محمد مبارک، شیخ: **مقامة فى المفاخرة بين الغربة و الاقامة**

محمد مراد دمشقی، علامہ شیخ: **سلک الدرر فى وفيات اهل القرن الثانى عشر**

محمد مراد قازانی، شیخ: احوال الامام الربانی (مصنفہ ۱۳۰۹ھ)، ترمیم واضافات از مصنف ۱۳۱۴ھ

محمد مراد قازانی، شیخ: **الدرر المكنونات النفيسه جلد اوّل** ۱۳۱۶ھ/ ۱۸۹۸ء، جلد دوم سوم ۱۳۱۷ھ مکہ مکرمہ

محمد مراد کاشمیری: رسالہ رد منکران حضرت مجدد

محمد مراد منزلوی قازانی، شیخ: **نفائس السانحات فى تذييل الباقيات الصالحات**

محمد مراد منزلوی قازانی، شیخ: تاریخ روس

محمد مراد منزلوی قازانی، شیخ: تاریخ قازان وبلغار

محمد مراد منزلوی قازانی، شیخ: **رشحات عين الحياة**، مطبوعہ میریہ مکہ مکرمہ، ۱۳۰۷ھ

محمد مراد منزلوی قازانی، شیخ: مشایعۃ حزب الرحمٰن

محمد مراد منزلوی: ترجمہ عربی مکتوبات شریف، مطبوعہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۶ھ

محمد مراد منزلوی: الدرالمکنونات النفسیہ (ترجمہ عربی۔ مکتوبات امام ربانی) سہ مجلدات مطبوعہ مکہ معظمہ

محمد مراد منزلوی: المکتوبات الربانیہ (مجلدات) (مرتبہ: مصطفیٰ حسنین عبدالہادی) مطبوعہ بیروت ۲۰۰۴ء

محمد مرتضیٰ الحسینی الزبیدی، سید: **تاج العروس**، مطبوعہ دارالھدایہ للطباعۃ والنشر والتوزیع، ۱۹۸۷ء

محمد مرید محی الدین حنفی قادری غفوری نوشہرو پشاوری: **تحفة الاخيار فى بيان الصلوٰة على السكون و الوقار**، مطبع مجددی ومرتضوی بخش ۱۳۱۲ھ

محمد مسرور احمد، ابوالسرور: راہِ ہدایت، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ، کراچی

محمد مسرور احمد، ابوالسرور: یادگار مجدد الف ثانی، مطبوعہ کراچی

محمد مسرور احمد، ابوالسرور: مسعود ملت کے آثار علمیہ، مطبوعہ کراچی

محمد مسرور احمد، بوالسرور: امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ، مطبوعہ کراچی

محمد مسعود احمد ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال، سیالکوٹ۔ ۱۹۸۰ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: تذکرہ مظہر مسعود، مطبوعہ کراچی ۱۹۶۹ء

محمد مسعود احمد، ڈاکٹر: مجدد ہزارۂ روم، ادارہ مسعودیہ، کراچی ۱۹۹۷ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: امام احمد رضا اور عالم اسلام، مطبوعہ کراچی

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال، مطبوعہ سیالکوٹ ۱۹۸۰ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی کے ڈاکٹر محمد اقبال پر اثرات (انگریزی)، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۶

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: حضرت مجدد الف ثانی، حیات وافکار وخدمات، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ، کراچی ۱۹۹۵ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: روح اسلام، مطبوعہ ادارۂ مسعودیہ کراچی ۱۹۹۶ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: سیرت مجدد الف ثانی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۶ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: صراط مستقیم، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ، کراچی ۱۹۹۶ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: گویا دبستان کھل گیا، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۹ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: مجدد ہزارۂ دوم، مطبوعہ کراچی، ۱۹۹۷ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: محدث بریلوی، مطبوعہ کراچی، لاہور ۱۹۹۳ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: نئی نئی باتیں، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ، کراچی، ۱۹۹۵ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: فاضل بریلوی اور ترک موالات، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: تحریک آزادی اور السواد الاعظم، مطبوعہ لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء

محمد مسعود احمد، ڈاکٹر: مقدمہ تجلیات امام ربانی (مصنفہ عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری) مطبوعہ ادارہ مظہر اسلام، لاہور ۲۰۰۱ء

محمد مسعود احمد، ڈاکٹر: سیرتِ مجدد الف ثانی مطبوعہ کراچی ۲۰۰۵ء

محمد مسعود ڈاکٹر: محدث بریلوی، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۳ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: مکاتیب مظہری، کراچی ۱۹۶۹ء

محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر: خوب وناخوب، مطبوعہ کراچی ۱۹ ء

محمد مطیع الرحمٰن قریشی حکیم: روشن دل، لاہور ۱۹۹۵ء

محمد مظہر اللہ شاہ، مفتی: تحدیث نعمت، مطبوعہ ادارہ مظہر اسلام، لاہور ۱۹ ء

محمد مظہر علی رضوی: حضرت امام ربانی کے سیاسی مکتوبات، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۳ء

محمد مظہر مجددی دہلوی، شاہ: الدرر المنظم

محمد مظہر مجددی دہلوی، شاہ: مقامات احمدیہ و مقامات سعیدیہ، مطبوعہ دراکمل المطابع دہلی ۱۲۸۲ھ

محمد معروف بہ ابن البز از الکردی: المناقب

محمد معصوم، خواجہ: مکتوبات معصومیہ (سہ مجلات) (ترجمہ: سید زوار حسین شاہ) مطبوعہ کراچی

محمد معصوم، خواجہ: مکتوبات معصومیہ، (قلمی) جلد دوم، مطبوعہ ۱۱۱۰ء مخزونہ کتب خانہ، پروفیسر نثار احمد جان سرہندی، میر پور خاص

محمد معصوم: حضرت مجدد فقہ کے اُفق پر، کوٹلی، آزاد کشمیر

محمد معصوم، خواجہ: تذکار نبویہ (ترجمہ مولانا نور الحسن تنویر چشتی) مکتوبہ انوار مدینہ، سیالکوٹ

محمد معصوم، خواجہ: مکتوباتِ معصومی، ترجمۂ اردو مطبوعہ کراچی ۱۹۸۰ء

محمد معصوم، خواجہ: مکتوباتِ خواجہ محمد معصوم، سرہندی: مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان (۳ مجلدات) مطبوعہ کراچی ۱۹۷۶ء

محمد معین ٹھٹھوی، مخدوم: **بهجة النظار فی براأة الابرار**

محمد مفید: جامع مفیدی، مطبع ایرج افشار، ایران ۱۳۴۰ھ

محمد مکرم احمد مفتی: فتاویٰ رضویہ اور فتاویٰ رشیدیہ کا تقابلی جائزہ، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۱ء

محمد منظور نعمانی: تذکرہ مجدد الف ثانی، مطبوعہ کراچی

محمد منظور نعمانی، مولانا: تذکرہ مجدد الف ثانی، مطبوعہ لکھنو ۱۳۷۹ھ/۱۹۶۹ء

محمد منیر احمد سلیچ، ڈاکٹر: خفتگان خاک گجرات، گجرات ۱۹۹۶ء

محمد مہدی بن احمد بن علی یوسف الفاسی، علامہ: مطالع المسرات بجلاء دلائل الخیرات، المکتبۃ النوریۃ الرضویہ، لائلپور

محمد میاں: علمائے ہند کی شاندار ماضی، حصہ اوّل مطبوعہ مرادآباد ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء

محمد ناصر الدین البانی: صفة صلاة النبی، مکتبہ المعارف، ریاض، ۱۹۹۱ء

محمد نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر: غیر سودی بینکاری

محمد نذیر رانجھا: تاریخ و تذکرۂ خانقاہ احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف، جمعیت پبلی کیشنز لاہور ۲۰۰۴ء

محمد نذیر رانجھا: تاریخ و تذکرہ خانقاہ موسیٰ زئی شریف، مطبوعہ ۲۰۰۵ء لاہور

محمد نعیم اللہ خیالی: معارف مکتوبات امام ربانی، شاہ ابوالخیر اکیڈمی، دہلی ۲۰۰۲ء

محمد نقشبند، حجۃ اللہ: وسیلہ القول الی اللہ والرسول، مطبوعہ ۱۹۶۳ء

محمد نواز خالد، پروفیسر: صوبہ سرحد۔ لسانی و ثقافتی کانفرنس (مقالات)، پشتو اکیڈمی، پشاور یونیورسٹی، پشاور ۱۹۸۶ء

محمد نور بخش توکلی: تذکرۂ مشائخ نقشبندیہ، نوری بک ڈپو، لاہور ۱۹۷۶ء

محمد وجیہہ الدین نقشبندی: شرحِ مکتوباتِ امام ربانی (انگریزی)، مطبوعہ لاہور

محمد ہاشم کشمی، خواجہ: نسمات القدس (مترجم سید محبوب حسن واسطی) مکتبہ نعمانیہ، اقبال روڈ، سیالکوٹ ۱۴۱۰ھ

محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات (قلمی) ۱۲۸۹ھ، مخزونہ کتب خانہ شاہ ابوالخیر، دہلی

محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات (مترجم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں و ڈاکٹر ابو الفتح صغیر الدین) مکتبۂ نعمانیہ سیالکوٹ ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۶ء

محمد ہاشم کشمی: زبدۃ المقامات، مطبوعہ کانپور ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء

محمد ہاشم کشمی، خواجہ: مکتوبات شریفہ، مخطوطہ مخزونہ کتب خانہ پیر محمد عبداللہ جان مجددی، پشاور

محمد ہاشم مجددی: بیاض قلمی محررہ ۲۵ مئی ۱۹۶۳ء کراچی

محمد ہدایت علی جے پوری: انتخابات مکتوبات امام ربانی المعروف دُرِّ لاثانی مرتبہ: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں مطبوعہ: حیدرآباد سندھ ۱۹۶۱ء

محمد ہمایوں عباس شمس، ڈاکٹر: حضرت مجدد کی تفسیری وفقہی خدمات (مقالہ ڈاکٹریٹ) ۲۰۰۶ء بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان

محمد یحییٰ، خواجہ: رسالہ در رد معترضین حضرت مجدد

محمد یحییٰ، شاہ: اثبات رفع سبابہ

محمد یحییٰ، التادنی: قلائد الجواہر، اردو ترجمہ مولانا زبیر افضل عثمانی، کراچی ۱۹۷۸ء

محمد یوسف مجددی: جواہر نقشبندیہ، مطبوعہ فیصل آباد

محمد یوسف بنوری: معارف السنن، مطبوعہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی، ۱۳۹۸ھ

محمد یوسف مجددی: جواہر مجددیہ، مکتبہ انوار مجددیہ، فیصل آباد ۱۹۹۰ء

محمد حبیب ہیلہ، پروفیسر ڈاکٹر: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة طبع اول مکتبہ شاہ فہد، ریاض ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء

محمد حبیب ہیلہ، پروفیسر ڈاکٹر: التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجرى الى القرن الثالث عشر، طبع اول الفرقان اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن، لندن وجدہ ۱۹۹۴ء

محمد ہادی، شیخ: رسالہ رد مخالفین حضرت مجدد

محمد ہاشم خافی خاں: منتخب اللباب (ترجمۂ اردو) مطبوعہ کراچی، ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء

محمد ہاشم کشمی، خواجہ: برکات الاحمدیہ الباقیہ

محمد ہاشم کشمی، خواجہ: نسمات القدس من حدائق الانس (قلمی) ۱۰۳۱ھ/۱۶۲۲ء

محمد ہاشم کشمی، شیخ: زبدۃ المقامات، مطبوعہ کانپور ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء مطبوعہ سیالکوٹ ۱۴۰۷ھ (اردو ترجمہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں)

محمود احمد رضوی سید: سید ابوالبرکات، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۹ء

محمود احمد غازی، ڈاکٹر: احمد بن عبدالاحد کے نزدیک عقائد اہل سنت (مترجم پروفیسر عبدالرسول)

محمود احمد غازی، ڈاکٹر: اسلام میں رباء کی حرمت اور بلاسود سرمایہ کاری

محمود احمد قادری، مولانا: تذکرہ علماء اہل سنت (بھارت) مطبوعہ سنی دارالاشاعت علویہ رضویہ، فیصل آباد، ۱۹۹۲ء

محمود احمد قادری، مولانا: مکتوبات امام احمد رضا بریلوی، مطبوعہ مکتبہ نبویہ، لاہور، ۱۹۹۶ء

محمود احمد، شیخ: اسلام کا نظریہ سود اور بینکاری

محمود احمد، شیخ: سود کی متبادل اساس

محمود بن صبغۃ اللہ مدراسی: **السلک المعظم علی الدرر المنظم**، مطبوعہ مدراس، ۱۲۹۶ھ/ ۱۸۷۹ء

محمود نظامی: ملفوظات، مطبوعہ لاہور

محی الدین ابن العربی: فصوص الحکم (ترجمہ حافظ برکت اللہ)

مستغفری، امام: دلائل النبوۃ

مستقیم زادہ: **مناقب الامام ابی حنیفہ**

مسلم بن حجاج نیشاپوری: **الصحیح ومع شرح الکامل للنووی**، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۹۵۶ء

مشتاق احمد: مسئلہ سود

مصطفیٰ حسنین عبدالہادی: المکتوبات الربانیہ (سہ مجلدات) بیروت ۱۴۲۴ء

مصطفیٰ رضا خاں: مقتل کذب وکید، مطبوعہ ۱۳۳۲ھ

مظفر حسین ملاٹھوی: بلاسود بینکاری

مظہر الدین فاروقی: مناقب احمدیہ ومقامات سعیدیہ، مطبوعہ دہلی ۱۲۶۴ء/ ۱۸۴۷ء

مظہر جانِ جاناں: دیوان (خریطۂ جواہر) مطبوعہ ۱۹۸۸ء

معتمد خاں بخشی: اقبال نامہ جہانگیری، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۳ء

معدن المعانی

معراج الدین مسعودی؛ تاجدار سرہند، مطبوعہ کراچی

معز اللہ خاں، مہمن: مجمع الاسرار (قلمی)، کتب خانہ گنج بخش، اسلام آباد

معشوق یار جنگ بہادر، نوا: مقامات محمود، مطبوعہ لاہور ۱۹۲۴ء

معصوم علی شاہ: طرائق الحقائق

معظم شاہ پیر: تواریخ حافظ رحمت خانی، پشاور ۱۹۷۰ء

معین الحق، سید: معاشرتی وعلمی تاریخ، مطبوعہ کراچی ۱۹۶۵ء

معین الدین اجمیری: معین المنطق، مطبوعہ مشہور پریس کراچی ۱۹۶۷ء

معین الدین ندوی، شاہ: تابعین
مکتوبات شیخ عبدالقدوس گنگوہی،
ملا مراد: مکاتیب طیبہ (عربی)
ملفوظاتِ اکابرِ نقشبندیہ، مرتبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مطبوعہ ١٩٥٩ء
مناوی، امام: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، جلد ٦
مناجات، مطبع مصطفائی، دہلی، ١٣٠٧ھ
مناظر احسن گیلانی: مقالات احسانی، مطبوعہ کراچی
مناقب پیر زین الدین (منثور و منظوم قلمی)، کتب خانہ راجہ نور محمد نظامی، بھوئی گاڑ، ضلع اٹک
مندزی، امام: الترغیب والترہیب، جلد اول
موفق بن احمد مکی، علامہ: مناقب الامام الاعظم، جلد دوم
مہر علی نواز پوری: رسالہ فی بشارہ لاحل الاشارہ
مہیند خت معتمدی، دکتور: مولانا شیخ خالد نقشبندی (مترجم شیخ محمد یونس باڑی مظہری)، مطبوعہ کراچی
مہیند خت معتمدی، دکتور: مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او، مطبوعہ تہران ١٣٤٨ھ
میجر میکانگی وغیرہ: گزیٹیرز آف بلوچستان، کوئٹہ ١٩٠٤ء
مینوکی نکولس: فسانہ سلطنت مغلیہ، ترجم سید مظفر علی، مطبوعہ آگرہ
مینوکی: فسانہ سلطنت مغلیہ، آگرہ ١٩٢٠ء
سُرور الصدور، شیخ غلام علی اینڈ سنز ١٩٩١ء

ن

ناصر الدین عیسیٰ کرمانی: سمط العلی للحضرة العلیاء، مطبوعہ عباس اقبال، تہران، ١٣٣٨ھ
ناصر الدین قادری، ڈاکٹر صاحبزادہ: سندھ کے اکابرین قادریہ کی علمی و دینی خدمات (مقالۂ ڈاکٹریٹ) مطبوعہ قادری پبلی کیشنز، سولجر بازار، کراچی
ناطق کلانوری: لمعات کمالات قادریہ، لالہ موسیٰ گجرات ١٩٨٧ء
نثار الحق نقشبندی، صوفی: ایک انمول ہیرا، مطبوعہ کراچی ٢٠٠٣ء
نجم الدین رازی: مرصاد العباد
نجم الدین سرمانی: مناقب المحبوبین، ١٣١٢ء مطبع دینِ محمدی، لاہور
نذیر احمد حافظ: حضراتِ کرام نقشبندیہ، خانقاہ سراجیہ، کندیاں میانوالی ١٤١٨ء

نذیر نیازی، سید: مکتوبات اقبال، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، کراچی ۱۹۷۵ء

نذیر احمد ڈار، ڈاکٹر: شاہ ہمدان

نزار اباظہ: تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، طبع اوّل دار الفکر، دمشق ۱۴۰۶ھ/ ۱۹۸۶ء

نزار اباظہ: اتمام الاعلام، طبع اوّل، (دار صادر) بیروت ۱۹۹۹ء

نزد صابری: نوادراتِ علمیہ، مجلسِ نوادراتِ علمیہ، اٹک ۱۹۶۳ء

نسائی، امام: سُنن نسائی

نسیم احمد فریدی امروہوی: تجلیات امام ربانی (ترجمہ وتلخیص مکتوبات) مطبوعہ مکتبہ سراجیہ، خانقاہ احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف، ڈیرہ اسمٰعیل خان، کتب خانہ الفرقان لکھنؤ ۱۹۷۸ء

نسیم احمد فریدی امروہوی، مولانا: تلخیص وترجمہ مکتوبات خواجہ محمد معصوم سرہندی، کتب خانہ الفرقان دہلی ۱۹۶۰ء

نسیم احمد فریدی امروہوی، مولانا: خواجہ باقی باللہ، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۷۸ء

نسیم احمد فرید: تجلّیاتِ ربانی، موسیٰ زئی شریف

نصر اللہ ہوتکی، علامہ: شرح مکتوبات قدسی آیات، مطبوعہ کراچی

نظام الدین احمد: طبقات اکبری، لکھنؤ ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷۵ء

نظام الدین اولیاء، خواجہ: فوائد الفواد

نظام الدین بلخی، سید: تحفۃ المرشد، مطبع فیضِ عام، لاہور ۱۸۸۶ء

نظام الدین شکار پوری: ردشبہات پلید نابکار

نظام الدین مجددی توکلی: احوال حضرت مجدد الف ثانی، مطبوعہ لاہور

نظامی بدایونی: قاموس المشاہیر، جلد اول، مطبوعہ دہلی ۱۹۲۴ء

نظر علی خان تالپور، میر: مرغوب الاحباب، ۱۲۷۳ھ

نعیم احمد، ڈاکٹر: اقبال کا تصور بقائے دوام، مطبوعہ اقبال اکیڈمی' لاہور ۱۹۸۹ء

نووی، امام: اذکار نووی

نور احمد مقبول: خزینہ کرم، لاہور ۱۹۷۸ء

نور محمد نظامی، راجہ: تذکرہ علماء ومشائخ ضلع اٹک، بھوئی گاڑ۔اٹک (قلمی)

نور احمد، مولانا: مکتوبات شریف (محشی)، مطبوعہ نور کمپنی، انارکلی، لاہور ۱۹۶۴ء

نور الحسن تنویر چشتی، مولانا: ذکر الٰہی مکتوبات کی روشنی میں، مطبوعہ سیالکوٹ

نورالحسن خاں، نواب: حب رسول (تقریر حسن میاں بن حکیم شاہ محمد سلیمان قادری) مع سلاسل اولیاء، مطبع انوار محمدی لکھنؤ
نورالحق، شیخ: ترجمہ صحیح بخاری

نورالحق، شیخ: زبدۃ التواریخ

نورالدین جہانگیر: تزکِ جہانگیری، (مترجم اعجازالحق قدوسی) مجلسِ ترقی ادب۔ لاہور ۱۹۶۸ء

نورالدین جہانگیر، بادشاہ: تزک جہانگیری، مطبوعہ لاہور ۱۹۶۰ء، علی گڑھ ۱۸۶۴ء

نور بخش توکلی، علامہ: تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۶ء
نور بخش توکلی، علامہ: **الاقوال الصحیحہ فی جواب الجرح علیٰ ابی حنیفہ**، مطبوعہ لاہور، ۱۳۴۳ھ

و

واقعاتِ مشتاق

وحیدالزماں، کیرانوی: القاموس الفرید (صابری دارالکتب، لاہور) ۱۹۸۲ء
وکیل احمد سکندر پوری: انوار احمدیہ

وکیل احمد سکندر پوری: ھدیۂ مجددیہ، مطبوعہ دہلی ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء

وکیل احمد سکندر پوری، مولوی: **الکلام المنجی بردایرادات البرزنجی**، مطبوعہ دہلی، ۱۳۱۲ھ

ولی الدین تبریزی: **مشکوٰۃ المصابیح**
ولی اللہ محدث دہلوی شاہ: کشف الغین فی شرح الرباعیتین، مطبع مجتبائی، دہلی ۱۳۱۰ھ

ولی اللہ محدث دہلوی: کلمات الطیبات

وھبۃ الزحیلی، ڈاکٹر: **اصول الفقہ الاسلامی**، مطبوعہ داراحسان، ایران، ۱۹۹۷ء

ہ

ہارٹ ورگ، ڈاکٹر: نئی تحقیقات در قرآن

ہاشم علی خاں (خافی خاں نظام الملک): منتخب اللباب (مترجم اردو: نوراحمد فاروقی) نفیس اکیڈمی، کراچی ۱۹۶۳ء
ہاشمی فرید آبادی: تاریخ مسلمانان پاکستان و ہند، جلد اوّل، مطبوعہ کراچی
ہدایت علی نقشبندی مجددی، شاہ: درِّ لاثانی، اردو تلخیص و ترجمہ مکتوباتِ امام ربانی مطبوعہ اعلیٰ کتاب خانہ، کراچی، ۱۹۶۱ء
ہری رام گپتا: مغل ہسٹری آف دی پنجاب، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۷۶ء

ہوتچند گربخشانی، ڈاکٹر: اولیائے لواری شریف، مطبوعہ حیدر آباد سندھ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء
ہیثمی، علامہ: مجمع الزوائد۔ جلد ۱۰

ی

یار محمد جدید بدخشی: مکتوبات امام ربانی، جلد اول (مترجم قاضی عالم الدین) مکتبہ مدینہ، لاہور

یحیی الدین علی مجیب: الذیل علی طبقات الفقهاء الشافعية، مطبوعہ دار البشائر اسلامیہ، بیروت، ۱۹۹۲ء

یحیٰ بن شرف نووی: روضة الطالبين عمدة المفتين، مطبوعہ المکتبۃ التجارۃ، مکۃ المکرمہ

یعقوب چرخی، خواجہ: رسالہ ابدالیہ، اسلام آباد ۱۳۹۸ھ

یوسف بن اسمٰعیل نبہانی شیخ: جامع کرامات اولیاء اردو ترجمہ: پروفیسر سید محمد ذاکر شاہ چشتی سیالوی طبع ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۹۹ء

یوسف سلیم چشتی، پروفیسر: اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، مطبوعہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، ۱۹۸۳ء

یوسف سلیم چشتی، پروفیسر: شرح ارمغان حجاز، مطبوعہ عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور

یوسف سلیم چشتی، پروفیسر: شرح اسرار خودی، مطبوعہ عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور

یوسف سلیم چشتی، پروفیسر: شرح بال جبریل، مطبوعہ عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور

یوسف ہاشم رفاعی، سید: ادلة اهل السنة والجماعة، مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء

یونس بن ابراہیم سامرائی: تاریخ علماء بغداد فی القرن الرابع عشر الهجری، طبع اوّل وزارت اوقاف بغداد، ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء

ولقد علموا لمن اشتراه ماله

رسائل:

آستانہ، کراچی، شمارہ نومبر ۱۹۹۷ء

افسانہ، (ماہنامہ) کراچی

البعث ڈائجسٹ (لاہور)، شمارہ جون ۱۹۹۹ء

البلاد، (جدہ)

الحقیقہ (شکر گڑھ)، شمارہ فروری ۲۰۰۱ء

الحقیقہ، (ماہنامہ) شکر گڑھ، شمارہ جولائی ۲۰۰۲ء

الحقیقہ، (ماہنامہ) شکر گڑھ، شمارہ جون ۲۰۰۱ء

الحقیقہ، (ماہنامہ) شکر گڑھ، شمارہ جولائی ۲۰۰۱ء

الخیر (پشاور) شمارہ نومبر ۱۹۸۳ء

الدراسات الاسلامیہ، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد شمارہ نمبر ۳، جلد ۳۷

الفرقان رسالہ (لکھنؤ)، مجدد الف ثانی نمبر، دوسرا ایڈیشن

الفرقان (ماہنامہ) لکھنو شمارہ ۱۹۴۰ء "تجدید و احیاء نمبر"

القول السدید (لاہور) شمارہ جون ۲۰۰۲ء

المصقود، (کراچی)، شمارہ فروری ۲۰۰۴ء

المظہر (کراچی) شمارہ اپریل مئی ۲۰۰۵ء ادارۂ مسعودیہ

انوار لاثانی (ماہنامہ)، شمارہ جولائی ۱۹۹۴ء

انوار لاثانی (علی پور سیداں، لاہور) شمارہ فروری ۲۰۰۴ء

آوازِ نقشبند (پندرہ روزہ) (شیخو پورہ) شمارہ جولائی ۲۰۰۵ء شیخو پورہ

تحقیق (سندھ یونیورسٹی)، جام شورو

جہان رضا (ماہنامہ) لاہور، فروری ۲۰۰۴ء

دعوت تنظیم الاسلام (ماہنامہ) (گوجرانوالہ) نومبر ۲۰۰۴ء

دعوتِ تنظیم الاسلام (گوجرانوالہ) شمارہ فروری ۲۰۰۴ء

دعوتِ تنظیم الاسلام (ماہنامہ) (گوجرانوالہ) جون ۲۰۰۴ء

رکن الاسلام (ماہنامہ) حیدر آباد (سندھ) جون ۲۰۰۵ء

روزنامہ جنگ مڈویک (کراچی) ۱۷/ اپریل ۲۰۰۲ء

روزنامہ جنگ، (کراچی) ۲۷/ فروری ۲۰۰۵ء

روزنامہ جنگ، (کوئٹہ) ۲۱ جولائی ۲۰۰۱ء

سلسبیل (ماہنامہ)، لاہور ''تذکرۃ الاولیاء جدید نمبر'' شمارہ جنوری/ فروری ۱۹۷۳ء

سلسبیل (ماہنامہ)، لاہور، شمارہ مئی ۱۹۹۸ء

سہ ماہی فکر و نظر، اسلام آباد شمارہ اپریل جون ۲۰۰۴ء

سیدھا راستہ، ماہنامہ، (لاہور)

شیر ربانی ڈائجسٹ سہ ماہی (لاہور)، شمارہ جون ۲۰۰۴ء

ضیائے حرم (ماہنامہ)، لاہور، شمارہ جولائی ۲۰۰۲ء

ضیائے حرم (ماہنامہ)، لاہور، شمارہ ستمبر ۲۰۰۲ء

عرفات (لاہور) شمارہ اکتوبر ۲۰۰۴ء

فکر و نظر (ماہنامہ)، اسلام آباد، شمارہ مارچ ۱۹۸۰ء

فکر و نظر (ماہنامہ)، کراچی، شمارہ ستمبر ۱۹۶۵ء

فیضان سدرہ (ماہنامہ)، لاہور شمارہ اگست ۲۰۰۴ء

فیض، (شیر گڑھ)، شمارہ اکتوبر ۱۹۹۵ء

قومی ڈائجسٹ (ماہنامہ)، لاہور شمارہ اگست ۱۹۸۳ء

کنز الایمان (ماہنامہ) لاہور شمارہ نومبر ۲۰۰۴ء

مجلّہ ''مہک'' گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ ۱۹۸۴ء (سالنامہ)

معارف رضا (ماہنامہ) شمارہ فروری ۲۰۰۵ء کراچی

معارف (ماہنامہ) اعظم گڑھ، مطبوعہ مئی ۱۹۶۶ء
نوائے اساتذہ (ماہنامہ)، لاہور شمارہ دسمبر ۲۰۰۴ء
نوائے اسلام جامع نقشبندیہ رضویہ پاک پٹن شریف
نوائے اسلام (پاکپٹن شریف)
نور اسلام (شرقپور شریف) شمارہ مارچ ۱۹۹۳ء
نور اسلام (شرقپور شریف) اولیائے نقشبند نمبر جلد دوم، مارچ، اپریل ۱۹۷۹ء
نور الفرقان (لاہور) شمارہ جنوری ۲۰۰۴ء
نور اسلام، (ماہنامہ) شرقپور شریف، حضرت مجدد الف ثانی نمبر، جلد اوّل، دوم، جلد سوم، شمارہ جنوری ۱۹۸۸ء
نورِ اسلام (شرقپوری شریف) شمارہ مارچ ۱۹۳۳ء
نورِ اسلام، (شرقپوری شریف) (خصوصی نمبر)

☆……☆……☆

السیاسة فی جوامع کلمات نبی العالم ﷺ

English Books

☆☆

Abbot, Freeland. *"The Decline of the Mughal Empire and Shah Walliullah."* The Muslim World, Vol. 52/2 (January 1962), pp.115-123.

Abd al-Karim Mudarris. *Diwan-i-Mawlavi.* Bekhda: Chapkhana-yi al-Najah, 1961.

Adamec, Ludwic W. *Historical & Political Who's Who of Afghanistan.* Graz: Akademische Druck und Verlaganstalt, 1975.

________. *Yad-i-Mardan* Vol. 1. Baghdad: Kurdish Academy,1984.

Ahmad, Aziz. *Studies in Islamic Culture.* Oxford: Clarendon Press, 1964.

Ahmad, Jamil. *Hundred Great Muslims.* Lahore: Ferozsons, 1971.

Ahmad, Zubaid. *The Contribution of India to Arabic Literature.* Jullundur : Maktaba-yi Din wa Danish, 1945.

Algar, Hamid. *"The Naqshbandi Order: A Preliminary Survey of Its History & Significance.'* Studia Islamica 44 (1970), pp. 123-152.

Ali, Anwar. *The Real Achievement of Human Life.* Karachi: Syed Publications, 1979.

Allana, G. *Our Freedom Fighters.* Karachi: Paradise Subscription Agency, 1969.

Annandale, Charles. *Concise Dictionary of the English Language.* Oxford: Oxford University Press,1914.

Arnold, T.W. *"Missions (Muhammadan)."* in Hastings, James, et. al., Encyclopedia of Religions and Ethics. 13 vols. New York: C. Scribner's Sons, 1925-1935. Volume 8.

. *"Saints and Martyrs."* in Hastings, James, et. al., Encyclopedia of Religions and Ethics. 13 vols. New York: C. Scribner's Sons, 1925-1935.

________. *The Preaching of Islam.* Lahore: Shirkat-i Qalam, 1956.

Babajanov, Bakhtiyor, M..*"On the History of Naqshbandiyya- Mujaddidiyya in Central ma wara' an-nahr in the late 18th & early 19th centuries."* In Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Edited by Michael Kemper, Anke von Kügelgen, and Dmitruy Yermankov. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1996, pp. 385-413.

Bailey, Graham. *Studies in North Indian Languages.* London: Lund, Humphries, and Co.,

1938.

Bailey John. *Professional Musicians of the City of Herat.* Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Barzani, Mas'ud. *Al-Barzani wa'l-Haraka al-Taharruriyya al-Kurdiyya 1945-1958 (Barzani & the Kurdish Liberation Movement 1945-1958).* Kuwait: Thaqafa al-Kurdiyya, 1997.

Behn, H. *Index Islamicus (1665-1905).* Leiden: E.J. Brill, 1989.

Bosworth, C.E., Bearman, P.J., et. al. eds. *The Encyclopaedia of Islam.* 12 volumes. Leiden: E.J. Brill, 1997.

Bottcher, Anabelle. *"Transmission of Islamic Knowledge in Syria."* In Donna Bowen. Everyday Life in the Muslim Middle East. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

—— ——. *"Official Sunni and Shia Islam."* European University Working Paper, 2002.

————. *Syrische Religionspolitik unter Asad.* Freiburg: Arnold Bergstrasser Institut, 1998.

Briggs J. *History of the Rise of Mohammadan [sic] Power in India.* Calcutta: Susil Gupta Ltd.,1958.

Brockelmann, C. *Geschichte der arabischen Literature.* 2 vols. Leiden: E.J. Brill, 1942.

Brown, John P. *The Dervishes or Oriental Spiritualism.* London: Frank Cass & Company Ltd., 1968.

Buehler, Arthur. *Sufi Heirs of Prophet:* The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Mediating Shaykh. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1998.

Bruinessen, Martin van. *"The Naqshbandi Order in 17th Century Kurdistan."* In Naqshbandis Cheminements et Situation actuelle d'un Order Mystique Musulman. Eds. Gaborieau, M.A. Popovic, & Th. Zarcone. Paris: Editions ISIS, 1990.

Burhan, Ahmad. *The Mujaddid's Conception of Tawhid.* Lahore: Muhammad Ashraf, 1940.

Chopra, Pran Nath. *Some Aspects of Society and Culture During the Mughal Age. Jaipur:* Shiva Lal Wala, 1963.

Damrel, David. *The Naqshbandi Reaction (Reconsidered) In Beyond Turk and Hindu: Rethinking Religious Identities in Islamicate South Asia.* Edited by David Gilmartin and Bruce Lawrence. Gainesville: University Press of Florida, 2000.

Dar, B. A. *Letter & Writings of Iqbal.* Lahore: Iqbal Academy, 1981.

De Bary, Theodore. *Sources of Indian Tradition.* New York: Columbia University Press, 1958.

Einzmann, Harold. *Religioses Volksbrauchtum in Afghanistan.* Wiesbaden: Steiner, 1977.

Eliot, Henry and Dawson. *History of India as Told by its own Historians.* 7 vols. London: Trubner and Co., 1867-1877.

Ernst, Carl. *Eternal Garden. Mysticism History and Politics at a South Asia Sufi Center.* Albany: SUNY Press, 1993.

Faruqi, Abu al-Hasan Zaid. *Hazrat Mujaddid and His Critics.* Trans. Mir Zahid Kamil. Lahore: Progressive Books, 1982.

Fowler, F. J. *Oxford Dictionary.* Oxford: Oxford University Press, 1952.

Friedmann, Yohanan. *Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Thought and a Study of His Image in the Eyes of Posterity.* Montreal: McGill University Press, 1971.

Gaborieau, M.A. *Popovic, & Th. Zarcone (eds). Naqshbandis Cheminements et Situation actuelle d'un Order Mystique Musulman.* Paris: Editions ISIS, 1990.

Gaddie, William, ed. *Chambers Twentieth-century Dictionary.* London: The British Record Society Ltd, 1954.

Garrett, H. *and Edwardes, S. Mughal Rule in India.* Oxford: Oxford University Press, 1930.

Gascoigne, Bamber. *The Great Mughals.* London: Jonathan Cape, 1971.

Gibb, H.A.R. Mohammadism [sic]: *An Historical Survey.* Oxford: Oxford University Press, 1948.

Gilmartin, David. *Empire and Islam.* London: I.B Tauris, 1988.

Gottschalk, Louis, et. al. *History of Mankind.* London: George Allen and Unwin Brothers Ltd., 1963.

Gulzar-i Uthmani. *Vol. 1. Compiled & edited by Abdul Mustafa Salih.* Baghdad: n.p.,1989.

Gupta, Hari Ram. *Studies in Later Mughal History of the Punjab.* London: Minerva Book Shop, 1944.

Haar, J. G. J., ter. *Follower and Heir of Prophet:* Ahmad Sirhindi as Mystic. 1992.

Habib, Irfan. *"The Political role of Shaikh Ahmad Sirhindi and Shah Waliullah."* Proceedings of the Twenty-Third Session of the Indian History Congress. Part I. Calcutta: n.p., 1961, pp. 209-23.

Hamadhani, Ali. *"Dhakhirat al-Muluk."* India Office Library, London.

Hastings, James, et. *al., Encyclopedia of Religions and Ethics.* 13 vols. New York: C. Scribner's Sons, 1925-1935.

Hawar, M.R. *Shaikh Mahmud-i Quraman u dewlataka-i Khwaru-i Kurdistan (Sheikh Mahmud the Hero & state of Southern Kurdistan).* Vol. I. London: Jaf Press London, 1990.

Hitti, P. K. *History of Syria.* London: Macmillan, 1957.

Husain, *Mahmud and Qureshi, Ishtiaq Husain.* History of the Freedom Movement. 3 vols. Karachi: Pakistan Historical Society, 1957.

Ibn Hasan. *Central Structure of the Mughal Empire.* Oxford: Oxford University Press, 1936.

Ikram, Muhammad. *A Short History of Indo-Pak.* Karachi: n.p., 1940.

________. *Muslim Civilization in India & Pakistan.* Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.

Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam.* Lahore: Iqbal Academy, 1989.

________. *Stray Reflections. Edited by Jawaid Iqbal.* Lahore: Iqbal Academy, 1992.

________. *The Development of Metaphysics in Persia.* Lahore: Bazm-i Iqbal, 1964.

Izzuddin Mustafa Rasul. *Ed. Ahmad-i-Khani.* Baghdad: n.p., 1979.

Kashifi, Fakhruddin Ali b. *Husayn Vaiz. Rashahat-i Ayn al-Hayat.* Kanpur: Nawal Kishure, 1912.

Khan, Sardar Ali Ahmad. *The Naqshbandis.* Sharaqpur: Darul Mubalegheen, 1982.

Luni, Aziz. *Afghans of the Frontier Passes.* Quetta: New Quetta Bookstall, 1992.

Maan Z. *Madina Arabic-English Dictionary.* New York: Pocket Books, 1973.

Malik, Hafiz. *Muslim Nationalism in India and Pakistan.* Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1963.

Marshall, D.N. *Mughals in India. London:* Mansell Publishing Ltd, 1967.

Mayer, Adrian C. *"Pir & Murshid: An Aspect of Religious Leadership in West Pakistan."* Middle Eastern Studies 3:2 (1967) pp. 160-169.

McDonald, D.B. *Development of Muslim Theology, Jurisprudence & Constitutional Theory.* New York: Charles Scribner's Sons, 1903.

Mole, Marijan. *"Autour de Dar Mansour: L'aprentissage mystique de Baha'uddin Naqshband."* Revue des etudes islamique 27/1 (1959), pp. 35-66.

Muhami, Abbas al-Azzawi al-. *"Mawlana Khalid al Naqshbandi."* The Journal of the Kurdish Academy, 1973.

Muhammad Masud Ahmad. *The influence of Shaykh Ahmad Sirhindi on Dr. Mohammad Iqbal.* Karachi: Idara-yi Masudiyya, 1996.

Muhammad Parsa. Qudsiyya. *Ed. Ahmad Tahiri Iraqi. Tehran: Kitabkhana-yi Tahuri, 1975.*

Muhammad Uthman Siraj. *Siraj al-Qulub.* Canada[?]:Naqshbandi Khankah [sic], 1992.

Mujib, M. *The Indian Muslims.* London: Allen and Unwin, 1967.

Nicholson, R. A. *Studies in Islamic Mysticism.* Cambridge: University Press, 1921

Nizami, Khaliq Ahmad. *"Naqshbandi Influence on Mughal Rulers and Politics."* In Islamic Culture 39/1 (1965), pp. 46-47.

Ogilvie, John. *The Imperial Dictionary of the English Language.* London: n.p., 1907.

Qureshi, Ishtiaq Husain. *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent.* The Hague: Mouton and Company, 1962.

Rich, Claudice James. *Narrative of a Residence in Koordistan.* 2 Vols. London: Gregg International Limited Westmead, 1972.

Rizvi, Athar Abbas. *A History of Sufism in India.* 2 vols. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997.

________. *Muslim Revivalist Movements in Northern India.* New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1995.

________. *Shah Wali Allah.* Canberra: Ma'rifat Publishing House,1980.

Roy, Olivier. *"Sufism in Afghan Resistance."* Central Asia Survey 2/4 (1983), pp. 61-79.

Sarkar, Jadunath. The History of Aurangzeb, Bombay: Orient Longman, 1972.

Schimmel, Annemarie. *Mystical Dimensions of Islam.* Lahore: Sang-i Meel Publications,

2003.

________. *Pain and Grace.* Leiden: E.J. Brill, 1976.

________. *Gabriel's Wing:* A Study into the Religious Ideas of Sir Mohammad Iqbal. Lahore: Iqbal Academy, 1989.

________. *And Muhammad is His Messenger.* Lahore: Vanguard Books Ltd. 1987.

________. *Islam In the Indian Sub-continent.* Leiden: E.J. Brill, 1980.

Sharma, Ram. *The Religious Policy of the Mughal Emperors.* London: Asian Publishing House. 1940.

Sherwani, Latif Ahmad, ed. *Speeches, Writings and Statements of Iqbal.* Lahore: Iqbal Academy, 2005.

Sirhindi. Ahmad. *Risala-yi Mabda' wa'l-Ma'ad,* Lahore 1956

________. *Risala dar Radd-i Rawafid,* Rampur 1965

Tabibi. Abdulhakim. *Sufism in Afghanistan and its impact on Islamic culture.* Kabul: Ministry of Information and Culture, 1977.

Trimingham, J. Spencer. *The Sufi Orders in Islam.* Oxford: Oxford University Press, 1971.

Utas. Bo. "Recent Events in Afghanistan." Annual Newsletter of Scandinavian Institute of Asian Studies 11-12 (1977-1978), pp. 3-21.

Werbner. Pnina. *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult.* Karachi: Oxford University Press, 2005.

Whitney, William Dwight. *A Compendous German & English Dictionary.* New York: Henry Holt and Company,1887.

Xismatulin,. A.A. *"Pragmatichesky Sufism V bratstve Nakshbandiya: Teomenmiya (Zikr)"* Vypusk 7 (1995).

Yasin. Muhammad. *A Social History of Islamic India.* New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1974.

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کشورِ چہارم

اِک ولولہء تازہ دیا اہلِ نظر کو
تو منزلِ عرفاں کا ہے قافلہ سالار
(قمر یزدانی)



إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (القرآن الحكيم) بخط ثلث بيضاء

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

اشاریہء رجال جہان امام ربانی

☆☆

مولانا شجاع الرحمٰن، مولانا احمد صادق
مولانا غلام نبی، پروفیسر سید مقصود علی، مولانا نصیر احمد
مولوی غلام جیلانی، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ
حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ شاہد، سمیعہ شاہد

٦٨٨٥

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

آ

آبادشاہ پوری: (ج۔۱) ۲۷، (ج۔۳) ۱۸۸۵، (ج۔۴) ۱۹۵۳، ۱۹۹۲، ۲۱۶۷، (ج۔۵) ۲۷۲۵، (ج۔۶) ۳۹۳۸، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۱

آدم (علیہ السلام): (ج۔۱) ۱۷۲، ۲۱۵، (ج۔۲) ۸۶۸، ۹۴۹، ۱۰۴۴، ۱۰۹۰، ۱۱۴۱، ۱۱۶۵، ۱۱۸۱، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۵۰۴، ۱۵۱۱، ۱۵۱۴، ۱۵۱۹، ۱۵۲۴، ۱۵۵۶، ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰، ۱۵۹۹، ۱۶۳۰، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۸۰۴، ۱۸۱۲، (ج۔۴) ۲۳۳۲، (ج۔۵) ۲۷۴۳، ۲۹۸۶، (ج۔۶) ۳۵۰۶، (ج۔۷) ۴۱۹۴، ۴۲۱۶، ۴۲۷۲، ۴۲۷۴، ۴۳۵۶، ۴۳۷۴، ۴۳۹۱، ۴۴۱۰، (ج۔۸) ۴۵۲۵، ۴۶۹۱، ۴۸۴۰، (ج۔۹) ۵۱۸۵، ۵۵۴۳، (ج۔۱۰) ۵۶۳۳، ۵۷۹۹، ۵۹۸۸

آدم بنوری، سید خواجہ: (ج۔۲) ۷۰۹، (ج۔۳) ۱۳۷۳، ۱۴۰۵، ۱۷۲۱، (ج۔۴) ۲۱۷۳، ۲۱۹۷، ۲۲۰۸، ۲۲۷۵۔ ۲۲۷۶، ۲۲۷۹، ۲۳۷۰، ۲۳۳۶۔ ۲۳۳۷، ۲۳۴۹، ۲۳۸۷، (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۱، ۲۵۷۴، ۲۵۷۹، ۲۶۴۱، ۲۷۴۴، ۲۷۴۸، ۲۷۹۹، (ج۔۶) ۳۱۵۶، ۳۳۵۸، ۳۴۳۳، ۳۴۳۵، ۳۵۵۵، ۳۵۶۶، ۳۷۳۰، ۳۷۶۵۔ ۳۷۶۶، ۳۸۲۸، ۳۸۳۳، ۳۸۳۷، ۳۸۳۹، ۳۸۴۱۔ ۳۸۴۲، ۳۸۷۱، ۳۸۹۷، ۳۹۰۰۔ ۳۹۰۱، ۳۹۰۳، ۳۹۰۶۔ ۳۹۰۷، ۳۹۱۲، ۳۹۳۸، (ج۔۸) ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۰۲۵، ۵۵۴۲، ۵۴۸۹، ۵۵۱۹، (ج۔۱۰) ۵۶۲۵، ۵۶۲۷، ۵۷۵۵، ۵۷۶۱، ۵۸۶۴۔ ۵۸۶۵، ۵۸۶۷، ۵۶۷۰، ۵۸۶۹، ۵۸۸۶۔ ۵۸۸۹، ۵۹۳۰، ۵۹۴۶، ۶۲۴۲، ۶۲۵۹، ۶۲۷۹

آدم ٹھٹوی، مخدم: (ج۔۶) ۳۴۲۶۔ ۳۴۲۹، ۳۴۳۷، ۳۴۵۰۔ ۳۴۶۱، ۳۴۶۷۔ ۳۴۶۹، ۳۵۷۵، ۳۵۷۷، ۳۷۷۹

آدم خان، حاجی (کوئٹہ): (ج۔۶) ۳۷۲۷

آربری اے۔ جے: (ج۔۵) ۲۸۲۸، ۲۹۴۴، ۳۰۲۳، (ج۔۱۰) ۵۸۵۹

آرتھر ایف بیولر (یوسف سالم عبد اللہ)، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۷۶۹، (ج۔۳) ۱۸۸۶، (ج۔۴ ۹۰ ، ۲۲۲۱، (ج۔۵) ۲۶۲۶، ۲۶۴۸، (ج۔۶) ۳۹۳۸، ۳۹۷۳، (ج۔۸) ۴۸۹۳۔ ۴۸۹۴، ۴۹۰۷، ۴۹۱۰، (ج۔۱۰) ۵۶۳۰، ۵۹۵۹، ۶۱۶۳، ۶۲۲۵

آرنلڈ ٹی۔ ڈبلیو (T.W.Arnold): (ج۔۴) ۲۱۵۱، (ج۔۵) ۲۸۲۷۔ ۲۸۲۸، ۲۸۴۱، ۲۸۷۴، ۲۸۹۵، (ج۔۸) ۴۸۷۵، ۴۸۷۶، ۴۸۹۷

آزاد ابوالکلام: (ج۔۱) ۳۰، ۳۳۴، ۳۵۱، (ج۔۲) ۷۸۲، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۷۲۳، (ج۔۴) ۱۹۸۴، ۱۹۹۵۔ ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۲۱۴، ۲۲۲۳، ۲۲۸۹، ۲۵۲۵، (ج۔۵) ۲۵۳۶، ۲۵۵۴، ۲۵۷۹، ۲۸۳۴، ۲۸۴۳، (ج۔۶) ۳۹۴۰، (ج۔۸) ۴۹۲۴، (ج۔۹) ۵۰۲۷، ۵۰۳۹، ۵۱۴۶، ۵۱۵۳۔ ۵۱۵۴، ۵۱۶۳، ۵۲۹۴، ۵۳۸۰

آزاد خان مہمند: (ج۔۱۰) ۵۸۷۶

آزاد گل: (ج۔۶) ۳۷۴۸۔ ۳۷۵۰

آسی، محمد حسین (شاعر و صوفی): (ج۔۶) ۳۱۶۸، ۳۱۷۸

آصف بن برخیا: (ج۔۳) ۱۸۳۷

آصف جاہ، وزیر اعظم: (ج۔۳) ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۶۳۶، ۱۷۲۰، (ج۔۴) ۲۰۲۱، ۲۱۳۶، ۲۱۴۶، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، (ج۔۸) ۴۱۸۶، ۴۵۶۱، (ج۔۹) ۵۱۳۹، ۵۱۴۵، ۵۴۷۹۔۵۴۸۰، ۵۴۸۳، (ج۔۱۰) ۵۶۸۳، ۵۷۹۴

آصف علی، سید حکیم (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۲

آغا جان، شاہ (برادر زادہ و خلیفہ سید عبد القادر آغا): (ج۔۱۰) ۵۸۵۰

آفتاب احمد خاں، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۱۰۱، ۶۱۱۰

آفتاب احمد قرشی، حکیم: (ج۔۹) ۵۵۷۰

آفتاب احمد (مرید پروفیسر محمد حسین آسی): (ج۔۱۰) ۶۰۹۳

آفتاب احمد نقوی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۰۷۹

آل احمد رضوی، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۹۲

آل رسول قادری برکاتی: (ج۔۵) ۲۸۷۹۔۲۸۸۰

آل محی الدین ہادی، مولانا شاہ: (ج۔۶) ۳۱۳۰، (ج۔۷) ۴۰۱۰، (ج۔۸) ۴۵۰۱، (ج۔۹) ۵۰۱۳، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶

آلوسی، علامہ بغدادی: (ج۔۱) ۹۴، (ج۔۳) ۱۵۰۷، (ج۔۵) ۲۶۴۵، (ج۔۶) ۳۲۸۶

آمدی، علامہ: (ج۔۲) ۵۱۹

آمنہ، (رضی اللہ عنہا): (ج۔۸) ۴۳۸۸

آئن اسٹائن البرٹ: (ج۔۵) ۲۹۴۰، ۲۹۴۶، ۲۹۹۸

آیت اللہ بریلوی، سید: (ج۔۹) ۵۵۵۳

آیت اللہ مرعشی ایرانی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۶

ا

ابا بکر، سید مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۹

ابرار حسین نقشبندی، ملک: (ج۔۶) ۳۸۴۹۔۳۸۵۰

ابراہیم (علیہ السلام): (ج۔۱) ۱۸۶، (ج۔۲) ۷۵۳، ۸۶۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۱، (ج۔۳) ۱۵۲۴، ۱۶۴۲، ۱۵۶۶، ۱۸۵۶، (ج۔۴) ۲۳۰۵، ۲۳۲۴، ۲۳۳۲، ۲۴۲۵، ۲۴۶۹، (ج۔۵) ۲۷۱۶۔۲۷۱۷، ۲۹۵۹، ۲۹۸۳، ۳۰۹۷، (ج۔۶) ۳۳۰۸، ۳۸۸۴، (ج۔۷) ۴۰۶۷، ۴۲۴۶، ۴۲۴۸، ۴۲۵۲، ۴۲۵۵، (ج۔۸) ۴۶۱۰، ۴۷۲۵، ۴۷۶۰، (ج۔۹) ۵۳۴۹، ۵۳۹۲، (ج۔۱۰) ۵۵۹۹، ۵۷۳۳۔۵۷۳۴، ۵۸۲۳، ۶۱۷۳

ابراہیم آفندی، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۱۰

ابراہیم الخالبان: (ج۔۶) ۳۲۴۹

ابراہیم الہاشمی بغداد: (ج۔۲) ۶۲۴

ابراہیم بن ابی المجد حسین، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۷

ابراہیم بن ابی الوزیر: (ن۔۲) ۵۱۹

ابراہیم بن ادھم، خواجہ: (ج۔۳) ۱۵۹۶، (ج۔۸) ۴۸۴۱، ۴۸۵۶، (ج۔۹) ۵۳۷۶

ابراہیم بن اسحٰق النیسابوری: (ج۔۲) ۵۱۵

ابراہیم بن اسماعیل: (ج۔۸) ۴۹۴۹

ابراہیم بن ایوب: (ج۔۲) ۵۳۲

ابراہیم بن بشار: (ج۔۲) ۵۷۶

ابراہیم بن بہاء الدین بن محمد: (ج۔۶) ۳۲۳۲

ابراہیم بن خالد: (ج۔۲)۵۷۱
ابراہیم بن زہیر: (ج۔۷)۴۲۸۶
ابراہیم بن عباس، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸
ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم الہروی، ابواسحٰق: (ج۔۲)۶۲۴
ابراہیم بن عبداللہ سویدی بغدادی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۰
ابراہیم بن عصمۃ: (ج۔۲)۵۵۴
ابراہیم بن عطیۃ، الحداد: (ج۔۷)۴۳۰۵
ابراہیم بن فیض اللہ سندھی: (ج۔۶)۳۲۰۶
ابراہیم بن محمد زمزمی، شافعی: (ج۔۶)۳۱۹۴، ۳۲۱۰
ابراہیم بن محمد سعید حسینی، مفتی حکیم: (ج۔۶)۳۱۹۴
ابراہیم بن محمد محمود، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۸
ابراہیم بن محمد مرادی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۶۸
ابراہیم بن محمد بن الحارث: (ج۔۲)۶۱۴
ابراہیم بن معین الحسنی: (ج۔۸)۴۸۶۱
ابراہیم بن موسیٰ: (ج۔۲)۷۳۲
ابراہیم بن مہدی: (ج۔۲)۵۳۹
ابراہیم بن میسرہ: (ج۔۷)۴۳۷۸
ابراہیم بن ناصر: (ج۔۳)۱۳۶۵
ابراہیم بن نائلۃ الاصفہانی: (ج۔۲)۵۳۸
ابراہیم بن یعقوب کلابازی: (ج۔۷)۴۴۶۷
ابراہیم بن یومرد: (ج۔۷)۴۳۰۶
ابراہیم ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۰۵
ابراہیم جنگل جیلوی، اخوزادہ: (ج۔۶)۳۹۲۳
ابراہیم چشتی، شیخ (اچینہ): (ج۔۶)۳۸۹۶
ابراہیم حقی (محمد صفاء)، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۸
ابراہیم حلبی، علامہ: (ج۔۲)۷۱۷
ابراہیم خلیل الرحمٰن: (ج۔۲)۱۱۶۶، ۱۱۸۳، (ج۔۶)۳۳۲۴
ابراہیم خوشتر، علامہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
ابراہیم دروبی، شیخ: (ج۔۵)۲۶۸۰، (ج۔۶)۳۹۴۸
ابراہیم (راوی حدیث)' (ج۔۴)۲۳۱۵
ابراہیم زمزمی مکی' شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۳
ابراہیم سرہندی، حاجی: (ج۔۴)۲۱۰۷، (ج۔۵)۲۷۷۸
ابراہیم سرہندی، شیخ (والد شیخ بدر الدین سرہندی):
(ج۔۱۰)۶۲۶۰
ابراہیم سقا شافعی، شیخ: (ج۔۵)۲۶۸۷
ابراہیم سوری (برادرزادہ شیر شاہ سوری): (ج۔۱۰)۵۶۴۳
ابراہیم، شیخ کورانی مدنی: (ج۔۶)۳۱۶۰
ابراہیم، شیخ میاں: (ج۔۶)۳۵۹۰، ۳۶۹۱
ابراہیم، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۶) ۳۲۴۱، ۳۴۱۶،
۳۴۲۹ ۔ ۳۴۳۰، ۳۴۶۱، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸،
(ج۔۹)۵۱۸۷، ۵۵۴۱
ابراہیم، صاحبزادہ بن حکیم محمد بخش: (ج۔۶)۳۷۹۳
ابراہیم فصیح حیدری، علاّمہ: (ج۔۴)۲۵۰۵
ابراہیم قبادیانی، خواجہ: (ج۔۵)۲۹۵۰
ابراہیم کردی: (ج۔۸)۴۵۹۸
ابراہیم گیلانی، پیر سیف الدین: (ج۔۶)۳۵۹۴
ابراہیم لاہری ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۸۷
ابراہیم لودھی: (ج۔۴)۲۰۸۰، (ج۔۱۰)۵۶۴۳

ابراہیم مجددی سرہندی کابلی: (ج۔۱۰)۶۱۲۳

ابراہیم، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۵۷

ابراہیم مخدوم میاں بن ابو القاسم: (ج۔۶) ۳۴۷۶۔ ۳۴۷۷، ۳۴۳۰

ابراہیم مڈئی والاٹھوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۸۹

ابراہیم میرانی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۸

ابراہیم نقشبندی احمدی، شیخ: (ج۔۴)۲۲۲۷

ابلیس (شیطان): (ج۔۳) ۱۷۳۷، ۱۸۰۷، ۱۸۱۴، (ج۔۵) ۲۷۸۶، ۲۹۸۳، ۲۹۸۵۔ ۲۹۸۶، ۲۹۹۱، (ج۔۷)۴۳۴۸، ۴۳۵۳، (ج۔۹)۵۱۹۵

ابن آدم: (ج۔۷)۴۴۰۴

ابن ابی اسود: (ج۔۷)۴۳۴۶

ابن ابی الدّنیا (راوی حدیث): (ج۔۴)۲۳۲۲، (ج۔۷) ۴۳۴۷، ۴۳۵۳

ابن ابی العوام: (ج۔۶)۳۹۳۸

ابن ابی الفوارس: (ج۔۷)۴۳۰۳

ابن ابی الوفا: (ج۔۶)۳۹۳۸

ابن ابی اویس: (ج۔۲)۵۳۵، ۶۳۴، (ج۔۷)۴۲۹۱

ابن ابی حاتم: (ج۔۴)۲۳۳۰، (ج۔۷)۴۳۵۰، (ج۔۹) ۵۲۶۰

ابن ابی حسین: (ج۔۷)۴۳۱۳، ۴۳۱۵

ابن ابی شیبہ، امام: (ج۔۲)۵۱۶، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۲، ۶۳۴، (ج۔۷)۴۳۳۲، ۴۳۳۹، ۴۳۶۱، ۴۳۷۳

ابن ابی عاصم، امام: (ج۔۲)۵۵۱، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۹۶

ابن ابی عدی: (ج۔۷)۴۲۹۲

ابن ابی نجیح: (ج۔۷)۴۳۰۹

ابن اثیرالجزری: (ج۔۲)۵۱۸، ۱۱۵۵، (ج۔۷)۴۳۶۱

ابن اسحٰق: (ج۔۷)۴۲۹۲، (ج۔۹)۵۲۶۱

ابن الجارودالعسکری: (ج۔۷)۴۳۶۲

ابن الجوزی، امام: (ج۔۱) ۲۰۸، (ج۔۲) ۵۱۴۔ ۵۱۵، ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵، ۵۹۷، ۶۰۶، ۶۱۵، ۶۱۸، ۶۲۳، ۶۹۳، (ج۔۵) ۲۸۵۶۔ ۲۸۵۷، (ج۔۶) ۳۹۵۰، (ج۔۷) ۴۰۲۲، ۴۲۶۱، ۴۲۸۴۔ ۴۲۸۶، ۴۳۰۲۔ ۴۳۰۳، ۴۳۰۶، ۴۳۴۱، ۴۳۵۰

ابن الحاجب، علامہ: (ج۔۵)۲۵۸۷، (ج۔۱۰)۶۱۸۸

ابن الحسن: (ج۔۴)۲۱۶۰۔ ۲۱۶۱

ابن الدباغ، علامہ: (ج۔۲)۵۵۲، ۵۸۴

ابن الربیع بن سبع: (ج۔۲)۵۹۲

ابن السمعانی: (ج۔۷)۴۳۲۷،

ابن السنی، امام: (ج۔۲)۵۳۱، ۵۳۳، (ج۔۴) ۲۳۲۵، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۲۸۴۔ ۴۲۸۵، ۴۲۸۹، ۴۳۳۳، ۴۳۵۰

ابن الصلاح: (ج۔۵)۲۸۵۷

ابن الضیاء المکی: (ج۔۶)۳۹۳۹

ابن العماء الحنبلی: (ج۔۹)۵۱۵۶

ابن المبارک: (ج۔۸)۴۶۰۶

ابن المصیب: (ج۔۷)۴۳۱۱

ابن المنذر: (ج۔۷)۴۲۴۹

ابن النجار: (ج۔۴) ۲۳۳۰، (ج۔۷) ۴۳۰۵، ۴۳۳۰، ۴۳۶۶، ۴۳۸۶

ابن النقطہ بغدادی:(ج۔۲)۵۳۹

ابن انشاء:(ج۔۶)۳۶۸۵

ابن ایوب (والد خواجہ یوسف ہمدانی):(ج۔۴)۲۲۵۹

ابن بریدۃ:(ج۔۷)۴۳۸۰، ۴۴۰۷

ابن بطوطہ:(ج۔۴)۲۰۵۰

ابن تیمیہ: (ج۔۱) ۱۰۵، ۱۷۷، (ج۔۲) ۷۰۰، ۷۱۸، ۷۳۲، (ج۔۵) ۲۶۳۸، ۲۶۳۹، ۲۶۴۹، ۲۸۴۶، ۲۸۸۳، (ج۔۶) ۳۹۳۸، (ج۔۷) ۴۳۳۴، ۴۳۵۲، ۴۳۵۹، ۴۳۶۶، (ج۔۸) ۴۹۴۲ـ۴۹۴۳، ۴۹۴۷، (ج۔۹)۵۲۷۳، ۵۳۷۷، ۵۳۷۹، ۵۴۶۷

ابن ثوبان:(ج۔۲)۶۰۶

ابن جبیر:(ج۔۹)۵۲۶۱

ابن جریج:(ج۔۲)۵۹۳

ابن جریر:(ج۔۷)۴۲۴۹، (ج۔۹)۵۲۶۰

ابن حاجب کافیہ:(ج۔۹)۵۱۷۸

ابن حبان، علامہ: (ج۔۲) ۵۱۷، ۵۳۳، ۵۴۶، ۵۴۹، ۵۵۳، ۵۷۲ـ۵۷۳، ۵۷۶، ۶۱۸، ۶۲۳، (ج۔۴) ۲۲۹۵، ۲۳۲۹، (ج۔۷) ۴۲۸۴، ۴۲۸۵، ۴۲۸۹ـ۴۲۹۰، ۴۳۰۶، ۴۳۳۱، ۴۳۳۴ ۴۳۳۶، ۴۳۴۲ـ۴۳۴۳، ۴۳۴۵، ۴۳۴۸، ۴۳۵۰ـ۴۳۵۱، ۴۳۵۴، ۴۳۵۸، ۴۳۶۱، ۴۳۶۳، ۴۳۶۹، ۴۳۷۷، ۴۳۸۳، ۴۳۸۶، ۴۳۹۶، ۴۳۹۸، ۴۴۰۶، (ج۔۸)۴۸۳۳

ابن حجر بان ابن المدینی، شیخ الاسلام:(ج۔۷)۴۳۵۳

ابن حجر عسقلانی، علامہ:(ج۔۱)۲۱۷، (ج۔۲)۵۲۲، ۶۰۲، ۶۹۳، ۷۰۹، ۱۰۹۸، (ج۔۳) ۱۶۶۲، (ج۔۴) ۱۹۴۰، (ج۔۶) ۳۱۷۸، ۳۹۳۸، (ج۔۷) ۴۲۸۵، ۴۴۰۰، ۴۴۰۸، (ج۔۸)۴۶۱۶، (ج۔۹)۵۲۷۰ـ۵۲۷۱، ۵۳۱۲، ۵۳۱۷

ابن حجر مکی ہیتمی، امام: (ج۔۲)۵۱۴، ۵۲۱، ۵۲۶ـ۵۲۷، ۵۴۳، ۵۷۲، ۵۸۲ـ۵۸۳، ۵۸۹، ۵۹۱، ۶۰۲، ۶۱۰، ۶۱۸ـ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۳۳، ۷۲۰، (ج۔۵)۲۸۹۱، ۳۰۵۶، ۳۰۷۳، (ج۔۷)۴۱۷۲، (ج۔۸)۴۹۴۲، ۴۹۴۷

ابن حیان عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان، ابومحمد: (ج۔۲) ۵۱۴، ۵۳۲، ۶۱۴ـ۶۱۵، ۶۳۳

ابن خزیمۃ: (ج۔۷) ۴۳۲۵، ۴۳۲۹، ۴۳۴۴، ۴۳۵۰، ۴۳۶۱، ۴۳۶۹، ۴۳۷۱

ابن خفاجہ اندلسی:(ج۔۹)۵۳۳۱

ابن خلدون، علامہ:(ج۔۲)۱۱۲۴، (ج۔۳)۱۷۲۱

ابن راھویۃ:(ج۔۷)۴۲۸۴

ابن رجب حنبلی، علامہ:(ج۔۲)۵۴۳

ابن سبع، علامہ:(ج۔۵)۲۸۸۶

ابن سعد، علامہ: (ج۔۱) ۲۰۹، (ج۔۲) ۵۲۵، ۵۹۸، (ج۔۵)۳۰۷۲

ابن سعود:(ج۔۶)۳۶۱۱

ابن سعید الناس:(ج۔۶)۳۶۶۶

ابن سمعانی:(ج۔۵)۳۰۱۷

ابن سیرین:(ج۔۹)۵۲۶۱

ابن سینا:(ج۔۳)۱۷۴۰

ابن شہاب زہری، امام:(ج۔۵)۲۶۴۳، (ج۔۷)۴۳۱۲

ابن طاؤس:(ج۔۷)۴۳۰۴

ابن عابدین شامی، علامہ: (ج۔۱) ۹۴، (ج۔۲) ۶۹۳،

(ج_۵) ۲۶۹۷، (ج_۶) ۳۲۱۱، (ج_۹) ۵۰۶۷، ۵۲۶۷

ابن عباس: (ج_۱) ۲۱۲_۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۷، (ج_۲) ۵۱۴، ۵۱۶_۵۱۸، ۵۲۵، ۵۳۳_۵۳۴، ۵۵۳، ۵۶۶، ۵۹۲، ۶۰۳_۶۰۴، ۶۱۱، ۶۲۲، ۶۲۹، ۷۵۳، ۹۸۷، ۱۱۰۸، ۱۱۱۰، (ج_۳) ۱۳۶۱، ۱۵۵۴، (ج_۴) ۲۲۹۷، ۲۳۱۲، ۲۳۲۱، ۲۳۳۰، (ج_۹) ۵۲۶۰

ابن عبدالبر، علامہ: (ج_۲) ۵۱۷، (ج_۷) ۴۰۶۰، ۴۰۸۰، ۴۳۰۵، ۴۳۰۷، ۴۳۸۵

ابن عبدالوھاب نجدی: (ج_۱) ۱۰۵

ابن عبداللہ، شیخ: (ج_۶) ۳۲۰۸

ابن عجیبہ: (ج_۵) ۳۰۰۲

ابن عدی، امام: (ج_۲) ۶۱۳، (ج_۴) ۲۳۱۴، (ج_۷) ۴۳۳۹، ۴۳۵۰، ۴۳۶۲، ۴۳۷۸، ۴۳۸۳

ابن عربی، شیخ محی الدین ابو بکر: (ج_۱) ۱۸۴، (ج_۲) ۵۵۰، ۵۷۰، ۵۸۳، ۵۹۲، ۶۱۹، ۶۲۸، ۷۹۲، ۷۹۶، ۱۰۰۹، ۱۰۲۰_۱۰۲۱، ۱۱۳۸، ۱۱۶۷، ۱۱۸۵، ۱۲۲۰، ۱۲۲۳، ۱۲۲۵، ۱۲۲۹، ۱۲۳۳، ۱۲۳۵_۱۲۳۶، (ج_۳) ۱۴۳۵، ۱۵۶۲، ۱۵۶۶، (ج_۴) ۱۹۱۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۸_۱۹۳۹، ۲۳۴۹، ۲۴۹۶، (ج_۵) ۲۵۵۳، ۲۶۰۴، ۲۶۰۷، ۲۶۰۹، ۲۶۸۲، ۲۶۹۷، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۳۱_۲۸۳۲، ۲۹۳۱، ۲۹۴۳، ۲۹۶۳، ۲۹۶۶، ۲۹۶۹_۲۹۷۳، ۲۹۷۵، ۲۹۷۷_۲۹۷۸، ۳۰۱۲، ۳۰۲۳_۳۰۲۵، ۳۰۴۲، ۳۰۸۰، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۱۸۷، ۳۲۱۵، ۳۲۸۶، ۳۹۳۹، (ج_۷) ۴۰۳۸، ۴۱۴۸، ۴۱۶۴، ۴۲۱۴، (ج_۸) ۴۶۰۰، ۴۶۵۳، ۴۶۶۳، ۴۹۵۲، ۴۹۶۰، ۴۹۶۱، (ج_۹) ۵۱۲۲_۵۱۲۳، ۵۱۵۶، ۵۱۷۸، ۵۲۶۶، ۵۲۶۸_۵۲۷۱، ۵۲۷۴_۵۲۷۶، ۵۲۸۳_۵۲۸۶، ۵۲۸۹، ۵۲۹۱، ۵۳۰۲، ۵۳۲۹، ۵۳۳۲، ۵۳۴۵، ۵۳۵۰، ۵۳۵۷، ۵۳۷۵، ۵۳۷۷، ۵۳۸۴، ۵۳۸۷، ۵۳۹۲، ۵۴۳۷، ۵۴۵۶، ۵۵۰۳، (ج_۱۰) ۵۶۱۴، ۵۶۶۲، ۵۶۹۰، ۵۷۸۴_۵۷۸۵، ۵۷۸۷_۵۷۸۸، ۵۷۹۱_۵۷۹۲، ۵۷۹۸_۵۷۹۹

ابن عساکر: (ج_۷) ۴۳۳۶، ۴۳۴۶، ۴۳۵۰، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۶۲، ۴۳۷۱، ۴۳۷۳، ۴۳۷۴، ۴۳۸۰، ۴۳۸۳، ۴۳۸۸، ۴۴۱۰

ابن عطا سکندری: (ج_۵) ۲۶۹۸، (ج_۶) ۳۹۳۹

ابن عقیلہ، شیخ: (ج_۶) ۳۱۹۴

ابن علاء الدین نقشبندی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۶۳۱

ابن عماد حنبلی: (ج_۹) ۵۲۷۱، ۵۲۷۳

ابن عمران المعانی: (ج_۷) ۴۲۸۶

ابن غنام: (ج_۲) ۵۳۳_۵۳۵

ابن قتیبۃ: (ج_۷) ۴۲۹۰

ابن قیم الجوزی: (ج_۵) ۲۶۴۹

ابن قیم، امام: (ج_۷) ۴۳۷۲

ابن قیم، عبداللہ محمد بن ابی بکر: (ج_۶) ۳۹۵۶

ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفداء: (ج_۲) ۷۳۳، (ج_۴) ۲۴۵۶، (ج_۵) ۲۸۵۶، ۳۰۱۶_۳۰۱۷، (ج_۶) ۳۹۴۰، ۳۹۵۷، (ج_۹) ۵۳۲۱

ابن ماجہ محمد بن یزید الربعی قزوینی: (ج_۲) ۵۳۲، ۵۴۴، ۵۵۶، ۵۷۶_۵۷۷، ۵۹۶، ۶۰۶، ۶۰۸، ۶۲۳_۶۲۴، (ج_۴) ۲۳۱۲، (ج_۷) ۴۲۹۲، ۴۳۱۱، ۴۳۲۴، ۴۳۲۵، ۴۳۲۹، ۴۳۳۰، ۴۳۳۲، ۴۳۳۴، ۴۳۳۵، ۴۳۴۱،

۴۳۴۸، ۴۳۸۷، (ج۔۹)۵۲۶۱، (ج۔۱۰)۵۸۴۴

ابن مردویہ: (ج۔۷)۴۲۴۹، ۴۳۰۶، ۴۳۵۰

ابن معین: (ج۔۲)۵۱۷، (ج۔۷)۴۲۸۶

ابن منذر: (ج۔۹)۵۲۶۰

ابن ناصر: (ج۔۷)۴۳۰۶

ابن نجیم، المصری: (ج۔۸)۴۶۴۸

ابن ندیم: (ج۔۹)۵۱۹۶

ابن وہب: (ج۔۲)۹۱۸، (ج۔۷)۴۲۹۰، ۴۳۱۴

ابن ہمام، علامہ: (ج۔۲) ۶۶۷، ۷۰۰، ۷۲۴، (ج۔۳) ۱۶۱۱، (ج۔۴)۲۲۳۶

ابواحمد چشتی: (ج۔۸)۴۸۵۶، ۴۸۶۲

ابواحمد دینوری: (ج۔۸)۴۸۵۵

ابوادریس: (ج۔۲)۵۲۶

ابواسحٰق: (ج۔۲)۵۵۴، ۵۷۰

ابواسحٰق بغدادی، مولانا: (ج۔۴)۲۲۵۹

ابواعجاز رستم، ڈاکٹر: (ج۔۹)۵۵۸۲

ابوالاحوص: (ج۔۷)۴۳۱۷

ابوالاسیعا صدیقی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۹۵۵

ابوالبرکات قادری: (ج۔۶)۳۳۳۹، ۳۶۶۵

ابوالبیان پسروری: (ج۔۵)۳۰۳۸۔۳۰۴۰

ابوالحسن ابن عبدالعزیز البغوی: (ج۔۲)۶۱۷

ابوالحسن اشعری، امام: (ج۔۲) ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۴۴۰، ۱۶۸۲، ۱۷۶۲، (ج۔۴) ۲۰۲۳، (ج۔۸) ۴۶۱۶، ۴۷۳۸، ۴۷۹۰، ۴۸۲۴، (ج۔۹)۵۰۷۹، ۵۲۶۵

ابوالحسن الطیفونی: (ج۔۲)۵۶۲

ابوالحسن العلوی: (ج۔۲)۵۲۴

ابوالحسن بن ابان: (ج۔۲)۵۵۸

ابوالحسن بن بشر: (ج۔۲)۵۶۲، (ج۔۷)۴۳۰۹

ابوالحسن بن عبدالعزیز: (ج۔۷)۴۴۱۳

ابوالحسن چشتی، شیخ: (ج۔۳)۱۱۱۹

ابوالحسن حافظ، شیخ: (ج۔۳)۱۷۶۲

ابوالحسن خرقانی، شیخ: (ج۔۱)۳۸۱، (ج۔۲)۸۱۱، (ج۔۳) ۱۳۷۶، (ج۔۴)۲۲۴۴۔۲۲۴۵، ۲۲۵۸، (ج۔۵)۲۷۲۸، (ج۔۶) ۳۹۳۴، ۳۹۷۹، (ج۔۸) ۴۷۹۷، ۴۸۴۷، ۴۸۵۷، ۴۸۶۵، (ج۔۹) ۵۲۱۳، ۵۳۱۵، ۵۳۳۹، ۵۴۰۸، (ج۔۱۰)۵۶۹۴، ۵۹۸۹

ابوالحسن خشت والا، میاں: (ج۔۶)۳۴۷۶

ابوالحسن، خواجہ: (ج۔۴)۱۹۷۹

ابوالحسن، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۴۶

ابوالحسن ڈاہری نقشبندی، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۴۴۳، ۳۶۹۴

ابوالحسن، شیخ (سندھی): (ج۔۶)۳۴۱۶

ابوالحسن صغیر سندھی، مولانا: (ج۔۶)۳۲۰۶، ۳۶۵۹

ابوالحسن علی قریشی ہنکاری: (ج۔۸)۴۸۶۰،

ابوالحسن علی ندوی، سید: (ج۔۹)۵۰۲۸، ۵۰۶۸۔۵۰۶۹، ۵۰۸۷، ۵۱۱۹، ۵۱۵۳، ۵۱۶۱، ۵۱۶۷، ۵۱۷۹، ۵۱۸۳

ابوالحسن، فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

ابوالحسن، میاں: (ج۔۶)۳۶۹۱

ابوالحسن (نصرپور): (ج۔۴)۲۴۴۸
ابوالحسن نقشبندی، خواجہ: (ج۔۹)۵۰۶۱
ابوالحسن نقشبندی، صاحبزادہ (فرزند خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰)۵۹۰۷
ابوالحسن نوری: (ج۔۳)۱۵۲۹، (ج۔۸)۴۹۶۳
ابوالحسین بن بشران: (ج۔۷)۴۳۱۵
ابوالخلیل خان، خواجہ (سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ): (ج۔۱۰) ۶۴۹۰
ابوالخیر، شیخ (استاد شاہ جہاں بادشاہ): (ج۔۱۰)۵۷۶۶
ابوالخیر مجددی دہلوی، شاہ (عبداللہ محی الدین): (ج۔۱) ۱۰۱، ۴۵۷۔ ۴۵۸، (ج۔۲) ۱۱۴۰، (ج۔۳) ۱۷۲۸، (ج۔۵) ۲۸۱۵، ۲۸۲۶، (ج۔۶) ۳۲۵۳، ۳۳۶۲۔ ۳۳۶۷، ۳۳۷۸، ۳۴۰۲، ۳۷۲۶۔ ۳۷۲۷، ۳۷۵۵۔ ۳۷۶۱، ۳۸۸۳، ۳۹۳۶۔ ۳۹۳۷، (ج۔۸) ۴۵۷۶، ۴۶۱۸، ۴۸۶۹، (ج۔۱۰) ۵۹۵۴، ۵۹۵۶، ۶۰۴۴، ۶۱۶۲، ۶۱۷۲، ۶۱۷۹، ۶۱۸۲۔ ۶۱۸۴، ۶۱۹۲، ۶۲۶۷، ۶۲۴۲۔ ۶۲۴۳، ۶۲۵۴، ۶۲۵۹۔ ۶۲۶۰، ۶۲۶۶
ابوالدنیا الأشجع: (ج۔۷)۴۳۰۳
ابوالزبیر: (ج۔۲)۵۶۶
ابوالزناد: (ج۔۷)۴۲۹۳
ابوالشیخ بن حیان: (ج۔۲)۵۱۵، ۶۳۴، (ج۔۴)۲۳۲۹
ابوالعباس الطحان: (ج۔۲)۷۵۰
ابوالعرفان ندوی: (ج۔۹)۵۱۶۰
ابوالعز الدمشقی (جد اعلی قاضی علی دمشقی): (ج۔۱۰)۵۶۲۸
ابوالعلاء، امیر: (ج۔۵)۲۹۱۰
ابوالفتح: (ج۔۳)۱۳۶۵
ابوالفتح بن اسحٰق، شیخ: (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۸) ۴۸۳۸، (ج۔۹)۵۱۸۷
ابوالفتح داؤد: (ج۔۴)۲۰۴۷
ابوالفداء، علامہ ابن کثیر: (ج۔۵)۲۸۵۷
ابوالفرح الطرسوی: (ج۔۸)۴۸۴۹
ابوالفضل: (ج۔۱) ۴۱۴۔ ۴۱۶، ۴۲۷، ۴۴۴، (ج۔۳) ۱۲۹۰، ۱۳۸۶، ۱۴۰۱، ۱۴۱۵، ۱۴۴۴، ۱۴۴۸، ۱۵۱۲، ۱۵۶۱، ۱۵۶۳، ۱۸۶۹۔ ۱۸۷۰، (ج۔۴) ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۷۸۔ ۱۹۸۰، ۱۹۸۲، ۱۹۹۷۔ ۲۰۰۱، ۲۰۱۵۔ ۲۰۱۶، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۰۷۳، ۲۱۰۱، ۲۱۰۳۔ ۲۱۰۴، ۲۱۰۷، ۲۱۱۹، ۲۲۰۴۔ ۲۲۰۵، ۲۲۶۹، ۲۲۷۱، ۲۳۹۸، ۲۴۰۴، ۲۴۳۵۔ ۲۴۳۶، (ج۔۵) ۲۵۶۱، ۲۵۶۳، ۲۵۷۵، ۲۵۷۹، ۲۵۹۳، ۲۵۹۴، ۲۶۳۱، ۲۶۴۷، ۲۷۴۴، ۲۷۴۹۔ ۲۷۵۰، ۲۷۷۰۔ ۲۷۷۲، ۲۷۹۰، ۲۸۴۱، (ج۔۶) ۳۳۴۶، ۳۹۴۰، (ج۔۸) ۴۸۴۳، ۴۸۸۲، ۴۸۹۱، ۴۹۰۳، ۴۹۳۰۔ ۴۹۳۳، ۴۹۳۵۔ ۴۹۳۷، ۴۹۵۲، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۴۹۔ ۵۶۵۲، ۵۶۵۵، ۵۶۶۲، ۵۶۶۷، ۵۶۶۹، ۵۶۷۷، ۵٪۰۰۔ ۵۷۰۲، ۵۷۰۴، ۵۷۰۷، ۵۷۹۳، ۵۸۲۵، ۵۹۲۴، ۶۱۰۶، ۶۱۱۲، ۶۱۱۸
ابوالفضل فاروقی: (ج۔۱)۴۵۸
ابوالفضل وجیہ الدین، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۹
ابوالقاسم: (ج۔۶)۳۴۶۸
ابوالقاسم اکبرآبادی، شیخ: (ج۔۵)۳۰۸۷(ج۔۶)۳۳۵۸
ابوالقاسم بن ابوالکریم: (ج۔۶)۳۷۰۶
ابوالقاسم، شیخ: (ج۔۶)۳۷۶۶

ابو القاسم قشیری، امام: (ج۔۳) ۱۸۳۷، (ج۔۴) ۲۲۵۸، (ج۔۷) ۴۴۴۲، (ج۔۱۰) ۵۸۱۸

ابو القاسم گورگانی، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۵۸، (ج۔۸) ۴۸۴۶، ۴۸۴۹، ۴۸۶۵

ابو القاسم نقشبندی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۴۲۶، ۳۴۲۹۔ ۳۴۳۰، ۳۴۴۷، ۳۴۴۹ ۔ ۳۴۵۰، ۳۴۵۹ ۔ ۳۴۷۰، ۳۴۷۲ ۔ ۳۴۷۳، ۳۴۷۷، ۳۴۸۱، ۳۵۷۷، ۳۶۵۲، ۳۶۵۵، ۳۶۵۹

ابوالکریم بن شاہ ضیاء الحق، شہید: (ج۔۶) ۳۷۰۶

ابوالکلام آزاد، مولانا: ۵۷۹۱

ابواللیث سمرقندی، امام: (ج۔۲) ۵۱۳، ۱۱۰۹، ۲۴۱۹

ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۶۴، ۳۰۱۰، ۳۰۴۲، (ج۔۶) ۳۹۴۰

ابوالمساکین، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۵۰

ابوالمعالی، سید کشمیری: (ج۔۶) ۳۸۶۴

ابوالمعالی شاہ، لاہوری: (ج۔۶) ۳۱۵۳، (ج۔۹) ۵۳۳۵

ابوالمغیر ۃ: (ج۔۲) ۵۹۶

ابوالمکارم، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۳۷۸، ۶۴۱۱

ابوالمواہب الشناوی (مرشد صفی الدین القشاشی): (ج۔۶) ۳۶۵۳

ابوالمواہب حنبلی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۸، ۳۱۷۵۔ ۳۱۷۶، ۳۱۹۲

ابوالنرسی: (ج۔۷) ۴۳۰۳

ابوالنصر: (ج۔۷) ۴۳۱۴

ابوالنصر الخطیب: (ج۔۶) ۳۲۳۱

ابوالنصر سراج بن علی، عبداللہ طوسی: (ج۔۶) ۳۹۴۰

ابوالوفا الافغانی: (ج۔۲) ۷۳۱

ابوالولید: (ج۔۷) ۴۲۹۶

ابوالولید اطیالسی: (ج۔۲) ۵۸۱

ابوالھیم الکشمینی: (ج۔۵) ۲۸۴۷

ابوامامۃ الباھلی: (ج۔۷) ۴۳۹۸

ابوامامہ: (ج۔۷) ۴۲۸۴۔ ۴۲۸۵، ۴۲۸۶

ابوامام: (ج۔۸) ۴۸۳۲

ابوایوب: (ج۔۷) ۴۳۰۸، ۴۳۸۸

ابوایوب انصاری: (ج۔۴) ۲۳۱۴، (ج۔۶) ۳۶۲۴

ابوبکر احمد بن حسین: (ج۔۲) ۶۰۷، ۷۳۱

ابوبکر، الخطیب: (ج۔۷) ۴۳۰۳

ابوبکر، المفید: (ج۔۷) ۴۳۰۳

ابوبکر باقلانی امام: (ج۔۳) ۱۸۳۶

ابوبکر بن ابی شیبۃ: (ج۔۲) ۵۴۷، ۵۷۷

ابوبکر بن خورک امام: (ج۔۳) ۱۸۳۶

ابوبکر بن شہبہ، قاضی: (ج۔۵) ۲۸۵۱، ۲۸۵۵۔ ۲۸۵۷

ابوبکر بن عبداللہ عیدروس، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۵

ابوبکر بن عیاش: (ج۔۲) ۵۵۴

ابوبکر سید ہانی حافظ: (ج۔۶) ۳۶۰۳

ابوبکر شبلی: (ج۔۲) ۹۸۷، ۹۹۷، (ج۔۳) ۱۵۲۹، ۱۵۳۲، (ج۔۵) ۲۹۶۵، (ج۔۷) ۴۳۵۲، (ج۔۸) ۴۸۴۹، ۴۸۶۰، ۴۹۶۳

ابوبکر، صاحبزادہ بن مخدوم آدم ٹھٹھوی: (ج۔۶) ۳۴۵۷

ابوبکر صدیق، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱) ۲۵، (ج_۲) ۱۲۵۸،
(ج_۳) ۱۲۷۳، ۱۵۰۱، (ج_۶) ۳۹۳۹

ابوبکر صدیق (خلیفۂ اول): (ج_۱) ۷، ۲۰۵_۲۰۶، ۲۰۹،
۲۱۱_۲۱۸، ۲۶۱، ۴۳۶، (ج_۲) ۵۲۵، ۵۵۵، ۶۸۸،
۷۱۷، ۹۱۷، ۹۲۷، ۱۱۱۸، (ج_۳) ۱۳۶۴، ۱۵۰۶، ۱۵۲۱،
۱۵۵۳، ۱۵۶۶، ۱۵۹۶، ۱۶۳۶_۱۶۳۷، ۱۶۵۵، ۱۶۷۱،
۱۶۷۹_۱۶۸۲، ۱۷۶۴، ۱۷۷۹، ۱۸۲۶، ۱۸۳۱، ۱۸۵۳_
۱۸۵۴، (ج_۴) ۱۹۴۹، ۲۰۲۲، ۲۱۴۳، ۲۱۹۵، ۲۲۳۵،
۲۲۳۸، ۲۲۴۲، ۲۲۵۵_۲۲۵۷، ۲۲۹۷، ۲۳۷۱، ۲۳۷۹،
۲۴۳۵، ۲۴۶۹، (ج_۵) ۲۵۴۳، ۲۶۰۲، ۲۶۴۰، ۲۷۴۲،
۲۷۸۰، (ج_۶) ۳۵۱۵_۳۵۱۶، ۳۵۷۵، ۳۶۱۷،
۳۶۵۶، ۳۷۰۲، ۳۷۴۲، ۳۷۹۱، ۳۸۱۸، ۳۹۰۴،
۳۹۷۸، (ج_۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۲، ۴۰۱۷_۴۰۲۸،
۴۰۳۰_۴۰۳۱، ۴۰۵۵، ۴۰۵۷_۴۰۵۸، ۴۰۸۵،
۴۱۳۵، ۴۱۴۷، ۴۲۱۴، ۴۲۴۴، ۴۲۹۴، ۴۳۶۲، ۴۳۶۹_
۴۳۷۰، ۴۳۷۴، ۴۳۸۰_۴۳۸۱، ۴۳۸۶_۴۳۹۷،
۴۴۰۰، ۴۴۱۶، ۴۴۲۲، (ج_۸) ۴۴۸۷، ۴۵۰۲، ۴۵۲۶،
۴۵۳۹، ۴۵۵۰، ۴۵۶۱_۴۵۶۴، ۴۶۱۰، ۴۶۴۱، ۴۶۹۴،
۴۷۱۹_۴۷۲۱، ۴۷۲۶، ۴۷۲۸_۴۷۲۹، ۴۷۳۶،
۴۷۳۸، ۴۷۴۷_۴۷۴۸، ۴۷۶۳، ۴۸۰۵_۴۸۰۶،
۴۸۲۳_۴۸۲۴، ۴۸۳۰، ۴۸۴۶، ۴۸۵۷، ۴۸۶۵،
(ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۰۷۱، ۵۰۷۸_۵۰۸۱، ۵۰۸۳_
۵۰۸۵، ۵۱۳۷_۵۱۳۸، ۵۲۳۳، ۵۲۵۰_۵۲۵۱،
۵۲۷۵، ۵۳۰۹_۵۳۱۰، ۵۳۲۰، ۵۳۲۷، ۵۳۳۵_
۵۳۳۶، ۵۳۶۹_۵۳۷۰، ۵۳۸۷، ۵۴۱۵، ۵۴۲۱،
۵۵۴۴، ۵۴۸۰، ۵۴۹۸، ۵۶۱۱، ۵۶۱۶، ۵۶۷۰،
۵۶۸۶، ۵۶۹۰، ۵۷۸۰، ۵۷۹۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۵،
۵۸۷۷، ۵۹۰۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۸، ۵۹۹۲، ۶۰۳۴،
۶۲۵۰، ۶۳۵۸، ۶۴۴۵

ابوبکر فاروقی مجددی: (ج_۶) ۳۷۶۰

ابوبکر قاضی ابن شہید: (ج_۶) ۳۹۴۰

ابوبکر قتلغ خان، سلطان الکامل: (ج_۵) ۲۸۵۷

ابوبکر لاہری ٹھٹوی، مخدوم: (ج_۶) ۳۶۸۷

ابوبکر، مولوی: (ج_۶) ۳۳۰۱

ابوبکر نساج: (ج_۸) ۴۸۴۶، ۴۸۴۹

ابوبکر، ہالائی: (ج_۶) ۳۴۳۶

ابوتراب بخشی: (ج_۲) ۱۰۳۲

ابوتراب سندھی، شیخ: (ج_۱۰) ۶۱۲۷

ابوتراب، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج_۱۰)
۵۷۵۹

ابوجعفر الربانی: (ج_۲) ۵۳۵، (ج_۷) ۴۳۹۱

ابوجہل: (ج_۲) ۱۴۹۹، (ج_۵) ۲۹۱۵، (ج_۷) ۳۱۵۴،
۴۱۶۹، ۴۰۴۳، (ج_۸) ۴۵۹۴، ۴۷۳۸، (ج_۹) ۵۲۵۱۔

ابوحامد بن الشرقی: (ج_۲) ۵۲۳

ابوحذیفہ (ج_۷) ۴۳۰۰

ابوحسن نوری: (ج_۲) ۹۸۸، ۹۹۷

ابوحفص البصری العبدی: (ج_۷) ۴۲۸۷

ابوحفص عمرو بن ابی سلمۃ: (ج_۲) ۵۲۴

ابوحنیفہ، امام نعمان بن ثابت: (ج_۱) ۸۳، ۲۱۶، ۴۱۲،
۴۳۷، (ج_۲) ۶۶۴_۶۶۶، ۶۷۰، ۶۸۶، ۶۹۶، ۷۰۲،
۷۰۴، ۷۰۷، ۷۱۰، ۷۱۸، ۷۲۷، ۸۲۹_۸۳۰، ۸۹۹،
۹۸۷، ۹۹۷، ۱۰۹۸، (ج_۳) ۱۳۸۰، ۱۴۴۰، ۱۵۲۹،
۱۵۹۵_۱۵۹۸، ۱۶۰۰_۱۶۰۲، ۱۶۰۴_۱۶۰۵، ۱۶۱۰_

۱۶۱۳، ۱۶۱۵، ۱۶۵۰_۱۶۵۵، ۱۶۶۲، ۱۶۷۱، ۱۶۷۳_۱۶۷۴، ۱۶۹۸، ۱۷۰۸_۱۷۰۹، ۱۷۵۱، ۱۸۳۲، (ج_۴) ۲۲۵۹، ۲۲۶۸، ۲۲۷۳، ۲۳۱۳، ۲۳۶۵، (ج_۵) ۲۶۴۳، ۲۸۸۳، ۳۰۴۹_۳۰۶۷، ۳۰۷۱، ۳۰۹۲، (ج_۶) ۳۱۴۳، ۳۱۷۸، ۳۵۲۳، ۳۸۸۴، (ج_۷) ۴۰۳۴، ۴۱۹۸، ۴۲۷۰، ۴۲۷۱، ۴۱۷۶، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۵۸۰، ۴۵۹۳، ۴۶۲۱_۴۶۲۲، ۴۶۳۱_۴۶۳۳، ۴۶۳۶، ۴۶۴۲، ۴۷۳۴، ۴۷۳۵، ۴۷۵۲، ۴۸۰۷، ۴۸۲۲_۴۸۲۳، ۴۹۴۸، ۴۹۶۳، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۲۵۸، ۵۲۶۰، ۵۲۶۵، ۵۳۶۹، (ج_۱۰) ۵۶۱۶، ۶۱۴۱، ۶۲۵۸

ابوحیان: (ج_۴) ۲۳۲۹

ابوخزیمہ انصاری: (ج_۲) ۹۱۸

ابوخیثمہ: (ج_۷) ۴۲۸۲

ابوداوٗدالطیالسی: (ج_۲) ۵۲۴، (ج_۷) ۴۲۸۴

ابوداوٗد، امام: (ج_۲) ۵۱۳، ۵۲۲_۵۲۳، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۴۶، ۵۸۰، ۶۲۵، ۶۷۷، (ج_۴) ۲۳۳۰، (ج_۷) ۴۲۸۹، ۴۴۰۱، (ج_۹) ۵۲۴۷، ۵۳۰۸، ۵۳۱۷

ابو درداء: (ج_۱) ۲۱۵، (ج_۲) ۵۱۴، ۵۲۶، ۵۶۷، (ج_۷) ۴۰۳۶، ۴۳۰۵، ۴۳۰۷، ۴۳۱۶، ۴۳۴۴، ۴۳۸۵، ۴۳۹۷

ابودقاق: (ج_۷) ۴۱۱۲

ابو ذر غفاری: (ج_۲) ۵۴۳، (ج_۳) ۱۵۵۳، (ج_۴) ۲۲۹۷، (ج_۷) ۴۳۱۱، ۴۳۲۹، ۴۳۴۶، ۴۳۸۴، ۴۴۱۴، (ج_۸) ۴۸۳۲

ابورافع: (ج_۷) ۴۳۵۸، ۴۳۸۰

ابورجاء: (ج_۷) ۴۲۹۶

ابورضا، شیخ: (ج_۵) ۳۰۸۶

ابوزرعہ: (ج_۷) ۴۳۱۵

ابوسعودمرادی قاضی، شیخ: (ج_۶) ۳۲۴۱

ابوسعید: (ج_۸) ۴۵۲۶، ۴۵۷۲، ۴۸۶۸

ابو سعید ابو الخیر شیخ: (ج_۳) ۱۴۳۲_۱۴۳۳، (ج_۹) ۵۴۲۰، (ج_۷) ۴۰۷۹

ابوسعیدالانصاری: (ج_۷) ۴۳۹۶

ابوسعید بلخی بخاری، شیخ: (ج_۶) ۳۲۲۶

ابوسعید بن ابوالخیر، شیخ: (ج_۴) ۲۳۳۵

ابوسعید بن الاعرابی: (ج_۲) ۵۳۹_۵۴۰، ۵۴۲

ابوسعید بن سلطان محمد: (ج_۸) ۴۹۳۵

ابوسعید خدری: (ج_۲) ۵۳۰، ۶۲۳، ۶۳۸۶۲۵، (ج_۴) ۲۳۱۴، (ج_۷) ۴۰۲۵، ۴۳۳۱، ۴۳۳۳، ۴۳۳۴، ۴۳۳۸، ۴۳۵۰، ۴۳۶۹، ۴۳۸۲، ۴۳۸۵، ۴۳۸۶، ۴۳۹۴، ۴۳۹۷.

ابوسعید خراز، شیخ: (ج_۳) ۱۴۲۶، (ج_۴) ۲۰۷۱، (ج_۵) ۲۹۳۳

ابوسعید، شیخ: (ج_۴) ۲۲۵۱

ابوسعید، شیخ ہند: (ج_۲) ۱۲۱۵

ابو سعید مجددی رامپوری دہلوی، شاہ: (ج_۱) ۴۵۸، (ج_۲) ۱۱۴۵، ۱۱۵۰، (ج_۴) ۲۴۸۷، (ج_۵) ۲۵۸۲، ۲۷۶۵، ۲۸۲۶، (ج_۶) ۳۱۵۷_۳۳۵۸، ۳۳۶۳، ۳۳۶۷، ۳۴۴۴، ۳۶۹۸، ۳۹۱۷، ۳۹۳۶، ۳۹۸۳، (ج_۱۰) ۵۸۸۱_۵۸۸۲، ۵۸۹۴، ۵۹۰۴، ۶۰۳۷،

۶۰۴۴، ۶۱۰۰، ۶۱۸۲، ۶۲۵۹، ۶۲۶۷
ابوسعید مخزومی: (ج۔۸) ۴۸۶۰
ابوسعید، ملا: (ج۔۲) ۷۸۳
ابوسعید ہجویری، شیخ: (ج۔۴) ۲۰۸۶
ابوسفیان الحمصی: (ج۔۷) ۴۲۸۵
ابوشکور سالمی، امام: (ج۔۲) ۵۱۳
ابوشامہ المہدی: (ج۔۷) ۴۲۹۳
ابوشیبہ: (ج۔۷) ۴۳۴۹
ابوشیخ: (ج۔۷) ۴۳۳۹
ابوصالح، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۹، ۴۸۶۰
ابوطالب اگھمی، شیخ: (ج۔۶) ۳۵۷۴، ۳۶۹۳
ابوطالب، عبدمناف، : (ج۔۵) ۲۹۱۵
ابوطالب مکی، امام: (ج۔۲) ۵۱۳، ۵۳۸، ۵۷۰، ۷۸۹، (ج۔۷) ۴۳۱۰، ۴۳۱۱
ابوطاہر، الفقیہ: (ج۔۷) ۴۳۰۱
ابوطاہر، علامہ: (ج۔۹) ۵۲۷۱
ابوطاہر کورانی مدنی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۸، ۳۱۷۵، ۳۳۵۹
ابوطاہر ملتانی بن کمال: (ج۔۶) ۳۹۳۹
ابوطبیلہ اطالوی، جرنیل: (ج۔۶) ۳۸۹۰
ابوطفیل: (ج۔۷) ۴۴۱۲
ابوظفر ندوی، سید: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹
ابوعاصم: (ج۔۷) ۴۲۹۳
ابوعبدالرحمٰن: (ج۔۷) ۴۲۹۰
ابوعبدالرحمٰن الکوفی: (ج۔۷) ۴۳۰۱، ۴۳۰۲
ابوعبدالرحمٰن المقر ی: (ن۔۲) ۵۲۸، (ج۔۶) ۳۴۴۳
ابوعبدالرحمٰن بن الحسین السلمی: (ج۔۷) ۴۲۹۱، ۴۳۱۵
ابوعبداللہ الحافظ: (ج۔۲) ۵۷۹، ۵۹۷
ابوعبداللہ، الحافظ: (ج۔۷) ۴۲۸۳
ابوعبداللہ الخرقی: (ج۔۲) ۵۶۲
ابوعبداللہ، مروزی: (ج۔۱) ۳۰۱۔۳۰۲
ابوعبید: (ج۔۲) ۱۱۷۳، (ج۔۷) ۴۲۸۸
ابوعبید المز جی: (ج۔۷) ۴۲۸۸
ابوعبید بن القاسم: (ج۔۷) ۴۴۱۳
ابوعبیدہ بن الجراح: (ج۔۲) ۵۴۴۔۵۴۵
ابوعبیدہ (فقیہہ): (ج۔۲) ۱۱۷۴
ابوعبیدۃ: (ج۔۷) ۴۳۳۸
ابوعصمۃ بن النعمان: (ج۔۷) ۴۳۰۵
ابوعلی بن نبھان: (ج۔۲) ۶۱۷، (ج۔۷) ۴۴۱۳
ابوعلی حسن ابن علی عجمی مکی: (ج۔۴) ۲۴۵۲
ابوعلی فارمدی، خواجہ فضیل بن محمد: (ج۔۴) ۲۲۴۵، ۲۲۵۸۔ ۲۲۵۹، (ج۔۶) ۳۹۸۰، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۷
ابوعمر: (ج۔۳) ۱۴۹۷، (ج۔۷) ۴۳۱۶
ابوعوانۃ: (ج۔۷) ۴۲۹۷
ابوقتادۃ: (ج۔۷) ۴۴۰۳
ابوکلیم خان: (ج۔۷) ۴۴۱۴
ابولہب: (ج۔۳) ۱۶۷۱، (ج۔۵) ۲۹۱۵، (ج۔۷) ۴۱۵۴، (ج۔۸) ۴۷۴۸، ۴۵۹۴
ابومالک اشعری: (ج۔۲) ۵۲۰، (ج۔۷) ۴۳۱۳، ۴۳۱۴،

۴۳۱۵، ۴۳۱۶
ابومحمد السمز ی: (ج_۷)۴۳۱۵
ابومحمد بن شیخ عبداللہ عمدمیہ: (ج_۸)۴۸۵۵
ابومحمد بن عبداللہ: (ج_۲)۶۳۴
ابومحمد چشتی: (ج_۸)۴۸۵۶
ابومحمد روز بھان: (ج_۲)۵۸۸، ۶۱۹، ۶۳۲
ابومحمد قادری لاہوری (خلیفہ خواجہ محمد طاہر بندگی): (ج_۶) ۳۷۶۶
ابومحمد مجددی (کالم نگار): (ج_۶)۳۷۰۳
ابومحمد مکی: (ج_۲)۱۱۰۹
ابومسعود البدری: (ج_۷)۴۳۸۹
ابومسلم خولانی: (ج_۷)۴۳۱۶
ابومظفر بن سمعانی، امام: (ج_۲)۵۸۲
ابومعاویہ: (ج_۲)۵۳۰، ۵۹۱، ۶۳۴
ابومعشر نجیح سندھی: (ج_۶)۳۴۱۵
ابومعن الرقاشی: (ج_۲)۵۶۵، (ج_۷)۴۲۹۳
ابومنصور سمعانی: (ج_۲)۵۳۵، (ج_۷)۴۲۹۱
ابومنصور ماتریدی، امام: (ج_۲) ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج_۸) ۴۷۹۰، (ج_۹)۵۲۶۵، (ج_۱۰)۶۳۹۴
ابوموسیٰ اشعری: (ج_۲)۵۲۱، ۶۳۶، (ج_۷) ۴۳۳۷، (ج_۱۰)۶۳۹۴
ابوموسیٰ (راوی حدیث): (ج_۲)۵۹۱ (ج_۷)۴۳۶۶، ۴۳۸۹
ابونجیب سھروردی، شیخ: (ج_۲)۵۱۳، ۶۱۷، ۶۲۵، ۶۲۷،
(ج_۷)۴۴۱۳، (ج_۸)۴۸۴۹
ابونعیم اصفہانی، امام: (ج_۲)۵۲۲_۵۲۳، ۵۲۸، ۵۲۹_۵۳۱، ۵۳۷، ۵۴۱، ۵۴۴، ۵۵۷، ۵۶۰، ۵۷۵_۵۷۶، ۵۸۷، ۶۱۴، (ج_۵) ۲۹۲۰، (ج_۷) ۴۰۲۳، ۴۲۸۶، ۴۲۸۷، ۴۳۰۰_۴۳۰۳، ۴۳۲۵، ۴۳۳۲، ۴۳۳۴، ۴۳۳۸، ۴۳۵۰_۴۳۵۱، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۷۴، ۴۳۸۸، ۴۴۰۰، ۴۴۰۳، ۴۴۰۸، ۴۴۱۰، (ج_۸)۴۶۱۶، ۴۸۳۳
ابوہاشم الرمانی: (ج_۷)۴۳۰۷
ابوہاشم المخزومی: (ج_۷)۴۳۰۴
ابوہریرہ: (ج_۱) ۷۷، ۲۰۹، ۲۱۱، (ج_۲) ۵۱۳_۵۱۴، ۵۴۳، ۵۴۶، ۵۶۱، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۴_۵۷۵، ۵۹۴_۵۹۵، ۶۰۶، ۶۰۸، ۶۲۵، ۶۷۷، ۸۷۵، ۹۱۸، ۱۱۱۰، (ج_۳) ۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۶۳۰، ۱۷۰۰، (ج_۴) ۲۲۹۵، ۲۳۱۴، ۲۵۰۱، (ج_۷)۴۲۲۸، ۴۲۲۹، ۴۲۸۷_۴۲۸۸، ۴۲۹۲_۴۲۹۳، ۴۳۰۳_۴۳۰۵، ۴۳۰۹، ۴۳۱۳، ۴۳۱۶_۴۳۱۷، ۴۳۲۴_۴۳۲۵، ۴۳۲۶، ۴۳۲۹_۴۳۳۴، ۴۲۹۲، ۴۳۳۵_۴۳۳۷، ۴۳۳۹_۴۳۴۰، ۴۳۴۲_۴۱۴۳، ۴۳۴۷_۴۳۴۹، ۴۳۵۲، ۴۳۵۴_۴۳۵۶، ۴۳۶۰، ۴۳۶۳_۴۳۶۴، ۴۳۶۷_۴۳۶۸، ۴۳۷۰_۴۳۷۲، ۴۳۷۵، ۴۳۸۲_۴۲۸۳، ۴۳۸۷، ۴۳۸۹، ۴۳۹۰، ۴۳۹۳_۴۳۹۴، ۴۳۹۹_۴۴۰۴، ۴۴۰۶، ۴۴۱۱_۴۴۱۲، (ج_۸)۴۵۲۶، ۴۷۳۰، ۴۷۴۰، ۴۷۶۱_۴۷۶۲، (ج_۹)۵۱۸۶، ۵۲۷۲، ۵۳۱۸، (ج_۱۰)۶۲۰۴
ابوہنداری: (ج_۲)۵۷۸
ابوھاشم کوفی، صوفی: (ج_۱)۲۴۰

ابو یحییٰ ابن ابی میسرہ: (ج۔۲) ۵۲۷

ابو یزید بسطامی: (ج۔۲) ۱۰۲۸، (ج۔۵) ۲۸۹۳

ابو یزید، شیخ: (ج۔۲) ۱۰۲۰، ۱۰۳۲، ۱۲۰۰

ابو یزید عشقی: (ج۔۴) ۲۲۴۴

ابو یعلی موصلی، امام: (ج۔۲) ۵۲۵، ۵۵۳۔۵۵۴، ۶۱۴، ۵۶۶، (ج۔۷) ۴۲۸۱، ۴۲۸۲، ۴۳۳۶، ۴۳۵۱، ۴۳۶۳، ۴۳۸۸

ابو یوسف: (ج۔۸) ۴۹۶۳،

ابو یوسف، امام: (ج۔۲) ۷۰۰، ۹۸۷، ۹۹۷، (ج۔۳) ۱۵۲۹، ۱۵۹۵، ۱۶۰۴، ۱۶۱۲، ۱۷۰۱، ۱۷۵۱، (ج۔۵) ۲۸۸۳

ابو یوسف چشتی: (ج۔۸) ۴۸۵۶

ابو یوسف ہمدانی: (ج۔۸) ۴۸۵۷، (ج۔۱۰) ۶۱۴۱

ابو یونس القشیری: (ج۔۷) ۴۳۰۵

ابو المعالی، مرزا: (ج۔۴) ۲۲۸۴

ابو الخیر مکی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۳

ابوی بخاری سرہندی، شاہ: (ج۔۵) ۲۷۲۱

اتا، سید: (ج۔۴) ۲۲۴۷

اجل، سید: (ج۔۹) ۵۴۲۰

اجمل بھڑائچی، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۴۹

اجمل خاں، حکیم: (ج۔۶) ۳۶۲۷، ۳۶۷۴

اجمل، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۵، ۴۸۴۵

احتشام الحق تھانوی: (ج۔۶) ۳۵۴۹۔۳۶۵۰

احسان احمد: (ج۔۵) ۳۰۰۸

احسان اللہ سرہندی: (ج۔۴) ۲۲۰۰، (ج۔۵) ۲۶۴۰

احسان اللہ کوٹوی، قاری: (ج۔۱۰) ۶۱۱۴۰

احسان الٰہی قریشی (طابع): (ج۔۱۰) ۶۴۳۱

احسان اللہ گورکھپوری، علامہ: (ج۔۴) ۱۹۴۱، (ج۔۶) ۳۹۴۰، (ج۔۹) ۵۱۵۵

احسان عباس، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۷۰۰، (ج۔۶) ۳۱۹۰، ۳۹۵۴

احسن اللہ بیان: (ج۔۴) ۲۴۶۵

احمد: (ج۔۶) ۳۵۶۷

احمد ابدال چشتی: (ج۔۸) ۴۸۴۱

احمد ابدالی قندھاری بن اسمٰعیل: (ج۔۶) ۳۷۱۸

احمد ابو الخیر المکی: (ج۔۳) ۱۲۹۸

احمد ابو الخیر مرداد حنفی: (ج۔۵) ۲۶۹۶

احمد ابی الہدیٰ، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۴

احمد اٹکی، صاحبزادہ (فرزند شیخ عبد الشکور شاکر اٹکی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۳۔۵۹۳۴

احمد ارشاد، شیخ: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۴۰

احمد ارشد، سید پروفیسر: (ج۔۱۰) ۵۶۷۰

احمد استنبولی حنفی، شیخ: (ج۔۳) ۱۳۴۷، ۱۳۷۴، (ج۔۴) ۲۳۹۴

احمد البشبیشی مصری ازہری شافعی، علامہ شیخ: (ج۔۲) ۱۱۰۷، ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۴) ۲۴۵۱، (ج۔۵) ۲۸۰۴، (ج۔۶) ۳۲۰۹، ۳۹۴۰، (ج۔۸) ۴۵۹۹، (ج۔۹) ۵۳۴۱

احمد البناء، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۲

احمد الحلبی، سید: (ج۔۸) ۴۸۶۱

احمد الحسینی، سید: (ج۔۵) ۲۶۵۸
احمد الروزباری، ابو علی: (ج۔۱۰) ۵۶۹۵
احمد اللہ، مولوی: (ج۔۴) ۲۴۷۱
احمد النقشبندی الاحداری، الشیخ: (ج۔۵) ۲۶۴۳
احمد الواسطی، شیخ: (ج۔۳) ۱۵۶۷
احمد انصاری: (ج۔۹) ۵۰۳۹
احمد انوار الحق فرنگی محلی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۷۸، ۲۸۹۲
احمد اویس رحمانی، شیخ: (ج۔۹) ۵۳۷۰
احمد بجواری، سید: (ج۔۹) ۵۲۱۵
احمد بجواڑوی، شیخ: (ج۔۲) ۱۰۲۰
احمد بخاری، شیخ: (ج۔۷) ۴۰۶۱
احمد بخش صادق چشتی سلیمان، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۲
احمد برکی، شیخ: (ج۔۲) ۵۰۹، ۵۱۱، ۹۲۷، ۹۲۸، ۱۰۷۵، (ج۔۳) ۱۳۷۳، ۱۷۷۳، (ج۔۴) ۲۰۳۰، ۲۲۳۷، ۲۳۸۱، ۲۳۸۶، ۲۴۱۹۔۲۴۲۰، (ج۔۵) ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، (ج۔۸) ۴۵۵۹۔۴۵۶۰، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۰۲۶، ۵۱۲۶۔۵۱۲۶۷، (ج۔۱۰) ۶۲۵۹
احمد بریلوی، سید: (ج۔۹) ۵۱۶۱، ۵۴۲۱، ۵۵۲۳
احمد بن ابراہیم: (ج۔۷) ۴۳۰۵
احمد بن ابراہیم بن جامع: (ج۔۲) ۵۱۸
احمد بن ابراہیم رسمی کریدی حنفی: (ج۔۶) ۳۱۷۷
احمد بن ابراہیم، علان صدیقی مکی: (ج۔۶) ۳۱۵۵
احمد بن ابی الحواری: (ج۔۲) ۵۳۸
احمد بن ابی المجالد الحافظ: (ج۔۷) ۴۲۸۶
احمد بن ابی جعفر نصیبی: (ج۔۲) ۶۱۳
احمد بن اسمٰعیل، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۰
احمد بن الحسین: (ج۔۲) ۵۳۱
احمد بن الیاس کردی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۷
احمد بن باقانی نابلسی خلوتی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۷
احمد بن بہرام: (ج۔۷) ۴۳۰۶
احمد بن حسن جوہری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۸
احمد بن حسن عطاس، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۵
احمد بن حسین، سید: (ج۔۸) ۴۵۷۱
احمد بن حسین، مولانا: (ج۔۴) ۲۵۰۵
احمد بن حنبل، امام: (ج۔۱) ۳۸۳، (ج۔۲) ۵۱۴، ۵۲۰۔۵۲۲، ۵۲۸، ۵۳۰، ۵۴۳۔۵۴۵، ۵۵۱، ۵۶۱، ۵۶۶، ۵۷۱۔۵۷۲، ۵۸۱، ۵۹۵، ۶۰۵، ۶۱۹، ۶۲۵، ۶۳۴، ۶۴۶، ۶۷۷، ۷۰۲، ۷۱۸، (ج۔۳) ۱۴۲۰، ۱۵۹۸، ۱۶۶۲، ۱۶۷۱، (ج۔۴) ۲۲۶۸، (ج۔۵) ۲۸۸۳، ۳۰۵۱، ۳۰۶۲۔۳۰۶۳، (ج۔۶) ۳۴۱۶، (ج۔۷) ۴۲۸۷، ۴۲۸۸، ۴۲۹۸، ۴۲۹۹، ۴۳۰۳، ۴۳۱۳، ۴۳۱۴، ۴۳۲۸، ۴۳۳۰، ۴۳۳۱، ۴۳۳۳، ۴۳۳۴، ۴۳۳۸، ۴۳۴۰، ۴۳۴۳، ۴۳۴۵، ۴۳۴۶، ۴۳۵۳، (ج۔۸) ۴۸۳۱، ۴۸۳۳، ۴۵۰۹، ۴۸۳۸، (ج۔۹) ۵۱۷۸، ۵۲۴۶، ۵۲۶۵، ۵۳۲۱، (ج۔۱۰) ۵۸۴۴
احمد بن خالد: (ج۔۲) ۵۱۷
احمد بن خلیل، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۷
احمد بن خلیل، شیخ (یک دست): (ج۔۶) ۳۱۶۲۔۳۱۶۳
احمد بن دین کاتب: (ج۔۶) ۳۹۴۰

احمد بن سعید الدمشقی: (ج۔۷) ۴۳۰۱

احمد بن سعید عقیلہ مکی: (ج۔۱۰) ۶۳۸۳

احمد بن سنان: (ج۔۲) ۵۴۶

احمد بن سندو، شیخ المشائخ: (ج۔۶) ۳۴۷۷

احمد بن سہل: (ج۔۷) ۴۴۶۷

احمد بن شرجیل الشعمی، امام: (ج۔۷) ۴۳۰۶

احمد بن شعیب الرویانی: (ج۔۲) ۵۷۸

احمد بن شمس الدین سوار شافعی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۴، ۳۲۲۸

احمد بن صالح: (ج۔۲) ۵۳۵، (ج۔۷) ۴۲۸۹، ۴۳۱۲

احمد بن عبداللطیف ابن عبدالہادی عمری: (ج۔۶) ۳۱۷۷

احمد بن عبداللطیف تیونسی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۰

احمد بن عبدالفتاح شہاب الدین ابوالعباس، شیخ: (ج۔۶)
۳۲۰۸

احمد بن عبداللطیف، شہاب الدین، ابوالعباس: (ج۔۶)
۳۲۳۵

احمد بن عبداللہ التیمی: (ج۔۲) ۵۷۴

احمد بن عبدو، کردی: (ج۔۶) ۳۱۶۰

احمد بن عبیداللہ عطار، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۷، ۳۱۸۰، ۳۱۸۲،
۳۲۳۶

احمد بن عثمان عطار ہندی مالوی، شیخ ابوالخیر: (ج۔۵) ۲۶۹۱

احمد بن علان شیخ، نقشبندی: (ج۔۶) ۳۱۵۸

احمد بن علی البونی، امام: (ج۔۱۰) ۵۹۷۲

احمد بن علی الکشمھینی: (ج۔۲) ۵۶۲

احمد بن علی بدوی طنطاوی: (ج۔۶) ۳۲۱۵

احمد بن علی بن ثابت بن احمد مہدی: (ج۔۷) ۴۳۰۰،
۴۳۰۲، ۴۳۰۳، ۴۳۰۶، ۴۳۰۷

احمد بن علی طرابلسی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۸

احمد بن علی فینی دمشقی: (ج۔۶) ۳۱۹۴

احمد بن عیسیٰ، ابوسعید: (ج۔۷) ۴۴۴۲

احمد بن فضل باکثیر، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۵۸

احمد بن محمد: (ج۔۶) ۳۴۷۷، (ج۔۷) ۴۳۰۵

احمد بن محمد بن عبدالغنی البناء مصری: (ج۔۶) ۳۱۹۱۔۳۱۹۲

احمد بن محمد بن عمر الاحمیسی، ابوسعید: (ج۔۲) ۵۹۷

احمد بن محمد بن مسلمہ: (ج۔۲) ۵۴۰

احمد بن محمد بن نصر: (ج۔۲) ۵۸۰

احمد بن محمد حلوی حموی، شیخ نجیب الدین: (ج۔۶) ۳۱۹۴

احمد بن محمد عجلی یمنی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۲

احمد بن محمد بن سعید: (ج۔۲) ۵۲۳

احمد بن منصور الرمادی: (ج۔۷) ۴۳۱۵

احمد بن منیع: (ج۔۷) ۴۳۱۶

احمد بن نصر: (ج۔۲) ۵۱۵

احمد بن ہارون: (ج۔۷) ۴۲۸۴

احمد بن یحییٰ منیری، شیخ شرف الدین: (ج۔۲) ۵۳۶،
۵۳۸، ۵۵۱، ۵۷۰، ۵۷۸، ۵۸۳، ۵۹۷، ۶۰۲۔۶۰۳،
۶۲۰، ۶۱۹، ۶۳۱، (ج۔۵) ۳۰۱۶۔۳۰۱۷، (ج۔۶)
۳۹۳۹، (ج۔۹) ۵۵۲۰

احمد بن یوسف السلمی: (ج۔۲) ۵۲۴، ۵۳۲

احمد بن یوسف (خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی): ،

(ج۔۳)۱۳۶۵

احمد بن یونس:(ج۔۲)۵۴۰۔۵۴۱

احمد بہاری:(ج۔۴)۲۰۶۵

احمد بیاوی:(ج۔۴)۲۰۵۱

احمد بیگ خان کابلی، میرک:(ج۔۱۰)۵۹۲۰، ۵۹۲۶

احمد پاشا، الجزار:(ج۔۶)۳۲۳۴۔۳۲۳۵، ۳۲۷۹

احمد پینالوی، مولانا سید (استاد خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰)۵۹۰۳

احمد تاج الدین ابوالفضل سکندری:(ج۔۶)۳۶۰۳

احمد ترابی:(ج۔۲)۶۰۷

احمد تقی، خواجہ:(ج۔۹)۵۴۹۱

احمد ٹھٹوی، شیخ:(ج۔۶)۳۶۸۷، ۳۶۹۹

احمد جام زندخیل، شیخ:(ج۔۵)۲۷۲۰

احمد جام ژندہ، شیخ:(ج۔۸)۴۹۳۶

احمد جام، شیخ:(ج۔۱)۱۱، ۱۸، ۴۰، ۱۴۰، ۲۲۸، ۲۷۰، (ج۔۲)۱۱۱۹، (ج۔۳)۱۳۶۴، ۱۳۸۹، (ج۔۶) ۳۳۲۷، (ج۔۸) ۴۵۲۴

احمد جان:(ج۔۶)۳۸۲۲

احمد جی، شیخ (خلیفہ خواجہ محمد نامدار شاہ):(ج۔۱۰) ۵۹۳۸، ۶۰۰۱

احمد جی عثمانی، مولانا خواجہ شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۰، ۵۹۴۳۔۵۹۴۴

احمد، حافظ مفتی (پشاور):(ج۔۶)۳۴۹۵، ۳۸۹۲

احمد، حافظ:(ج۔۹)۵۲۱۷

احمد حسن امروہوی، خواجہ:(ج۔۸)۴۶۰۰

احمد حسن حسنی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۵۹۰۲، ۵۹۰۷۔۵۹۰۸

احمد حسن دہلوی، شیخ:(ج۔۲)۷۳۵

احمد حسن کانپوری، مولانا:(ج۔۶)۳۷۸۰

احمد حسن، مولوی (والد پروفیسر حامد حسن قادری):(ج۔۱۰) ۵۸۰۷

احمد حسن نقشبندی:(ج۔۱۰)۶۴۴۰

احمد حسین احمد:(ج۔۸)۴۹۸۵

احمد حسین خان نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱) ۳۲۲، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۸۰۰، (ج۔۴) ۱۹۱۰، (ج۔۶) ۳۹۰۶، ۳۹۴۱، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۳۹۹۷، ۴۲۳۱، ۴۲۳۲، (ج۔۸) ۴۹۸۴، (ج۔۹) ۵۱۵۴، (ج۔۱۰) ۵۷۷۵، ۵۸۴۵، ۶۲۴۴، ۶۳۲۰، ۶۳۵۶، ۶۳۷۵

احمد حسین، خواجہ: (ج۔۱) ۲۴، ۲۷، (ج۔۳) ۱۸۸۵، (ج۔۴)۲۴۴۱، ۲۴۵۵

احمد حسین دہلوی، شیخ:(ج۔۶)۳۹۴۱

احمد حسین، سید:(ج۔۶)۳۴۰۸

احمد حسین فیروزپوری، قاری، مولانا:(ج۔۸)۴۸۷۰

احمد حسین مجددی:(ج۔۲)۴۸۷، ۷۷۳

احمد حسین مرزا نقشبندی، ڈاکٹر:(ج۔۱)۴۳، ۴۸، ۶۲، ۹۶، ۱۰۳۔۱۰۴، (ج۔۶)۳۲۶۶۔۳۲۶۷، ۳۲۹۵

احمد حسین، مولانا:(ج۔۶)۳۹۴۱

احمد حسین نقشبندی، حکیم:(ج۔۶)۳۶۲۷، ۳۶۹۳

احمد حضراوی مکی، شیخ بن محمد: (ج۔۵) ۲۶۹۸، (ج۔۶)

۳۹۴۰

احمد خان، ڈاکٹر: (ج-۵) ۲۶۸۵، ۲۷۰۰، (ج-۶) ۳۹۴۱

احمد خان، مولانا: (ج-۶) ۳۶۲۷، (ج-۱۰) ۶۴۳۸

احمد خان نظامانی، خلیفہ: (ج-۶) ۳۲۸۶، ۳۴۴۱، ۳۶۰۳، ۳۶۰۵، ۳۶۸۸

احمد دردیر مالکی: (ج-۶) ۳۲۱۰

احمد دلواری، سید: (ج-۶) ۳۹۰۳

احمد دمائی، خواجہ قاضی بن محمد صدیق: (ج-۴) ۱۹۹۹، (ج-۶) ۳۴۳۹، ۳۴۴۱، ۳۴۴۹، ۳۴۷۷، ۳۴۸۰-۳۴۸۳، ۳۴۸۶، ۳۶۲۶، ۳۷۰۱

احمد دہان حنفی، شیخ: (ج-۵) ۲۶۸۹، (ج-۶) ۳۳۶۵

احمد دیبنی، شیخ: (ج-۳) ۱۳۷۳، (ج-۵) ۲۷۴۸، (ج-۱۰) ۶۲۵۹

احمد دین انگوی، مولانا: (ج-۱۰) ۵۹۴۱

احمد دیوبندی، شیخ: (ج-۹) ۵۴۸۹، ۵۵۲۰

احمد ذہبی: (ج-۶) ۳۹۴۱

احمد (راوی حدیث): (ج-۴) ۲۲۹۵، ۲۳۳۰

احمد ربانی (فرزند ڈاکٹر محمد شفیع): (ج-۱۰) ۶۱۱۹

احمد رضا خاں بریلوی، امام: (ج-۱) ۱۱، ۱۷-۸۱، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۴۱، ۴۴، ۴۶، ۷۱، ۱۰۵، ۱۴۷، ۱۸۵، ۴۶۱، ۴۶۴، (ج-۲) ۴۸۸، ۴۹۱، ۶۸۴، ۵۹۱، ۶۹۲، ۷۱۲، ۷۱۷، ۷۲۹، ۷۳۷، ۱۱۰۲، ۱۱۵۹، ۱۱۸۸، (ج-۳) ۱۵۶۳-۱۵۶۴، ۱۵۶۶، ۱۵۹۶، ۱۶۵۷-۱۶۵۸، ۱۶۶۰-۱۶۶۱، ۱۷۷۷، ۱۸۸۱، ۱۸۳۸، ۱۸۸۵، (ج-۴) ۱۹۰۱، ۲۲۸۹، ۲۵۲۵، (ج-۵) ۲۵۳۶، ۲۵۳۹، ۲۵۴۱، ۲۵۵۴، ۲۵۵۹-۲۵۶۰، ۲۵۶۵-۲۵۶۶، ۲۵۷۳، ۲۵۷۷، ۲۵۷۹، ۲۶۴۳، ۲۶۹۵، ۲۸۷۱، ۲۸۷۷-۲۸۷۹، ۲۸۹۲، ۲۸۹۵-۲۹۱۵، ۲۹۱۸-۲۹۲۱، ۳۰۱۴-۳۰۱۵، ۳۱۱۰، ۳۱۱۷، (ج-۶) ۳۱۲۹، ۳۱۳۳، ۳۱۴۳، ۳۱۹۷، ۳۱۹۹، ۳۳۳۹، ۳۴۶۴، ۳۵۹۴، ۳۶۴۰-۳۶۴۲، ۳۶۵۰، ۳۶۶۵، ۳۶۸۴-۳۶۸۵، ۳۹۴۱، ۳۹۶۰، (ج-۷) ۳۹۹۲، ۳۹۹۵، ۴۰۰۹، ۴۲۲۰، ۴۲۶۷، ۴۲۷۶، ۴۲۷۸، ۴۳۷۸، (ج-۸) ۴۴۸۸، ۴۴۹۱، ۴۷۹۵-۴۷۹۶، ۴۹۹۰، (ج-۹) ۵۰۰۰-۵۰۰۱، ۵۰۰۳، ۵۰۱۳، ۵۰۶۷، ۵۱۹۹، ۵۲۰۳-۵۲۰۷، ۵۵۷۰، ۵۵۸۰-۵۵۸۲، (ج-۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۹۵، ۵۵۹۷، ۵۶۱۵-۵۶۱۷، ۵۶۲۲، ۵۶۹۱-۵۶۹۲، ۵۶۹۴، ۵۶۹۶، ۵۸۰۲-۵۸۰۶، ۵۸۱۰، ۶۰۳۴، ۶۰۴۱، ۶۰۷۲، ۶۰۹۷، ۶۳۳۲، ۶۴۹۲

احمد رضا کریمی: (ج-۱۰) ۶۴۴۶

احمد رفاعی، شیخ: (ج-۹) ۵۴۶۷

احمد زرکوب شیرازی، ابو العباس معین الدین: (ج-۵) ۲۸۵۸، (ج-۶) ۳۹۴۹

احمد زمان، مخدوم: (ج-۶) ۳۴۴۸، ۳۴۵۲

احمد زواوی مالکی، شیخ: (ج-۵) ۲۶۹۱

احمد زینی دحلان مکی، علامہ سید: (ج-۵) ۲۶۹۶-۲۶۹۸، (ج-۶) ۳۳۶۵، ۳۵۹۸، ۳۷۵۶، ۳۹۴۱

احمد سروش: (ج-۵) ۲۵۷۶، ۲۵۷۹

احمد سرہندی، شیخ (مجدد الف ثانی): (ج-۱) ۱، ۲، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۴۱-۴۹، ۵۱، ۶۰-۶۱، ۶۳-۶۵، ۶۷، ۶۹-۷۶، ۷۸-۸۲، ۸۴-۸۵، ۹۳، ۹۵، ۹۷، ۹۹-۱۰۵، ۱۸۴، ۲۶۳، ۲۷۱، ۲۷۸-۲۷۹، ۳۰۱، ۳۰۴، ۳۰۸-۳۰۹، ۳۱۶، ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۷-۳۲۸، ۳۳۰، ۳۳۳-

۳۳۷، ۳۳۹، ۳۴۲_۳۴۴، ۳۵۳، ۳۵۸_۳۶۰، ۳۶۲_
۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۹_۳۷۶، ۳۷۸، ۳۸۰_۳۸۴،
۳۹۳_۴۰۲، ۴۰۶_۴۱۶، ۴۱۹_۴۲۹، ۴۳۵، ۴۴۱_
۴۴۸، ۴۵۱_۴۵۲، ۴۵۷، ۴۵۹_۴۶۰، ۴۶۲، (ج_۲)
۴۸۱_۴۸۲، ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۰، ۵۵۳، ۵۸۰، ۵۸۴،
۶۰۲، ۶۶۳_۶۶۴، ۶۶۸، ۶۷۲، ۶۷۴، ۶۸۵، ۶۸۷،
۶۹۲، ۷۰۰، ۷۰۷_۷۰۸، ۷۱۲، ۷۲۱، ۷۳۰، ۷۳۸،
۷۴۲، ۷۵۴، ۷۶۰، ۷۶۷، ۷۷۵، ۸۰۰، ۸۰۵، ۸۱۶،
۸۲۲، ۸۳۳، ۸۴۴، ۸۴۸_۸۴۹، ۸۵۴_۸۵۵، ۸۷۰،
۹۱۹، ۹۲۱، ۹۲۷، ۹۳۲، ۹۵۵، ۹۸۰، ۹۸۳، ۹۸۸، ۹۹۰،
۹۹۳_۹۹۷، ۹۹۹_۱۰۰۵، ۱۰۰۷_۱۰۱۲، ۱۰۱۷_۱۰۲۶،
۱۰۲۸_۱۰۲۹، ۱۰۳۳، ۱۰۳۷_۱۰۳۸، ۱۰۴۲، ۱۰۵۶،
۱۰۶۷، ۱۰۷۱، ۱۰۷۵_۱۰۷۶، ۱۰۷۹، ۱۰۸۱_۱۰۸۲،
۱۰۸۵، ۱۰۹۷_۱۰۹۸، ۱۱۰۰، ۱۱۰۲، ۱۱۱۲، ۱۱۱۵، ۱۱۱۹،
۱۱۲۷_۱۱۲۸، ۱۱۳۸_۱۱۳۹، ۱۱۴۱، ۱۱۴۴، ۱۱۴۹_۱۱۵۰،
۱۱۶۳، ۱۱۶۷، ۱۱۷۵_۱۱۷۶، ۱۱۷۸، ۱۱۸۲، ۱۱۸۴، ۱۱۸۶،
۱۱۸۸، ۱۱۹۰، ۱۱۹۵، ۱۱۹۷، ۱۲۰۱_۱۲۱۱، ۱۲۱۳، ۱۲۱۵_
۱۲۱۸، ۱۲۲۱، ۱۲۲۵، ۱۲۳۰، ۱۲۳۳، ۱۲۳۵_۱۲۳۶، ۱۲۳۸،
۱۲۴۱_۱۲۴۲، ۱۲۴۴، ۱۲۴۶، ۱۲۵۰، ۱۲۵۵، (ج_۳)۱۲۸۳،
۱۲۸۵_۱۲۸۶، ۱۲۸۹_۱۲۹۹، ۱۳۶۴_۱۳۷۲، ۱۳۷۵،
۱۳۷۷_۱۳۷۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵_۱۳۸۸، ۱۳۹۰_
۱۴۰۹، ۱۴۱۲، ۱۴۱۴_۱۴۱۵، ۱۴۱۷_۱۴۲۰، ۱۴۲۳_۱۴۲۴،
۱۴۲۶، ۱۴۳۳، ۱۴۳۷_۱۴۴۵، ۱۴۴۸_۱۴۵۸، ۱۴۶۴،
۱۵۰۱، ۱۵۰۳، ۱۵۱۲_۱۵۱۳، ۱۵۱۵_۱۵۱۶، ۱۵۱۸_۱۵۲۲،
۱۵۲۴_۱۵۲۹، ۱۵۳۱_۱۵۳۳، ۱۵۳۵_۱۵۳۸، ۱۵۴۱،
۱۵۴۴_۱۵۴۵، ۱۵۴۸_۱۵۵۰، ۱۵۵۲_۱۵۵۳،
۱۵۵۵_۱۵۵۸، ۱۵۶۰_۱۵۶۴، ۱۵۶۶، ۱۵۶۸، ۱۵۷۱،
۱۵۷۳، ۱۵۹۳_۱۵۹۴_۱۵۹۶، ۱۶۰۰_۱۶۰۸، ۱۶۱۱_
۱۶۱۵، ۱۶۲۱_۱۶۷۴، ۱۶۷۹، ۱۶۸۵، ۱۶۹۲، ۱۶۹۴،
۱۷۰۴، ۱۷۱۰، ۱۷۱۷_۱۷۲۲، ۱۷۲۵، ۱۷۲۷، ۱۷۲۹،
۱۷۵۳_۱۷۵۴، ۱۷۶۰، ۱۷۶۳، ۱۷۷۱، ۱۷۷۳_
۱۷۷۷، ۱۷۸۱، ۱۷۸۷، ۱۷۹۴، ۱۷۹۶، ۱۸۱۰، ۱۸۲۶،
۱۸۳۲، ۱۸۳۵_۱۸۴۵، ۱۸۴۷_۱۸۴۹، ۱۸۵۱_
۱۸۶۷، ۱۸۶۹_۱۸۷۰، ۱۸۷۳_۱۸۷۴، ۱۸۷۸،
۱۸۸۰، ۱۸۸۲، ۱۸۸۴_۱۸۸۷، (ج_۴)۱۸۸۹_۱۸۹۰،
۱۸۹۵، ۱۹۱۳_۱۹۱۸، ۱۹۲۰، ۱۹۴۰، ۱۹۴۲، ۱۹۴۶، ۱۹۴۸_
۱۹۴۹، ۱۹۵۱_۱۹۵۵، ۱۹۵۹، ۱۹۶۱_۱۹۶۵، ۱۹۶۷_
۱۹۶۸، ۱۹۷۰_۱۹۷۲، ۱۹۷۵_۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵_
۱۹۸۶، ۱۹۸۸_۱۹۸۹، ۱۹۹۷، ۲۰۰۳، ۲۰۱۳_۲۰۱۸،
۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ۲۰۲۵_۲۰۲۷، ۲۰۲۹_۲۰۳۳، ۲۰۴۰،
۲۰۴۲، ۲۰۵۲، ۲۰۵۴_۲۰۵۵، ۲۰۶۰، ۲۰۶۵، ۲۰۶۷،
۲۰۶۹_۲۰۷۰، ۲۰۷۲_۲۰۷۳، ۲۰۷۵، ۲۰۷۷_۲۰۷۹،
۲۰۸۸، ۲۱۰۸_۲۱۱۸، ۲۱۲۲_۲۱۳۴، ۲۱۳۶، ۲۱۳۸_
۲۱۴۷، ۲۱۴۹_۲۱۶۵، ۲۱۶۷_۲۱۷۰، ۲۱۷۳_۲۱۷۶،
۲۱۷۸، ۲۱۸۰، ۲۱۸۴، ۲۱۸۷، ۲۱۹۴_۲۱۹۵، ۱۲۹۷_
۲۱۹۹، ۲۲۰۲_۲۲۱۰، ۲۲۱۲، ۲۲۱۴_۲۲۲۰، ۲۲۲۴، ۲۲۲۷،
۲۲۲۹_۲۲۳۲، ۲۲۳۴_۲۲۳۸، ۲۲۴۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۵،
۲۲۶۴_۲۲۶۵، ۲۲۶۹، ۲۲۷۱_۲۲۷۲_۲۲۷۵،
۲۲۷۷_۲۲۷۸، ۲۲۸۰، ۲۲۸۹_۲۲۹۰، ۲۳۳۲_
۲۳۳۴، ۲۳۴۷، ۲۳۵۱، ۲۳۵۹_۲۳۶۲، ۲۳۶۴،
۲۳۶۶_۲۳۶۷، ۲۳۶۹_۲۳۸۰، ۲۳۸۲_۲۳۸۳،
۲۳۸۶_۲۳۹۴، ۲۳۹۷، ۲۴۰۶_۲۴۱۳، ۲۴۱۵_۲۴۱۶،
۲۴۱۸، ۲۴۲۰_۲۴۲۱، ۲۴۲۴، ۲۴۳۱_۲۴۳۳، ۲۴۳۵_
۲۴۴۱، ۲۴۴۳_۲۴۵۵، ۲۴۶۰، ۲۴۶۶، ۲۴۶۹، ۲۴۸۷،
۲۴۸۹_۲۴۹۰، ۲۴۹۳_۲۴۹۴، ۲۴۹۸_۲۵۰۳، ۲۵۱۲،
۲۵۲۳، ۲۵۲۵، ۲۵۲۷، (ج_۵)۲۵۳۵، ۲۵۳۸، ۲۵۴۲،
۲۵۴۴_۲۵۵۶، ۲۵۵۸_۲۵۶۱، ۲۵۶۴_۲۵۷۹،
۲۵۸۲_۲۵۸۶، ۲۵۸۹_۲۵۹۵، ۲۵۹۷_۲۶۲۲،

۲۶۲۴ _ ۲۶۲۶، ۲۶۲۸ _ ۲۶۲۹، ۲۶۳۱ _ ۲۶۳۲،
۲۶۳۴ _ ۲۶۴۹، ۲۶۵۱ _ ۲۶۵۵، ۲۶۵۷ _ ۲۶۶۸،
۲۶۷۰، ۲۶۷۳، ۲۶۷۵، ۲۶۷۸، ۲۶۸۴، ۲۶۹۴،
۲۶۹۹، ۲۷۰۹ _ ۲۷۱۰، ۲۷۱۲ _ ۲۷۱۴، ۲۷۱۶، ۲۷۱۸ _
۲۷۲۱، ۲۷۲۳، ۲۷۲۵، ۲۷۲۷ _ ۲۷۳۰، ۲۷۳۳ _ ۲۷۳۷،
۲۷۳۹ _ ۲۷۴۰، ۲۷۴۲ _ ۲۷۵۱، ۲۷۵۴ _ ۲۷۵۵،
۲۷۵۷ _ ۲۷۶۱، ۲۷۶۳ _ ۲۷۶۴، ۲۷۶۷ _ ۲۷۸۰،
۲۷۸۲ _ ۲۷۸۹، ۲۷۹۱، ۲۷۹۵ _ ۲۸۰۱، ۲۸۰۳ _ ۲۸۰۷،
۲۸۰۹ _ ۲۸۱۷، ۲۸۱۹ _ ۲۸۲۱، ۲۸۲۳، ۲۸۲۷ _ ۲۸۴۱،
۲۸۴۵ _ ۲۸۴۶، ۲۸۵۳ _ ۲۸۵۴، ۲۸۵۷ _ ۲۸۵۸،
۲۸۶۲، ۲۸۶۵ _ ۲۸۶۹، ۲۸۷۱ _ ۲۸۷۵، ۲۸۷۷ _
۲۸۷۸، ۲۸۸۰، ۲۸۸۴ _ ۲۸۹۲، ۲۸۹۴ _ ۲۸۹۵،
۲۸۹۸ _ ۲۹۰۲، ۲۹۰۸ _ ۲۹۱۳، ۲۹۱۵، ۲۹۱۷ _ ۲۹۱۸،
۲۹۲۱ _ ۲۹۴۳، ۲۹۴۶ _ ۲۹۴۷، ۲۹۴۹ _ ۲۹۵۱،
۲۹۵۳ _ ۲۹۵۵، ۲۹۵۷ _ ۲۹۵۸، ۲۹۶۱، ۲۹۶۳ _
۲۹۶۴، ۲۹۶۶ _ ۲۹۷۲، ۲۹۷۴ _ ۲۹۸۰، ۲۹۸۴،
۲۹۹۲ _ ۲۹۹۴، ۲۹۹۹ _ ۳۰۰۴، ۳۰۰۷، ۳۰۰۹، ۳۰۱۹ _
۳۰۴۱، ۳۰۴۴، ۳۰۴۷، ۳۰۴۹، ۳۰۵۷، ۳۰۵۹ _
۳۰۶۴، ۳۰۶۶ _ ۳۰۶۸، ۳۰۷۱ _ ۳۰۷۲، ۳۰۷۴ _
۳۰۷۶، ۳۰۷۸ _ ۳۰۸۴، ۳۰۹۰ _ ۳۰۹۲، ۳۰۹۵ _
۳۰۹۷، ۳۱۰۰، ۳۱۰۳، ۳۱۰۵ _ ۳۱۰۶، ۳۱۰۹، ۳۱۱۲،
۳۱۱۴، ۳۱۱۷، (ج_۶) ۳۱۲۲، ۳۱۲۸، ۳۱۳۶، ۳۱۳۸،
۳۱۴۱ _ ۳۱۴۲، ۳۱۴۴ _ ۳۱۴۶، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰ _ ۳۱۵۶،
۳۱۵۹، ۳۱۹۲، ۳۲۰۸، ۳۲۲۶، ۳۲۶۴، ۳۲۷۵،
۳۲۸۳ _ ۳۲۸۴، ۳۲۸۶، ۳۲۹۹، ۳۳۰۲، ۳۳۰۸ _
۳۳۰۹، ۳۳۱۴ _ ۳۳۱۵، ۳۳۱۹، ۳۳۲۴، ۳۳۳۰ _
۳۳۳۱، ۳۳۴۱، ۳۳۴۳، ۳۳۴۵، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸،
۳۳۵۱ _ ۳۳۵۲، ۳۳۵۴ _ ۳۳۵۵، ۳۳۵۹، ۳۳۶۳ _
۳۳۶۴، ۳۳۶۶، ۳۳۸۷ _ ۳۳۸۸، ۳۳۹۰، ۳۳۹۲،

۳۴۱۲، ۳۴۱۶ _ ۳۴۱۷، ۳۴۱۹، ۳۴۲۲، ۳۴۲۴،
۳۴۲۹ _ ۳۴۳۰، ۳۴۳۳، ۳۴۳۹ _ ۳۴۴۰، ۳۴۴۴ _
۳۴۴۵، ۳۴۵۰ _ ۳۴۵۱، ۳۴۶۸ _ ۳۴۶۹، ۳۴۹۰،
۳۴۹۵ _ ۳۴۹۶، ۳۴۹۹ ، ۳۵۲۸، ۳۵۳۱، ۳۵۳۹،
۳۵۴۶، ۳۵۵۰، ۳۵۵۵، ۳۵۶۶، ۳۵۷۵، ۳۶۰۰،
۳۶۰۴ _ ۳۶۰۵، ۳۶۱۴، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵ _ ۳۶۲۶ ،
۳۶۴۰، ۳۶۶۰، ۳۶۷۴ _ ۳۶۷۵، ۳۶۹۷ _ ۳۶۹۹،
۳۷۱۱، ۳۷۰۹، ۳۷۵۵ _ ۳۷۵۸، ۳۷۶۳ _ ۳۷۶۷،
۳۷۷۰، ۳۷۷۴، ۳۷۷۶، ۳۷۹۱، ۳۸۰۶، ۳۸۲۵ _
۳۸۲۸، ۳۸۴۴، ۳۸۴۸، ۳۸۵۰، ۳۸۶۰، ۳۸۶۷،
۳۸۷۳، ۳۸۷۵، ۳۸۸۳، ۳۸۹۷، ۳۹۰۷، ۳۹۰۹،
۳۹۱۸، ۳۹۳۳، ۳۹۳۵، ۳۹۴۱ _ ۳۹۴۲، ۳۹۴۴،
۳۹۷۳، ۳۹۸۲، (ج_۷) ۳۹۸۵، ۳۹۸۶، ۴۰۰۸،
۴۰۰۹، ۴۰۱۱ _ ۴۰۱۲، ۴۰۱۴، ۴۰۵۹، ۴۰۶۰، ۴۰۷۲،
۴۰۸۲، ۴۰۸۴، ۴۱۲۹، ۴۱۴۸، ۴۱۶۲، ۴۱۶۴، ۴۱۶۷ _
۴۱۶۸، ۴۱۷۰ _ ۴۱۷۱، ۴۱۷۲ _ ۴۱۷۶، ۴۱۷۸، ۴۱۸۰،
۴۱۸۲ _ ۴۱۸۳، ۴۱۸۶ _ ۴۱۸۸، ۴۱۹۰، ۴۱۹۳ _ ۴۱۹۸،
۴۲۰۱ _ ۴۲۰۴، ۴۲۰۶ . ۴۲۰۹، ۴۲۱۲، ۴۲۱۸، ۴۲۲۰ _
۴۲۲۴، ۴۲۲۷ _ ۴۲۳۱، ۴۲۳۶ _ ۴۲۳۷، ۴۲۳۹،
۴۲۴۱، ۴۲۴۳، ۴۲۴۹، ۴۲۵۱ _ ۴۲۵۹، ۴۲۶۸ _
۴۲۶۹، ۴۲۷۲، ۴۲۷۳ _ ۴۲۷۶، ۴۲۸۰، ۴۳۱۰، ۴۳۱۲،
۴۴۱۵، ۴۴۱۹ _ ۴۴۲۰، ۴۴۲۷ _ ۴۴۲۸، ۴۴۳۲،
۴۴۳۹ _ ۴۴۴۰، ۴۴۴۲ _ ۴۴۴۴، ۴۴۵۴، ۴۴۵۶ _
۴۴۵۷، ۴۴۶۲، ۴۴۷۱ _ ۴۴۷۴، (ج_۸) ۴۴۸۱ _
۴۴۸۲، ۴۴۹۹ _ ۴۵۰۱، ۴۵۰۳، ۴۵۰۵، ۴۵۰۹ _ ۴۵۱۱،
۴۵۱۷، ۴۵۱۹، ۴۵۲۱ _ ۴۵۲۲، ۴۵۲۶، ۴۵۳۶، ۴۵۴۵،
۴۵۵۳ ۴۵۵۷، ۴۵۶۰ _ ۴۵۶۱، ۴۵۶۳، ۴۵۶۵ _
۴۵۶۷، ۴۵۷۱ _ ۴۵۷۲، ۴۵۷۴، ۴۵۷۶ _ ۴۵۷۹،
۴۵۹۶ _ ۴۵۹۷، ۴۵۹۹ _ ۴۶۰۲، ۴۶۰۴ _ ۴۶۰۵،

۴۶۰۷، ۴۶۰۹ _ ۴۶۱۰، ۴۶۱۲ _ ۴۶۱۹، ۴۶۲۲ _
۴۶۲۶، ۴۶۳۳، ۴۶۳۵، ۴۶۳۸، ۴۶۴۴، ۴۶۴۹ _
۴۶۵۱، ۴۶۵۹ _ ۴۶۶۲، ۴۶۶۴، ۴۶۶۷، ۴۶۶۹،
۴۶۷۱، ۴۶۷۳ _ ۴۶۷۶، ۴۶۷۹، ۴۶۸۴، ۴۶۹۴،
۴۶۹۶، ۴۷۰۰، ۴۷۰۲، ۴۷۰۷، ۴۷۱۲ _ ۴۷۱۴، ۴۷۲۱ _
۴۷۲۲، ۴۷۲۶، ۴۷۳۰، ۴۷۳۴، ۴۷۳۷، ۴۷۴۶،
۴۷۴۲ _ ۴۷۴۳، ۴۷۵۰، ۴۷۵۳ _ ۴۷۵۴، ۴۷۵۸،
۴۷۶۱، ۴۷۶۳، ۴۷۷۰، ۴۷۹۱ _ ۴۷۹۴، ۴۷۹۷،
۴۷۹۹ _ ۴۸۰۱، ۴۸۰۳، ۴۸۰۵ _ ۴۸۰۶، ۴۸۰۸،
۴۸۰۹، ۴۸۱۱ _ ۴۸۱۲، ۴۸۱۴، ۴۸۳۳، ۴۸۳۷، ۴۸۴۲ _
۴۸۶۱، ۴۸۶۴، ۴۸۶۷ _ ۴۸۷۳، ۴۸۹۷ _ ۴۹۰۱ _
۴۹۱۴، ۴۹۱۸ _ ۴۹۲۶، ۴۹۲۹، ۴۹۳۳ _ ۴۹۳۵،
۴۹۳۷ _ ۴۹۴۸، ۴۹۵۱، ۴۹۵۳ _ ۴۹۵۴، ۴۹۵۷ _
۴۹۶۹، ۴۹۷۵، ۴۹۹۰ _ ۴۹۹۱، (ج_۹) ۴۹۹۳ _
۴۹۹۴، ۵۰۰۰ _ ۵۰۰۱، ۵۰۰۵ _ ۵۰۰۷، ۵۰۰۹، ۵۰۱۱ _
۵۰۱۷، ۵۰۲۱، ۵۰۲۳ _ ۵۰۲۴، ۵۰۲۷ _ ۵۰۳۴،
۵۰۳۸، ۵۰۴۰، ۵۰۴۳ _ ۵۰۴۷، ۵۰۵۱ _ ۵۱۵۲، ۴
۵۰۵ _ ۵۰۵۶، ۵۰۵۸ _ ۵۰۶۰، ۵۰۶۲ _ ۵۰۶۶،
۵۰۶۸ _ ۵۰۷۰، ۵۰۷۲ _ ۵۰۷۳، ۵۰۷۶ _ ۵۰۸۷،
۵۰۸۹ _ ۵۰۹۳، ۵۰۹۵، ۵۰۹۷ _ ۵۱۰۰ _ ۵۱۰۲، ،
۵۱۰۴ _ ۵۱۰۹، ۵۱۱۱، ۵۱۱۴ _ ۵۱۱۵، ۵۱۱۷ _ ۵۱۱۸،
۵۱۲۱ _ ۵۱۲۵، ۵۱۲۸ _ ۵۱۲۹، ۵۱۳۱، ۵۱۳۳، ۵۱۳۴،
۵۱۳۶، ۵۱۳۸، ۵۱۴۱ _ ۵۱۴۳، ۵۱۴۶، ۵۱۴۹، ۵۱۵۲ _
۵۱۵۳، ۵۱۵۵ _ ۵۱۵۷، ۵۱۵۹، ۵۱۶۷، ۵۱۷۰ _
۵۱۷۱، ۵۱۷۶، ۵۱۷۹ _ ۵۱۸۰، ۵۱۸۳، ۵۱۸۵ _
۵۱۸۶، ۵۱۸۸، ۵۱۹۵، ۵۱۹۷، ۵۲۰۰، ۵۲۰۲ _ ۵۲۰۷،
۵۲۱۴، ۵۲۲۷ _ ۵۲۲۸، ۵۲۳۰، ۵۲۳۲ _ ۵۲۳۶،
۵۲۳۸ _ ۵۲۳۹، ۵۲۴۱، ۵۲۴۳، ۵۲۴۶، ۵۲۴۹،
۵۲۵۱ _ ۵۲۵۳، ۵۲۵۵، ۵۲۵۹ _ ۵۲۶۰، ۵۲۶۶،
۵۲۶۸ _ ۵۲۶۹، ۵۲۷۵، ۵۲۷۷، ۵۲۷۹، ۵۲۸۳،
۵۲۸۸ _ ۵۲۸۹، ۵۲۹۱ _ ۵۲۹۳، ۵۲۹۷، ۵۳۰۶ _
۵۳۰۷، ۵۳۰۹ _ ۵۳۱۳، ۵۳۱۵ _ ۵۳۱۶، ۵۳۲۲،
۵۳۲۵ _ ۵۳۲۸، ۵۳۳۰، ۵۳۳۱ _ ۵۳۳۳، ۵۳۳۷،
۵۳۳۹ _ ۵۳۴۷، ۵۳۴۹ _ ۵۳۵۲، ۵۳۵۵ _ ۵۳۵۶،
۵۳۵۸ _ ۵۳۶۰، ۵۳۶۴ _ ۵۳۶۸، ۵۳۷۰ _ ۵۳۷۳،
۵۳۷۵ _ ۵۳۷۶، ۵۳۷۸، ۵۳۸۲ _ ۵۳۸۴، ۵۳۹۳ _
۵۳۹۵، ۵۳۹۷ _ ۵۴۰۱، ۵۴۰۳ _ ۵۴۰۴، ۵۴۰۶،
۵۴۰۸ _ ۵۴۲۰، ۵۴۲۲ _ ۵۴۲۷، ۵۴۶۴، ۵۴۶۸ _
۵۴۷۷، ۵۴۷۹ _ ۵۴۹۱، ۵۴۹۳ _ ۵۴۹۷، ۵۴۹۹ _
۵۵۰۹، ۵۵۱۱ _ ۵۵۱۲، ۵۵۱۴ _ ۵۵۱۵، ۵۵۱۷ _
۵۵۱۹، ۵۵۲۴، ۵۵۲۶ _ ۵۵۳۰، ۵۵۳۴، ۵۵۴۱ _
۵۵۴۶، ۵۵۴۸، ۵۵۵۰ _ ۵۵۵۱، ۵۵۵۴ _ ۵۵۵۶،
۵۵۵۹، ۵۵۶۷ _ ۵۵۷۱، ۵۵۷۵ _ ۵۵۷۷، (ج_۱۰)
۵۵۹۲ _ ۵۵۹۳، ۵۵۹۵، ۵۶۰۳ _ ۵۶۰۴، ۵۶۰۶ _
۵۶۰۷، ۵۶۱۰، ۵۶۱۴ _ ۵۶۱۷، ۵۶۱۹ _ ۵۶۲۳،
۵۶۲۵ _ ۵۶۳۱، ۵۶۳۳ _ ۵۶۴۵، ۵۶۴۷، ۵۶۴۹ _
۵۶۵۰، ۵۶۵۳ _ ۵۶۶۲، ۵۶۶۴ _ ۵۶۷۳، ۵۶۷۵ _
۵۶۸۷، ۵۶۸۹ _ ۵۶۹۴، ۵۶۹۹، ۵۷۰۲ _ ۵۷۰۴،
۵۷۰۶، ۵۷۱۰، ۵۷۱۳ _ ۵۷۱۴، ۵۷۱۶، ۵۷۱۸ _
۵۷۱۹، ۵۷۲۳، ۵۷۵۵ _ ۵۷۵۶، ۵۷۶۰ _ ۵۷۶۲،
۵۷۶۶ _ ۵۷۶۸، ۵۷۷۵، ۵۷۷۷ _ ۵۷۷۸،
۵۷۸۰ _ ۵۷۸۱، ۵۷۹۰ _ ۵۷۹۷، ۵۷۹۹، ۵۸۳۶،
۵۸۳۹، ۵۸۴۵، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۶۳ _ ۵۸۶۵،
۵۸۷۶ _ ۵۸۷۷، ۵۸۸۵ _ ۵۸۸۶، ۵۸۹۴، ۵۹۰۴ _
۵۹۰۵، ۵۹۱۴ _ ۵۹۱۸، ۵۹۲۰ _ ۵۹۲۳، ۵۹۲۵، ۵۹۲۷،
۵۹۲۹، ۵۹۳۶، ۵۹۵۵، ۵۹۷۳، ۵۹۸۰، ۶۰۰۶،
۶۰۱۱، ۶۰۳۶، ۶۰۵۴، ۶۰۷۲، ۶۰۸۶، ۶۰۹۷، ۶۱۰۴ _
۶۱۰۷، ۶۱۱۰ _ ۶۱۲۰، ۶۱۲۲ _ ۶۱۲۵، ۶۱۲۸، ۶۱۳۰، ۶۱۳۲ _

۶۱۳۳، ۶۱۳۵، ۶۱۵۳، ۶۱۵۷_ ۶۱۵۸، ۶۱۶۱_ ۶۱۶۲، ۶۱۶۴، ۶۱۶۹_ ۶۱۷۰، ۶۱۷۶_ ۶۱۸۶، ۶۱۹۰_ ۶۲۰۲، ۶۲۰۴، ۶۲۰۶_ ۶۲۰۸، ۶۲۱۲_ ۶۲۲۸، ۶۲۳۱_ ۶۲۴۷، ۶۲۵۱، ۶۲۵۳، ۶۲۷۲_ ۶۲۷۵، ۶۲۹۰، ۶۲۹۲_ ۶۲۹۹، ۶۳۰۲، ۶۳۰۹_ ۶۳۱۲، ۶۳۱۵، ۶۳۲۰_ ۶۳۲۱، ۶۳۲۹، ۶۳۳۳_ ۶۳۳۴، ۶۳۳۶_ ۶۳۳۷، ۶۳۴۴_ ۶۳۴۵، ۶۳۴۹، ۶۳۵۶، ۶۳۵۹_ ۶۳۶۳، ۶۳۷۰_ ۶۳۷۵، ۶۴۳۱، ۶۴۴۶، ۶۴۹۲

احمد سعید انصاری، پروفیسر: (ج_۱۰)۶۱۲۱

احمد سعید بن علی مرادی، شیخ: (ج_۶)۳۱۸۰_ ۳۱۸۱، ۳۱۸۴

احمد سعید خازندار: (ج_۵)۲۷۰۰

احمد سعید دہلوی مجددی، خواجہ: (ج_۶) ۳۸۸۵، ۳۹۱۳_ ۳۹۱۵، ۳۹۱۵، ۳۹۱۷، ۳۹۸۳

احمد سعید، شاہ: (ج_۹)۵۳۵۳

احمد سعید، شیخ: (ج_۴)۲۲۶۴_ ۲۲۶۵، (ج_۶)۳۱۵۷، ۳۱۸۱، ۳۲۴۱، (ج_۹)۵۵۵۹

احمد سعید کاظمی، سید: (ج_۵) ۲۹۱۳، (ج_۶) ۳۵۹۱، ۳۵۹۴، ۳۵۹۶، (ج_۱۰)۶۰۸۶

احمد سعید مجددی، مولانا شاہ: (ج_۰) ۱۷۲۸، (ج_۵) ۲۵۸۲، ۲۶۳۴، ۲۶۵۷، ۲۶۸۴، ۲۸۵۴، (ج_۶) ۳۱۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۶۴، ۳۴۴۶، ۳۷۵۵، ۳۷۵۹، (ج_۱۰) ۵۸۸۲، ۵۸۹۴، ۵۹۰۴، ۵۹۵۴_ ۵۹۵۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۹، ۶۱۲۱، ۶۱۷۲، ۶۱۸۲، ۶۲۵۹

احمد سعید، مولانا: (ج_۶)۳۳۶۹

احمد سعید مہاجر مکی، خواجہ: (ج_۶)۳۶۸۹

احمد سنوسی مکی، شیخ: (ج_۱۰)۵۹۵۵

احمد سود، شیخ: (ج_۸)۴۸۶۲

احمد سوزان، حسیب الدین منشی: (ج_۱۰)۱۶۹۶

احمد سہارنپوری، شیخ: (ج_۴)۲۳۹۱

احمد، سیٹھ: (ج_۶)۳۶۴۸

احمد، سید: (ج_۶)۳۴۳۳

احمد شاہ ابدالی درانی (لوئے بابا): (ج_۶)۳۴۹۹، ۳۸۷۱، ۳۸۹۸، ۳۸۹۹

احمد شاہ ابدالی (حاکم کابل): (ج_۴) ۲۰۵۵_ ۲۰۵۶، ۲۱۸۹، (ج_۶) ۳۳۴۱، ۳۴۳۵، ۳۵۵۶، ۳۵۶۰، ۳۶۵۵، ۳۷۰۴، ۳۷۱۵، (ج_۱۰) ۵۸۰۰، ۵۸۷۴، ۵۸۷۶، ۵۹۵۱

احمد شاہ افغان (خلیفہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰) ۵۹۳۷

احمد شاہ رضوانی، میر: (ج_۱۰)۵۸۸۷، ۵۹۴۶

احمد شہاب الدین ابن حجر التیمی: (ج_۶)۳۹۴۳

احمد، شیخ: (ج_۱)۳۶۴، (ج_۹)۵۱۲۲، ۵۲۲۹

احمد، شیخ ابوالسنوسی: (ج_۶)۳۷۶۰

احمد، شیخ بن داؤد نقشبندی: (ج_۵)۲۶۸۹

احمد، شیخ بن محمد حضراوی مکی: (ج_۵)۲۷۰۲

احمد، شیخ سید بن اسمٰعیل برزنجی: (ج_۵)۲۶۸۵

احمد، صاحبزادہ (فرزند شیخ عبدالشکور شاکرائکی): (ج_۱۰) ۵۹۳۴

احمد صادنبیری، قاری حافظ: (ج_۶)۳۶۶۰

احمد صادق نعیمی، مولانا: (ج_۱۰)۶۴۹۳

احمد صدیق، خواجہ: (ج_۱۰)۵۹۸۹

احمد صدیق نقشبندی، مولوی: (ج۔۲)۱۱۵۸

احمد صدیقی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۰

احمد ضیاء الدین بن مصطفیٰ، شیخ: (ج۔۱۰)۵۷۵۹

احمد ضیاء الدین گومش، شیخ: (ج۔۶)۳۲۵۷

احمد طاش کبری زادہ بن مصطفیٰ: (ج۔۶)۳۹۴۰

احمد طاہری عراقی: (ج۔۶)۳۹۴۳

احمد ظفر گیلانی، سید: (ج۔۶)۳۳۹۱

احمد عارف شیخ: (ن۔۸)۴۸۶۲

احمد عبد الحق ردولوی، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۵۷،

احمد عبد الحق فرنگی محلی قادری، شاہ مولانا: (ج۔۵)۲۸۹۲

احمد علاونہ: (ج۔۵)۲۷۰۱، (ج۔۶)۳۹۴۳

احمد علی: (ج۔۵) ۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۹۵۵، (ج۔۹) ۵۱۵۳

احمد علی سہارنپوری، مولانا محدث: (ج۔۶) ۳۷۹۸، (ج۔۱۰)۵۸۰۲، ۵۸۰۵

احمد علی شاہ نقشبندی سیفی، سید: (ج۔۱۰)۶۴۱۳

احمد علی شاہ، مولوی سید: (ج۔۸)۴۶۲۷، (ج۔۱۰)۶۳۷۹

احمد علی قادری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۴۳

احمد علی لاہوری، مولانا: (ج۔۶)۳۵۷۰

احمد علی میرٹھی، مولانا محدث: (ج۔۶)۳۶۷۳

احمد علی نقشبندی: مولوی سید: (ج۔۷) ۴۴۷۸، (ج۔۸) ۴۴۸۸، (ج۔۱۰)۶۲۴۲، ۶۲۴۷

احمد علی (والد شیخ محمد عابد سندھی): ۳۶۲۰

احمد عیدروس، شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۰، ۳۲۰۵

احمد غزالی: (ج۔۸)۴۸۴۶، ۴۸۴۹

احمد فاروق پشاوری، مولانا شیخ (المعروف اخوند صاحب لنڈی): (ج۔۱۰)۸۶۸، ۷_۵۸۶۹

احمد فاروق شاہ، علامہ سید: (ج۔۱۰)۶۰۹۴، ۶۴۳۱

احمد فاروقی کابلی، مولانا شیخ: (ج۔۴)۲۲۷۶

احمد فردولی البہاری، علامہ: (ج۔۲)۶۲۱، ۶۳۱، ۶۵۵

احمد فرملی، میاں شیخ: (ج۔۴)۲۴۲۹، ۲۴۷۱

احمد فرید: (ج۔۹)۵۰۲۰

احمد فقیر، میاں (خلیفہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

احمد قادری، ابو البرکات سید: (ج۔۲)۹۹۱، ۱۰۲۱، (ج۔۵) ۲۹۰۴، ۲۹۱۲_۲۹۱۳، (ج۔۶)۳۹۵۰، (ج۔۷)۴۴۴۳، (ج۔۹)۵۱۵۷، ۵۲۱۴: (ج۔۱۰)۵۸۰۲، ۵۸۰۴، ۶۲۴۴، ۶۳۳۲

احمد، قاضی مصری: (ج۔۵)۲۸۰۴

احمد قریشی حکیم، مفتی: (ج۔۱۰)۶۴۹۰

احمد قشاشی مدنی، شیخ: (ج۔۵)۲۷۹۹، (ج۔۶)۳۲۳۰

احمد کابلی، شیخ: (ج۔۹)۵۳۲۷، ۵۳۲۹_۵۳۳۰

احمد، کاتب بن حسین: (ج۔۵)۲۸۵۴، ۲۸۵۸

احمد کلی شیخاں، ملا: (ج۔۶)۳۷۲۷، ۳۷۲۹

احمد گل (فرزند خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

احمد (مالک مطبع): (ج۔۱۰)۶۳۵۹_۶۳۶۱، ۶۳۷۲

احمد متقی، سندھی حاجی: (ج۔۶)۳۵۷۴

احمد محمد رؤف: (ج۔۹)۵۰۳۶، ۵۰۴۸

احمد معصوم مجددی پشاوری، میاں: (ج-۱۰) ۵۸۷۷

احمد مقریزی، تقی الدین: (ج-۵) ۲۸۵۶ ـ ۲۸۵۷، (ج-۶) ۳۹۴۵

احمد مکی بن حجر: (ج-۶) ۳۹۴۰

احمد مکی، ابو الخیر: (ج-۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، (ج-۱۰) ۵۸۷۷، ۵۸۹۰، ۶۲۹۴

احمد، ملاجیون: (ج-۶) ۳۹۴۳

احمد، ملا: (ج-۶) ۳۷۲۷

احمد ملتانی قادری، شیخ: (ج-۶) ۳۸۴۰

احمد منینی، خلیفہ، شیخ: (ج-۶) ۳۱۶۵، ۳۱۸۶، ۳۱۷۵، ۳۱۷۷، ۳۱۷۹ـ۳۱۸۲، ۳۱۸۴، ۳۲۴۰

احمد، مولانا: (ج-۴) ۲۳۸۷

احمد، میاں مولوی: (ج-۶) ۳۷۲۰ـ۳۷۲۱

احمد میاں، شیخ: (ج-۱) ۳۶۰ـ۳۶۲

احمد نبی، خواجہ (فرزند خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج-۱۰) ۵۹۳۸

احمد نخلی، شیخ نقشبندی: (ج-۶) ۳۱۷۰، ۳۱۹۲

احمد ندیم قاسمی (شاعر): (ج-۱۰) ۶۰۸۷

احمد نسیم: (ج-۶) ۳۶۹۸ـ۳۶۹۹

احمد، نظام الدین (مصنف طبقات اکبری): (ج-۱۰) ۵۷۰۷

احمد، نظام الدین: (ج-۶) ۳۹۷۱

احمد نقشبندی، شیخ: (ج-۶) ۳۸۲۹ ـ ۳۸۳۰، (ج-۱۰) ۵۹۸۷

احمد یار خان نعیمی، مفتی: (ج-۲) ۱۱۸۸ ـ ۱۱۹۰، (ج-۳) ۱۳۶۱، (ج-۷) ۴۰۳۸، (ج-۱۰) ۶۴۴۰

احمد یسوی ترکستانی، خواجہ: (ج-۲) ۲۲۵، ۲۹۴، ۲۹۵، ۴۰۸، (ج-۲) ۵۸۱، (ج-۶) ۳۲۲۱، ۳۲۸۱، ۳۳۵۱

احمد بلخی، شیخ: (ج-۶) ۳۳۰۳

احمد بن محمد بن یوسف السقطی، ابوالعباس: (ج-۲) ۵۹۳

احمدی، مخدوم: (ج-۶) ۳۵۶۴ـ۳۵۶۵، ۳۵۶۸، ۳۷۰۴

اختر حسین علی پوری، سید: (ج-۶) ۳۷۸۱، ۳۸۰۰، (ج-۱۰) ۵۸۱۱

اختر راہی، پروفیسر: (ج-۵) ۳۰۴۴، (ج-۶) ۳۷۹۹، (ج-۱۰) ۵۸۰۹، ۵۹۴۷

اختر رضا خان ازہری، مفتی: (ج-۳) ۱۸۷۴، (ج-۵) ۲۹۰۵، ۲۹۱۳، ۳۱۱۰، (ج-۶) ۳۶۴۲، (ج-۸) ۴۸۶۴

اختر شاہجہان پوری، محمد عبدالحکیم: (ج-۱) ۲۴، ۴۵، (ج-۲) ۵۰۷، ۷۳۳، ۱۲۴۵، (ج-۵) ۳۰۴۹، (ج-۷) ۴۲۷۸، (ج-۸) ۴۶۵۵، ۴۸۳۵، ۴۹۹۰، (ج-۹) ۵۰۰۰، ۵۲۲۳

اختر کاشمیری: (ج-۳) ۱۵۶۳

اخلاق احمد نقشبندی، حاجی: (ج-۶) ۳۶۷۷، (ج-۱۰) ۶۴۳۵

اخوان احمد مسقطی، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج-۱۰) ۶۰۰۲

اخون مؤمن، شیخ: (ج-۶) ۳۸۲۸ ـ ۳۸۲۹، ۳۸۳۲، ۳۸۴۷

اخوند صوات، مجاہد جلیل: (ج-۶) ۳۸۴۱

اخوند یوسف، امام: (ج-۶) ۳۳۳۰، ۳۴۵۶

اخونزادہ کھلابٹ: (ج۔۶) ۳۸۴۶
ادریس احمد، ڈاکٹر: (ج۔۸) ۴۹۹۲، (ج۔۹) ۵۰۰۲، ۵۴۶۷، (ج۔۱۰) ۵۷۶۵
ادریس سامانی، شیخ: (ج۔۲) ۱۰۳۵۔۱۰۳۶، (ج۔۵) ۳۰۳۳۔۳۰۳۴، ۳۰۹۱۔۳۰۹۲
ارادت خان (شاعر): (ج۔۱۰) ۵۹۴۵
ارباب نقشبندی پشاوری: (ج۔۶) ۳۸۴۹۔۳۸۵۰
ارتضٰی حسین اشرفی راؤ، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳
ارحب فی اللہ، علامہ: (ج۔۲) ۶۳۶
ارسلان، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۸
ارشاد الحق اثری: (ج۔۲) ۷۲۹، (ج۔۶) ۳۹۴۳
ارشاد ایس۔ اے: (ج۔۲) ۷۳۶
ارشاد حسین، خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۶۹
ارشاد حسین رامپوری، مولانا: (ج۔۳) ۱۷۲۸، (ج۔۶) ۳۷۸۰، (ج۔۱۰) ۵۸۰۲
ارشاد خان، نواب: (ج۔۴) ۲۴۷۱
ارشاد علی، سید ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۶۷۹
ارشاد محمود طیبی، رانا: (ج۔۱۰) ۶۴۳۹
ارشد القادری، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۱۳
ارشد محمود، لفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ): (ج۔۳) ۱۲۸۹
ارشی۔ آئی۔ اے۔ (I.A. Arshi): (ج۔۵) ۲۸۵۶
ارور، راجہ: (ج۔۶) ۳۴۳۱
اسامہ امجد: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
اسامہ بن زید: (ج۔۵) ۳۰۹۹، (ج۔۷) ۴۳۷۶، ۴۳۸۱، (ج۔۸) ۴۷۳۰
اسامہ جیش: (ج۔۷) ۴۰۲۹
اسامۃ الرفائی: (ج۔۲) ۵۹۱
استوری سی۔ اے: (ج۔۵) ۲۸۲۹۔۲۸۳۰، ۲۸۴۲
اسحٰق (علیہ السلام): (ج۔۲) ۵۴۷، (ج۔۷) ۴۲۵۲
اسحٰق، ابوالحسن بن عبداللہ الحسن: (ج۔۵) ۲۸۶۲
اسحٰق الحنظلی: (ج۔۷) ۴۳:۵
اسحٰق الہمدانی: (ج۔۷) ۴۲۸۳
اسحٰق بن ابراہیم الدبری: (ج۔۷) ۴۳۱۳
اسحٰق بن ابراہیم شیرازی: (ج۔۲) ۵۲۱، ۵۴۶، (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۴) ۲۲۵۹
اسحٰق بن ابراہیم: (ج۔۷) ۴۲۹۹، (ج۔۹) ۵۱۸۷
اسحٰق بن عبداللہ: (ج۔۳) ۱۳۱۴، ۱۳۶۶
اسحٰق بن محمد ملاجق زادہ حنفی استنبولی: (ج۔۶) ۳۱۷۴، ۳۱۷۷
اسحٰق بن منصور: (ج۔۲) ۵۶۵، (ج۔۷) ۴۲۹۳، ۴۳۰۴
اسحٰق جان، مولانا: (ج۔۳) ۱۷۶۳، (ج۔۶) ۳۴۲۵۔۳۴۲۶
اسحٰق جلیس مولانا: (ج۔۹) ۵۴۱۱
اسحٰق ختلانی: (ج۔۸) ۳۸۴۶
اسحٰق سندھی، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۹۳، (ج۔۶) ۳۴۱۷، ۳۴۴۵۔۳۴۴۶، ۳۳۵۰۔۳۴۵۲
اسحٰق سہوانی، شیخ: (ج۔۱۰) ۶۱۲۸
اسحٰق شامی: (ج۔۸) ۴۸۴۱، ۴۸۵۵۔۴۸۵۶

اسحٰق شوین، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۱۹_۵۹۲۱، ۵۹۲۳، ۵۹۲۵
اسحٰق، شیخ: (ج_۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸
اسحٰق، شیخ (دادو): (ج_۶) ۳۶۹۰
اسحٰق، مولوی: (ج_۹) ۵۲۰۵
اسحٰق (والد مخدوم آدم): ، (ج_۶)، ۳۴۵۷، ۳۴۵۹
اسداللہ (فرزند شیخ شہباز مومند ہی): (ج_۱۰) ۵۸۷۰
اسد امان اللہ خان غازی، بادشاہ: (ج_۶) ۳۳۲۵
اسداللہ خان درانی: (ج_۶) ۳۸۶۸
اسداللہ شاہ ٹکھڑائی، سید: (ج_۶) ۳۶۰۹_۳۶۱۰
اسداللہ شاہ فدا، سید قاضی: (ج_۶) ۳۵۰۱، ۳۵۹۹
اسداللہ وزیر آبادی، شیخ: (ج_۶) ۳۴۳۵، ۳۷۰۳
اسد حنفی مدنی، سید مفتی سلطانی: (ج_۸) ۴۵۹۹
اسرار محمد خاں، لالہ: (ج_۵) ۳۰۰۷، ۳۰۴۱، (ج_۶) ۳۹۴۲
اسرائیل پشاوری، مولانا: (ج_۶) ۳۳۲۳
اسعد، سید: (ج_۹) ۵۳۴۱
اسعد محاسنی حنفی: (ج_۶) ۳۲۳۴
اسلام خان: (ج_۳) ۱۲۸۵، (ج_۴) ۲۲۰۷، ۲۲۸۴، (ج_۸) ۴۵۶۷
اسلم بیگ، مرزا: (ج_۲) ۱۲۴۴، (ج_۱۰) ۶۳۰۵
اسلم فرخی، ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۶۸۵، (ج_۱۰) ۶۰۹۹
اسلم، نقشبندی: (ج_۶) ۳۴۴۴
اسماء بنت ابی بکر: (ج_۷) ۴۰۲۱، ۴۰۳۱
اسماء بنت عمیس: (ج_۷) ۴۰۳۱
اسماء بنت یزید: (ج_۷) ۴۳۹۱
اسمٰعیل (علیہ السلام): (ج_۱۰) ۵۸۲۳
اسمٰعیل: (ج_۷) ۴۲۸۹، ۴۲۹۰
اسمٰعیل ابن زکریا: (ج_۷) ۴۲۸۸
اسمٰعیل اتارانی، شیخ: (ج_۴) ۲۵۰۸، ۲۵۱۰
اسمٰعیل انگی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۳۳
اسمٰعیل الجوہری بن حماد: (ج_۶) ۳۹۴۳
اسمٰعیل، امام (گورنر یمن): (ج_۹) ۵۵۲۶
اسمٰعیل بخاری، سید (لاہور): (ج_۴) ۲۰۸۵
اسمٰعیل برزنجی کردی، سید: (ج_۴) ۲۵۱۰
اسمٰعیل بن ابی زیاد: (ج_۷) ۴۳۰۵
اسمٰعیل بن احمد، شیخ: (ج_۶) ۳۲۴۰
اسمٰعیل بن اسحٰق القاضی: (ج_۲) ۵۲۳
اسمٰعیل بن جعفر: (ج_۲) ۵۶۲
اسمٰعیل بن عثمان، شیخ: (ج_۸) ۴۹۴۵،
اسمٰعیل بن علیہ: (ج_۷) ۴۳۰۶
اسمٰعیل بن محمد الصفار: (ج_۷) ۴۳۱۵، ۴۳۰۳
اسمٰعیل بن محمد بن عبداللہ بخاری، الشیخ: (ج_۷) ۴۲۶۹
اسمٰعیل بن محمد جراحی عجلونی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۷۰، ۳۱۹۲،
۳۲۲۸
اسمٰعیل بن محمد، ابو ابراہیم: (ج_۷) ۴۲۶۷
اسمٰعیل بن موسیٰ البغدادی: (ج_۲) ۵۸۰
اسمٰعیل بن یعقوب البغدادی: (ج_۲) ۵۲۳
اسمٰعیل پاشا بغدادی: (ج_۵) ۲۷۲۳

اسمٰعیل پریاں لوئی: (ج۔۶) ۳۴۳۳
اسمٰعیل جلونی، شیخ ابوالفتح: (ج۔۶) ۳۱۸۲
اسمٰعیل چغتائی، شیخ: (ج۔۶) ۳۹۰۶
اسمٰعیل، حاجی: (ج۔۶) ۳۵۵۸
اسمٰعیل حقی، شیخ: (ج۔۹) ۵۰۶۷
اسمٰعیل حقی، مولانا: (ج۔۲) ۶۲۸، (ج۔۶) ۳۹۴۳
اسمٰعیل خلیل مکی، علامہ شیخ: (ج۔۵) ۲۸۸۲
اسمٰعیل داغستانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۷۸
اسمٰعیل دہلوی، مولوی: (ج۔۳) ۱۶۷۴، (ج۔۵) ۳۰۲۴، (ج۔۶) ۳۵۷۳، ۳۸۹۰۔۳۸۹۱، (ج۔۸) ۴۹۴۳، (ج۔۹) ۵۲۰۵
اسمٰعیل سومرو: (ج۔۶) ۳۴۱۶
اسمٰعیل، سید مولانا: (ج۔۴) ۲۴۸۹
اسمٰعیل شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۴۹۸
اسمٰعیل، شیخ: (ج۔۴) ۲۰۴۸، ۲۰۶۳، ۲۴۳۲، (ج۔۹) ۵۴۶۴
اسمٰعیل، شیخ حافظ الکتب الحرم بن سید خلیل مکی: (ج۔۵) ۲۵۷۳
اسمٰعیل صفوی، شاہ: (ج۔۸) ۴۵۶۱، (ج۔۱۰) ۵۶۴۵
اسمٰعیل فدائی: (ج۔۴) ۲۰۶۴
اسمٰعیل فرید آبادی، قاضی: (ج۔۲) ۷۹۸
اسمٰعیل قرہ، شیخ اسلام: (ج۔۶) ۳۱۶۹
اسمٰعیل، کمال الدین: (ج۔۶) ۳۹۶۱
اسمٰعیل منینی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۹۔۳۱۸۰
اسمٰعیل، مولانا حاجی (خلیفہ مولانا یار محمد گل مہاری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۶
اسمٰعیل، مولوی: (ج۔۹) ۵۲۵۷
اسمٰعیل نجاتی آفندی، شیخ. (ج۔۶) ۳۲۵۹
اسمٰعیل نقرج، حافظ: (ج۔۶) ۳۶۹۱
اسمٰعیل واعظ جوادی: (ج۔۵) ۲۸۵۸
اشتیاق احمد، قاضی: (ج۔۶) ۳۶۷۳
اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۲۴، (ج۔۳) ۱۲۷۲، ۱۲۸۶، ۱۳۷۱، ۱۴۰۴، (ج۔۴) ۲۰۳۲، ۲۱۶۱، ۲۲۱۴، ۲۲۲۳، ۲۴۵۴، (ج۔۵) ۲۵۶۶، ۲۵۷۱، ۲۵۷۶، ۲۵۷۹۔۲۵۸۰
اشتیاق علی، قاری سید: (ج۔۶) ۳۶۲۷
اشرف جہانگیر سمنانی سید: (ج۔۲) ۱۲۳۸، (ج۔۶) ۳۹۴۳
اشرف خان ایم۔اے: (ج۔۵) ۳۱۱۸، ۳۱۳۰، ۳۴۰۹
اشرف خان، شاہ: (ج۔۶) ۳۷۱۳
اشرف سرہندی: (ج۔۴) ۲۱۷۶
اشرف علی حیدر آبادی، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۸۱
اشرف علی زروبی، مولوی: (ج۔۶) ۳۹۱۰
اشرف کابلی، خواجہ: (ج۔۵) ۲۹۳۳
اشرف دھڑائی، خواجہ: (ن۔۶) ۳۶۹۶
اشعری، ابو مالک: (ج۔۲) ۵۲۰
اشفاق محمد امرتسری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۵
اصبہانی، امام ابوالشیخ: (ج۔۲) ۵۱۴
اصغر احمد مولانا: (ج۔۳) ۱۳۴۷، ۱۳۷۳

اصغر شاہ قندھاری، سید: (ج_۶) ۳۹۱۰

اصغر علی روحی لاہوری، علامہ: (ج_۱۰) ۵۹۶۵

اصغر علی نقشبندی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۹۰

اصغر کابلی نقشبندی، سید میر: (ج_۶) ۳۸۶۴

اصغر نقشبندی، شیخ (مرشد حافظ محمد رانجھا نقشبندی): (ج_۱۰) ۵۹۸۶

اصولی، مولانا عرف ہزار خوانی: (ج_۶) ۳۸۶۵

اطہر عباس رضوی، ڈاکٹر: (ج_۴) ۲۱۹۹_۲۲۰۰، (ج_۵) ۲۸۱۸، (ج_۸) ۴۸۸۱، (ج_۹) ۵۳۷۳_۵۳۷۴، ۵۳۷۶، ۵۳۸۴، ۵۳۸۶، (ج_۱۰) ۵۶۵۹، ۵۸۳۴

اعجاز الحق قدوسی، مولانا: (ج_۳) ۱۴۰۴، ۱۴۰۶، (ج_۶) ۳۴۵۰، ۳۶۹۷_۳۶۹۸، ۳۷۰۰، ۳۷۰۳، ۳۷۰۵، (ج_۹) ۵۱۵۴، (ج_۱۰) ۵۸۸۵، ۵۸۹۱، ۵۹۲۶، ۵۹۴۷

اعجاز انجم لطیفی، ڈاکٹر: (ج_۱) ۳۶۲، (ج_۵) ۲۹۰۵_۲۹۰۶، (ج_۶) ۳۶۸۵

اعجاز حسن قریشی، ڈاکٹر: (ج_۸) ۴۸۵۴، ۴۸۶۲،

اعجاز سعید محمد: (ج_۱۰) ۶۴۴۰

اعجاز ولی خان، مفتی: (ج_۵) ۲۹۰۶، ۲۹۱۴

اعز مزنی: (ج_۷) ۴۳۷۷

اعزاز الدین احمد، مولانا: (ج_۳) ۱۸۸۶_۱۸۸۷، (ج_۴) ۲۲۲۷، ۲۲۴۲، ۲۲۵۴، ۲۳۳۶

اعظم خان: (ج_۸) ۴۵۶۷، (ج_۱۰) ۵۷۷۰

اعظم، رئیس: (ج_۴) ۲۳۹۲

افتخار الحسن، حافظ: (ج_۱۰) ۶۴۴۳

افتخار، شیخ: (ج_۱) ۲۹۴_۲۹۵

افروغ حسن، حافظ: (ج_۶) ۳۷۹۹

افضل الدولہ، نواب (حیدرآباد دکن): (ج_۱۰) ۵۸۸۱

افضل بیگم، مخدومہ: (ج_۸) ۴۳۶۹

افضل حسین شاہ، سید: (ج_۶) ۳۷۸۱

افضل خان، علامہ: (ج_۹) ۵۳۳۶، ۵۴۸۱

افضل خان، فہلمی: (ج_۴) ۱۹۳۳

افلاطون (فلسفی): (ج_۲) ۱۷۳۱، (ج_۵) ۲۹۵۰، ۳۰۲۳

اقبال احمد اختر القادری، ڈاکٹر: (ج_۱) ۱، ۲، ۱۳، ۲۱_۲۲، ۲۴، ۲۶_۲۷، ۲۹_۳۰، ۳۳_۳۵، ۵۰، (ج_۲) ۴۸۱_۴۸۲، ۴۸۸_۵۰۰، ۹۹۰، ۱۲۴۳، (ج_۳) ۱۷۱۹، ۱۸۳۶، ۱۸۶۸، ۱۸۷۱، ۱۸۷۳، ۱۸۸۵، ۱۸۸۷، (ج_۴) ۱۸۸۹_۱۸۹۰، ۱۹۱۳_۱۹۱۴، ۲۴۷۴، ۲۵۱۱، ۲۵۲۵، (ج_۵) ۲۵۲۹_۲۵۳۰، ۲۵۳۶، ۲۵۵۱_۲۵۵۳، ۲۹۰۷، ۲۹۱۱، ۲۹۱۳، ۳۱۰۷، ۳۱۱۷_۳۱۲۱، (ج_۶) ۳۱۲۲، ۳۱۲۹_۳۱۳۲، ۳۱۳۱، ۳۱۴۳، ۳۲۶۴، ۳۶۴۴، ۳۶۸۲، ۳۷۵۵، ۳۸۰۳، ۳۸۴۷، ۳۹۲۹، ۳۹۴۳، (ج_۷) ۳۹۸۵، ۳۹۸۶، ۳۹۹۲_۳۹۹۳، ۴۰۰۷، ۴۰۱۰، ۴۰۶۱، ۴۰۶۳، ۴۰۸۵، ۴۳۷۸، ۴۳۷۹، (ج_۸) ۴۳۸۱_۴۳۸۲، ۴۳۸۸_۴۳۸۹، ۴۴۹۹، ۴۵۰۲، ۴۶۷۹_۴۶۸۰، ۴۷۷۰، ۴۹۲۵، ۴۸۵۳، ۴۹۹۰، (ج_۹) ۴۹۹۳_۴۹۹۴، ۵۰۱۱، ۵۰۱۴، ۵۰۷۰، ۵۵۸۲_۵۵۸۳، (ج_۱۰) ۵۵۸۵_۵۵۸۶، ۵۵۹۲_۵۵۹۳، ۵۵۹۵، ۵۶۱۳، ۵۶۱۷، ۵۷۶۳، ۵۸۱۳، ۵۸۳۵، ۶۲۴۵، ۶۳۴۷_۶۳۳۸، ۶۳۳۰، ۶۳۸۹، ۶۳۹۲_۶۳۹۴

اقبال احمد فاروقی، پیرزادہ: (ج_۱) ۳۵، ۳۶، (ج_۵)

۲۶۲۸، ۲۸۹۰، ۲۸۹۷، ۲۹۰۷، ۳۱۱۹، (ج_۶) ۳۱۳۱،
۳۷۶۲، ۳۷۷۹، ۳۹۳۲، (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰)
۵۵۹۴، ۵۸۰۹، ۵۸۸۵_۵۸۸۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۲،
۵۹۶۸، ۶۰۳۳، ۶۰۹۴، ۶۴۰۶، ۶۴۴۰

اقبال احمد مجددی، پروفیسر: (ج_۴) ۲۴۹۰

اقبال خان، شیخ: (ج_۶) ۳۳۰۳

اقبال سرہندی، ڈاکٹر: (ج_۴) ۲۲۲۵، (ج_۷) ۳۹۹۲،
۳۹۹۹

اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد: (ج_۱) ۲۱، ۲۳_۲۴، ۱۸۹، ۲۳۶،
۲۴۲_۲۴۳، ۴۰۸، ۴۵۹، (ج_۲) ۴۸۸، ۴۹۰، ۴۹۸،
۷۳۶، ۸۳۵، ۱۰۰۷، ۱۰۱۳، ۱۰۳۳، ۱۰۳۵، ۱۰۳۷،
(ج_۳) ۱۲۸۵، ۱۳۶۳، ۱۳۶۸_۱۳۶۹، ۱۳۷۱_۱۳۷۲،
۱۳۹۷_۱۳۹۹، ۱۴۳۹، ۱۴۴۱، ۱۵۱۳، ۱۵۲۶، ۱۶۲۶،
۱۶۳۸، ۱۶۵۱، ۱۸۳۸، (ج_۴) ۲۰۳۳، ۲۰۷۴، ۲۲۰۳،
۲۲۰۶، ۲۲۱۲، ۲۲۱۸، ۲۲۲۳، ۲۲۸۹، (ج_۵) ۲۵۵۹،
۲۵۶۵_۲۵۶۶، ۲۵۶۸، ۲۵۷۰، ۲۵۷۲، ۲۵۷۵_
۲۵۷۶، ۲۵۷۹، ۲۷۵۷_۲۷۵۸، ۲۷۶۷، ۲۸۲۰،
۲۸۲۹، ۲۸۳۴، ۲۸۳۷، ۲۸۴۰، ۲۸۴۲، ۲۸۹۹، ۲۹۲۲_
۲۹۲۳، ۲۹۲۶_۲۹۴۹، ۲۹۵۱_۲۹۶۰، ۲۹۶۲_۲۹۶۴،
۲۹۷۱_۲۹۸۶، ۲۹۸۹_۲۹۹۲، ۲۹۹۴، ۲۹۹۶_۲۹۹۸،
۳۰۰۱، ۳۰۰۵_۳۰۰۷، ۳۰۱۱، ۳۰۲۰_۳۰۳۰، ۳۰۳۳_
۳۰۳۹، ۳۰۴۱_۳۰۴۳، ۳۰۴۵_۳۰۴۶، (ج_۶)
۳۳۲۰، ۳۵۴۸، ۳۷۷۲، ۳۷۹۱، ۳۹۳۷، ۳۹۶۳،
(ج_۱۰) ۵۵۸۹، ۵۶۱۳، ۵۶۱۶، ۵۶۲۰، ۵۶۳۱، ۵۶۴۲،
۵۶۶۶، ۵۶۸۹_۵۶۹۱، ۵۶۹۳_۵۶۹۴، ۵۶۹۶،
۵۷۷۸_۵۷۷۹، ۵۷۹۵_۵۷۹۶، ۵۷۹۹، ۵۸۵۷،
۶۰۳۲، ۶۰۸۰_۶۰۸۱، ۶۰۹۳، ۶۰۹۷، ۶۳۱۰_۶۳۱۱

اقتدار حسین صدیقی، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۹۰

اقتدار عالم خان: (ج_۵) ۲۷۷۷، ۲۷۹۲

اکبر الہ آبادی: (ج_۳) ۱۵۰۶، (ج_۵) ۳۰۲۴

اکبر، بادشاہ جلال الدین محمد: (ج_۱) ۴۱، ۸۰، ۸۹، ۲۰۶،
۲۹۵_۲۹۶، ۲۹۸، ۳۳۳_۳۳۴، ۳۷۰، ۳۹۳، ۳۹۷_
۳۹۸، ۴۱۵، (ج_۲) ۶۱۰، ۸۴۴، ۱۲۸۶، ۱۲۹۰، ۱۲۹۲،
۱۲۹۴، ۱۳۶۳_۱۳۶۴، ۱۳۶۷_۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹،
۱۴۰۴، ۱۴۰۹_۱۴۱۵، (ج_۳) ۱۴۲۲، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲،
۱۴۴۵، ۱۴۴۸، ۱۵۰۱، ۱۵۰۹_۱۵۱۳، ۱۵۴۸_۱۵۶۱،
۱۶۲۴، ۱۶۴۷، ۱۶۵۶، ۱۷۲۰، ۱۷۲۴، ۱۷۲۷، ۱۷۵۳،
۱۷۷۴، ۱۸۳۷، ۱۸۶۲، ۱۸۷۰، ۱۸۸۵، (ج_۴) ۱۹۱۴،
۱۹۱۷، ۱۹۴۰_۱۹۴۱، ۱۹۴۴، ۱۹۴۸، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵،
۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۵، ۲۰۰۳، ۲۰۱۱، ۲۰۱۶،
۲۰۳۲، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۰۷۲، ۲۰۸۸_۲۰۹۳، ۲۰۹۶_
۲۰۹۹، ۲۱۰۱_۲۱۰۳؛ ۲۱۰۵_۲۱۰۸، ۲۱۱۰_۲۱۱۱، ۲۱۱۳_
۲۱۱۴، ۲۱۱۶، ۲۱۱۸_۲۱۱۹، ۲۱۲۵، ۲۱۳۱، ۲۱۵۷، ۲۱۷۷،
۲۱۸۴_۲۱۸۶، ۲۱۹۵، ۲۱۹۹، ۲۲۰۲_۲۲۰۳، ۲۲۰۵،
۲۲۱۴_۲۲۱۵، ۲۲۶۹. ۲۲۷۰، ۲۲۷۲، ۲۳۹۹، ۲۴۰۴،
۲۴۱۲، (ج_۵) ۲۵۵۴_۲۵۵۵، ۲۵۶۱_۲۵۶۴،
۲۵۶۶_۲۵۶۷، ۲۵۶۹، ۲۵۷۱، ۲۵۷۲_۲۵۷۴، ۲۵۹۱،
۲۵۹۳_۲۵۹۴، ۲۵۹۹، ۲۶۰۱، ۲۶۱۵، ۲۶۳۱، ۲۷۶۱،
۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۲_۲۷۷۴، ۲۷۷۶_۲۷۷۹،
۲۷۸۱، ۲۷۸۵، ۲۸۰۹، ۲۸۱۹، ۲۸۳۲، ۲۸۳۵، ۲۸۴۰_
۲۸۴۱، ۲۸۷۲_۲۸۷۳، ۲۹۱۶_۲۹۱۷، ۳۰۱۹، (ج_۶)
۳۱۴۲، ۳۱۴۴_۳۱۴۶، (ج_۷) ۴۱۷۳، ۴۱۷۹،
۴۱۸۱_۴۱۸۳، ۴۱۹۰، ۴۲۰۱، (ج_۸) ۴۵۰۰، ۴۶۹۴،
۴۷۱۶، ۴۸۴۳، ۴۸۴۴، ۴۸۸۰، ۴۸۸۲، ۴۸۸۴،
۴۸۸۷، ۴۸۸۹، ۴۸۹۴، ۴۹۰۳، ۴۹۰۹، ۴۹۱۳، ۴۹۱۶،
۴۹۲۳، ۴۹۲۹، ۴۹۳۰، ۴۹۳۴، ۴۹۳۵_۴۹۳۷،

(ج_۹) ۵۰۱۵، ۵۰۲۷، ۵۰۴۴_ ۵۰۴۵، ۵۰۹۳_ ۵۰۹۴، ۵۱۲۵، ۵۱۴۴_ ۵۱۴۶، ۵۲۹۴_ ۵۲۹۵، ۵۲۹۸، ۵۳۰۰، ۵۳۱۳، ۵۳۷۰، ۵۳۸۳، ۵۳۹۹، ۵۳۸۹، ۵۴۰۳، ۵۴۰۸، ۵۴۱۱_ ۵۴۱۲، ۵۴۱۵ _ ۵۴۱۷، ۵۴۷۲، ۵۴۷۷، _ ۵۴۷۹، ۵۵۱۳_ ۵۵۱۶، ۵۵۶۸_ ۵۵۷۰، ۵۵۷۵_ ۵۵۷۶، (ج_۱۰) ۵۶۱۵، ۵۶۲۵_ ۵۶۲۶، ۵۶۴۰، ۵۶۴۳_ ۵۶۴۴، ۵۶۴۶_ ۵۶۴۷، ۵۶۴۹_ ۵۶۵۲، ۵۶۵۵، ۵۶۵۷_ ۵۶۵۸، ۵۶۶۲، ۵۶۶۵، ۵۶۶۷، ۵۶۷۵، ۵۶۷۷، ۵۶۸۲، ۵۶۹۹_ ۵۷۰۱، ۵۷۰۳_ ۵۷۰۵، ۵۷۶۵_ ۵۷۶۶، ۵۷۷۲، ۵۷۹۰، ۵۷۹۳_ ۵۷۹۴، ۵۸۲۵، ۶۰۵۰، ۶۱۰۶، ۶۱۱۲، ۶۱۱۸، ۶۲۹۰، ۶۳۰۲

اکبر حسین قریشی، ڈاکٹر: (ج_۵) ۳۰۳۷، ۳۰۴۵، (ج_۶) ۳۹۴۳

اکبر شاہ بخاری نقشبندی، سید میر: (ج_۶) ۳۸۲۹، ۳۸۳۵

اکبر شاہ ثانی: (ج_۴) ۲۱۸۸

اکبر شاہ خان، نجیب آبادی: (ج_۵) ۳۱۱۷، (ج_۶) ۳۱۲۹، ۳۱۴۵

اکبر شاہ، سید علامہ: (ج_۶) ۳۸۹۰

اکرام اللہ محشر بدایونی، میاں: (ج_۴) ۲۳۸۸

اکرم الٰہی، حاجی شیخ: (ج_۶) ۳۵۹۱

اکرم حسن علمی: (ج_۵) ۲۷۰۱، (ج_۶) ۳۱۹۰، (ج_۱۰) ۶۴۰۲

اکرم حسن علمی، کاتب: (ج_۶) ۳۱۸۹

اکرم حسن علی: (ج_۶) ۳۹۶۵

الاعرج: (ج_۷) ۴۲۹۳

الاندلسی، علامہ: (ج_۵) ۲۵۸۷، (ج_۱۰) ۶۱۸۸

البنانی، علامہ: (ج_۶) ۳۹۴۳

الپتگین: (ج_۴) ۲۰۴۶، ۲۰۶۲

التمش: (ج_۱) ۳۹۵، (ج_۴) ۲۰۴۹، ۲۰۸۰

التنوخی: (ج_۷) ۴۳۰۲

الجراح بن عثمان: (ج_۲) ۵۲۳

الحسن ابن ابی طالب: (ن_۷) ۴۳۰۶

الحسن العجمی، شیخ: (ج_۶) ۳۶۵۳

الحسن بن سفیان: (ج_۲) ۵۴۹

الحسن بن عرفۃ: (ج_۷) ۴۳۰۲

الحسن بن علوان: (ج_۷) ۴۳۰۸

الحسن بن علی الوراق: (ج_۲) ۵۷۹

الحسن بن قتیبۃ: (ج_۷) ۴۳۰۹

الحسن بن محمد: (ج_۲) ۵۴۹

الحسین الجندی: (ج_۲) ۵۳۷

الحسین بن معاذ: (ج_۷) ۴۲۸۳،

الحسین بن مھدی: (ج_۲) ۵۵۸

الحلوانی، شمس الائمہ: (ج_۳) ۱۷۰۶

الخرائطی: (ج_۷) ۴۳۴۶

الخطیب: (ج_۷) ۴۳۳۶

الخوارزمی، حافظ الدین: (ج_۶) ۳۹۴۷

الذّھبی (راوی حدیث): (ج_۴) ۲۳۳۰

الربیع بن خیثم: (ج_۲) ۵۳۸

السخاوی: (ج_۷) ۴۳۵۰، ۴۳۵۱،

السوار بن مصعب: (ج۔۲)۵۱۸
السید السند: (ج۔۵)۲۵۸۷
الشمنی: (ج۔۲)۶۹۳
الصعبدی، عبد المتعال: (ج۔۹)۵۰۴۰
الطاش بن شہمیر (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹
الطاف رحمانی، مولوی (ج۔۶)۳۹۶۴
العامری: (ج۔۷)۴۳۴۵
العباس العنبری بن عبد العظیم: (ج۔۲)۵۲۴، ۵۵۱
العز بن عبد السلام: (ج۔۲)۶۹۳
العلا بن زبیر الازدی: (ج۔۴)۲۳۱۵
الغ بیگ مرزا: (ج۔۴)۲۰۵۲
الف الدین خواجہ: (ج۔۱۰)۶۰۰۲
الفراء: (ج۔۵)۲۸۵۲
الفربری: (ج۔۵)۲۸۴۷
الفنسٹن: (ج۔۴)۲۰۴۷، ۲۰۵۱
القاسم بن ہارون: (ج۔۲)۵۷۵
القعنبی: (ج۔۷)۴۲۹۱
اللہ بچایا، حافظ: (ج۔۱۰)۶۰۴۶، ۶۰۴۹
اللہ بخش جرک، حاجی: (ج۔۶)۳۷۲۷
اللہ بخش سندھی، مولانا حکیم: (ج۔۶)۳۶۶۷
اللہ بخش سومرو، شہید: (ج۔۶)۳۷۳۵
اللہ بخش شاہ (مرید شیخ عبد القیوم): (ج۔۶)۳۵۰۱
اللہ بخش، شیخ (مرشد شیخ تاج سنھبلی): (ج۔۱۰)۵۹۲۵
اللہ بخش عباسی، مخدوم (تذکرہ مخادیم کھڑہ): (ج۔۶) ۳۷۰۴۔۳۷۰۵
اللہ بخش غفاری نقشبندی، خواجہ مولانا: (ج۔۶)۳۶۹۴، (ج۔۱۰)۶۰۶۷
اللہ بخش میاں (خلیفہ خواجہ شیخ احمد جی عثمانی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۱
اللہ بخش میندرہ: (ج۔۶)۳۶۹۶
اللہ داد (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹
اللہ داد جونپوری، مولانا: (ج۔۹)۵۱۴۷
اللہ داد، شیخ: (ج۔۱)۳۰۵، ۴۱۲، (ج۔۴)۲۴۲۲۔۲۴۲۳، ۲۴۵۳، (ج۔۶) ۳۳۴۵، ۳۷۴۷، (ج۔۹) ۵۲۳۵، (ج۔۱۰)۵۶۳۵
اللہ داد فیضی سرہندی: (ج۔۵)۲۷۷۶، ۲۷۷۸، ۲۷۸۵
اللہ دتہ، خلیفہ مولانا عبد الغفار نقشبندی): (ج۔۱۰)۶۰۶۸
اللہ دتہ کلیرہ، حافظ (خلیفہ خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰)۵۹۰۵
اللہ نور خٹک: (ج۔۱۰)۵۹۳۷
اللہ یار: (ج۔۳)۱۸۶۳
اللہ یار لاہوری قادری نقشبندی، میاں: (ج۔۶) ۳۷۱۳، (ج۔۱۰)۵۹۵۰
اللیث بن سعد: (ج۔۷)۴۲۹۲
المعزم: (ج۔۵)۲۸۴۷
المغیرہ بن شعبۃ: (ج۔۲)۵۳۶
النعمان بن سفیان: (ج۔۲)۵۳۲
النعمان بن عبد السلام: (ج۔۲)۵۳۲
الہذیل بن معاویۃ: (ج۔۲)۵۳۲

الیاس (علیہ السلام): (ج۔۱) ۴۳۶، (ج۔۲) ۹۲۷، (ج۔۳) ۱۳۷۶، ۱۶۳۹، (ج۔۸) ۴۵۴۱

الیاس بن ابراہیم کورانی (ملا): (ج۔۶) ۳۱۷۰، ۳۱۹۱

الیاس درویش (بدین): (ج۔۶) ۳۶۸۹

الیاس عشقی، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۶۸۵

الیاس، انطون الیاس: (ج۔۵) ۳۰۱۳، (ج۔۶) ۳۹۴۳

الیمان بن سعد: (ج۔۷) ۴۲۸۴

الٰہی بخش توکلی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۶۹

الٰہی بخش تھانیسری، خواجہ مولوی: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

الٰہی بخش سید (مرشد سید اسد اللہ محسن مدنی میاں): (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

الٰہی بخش، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۶۸، ۳۷۴۸

الٰہی بخش لدھیانوی، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

الٰہی بخش، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۶۰

الٰہی بخش یوسف زئی پٹھان: (ج۔۶) ۳۸۴۳

ام الفضل (زوجہ حضرت عباس): (ج۔۵) ۲۹۲۰۔۲۹۲۱

ام بزاز: (ج۔۷) ۴۳۱۳

ام رومان بنت عامر: (ج۔۷) ۴۰۳۱

ام سلمٰی گیلانی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۸۹۱ •

ام سلمۃ: (ج۔۷) ۴۳۶۳، ۴۳۷۷

ام سلیم: (ج۔۷) ۴۳۴۲

ام فروہ: (ج۔۴) ۲۲۵۷

ام کلثوم (صاحبزادی مجدد الف ثانی): (ج۔۱) ۴۲۶، (ج۔۲) ۵۱۰، (ج۔۴) ۲۴۱۹، (ج۔۵) ۳۱۱۲، ۳۱۱۶، (ج۔۶) ۳۹۳۵، (ج۔۷) ۴۰۳۱، (ج۔۸) ۴۶۰۴، (ج۔۹) ۵۰۲۵، (ج۔۱۰) ۵۶۷۲

ام مبشر: (ج۔۷) ۴۳۹۴

امام الدین رائے پوری، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۰۲

امام الدین سرہندی، خواجہ مولوی: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

امام الدین کھوتکوی: (ج۔۶) ۳۷۹۹

امام الدین مجددی (شکارپور): ۳۶۹۵

امام الدین، مولانا (برادر خواجہ عبد الغفار فضلی نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۵۹

امام الدین، مولوی (تاجر کتب لاہور): (ج۔۵) ۲۶۴۶، ۲۷۲۴، (ج۔۶) ۳۹۶۴، (ج۔۸) ۴۵۷۶، (ج۔۱۰) ۶۲۸۹

امام الدین، نواب (گورنر کشمیر): (ج۔۱۰) ۶۰۳۸

امام بخش بن پیر بخش: (ج۔۱۰) ۵۸۹۴

امام دین، حافظ: (ج۔۱۰) ۵۹۱۱

امام دین رائے پوری مولانا: (ج۔۸) ۴۸۶۹

امام دین عطار، شیخ: (ج۔۱۰) ۶۰۱۴

امام شاہ بخاری، پیر: (ج۔۱۰) ۵۸۹۷

امام علی شاہ، سید (مکان شریفی): (ج۔۶) ۳۱۲۵، ۳۳۶۸۔۳۳۶۹، ۳۴۷۲، ۳۵۷۴، ۳۶۲۶، ۳۷۶۷، (ج۔۸) ۴۷۲۷، ۴۸۶۸، (ج۔۱۰) ۵۸۱۳

امامی بیگم: (ج۔۱۰) ۵۸۷۹

امان اللہ افغانی نقشبندی، شاہ: (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۴۷۔۵۸۵۰، ۵۹۵۵

امان اللہ پانی پتی، ملا: (ج۔۲) ۷۸۳، (ج۔۴) ۱۹۸۲

امان اللہ خان (حاکم افغانستان): (ج۔۶) ۳۳۰۱، (ج۔۱۰) ۵۹۵۵

امان اللہ لاہوری، مولانا: (ج۔۱) ۴۵۲، (ج۔۳) ۱۳۷۳، ۱۵۱۳، ۱۵۲۷، ۱۸۰۹، (ج۔۴) ۲۳۹۴، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۹) ۵۰۲۶

امان اللہ، ملا: (ج۔۱) ۴۵۷، (ج۔۶) ۳۳۷۸، ۳۷۶۰

امت اللہ بیگم (دختر شیخ محمد مہدی مجددی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۳

امتیاز علی راز رامپوری، منشی: (ج۔۱۰) ۵۸۰۸

امجد افضل، حاجی: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

امجد علی اعظمی، مولانا: (ج۔۵) ۲۹۰۴، (ج۔۶) ۳۶۶۵

امد بن سعید الرازی: (ج۔۷) ۴۲۹۱

امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی: (ج۔۱) ۱۸۵، (ج۔۹) ۵۲۰۵

امر اللہ بن عبد الخالق بن ابوبکر مزجاجی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۵

املنگی، خواجہ محمد مقتدیٰ: (ج۔۳) ۱۳۹۱، (ج۔۴) ۲۲۵۲، ۲۲۶۳۔۲۲۶۴، ۲۵۰۳، (ج۔۶) ۳۵۶۶، ۳۷۱۱، ۳۹۸۱، (ج۔۷) ۴۱۰۳، ۴۱۷۵، (ج۔۸) ۴۵۱۱، ۴۵۱۶، ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۰۶۵، ۵۱۲۴، ۵۱۲۸، ۵۱۵۷، ۵۲۳۱، ۵۴۷۵، ۵۵۱۵

امید علی آخوند: (ج۔۶) ۳۶۹۲

امید علی سہائے (بالا): (ج۔۶) ۳۴۴۱

امیر احمد شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۶۹۶

امیر احمد، مخدوم: (ج۔۶) ۳۴۴۵، ۳۶۵۷

امیر الدولہ، نواب: (ج۔۴) ۲۴۸۴

امیر الدین، خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۶۷

امیر الدین شاہ، مولانا (خلیفہ عبد الغفار نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۶۸

امیر اللہ شاہ توکلی، سید: (ج۔۶) ۳۷۶۹

امیر تیمور: (ج۔۴) ۲۰۵۱۔۲۰۵۲، ۲۰۶۵

امیر تیمور (بادشاہ): (ج۔۱۰) ۶۱۰۴

امیر جلال الدین: (ج۔۴) ۲۳۶۵

امیر حسن دہلوی: (ج۔۶) ۳۹۴۳

امیر حسین درویش: (ج۔۷) ۴۰۹۲

امیر حسین کلاں، شیخ: (ج۔۷) ۴۰۹۳

امیر حمزہ قریشی، مولانا قاضی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴۔۵۹۴۵

امیر حیدر مجددی: (ج۔۶) ۳۶۹۵

امیر خان، نواب: (ج۔۴) ۲۴۶۷، (ج۔۸) ۴۸۳۳

امیر خسرو دہلوی: (ج۔۹) ۵۴۶۷، (ج۔۱۰) ۵۸۲۷

امیر شاہ قادری، سید پیر: (ج۔۶) ۳۳۳۹، ۳۸۲۷

امیر علوی اجمیری، سید: (ج۔۶) ۳۶۶۰

امیر کرم اللہ: (ج۔۳) ۱۶۸۲

امیر کلال، خواجہ سید شمس الدین: (ج۔۱) ۲۲۴، ۲۳۲، ۲۶۲، (ج۔۲) ۸۸۱، (ج۔۴) ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۶۱، (ج۔۶) ۳۹۸۰، (ج۔۷) ۴۰۳۳، ۴۰۵۵، ۴۰۵۹، ۴۰۸۳، ۴۰۹۲، ۴۰۹۴، ۴۱۳۹، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج۔۱۰) ۵۹۲۸

امیر محمد خان والئی ٹونک: (ج۔۴) ۲۴۸۴

امیر محمد، شاہ: (ج۔۶) ۳۳۴۲

امیر محمد شاہ قندھاری، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۵۲

امیر محمد، والد حاجی عبدالقیوم): (ج۔۶) ۳۷۴۱

امیر معاویہ: (ج۔۳) ۱۶۷۱، ۱۷۸۰، ۱۸۳۱، (ج۔۴)
۲۰۲۵، ۲۱۴۵، ۲۴۲۲، (ج۔۵) ۲۹۱۶، (ج۔۷) ۴۱۹۳،
(ج۔۸) ۴۵۵۰، ۴۷۸۲، ۴۸۰۶، (ج۔۹) ۵۳۷۱

امیر، مولانا سید (المعروف حضرت جی صاحب کوٹھہ):
(ج۔۱۰) ۵۸۸۴

امیر مینائی (شاعر): (ج۔۱۰) ۵۸۰۸

امین الحسینی (مفتی اعظم فلسطین): (ج۔۶) ۳۳۳۶

امین الدین پیر، شاہ: (ج۔۸) ۴۸۴۱

امین اللہ علوی شکارپوری، پروفیسر: (ج۔۹) ۵۰۰۶

امین اللہ وثیر، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۵۲۶، (ج۔۵) ۲۵۳۷،
۲۶۶۵، ۲۷۵۷

امین اللہ جان مجددی (حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۲

امین اللہ کشمیری، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۶۰

امین اللہ میاں، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۱۰، ۳۳۱۳

امین بدخشی، خواجہ مولانا: (ج۔۳) ۱۳۶۹، ۱۳۷۲

امین بن فتح اللہ زادہ الکردی الاربلی الشافعی النقشبندی، شیخ
: (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

امین بن محمد ابن گمش استنبولی حنفی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۷،
۳۲۱۰

امین پشاوری صدیقی نقشبندی، حاجی: (ج۔۶) ۳۸۹۶

امین جان آغا: (ج۔۶) ۳۳۱۱

امین حسین اصلاحی: (ج۔۶) ۳۹۴۷

امین شاہ، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۰۱، (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰)
۵۵۹۴

امینہ عادل: (ج۔۶) ۳۱۴۵

امیہ بن خالد: (ج۔۷) ۴۳۳۸

امیہ بن خلف: (ج۔۷) ۴۰۲۴

امیہ بن عبداللہ: (ج۔۲) ۵۶۹

امیۃ بن خالد: (ج۔۲) ۵۶۹

انا بلے بوشر: (ج۔۵) ۳۱۱۸

انار اللہ: (ج۔۴) ۲۲۸۸، ۲۳۰۲

انجم بخاری، پروفیسر، شاہ: (ج۔۹) ۵۵۸۴

انجیر فغنوی، خواجہ: (ج۔۷) ۴۰۳۳

انس بن مالک: (ج۔۱) ۱۷۳، (ج۔۲) ۵۱۴۔۵۱۵، ۵۲۰،
۵۲۲۔۵۲۴، ۵۳۰۔۵۳۱، ۵۳۶، ۵۴۴۔۵۴۵، ۵۵۲،
۵۵۶، ۵۶۶، ۵۶۸، ۵۷۱، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۹۶،
(ج۔۴) ۲۲۹۵، ۲۳۰۶ ۲۳۱۴، ۲۳۲۲، ۲۳۲۹، (ج۔۶)
۳۷۴۲، (ج۔۷) ۴۱۹۴، ۴۲۸۶، ۴۲۹۵، ۴۳۰۲،
۴۳۰۷، ۴۳۲۵، ۴۳۲۶، ۴۳۲۸، ۴۳۲۹، ۴۳۳۲،
۴۳۳۹، ۴۳۴۱، ۴۳۴۳، ۴۳۴۷، ۴۳۵۶، ۴۳۶۳،
۴۳۶۴، ۴۳۶۶، ۴۳۶۸، ۴۳۷۳، ۴۳۷۵، ۴۳۷۷،
۴۳۸۱، ۴۳۸۶، ۴۳۸۹، ۴۳۹۰، ۴۳۹۲، ۴۳۹۵،
۴۳۹۶، ۴۴۰۰، ۴۴۰۶، (ج۔۸) ۴۶۳۶، ۴۷۳۰،
(ج۔۹) ۵۳۱۷، (ج۔۱۰) ۵۸۳۸

انس ٹھٹوی، شیخ: (ج۔۶) ۳۶۸۷

انس فاروقی مجددی، ابوالنصر: (ج۔۶) ۳۳۸۷، ۳۴۲۸،
۳۴۴۷، ۳۴۶۱، ۳۷۵۸

انصاری دہلوی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۳۰۳۰

انعام الحق کوثر، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

انعام اللہ خان یقین: (ج_۴) ۲۴۶۵

انعام (خلیفہ میاں شیر محمد شرقپوری): (ج_۶) ۳۷۷۰

انفال عائشہ: (ج_۳) ۱۸۷۴

انوار احمد سلامی، مولانا: (ج_۵) ۲۹۱۳

انوار اقبال: (ج_۴) ۲۲۲۳

انوار الحق: (ج_۹) ۵۴۱۱، ۵۴۱۳_۵۴۱۵، ۵۴۱۷، ۵۴۱۹، ۵۴۲۱، ۵۴۲۳، ۵۴۳۲

انوار اللہ طبی (مدیر): (ج_۱۰) ۶۳۳۹

انوار اقبال قریشی، ڈاکٹر (مصنف اسلام اور سود): (ج_۲) ۷۳۵، (ج_۶) ۳۹۴۴

انور شاہ کشمیری، علامہ: (ج_۲) ۵۹۰، ۷۰۰، (ج_۶) ۳۵۷۵

انور طاہر رضا، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۰۲

انور علی، سید، ایڈووکیٹ: (ج_۴) ۲۱۰۹، (ج_۵) ۳۱۱۷، (ج_۶) ۳۱۲۹، ۳۱۴۵

انیس احمد شیخ، پروفیسر: (ج_۶) ۳۷۹۹

انیس احمد نقشبندی، سید: (ج_۵) ۳۱۱۷، (ج_۶) ۳۱۲۹، ۳۱۳۵

انیس الزمان، ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۳۹۲

انیس خان (مرید پروفیسر محمد حسین آسی): (ج_۱۰) ۶۰۹۳

اوحد الدین کرمانی، شیخ: (ج_۲) ۱۲۳۱، (ج_۴) ۲۳۴۰

اورنگ زیب اعظمی: (ج_۹) ۵۵۸۲، (ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۷۰۹، ۵۷۲۱

اورنگ زیب عالمگیر (بادشاہ): ۲۶۶۳، ۲۶۶۶، ۲۷۶۳، ۲۷۶۸، ۲۷۸۱، ۲۷۸۳_۲۷۸۶، ۲۷۹۶، ۲۸۰۰_۲۸۰۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۸، ۲۸۰۴_۲۸۴۱، ۲۸۷۷، ۲۹۱۷، ۳۰۲۴، ۳۰۳۷، ۳۰۷۹، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۵۲، ۳۳۵۴، ۳۶۹۷_۳۶۹۸، ۳۸۶۴، ۳۹۳۶

اورنگ زیب عالمگیر (بادشاہ): (ج_۱) ۴۱، ۸۰، ۸۹_۹۰، ۲۴۹، ۴۰۸، (ج_۲) ۱۱۸۸، (ج_۳) ۱۴۰۰، ۱۴۰۴، ۱۴۰۶، ۱۴۱۵، ۱۴۵۰، ۱۴۵۳، ۱۶۳۸، ۱۶۴۳، ۱۷۲۰_۱۷۲۱، ۱۷۲۳، ۱۷۲۷، ۱۸۳۸، ۱۸۸۷، (ج_۴) ۱۸۹۳، ۱۹۱۷، ۱۹۸۵_۱۹۸۶، ۲۰۳۲، ۲۰۵۵، ۲۰۶۹_۲۰۷۰، ۲۱۲۴، ۲۱۵۷، ۲۱۷۶_۲۱۸۵، ۲۱۹۵_۲۱۹۷، ۲۱۹۹_۲۲۰۰، ۲۲۰۷، ۲۲۱۵، ۲۲۱۷، ۲۲۲۰، ۲۲۶۵، ۲۲۷۳، ۲۲۷۸، ۲۲۸۰_۲۲۸۴، ۲۲۸۵_۲۲۸۷، ۲۲۹۰_۲۲۹۱، ۲۳۰۶، ۲۳۱۱، ۲۳۳۴، (ج_۵) ۲۵۵۳، ۲۵۶۴، ۲۵۶۹_۲۵۷۱، ۲۵۷۵، ۲۵۷۸، (ج_۷) ۴۱۸۸، (ج_۸) ۴۵۰۰، ۴۵۶۷، ۴۶۱۲، ۴۶۲۵، ۴۹۰۹، ۴۹۲۳، ۴۹۳۴_۴۹۳۵، (ج_۹) ۵۰۱۲، ۵۰۹۶، ۵۱۴۵، ۵۱۶۴، ۵۳۶۸، ۵۳۷۵، ۵۳۷۹، ۵۳۸۱، ۵۴۹۶، ۵۵۱۰، ۵۵۲۵، ۵۵۲۸، ۵۵۳۰، ۵۵۳۴_۵۵۳۵، ۵۵۳۸، ۵۵۵۲، ۵۵۵۵، (ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۱۵، ۵۶۲۶، ۵۶۶۱، ۵۶۶۶، ۵۷۵۷_۵۸۵۸، ۵۷۶۶، ۵۷۶۸_۵۷۶۹، ۵۷۷۱_۵۷۷۲، ۵۷۹۰_۵۷۹۱، ۵۷۹۳_۵۷۹۴، ۵۸۲۲، ۵۸۶۶، ۵۸۸۷، ۵۸۹۱، ۵۸۹۵، ۶۱۲۳، ۶۳۶۴، ۶۳۷۱

اورنگ شاہ، سید (شاگرد محمد عبداللہ درخانی نقشبندی): (ج_۶) ۳۷۳۸

اورنگ، شیخ (خلیفہ سید عبدالوہاب اخوند پنجو بابا): (ج_۱۰) ۵۸۷۴

اوسپنسکی، فلسفی (روسی صوفی): (ج_۱۰) ۵۷۷۸

اوشا سانیال، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۵۶۹۶

اوم پرکاش ہرشد ڈاکٹر: (ج۔۳)۱۷۲۳

اویس المجتبیٰ الحسینی، ابوالزہراء بن عبداللہ: (ج۔۵)۲۸۶۴

اویس بن عبداللہ حسینی، ابوزھرا: (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۷

اویس، خواجہ: (ج۔۴)۲۴۲۰

اویس سامانی، شیخ: (ج۔۵)۲۹۴۶

اویس قرنی، خواجہ: (ج۔۱)۲۷۷، (ج۔۳)۱۵۵۱، (ج۔۷) ۴۰۵۹، ۴۱۶۲، ۴۳۳۲

اویس نقشبندی، شیخ بن عبداللہ: (ج۔۵)۲۸۶۱

اہل اللہ، شاہ: (ج۔۶)۳۳۶۱

ایاز، شیخ (سندھی شاعر): (ج۔۶)۳۶۶۴

ایرج افشار: (ج۔۵)۲۸۵۴، ۲۸۵۸

ایلیٹ، سرایچ۔ایم: (ج۔۵)۲۷۸۷

ایم ارشد (نوائے اسلام): (ج۔۱۰)۶۴۴۳

ایم زمان کھوکھر: (ج۔۱۰)۵۸۹۴

ایمل خان، سردار (سردار ہشت نگر): (ج۔۱۰)۵۸۷۱

ایم۔آر روحانی، مولانا: (ج۔۱۰)۶۴۳۳

ایوب (علیہ السلام): (ج۔۶)۳۸۸۴، (ج۔۱۰)۵۸۲۴

ایوب: (ج۔۷)۴۳۰۶

ایوب انصاری (اصحابی): (ج۔۶)۳۱۶۳، ۳۱۶۵

ایوب (جد سلطان الکامل): (ج۔۵)۲۸۵۱

ایوب جمال اللہ، حاجی: (ج۔۶)۳۴۳۳

ایوب، حافظ (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹

ایوب خان (حاکم قندھار): (ج۔۶)۳۵۰۰

ایوب خان (صدر پاکستان): (ج۔۶)۳۶۴۹

ایوب، خواجہ (مرشد خواجہ جمال الدین): (ج۔۶)۳۵۶۶، ۳۵۸۹

ایوما حاجی محی الدین اخوندزادہ، شیخ: (ج۔۶)۳۳۰۲

اے عزیز لونی (مصنف): (ج۔۱۰)۵۹۵۹

ب

باباجواہر: (ج۔۱۰)۵۹۹۳

باباخان: (ج۔۵)۳۰۷۸۔۳۰۷۹

باباخرواری (صوفی نقشبندی بلوچستان): (ج۔۶)۳۷۱۱

باباسماسی، خواجہ (مرشد خواجہ سید امیر کلال): (ج۔۱)۲۲۳، (ج۔۴)۲۲۴۸۔۲۲۴۹، ۲۲۶۰۔۲۲۶۱، (ج۔۶)۳۹۸۰، ۴۰۳۳، ۴۰۵۵، ۴۰۵۶، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج۔۱۰)۵۹۸۹

باباوالی: (ج۔۱)۳۶۶

بابر، بادشاہ ظہیر الدین: (ج۔۱) ۲۶۳، ۳۹۵، (ج۔۴) ۲۰۶۵، ۲۳۹۷، (ج۔۶) ۳۷۶۴، ۳۷۸۲، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳، ۵۷۶۶، ۵۰۸۷

بابر بن عمر: (ج۔۸)۴۹۳۵

بابر بیگ مطالی، پروفیسر ڈاکٹر محمد: (ج۔۱)۲۱، ۳۲، ۱۰۲، ۴۵۸، (ج۔۲) ۴۸۸، ۵۱۲، ۵۱۴، ۷۷۰، ۱۲۴۴، (ج۔۴) ۲۵۲۷، ۲۵۳۸، ۲۶۲۹، ۲۶۷۲، ۳۰۱۹، ۳۰۳۶، ۳۰۴۱، ۳۰۴۳، (ج۔۶) ۳۹۴۴، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۳۰۴۔ ۶۳۰۵، ۶۳۰۸

بادشاہ گل (فرزند مہربان علی شاہ): (ج۔۶)۳۸۶۹

بادل بن عبدالرشید، میاں: (ج۔۶)۳۴۳۶

باز بہادر (موسیقار دربار اکبری): (ج۔۱۰)۵۶۴۶

باز محمد، ملا: (ج_۶)۳۵۹۸
باغ علی (جد امجد خواجہ مولانا غلام یحییٰ علی قریشی اٹکی): (ج_۱۰)۵۹۴۵
باغ علی شاہ، پیر سید (سیداں والے): (ج_۱۰)۶۰۷۶
باقر، امام: (ج_۵)۲۶۴۳، (ج_۸)۴۸۶۰
باقر بن محمد: (ج_۱۰)۶۱۴۱
باقر سارنگپوری، سید: (ج_۴)۲۳۹۴
باقر شاہ پشاوری، سید میر: (ج_۱۰)۵۸۷۴
باقر علی شاہ، سید: (ج_۶)۳۷۸۸
باقلانی، امام: (ج_۹)۵۱۷۵
باقی باللہ، خواجہ محمد: (ج_۱)۱۳، ۱۷، ۲۰، ۶۱، ۷۷_۷۸،
۱۰۱، ۲۷۹، ۲۸۳، ۲۸۸_۲۹۰، ۲۹۳_۲۹۴، ۲۹۶، ۲۹۸_
۲۹۹، ۳۰۱_۳۰۶، ۳۰۸، ۳۱۶، ۳۲۵، ۳۲۷_۳۳۷،
۳۳۹_۳۴۱، ۳۴۴_۳۵۱، ۳۶۵_۳۷۵، ۳۷۷_۳۸۰،
۳۸۳_۳۸۴، ۳۹۵_۳۹۸، ۴۱۷_۴۱۹، ۴۲۱_۴۲۵،
۴۲۸_۴۲۹، ۴۳۵، ۴۴۵، (ج_۲)۴۹۹، ۵۰۸، ۷۰۳،
۷۱۶، ۷۵۷، ۷۷۵، ۷۹۰، ۷۹۹، ۸۸۱، ۱۰۲۲، ۱۰۵۵،
۱۰۹۸، ۱۱۴۵، ۱۲۲۰، (ج_۳)۱۲۸۳، ۱۲۹۰_۱۲۹۱، ۱۳۵۶،
۱۳۷۲، ۱۳۷۵_۱۳۷۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹_۱۳۹۲، ۱۳۹۴_
۱۳۹۵، ۱۴۰۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۴، ۱۴۳۵، ۱۴۴۸،
۱۴۵۳، ۱۶۴۳، ۱۶۶۰، ۱۶۸۴، ۱۷۲۸، ۱۷۵۰، ۱۸۶۹_
۱۸۷۰، (ج_۴)۱۹۱۳، ۱۹۱۷، ۱۹۴۲_۱۹۴۳، ۱۹۴۶_
۱۹۴۷، ۱۹۵۱، ۱۹۵۳_۱۹۵۵، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵_۱۹۸۶،
۲۰۱۵، ۲۱۹۴، ۲۲۰۶، ۲۲۱۰_۲۲۱۱، ۲۲۵۲_۲۲۵۳،
۲۲۶۳_۲۲۶۴، ۲۲۶۹، ۲۲۷۳، ۲۲۷۷، ۲۳۶۰،
۲۳۶۲_۲۳۶۳، ۲۳۶۵_۲۳۶۶، ۲۳۷۵، ۲۳۷۹،
۲۳۸۱، ۲۳۸۴، ۲۳۸۸، ۲۳۹۳، ۲۴۰۶_۲۴۰۷، ۲۴۱۲_
۲۴۱۳، ۲۴۱۵، ۲۴۲۰، ۲۴۲۲_۲۴۲۳، ۲۴۲۵، ۲۴۳۵_
۲۴۳۶، ۲۴۳۸_۲۴۴۲، ۲۴۴۶، ۲۴۴۸، ۲۴۵۳،
۲۴۵۵، ۲۴۸۷، ۲۴۹۳_۲۴۹۴، ۲۵۰۰، ۲۵۰۳، (ج_۵)
۲۵۵۴، ۲۵۶۱، ۲۵۸۴، ۲۵۸۸، ۲۵۹۹، ۲۶۰۳_۲۶۰۵،
۲۶۱۰، ۲۶۱۲، ۲۶۱۵، ۲۶۱۷، ۲۶۲۱، ۲۶۳۷، ۲۶۴۶،
۲۷۲۵، ۲۷۳۷_۲۷۴۰، ۲۷۴۲، ۲۷۴۴، ۲۷۴۶_
۲۷۴۷، ۲۷۴۹_۲۷۵۰، ۲۷۸۰، ۲۸۱۹، ۲۸۲۸، ۲۸۳۱_
۲۸۳۲، ۲۸۴۲، ۲۸۷۱_۲۸۷۲، ۲۸۹۲، ۲۹۵۸، ۳۰۸۹_
۳۰۹۰، (ج_۶)۳۱۴۲، ۳۱۴۵، ۳۱۴۹، ۳۱۵۳، ۳۱۹۲،
۳۲۲۶، ۳۲۹۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۹، ۳۳۴۳_۳۳۴۸،
۳۳۵۰، ۳۳۶۸، ۳۳۷۸_۳۳۷۹، ۳۳۸۳، ۳۳۸۶_
۳۳۸۷، ۳۳۹۰، ۳۴۴۴، ۳۵۶۶، ۳۷۱۱، ۳۷۶۴،
۳۷۷۶، ۳۸۸۳، ۳۹۳۵، ۳۹۴۴، ۳۹۶۴، ۳۹۸۱،
(ج_۷) ۴۴۲۷، ۴۴۶۷، ۳۹۹۳، ۴۰۰۸، ۴۰۵۶،
(ج_۸)۴۴۹۹، ۴۵۰۲، ۴۵۱۱، ۴۵۱۵_۴۵۲۳، ۴۵۳۰،
۴۵۳۷، ۴۵۵۵، ۴۵۵۹، ۴۵۶۲، ۴۵۷۷، ۴۵۷۹،
۴۵۹۵، ۴۵۹۷، ۴۶۰۴_۴۶۰۵، ۴۶۰۸_۴۶۱۱،
۴۶۱۵، ۴۶۴۹، ۴۶۷۴، ۴۶۸۷، ۴۶۹۹،
۴۷۱۳_۴۷۱۴، ۴۷۲۶_۴۷۲۷، ۴۸۱۲، ۴۸۳۲، ۴۸۴۴،
۴۸۴۷، ۴۸۵۳، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، ۴۸۷۴، ۴۸۹۷،
۴۸۸۴، ۴۸۸۹، ۴۸۹۱، ۴۸۹۳، ۴۹۰۳، ۴۹۰۸،
۴۹۴۲، ۴۹۴۷، ۴۹۵۲_۴۹۵۳، ۵۰۱۱، ۵۰۱۴، ۵۰۲۲_
۵۰۲۳، ۵۰۳۰، ۵۰۴۴، ۵۰۴۶، ۵۰۵۴_۵۰۵۵،
۵۰۵۸، ۵۰۶۰، ۵۰۶۲، ۵۰۶۵، ۵۰۸۲، ۵۰۸۴، ۵۱۲۲_
۵۱۲۶، ۵۱۲۸، ۵۱۳۴، ۵۱۳۷، ۵۱۴۷، ۵۱۵۶_۵۱۵۷،
۵۱۸۸_۵۱۸۹، ۵۱۹۷، ۵۲۱۴، ۵۲۱۹، ۵۲۳۱، ۵۲۳۸،
۵۲۴۲، ۵۲۴۸، ۵۲۵۳، ۵۲۹۴، ۵۳۲۷، ۵۳۲۹،
۵۳۳۰، ۵۳۳۲، ۵۳۳۵_۵۳۳۷، ۵۳۵۳، ۵۳۵۸_
۵۳۵۹، ۵۳۶۸، ۵۳۷۹، ۵۳۸۱، ۵۳۸۷_۵۳۸۸،

۵۴۰۰؛ ۵۴۰۵، ۵۴۰۷، ۵۴۲۴، ۵۴۲۹، ۵۴۶۳، ۵۴۶۸_ ۵۴۷۰، ۵۴۷۳_ ۵۴۷۶، ۵۴۸۰، ۵۴۸۹، ۵۴۹۰_ ۵۴۹۱، ۵۵۰۲، ۵۵۰۶_ ۵۵۰۷، ۵۵۱۴_ ۵۵۱۵، ۵۵۱۷، ۵۵۱۹، ۵۵۲۴، ۵۵۲۷، ۵۵۴۴، ۵۵۶۸، (ج_۱۰) ۵۶۱۴، ۵۶۱۶، ۵۶۲۷، ۵۶۳۵_ ۵۶۳۶، ۵۶۳۸، ۵۶۴۱، ۵۶۷۱_ ۵۶۷۳، ۵۶۷۹_ ۵۶۸۲، ۵۷۰۲، ۵۷۵۵_ ۵۸۵۶، ۵۷۶۰، ۵۷۶۷، ۵۷۷۷، ۵۷۸۱، ۵۷۸۸_ ۵۷۸۹، ۵۷۹۱، ۵۷۹۳، ۵۹۲۰، ۵۹۲۵، ۵۹۲۷، ۵۹۳۵، ۶۱۱۶_ ۶۱۱۹، ۶۱۲۳، ۶۲۲۸، ۶۱۳۱_ ۶۱۳۲، ۶۱۵۴، ۶۱۵۷_ ۶۱۵۸، ۶۱۸۲_ ۶۱۸۴، ۶۱۸۹، ۶۲۰۰، ۶۲۵۱، ۶۲۵۵، ۶۲۷۰، ۶۲۷۳، ۶۲۹۲

بالی ناتھ (یوگی ماہر): (ج_۱۰) ۵۸۲۷

بایزید انصاری، علامہ: (ج_۲) ۵۲۰، ۵۳۹

بایزید بسطامی، خواجہ: (ج_۱) ۱۵۱، ۲۷۸، (ج_۲) ۸۳۱، ۱۰۲۰، (ج_۳) ۱۴۴۰، ۱۵۳۲، ۱۵۶۵، ۱۵۹۶، ۱۶۵۵، ۱۷۶۴، ۱۸۳۳، (ج_۴) ۲۲۴۴، ۲۲۵۷_ ۲۲۵۸، ۲۳۴۹، ۲۵۰۸، (ج_۵) ۲۹۶۵، ۲۹۵۷، (ج_۶) ۳۵۷۹، ۳۹۷۹، (ج_۷) ۴۰۵۶، ۴۰۸۳، ۴۰۸۲، ۴۱۹۷، ۴۴۴۶، ۴۴۴۹، (ج_۸) ۴۸۰۷، ۴۸۴۷، ۴۸۵۷، ۴۸۶۵، (ج_۹) ۵۲۱۲، ۵۲۱۷، ۵۳۳۹، ۵۳۴۴، ۵۳۵۴، ۵۳۹۱، ۵۴۰۲، ۵۴۰۶، ۵۴۲۹، ۵۴۴۸، ۵۴۵۵، ۵۴۶۰، (ج_۱۰) ۵۶۹۴_ ۵۶۹۵، ۵۷۸۳، ۵۹۸۹

بجار خان تالپور، میر: (ج_۶) ۳۵۰۸

بحر الدین: (ج_۶) ۳۴۱۸

بحر العلوم لکھنوی: (ج_۲) ۱۰۹۹

بحر العلوم، مولانا عبد الجلیل: (ج_۸) ۴۶۳۵

بخاری، امام محمد بن اسماعیل ابو عبد اللہ: (ج_۲) ۵۱۷، ۵۲۰، ۵۲۲_ ۵۲۳، ۵۲۵_ ۵۲۶، ۵۳۳_ ۵۳۴، ۵۴۶، ۵۶۷_ ۵۶۸، ۵۷۲_ ۵۷۴، ۶۱۹، ۷۷۰، (ج_۴) ۲۲۹۵، (ج_۵) ۲۶۸۵، (ج_۶) ۳۲۳۰، (ج_۷) ۴۲۸۱، ۴۳۳۷، ۴۳۳۹، ۴۳۴۲_ ۴۳۴۴، ۴۳۴۶_ ۴۳۴۸، ۴۳۵۱، (ج_۸) ۴۶۳۵، (ج_۹) ۵۱۷۸، ۵۲۶۶، ۵۳۱۷_ ۵۳۱۸، (ج_۱۰) ۶۱۴۸، ۶۲۰۴

بخت نصر: (ج_۸) ۴۸۲۶

بختاور خاں: (ج_۴) ۲۲۸۵، (ج_۵) ۲۷۸۳_ ۲۷۸۴، ۲۷۹۳

بختاور، مرید خواجہ سید محمد امین شاہ): (ج_۱۰) ۶۰۱۴

بختیار کاکی (قطب الدین): (ج_۶) ۳۳۶۶، ۳۸۸۳

بدایونی، ملا: (ج_۱) ۴۱۴، ۴۴۷، (ج_۳) ۱۴۴۵، ۱۴۴۷، ۱۵۱۱

بدخشی، علامہ: (ج_۲) ۷۶۰

بدر الاسلام صدیقی، صاحبزادہ: (ج_۱) ۲۶، (ج_۸) ۴۹۹۱، (ج_۹) ۵۰۰۱، ۵۰۴۸، ۵۱۸۵

بدر الاسلام نقشبندی، مولانا: (ج_۱) ۱۰۰

بدر الدین ابراہیم: (ج_۹) ۵۴۸۹، ۵۵۰۷، ۵۵۱۹، ۵۵۴۱_ ۵۵۴۳

بدر الدین بن محمد قدسی، مفتی: (ج_۶) ۳۱۷۷

بدر الدین چشتی: (ج_۴) ۲۱۱۸

بدر الدین، حافظ (جد امجد اعلیٰ خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی): (ج_۱۰) ۵۹۰۳

بدر الدین دمشقی، علامہ: (ج_۶) ۳۷۶۰، (ج_۱۰) ۵۹۵۶

بدرالدین سرہندی، شیخ (خلیفہ شیخ یحییٰ سندیلہ): (ج۔۱۰) ۵۹۲۴

بدرالدین سرہندی، خواجہ: (ج۔۱) ۲۸، ۸۴ـ۸۵، ۳۰۵، ۳۳۱، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۵۱ـ۳۵۲، ۳۵۸، (ج۔۲) ۷۶۷، ۶۷۹، ۹۰۸، ۳۳. ۹۹۳، ۹۹۵، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۳۷۴، ۱۳۸۹ـ۱۳۹۰، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۱۸، ۱۴۵۳، ۱۵۳۰، ۱۵۳۹، ۱۸۳۸، ۱۸۷۰، ۱۸۷۸، ۱۸۸۰، ۱۸۸۲، ۱۸۸۶ـ۱۸۸۷، ۱۹۸۸، (ج۔۴) ۲۰۵۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۷، ۲۲۳۹، ۲۲۴۲، ۲۲۵۴، ۲۳۹۴، ۲۴۲۴، ۲۴۳۳، ۲۴۴۶، ۲۴۵۲، ۲۴۵۴، (ج۔۵) ۲۵۷۱، ۲۵۷۷، ۲۵۸۰، ۲۶۱۳، ۲۶۳۲، ۲۶۳۴، ۲۶۴۸، ۲۶۶۰، ۲۶۶۲، ۲۷۳۵، ۲۷۴۱ـ۲۷۴۳، ۲۷۴۶ـ۲۷۴۸، ۲۷۸۰، ۲۸۱۶، ۲۸۳۲، ۲۹۹۲، ۳۰۳۹ـ۳۰۴۰، (ج۔۶) ۳۱۲۸، ۳۴۴۳، ۳۹۴۴ـ۳۹۴۵، (ج۔۷) ۴۲۲۰، ۴۲۳۲، (ج۔۸) ۴۴۹۳، ۴۵۹۶، ۴۶۳۳، ۴۶۴۹ـ۴۶۵۰، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱، ۴۹۱۰، ۴۹۳۱، ۴۹۵۱، ۴۹۵۴، (ج۔۹) ۵۱۱۹، ۵۱۳۸، ۵۱۵۴، ۵۱۸۱ـ۵۱۸۲، ۵۲۳۱ـ۵۲۳۲، ۵۲۳۷، ۵۲۴۶، ۵۲۴۹ـ۵۲۵۰، ۵۳۱۰، ۵۳۲۶، ۵۳۴۰، ۵۳۶۵ـ۵۳۶۶، ۵۴۷۱، ۵۵۴۴ـ۵۵۴۷، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۶۷۷، ۵۶۹۴، ۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۹۱۳ـ۵۹۱۴، ۵۹۱۷، ۵۹۲۴ـ۵۹۲۵، ۵۹۷۳، ۶۱۲۳، ۶۱۳۰، ۶۲۴۲، ۶۲۵۹ـ۶۲۶۰، ۶۲۷۴ـ۶۲۷۵، ۶۳۷۱

بدرالدین عینی، مولانا: (ج۔۲) ۷۲۴

بدرالدین، فقیر: (ج۔۴) ۲۲۳۸

بدرالدین، میاں (چوہنگ لاہور): (ج۔۶) ۳۷۸۶

بدر عالم میرٹھی: (ج۔۶) ۳۵۴۹

بدیع الدین سہارنپوری، شیخ: (ج۔۱) ۴۴۶، (ج۔۲) ۵۱۱، ۷۸۴، (ج۔۳) ۱۲۹۱، ۱۳۷۳، ۱۴۵۳ـ۱۴۵۴، (ج۔۴) ۱۹۶۷، ۱۹۷۱، ۲۰۳۱، ۲۱۴۳ـ۲۱۴۴، ۲۱۴۶، ۲۳۷۲، ۲۳۷۴، ۲۴۲۴، ۲۴۲۸، ۲۴۵۵، (ج۔۵) ۳۰۶۶، (ج۔۸) ۴۵۳۰، ۴۵۶۰ـ۴۵۶۱، ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۰۲۶، ۵۱۰۰، ۵۲۹۸، ۵۴۷۷، ۵۴۷۹ـ۵۴۸۰، ۵۴۸۹، ۵۵۱۸ (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۶۸۲ـ۵۶۸۴

بدیع الدین، شاہ مدار: (ج۔۸) ۴۸۴۶

بدیع الزمان سعید نوری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۷۲

بڈھن بھڑائچی، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۴۵، ۴۸۴۷، ۲۸۴۹

بڈھن شاہ، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۵

برمحمد: (ج۔۶) ۳۷۱۷

براء بن عازب: (ج۔۷) ۴۳۸۰، ۴۳۸۱، (ج۔۸) ۴۷۳۰

براؤن جوین پی: (ج۔۸) ۴۸۹۶

برٹن سرئی، لارڈ (اسلامی نام جلال الدین): (ج۔۶) ۳۸۵۳

برق، ڈاکٹر غلام جیلانی: (ج۔۵) ۲۵۷۶

برکات احمد ٹونکی، حکیم سید (ج۔۶) ۳۶۶۰

برکت اللہ، حافظ: (ج۔۷) ۴۰۵۱

برکت اللہ، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

برکت علی شہید، مولوی: (ج۔۸) ۴۸۵۰

برکت علی قریشی: (ج۔۱۰) ۵۹۷۰

برنی: (ج۔۴) ۲۰۴۹

بروکلمان: (ج۔۵) ۲۸۵۶

برد کلمان: (ج۔۵) ۲۶۶۷

برہان احمد فاروقی، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۰۲، (ج۔۲) ۷۷۸، ۷۸۲، ۸۰۳، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۷۰، ۱۵۴۱، (ج۔۴) ۲۰۸۹، ۲۱۶۳، ۲۱۶۷، (ج۔۵) ۲۷۵۹، ۲۹۳۵، ۲۹۴۵، ۲۹۶۴، ۳۰۰۵، ۳۰۱۰، (ج۔۶) ۳۹۳۹، ۳۹۴۵، ۳۹۶۵، (ج۔۸) ۴۹۳۵، (ج۔۰) ۶۱۵۴ _ ۶۱۵۵، ۶۲۴۳

برہان الدین شطاری برہان پوری: (ج۔۴) ۲۱۹۹

برہان الدین صدیقی: (ج۔۸) ۴۹۴۰

برہان الدین غریب نواز: (ج۔۴) ۲۰۱۲

برہان الدین، سید شاہ حصاری: (ج۔۶) ۳۸۷۸

برہان الدین، صاحبزادہ: (ج۔۷) ۴۰۹۴

برہما (بت): (ج۔۴) ۲۲۰۵، ۲۲۷۰

بریدہ: (ج۔۲) ۵۸۰

بزاز، امام: (ج۔۲) ۵۱۷، ۵۲۲_۵۲۳، ۵۵۸، (ج۔۷) ۴۳۱۶

بزرگ شاہ پشاوری، آغا سید: (ج۔۶) ۳۸۶۵، ۳۹۱۱

بسر بن عبید اللہ: (ج۔۲) ۵۲۶

بسطام بن حریث: (ج۔۲) ۵۲۳

بشر بن الحارث: (ج۔۹) ۵۲۱۱

بشر حافی: (ج۔۳) ۱۵۹۶، (ج۔۱۰) ۵۸۵۹

بشر محمد نقی: (ج۔۸) ۴۹۷۹

بشریٰ مسعودی: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

بشن (بت): (ج۔۴) ۲۲۷۰

بشیر احمد جان، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۷۱

بشیر احمد خاں: (ج۔۵) ۲۵۷۷

بشیر احمد ڈار: (ج۔۵) ۲۹۴۳، ۲۹۴۵، ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۲۹، ۳۰۴۲_۳۰۴۳، (ج۔۶) ۳۹۴۵

بشیر احمد سعدی، سید: (ج۔۴) ۲۱۷۰، (ج۔۶) ۳۹۴۵

بشیر احمد سکھے چکوی، ملک: (ج۔۱۰) ۶۰۷۵

بشیر احمد صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۱) ۲۳، ۲۸، ۴۴، ۴۶، ۴۹۰، (ج۔۲) ۵۱۲، ۱۱۹۵، ۱۲۴۵، (ج۔۳) ۱۸۸۶، (ج۔۴) ۲۲۰۳، ۲۲۱۸، (ج۔۵) ۲۶۷۲، (ج۔۹) ۵۴۱۵، ۵۴۲۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۲۰، ۶۳۰۴

بشیر احمد مجددی بغوی، میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۸۴_۵۸۸۵، ۶۴۳۳، ۶۴۴۰

بشیر احمد، ملک: (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴

بشیر احمد، میاں: (ج۔۵) ۲۹۲۹، ۳۰۲۶، ۳۰۳۶، ۳۰۴۳

بشیر احمد نقشبندی مجددی، علامہ: (ج۔۶) ۳۷۹۹، (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

بشیر احمد نقشبندی، حاجی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

بشیر احمد یوسفی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۶۴۴۲

بشیر الدین احمد: (ج۔۹) ۵۱۵۶

بشیر اللہ: (ج۔۶) ۳۴۱۷

بشیر بن نہیک: (ج۔۷) ۴۳۱۶

بشیر حسین شاہ، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۷۶

بطۃ الاصفہانی: (ج۔۲) ۵۳۸

بغوی، امام: (ج۔۲) ۵۲۹، ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۴۳، ۵۶۲، ۵۶۹_۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۴، ۶۱۷، (ج۔۸) ۴۵۲۵

بقاء محمد قریشی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۲۴

بقاء محمد نقشبندی، حاجی: (ج۔۶)۳۸۰۴۔۳۸۰۶
بکتاشی ویلی، حاجی: (ج۔۶)۳۲۷۱
بکر بن عمرو: (ج۔۲)۵۲۷، ۵۲۸
بکرماجیت، راجہ: (ج۔۳)۱۸۷۸، (ج۔۹)۵۵۴۶
بلال بن حارث: (ج۔۷)۴۳۰۹، (ج۔۸)۴۷۴۰
بلال تلہٹی، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۵۰۔۳۴۵۱، ۳۶۹۰
بلال حبشی (صحابی): (ج۔۲)۶۰۹، ۶۹۸، (ج۔۳)۱۷۰۳، (ج۔۵) ۳۰۵۳، ۳۰۵۵، (ج۔۶) ۳۷۵۸، (ج۔۷) ۴۰۲۴، ۴۰۲۷، ۴۱۸۰، ۴۳۶۳، (ج۔۹)۵۲۴۵
بلال درس، ساکن پراں: (ج۔۶)۳۴۷۶
بلال ساجد، حافظ: (ج۔۱۰)۶۴۹۴
بلال فاروقی مجددی، ابوالفیض: (ج۔۶) ۳۳۶۷، ۳۷۵۷۔۳۷۵۹، (ج۔۱۰)۵۹۵۴
بلال (مصنف الجواھر البدائع): (ج۔۶)۳۷۰۵
بلال ہمدانی اٹکی، شاہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۱
بلبن غیاث الدین (الف خان): (ج۔۴)۲۰۸۸
بلوچ خان تالپور، میر: (ج۔۶)۳۵۰۳، ۳۵۱۰
بلوچ خاں تالپور، میر: (ج۔۶) ۳۶۹۸، ۳۷۰۰، ۳۷۰۲، ۳۷۰۵
بلھے شاہ (صوفی شاعر): (ج۔۶) ۳۷۶۸، (ج۔۱۰) ۵۷۸۶، ۶۰۳۳
بنگلہ فقیر (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹
بنو عامر بن صعصعۃ: (ج۔۷)۴۲۹۲
بنیری، پیر بابا شیخ الاسلام: (ج۔۶)۳۸۵۱
بوعلی سینا، حکیم: (ج۔۴)۲۲۴۵، (ج۔۵)۲۹۵۲، (ج۔۹) ۵۳۷۵، ۵۴۰۸۔۵۴۰۹
بوعلی فارمدی، خواجہ: (ج۔۷)۴۰۴۳، (ج۔۸)۴۸۶۵
بوعلی قلندر پانی پتی: (ج۔۸) ۴۶۱۶، (ج۔۱۰) ۶۰۰۰، ۶۲۷۰
بومیری، امام: (ج۔۲)۵۵۶
بوٹاس (Boutas): (ج۔۵)۳۱۱۸، (ج۔۶)۳۱۳۰
بوزورتھ، سی۔ ای: (ج۔۸)۴۸۸۳
بوستان ابن عبدالحنان، ملا: (ج۔۱۰)۶۱۶۲
بہادر خان: (ج۔۴)۲۱۶۶، (ج۔۷)۴۴۴۴
بہادر شاہ اوّل، سلطان معظم: (ج۔۱۰)۵۸۷۳
بہادر شاہ ثانی، سراج الدین ابوظفر: (ج۔۴)۲۱۸۸
بہادر، ملاں (خلیفہ خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷
بہادر یار جنگ، نواب: (ج۔۶)۳۷۷۲
بہاری مل: (ج۔۱۰)۵۶۴۶
بہاء الحق افغانی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۵۴
بہاء الحق صاحبزادہ (خلیفہ شاہ غلام محمد مجددی): (ج۔۶) ۳۳۳۵، ۳۵۵۳
بہاء الدین: (ج۔۸)۴۸۹۴
بہاء الدین، حاجی (فرزند محمد غوث کابلی): (ج۔۱۰)۵۸۵۰
بہاء الدین زکریا ملتانی:
بہاء الدین، سید: (ج۔۸)۴۸۵۹
بہاء الدین محمد بن محمد مراد، سید: ۳۲۳۲

بہاءالدین محمد مرادی حنفی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۹
بہاؤالدین زکریا ملتانی: (ج۔۱) ۹۵، (ج۔۲) ۱۱۲۶، (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۴) ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۲۰۰، (ج۔۵) ۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۵۰۸، ۳۵۷۵، ۳۵۸۹، ۳۷۰۰، (ج۔۸) ۴۸۴۵، ۴۸۵۵
بہرام خان جمالزئی رئیسانی: (ج۔۱۰) ۵۹۵۸
بہرام، مولوی (بنوں): (ج۔۶) ۳۸۶۵
بہز بن حکیم: (ج۔۷) ۴۳۴۶
بہشتی نقشبندی امام الاسلام، مفتی: (ج۔۶) ۳۴۱۰
بہلول بدخشی، قاضی: (ج۔۱) ۷۱، ۴۱۴، ۴۴۳، (ج۔۴) ۱۹۵۱، ۲۲۶۴، (ج۔۵) ۲۵۶۰، ۲۷۱۳، (ج۔۷) ۴۱۷۲، (ج۔۸) ۴۹۴۲، ۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۰۲۲، ۵۰۵۴، ۵۱۲۱، ۵۲۲۷، ۵۴۷۱، ۵۵۶۷، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳، ۵۶۷۶
بھگوان داس: (ج۔۴) ۲۰۹۴، ۲۴۶۱، (ج۔۱۰) ۵۹۴۶
بھلارو، حاجی: (ج۔۶) ۳۶۹۱
بھولے میاں، شاہ: (ج۔۵) ۲۹۱۲
بھیک محمد، شاہ: (ج۔۴) ۲۴۷۱
بی بی حافظہ: (ج۔۴) ۲۳۴۸
بیدل بخاری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۷
بیدل، مرزا عبدالقادر (شاعر): (ج۔۵) ۲۹۲۳، ۳۰۲۷
بیر سنگھ: (ج۔۳) ۱۳۷۱، (ج۔۴) ۲۱۵۹
بیربر: (ج۔۴) ۱۹۷۸۔۱۹۷۹، ۱۹۹۸، ۲۰۰۳
بیرٹ ج۔۹) ۵۱۴۵
بیرگسن ا فی): (ج۔۵) ۳۰۰۶
بیرم خان: (ج۔۴) ۱۹۷۳، ۲۰۰۲، (ج۔۹) ۵۳۹۸، (ج۔۱۰) ۵۶۴۴، ۵۶۵۸
بیرنگ، خواجہ: (ج۔۱) ۳۱۶
بیگ فریکتی، حاجی: (ج۔۱۰) ۵۸۶۳
بیہقی، امام (احمد بن حسین ابوبکر): (ج۔۲) ۵۱۸، ۵۲۲، ۵۲۴، ۵۳۲، ۵۳۴، ۵۳۷، ۵۴۰، ۵۴۲۔۵۴۳، ۵۶۱۔۵۶۲، ۵۷۹، ۵۸۵۔۵۸۶، ۵۹۷، ۶۰۵، ۶۲۳۔۶۲۴، ۶۲۶، ۶۹۳، (ج۔۴) ۲۲۹۵، ۲۳۰۲، ۲۳۳۰، (ج۔۵) ۳۰۰۸، (ج۔۶) ۳۹۳۹۔۳۹۴۰، (ج۔۷) ۴۲۸۳، ۴۲۸۴، ۴۲۸۹، ۴۲۹۱، ۴۳۰۰۔۴۳۰۱، ۴۳۰۲، ۴۳۰۹، ۴۳۱۳، ۴۳۱۵، ۴۳۲۴، ۴۳۲۷، ۴۳۳۶. ۴۳۴۰۔۴۳۴۲، ۴۳۴۵۔۴۳۴۷، ۴۳۵۲، (ج۔۸) ۴۸۳۳، (ج۔۹) ۵۲۴۶، ۵۳۰۹
بے جی پاک کرماں والی: (ج۔۱۰) ۶۰۷۶

پ

پائنیکر، کے۔ ایم: (ج۔۵) ۲۵۶۴
پائندہ گل، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۴
پائندہ محمد، صوفی: (ج۔۱۰) ۶۱۲۰
پتھوکو، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۱۶
پٹھا، پیر: (ج۔۶) ۳۴۷۱
پجدنہ بختیارپوری، آخوند: (ج۔۶) ۳۶۰۳
پرتھوی راج چوہان، راجہ: (ج۔۱) ۳۹۵، (ج۔۴) ۲۰۴۸، ۲۰۶۴
پردل خٹک، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۵۸۹۰
پرویز شاہ قندھاری، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۵۸

پریم داس: (ج۔۴) ۲۰۰۳
پاپوش فقیر ٹھٹوی: (ج۔۶) ۳۶۸۸
پھول بادشاہ، سید: (ج۔۶) ۳۸۳۶
پیارے لال: (ج۔۲) ۷۷۱
پیر بخش بروہی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۶۷
پیر بخش، میاں (حافظ عبدالکریم): (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
پیر بخش (والد حاجی عبدالرحمٰن قصوری): (ج۔۶) ۳۷۸۴
پیر ثانی نقشبند، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۰۴
پیر خان، خان جہاں لودھی: (ج۔۴) ۱۹۸۱
پیر داد (والد شیخ یحییٰ چغتائی): (ج۔۶) ۳۹۰۴
پیر دار بن شیخ الیاس چغتائی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۲۹
پیر سباک، سید مولانا (ج۔۱۰) ۵۸۶۹
پیر محمد، بخاری (تکی ٹھر): (ج۔۶) ۳۴۴۱
پیر محمد جیوا، میاں: (ج۔۶) ۳۴۸۲، ۳۴۸۶
پیر محمد حسن، ڈاکٹر: (ج۔۷) ۴۳۴۸
پیر محمد شاہ: (ج۔۴) ۲۳۳۷، ۲۶۰۸، ۲۶۱۳، (ج۔۶) ۳۴۰۸، ۳۷۸۴
پیر محمد لکھنوی، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۰۷
پیر محمد، مولوی (فرزند مولانا فتح محمد ذیروی): (ج۔۱۰) ۵۸۱۳
پیر محمد، میاں (صوفی نواب شاہ): (ج۔۶) ۳۶۹۴
پیر محمد بالائی (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۳

ت

تاتار خان (استاد شاہجہاں بادشاہ): (ج۔۱۰) ۵۷۶۶
تاج الدین احمد دھان حنفی (مدرس حرمین شریفین) (ج۔۶) ۳۱۹۱
تاج الدین تابیاری، مولانا: (ج۔۸) ۴۵۹۵
تاج الدین تاج: (ج۔۵) ۲۵۳۶، ۲۵۴۲-۲۵۴۳، ۲۵۵۷، ۲۷۳۳
تاج الدین، خلیفہ: (ج۔۱۰) ۵۸۰۴
تاج الدین سنبھلی، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، (ج۔۵) ۲۶۹۳، ۲۷۴۰، ۲۷۴۴، ۲۷۴۷، (ج۔۶) ۳۱۵۵، ۳۱۹۲، ۳۲۲۶، ۳۳۳۵، ۳۴۴۵، (ج۔۹) ۵۴۶۹، (ج۔۱۰) ۵۶۲۷، ۵۷۵۵، ۵۷۶۰، ۵۹۲۰، ۵۹۲۵
تاج الدین، شیخ: (ج۔۱) ۳۰۴، ۳۳۹، ۳۴۱، ۳۵۰، (ج۔۴) ۲۰۰۳
تاج الدین ککے زئی نقشبندی، ملک: (ج۔۱۰) ۶۲۷۲، ۶۲۹۵-۶۲۹۶، ۶۳۵۰، ۶۳۷۵
تاج الدین، ملک۔ (ج۔۶) ۳۴۳۴، (ج۔۸) ۴۹۸۴
تاج الدین، میاں: (ج۔۶) ۳۶۰۳
تاج صاحب: (ج۔۸) ۴۶۷۷
تاج عرفانی، علامہ: (ج۔۶) ۳۷۸۱
تاج محمد امروٹی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۲۸
تاج محمد ٹھٹوی خوش نویس: (ج۔۶) ۳۵۵۸
تاج، میاں شیخ تاج العارفین: (ج۔۷) ۴۱۴۰-۴۱۴۱

تاج میر شاہ، سید (فرزند سید یعقوب شاہ بخاری)۔ (ج۔۶) ۳۸۳۶
تاراچند، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۵۸۵۹
تاشقلہ بیک ترکستانی: (ج۔۵)۳۰۹۰
تان سین: (ج۔۱۰)۵۶۴۶
تبسم چودھری: (ج۔۶)۳۷۰۵
تحسین رضا خان، علامہ۔ (ج۔۵) ۲۹۰۵، ۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۶۴۲
تراب الحق قادری، مولانا شاہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
تربیت خان: (ج۔۳) ۱۲۸۵، (ج۔۴) ۲۱۶۲، ۲۲۰۷، ۲۲۸۴، (ج۔۸)۴۵۶۷
ترپاٹھی آر۔ پی، ڈاکٹر: (ج۔۵)۶۸۔۲..۲۷۹۰
ترک ثانی، خواجہ: (ج۔۴)۲۲۵۰
ترک طوسی، شیخ ابوالمظفر مولانا: (ج۔۴)۲۲۴۴
ترگت اوزال، سیاستدان: (ج۔۶)۳۲۸۲
ترمذی، امام ابوعیسیٰ محمد: (ج۔۲)۵۱۹..۵۲۲، ۵۲۴، ۵۲۷۔ ۵۳۰، ۵۴۳۔ ۵۴۵، ۵۴۹، ۵۵۵۔ ۵۵۷، ۵۶۸۔ ۵۶۹، ۵۸۰، ۵۹۹، ۶۰۷۔ ۶۰۸، ۶۱۹، ۶۲۹، ۷۷۰، (ج۔۴) ۲۲۹۵، ۲۳۱۲، (ج۔۷) ۴۲۸۷، ۴۲۹۸، ۴۳۰۸، ۴۳۱۳، ۴۳۱۶، ۴۳۲۴۔ ۴۳۲۶، ۴۳۲۸۔ ۴۳۲۹، ۴۳۳۱، ۴۳۳۳، ۴۳۳۵، ۴۳۳۷۔ ۴۳۳۸، ۴۳۴۰، ۴۳۴۲۔ ۴۳۴۵، ۴۳۴۷، ۴۳۴۹، ۴۳۵۱، (ج۔۹)۵۱۷۸، ۵۲۴۷، ۵۲۸۸، (ج۔۱۰)۵۸۴۰
ترمذی، امام حکیم: (ج۔۱)۲۳۸، (ج۔۲)۵۵۷، ۵۶۰
ترنگزئی، حاجی، مجاہد اسلم: (ج۔۶)۳۸۰۷
ترھار، ڈاکٹر (TARHAR): (ج۔۱) ۱۰۲، (ج۔۵) ۲۷۰۱
تشبیھی کاشی (شاعر نقطوی): (ج۔۱۰)۵۷۰۱
تطہیر احمد، مولانا: (ج۔۶)۳۶۴۲
تقدس علی خاں، علامہ مفتی: (ج۔۵)۲۹۰۵، ۲۹۱۳
تقویم الحق، سید (مؤرخ): (ج۔۶)۳۸۵۶
تقی الدین دوستی، سمنانی: (ج۔۸)۴۸۴۶
تقی الدین سبکی، امام: (ج۔۲)۶۰۴، ۶۸۶
تلسی داس: (ج۔۱۰)۵۶۴۶
تنور حسین مجددی، حافظ: (ج۔۱۰)۶۴۳۱
تنویر احمد، فرزند محمد شفیع اوکاڑوی): (ج۔۶)۳۵۹۵
توشیر احمد صاحبزادہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۶
توصیف رضا خان، علامہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
توکل شاہ انبالوی، سائیں: (ج۔۶) ۳۷۶۹، ۳۷۹۰، ۳۷۹۸، (ج۔۱۰) ۵۹۴۰، ۵۹۵۵، ۵۹۶۲۔ ۵۹۶۳، ۵۹۷۱۔ ۵۹۷۲، ۵۹۷۴
توکل شاہ، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۹
تولک، قاضی القضاۃ: (ج۔۵)۲۷۲۰
تھامس رائے، سر: (ج۔۵)۲۸۳۲
تیر املا نقشبندی: (ج۔۶)۳۸۵۰
تیم بن مرہ: (ج۔۷)۴۱۸۰
تیمور شاہ: (ج۔۶)۳۵۶۰، ۳۷۰۴
تیمور لنگ، امیر (حکمران) (ج۔۶)۳۷۶۳
تیمور، مولانا (استاد مولانا شیخ جان محمد لاہوری): (ج۔۱۰) ۵۸۹۱

ٹ

ٹوڈرمل، راجہ: (ج۔۴) ۲۱۰۱، (ج۔۵) ۲۷۷۱، (ج۔۹) ۵۱۴۵
ٹیپو سلطان: (ج۔۴)۲۰۵۶، ۲۱۸۸۔۲۱۹۰
ٹیگرٹ میک (استادِ فلسفہ علامہ اقبال): (ج۔۵)۲۹۳۲، ۲۹۷۴

ث

ثابت بن مرزبان: (ج۔۱۰)۶۱۴۱
ثابت (والد امام ابو حنیفہ): (ج۔۱) ۴۱۳، (ج۔۵) ۳۰۴۹۔۳۰۵۰
ثروت صولت: (ج۔۶)۳۹۴۵
ثروت ندیم مسعودی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۲۴۲، (ج۔۱۰)۶۴۹۴
ثمر الدین، شیخ: (ج۔۶)۳۳۰۲، ۳۳۰۴
ثناء الحق صدیقی (ایم۔اے): (ج۔۵)۲۶۰۵، (ج۔۱۰) ۶۱۵۷
ثناء اللہ پانی پتی، قاضی محمد: (ج۔۱) ۸۷، ۲۱۷، ۴۰۸، (ج۔۳) ۱۷۲۸، (ج۔۴) ۱۹۵۲، ۲۰۵۵، ۲۰۷۰، ۲۲۱۰، ۲۲۲۳، ۲۴۵۳، ۲۴۶۳۔۲۴۶۴، ۲۴۷۱، ۲۴۹۴، ۲۵۰۳، (ج۔۵) ۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۶۴۲، ۲۸۱۰، ۲۸۷۶، ۲۸۹۲، ۲۸۹۵، ۳۰۸۱، (ج۔۶) ۳۳۶۳، ۳۶۹۹، ۳۹۳۷، ۳۹۴۵۔۳۹۴۶، (ج۔۷) ۴۲۰۲، ۴۲۳۵، ۴۲۴۱، (ج۔۸) ۴۵۲۵، ۴۶۰۳، ۴۸۶۸، ۴۹۷۴، ۴۹۸۶، (ج۔۹) ۵۰۶۷، ۵۲۵۲، ۵۳۴۰، ۵۳۴۹، ۵۳۵۱، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۳۸، ۵۶۶۶، ۵۸۸۰، ۵۸۹۳، ۵۹۷۳، ۶۱۲۶
ثناء اللہ سنبھلی، مولوی: (ج۔۴)۲۴۷۱
ثناء المصطفیٰ، علامہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
ثوبان: (ج۔۲)۵۶۸

ج

جابر: (ج۔۲) ۶۱۰، (ج۔۴) ۲۳۱۴، (ج۔۷) ۴۰۸۵۔۴۲۸۶، ۴۳۹۲، ۴۳۲۵، ۴۳۲۷، ۴۳۳۸، ۴۳۵۱، ۴۳۶۶، ۴۳۶۴، ۴۳۹۴، ۴۴۰۰، ۴۴۰۸، ۴۴۱۲، (ج۔۹) ۵۲۴۶
جابر بن عبداللہ الانصاری: (ج۔۲) ۵۱۹، ۵۸۹، ۸۸۵، (ج۔۳)۱۵۵۲
جابر بن عتیک: (ج۔۷)۴۳۷۶
جارج پنجم: (ج۔۶)۳۵۱۳۲
جالینوس: (ج۔۵)۲۶۰۰
جامع بن شدّاد: (ج۔۲)۵۲۲
جامی، مولانا عبد الرحمٰن: (ج۔۱) ۲۴۰، ۳۰۱، ۳۳۶۔۳۳۷، ۳۴۸، ۴۶۱، (ج۔۲) ۱۱۰۰، ۱۲۲۷، ۱۲۳۱، (ج۔۳) ۱۴۳۲، (ج۔۵) ۲۹۴۴، (ج۔۶) ۳۱۵۵، ۳۲۸۵۔۳۲۸۷، ۳۶۰۵، ۳۷۵۰، ۳۹۴۶، (ج۔۷) ۴۰۳۳، ۴۰۳۵، ۴۰۶۲، (ج۔۸) ۴۶۹۶، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۲۴۳، ۵۲۶۰، ۵۲۷۱، ۵۲۸۴، ۵۳۸۱، (ج۔۱۰) ۵۷۲۵۔۵۷۲۶، ۵۷۸۷۔۵۷۸۸، ۵۷۹۰، ۶۰۹۷
جان جاناں مظہر، مرزا: (ج۔۸)۴۵۹۸، (ج۔۹)۵۳۴۱، ۵۳۴۳، ۵۳۵۸۔۵۳۶۱، ۵۳۷۲، ۵۴۲۳
جان جہاں لودی: (ج۔۹)۵۵۵۶

جان محمد افغانی، مولانا: (ج-۱۰)۵۸۵۴

جان محمد بستی ناوڑیں والے، مولانا: (ج-۱۰)۵۸۹۷

جان محمد جالندھری، مولانا: (ج-۳) ۱۸۵۵، (ج-۴) ۲۰۴۰، (ج-۸)۴۵۴۳

جان محمد، حاجی (صوفی نواب شاہ): (ج-۶)۳۶۹۴

جان محمد، خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج-۱۰) ۵۹۳۷

جان محمد، رئیس حافظ (شاگرد ملا محمد طاہر بندگی): (ج-۶) ۳۷۶۶

جان محمد، سوداگر: (ج-۶)۳۱۵۱

جان محمد کاکڑ، ملا: (ج-۶)۳۷۱۱، ۳۷۲۲، (ج-۱۰)۵۹۵۲

جان محمد کلاں لاہوری، مولانا: (ج-۱۰)۵۶۳۸، ۵۸۷۳، (ج-۱۰)۵۸۹۱

جان محمد مستونگی: (ج-۶)۳۷۴۷

جان محمد، مولانا: (ج-۶)۳۷۳۴

جان محمد میلوی، مولانا ربانی: (ج-۶)۳۷۹۲-۳۷۹۳

جان محمد، وڈیرہ: (ج-۶)۳۶۱۱

جان محی الدین محمد، مرزا: (ج-۶)۳۳۵۴

جان آغا، خواجہ: (ج-۶)۳۳۱۰

جاناں بیگم بنت عبدالرحیم خانخاناں: (ج-۱۰)۵۷۷۰

جانی، حاجی چرم فروش: (ج-۶)۳۸۷۰

جاوید اقبال، ڈاکٹر: (ج-۵) ۲۹۲۴، ۲۹۴۴، ۲۹۸۸، ۲۹۹۶-۲۹۹۷، ۳۰۰۳، ۳۰۱۱، ۳۰۱۴، ۳۰۲۲-۳۰۲۳، ۳۰۲۹، ۳۰۳۳، ۳۰۴۳، (ج-۶)۳۹۴۶

جاوید اقبال مظہری، مولانا: (ج-۱)۱-۲، ۱۰، ۱۷، ۲۶، ۳۴، ۴۲، ۵۰، ۶۴، (ج-۲)۴۸۱-۴۸۲، (ج-۳)۱۴۰۷، ۱۸۱۰، (ج-۴)۱۸۸۹-۱۸۹۰، (ج-۵)۲۵۲۹-۲۵۳۰، ۳۱۱۸، (ج-۶) ۳۱۲۲، ۳۱۳۰، ۳۳۴۳، ۳۳۹۲، ۳۳۹۷، ۳۶۴۴، ۳۹۴۶، (ج-۷) ۳۹۸۵، ۳۹۸۶، ۴۲۷۸، (ج-۸) ۴۴۸۱-۴۴۸۲، ۴۹۰۷، ۴۹۲۵، (ج-۹) ۴۹۹۳-۴۹۹۴، ۵۰۶۹-۵۰۷۰، (ج-۱۰) ۵۵۸۵-۵۵۸۶، ۵۷۶۳، ۶۲۴۵، ۶۳۴۲، ۶۳۴۴-۶۳۴۵، ۶۴۳۰، ۶۴۹۳

جاوید اقبال معصومی، صوفی: (ج-۶)۳۷۵۳

جاوید چوہدری، حاجی: (ج-۱۰)۶۴۳۴

جاوید، حاجی (منیجر ماہنامہ فیض): (ج-۱۰)۶۴۳۴

جاوید، قاضی: (ج-۳)۱۷۷۵

جباری خان: (ج-۹)۵۲۱۴، ۵۲۱۶

جبرئیل (علیہ السلام): (ج-۱)۲۰۹، ۲۱۲، (ج-۳)۱۸۱۶، (ج-۴) ۲۲۴۳، ۲۲۵۷، (ج-۵) ۲۹۸۷، (ج-۶) ۳۳۲۲، (ج-۷) ۴۰۴۸، ۴۲۴۹، ۴۲۶۶، ۴۲۷۱، ۴۳۷۳، ۴۴۱۰، (ج ۸) ۴۹۸۰، (ج-۹) ۵۲۶۸، ۵۳۵۵

جرجانی میر، علامہ: (ج-۵)۲۹۲۳

جریر بن حازم: (ج-۲)۵۲۵

جریر بن عبداللہ: (ج-) ۶۰۵، ۶۵۶، (ج-۴) ۲۳۱۴، (ج-۷)۴۲۸۲، ۴۲۹۹، ۴۳۱۵، ۴۳۴۳، ۴۳۵۵

جریر (شاعر عرب دور بنو امیہ): (ج-۱۰)۵۷۱۵

جسونت، مہاراجہ: (ج-۴)۲۱۷۸

جعدہ بن ھبیرۃ: (ج-۷)۴۳۵۷

جعدی نابغہ: (ج-۹)۵۲۶۴

جعفر :(ج۔۴)۲۳۱۴
جعفر برزنجی، علامہ:(ج۔۵)۲۶۹۷، (ج۔۶)۳۹۴۶
جعفر بلوچ، پروفیسر: (ج۔۵) ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۳۰، ۳۰۴۳۔۳۰۴۴، (ج۔۶)۳۹۴۶
جعفر بن احمد بن بھرام:(ج۔۲)۵۳۸
جعفر بن العباس:(ج۔۷)۴۳۰۶
جعفر بن برقان:(ج۔۷)۴۳۱۶
جعفر بن عبداللہ بن الصباح:(ج۔۲)۶۳۴
جعفر بن محمد الصائغ:(ج۔۲)۵۴۴
جعفر بن محمد بیتی باعلوی سقاف حسینی شافعی، علامہ:(ج۔۶) ۳۲۰۶
جعفر بن محمد:(ج۔۲)۵۲۴
جعفر بوبکانی، مخدوم:(ج۔۶)۳۴۱۶
جعفر خاں (والد خواجہ عبدالصمد خاں عرف حضور جی): (ج۔۶)۳۷۹۰
جعفر شاہ پھلواری، مولانا:(ج۔۲)۷۳۶، (ج۔۶)۳۹۴۶
جعفر صادق، امام:(ج۔۲)۱۱۱۰، (ج۔۳)۱۶۵۲، (ج۔۴) ۲۲۴۳۔۲۲۴۴، ۲۲۵۷۔۲۲۵۸، (ج۔۵) ۳۰۸۵، (ج۔۶) ۳۹۷۹، (ج۔۸) ۴۸۵۷، ۴۸۶۰، ۴۸۶۵، (ج۔۹)۵۲۱۷، (ج۔۱۰)۵۶۹۴۔۵۶۹۵، ۵۹۸۹
جعفر صادق بن مصطفیٰ عیدروس، شیخ:(ج۔۶)۳۲۰۸
جعفر علوی، شیخ (قطب ربانی):(ج۔۵)۳۱۱۸
جعفر علی فریدی، مولوی (مصنف):(ج۔۱۰)۵۹۵۹
جعفر فاروق مجددی (فرزند شاہ ابو السعد عالم فاروقی مجددی:(ج۔۶)۳۷۶۰
جعفر، میاں:(ج۔۲)۱۲۱۵، (ج۔۳)۱۴۲۲
جلال الدین پانی پتی، خواجہ:(ج۔۸)۴۸۵۷
جلال الدین سید:(ج۔۱.)۴۸۴۹
جلال الدین اعظم حسینی، سیر:(ج۔۹)۵۴۰۶
جلال الدین الخجندی:(ج۔۲)۵۱۹
جلال الدین بخاری:(ج۔۱)۴۰۹، ۴۴۲، (ج۔۳)۱۳۶۶، (ج۔۵)۲۵۶۰، (ج۔۸)۴۵۰۹، (ج۔۹)۵۵۱۴
جلال الدین تبریزی:(ج۔۴)۲۰۸۷
جلال الدین تھانیسری، علامہ: (ج۔۱) ۳۰۱، (ج۔۳) ۱۷۷۳، (ج۔۶)۳۳۶۸
جلال الدین حسین، میر:(ج۔۱۰)۵۹۲۸
جلال الدین سیوطی، علامہ:(ج۔۱۰)۵۶۳۴، ۵۹۹۲
جلال الدین، شیخ:(ج۔۹)۵۵۱۳، ۵۵۲۰
جلال الدین قادری، علامہ محمد: (ج۔۱) ۲۴۔۲۵، ۴۸، (ج۔۳)۱۴۰۸، (ج۔۵)۲۹۱۳، (ج۔۶)۳۹۴۶
جلال الدین کبیر الاولیاء شیخ:(ج۔۱۰)۵۸۹۳
جلال الدین ملتانی، قاضی:(ج۔۴)۲۰۹۴
جلال تھانیسری، شیخ:(ج۔۹)۵۱۴۷
جلال خان خشی خیل:(ج۔۱۰)۵۸۷۰
جلال، ملا:(ج۔۶)۳۹۱۸
جماعت علی خان، رانا:(ج۔۱۰)۶۴۳۳
جماعت علی شاہ بخاری، سید:(ج۔۶)۳۸۳۶
جماعت علی شاہ، پیر سید: (ج۔۱) ۴۶، ۴۵۹، (ج۔۲) ۱۲۴۴، (ج۔۵) ۲۸۹۹، (ج۔۶) ۳۷۵۶، ۳۷۷۱۔

۳۷۷۲، ۳۷۷۴، ۳۷۸۰، ۳۷۹۵، ۳۷۹۶، ۳۸۰۲، (ج۔۷) ۴۳۱۷، (ج۔۸) ۴۸۶۹، (ج۔۹) ۵۵۷۴، (ج۔۱۰) ۵۵۸۹، ۵۸۰۱، ۵۸۰۴۔ ۵۸۰۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۶۵، ۶۰۱۰، ۶۰۹۷، ۶۴۳۳

جماعت علی شاہ لاثانی، پیر سید: (ج۔۶) ۳۷۷۴، (ج۔۱۰) ۵۹۳۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۸، ۶۴۳۳

جمال الدین ابوعبداللہ، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۳

جمال الدین احمد جورپانی: (ج۔۸) ۴۸۴۶

جمال الدین افغانی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۸۷

جمال الدین الشیال، ڈاکٹر: (ج۔۸) ۴۹۹۰، (ج۔۹) ۵۰۰۰، ۵۰۲۹، ۵۰۴۳

جمال الدین تلوی، مولانا: (ج۔۱) ۴۴۷، (ج۔۸) ۴۵۲۲، (ج۔۹) ۵۰۶۲، ۵۴۷۴، (ج۔۱۰) ۵۶۳۸

جمال الدین حسین، مرزا: (ج۔۱) ۳۰۸، (ج۔۴) ۲۴۲۳، (ج۔۹) ۵۲۴۲، ۵۲۷۹، ۵۲۸۱

جمال الدین، خواجہ: (ج۔۶) ۳۵۶۶

جمال الدین، سید: (ج۔۸) ۴۵۴۹

جمال الدین، شیخ: (ج۔۱) ۸۹

جمال الدین لاسونی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۵

جمال الدین محمد مصری، ابوالفضل: (ج۔۲) ۷۴۲، ۷۸۹، ۱۱۰۲

جمال الدین، مولانا: ۱۹۸۴،

جمال الدین یونس بن یحییٰ بن ابوالحسن: (ج۔۴) ۱۹۴۰

جمال اللہ نقشبندی، شاہ: (ج۔۶) ۳۸۸۰، (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

جمال لاہوری، مولانا: (ج۔۲) ۷۲۲، (ج۔۳) ۱۷۶۲

جمال محمد صدیقی، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۳۱، (ج۔۴) ۲۵۲۶، (ج۔۵) ۲۵۳۷، ۲۷۶۷، ۲۷۹۳

جمال میاں، علامہ (بریلی): (ج۔۵) ۲۹۰۵

جمشید احمد ندوی: (ج۔۸ ۴۹۹۱، (ج۔۹) ۵۰۰۱، ۵۱۶۷

جمیع بن عمرو العجلی: (ج۔۲) ۵۹۷

جمیل احمد: (ج۔۵) ۲۵۷۲، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰۔

جمیل احمد، خوش نویس: (ج۔۶) ۳۷۳۹، ۳۹۶۴

جمیل احمد شرقپوری، صاحبزادہ میاں: (ج۔۱) ۴۲، ۴۴، ۶۲، (ج۔۳) ۱۶۷۶، ۱۴۹۷، ۱۸۷۳، (ج۔۴) ۲۵۱۳، (ج۔۵) ۲۸۲۰، ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۷۷۰، ۳۸۰۰، ۳۹۳۲، ۳۹۶۴، (ج۔۸) ۴۵۷۸، (ج۔۹) ۵۰۶۸۔ ۵۰۶۹، ۵۴۱۵، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۲۷، ۶۳۳۳، ۶۳۴۰، ۶۴۲۹، ۶۴۴۵

جمیل احمد نعیمی، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۶۹، ۳۹۶۴

جمیل اطہر سرہندی شیخ: (ج۔۱) ۱۳، ۲۰، ۳۳، ۴۵۹، (ج۔۵) ۳۱۱۷، (ج۔۶) ۳۱۲۹، ۳۱۴۴، ۳۹۴۶، (ج۔۸) ۴۹۲۴، (ج۔۹) ۵۰۵۰، (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۴۹۳

جمیل الدین خاں، حکیم: زج۔۶) ۳۶۲۴، ۳۶۴۵

جمیل بیگ (کیمیاگر مٹاوری): (ج۔۶) ۳۲۲۷

جمیل جالبی، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۴۶۲، (ج۔۶) ۳۶۸۵، (ج۔۱۰) ۶۱۲۲، ۶۱۳۳

جمیل گرناری (مرید حسین عرف پیر پٹھا): (ج۔۶) ۳۷۰۰

جناح، محمد علی (قائداعظم): (ج۔۸) ۴۵۰۰، ۴۹۹۲

جندب: (ج۔۷) ۴۳۵۱، ۴۳۵۹

جندوداشاہ: (ج۔۱۰) ۶۰۴۶

جنید: (ج_۸) ۴۸۴۹

جنید بصری: (ج_۹) ۵۳۳۹، ۵۳۴۴، ۵۳۴۹

جنید بغدادی، خواجہ: (ج_۱) ۱۵۱، ۸۰، ۱۸۲_۱۸۳، ۲۷۷، ۳۳۷، ۳۴۶، (ج_۲) ۵۴۳، ۸۳۱، (ج_۳) ۱۴۳۰، ۱۵۳۲، ۱۵۶۵، ۱۵۶۷، ۱۵۹۶، ۱۶۵۵، ۱۶۷۴، (ج_۴) ۲۲۵۷، ۲۲۸۹، ۲۴۶۹، (ج_۵) ۲۷۲۰، ۲۸۹۳، ۲۹۶۵، (ج_۶) ۳۳۸۴، ۳۵۲۳، ۳۵۷۹، ۳۶۳۲، ۳۸۸۴، (ج_۷) ۴۰۵۶، ۴۱۹۷، ۴۴۴۹ (ج_۸) ۴۸۰۷، ۴۸۴۶، ۴۸۵۵، ۴۸۶۰، (ج_۹) ۵۱۷۸، ۵۲۳۷، ۵۳۹۱، ۵۴۰۶، ۵۴۲۹، ۵۴۵۶، (ج_۱۰) ۵۶۹۵، ۵۸۲۳

جنید پشاوری نقشبندی، شیخ: (ج_۶) ۳۸۲۸، ۳۸۲۹، ۳۸۴۰

جنید شیرازی، مولانا: (ج_۵) ۲۸۵۰، ۲۸۵۴_۲۸۵۵، ۲۸۵۷، (ج_۶) ۳۹۶۷

جوہر عثمان کھرڑ: (ج_۱۰) ۵۹۲۳

جویرۃ بنت حارث: (ج_۷) ۴۳۷۱_۴۳۷۲

جہان، خواجہ: (ج_۷) ۴۴۵۹، (ج_۹) ۵۲۱۴

جہاندار شاہ: (ج_۴) ۲۱۸۶

جہانگیر، بادشاہ نور الدین: (ج_۱) ۴۱، ۸۰، ۸۹، ۱۸۹، ۳۰۸، ۳۳۴، ۳۹۰، ۳۹۳، ۳۹۷_۳۹، ۴۰۷، (ج_۲) ۷۷۵، ۷۸۶، (ج_۳) ۱۲۸۶، ۱۲۹۱_۱۲۹۲، ۱۳۶۷_۱۳۷۱، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲_۱۳۹۴، ۱۴۰۰، ۱۴۰۴، ۱۴۱۴_۱۴۱۵، ۱۴۴۱، ۱۴۴۸، ۱۴۵۰، ۱۵۱۳، ۱۵۴۷، ۱۵۶۱، ۱۶۲۴، ۱۶۲۶، ۱۶۳۳، ۱۶۳۶، ۱۶۴۴، ۱۷۱۸، ۱۷۲۰، ۱۷۲۷، ۱۸۳۷، ۱۸۵۰، ۱۸۶۲، ۱۸۶۴، ۱۸۶۹_۷۰، ۱، ۱۸۷۸، ۱۸۸۵، (ج_۴) ۱۹۱۶_۱۹۱۷، ۱۹۴۸_۱۹۵۱، ۱۹۵۴، ۱۹۶۱، ۱۹۶۷_۱۹۶۸، ۱۹۷۵_۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰_۱۹۸۱، ۱۹۸۴، ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰_۲۰۲۱، ۲۰۲۷، ۲۰۳۰_۲۰۳۲، ۲۰۶۹، ۲۱۱۱_۲۱۲۱، ۲۱۲۴، ۲۱۲۶، ۲۱۲۸_۲۱۲۹، ۲۱۳۱_۲۱۳۳، ۲۱۳۶، ۲۱۴۲_۲۱۶۵، ۲۱۷۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۷_۲۱۹۹، ۲۲۰۶_۲۲۰۷، ۲۲۱۵، ۲۲۱۷، ۲۲۷۲، ۲۲۷۴، ۲۳۰۹_۲۳۱۱، ۲۳۱۳، ۲۳۳۲، ۲۳۴۷_۲۳۵۰، ۲۳۵۵، (ج_۵) ۲۵۴۳، ۲۵۵۲، ۲۵۶۱، ۲۵۶۳، ۲۵۶۶_۲۵۶۸، ۲۵۷۱_۲۵۷۲، ۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۶۱۷، ۲۶۳۷_۲۶۳۸، ۲۶۵۲، ۲۷۳۴، ۲۷۴۰، ۲۷۵۷، ۲۷۶۱، ۲۷۶۸، ۲۷۷۳_۲۷۷۶، ۲۷۷۹، ۲۷۸۱، ۲۸۰۹، ۲۸۲۷، ۲۸۳۰_۲۸۳۲، ۲۸۳۷، ۲۸۴۰_۲۸۴۱، ۲۸۷۲_۲۸۷۵، ۲۹۱۷، ۲۹۲۷، ۳۰۱۹، ۳۰۲۶_۳۰۲۷، ۳۰۳۶، ۳۰۳۸، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۵۳۲، ۳۶۹۸، ۳۸۲۶، ۳۹۷۱، (ج_۷) ۴۱۸۲_۴۱۸۴، ۴۱۸۶_۴۱۸۷، ۴۱۸۹، ۴۱۹۳، ۴۲۰۰، ۴۲۰۲، ۴۲۲۹، ۴۴۳۲، ۴۴۳۵، (ج_۸) ۴۵۰۰، ۴۵۵۷، ۴۵۶۰، ۴۵۶۲، ۴۵۶۴_۴۵۶۶، ۴۵۷۴، ۴۷۰۰، ۴۷۳۷_۴۷۳۸، ۴۷۴۲، ۴۷۵۴، ۴۷۷۰، ۴۸۳۳، ۴۸۷۵، ۴۸۷۹، ۴۸۸۵، ۴۸۸۷، ۴۸۹۱، ۴۹۰۳_۴۹۰۴، ۴۹۰۹، ۴۹۱۳، ۴۹۱۵، ۴۹۱۶، ۴۹۲۳، ۴۹۳۴، ۴۹۳۶، ۴۹۳۸، (ج_۹) ۵۰۲۷، ۵۰۴۴_۵۰۴۵، ۵۰۶۰_۵۰۶۱، ۵۰۹۳_۵۰۹۴، ۵۰۹۶، ۵۱۰۰، ۵۱۱۱، ۵۱۱۷، ۵۱۲۵، ۵۱۳۵، ۵۱۳۸_۵۱۴۰، ۵۱۴۲، ۵۱۴۶، ۵۱۵۲، ۵۱۶۲، ۵۳۱۳، ۵۳۲۶، ۵۳۳۱، ۵۳۳۳، ۵۳۴۹، ۵۳۶۱، ۵۳۶۳، ۵۳۶۵_۵۳۶۷، ۵۳۷۰، ۵۳۷۸، ۵۳۸۰، ۵۳۸۸_۵۳۹۱، ۵۳۹۴_۵۳۹۵، ۵۳۹۹، ۵۴۰۷_۵۴۰۸، ۵۴۱۲، ۵۴۱۷، ۵۴۲۶، ۵۴۶۴، ۵۴۷۹، ۵۴۸۱_۵۴۸۲، ۵۴۸۴_۵۴۸۵، ۵۴۸۷، ۵۴۹۳، ۵۴۹۸، ۵۵۱۳، ۵۵۱۶، ۵۵۲۹، ۵۵۵۵_

۵۵۵۶، ۵۵۷۵، (ج۔۱۰) ۵۶۰۶، ۵۶۱۲، ۵۶۱۵، ۵۶۲۶، ۵۶۳۱۔۵۶۳۲، ۵۶۴۲، ۵۶۴۴۔ ۵۶۴۵، ۵۶۴۷، ۵۶۴۹، ۵۶۵۶۔ ۵۶۶۱، ۵۶۶۴۔ ۵۶۶۵، ۵۶۸۲۔۵۶۸۳، ۵۷۰۴، ۵۷۰۶، ۵۷۲۳، ۵۷۶۶، ۵۷۶۸، ۵۷۷۲، ۵۷۷۷۔ ۵۷۷۸، ۵۷۹۰، ۵۷۹۴، ۵۷۹۶، ۵۸۶۷، ۵۸۸۵، ۵۹۲۴، ۵۹۲۶، ۶۱۱۶، ۶۲۹۰، ۶۲۹۲، ۶۳۰۲

جہانگیر قلی خان: (ج۔۴) ۱۹۸۱

جہانیاں جہاں گشت، سید جلال الدین مخدوم: (ج۔۴) ۱۹۴۰، (ج۔۸) ۴۵۱۰، ۴۸۴۵، ۴۸۵۵، (ج۔۹) ۵۱۸۷، (ج۔۱۰) ۵۶۳۵، ۵۸۷۲، ۵۹۲۵

جہاں خیلاں شریف (نقشبندی صوفی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۲

جہم، ایرانی بن صفوان (بانی فرقۂ جبریہ): (ج۔۵) ۲۹۸۸

جی معین الدین لاہوری: (ج۔۵) ۲۸۰۸

جی۔اے حق محمد: (ج۔۱۰) ۶۴۴۱

جیو، شیخ: (ج۔۳) ۱۷۴۶، ۱۷۶۲، (ج۔۶) ۳۴۸۲

جیونہ کاکڑ ژوبی، ملا فقیہ: (ج۔۱۰) ۵۹۵۱

جی، حافظ (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۹

جی۔ایم سید (سیاستدان): (ج۔۶) ۳۶۶۴

جے پال، راجہ: (ج۔۴) ۲۰۴۶۔ ۲۰۴۷، ۲۰۶۳

چ

چار باغ، حضرت: (ج۔۶) ۳۸۴۹

چالاک، اخوند ملا (المعروف ملا کابل گرام): (ج۔۱۰) ۵۸۶۹

چاند، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۵۲

چراغ حسین شاہ، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۰۵۶، (ج۔۱۰) ۵۸۸۹

چن قلیچ خان، سردار: (ج۔۴) ۲۱۸۷

چنگزئی بابا (والد محمد نسیم صدیقی دہروی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۰

چنگیز خان: (ج۔۶) ۶۲، ۳۰

چنن الدین ککے زئی نقشبندی، ملک: (ج۔۵) ۲۷۲۶، (ج۔۸) ۴۹۸۴، (ج۔۱۰) ۶۲۰۹۔ ۶۲۱۱، ۶۲۷۲، ۶۲۹۵۔ ۶۲۹۶، ۶۳۵۰، ۶۳۷۵

چنن شاہ، پیر آلومہار: (ج۔۶) ۳۸۰۱

چنن شاہ نوری، خواجہ سید: (ج۔۱۰) ۵۹۱۰۔ ۵۹۱۱، ۵۹۳۷۔ ۵۹۳۸، ۶۰۰۱، ۶۰۰۸۔ ۶۰۰۹

چوپڑا، پران ناتھ: (ج۔،) ۲۰۹۶

چھٹل، حاجی: (ج۔۶) ۳۶۲۷

ح

حاتم طائی: (ج۔۵) ۲۵۴۶

حاج سیالکوٹی: (ج۔۴) ۱۹۵۲

حاجن صاحبہ (زوجہ حافظ عبداللہ نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۶۰

حاجی بن احمد بن سندو (جد اعلیٰ قاضی احمد دمائی): (ج۔۶) ۳۴۷۷۔ ۳۴۷۸

حاجی بن محمد صالح (جد والد قاضی احمد دمائی): (ج۔۶) ۳۴۷۷

حاجی خلیفہ: (ج۔۶) ۳۹۴۷

حاجی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۲۸

حاجی محمد لاہوری: (ج۔۲) ۹۹۹، ۱۰۲۶، (ج۔۳) ۱۷۶۴،

۱۸۰۹
حاجی، میاں (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۵
حاجہ عینی (زوجہ شیخ ناظم): (ج۔۶)۳۲۴۶
حارث (عربی): (ج۔۶)۳۶۵۱
حارثہ بن وھب: (ج۔۷)۴۳۴۶
حافظ الدین کبیر مولانا: (ج۔۷)۴۰۹۵
حافظ الدین، خواجہ: (ج۔۴)۲۲۶۰
حافظ امام (مکتوب الیہ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰)۶۱۷۰
حافظ جی (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
حافظ شیرازی، خواجہ (شمس الدین): (ج۔۱)۲۴۱۔۲۴۲، (ج۔۴)۲۱۰۷، (ج۔۵)۲۸۹۴، ۳۰۲۴، (ج۔۶)۳۶۰۵، (ج۔۷)۴۰۴۳، ۴۰۹۳، (ج۔۱۰)۶۰۸۱، ۶۰۸۳
حاکم، امام: (ج۔۲) ۵۱۷، (ج۔۷) ۴۳۲۹، ۴۳۳۰، ۴۳۳۲، ۴۳۳۳، ۴۳۳۶، ۴۳۳۷، ۴۳۴۰، ۴۳۴۲، ۴۳۴۴، ۴۳۴۸، (ج۔۹)۵۳۰۸
حاکم علی، سید (خلیفہ میاں شیر محمد شرقپوری): (ج۔۶) ۳۷۷۰
حاکم علی نقشبندی، مولوی پروفیسر (لاہور): (ج۔۵)۲۸۸۲
حامد احمد سلامی، ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۹۱۳
حامد الگر، (مغربی، النشور): (ج۔۶)۳۲۹۸
حامد بن علی عمادی (مفتی احناف دمشق): (ج۔۶)۳۱۷۵، ۳۱۹۵
حامد بہاری، شیخ: (ج۔۳)۱۳۷۴، (ج۔۴)۲۳۷۱، ۲۳۹۴
حامد جان (فرزند حافظ محمد ہاشم جان مجددی): (ج۔۶) ۳۶۶۶
حامد، حافظ: (ج۔۹)۵۱۹۱
حامد حسن قادری، پروفیسر: (ج۔۶) ۳۷۸۱، (ج۔۱۰) ۵۸۰۷۔۵۸۰۸
حامد ربانی (فرزند مولانا محمد شفیع اوکاڑوی): (ج۔۶) ۳۵۹۶
حامد رسا مجددی پشاوری، میاں: (ج۔۱۰)۵۸۷۹
حامد رضا خان بریلوی، مولانا: (ج۔۵) ۲۵۶۰، ۲۵۷۳، ۲۵۸۰، ۲۹۰۴، (ج۔۱۰)۵۸۰۶
حامد، سید: (ج۔۶)۳۴۳۳
حامد شاہ غاسی: (ج۔۶)۳۳۲۱
حامد شاہ (مرشد عبدالقادر): (ج۔۶)۳۵۶۷
حامد علی خان، کلکٹر: (ج۔۶)۳۵۳۵
حامد علی خاں، مولانا (خانقاہ حامدیہ ملتان): (ج۔۶) ۳۷۹۴، ۳۷۹۹، (ج۔،)۴۸۷۰
حامد، مولانا: (ج۔۹)۵۴۰۱
حبان (جد اعلیٰ ابوالعباس المصری): (ج۔۲)۵۹۴
حبیب احمد: (ج۔۱)۱۰، (ج۔۲)۴۸۲، (ج۔۵)۲۵۳۰، (ج۔۶)۳۱۲۲
حبیب احمد حبیب نقشبندی، خواجہ: (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰)۵۵۹۴، ۶۰۷۱۔۶۰۷۴
حبیب احمد نقشبندی قادری، مولانا: (ج۔۱۰)۵۹۵۹
حبیب الرحمٰن، پروفیسر: (ج۔۱۰)۶۴۳۲
حبیب الرحمٰن خان شروانی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۷، ۶۱۲۱

حبیب الرحمٰن، خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۸۲

حبیب الرحمٰن رودلوی، مولانا: (ج۔۶) ۳۳۶۵، (ج۔۶) ۳۷۵۶

حبیب الرحمٰن شیروانی، نواب: (ج۔۴) ۲۰۵۱، (ج۔۵) ۲۵۷۸

حبیب الرحمٰن غفاری نقشبندی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۶۷

حبیب الرحمٰن گبول: (ج۔۱۰) ۶۰۶۸

حبیب الرحمٰن، مولانا (استاد شاہ ابوالخیر فاروقی مجددی): (ج۔۱۰) ۵۹۵۴

حبیب اللہ بخاری، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۷۵۶

حبیب اللہ توکلی نقشبندی، مولانا سید: (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۷۱

حبیب اللہ، حافظ۔ (ج۔۶) ۳۳۷۲

حبیب اللہ حصاری بخاری حاجی۔ (ج۔۵) ۲۶۶۶، (ج۔۶) ۳۶۹۸

حبیب اللہ خان بادشاہ امیر (ج۔۶) ۳۳۱۸، ۳۵۴۳

حبیب اللہ خاں، شیخ: (ج۔۱) ۲۸۶، ۴۰۸، (ج۔۲) ۷۱۹، (ج۔۶) ۳۳۱۴، ۳۳۲۲، ۳۳۴۲

حبیب اللہ خاں، شیروانی: (ج۔۵) ۲۵۸۰

حبیب اللہ شاہ، سید (بانی خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ توکلیہ محبوبیہ حبیبیہ): (ج۔۶) ۳۷۷۰

حبیب اللہ، شمس الدین نقشبندی۔ (ج ۶) ۳۹۸۲

حبیب اللہ، شیخ: (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸

حبیب اللہ عثمانی، مولانا خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۱

حبیب اللہ قریشی، مفتی (والد مفتی عظیم اللہ): (ج۔۶) ۳۸۶۴

حبیب اللہ قندھاری، ملا: (ج۔۶) ۳۴۹۷

حبیب اللہ قورجی افغانی، قادری: (ج۔۱۰) ۵۸۸۸

حبیب اللہ کشمیری، قاضی منشی: (ج۔۱۰) ۶۲۰۱

حبیب اللہ کیرانوی مہاجر مکی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۵۶

حبیب اللہ، مفتی بن حافظ کریم اللہ (سرحد): (ج۔۶) ۳۸۶۵

حبیب اللہ، مولانا: (ج۔۶) ۳۳۶۹، ۳۴۰۷

حبیب اللہ، مولوی (فرزند مولانا فتح محمد ڈیروی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۳

حبیب اللہ نقشبندی مجددی، اخون شاہ (خلیفہ شیخ سید محمد آدم بنوری): (ج۔۶) ۳۸۲۸۔ ۳۸۲۹، ۳۸۴۱۔ ۳۸۴۲، ۳۸۲۷

حبیب النبی، مولانا: (ج۔۶) ۳۵۵۳

حبیب بن ابی ثابت: (ج۔۷) ۴۲۸۲

حبیب بن ابی مرزوق: (ج۔۷) ۴۳۱۶

حبیب پشاوری، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۶۴، ۵۸۸۶

حبیب خادم، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۳۲

حبیب شاہ، حافظ (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

حبیب عجمی: (ج۔۳) ۱۴۳۲، (ج۔۸) ۴۸۴۵، ۴۸۴۶، ۴۸۴۹، ۴۸۵۵، (ج۔۹) ۵۳۱۶

حبیب، ملا: (ج۔۴) ۲۲۳۲

حبیب، میاں: (ج۔۶)۳۴۷۵

حبیبہ بنت خارجہ: (ج۔۷)۴۰۳۱

حبیبی، علامہ (مرتب مکتوبات شاہ فقیر اللہ علوی): (ج۔۶) ۳۸۵۶، (ج۔۱۰)۵۹۵۱

حبۃ العرنی (تابعی): (ج۔۷)۴۲۸۳، ۴۲۸۴

حجاج : (ج۔۷)۴۴۱۳

حجاج بن الشاعر: (ج۔۲)۵۶۶

حجاج بن یوسف: (ج۔۴)۲۰۴۶، ۲۰۷۹، ۲۳۱۴، (ج۔۵) ۳۰۵۶

حجۃ اللہ، مرتب مکتوبات معصومی): (ج۔۱۰)۵۷۷۰

حجۃ اللہ، صاحبزادہ: ۳۴۴۸

حجۃ اللہ (فرزند ضیاء احمد ملیر والے): (ج۔۶)۳۶۱۹

حجۃ اللہ محمد نقشبند: (ج۔۴)۲۱۹۶، ۲۱۹۸۔۲۱۹۹، ۲۲۸۴، (ج۔۶)۳۴۴۷، ۳۹۴۷

حذیفہ : (ج۔۲) ۵۱۷، (ج۔۷) ۴۳۲۴، ۴۳۵۱، ۴۳۷۴، ۴۳۸۹، (ج۔۱۰)۶۲۰۴

حذیفہ مرعشی، شیخ: (ج۔۸)۴۸۵۶

حذیفۃ بن الیمان: (ج۔۷)۴۳۰۱

حر (رفیق امام حسین): (ج۔۶)۳۵۷۲

حریف شاہ، سید: (ج۔۱۰)۵۹۵۲

حزب اللہ شاہ، سید سوئم پیر پگارا: (ج۔۶)۳۴۳۱، ۳۴۴۸، ۳۵۶۳، ۳۵۷۱

حسام الدین احمد بن نظام الدین احمد بدخشی: (ج۔۴) ۲۴۲۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۶، (ج۔۶) ۳۱۴۹، ۳۲۵۲، ۳۳۴۵۔۳۳۴۸، ۳۲۵۱

حسام الدین احمد مرزا: (ج۔۸)۴۹۰۹

حسام الدین برکی، خواجہ: ۲۴۳۷

حسام الدین، خواجہ: (ج۔۱) ۷۷، ۹۹، ۳۰۸، (ج۔۲) ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۷، (ج۔۳) ۱۳۹۵، ۱۴۴۸، ۱۸۴۶، (ج۔۴)۲۲۵۳۔۲۲۵۴، (ج۔۵)۲۶۹۱، ۲۷۳۷، ۲۷۴۰، ۲۷۴۷، ۲۷۵۰، ۲۸۹۲، (ج۔۷)۴۱۴۲، ۴۱۴۳، (ج۔۸) ۴۶۹۷، ۴۷۵۸، ۴۸۰۲، ۴۹۵۳، (ج۔۹) ۵۲۳۹، ۵۲۴۱، ۵۲۹۴، ۵۳۳۸، ۵۳۴۱، ۵۳۵۸۔۵۳۵۹، ۵۲۶۴، ۵۳۷۲، ۵۴۲۷، ۵۴۸۵، ۵۴۹۱

حسام الدین راشدی، پیر ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۸۱۷۔۲۸۱۸، ۲۸۰۵، (ج۔۶) ۳۱۷۵، ۳۵۲۱۔۳۵۲۲، ۳۵۵۸۔۳۵۵۹، ۳۵۷۱، ۳۶۹۸، ۳۷۰۰

حسام الدین، صاحبزادہ: (ج۔۸)۴۸۷۹

حسام الدین، مرزا: (ج۔۴) ۲۲۳۸، (ج۔۹) ۵۱۸۱، ۵۲۳۵، (ج۔۱۰)۶۵۸،

حسام الہندی: (ج۔۹)۵۲۶۷

حسان بن ثابت: (ج۔۱) ۲۱۴، (ج۔۲) ۴۹۱، (ج۔۷) ۴۰۲۰

حسان بن عطیہ: (ج۔۷، ۴۳۵۵

حسن ابدالی، بابا: (ج۔۹)۵۱۲۷

حسن احمد بن محمد ہادی، شیخ: (ج۔۹)۵۵۵۴

حسن احمد مجددی سرہندی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۲، ۶۲۹۵۔۶۲۹۶

حسن البدری: (ج۔۵)۲۸۰۴

حسن البنی (بانی تحریک اخوان): (ج۔۶)۳۲۷۲

حسن الدین، قاضی: (ج۔۶) ۳۷۹۷
حسن اللہ پاٹائی، حاجی: (ج۔۶) ۳۵۲۵، ۳۶۹۰
حسن، امام تاج الدین ابوسعید: (ج۔۵) ۲۸۴۷، ۲۸۴۹
حسن آقا، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۲
حسن برزنجی مدنی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۵
حسن برکی، مولانا: (ج۔۲) ۷۱۸، (ج۔۳) ۱۳۷۳، ۱۴۵۳، (ج۔۴) ۲۳۸۶، ۲۴۲۲، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۸) ۴۵۵۹، (ج۔۹) ۵۲۱۵۔۵۲۱۶، ۵۴۸۹
حسن بصری، خواجہ: (ج۔۱) ۱۸۲، ۲۰۹، (ج۔۲) ۷۰۲، ۷۸۷، ۱۱۹۸، (ج۔۳) ۱۴۳۲، (ج۔۵) ۲۶۹۸، (ج۔۶) ۳۸۸۴، ۳۹۴۷، (ج۔۷) ۴۲۴۹، ۴۳۵۲، (ج۔۸) ۴۷۳۶، ۴۷۹۰، ۴۸۴۱، ۴۸۴۵، ۴۸۴۶، ۴۸۴۹، ۴۸۵۴، ۴۸۵۶، (ج۔۹) ۵۳۱۶، ۵۳۷۶، ۵۴۲۱
حسن بلغاری، شیخ: (ج۔۷) ۴۰۹۲
حسن بن احمد کوابی: (ج۔۶) ۳۲۳۶
حسن بن تقی الدین حنفی: (ج۔۶) ۳۲۳۷
حسن بن زنجلۃ الرازی: (ج۔۲) ۶۱۷
حسن بن شاوان: (ج۔۷) ۴۴۱۳
حسن بن علی، امام: (ج۔۱) ۳۲۳، (ج۔۲) ۵۱۴، ۵۴۳، ۵۷۷، ۵۹۷، ۱۰۹۹، (ج۔۳) ۱۵۹۵، ۱۶۱۹، ۱۶۳۵، ۱۸۲۵۔۱۸۲۶، (ج۔۵) ۲۶۴۰، ۲۶۴۳، ۲۸۲۲، ۳۰۷۴۔۳۰۷۵، ۳۱۰۲۔۳۱۰۳، (ج۔۶) ۳۹۷۸، (ج۔۷) ۴۳۰۵، ۴۳۲۵، ۴۳۶۸، ۴۳۸۱، ۴۳۸۳، ۴۴۱۳، (ج۔۸) ۴۷۳۰، ۴۷۳۸، ۴۸۲۴، ۴۸۴۵، ۴۸۵۸، (ج۔۹) ۵۲۶۱۔۵۲۶۲، ۵۳۰۹
حسن بن علی عجمی مکی، ابوعلی: (ج۔۵) ۲۶۵۱، (ج۔۶) ۳۱۶۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۴، ۳۲۳۰، ۳۹۳۹، ۳۹۴۷
حسن بن محمد صنعانی، امام: (ج۔۴) ۱۹۸۳
حسن بن مراد التودسی المکی: (ج۔۴) ۲۴۵۶
حسن بن مراد، مفتی: (ج۔۹) ۵۳۴۱
حسن بن موسیٰ: (ج۔۲) ۵۷۳
حسن بن یحییٰ: (ج۔۷) ۴۳۱۶
حسن تونسی مغربی، شیخ: (ج۔۴) ۲۴۵۲، (ج۔۸) ۴۵۹۹
حسن جان، خواجہ: (ج۔۶) ۳۴۴۶
حسن خاں افغانی بدایونی: (ج۔۴) ۱۹۷۳، ۲۲۷۳، ۲۴۱۳، ۲۴۳۹، ۲۴۴۲، (ج۔۷) ۴۱۸۵، (ج۔۹) ۵۳۳۰
حسن دہلوی، مولانا: (ج۔۲) ۱۲۰۵، (ج۔۳) ۱۸۰۹، (ج۔۹) ۵۲۸۹
حسن رضا خان، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۰۴، (ج۔۹) ۵۴۵۴، (ج۔۱۰) ۵۶۹۵
حسن سجزی: (ج۔۸) ۴۹۳۶۔(ج۔۱۰) ۵۸۲۶۔۵۸۲۷
حسن شاہ رامپوری، مولانا سید: (ج۔۵) ۲۶۸۵
حسن، شیخ ابوالنصر سید: (ج۔۸) ۴۸۶۰
حسن، شیخ (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۲) ۵۰۹، (ج۔۸) ۴۹۶۰
حسن صاحبزادہ افغانی، میر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۵
حسن ظہیر الدین (مرید خواجہ باقی باللہ): (ج۔۱۰) ۶۱۱۵۔۶۱۱۶
حسن عسکری، امام: (ج۔۷) ۴۰۵۵
حسن عطار، خواجہ: (ج۔۱) ۲۳۰

حسن عکسے، سیاستدان: (ج۔۶) ۳۲۷۴
حسن علی پشاوری، ملا خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۸۶۴۔۵۸۶۵، ۵۸۶۷
حسن علی، خلیفہ (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷
حسن علی، ملک: (ج۔۵) ۲۶۳۸، ۲۶۴۹، ۲۸۲۰، (ج۔۶) ۳۹۴۷
حسن علی، مولانا: (ج۔۹) ۵۵۳۳
حسن غوثی، شیخ: (ج۔۵) ۲۷۲۰، (ج۔۱۰) ۵۶۳۸
حسن قادری، سید ابوالبرکات: (ج۔۱۰) ۵۸۷۳، ۵۸۹۰
حسن قبادیانی، شیخ: (ج۔۵) ۲۷۲۰
حسن قنادانی، مولانا: (ج۔۸) ۴۵۶۰
حسن قوزانی، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۱۰
حسن کشمیری، مولانا: (ج۔۱) ۳۰۳۔۳۰۴، ۳۷۰، ۴۱۹، (ج۔۳) ۱۲۹۰، (ج۔۴) ۱۹۴۲، (ج۔۶) ۳۳۴۴، (ج۔۷) ۴۱۰۳، ۴۱۷۴، (ج۔۸) ۴۵۱۵، (ج۔۹) ۵۱۲۳، ۵۲۲۹، ۵۲۴۰، ۵۴۷۳، (ج۔۱۰) ۵۶۴۱، ۵۶۷۹۔۵۶۸۰
حسن مثنیٰ، امام: (ج۔۸) ۴۸۵۸، (ج۔۱۰) ۵۹۹۶
حسن مجتبیٰ، امام: (ج۔۴) ۲۴۶۹
حسن محمد صنعانی، امام: (ج۔۶) ۳۹۴۷
حسن مرجانی، بقائی طباخ: (ج۔۶) ۳۱۷۶
حسن، ملا و شیخ: (ج۔۴) ۲۳۸۷، ۲۴۲۰
حسن، مولانا شیخ: (ج۔۱۰) ۶۲۵۹
حسن نظامی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۰۷۴، ۲۲۰۶، (ج۔۵) ۲۹۲۲، ۲۹۳۲، ۲۹۳۴، ۲۹۴۵، ۲۹۶۰، ۲۹۷۳۔۲۹۷۴، ۳۰۲۱، ۳۰۲۴
حسن ہمدانی، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۵۹
حسنین الدین، ملک: (ج۔۴) ۲۴۳۳
حسنین رضا خان بریلوی: (ج۔۹) ۵۵۷۷
حسین: (ج۔۷) ۴۰۹۹
حسین، ابو محمد البغوی الشافعی: (ج۔۵) ۲۸۵۲، ۲۸۵۶
حسین احمد دیوبندی: (ج۔۵) ۲۵۷۳، ۲۵۸۰
حسین اطرش: (ج۔۶) ۳۲۳۷
حسین اندجانی، شیخ: (ج۔۳) ۱۸۴۶
حسین آفندی المرادی، سید: (ج۔۱۰) ۶۳۹۲
حسین بصری نقشبندی خالدی شیخ: (ج۔۶) ۳۹۴۷
حسین بن احمد کبیسی بغدادی: (ج۔۶) ۳۲۳۷
حسین بن اسحٰق: (ج۔۲) ۵۵۱
حسین بن بشر بطروس: (ج۔۷) ۴۲۸۴
حسین بن حمید بن ربیع: (ج۔۶) ۵۹۷
حسین بن طعمہ بتیمانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۸، ۳۲۲۸
حسین بن عبدالرحمٰن، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۵، ۳۲۰۸
حسین بن عبدالرحیم، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۱
حسین بن علوان: (ج۔۷) ۴۳۰۷
حسین بن علی بن عبدالشکور، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۳
حسین بن علی واعظ کاشفی کردی حسینی، مولانا: (ج۔۲) ۵۶۷، ۵۸۸، ۵۹۹، ۶۲۸، (ج۔۵) ۲۶۹۳، ۳۰۱۶۔۳۰۱۷، (ج۔۶) ۳۲۹۸، ۳۵۰۳
حسین بن علی، امام: (ج۔۲) ۵۴۳، ۱۰۸۹، (ج۔۳) ۱۶۱۹،

۱۶۳۵، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، (ج_۴) ۲۲۴۳، ۲۲۵۷، ۲۳۱۴، (ج_۵) ۲۶۴۰، ۲۶۴۳، ۲۸۲۲، ۲۹۱۶، ۳۰۷۴_۳۰۷۵، ۳۱۰۲_ ۳۱۰۳، (ج_۶) ۳۲۰۴، ۳۵۷۲، ۳۸۸۴، ۳۹۷۸، (ج_۷) ۴۳۴۹، ۴۳۵۳، ۴۳۸۱، ۴۳۸۳، (ج_۸) ۴۷۳۰، ۴۷۳۸، ۴۸۴۴_ ۴۸۴۵، ۴۸۶۰، (ج_۹) ۵۳۰۹

حسین بن محمد مرادی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۸۶، ۳۲۰۹، ۳۲۳۳، ۳۲۳۶، ۳۲۳۸

حسین بن محمد قاضی، ابوعلی: (ج_۲) ۶۰۷

حسین بن مسعود بغوی، امام: (ج_۷) ۴۲۹۱، ۴۳۳۱، ۴۳۳۸

حسین بن منصور حلاج: (ج_۲) ۱۰۲۸، (ج_۵) ۲۸۸۹، ۲۹۶۵، ۲۹۷۴، (ج_۱۰) ۵۷۰۰، ۵۹۸۰

حسین حاجی: (ج_۳) ۱۳۷۳، (ج_۴) ۲۳۹۴

حسین حلمی ایشیق بن سعید استانبولی: (ج_۵) ۲۵۹۷، ۲۶۲۰_۲۶۲۱، ۲۶۷۰، ۲۶۹۹، ۲۷۳۸، ۲۸۵۴، (ج_۸) ۴۵۷۶، ۴۵۷۸

حسین خوارزمی، شیخ: (ج_۱) ۴۱۴، ۴۴۳، (ج_۳) ۱۴۵۰، (ج_۵) ۲۷۵۸، (ج_۷) ۴۱۷۳، (ج_۸) ۴۵۰۹، ۴۵۱۲، ۴۹۴۶_۴۹۴۷، (ج_۹) ۵۵۱۴

حسین (دادا فضل اللہ تورپشتی): (ج_۵) ۲۸۴۹

حسین دوسری بصری نقشبندی خالدی، شیخ: (ج_۵) ۲۶۷۷، ۲۸۵۶، (ج_۱۰) ۶۲۰۲

حسین زنجانی میراں، سید: (ج_۱۰) ۵۹۹۰

حسین شاہ، سید (برادر زندہ پیر گھکول شریف): (ج_۶) ۳۳۸۶، ۳۸۶۹، ۳۹۲۳

حسین، شاہ عالم ابوالخیر بن راجبار (عرف پیر پٹھا): (ج_۶) ۳۷۰۰

حسین شاہ، ملک: (ج_۷) ۴۰۶۴

حسین شاہ (مرید مجدد الف ثانی): (ج_۶) ۳۴۹۵

حسین شہید سہروردی: (ج_۶) ۳۳۳۷

حسین، شیخ: (ج_۶) ۳۲۴۱، ۳۲۶۵

حسین علی خاں، سید: (ج_۴) ۲۱۸۶

حسین علی شاہ، سید (فرزند سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج_۱۰) ۵۸۵۸_۵۸۵۹

حسین علی شاہ، سید (فیصل آباد): (ج_۶) ۳۷۹۴، ۳۷۹۸

حسین علی، مولوی (استاذ مولانا محمد سراج الدین دامانی): (ج_۶) ۳۹۲۰

حسین علی نظامی: (ج_۱۰) ۵۸۳۴

حسین علی واں بھچروی، مولوی (میانوالی): (ج_۶) ۳۸۸۶، (ج_۱۰) ۵۹۰۱

حسین، قاضی بن علی (مصنف اخبار ابی حنیفہ واصحابہ): (ج_۶) ۳۶۲۱، ۳۹۴۷

حسین کردی، ملا: (ج_۶) ۳۱۵۸

حسین گردیزی چشتی نقشبندی، مفتی سید: (ج_۵) ۲۷۲۰، (ج_۶) ۳۹۴۷

حسین، گورنر کشمیر ۹۷۱ھ): (ج_۵) ۲۷۵۸

حسین مالی، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۰۲

حسین مانک پوری، سید: (ج_۲) ۹۹۳

حسین مجددی، ملا شیخ: (ج_۶) ۳۲۶۵

حسین مراد، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۴

حسین منصور: (ج۔۹)۵۳۳۲

حسین، میر شرف الدین (مرتب مکتوبات معصومی):
(ج۔۱۰)۵۷۷۱

حسین ہوتک، شاہ (حاکم قندھل): (ج۔۶)۳۷۱۴

حسین ہروی، شرف الدین: (ج۔۱۰)۶۳۵۷

حشمت علی خان پیلی بھیتی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۰۳،
۲۹۰۴، (ج۔۱۰)۶۱۲۱، ۶۱۲۳، ۶۱۳۳، ۶۲۹۷

حصین بن عبدالرحمن: (ج۔۲)۵۴۶

حفص: (ج۔۳)۱۳۶۵

حفص بن عاصم، شیخ: (ج۔۸)۴۵۰۹

حفص بن عبدالرحمن: (ج۔۲)۵۱۸

حفص بن عمر: (ج۔۲)۵۳۱

حفصہ (رضی اللہ عنہا): (ج۔۹)۱۳۰۹۔

حفیظ الرحمن سیوہاری، مولانا: (ج۔۸)۴۸۴۰

حفیظ اللہ خان سیرت بدخشی طالقانی: (ج۔۵) ۲۷۲۲،
(ج۔۱۰)۶۲۲۶

حفیظ جالندھری (شاعر): (ج۔۱۰)۵۹۷۴

حفیظ قادری: (ج۔۷)۴۲۳۲، ۴۲۷۹، ۴۴۲۵

حفیظ کبیر، حافظ (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹

حفیظ ملک، ڈاکٹر: (ج۔۱)۲۴، (ج۔۳)۱۲۸۶، (ج۔۵)
۲۵۶۷، ۲۵۷۲، ۲۵۷۶، ۲۵۷۹، ۲۵۸۰، ۲۸۴۰، ۲۸۴۳

حق رسا مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۹

حقداد (شاعر): (ج۔۶)۳۹۲۱

حکیم احمد قریشی، مفتی: (ج۔۱۰)۶۴۹۰

حکیم المعروف بہ کلاب: (ج۔۸)۴۸۴۰

حکیم الملک: (ج۔۴)۱۹۹۹

حکیم اللہ نیازی: (ج۔۶)۳۶۹۱

حلبی حنفی، علامہ: (ج۔۲)۷۱۵

حلیم شرقپوری: (ج۔۵)۳۰۴۰

حلیمہ سعدیہ خٹک: (ج۔۱۰)۵۸۷۰

حماد: (ج۔۷)۴۳۰۴

حماد الدمشقی: (ج۔۲)۶۰۶

حماد بن ابی سلیمان: (ج۔۸)۴۹۴۸، ۴۹۴۹،

حماد بن سلمۃ: (ج۔۲)۵۴۶، ۵۸۱، ۶۱۷، ۶۲۵

حماد رباس: (ج۔۵)۳۰۸۶

حماد سرخشی، شیخ: (ج۔۴)۲۰۸۶

حمایت اللہ، قاضی: (ج۔۶)۳۶۴۸، ۳۶۶۱

حمایت علی شاعر: (ج۔۶)۳۶۸۵

حمد اللہ بن ابی بکر مستوفی: (ج۔۵) ۲۸۵۳، ۲۸۵۶،
۲۸۵۸، (ج۔۶)۳۹۴۷

حمد اللہ، مولانا: (ج۔۸)۴۶۴۴

حمد اللہ، مولوی سید: (ج۔۱۰)۵۹۷۸

حمزہ بن عبد المطلب، سید الشہداء: (ج۔۴) ۲۲۴۵،
(ج۔۶)۳۷۴۲

حمزہ شاہ بنوری سید (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶)۳۶۹۲

حمزۃ بن محمد، ابو احمد: (ج۔۷)۴۳۰۹

حمل، حاجی (صاحب مزار بی): (ج۔۶)۳۷۲۸

حمل فقیر (صوفی نواب شاہ): (ج_۶)۳۶۹۴
حمویۃ ابن الحسین: (ج_۷)۴۲۸۳
حمید احمد خان، پروفیسر: (ج_۵)۳۰۲۷
حمید احمدی، مولانا: (ج_۴)۲۳۹۴
حمید الدین حیدر شاہ ناگوری، مولانا: (ج_۲) ۶۳۱، (ج_۶) ۳۵۷۴، (ج_۹) ۵۴۶۷، (ج_۱۰) ۵۸۲۶_۵۸۲۷
حمید الدین، سید: (ج_۴)۲۳۶۵
حمید الدین شاشی، خواجہ: (ج_۷)۴۰۸۹
حمید الدین فراہی: (ج_۶)۳۹۴۷
حمید، الطّویل: (ج_۷)۴۳۰۲
حمید اللہ بنگالی، مولانا: (ج_۱)۴۵۲، (ج_۲)۵۱۰، ۹۹۱، (ج_۳) ۱۳۷۴، ۱۴۵۳، (ج_۴) ۲۳۷۵_۲۳۷۷، ۲۴۳۰، ۲۴۳۷، (ج_۵) ۲۶۱۲، ۲۷۴۸، (ج_۸) ۴۸۶۷، ۴۹۱۸، (ج_۹)۵۰۲۶، ۵۱۸۱، ۵۴۸۹، ۵۵۱۸
حمید اللہ، صاحبزادہ پروفیسر: (ج_۶)۳۷۴۸
حمید اللہ حشمتی: (ج_۵)۲۹۱۳
حمید بن زنجویۃ: (ج_۲)۵۳۵، (ج_۷)۴۲۹۱
حمید بن عبدالرحمٰن: (ج_۲)۵۴۵
حمید سنبھلی، شیخ: (ج_۹)۵۲۱۵
حمید صدیقی لکھنوی: (ج_۷)۳۹۹۲، ۴۰۰۳
حمید گل شاہ، سید بن گلاب شاہ: (ج_۶)۳۷۸۳
حمیدہ بانو بیگم: (ج_۸)۴۹۳۶، (ج_۱۰)۵۶۴۴
حمیدی: (ج_۷)۴۳۳۷، ۴۳۴۸
حنا مسعودی، سیدہ: (ج_۱)۲، ۳۵، (ج_۲)۴۸۲، (ج_۵) ۲۵۳۰، ۳۱۲۰، (ج_۶)۳۱۲۲، ۳۱۳۲، ۳۹۳۸، (ج_۱۰) ۶۴۹۳، ۶۴۹۴
حنظلۃ بن ابی سفیان: (ج_۷)۴۲۸۱، ۴۲۸۲
حنیف اللہ صدیقی، مولانا: (ج_۱۰)۶۱۲۵
حیات خان: (ج_۳) ۱۳۶۹، (ج_۴) ۲۱۶۲، (ج_۸) ۴۵۶۷
حیدر، امیر (فرزند بادشاہ بخارا): (ج_۶)۳۸۷۵
حیدر سنائی، سید (بزرگ دادو): (ج_۶)۳۶۹۰
حیدر شاہ: (ج_۱)۲۸۰
حیدر شاہ بخاری، سید میر: (ج_۶)۳۴۹۸، ۳۸۳۵
حیدر شاہ خان، مولانا: (ج_۶)۳۳۶۹
حیدر علی نجفی، شاعر: (ج_۵)۲۶۸۰
حیدر علی، نواب: (ج_۴)۲۰۵۶، ۲۱۸۸_۲۱۹۰
حیوٰۃ بن شریح: (ج_۲)۵۲۷_۵۲۸، (ج_۷)۴۲۹۳

خ

خادم حسین (مرید خواجہ محمد سعید پیر مٹھا): (ج_۱۰)۶۰۲۷
خادم حسین، صاحبزادہ پیر سید: (ج_۱۰)۶۴۴۳، ۵۸۰۵
خادم علی سیالکوٹی، مولانا حکیم: (ج_۱۰)۵۹۴۰
خاقانیہ صادق خان: (ج_۴)۲۲۲۹
خالد امین الخیری، پروفیسر: (ج_۶)۳۹۱۲، (ج_۱۰)۶۴۴۱
خالد بغدادی، کردی ضیاء الدین، مولانا شیخ: (ج_۵) ۲۶۳، (ج_۱۰) ۵۶۱۵، ۵۶۲۸، ۶۳۷۸_۶۳۷۹، ۶۳۸۵_۶۳۸۹، ۶۳۹۱، ۶۳۹۷، ۶۴۱۹، ۶۴۹۴

خالد بن حارث: (ج۔۷)۴۲۹۵

خالد بن عبداللہ: (ج۔۷)۴۲۸۸

خالد بن ولید: (ج۔۶)۳۳۰۸، ۳۸۱۰

خالد بن ولید، شیخ: (ج۔۶)۳۲۴۵

خالد جان، پیر: (ج۔۶)۳۴۶۰

خالد رومی: (ج۔۴)۲۰۷۰

خالد علوی، ڈاکٹر: (ج۔۱)۲۲

خالد مجددی سلطانی: (ج۔۱۰)۶۳۵۶، ۶۳۷۶

خالد مجددی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۶۸

خالد محمود: (ج۔۶)۳۶۸۴، (ج۔۹)۴۹۹۹، ۵۰۱۹، ۵۰۷۱، ۵۴۶۵، ۵۵۸۲

خالد محمود خالد نقشبندی: (ج۔۱۰)۵۵۹۲، ۵۶۱۰، ۵۶۱۲

خالد محمود نجمی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۴۰

خالد نقشبندی، شیخ: (ج۔۸)۴۹۷۴،

خان اعظم، مرزا عزیز کوکہ: (ج۔۳)۱۲۸۵، ۱۳۶۷، ۱۸۶۴، (ج۔۴)۱۹۴۱، ۱۹۶۳، ۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۱۰۸، ۲۱۲۰، ۲۱۲۹، ۲۱۳۴، ۲۱۴۶، ۲۲۰۷، ۲۴۰۹، (ج۔۵)۲۶۳۸، ۲۷۵۰، ۲۷۷۷۔۲۷۷۸، (ج۔۶)۳۷۶۵، (ج۔۷)۴۱۸۱، (ج۔۸)۴۹۲۰، ۴۹۳۸، (ج۔۹)۵۳۰۳، ۵۴۸۲، ۵۴۹۱

خان اعظم، مرزا عزیز کوکہ: (ج۔۸)۴۹۱۶، (ج۔۹)۵۰۹۴، (ج۔۱۰)۵۷۰۵

خان جہاں لودھی: (ج۔۴)۱۹۶۳، ۲۰۱۹، ۲۱۲۲، ۲۱۳۳، ۲۱۴۶، ۲۱۶۲، ۲۲۰۷، ۲۴۰۹، ۲۴۲۹، (ج۔۵)۲۶۱۷، ۲۶۳۸، ۲۸۷۳، ۲۹۵۷، (ج۔۸)۴۵۶۷، ۴۹۳۸، (ج۔۹)۵۴۸۲، ۵۵۱۶، (ج۔۱۰)۵۶۵۸، ۵۶۸۴، ۵۷۰۶، ۵۷۶۶

خان خاناں (عبدالرحیم): (ج۔۱)۳۳۳، (ج۔۳)۱۲۸۵، ۱۳۶۷، (ج۔۴)۱۹۷۴، ۱۹۸۳، ۲۰۱۷، ۲۱۲۰، ۲۲۰۷، ۲۴۱۱، ۲۴۲۶، ۲۴۳۴، (ج۔۵)۲۶۳۸، (ج۔۹)۵۳۹۸، ۵۴۸۲

خان عالم (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۷، ۵۹۳۹

خان محمد ٹالپور: (ج۔۱۰)۶۱۰۷

خان محمد، حافظ (کوئٹہ): (ج۔۶)۳۵۵۹، ۳۷۱۶، ۳۷۲۲

خان محمد شاہ قندھاری، سید: (ج۔۱۰)۵۸۵۲

خان محمد، قاضی: (ج۔۶)۳۶۹۴

خان محمد، مولانا (خلیفہ سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج۔۱۰)۵۸۵۹

خانچند، دیوان: (ج۔۶)۳۵۸۷۔۳۵۸۸

خانخان: (ج۔۷)۴۴۶۰

خاوند محمود، خواجہ (المعروف حضرت ایشاں): (ج۔۱۰)۵۸۸۷، (ج۔۳)۱۴۵۸، (ج۔۴)۱۹۹۱، (ج۔۶)۳۷۶۵

خاوی خان: (ج۔۶)۳۸۹۱

خدابخش بنی والا (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۷

خدابخش خیرپوری: (ج۔۱۰)۵۸۹۷

خدابخش قادری، خواجہ: (ج۔۱۰)۶۰۶۸

خدابخش ملتانی، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰)۶۰۰۲

خدیجہ بانو، بی بی (دختر مجدد الف ثانی): (ج۔۸)۴۶۰۴، (ج۔۹)۵۰۲۵، (ج۔۱۰)۵۶۷۲

خدیجہ بنت غلام محی الدین: (ج۔۶)۳۴۱۸

خدیجہ میمن، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۱۲۸

خدیجۃ الکبری (ام المومنین): (ج۔۱) ۲۱۵_۲۱۶، ۴۲۶، (ج۔۷)۴۲۳۰، ۴۱۷۳، (ج۔۸)۴۷۶۲

خدیو عباس حلمی: (ج۔۶)۳۲۵۹

خرقی، مولانا وحاجی: (ج۔۴)۲۳۹۴

خسرو، امیر: (ج۔۱) ۴۵، (ج۔۴) ۲۰۴۹، (ج۔۶) ۳۹۴۴، (ج۔۹)۵۲۴۹۔

خسرو پرویز، شہزادہ: (ج۔۳)۱۷۲۰، ۱۸۶۴، (ج۔۴)۱۹۶۱، ۱۹۷۵، ۲۱۵۷، (ج۔۵)۲۸۷۳

خسرو، سلطان: (ج۔۶)۳۷۶۵

خضر (علیہ السلام): (ج۔۱)۲۶۱، ۴۳۶، (ج۔۲)۹۰۸، ۹۱۶، ۸۳۱، ۸۶۳، (ج۔۳ ۶) ۱۳۷۶، ۱۵۲۰_۱۵۲۱، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۶۳۹، (ج۔۴)۲۲۴۶_۲۲۴۷، ۲۲۵۲، ۲۲۵۹، ۲۴۲۵، (ج۔۵)۳۰۹۹_۳۱۰۰، (ج۔۶)۳۲۳۰، ۳۲۹۸، ۳۶۲۰، (ج۔۷) ۴۰۹۸، ۴۲۰۶، (ج۔۸) ۴۵۴۰_۴۵۴۱، (ج۔۱۰) ۵۷۴۰، ۵۸۱۵، ۵۹۲۸، ۵۸۳۱، ۵۹۸۵، ۶۱۴۷

خضر خان افغان، حاجی: (ج۔۳)۱۳۷۳، ۱۴۵۳، (ج۔۴)۲۳۷۰، ۲۴۲۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۴۳۷، (ج۔۵)۲۷۴۸، (ج۔۷)۴۱۸۳، (ج۔۹)۵۰۲۶

خضر خان لودھی: (ج۔۷)۴۴۴۰

خضر رومی، سید: (ج۔۸)۴۸۴۷

خضر سیوستانی شیخ: (ج۔۶)۳۴۱۶

خضر، مولانا شیخ: (ج۔۱۰)۶۲۵۹

خضر نوشاہی: (ج۔۷)۴۴۶۷

خطیب بغدادی، احمد بن علی بغدادی، حافظ: (ج۔۱) ۲۱۵، (ج۔۲) ۵۴۰، ۵۴۳، ۵۷۸، ۵۹۳، (ج۔۵) ۲۹۲۰، ۳۰۷۲، (ج۔۶)۳۹۴۰

خطیب تبریزی، علامہ: (ج۔۲)۵۱۹، ۵۲۸_۵۲۹، ۵۳۵، ۵۴۵، ۵۴۹، (ج۔۷)۴۲۸۳، ۴۲۸۸، ۴۲۸۹، ۴۲۹۴، ۴۲۹۹، ۴۳۰۸

خلف بن سعید: (ج۔۲)۵۱۷

خلف بن قاسم: (ج۔۲)۵۱۷، (ج۔۷)۴۳۰۵

خلیفہ، حاجی: (ج۔۵)۲۸۵۲، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶_۲۸۵۷

خلیق احمد نظامی، پروفیسر: (ج۔۲)۷۷۱، ۱۲۲۳، (ج۔۳) ۱۴۰۴، (ج۔۴) ۲۰۸۸، ۲۱۹۹، ۲۲۵۹، ۲۴۰۷، ۲۴۱۱_۲۴۱۲، ۲۴۳۲_۲۴۳۳، ۲۴۴۳، ۲۴۷۴_۲۴۷۵، (ج۔۵) ۲۶۵۲، ۲۷۷۲، ۲۷۸۲، ۲۷۸۹_۲۷۹۰، ۲۷۹۳_۲۷۹۴، (ج۔۶) ۳۳۵۰_۳۳۵۱، ۳۷۵۳، ۳۹۴۷، (ج۔۸)۴۹۹۱، (ج۔۹)۵۰۰۱، ۵۱۲۰، ۵۱۵۷، ۵۳۳۶، ۵۳۴۰، ۵۳۴۲_۵۳۴۳، ۵۴۲۵، (ج۔۱۰) ۵۸۲۴

خلیل اتا: (ج۔۱)۲۲۵، ۲۳۳

خلیل احمد انبیٹھوی: (ج۔۶)۳۹۴۸

خلیل احمد برکاتی، مفتی: (ج۔۵)۲۹۱۳

خلیل احمد، حاجی: (ج۔۷)۴۴۷۳

خلیل احمد خلیل، ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۸۰۰

خلیل احمد رانا (مصنف انوار قطب مدینہ): (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

خلیل احمد یوسفی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰)۶۴۴۳
خلیل الدین بھوپالی، مولانا: (ج۔۹)۵۳۶۷
خلیل الرحمٰن: (ج۔۳)۱۳۸۲
خلیل الرحمٰن، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۴۲
خلیل الرحمٰن داؤدی: (ج۔۵)۲۸۵۸، (ج۔۶)۳۹۶۴
خلیل الرحمٰن، صاحبزادہ ابن پیر ثانی: (ج۔۶)۳۸۰۵
خلیل الرحمٰن قادری، علامہ: (ج۔۱۰)۶۴۴۳
خلیل الرحمٰن (مصنف احوال العارفین): (ج۔۱۰)۵۸۹۳
خلیل اللہ بدخشی، شیخ: (ج۔۱)۱۱، ۱۸، ۶۱، ۱۴۱، (ج۔۲) ۱۱۰۰، (ج۔۳)۱۳۶۴، (ج۔۵)۲۷۲۰_۲۷۲۱
خلیل اللہ بن خواجہ محمد سعید سرہندی، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۷۶۱
خلیل اللہ شیخ: (ج۔۷)۴۰۳۳، ۴۰۳۵، (ج۔۸)۴۶۱۴، (ج۔۹)۵۵۲۵
خلیل بن محمد خشہ (ادیب وشاعر): (ج۔۶)۳۲۳۱
خلیل بن محمد قتال دمشقی حنفی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۷
خلیل بن مصطفیٰ رومی (نعت گوشاعر): (ج۔۶)۳۲۳۶
خلیل کاملی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۸، ۳۲۲۸_۳۲۳۱
خلیل، میر (کلید بردار دربار رسالت مدینہ): (ج۔۶) ۳۷۷۲، ۳۷۸۱
خمیسانی، جسٹس: (ج۔۶)۳۶۲۶
خواجگی کاسانی دہبیدی، مولانا: (ج۔۱)۲۹۵
خواجہ جان آغا: (ج۔۴)۲۳۱۰، (ج۔۰)۳۳۳۴
خواجہ جہاں (رکن سلطنت جہانگیر): (ج۔۵) ۲۶۳۸، ۲۷۷۸، (ج۔۸)۴۹۳۸، (ج۔۱۰)۵۶۵۸، ۵۷۰۶، ۵۷۱۹
خورد، خواجہ: (ج۔۷)۴۱۳۹
خورشید احمد خاں: (ج۔۵)۲۷۰۱، (ج۔۶)۳۱۹۰، ۳۹۶۱، (ج۔۱۰)۵۸۹۱
خورشید الحسن چشتی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۴۴
خورشید حسین بخاری، پروفیسر سید: (ج۔۴)۱۹۱۶، ۲۵۲۵_۲۵۲۶، (ج۔۵)۲۵۳۶_۲۵۳۷، ۲۵۹۱، ۲۷۳۵
خورشید عالم گوہر قلم: (ج۔۶)۳۶۳۹، (ج۔۹)۵۴۶۱، ۵۱۶۴، (ج۔۱۰) ۵۸۴۶، ۵۸۹۶، ۵۹۶۰، ۶۰۱۶، ۶۰۳۲، ۶۱۳۴، ۶۱۳۸، ۶۱۵۲، ۶۳۵۴، ۶۴۲۶، ۶۴۹۵_۶۴۹۶
خورشید (مصلح): (ج۔۵)۲۶۲۴
خوشحال اخوند پشین، ملا: (ج۔۶) ۳۷۲۳، ۳۷۴۷، (ج۔۱۰)۵۹۵۳
خوشی محمد، مولوی: (ج۔۶)۳۷۳۵
خیال بخاری (مرتب کلام معزاللہ خان مہمند اردو): (ج۔۱۰)۵۸۹۲
خیرالدین دہلوی، مولانا: (ج۔۵)۲۶۸۱
خیرالدین زرکلی، علامہ: (ج۔۵)۲۶۸۴، ۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۱۸۹، ۳۹۴۸
خیراللہ، ملا: (ج۔۱۰)۵۹۵۵
خیردین سکھے چکوی، بابا: (ج۔۱۰)۶۰۷۶
خیر محمد، فرزند وخلیفہ پیر محمد صدیق خانقاہ بھورشریف): (ج۔۶)۳۷۹۳
خیر محمد مگسی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۲۵
خیر محمد نقشبندی مجددی، صوفی (نقشبندی صوفی بلوچستان):

(ج-۱۰)۵۹۵۸

خیرالنساء:(ج-۴)۲۳۴۸

و

داراشکوہ، شہزادہ:(ج-۱)۸۴، ۱۸۹، ۴۱۲، ۴۴۳، (ج-۳)
۱۳۹۲، (ج-۴)۲۲۸۱، ۲۱۹۹-۲۲۰۰، ۲۲۷۸، (ج-۵)
۲۵۷۵، ۲۷۴۳، ۲۷۸۰، ۲۷۹۶، (ج-۶) ۳۶۶۲،
۳۹۴۸، (ج-۱۰) ۵۷۵۷، ۵۷۹۰، ۵۷۹۴، ۵۸۲۹،
۵۸۳۲، ۶۳۶۲

داراب بن عبدالرحیم خان خاناں:(ج-۳)۱۵۳۵، ۱۵۹۳،
(ج-۴) ۲۴۳۲، (ج-۵) ۲۶۳۸، ۲۷۷۸، (ج-۷)
۴۴۶۰، (ج-۸) ۴۹۳۸، (ج-۹) ۵۰۹۴، ۵۲۱۵،
۵۴۲۶، ۵۴۶۴، ۵۴۹۱، (ج-۱۰)۵۶۵۸، ۵۷۰۶

دارقطنی، محدث:(ج-۴)۲۲۹۷

دارمی، امام:(ج-۲)۵۴۶، ۵۴۹، ۵۸۱، ۶۲۹، (ج-۷)
۴۳۴۳، ۴۳۴۹

داغ دہلوی (شاعر):(ج-۱۰)۶۰۷۱

دانش مند، خواجہ:(ج-۴)۲۲۶۱

دانیال، مخدوم:(ج-۶)۳۴۴۱

داؤد (علیہ السلام):(ج-۳)۱۵۵۰، ۱۸۲۳، (ج-۵)
۳۰۹۹، (ج-۷)۴۳۳۰

داؤدالحنفی، خطیب بن یوسف:(ج-۶)۳۹۴۸

داؤد امرتسری، مولانا:(ج-۴)۲۰۳۰

داؤد بغدادی، علامہ سید: (ج-۵) ۲۶۷۶، ۲۶۷۹،
۲۶۸۸-۲۶۸۹، (ج-۶)۳۹۴۸، (ج-۱۰)۶۳۹۰

داؤد بن ابراہیم:(ج-۲)۵۷۵

داؤد بن علی:(ج-۲)۵۵۵

داؤد پوتہ، ڈاکٹر:(ج-۶)۳۴۴۸

داؤد، خواجہ:(ج-۷)۴۰۹۰

داؤد رقی، شیخ:(ج-۳)۱۵۶۷

داؤد ساکی، شیخ:(ج-۳)۱۳۷۴، (ج-۴)۲۳۹۴

داؤد، سید:(ج-۸)۴۸۴۹

داؤد طائی، امام: (ج-۳) ۱۴۳۲، ۱۵۹۶، (ج-۸)
۴۸۴۵-۴۸۴۶، ۴۸۴۹، ۴۸۵۵، ۴۸۶۰، (ج-۹)
۵۲۷۰

داؤد غزنوی، مولوی: (ج-۴) ۲۵۲۵، (ج-۵) ۲۵۳۶،
۲۵۵۶

داؤد قیصری:(ج-۱)۶۱

داہر، راجہ:(ج-۴)۲۰۶۲

دتہ سیوستانی، قاضی (دادو):(ج-۶)۳۶۹۰

دجال:(ج-۳)۱۵۰۷-۱۵۰۸، (ج-۵)۲۵۹۴

دحیہ کلبی (رضی اللہ عنہ):(ج-۱۰)۵۷۳۵

درمحمد مستونگی خلیفہ:(ج-۶)۳۷۲۷

دردمحمدی دہلوی، خواجہ میر:(ج-۱۰)۶۲۴۰

درگاہی، شاہ:(ج-۶)۳۳۶۳

درویزہ پشاوری، اخوند: (ج-۶) ۳۸۹۹، (ج-۸)
۴۶۴۳، (ج-۱۰)۵۸۸۴

درویش احمد، شیخ طرابزونی:(ج-۶)۳۱۶۶

درویش بن احمد ملیحی شافعی، شیخ:(ج-۶)۳۱۷۷

درویش بن قاسم:(ج-۸)۴۸۴۹

درویش، شیخ (مکتوب الیہ امام ربانی): (ج_۷) ۴۴۳۱، ۵۲۱۴
درویش محمد، خواجہ (مرشد خواجہ امکنگی): (ج_۴) ۲۲۵۱، ۲۲۶۳، (ج_۶) ۳۵۶۶، ۳۹۸۱، (ج_۸) ۴۸۴۲، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج_۹) ۵۱۵۷
دریا خاں: (ج_۳) ۱۲۸۵، ۱۳۶۹، (ج_۴) ۲۱۶۲، ۲۲۰۷، (ج_۸) ۴۵۶۷
دل محمد دلشاد پسروری: (ج_۶) ۳۸۰۱
دلاور، قاری: (ج_۶) ۳۸۷۱
دلدار بیگ اٹکی، مولانا: (ج_۱۰) ۵۹۳۱
دنی چند: (ج_۱۰) ۵۹۲۷، ۵۹۴۵
دوست محمد بلوچ، حاجی: (ج_۶) ۳۶۷۱
دوست محمد پاپینی، مولانا: (ج_۱۰) ۵۸۸۹
دوست محمد، حافظ (سجادہ نشین خانقاہ للہ شریف): (ج_۶) ۳۷۹۷
دوست محمد قندھاری، خواجہ: (ج_۶) ۳۸۸۵، ۳۸۸۷، ۳۹۱۴_۳۹۱۶، ۳۹۱۹، (ج_۸) ۴۸۶۸، (ج_۱۰) ۵۸۴۸_۵۸۵۰، ۵۸۸۲_۵۸۸۳، ۵۹۰۴، ۵۹۴۱، ۵۹۴۳، ۶۱۰۷
دوست محمد کابلی، خواجہ: (ج_۹) ۵۰۹۴
دوست محمد، ناظم (نائب سالار فوج افغانستان): (ج_۶) ۳۵۴۸
دولت خان: (ج_۴) ۱۹۸۱
دولھا دریا خان ٹھٹوی، فقیر ملنگ: (ج_۶) ۳۶۸۸
دوندر ھیرا سنگھ: (ج_۱) ۴۰۳
دہقان قلبی، خواجہ: (ج_۴) ۲۲۴۷
دھخدا (مؤلف لغت نامہ): (ج_۵) ۲۸۵۴، (ج_۶) ۳۹۲۸
دیدار علی شاہ الوری، مولانا: (ج_۳) ۱۷۲۸، (ج_۹) ۴۹۹۷، (ج_۱۰) ۵۸۰۱، ۵۸۰۳_۵۸۰۴
دیلمی، امام ابوشجاع: (ج_۱) ۲۰۸، (ج_۲) ۵۱۳_۵۱۴، ۵۱۶_۵۱۷، ۵۲۰، ۵۲۲، ۵۳۶_۵۳۷، ۵۵۷، ۵۸۴، (ج_۶) ۳۱۹۳، (ج_۷) ۴۲۸۳، ۴۳۰۷، ۴۳۳۶، ۴۳۴۰، ۴۳۴۷، ۴۳۵۳، ۴۳۹۶
دین پناہ شاہ، شہزادہ: (ج_۹) ۵۱۳۹
دین محمد اخند، ملا (مرید شاہ امان اللہ افغانی): (ج_۱۰) ۵۸۴۸
دین محمد، خواجہ (فرزند خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰) ۵۹۳۷_۵۹۳۸
دین محمد، ملک: (ج_۱۰) ۶۱۵۷
دین محمد وفائی، مولوی: (ج_۶) ۳۴۳۱، ۳۵۱۳، ۳۵۳۶، ۳۶۰۰، ۳۶۱۰، ۳۶۸۹، ۳۷۰۲، ۳۷۰۶_۳۷۰۷، ۳۸۵۹
دیوان صدر الدین، حضرت: (ج_۱۰) ۵۹۹۰
دیوانہ سواتی خواجہ: (ج_۳) ۱۸۴۳، (ج_۸) ۴۵۵۳
دیوی: (ج_۴) ۲۰۰۳
دیا رکبری، علامہ: (ج_۲) ۵۲۱، ۵۹۱

ڈ

ڈیل مل، وکیل: (ج_۶) ۳۵۳۶

ذ

ذاکر اللہ نقشبندی افغانی، علامہ (کراچی): (ج-۶) ۳۸۵۶

ذاکر حسین، ڈاکٹر: (ج-۹) ۵۳۸۹

ذکاء اللہ، مولانا: (ج-۷) ۴۱۸۲، (ج-۹) ۵۲۹۵، ۵۳۹۴

ذکر الرحمٰن: (ج-۶) ۳۶۴۸

ذکر اللہ، میاں، مجددی: (ج-۶) ۳۳۱۰، ۳۳۱۲

ذکوان: (ج-۲) ۸۵۸

ذکی محمد حسین بک: (ج-۶) ۳۹۴۹

ذکی محمد مجاھد: (ج-۶) ۳۹۴۹

ذوالفقار شاہ مسعودی، سید: (ج-۸) ۴۴۸۸، ۴۵۰۶

ذوالفقار خان نیازی: (ج-۶) ۳۷۹۱

ذوالفقار، شیخ: (ج-۶) ۳۲۴۵

ذوالقرنین، مفتی: (ج-۶) ۳۴۱۰

ذوالکفل (علیہ السلام): (ج-۵) ۲۶۸۲، (ج-۶) ۳۱۶۹

ذوالنون مصری: (ج-۱) ۱۸۲، (ج-۲) ۸۳۱، ۱۱۸۷، ۱۲۰۰، (ج-۳) ۱۵۳۲، ۱۵۶۵، ۱۵۹۶، ۱۶۵۵، ۱۷۶۴، (ج-۵) ۲۹۶۵، (ج-۷) ۴۱۹۶، (ج-۸) ۴۸۰۷، (ج-۱۰) ۵۸۵۵، ۵۸۵۹

ذہبی، امام: (ج-۲) ۵۱۶، ۵۵۹، ۵۹۳، (ج-۴) ۲۲۹۷، (ج-۷) ۴۳۰۳، (ج-۸) ۴۷۲۹

ر

رابعہ بصری: (ج-۱۰) ۵۷۸۷

رابعہ دورانی (ملکہ اورنگزیب عالمگیر): (ج-۶) ۳۹۳۶

راجو: (ج-۴) ۲۰۸۶

راحت بابا (صاحب مزار چشمہ شریف): (ج-۶) ۳۷۲۷

راحم دل، ملا: (ج-۶) ۳۷۹۳، (ج-۱۰) ۵۸۵۳-۵۸۵۵

رازی، امام فخر الدین: (ج-۳) ۱۴۹۹، ۱۵۰۷، ۱۸۳۷، (ج-۴) ۲۴۰۵، (ج-۷) ۴۲۶۶، ۴۳۹۳، (ج-۹) ۵۱۷۵

راسخ سرہندی (مرید خواجہ معصوم سرہندی): (ج-۱۰) ۵۷۷۰

راشد علی روضے دھنی، پیر سید: (ج-۱۰) ۶۱۲۸

راشد قبانی (مفتی)، شیخ: (ج-۶) ۳۲۴۸

رافعی، امام: (ج-۲) ۶۷۰

رام: (ج-۵) ۲۹۷۲

رام داس ایم. جی، پروفیسر: (ج-۹) ۵۵۸۰

رام داس (موسیقار دربار اکبری): (ج-۱۰) ۵۶۴۶

رام شرما، شری: (ج-۴) ۲۰۹۷، ۲۰۹۹-۲۱۰۰، ۲۱۱۳-۲۱۱۴، ۱۲۱۴۸-۲۱۴۹، ۲۱۵۶

رانا سانگا: (ج-۴) ۲۰۵۲، ۲۰۶۵

رانجھا: (ج-۱۰) ۵۷۸۸

رائے پتھورا: (ج-۴) ۲۰۸۶

رائے سنگھ، راجپوت: (ج-۴) ۲۱۰۱، ۲۴۴۹

رباح بن عبد العزی: (ج-۸) ۴۸۳۹،

ربانی فاروقی، صاحبزادہ (ج-۶) ۳۸۰۵، ۳۸۱۴

ربیع بن ایاس الانصاری,:(ج۔۷)۴۳۷۶

ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن: (ج۔۲)۵۳۳، ۵۳۵، (ج۔۷) ۴۲۸۹، ۴۲۹۰، ۴۲۹۵

ربیعہ بن عثمان: (ج۔۲)۵۷۷،

ربیعہ شاھد: (ج۔۱)۲، (ج۔۵)۲۵۳۰، (ج۔۶)۳۱۲۲، (ج۔۱۰)۶۴۹۴

رجا ٹھٹھوی، شاعر: (ج۔۶)۳۶۵۸

رحمت اللہ انکی، شیخ (شیخ تلا انکی): (ج۔۱۰) ۵۹۲۸۔ ۵۹۲۹، ۵۹۴۶

رحمت اللہ اخوند قندھاری، ملا: (ج۔۱۰)۵۹۵۳

رحمت اللہ سندھی، مولانا (تلمیذ بن ہمام): (ج۔۵)۲۸۸۴

رحمت اللہ، سید عرف سید مٹھو شکر اللّٰھی شیرازی: (ج۔۶) ۳۴۷۶

رحمت اللہ، سید: (ج۔۸)۴۵۴۸،

رحمت اللہ، شاہ (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱

رحمت اللہ کیرانوی، مولانا: (ج۔۶)۳۳۶۵

رحمت اللہ، ملا (والد شاہ امان اللہ افغانی): (ج۔۱۰) ۵۸۴۷۔ ۵۸۴۸

رحمت اللہ مہاجر مکی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۹۸

رحمت خان، حافظ الملک حافظ: (ج۔۱۰)۵۸۰۵

رحمت علی، میاں (استاد محمد علی شاہ کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۷

رحمت علی میاں (خلیفہ میاں شیر محمد شرقپوری): (ج۔۶) ۳۷۷۰، ۳۷۸۷

رحمٰن الدین، مولوی: (ج۔۶)۳۸۵۴

رحمٰن علی، مولوی: (ج۔۳)۱۲۹۸، (ج۔۴)۲۴۸۱، ۲۴۹۲، (ج۔۵) ۲۵۷۸، ۲۸۹۵، ۲۹۱۱، (ج۔۶) ۳۳۹۴۔ ۳۳۹۵، ۳۹۴۹

رحمۃ اللہ اخوند، ملا: (ج۔۶)۳۷۲۳، ۳۷۴۷

رحیم الدین کشمیری، خواجہ میاں: (ج۔۱۰)۶۰۰۲

رحیم اللہ، مرزا: (ج۔۴)۲۴۹۷

رحیم اللہ، مولوی: (ج۔۶)۳۴۶۹

رحیم بخش: (ج۔۶)۳۸۷۱

رحیم بخش شاہین، ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۹۷۰، ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۴۱۔ ۳۰۴۲، (ج۔۶)۳۹۴۹

رحیم داد، حاجی: (ج۔۶)۳۵۳۵

رحیم داد سنز رخیل کاکڑ، ملا: (ج۔۱۰)۵۹۵۱

رحیم داد، ملا (وادی ژوب بلوچستان): (ج۔۶)۳۵۵۸، ۳۷۱۱۔ ۳۷۱۲

رحیم ڈنہ ٹھٹوی، حافظ: (ج۔۶)۳۶۸۷

رزاق ایم۔ اے: (ج۔۶)۳۳۹۲

رزاق ڈنو، آخوند: (ج۔۰)۳۵۲۰

رزق اللہ مشتاق (ہندوؤں کے علوم کا ماہر): (ج۔۱۰) ۵۸۲۷

رزین (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷)۴۳۵۹

رستم ابو اعجاز، ڈاکٹر: (ج ۱۰)۵۵۹۲، ۵۶۷۵

رسول، مُلّا: (ج۔۴)۲۵۱۰

رشد اللہ، پیر: (ج۔۶)۳۴۴۳

رشدی، مولانا: (ج۔۱)۳۰۲، ۳۱۶

رشید احمد ارشد، مولانا حافظ: (ج-۹) ۵۱۷۹، (ج-۱۰) ۶۱۲۰

رشید احمد رامپوری مجددی مولانا: (ج-۶) ۳۶۱۲

رشید احمد گنگوہی، مولوی: (ج-۱) ۲۱، (ج-۲) ۴۸۸، ۵۰۴، (ج-۳) ۱۶۷۴، (ج-۱۰) ۵۶۹۱، ۵۹۰۱

رشید احمد (ماہنامہ سیدھا راستہ): (ج-۱۰) ۶۴۴۲

رشید احمد مرتضائی، علامہ: (ج-۷) ۳۹۹۲، ۴۰۳۷

رشید احمد، مفتی: (ج-۲) ۷۱۷، (ج-۶) ۳۹۴۹

رشید الدین محمد بیداوازی: (ج-۸) ۴۸۴۶

رشید، شیخ: (ج-۹) ۵۰۴۰

رشیدی شیزار پوری: (ج-۴) ۲۳۷۸

رضا خان مروت (المعروف بہ رضو گل گور)، صوفی: (ج-۸) ۴۸۴۵، ۴۸۵۱

رضا شاہ پہلوی: (ج-۶) ۳۴۹۴

رضا علی خان نقشبندی، مولانا: (ج-۵) ۲۸۹۹

رضاء المصطفیٰ، علامہ: (ج-۵) ۲۹۱۳

رضوان احمد نقشبندی مسعودی، علامہ: (ج-۱) ۲، ۴۴، ۶۵، ۶۹، (ج-۲) ۴۸۲، (ج-۵) ۲۵۳۰، (ج-۶) ۳۱۲۲، (ج-۱۰) ۵۶۳۱، ۶۴۳۰

رضوی، ڈاکٹر: (ج-۹) ۵۴۱۳

رضی الدین علی لالا غزنوی: (ج-۸) ۴۸۴۶،

رضی الدین، مولوی شیخ: (ج-۴) ۲۳۹۶

رضی حیدر، خواجہ: (ج-۱۰) ۵۸۰۹

رضیہ سلطانہ، ملکہ: (ج-۴) ۲۰۴۹، ۲۰۶۴

رعنا مظہری: (ج-۱۰) ۵۵۹۱، ۵۶۲۳، ۶۴۹۲

رفاعہ بن رافع. (ج-۷) ۴۳۸۹

رفعت علی، میر (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج-۱۰) ۵۸۸۲

رفیع الدرجات: (ج-۴) ۲۱۸۶

رفیع الدولہ: (ج-۴) ۲۱۸۶

رفیع الدین، امام: (ج-۱) ۴۰۸-۴۱۰، ۴۴۲، (ج-۳) ۱۳۶۶، (ج-۵) ۲۵۶۰، ۲۷۱۳، ۲۷۴۷، (ج-۱۰) ۵۶۳۵

رفیع الدین، شاہ: (ج-۱) ۴۰۱، (ج-۲) ۷۳۳، (ج-۳) ۱۷۲۸، (ج-۶) ۳۳۶۰، ۳۹۴۹، (ج-۷) ۴۲۱۹، (ج-۱۰) ۶۱۰۳

رفیع الدین، شیخ: (ج-۵) ۳۰۸۹، (ج-۸) ۴۵۰۹، ۴۵۱۰، ۴۵۳۹، ۴۸۳۸.

رفیع الدین، مخدوم (صوفی نواب شاہ): (ج-۶) ۳۶۹۵، ۳۶۹۶

رفیع الدین، مولوی: (ج-۹) ۵۲۵۷

رفیع الدین نصیرآبادی، امام: (ج-۹) ۵۰۲۱-۵۰۲۲، ۵۱۸۷، ۵۲۲۶، ۵۴۷۱، ۵۵۱۴

رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر: (ج-۵) ۳۰۱۱-۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۴۱، (ج-۶) ۳۹۴۹

رفیق احمد میاں: (ج-۶) ۳۷۸۷

رفیق الاسلام، مولانا: (ج-۶) ۳۶۴۸، ۳۷۰۷

رفیق دلاوری، علامہ ابوالقاسم: (ج-۳) ۱۵۰۶

رفیق علی پشنگی، سید: (ج-۶) ۳۷۰۵

رقیب المجید، قاضی (ایم-اے): (ج-۱۰) ۶۴۳۴

رقیہ بانو، بی بی (دختر مجدد الف ثانی): (ج۔۸)۴۶۰۴، (ج۔۹)۵۰۲۵، (ج۔۱۰)۵۶۷۲

رکن الدین: (ج۔۸)۴۹۴۴، ۴۸۵۵، ۴۸۵۹،

رکن الدین ابوالفتح: (ج۔۸)۴۸۳۵،

رکن الدین الوری نقشبندی، شاہ: (ج۔۵)۲۹۰۳، ۲۹۰۹، ۲۹۱۲، (ج۔۶) ۳۳۶۹، ۳۳۷۱، ۳۳۷۷، ۳۶۴۷، ۳۹۴۹، (ج۔۸)۴۵۱۵، ۴۸۶۹، ۴۵۱۱،

رکن الدین آلومہاروی، خواجہ: (ج۔۱۰)۶۰۰۴، ۶۰۰۷، ۶۰۱۳

رکن الدین ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۸۸

رکن الدین، شیخ: (ج۔۱)۳۶۹، ۴۱۱، ۴۴۲، (ج۔۳)۱۴۰۲، (ج۔۴)۲۰۶۵، ۲۰۷۴

رکن الدین، شیخ: (ج۔۷) ۴۱۷۰، ۴۱۷۳، (ج۔۹) ۵۲۲۶، ۵۴۶۸

رکن الدین صدیقی نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۰۹_۵۹۱۱

رکن الدین عالم، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۴۲،

رکن الدین قاضی: (ج۔۴)۲۰۵۰

رکن الدین گنگوہی، شیخ: (ج۔۴)۲۴۰۲، (ج۔۵)۲۵۶۰، (ج۔۸) ۴۸۴۵_۴۸۴۶، ۴۸۴۹، ۴۸۵۵، ۴۸۵۷، ۴۸۶۱، ۴۹۳۷، (ج۔۹)۵۱۸۷، (ج۔۱۰)۵۸۲۷

رکن عالم ملتانی شاہ: (ج۔۴)۲۰۸۸، (ج۔۱۰)۵۸۵۶

رنجن شاہ: (ج۔۶)۳۸۰۳

روح اللہ اخوند زادہ گانگڑئی، میاں: (ج۔۶) ۳۷۱۱، ۳۷۲۴_۳۷۲۵، ۳۷۳۳

روح اللہ پشنگی، میاں: (ج۔۶)۳۷۲۶

روح اللہ قادری، بابا: (ج۔۴)۲۵۱۲

رودباری، شیخ ابوعلی: (ج۔۸)۴۸۴۶

روزبھان باقلی، شیخ: (ج۔۱)۸۴، (ج۔۲)۷۹۸، (ج۔۵) ۲۷۴۳، (ج۔۶) ۳۹۴۹، (ج۔۸) ۴۸۴۶، (ج۔۱۰) ۵۷۲۹

روشن اختر: (ج۔۴)۲۱۸۶

روشن آراء بیگم: (ج۔۱) ۹۰، (ج۔۴) ۲۲۹۰، ۲۳۴۰، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸

روشن آرا، شہزادی (ہمشیرہ اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ): (ج۔۳) ۱۸۸۷، (ج۔۹) ۵۵۳۸، (ج۔۱۰) ۵۷۶۹، ۵۷۷۱

روشن خان: (ج۔۶)۳۳۳۹

رومی، مولانا جلال الدین: (ج۔۱)۲۳۳، (ج۔۲)۵۱۳، ۵۸۴، ۶۰۰، ۶۰۲، ۶۳۱، ۱۰۰۷_۱۰۰۸، (ج۔۳)۱۵۶۵، (ج۔۴)۲۲۴۸، ۲۳۰۹، ۲۳۴۲، ۲۴۹۶، (ج۔۵)۲۷۳۹، ۲۹۴۲، ۲۹۵۲، ۲۹۹۰، ۳۰۱۴، ۳۰۱۷، (ج۔۶)۳۲۸۷_۳۲۸۸، ۳۳۰۳، ۳۳۵۴، ۳۷۶۷، ۳۹۴۶، (ج۔۷) ۴۰۲۳، (ج۔۹) ۵۰۱۰، (ج۔۱۰) ۵۷۲۹، ۵۷۷۸، ۵۷۸۳_۵۷۸۵، ۵۷۸۸، ۵۸۱۵، ۵۸۱۷، ۵۸۵۴_۵۸۵۵، ۵۸۵۸، ۵۹۸۹، ۶۰۶۰، ۶۰۸۱، ۶۰۹۷، ۶۱۰۱، ۶۲۴۹، ۶۲۵۷

رؤف احمد رافت مجددی، شاہ: (ج۔۱)۲۹، ۳۲۳، (ج۔۳)۱۸۸۸، (ج۔۴)۲۴۸۶، ۲۴۸۹، ۲۴۹۱_۲۴۹۳، ۲۶۵۰، (ج۔۶) ۳۳۵۳، ۳۹۴۹، ۳۹۶۰، (ج۔۱۰) ۶۰۳۵، ۶۰۳۷، ۶۳۷۸

رئیس احمد جعفری (مصنف انوار الاولیاء): (ج۔۳) ۱۴۰۳، (ج۔۶) ۳۹۴۹

رئیس کوٹ بھائی والے: (ج۔۶) ۳۷۷۳

ریاست رسول قادری: (ج۔۵) ۲۹۱۳

ریاست علی قادری، سید: (ج۔۵) ۲۹۰۶، ۲۹۱۳، (ج۔۷) ۴۲۷۸

ریاض احمد شاہ، سیّد: (ج۔۴) ۲۱۹۲

ریاض احمد طاہر، صاحبزادہ علامہ: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

ریاض الحسن گیلانی، ڈاکٹر سید: (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۴۱۵

ریاض الدین صمدانی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۲۴

ریاض حسین (فرزند چوہدری عبد الرؤف): (ج۔۱۰) ۶۰۷۸

ریحان احمد مظہری، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۶۴۳۸

ریحان رضا خان، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۱۳

رؤف احمد فاروق خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۶۸

ز

زادان: (ج۔۷) ۴۳۰۷

زازان (راوی حدیث): (ج۔۴) ۲۳۲۲

زاہد الکوثری، شیخ: (ج۔۹) ۵۰۶۷

زاہد علی کامل، میر: (ج۔۳) ۱۴۰۳

زاہد، میر: (ج۔۶) ۳۶۹۸، (ج۔۱۰) ۵۷۷۰

زبان بیگ: (ج۔۳) ۱۳۶۹

زبدۃ صاحب: (ج۔۳) ۱۳۶۵

زبید احمد، ڈاکٹر: (ج۔۳) ۱۲۸۶، (ج۔۵) ۲۵۷۳، ۲۵۷۹، ۲۸۰۹۔۲۸۱۰، ۲۸۱۷

زبید صوفی کامل (مفتی شافعیہ): (ج۔۶) ۳۲۱۰

زبیر احمد (فرزند حکیم مشتاق احمد): (ج۔۶) ۳۶۷۷۔ ۳۶۷۸

زبیر حسین جیلانی، سید: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

زبیر (رضی اللہ عنہ) (صحابی رسول): (ج۔۱) ۲۱۷، (ج۔۳) ۱۶۷۱، ۱۷۸۰، (ج۔۴) ۲۰۲۵، (ج۔۶) ۳۸۸۴

زبیر نقشبندی، شاہ: (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

زراع: (ج۔۸) ۴۸۳۹،

زر بن حبیش: (ج۔۲) ۵۲۱

زرغن شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۸۵۴

زرقانی، علامہ: (ج۔۱) ۲۰۹، (ج۔۲) ۵۸۹، ۵۹۱، ۶۲۲، (ج۔۷) ۴۴۰۸

زرکشی، امام: (ج۔۲) ۵۷۰، ۵۸۶، ۶۰۰، ۶۱۰، (ج۔۷) ۴۳۳۵، ۴۳۵۰

زرکلی: (ج۔۵) ۲۶۶۷

زرکوب شیرازی: (ج۔۵) ۲۸۵۵

زفر، امام: (ج۔۳) ۵۹۵:

زکریا (علیہ السلام): (رج۔۳) ۱۵۵۳، (ج۔۱۰) ۵۸۲۴

زکریا اجودھنی دہلوی، شیخ: (ج۔۴) ۲۰۰۳

زکریا بن سعد: (ج۔۲) ۵۲۹

زکریا بن عبد الوہاب بن سرخان: (ج۔۱۰) ۵۸۹۴

زکریا پشاوری، شیخ (المعروف شہید میاں) : (ج_۱۰) ۵۸۷۴، ۵۸۷۶

زکریا خان، نواب (حاکم لاہور) : (ج_۶) ۳۷۶۵، (ج_۱۰)۵۹۳۵

زکریاملتانی، بہاءالحق: (ج_۱۰)۵۸۵۶

زکی محمد حسن بک: (ج_۵)۲۸۵۷

زکی محمد مجاہد: (ج_۵)۲۷۰۱

زلیخا (علیہاالسلام): (ج_۵)۲۹۸۳، (ج_۱۰)۵۹۱۴

زمان شاہ: (ج_۴) ۲۰۵۶، (ج_۶) ۳۷۰۵، ۳۸۷۶_۳۸۷۷

زمان کھوکھر، ایم: (ج_۶)۳۸۲۴

زمباور (مولف معجم الانساب والاسرات الحاکمۃ): (ج_۵) ۲۸۵۷، (ج_۶)۳۹۴۹

زندہ پیر گھمکول شریف: (ج_۵) ۳۱۱۹، (ج_۶)۳۱۳۱، ۳۹۲۳_۳۹۲۴، ۳۹۲۷_۳۹۲۸، ۳۹۳۷، (ج_۱۰) ۵۶۱۶

زوار حسین شاہ، سید: (ج_۱)۲۲، ۱۰۱، ۴۶۲، (ج_۲)۴۸۹، ۷۶۹، ۸۸۷، ۹۳۲، (ج_۳) ۱۵۱۸، ۱۵۲۴، ۱۷۲۳، (ج_۴)۲۱۹۱، ۲۱۹۸، ۲۳۵۴، (ج_۵)۲۵۹۲، ۲۶۰۶، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۱۴، ۲۶۲۷، ۲۶۲۹، ۲۷۲۶، (ج_۶) ۳۶۸۵، ۳۹۴۲، (ج_۷) ۴۰۶۲، ۴۴۷۳، ۴۴۷۹، (ج_۸) ۴۴۸۹، ۴۶۱۶، ۴۶۵۹، ۴۷۷۰، ۴۸۳۳، ۴۸۳۷، ۴۸۵۴، ۴۸۶۰، ۴۸۶۲، ۴۹۳۶_۴۹۳۷، ۴۹۴۰، ۴۹۴۴_۴۹۴۵، ۴۹۴۸، (ج_۹) ۵۰۲۸، ۵۰۶۸، ۵۰۸۷، (ج_۱۰) ۵۶۳۷، ۵۶۷۱، ۵۶۷۲_۵۷۶۳، ۵۸۸۵، ۵۹۱۳، ۵۹۲۴، ۶۰۵۶_۶۰۵۷، ۶۱۲۶، ۶۱۵۷، ۶۱۶۳، ۶۲۱۵_۶۲۱۸، ۶۲۴۵، ۶۳۵۲، ۶۳۵۶، ۶۳۵۹_۶۳۶۱، ۶۳۷۲

زورآور سنگھ: (ج_۱)۴۰۳

زہرہ بی بی (دختر محمد شاہ جعفر کوٹی): (ج_۱۰)۵۹۷۵

زہیر بن حرب: (ج_۲)۵۴۰

زہیر بن محمد: (ج_۲)۵۲۴

زیاد بن حدیر: (ج_۳)۱۴۱۱

زیاد بن عبداللہ: (ج_۷)۴۲۹۹

زیاد بن فائد: (ج_۲)۵۰۹

زیب النساء مسعودی: (ج_۵) ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۱۳۰، ۳۲۴۲

زید: (ج_۵)۳۰۹۹

زید ابوالحسن فاروقی، مولانا شاہ: (ج_۱) ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۴۵۷_۴۵۸، (ج_۲)۴۹۰، ۷۲۸، ۱۱۴۰، ۱۱۶۷، ۱۱۸۵_۱۱۸۷، ۱۲۳۳، (ج_۳)۱۷۲۲، ۱۷۲۹، ۱۸۸۵، (ج_۴) ۱۹۳۸، ۱۹۴۵، ۲۵۱۲، (ج_۵) ۲۵۶۹، ۲۵۸۲، ۲۵۹۹، ۲۶۵۳، ۲۶۵۵، ۲۶۵۸، ۲۶۹۶، ۲۶۹۹، ۲۷۵۵_۲۷۵۶، ۲۸۱۰، ۲۸۱۵، ۲۸۱۸، ۲۸۲۶، (ج_۶)۳۱۵۳، ۳۱۵۸، ۳۲۵۳، ۳۳۵۹، ۳۳۶۲، ۳۳۶۴، ۳۳۶۷، ۳۳۷۶_۳۳۸۱، ۳۳۸۴، ۳۳۸۶، ۳۳۹۳، ۳۳۹۵_۳۳۹۶، ۳۴۶۵، ۳۷۵۷_۳۷۵۸، ۳۷۶۰_۳۷۶۱، ۳۹۳۹، ۳۹۴۴، ۳۹۷۳، (ج_۸) ۴۵۹۹، ۴۶۱۸، ۴۹۰۸، ۴۹۴۷_۴۹۴۸، ۴۹۹۱، (ج_۹) ۵۰۰۱، ۵۰۶۸، ۵۲۲۵، (ج_۱۰) ۵۷۶۳، ۵۹۵۵، ۵۹۵۹، ۶۱۱۱، ۶۱۲۴، ۶۱۵۴_۶۱۵۵، ۶۱۶۴، ۶۱۷۲، ۶۱۷۶، ۶۱۷۹، ۶۱۸۲_۶۱۸۳، ۶۱۹۲_۶۱۹۳، ۶۲۴۵، ۶۲۵۲، ۶۲۵۴، ۶۲۵۹، ۶۲۶۱، ۶۲۶۶_۶۲۰۷، ۶۳۲۷

زید ابوالخیر، مولانا: (ج_۱)۳۲۷

زید بن اخزم الطائی البصری: (ج_۲)۵۱۹

زید بن ثابت: (ج_۲) ۵۳۰، ۵۴۴_۵۴۵، ۹۱۷، (ج_۴)۲۳۱۴، (ج_۷)۴۳۲۴

زید بن حارث (صحابی): (ج_۳)۱۵۹۶، ۱۶۵۵، ۱۷۶۴

زید بن عبداللہ: (ج_۷)۴۲۸۱

زید بن علی: (ج_۶)۳۹۵۰

زید بن وهب: (ج_۳)۱۷۰۰

زید، شاہ: (ج_۶)۳۳۷۹

زین الدین ابوبکر نایاری: (ج_۱)۲۲۷

زین الدین بن نجیم حنفی، علامہ: (ج_۹)۵۴۱۷

زین الدین پیر سبائی، سید مولانا: (ج_۱۰) ۵۸۶۹، ۵۸۸۹

زین الدین، شیخ: (ج_۶)۳۶۹۸

زین الدین شیرازی چشتی: (ج_۴)۲۱۹۹

زین الدین، مولانا سید: (ج_۱۰)۵۸۷۲

زین العابدین، امام: (ج_۲)۱۲۱۵

زین العابدین بن حسین، امام: (ج_۴) ۲۲۵۷ (ج_۶) ۳۹۷۹

زین العابدین بن عبداللہ، شیخ: (ج_۶ :۳۲۰۵

زین العابدین تبریزی ثم المکی الشافعی، شیخ: (ج_۳)۱۳۷۴، (ج_۴)۲۳۹۴

زین العابدین جیلانی، شاہ: (ج_۶)۳۶۳۸

زین العابدین، شیخ: (ج_۵) ۲۵۹۵، (ج_۶) ۳۱۶۷، (ج_۱۰)۵۶۳۵، ۶۱۹۱

زین العابدین، شیخ (ج_۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۷، ۴۸۴۵، (ج_۹)۵۵۵۷

زین العابدین عبدالحئی: (ج_۳)۱۳۶۶

زین العابدین کمان گر، مولانا: (ج_۷)۴۱۲۵

زین العابدین، ملا محمد نسیم صدیقی دہروی): (ج_۱۰) ۵۸۸۰

زین العابدین یمنی مدنی، سید محدث (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج_۱۰)۵۶۲۸، ۵۷۵۸

زین العرب، علامہ: (ج_۲)۵۹۰

زین، حافظ (استاد سید راشد روضے دھنی): (ج_۶) ۳۵۶۴

زین محدث، حافظ: (ج_۵)۲۸۸۶

زینب بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم): (ج_۴) ۲۳۲۲، (ج_۶)۳۲۱۰

زینب بی بی: (ج_۹)۵۵۲۵

س

ساجد الرحمٰن، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱) ۲۲، (ج_۲) ۴۸۹، ۹۸۰، (ج_۶)۳۷۸۳، ۳۷۹۹

ساجد الرحمٰن، صاحبزادہ ڈاکٹر: (ج_۱۰)۵۹۴۷

ساجد حسن علوی (تصحیح کنندہ): (ج_۱۰)۵۸۸۹

سارنگ کلہوڑو، خلیفہ: ۵۳۷۰

ساریہ: (ج_۷)۴۰۸۵

سالم بن ابی الجعد: (ج۔۲) ۶۳۴، (ج۔۷) ۴۲۹۹
سالم بن عبداللہ: (ج۔۷) ۴۳۴۴، (ج۔۹) ۵۱۸۷
سالم عطاس حضرمی شافعی، شیخ سید: (ج۔۵) ۲۰۹۶
سالم فاروقی مجددی، شاہ ابو السعد: (ج۔۶) ۳۳۶۷، ۳۷۱۰، ۳۷۵۷، ۳۷۶۰، ۳۹۳۷، (ج۔۸) ۴۸۳۸، (ج۔۱۰) ۵۹۴۸، ۵۹۵۵۔۵۹۵۶، ۵۹۵۹
ساھرلنجار، مخدوم (دادو): (ج۔۶) ۳۶۹۰
سبحان رضا خان، مولانا: (ج۔۵) ۲۹۰۵، ۲۹۱۳
سبحان قلی بن نذر محمد خان: (ج۔۵) ۲۶۶۶
سبکتگین: (ج۔۴) ۲۰۴۶، ۲۰۶۳، ۲۰۸۵
سبکی، امام: (ج۔۲) ۶۰۵
سجاد، امام: (ج۔۵) ۲۶۴۳
سجاد حسین، قاضی: (ج۔۵) ۳۰۱۴، (ج۔۶) ۳۳۸۹، ۳۹۴۶
سخاوی، امام: (ج۔۲) ۵۳۶، ۵۸۳، ۵۸۶، ۵۸۷، ۶۰۱، ۶۰۸، ۶۱۹، (ج۔۵) ۳۰۱۷، (ج۔۶) ۳۹۵۰، (ج۔۷) ۴۳۲۸، ۴۴۰۸
سخی دار، فقیر (خادم خواجہ محمد سعید پیر مٹھا): (ج۔۱۰) ۶۰۲۵
سخی سرور، سلطان: (ج۔۴) ۲۰۴۸، ۲۰۸۶
سخی محمد نقشبندی مجددی، خلیفہ: (ج۔۶) ۳۸۰۵
سدھا تورہ، شیخ: (ج۔۶) ۳۶۹۱
سراج، ابونصر: (ج۔۲) ۷۸۹
سراج احمد خان، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۳، ۲۰، ۲۳، ۲۹، ۱۰۲، ۴۶۰، (ج۔۲) ۴۹۰، ۱۲۲۰، (ج۔۳) ۱۷۲۲، ۱۸۶۹، ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۲۳۹۷، (ج۔۶) ۳۶۸۶، ۳۹۵۰، (ج۔۸) ۴۵۷۷، ۴۸۶۱، ۴۸۶۴، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۳۰۳
سراج احمد مجددی رام پوری، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۰۴
سراج الاسلام (مرشد یار محمد کابلی آخونزادہ): (ج۔۶) ۳۹۰۹
سراج الاسلام، میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۷۹، ۵۸۹۲
سراج الحسن نقشبندی، صاحبزادہ (فرزند خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰) ۵۹۰۷
سراج الحق، شاہ مولوی حافظ: (ج۔۵) ۲۸۸۸
سراج الدولہ، نواب: (ج۔۴) ۲۱۸۸، ۲۱۹۱
سراج الدین، خواجہ (موسیٰ زئی): (ج۔۶) ۳۷۸۳
سراج الدین سرہندی. قاضی: (ج۔۱) ۴۵۹، (ج۔۶) ۳۸۸۷
سراج الدین، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۷۵، ۳۲۷۸، ۳۲۸۱۔۳۲۸۳
سربند سرحدی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۶۵
سرتاج حسین رضوی: (ج۔۵) ۲۹۰۵
سرخسی، امام محمد بن محمد رضی الدین: (ج۔۲) ۶۸۳، ۷۳۷، (ج۔۳) ۱۷۰۵
سردار احمد، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۵۰
سردار (سردار ہشت نگر): (ج۔۱۰) ۵۸۷۱
سردار علی احمد خان قادری: (ج۔۴) ۲۵۱۲
سردار علی شاہ بخاری ملتانی، سید: (ج۔۶) ۳۸۸۶
سردار علی قادری: (ج۔۱) ۲۸، (ج۔۳) ۱۳۶۷، ۱۳۷۱، ۱۸۸۶، (ج۔۴) ۲۰۷۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۳

سرفراز احمد بھٹی: (ج_۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۴۱

سرفراز احمد خاں: (ج_۱۰)۶۱۲۷

سرفراز خان صفدر: (ج_۶)۳۹۵۰

سری سقطی، شیخ: (ج_۱)۱۸۴، (ج_۸)۴۸۴۶، ۴۸۵۵، ۴۸۶۰، (ج_۹)۵۱۸۷، (ج_۱۰)۵۶۹۵

سعادگے، شیخ میاں گل اخوند: (ج_۶)۳۸۳۱

سعادت علی خان: (ج_۴)۲۰۵۵، ۲۱۸۷

سعادت علی شاہ، پیر سید: (ج_۱۰)۶۰۹۴

سعد: (ج_۱)۲۱۷، (ج_۲)۵۱۷، (ج_۷)۴۳۳۹، ۴۳۲۶، ۴۳۳۲، ۴۳۳۸،

سعدالدین انصاری کابلی: (ج_۵)۲۸۱۱، ۲۸۱۸

سعدالدین حموی، شیخ: (ج_۴)۲۰۴۸، ۲۱۹۶

سعدالدین کاشغری: (ج_۶)۳۶۵۳، (ج_۱۰)۶۱۰۲

سعدالدین، مولانا قاضی: (ج_۶)۳۸۹۲

سعداللہ کابلی، صوفی: (ج_۱)۸۹

سعداللہ نسیم، میاں: (ج_۱۰)۵۸۸۹

سعداللہ ہزاروی، شاہ: (ج_۱۰)۵۸۸۱

سعد اللہ سلونی سورتی قادری: (ج_۶)۳۱۶۱، ۳۱۹۱، ۳۶۵۲

سعد اللہ شاہ، حافظ: (ج_۴)۲۴۶۰، (ج_۶)۳۳۵۴، (ج_۹)۵۳۲۹، ۵۵۵۳

سعداللہ، شیخ: (ج_۴)۱۹۸۲

سعداللہ، ملا (وزیر شاہجہاں): (ج_۵)۲۷۵۸

سعداللہ، مولانا (خلیفہ شیخ محمد آدم بنوری): (ج_۶)۳۹۰۶

سعداللہ، میر (فرزند ملامزیٰ): (ج_۵)۲۶۶۸

سعداللہ، والد مخدوم عبدالرحیم گرھوڑی): (ج_۶)۳۵۰۳

سعد اللہ وزیر آبادی، شیخ: (ج_۶)۳۸۳۱، ۳۹۰۸، (ج_۱۰)۵۸۶۸، ۵۸۸۸، ۵۹۸۶، ۵۹۹۴

سعد بن الخمیس التیمی: (ج_۷)۴۲۸۲

سعد بن تیم: (ج_۷)۴۰۱۸۰

سعد بن سنان: (ج_۲)۵۲۰

سعد بن عبیدہ: (ج_۲)۵۴۶

سعد بن مسعود: (ج_۷)۴۳۵۲

سعد بن معاذ: (ج_۷)۴۳۹۳

سعد، والد شاہ فارس قتلغ خان ابوبکر): (ج_۵)۲۸۵۳

سعدی بن محمد کمال عمری، شیخ: (ج_۶)۳۲۳۷، ۳۲۴۰

سعدی شیرازی، شیخ (مصلح الدین): (ج_۵)۳۰۹۸، (ج_۶)۳۱۲۶، ۳۶۰۵، ۳۶۱۹، ۳۹۵۰، (ج_۸)۴۹۶۱، (ج_۹)۵۲۶۴، ۵۲۷۵، (ج_۱۰)۶۰۹۷، ۶۱۳۴، ۶۱۴۷، ۶۲۵۱

سعدی لاہوری، شیخ (خلیفہ سید محمد آدم بنوری): (ج_۱)۹۳، ۳۴۹، (ج_۴)۲۴۴۹، (ج_۶)۳۴۳۳، ۳۵۶۶، ۳۸۲۸، ۳۸۳۳، ۳۸۶۱، ۳۸۹۶_۳۸۹۷، ۳۹۰۴، ۳۹۰۶، ۳۹۱۲، (ج_۱۰)۵۸۶۸_۵۸۷۱، ۵۸۷۳، ۵۸۸۶، ۵۸۸۹، ۵۹۳۰_۵۹۳۲، ۵۹۳۵

سعدی نظامی گنجوی، شیخ: (ج_۱۰)۶۰۸۱

سعید ابن منصور (راوی حدیث): (ج_۴)۲۳۲۲

سعید احمد اکبر آبادی، مولانا: (ج_۹)۵۱۶۲

سعید احمد الازہری پروفیسر: (ج_۱۰)۶۴۴۳

سعید احمد چشتی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳
سعید احمد شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۷۹۶
سعید احمد صدیقی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۲
سعید احمد لاہوری: شیخ: (ج۔۸) ۴۸۳۳
سعید احمد نقشبندی: (ج۔۱) ۶۲، (ج۔۲) ۶۹۳
سعید اظہر: (ج۔۴) ۲۱۹۳
سعید الدین حسین، مولوی سید: (ج۔۱۰) ۵۸۸۱
سعید الدین، شیخ: (ج۔۹) ۵۵۲۵
سعید الرحمٰن پشاوری، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۴
سعید اللہ جان، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۵۵۹
سعید اللہ، علامہ: (ج۔۸) ۴۹۴۶
سعید بن ابی ایوب: (ج۔۲) ۶۰۵
سعید بن ابی سعید: (ج۔۲) ۵۷۳، ۵۷۵
سعید بن ابی عروۃ: (ج۔۲) ۶۰۳، (ج۔۷) ۴۳۱۶
سعید بن ابی مریم: (ج۔۲) ۵۶۲
سعید بن ابی ہند: (ج۔۷) ۴۲۹۲
سعید بن احمد عمری، شیخ: (ج۔۹) ۵۰۵۳
سعید بن الربیع الہروی، ابوزید: (ج۔۲) ۵۶۸
سعید بن المسیب: (ج۔۲) ۵۷۲، ۵۷۴، ۷۰۲
سعید بن جبیر: (ج۔۲) ۶۳۴، ۷۰۲
سعید بن زیاد: (ج۔۲) ۵۷۹
سعید بن سلام المغربی نیشاپوری: (ج۔۱۰) ۵۶۹۵
سعید بن عبدالعزیز: (ج۔۷) ۴۳۴۵
سعید بن عفیر: (ج۔۷) ۴۳۰۱
سعید بن محمد سمان دمشقی، مؤرخ: (ج۔۶) ۳۱۷۷
سعید بن مسعود: (ج۔۲) ۵۵۹
سعید بن یحییٰ الاموی: (ج۔۲) ۵۹۳
سعید بن یعقوب: (ج۔۲) ۵۶۹
سعید پیران، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۹
سعید جان سرہندی، پیر: (ج۔۶) ۳۵۲۸
سعید جان مجددی، خواجہ حافظ: (ج۔۶) ۳۳۰۹، ۳۳۱۱
سعید حسن بن محمد اشرف، پیر: (ج۔۶) ۳۴۳۹
سعید خان چمکنی، ملک: (ج۔۶) ۳۸۹۵، ۳۸۹۹
سعید راشد، پروفیسر: (ج۔۹) ۵۵۷۸
سعید شاہ بنوری، پیر: (ج۔۹) ۵۵۷۵
سعید غفاری نقشبندی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۶۷
سعید غنی: (ج۔۶) ۳۶۴۸
سعید گوہر لورالائی، شاعر: (ج۔۶) ۳۷۵۴
سعید معمن حبشی، حضرت. (ج۔۱۰) ۵۶۷۷
سعید النساء: (ج۔۶) ۳۳۶۹
سعید اللہ گلشن، شاہ: (ج۔۸) ۴۸۶۸،
سعیدائے گیلانی، حکیم (استاد شاہجہاں بادشاہ): (ج۔۱۰) ۵۷۶۶
سفیان: (ج۔۲) ۵۶۹، (ج۔۷) ۴۳۴۸
سفیان بن عیینۃ: (ج۔۲) ۵۴۷، ۵۸۷، (ج۔۷) ۴۲۸۲
سفیان بن سعید ثوری: (ج۔۲) ۵۱۶، ۵۴۴، ۶۰۶، ۷۰۲، (ج۔۴) ۲۲۳۷، (ج۔۷) ۴۳۵۳، (ج۔۸) ۴۶۳۶
سکندر اعظم (بادشاہ): (ج۔۶) ۳۶۶۲ (ج۔۱۰) ۵۹۸۸

سکندر حیات رانجھا، میاں: (ج۔۱۰) ۵۹۹۴

سکندر خان (مصنف): (ج۔۱۰) ۵۹۴۶

سکندر سوری (برادر زادہ شیر شاہ سوری): (ج۔۱۰) ۵۶۴۳۔۵۶۴۴

سکندر شاہ (والد پیر عبد الحکیم نانا کاکڑ): (ج۔۶) ۳۷۱۲، (ج۔۱۰) ۵۹۵۰

سکندر، صوفی شاہ: (ج۔۹) ۵۴۸۸

سکندر قادری کیتھلی، شاہ: (ج۔۱) ۳۹۰، ۴۱۸، (ج۔۲) ۵۰۸، (ج۔۳) ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ۱۴۰۲، (ج۔۴) ۱۹۴۲، ۲۲۶۴، ۲۵۰۰، (ج۔۵) ۲۸۹۲، (ج۔۶) ۳۷۶۵، (ج۔۸) ۴۵۱۱، ۴۵۳۰، ۴۶۱۵، ۴۸۵۹، (ج۔۹) ۵۰۲۲، ۵۴۷۳، ۵۵۶۸

سکندر لودھی (حاکم ہندوستان): (ر؛۔۳) ۱۲۸۵، ۱۶۹۵، (ج۔۴) ۲۰۵۱، ۲۰۶۵، ۲۲۰۷، (ج۔۷) ۴۱۸۳، (ج۔۸) ۴۵۶۷، (ج۔۹) ۵۰۹۶، ۵۵۵۶، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳

سلام الدین کشمیری، خواجہ میاں: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

سلام اللہ، مخدوم (سندھی): (ج۔۶) ۳۴۴۰

سلام خان: (ج۔۴) ۲۱۶۲

سلامت اللہ العزامی، شیخ: (ج۔۵) ۲۸۶۱

سلطان ابن سعود: (ج۔۶) ۳۴۲۵، ۳۴۸۹

سلطان احمد قریشی اٹکی: (ج۔۱۰) ۹۴۵

سلطان ادہمی، حضرت: (ج۔۱۰) ۵۶۷۷

سلطان الطاف علی، ڈاکٹر: (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۳۹، ۵۹۵۹

سلطان المزاجی: (ج۔۵) ۲۸۰۴

سلطان باہو: (ج۔۱) ۱۸۲، (ج۔۳) ۱۵۵۲، (ج۔۹) ۵۰۶۶، ۵۰۷۰، (ج۔۱۰) ۵۹۵۳، ۵۹۵۸

سلطان بن علاء الدین: (ج۔۶) ۳۴۷۷

سلطان تھانیسری، شیخ: (ج۔۳) ۱۲۹۰، ۱۳۸۶، (ج۔۵) ۲۵۵۵، ۲۵۶۱، (ج۔۹) ۵۰۲۴، (ج۔۱۰) ۵۶۲۵، ۵۶۴۱، ۵۶۵۳، ۵۶۷۸، ۶۱۱۵

سلطان جان، آغا: (ج۔۶) ۳۳۱۱، ۳۳۳۴

سلطان، حاجی: (ج۔۹) ۵۵۱۴

سلطان، شاہ ہندی: (ج۔۶) ۳۴۷۵

سلطان شہید، شیخ: (ج۔۸) ۴۹۰۳۔۴۹۰۴

سلطان، شیخ: (ج۔۲) ۷۶۴، (ج۔۸) ۴۵۱۴، ۴۸۴۳، (ج۔۹) ۵۱۲۲، ۵۱۵۵، ۵۴۷۳

سلطان علی خان تالپور: (ج۔۶) ۳۶۹۳

سلطان محمد بن میراں شاہ: (ج۔۸) ۴۹۳۵،

سلطان محمود بن غلام غوث قادری: (ج۔۵) ۲۹۲۵، ۲۹۴۴، (ج۔۶) ۳۷۷۴، (ج۔۸) ۴۸۴۹۔۴۸۵۰

سلطان محمود، شہزادہ: (ج۔۹) ۵۵۳۸۔۵۵۳۹

سلطان محمود، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۷۳

سلطان مصطفی سوم بن سلطان احمد: (ج۔۶) ۳۲۰۸

سلطان وحید الدین، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۵۹

سلطانی بنت مراد بن شرفو (والدہ شاہ عالم پیر پٹھا): (ج۔۶) ۳۷۰۰

سلم بن زید: (ج۔۷) ۴۲۹۶

سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ: (ج۔۷) ۴۳۲۹

سلمان افتخار، سید: (ج۔۱) ۲، (ج۔۲) ۴۸۲، (ج۔۵)

۲۵۳۰، (ج۔۶) ۳۱۲۲
سلمان بن عامر الضبی: (ج۔۷) ۴۳۵۰
سلمان فارسی۔ (ج۔۱) ۳۷، ۵۶۹، (ج۔۴) ۲۲۴۳،
۲۲۵۶، (ج۔۵) ۲۷۴۴، ۲۷۴۷ (ج۔۶) ۳۸۸۴،
۳۹۷۸، (ج۔۷) ۴۳۰۷، ۴۳۳۲، ۴۳۹۹، ۴۴۰۴،
(ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۷، ۴۸۶۵
سلمان قادری، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۷۹
سلمان منصور پوری قاضی: (ج۔۸) ۴۸۲۰،
سلمیٰ بنت صخر: (ج۔۴) ۲۲۵۵
سلمۃ الاشجع (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷) ۴۳۸۳
سلمۃ المرادی: (ج۔۲) ۶۰۵
سلمۃ بن ابی الطفیل: (ج۔۲) ۵۸۱
سلیم اختر، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۹۵۰
سلیم بنوری، شیخ: (ج۔۳) ۱۳۷۳، (ج۔۴) ۲۳۹۴
سلیم بیگم، سلطانہ: (ج۔۶) ۳۷۶۵
سلیم چشتی، شیخ: (ج۔۱) ۱۱، ۱۸، ۹۱، ۱۴۲، (ج۔۲) ۱۱۰۱،
(ج۔۳) ۱۳۶۴، (ج۔۴) ۱۹۹۱، ۲۰۵۲، ۲۰۹۱، ۲۱۱۸،
۲۱۶۶، (ج۔۸) ۴۹۳۱، (ج۔۹) ۵۴۶۷، (ج۔۱۰)
۵۶۴۶
سلیم خان لشکری۔ (ج۔۴) ۲۳۹۴
سلیم شاہ (فرزند شیر شاہ سوری)۔ (ج۔۴) ۲۳۹۷۔
۲۳۹۸، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳
سلیمان (علیہ السلام): (ج۔۲) ۱۱۰۹، (ج۔۸) ۴۷۹۱،
۴۸۲۶
سلیمان: (ج۔۴) ۲۰۴۶
سلیمان آرزورومی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۵
سلیمان ابن بلال: (ج۔۲) ۵۳۳، ۵۳۵، ۶۱۷
سلیمان اشرف بہاری، پروفیسر سید: (ج۔۵) ۲۸۸۳،
(ج۔۱۰) ۵۸۰۵
سلیمان الاعمش: (ج۔۷) ۴۳۰۱، ۴۳۰۲
سلیمان التیمی: (ج۔۲) ۵۶۹
سلیمان الجعفی: (ج۔۲) ۵۹۴
سلیمان بن احمد: (ج۔۲) ۵۲۹، (ج۔۶) ۳۲۲۱
سلیمان بن اشعث: (ج۔۷) ۴۲۸۵
سلیمان بن بلال: (ج۔۷) ۴۲۸۹۔۴۲۹۰
سلیمان بن حرب: (ج۔۲) ۵۲۳
سلیمان بن حسن زہری خالدی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۹۳
سلیمان بن ربیعۃ: (ج۔۷) ۴۲۹۱
سلیمان بن عبداللہ ماجری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۵
سلیمان بن عبدالمالک: (ج۔۲) ۵۱۶، (ج۔۷) ۴۲۸۸
سلیمان بن محمد مصری (شیخ القراء): (ج۔۶) ۳۱۸۰
سلیمان بن مسعود، شیخ: (ج۔۹) ۵۱۸۷
سلیمان بن یحیٰ بلال، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۰
سلیمان پھلواری، شاہ۔ (ج۔۵) ۲۹۳۱، ۲۹۴۳، ۲۹۴۵،
۲۹۷۵، ۳۰۲۴
سلیمان تونسوی، خواجہ شاہ۔ (ج۔۱۰) ۵۸۸۳، ۵۸۹۴
سلیمان ٹکھرائی، حاجی: (ج۔۶) ۳۶۰۳
سلیمان حلمی تونابان، شیخ رومانی: (ج۔۶) ۳۲۷۳
سلیمان رکن الدین (فرزند مجد الدین عبدالرحمٰن)

(ج۔۵)۲۸۴۹

سلیمان، شہزادہ (ولی عہد احمد شاہ ابدالی): (ج۔۶) ۳۵۵۶، ۳۵۶۰

سلیمان، شیخ (المعروف بسعد الدین مستقیم زادہ): (ج۔۵) ۲۶۷۳

سلیمان، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۶) ۳۷۲۲، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸،

سلیمان، صوفی: (ج۔۶)۳۳۲۳

سلیمان، میاں (مرشد شاہ امان اللہ افغانی): (ج۔۱۰) ۵۸۴۸

سلیمان ندوی، سید: (ج۔۴) ۲۲۸۹، (ج۔۵) ۲۶۴۹، ۳۰۲۳، (ج۔۶)۳۴۲۵، ۳۴۸۹، (ج۔۱۰)۵۸۰۷

سلیمان نقشبندی، مستقیم زادہ سعد الدین: (ج۔۵)۲۶۶۹۔ ۲۶۷۰

سلیمان ہالیپوٹہ، حاجی: (ج۔۶)۳۵۳۵

سلیمہ سلطان بیگم: (ج۔۴)۱۹۷۳

سماک بن حرب: (ج۔۷)۴۳۰۵

سمرقندی، امام: (ج۔۲)۵۸۶

سمھودی، علامہ: (ج۔۵)۲۶۹۸

سمیعہ شاہد، سیدہ: (ج۔۱) ۲، (ج۔۲) ۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، (ج۔۶)۳۱۲۲، (ج۔۱۰)۶۴۹۴

سنائی غزنوی، حکیم: (ج۔۱۰)۶۱۵۰

سنبویہ ایرانی: (ج۔۵)۲۹۸۸

سنڈا کی بابا، ملا: (ج۔۶)۳۸۵۹

سنگھ دیو، راجا: (ج۔۶)۳۸۰۴

سنوری: (ج۔۵)۲۶۶۷

سنوسی، شیخ (جامعہ ازہر): (ج۔۶)۳۷۶۰

سوار بن مصعب: (ج۔۲)۵۱۸

سورداس (موسیقار دربار اکبری): (ج۔۱۰)۵۶۴۷

سومار سید پوری ٹھٹوی، حاجی: (ج۔۶)۳۶۸۸

سوئی والے، خلیفہ: (ج۔۶)۳۵۷۰

سوید بن نصر: (ج۔۷)۴۳۱۱

سہار، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۴۲

سہراب خاں، میر: (ج۔۶)۳۵۶۹

سہل بن ارزج آملی بخارائی: (ج۔۷)۴۳۲۴، ۴۴۶۷

سہل بن عبد الکریم: (ج۔۷)۴۳۰۶

سہل بن معاذ: (ج۔۷)۴۳۴۵

سہیل بخاری، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۶۵، ۳۰۰۵، ۳۰۱۰، (ج۔۶)۳۹۵۰

سہیل بن ابی صالح: (ج۔۷)۴۲۸۸، ۳۰۴

سہیل بن ساعدی: (ج۔۲)۵۳۹

سہیل (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷)۴۲۸۸، ۴۳۰۴، ۴۳۶۷

سھل بن المرزبان: (ج۔۲)۵۸۷

سھل بن سعد القزوینی: (ج۔۲) ۵۳۹۔۵۴۱، ۵۵۱۔ ۵۵۲، ۵۵۹

سیار: (ج۔۷)۴۳۰۸

سید احمد، حافظ (فرزند حافظ محمد عظیم نجوی): (ج۔۶)۳۸۹۳

سید احمد خان، سر: (ج۔۴)۲۴۷۹۔۲۴۸۱، ۲۴۸۴، ۲۴۸۶، ۲۴۹۲، (ج۔۵)۲۶۴۷، ۲۶۸۹، ۲۷۷۶، ۲۸۳۴،

۳۳۹۴، ۳۵۷۳، ۳۶۰۱، ۳۹۵۰، (ج_۸) ۴۸۵۰، ۴۹۰۶، (ج_۹)۵۱۵۶، ۵۳۳۴، ۵۴۱۳، ۵۵۲۳

سیداحمد رائے بریلوی: (ج_۶)۳۴۳۱، ۳۸۹۰_۳۸۹۱

سیداحمد، میاں: (ج_۶)۳۳۱۰، ۳۳۲۶

سیداحمد میر: (ج_۳)۱۷۶۳

سیداسعد حنفی مدنی، مفتی سلطانی: (ج_۴)۲۴۵۱

سیدالسندالجرجانی: (ج_۸)۴۶۳۹،

سیدامیر، شیخ بن محمد سعید: (ج_۶)۳۸۲۹، ۳۸۴۳، ۳۸۴۵

سید امیر، مولانا (شاگرد حافظ محمد عظیم گنجوی): (ج_۶) ۳۸۹۰، ۳۹۰۹_۳۹۱۰

سید شاہ، خواجہ (فرزند خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰)۵۹۳۸

سید صوفی دھلوی (خلیفہ خواجہ محمد طاہر بندگی): (ج_۶) ۳۷۶۶

سید غلام، شیخ المشائخ (عرف آغا میر جی): (ج_۶)۳۸۹۰

سیف احمد، میاں (فرزند میاں احمد معصوم مجددی پشاوری): (ج_۱۰)۵۸۷۷

سیف الدین باقری، خواجہ: (ج_۷)۴۰۹۰

سیف الدین کشمیری (مرید عبداللہ جان سرہندی): (ج_۶)۳۵۲۴

سیف الدین، مولانا (والدِ شیخ عبدالحق محدث دہلوی): (ج_۶)۳۳۴۹

سیف الدین، خواجہ: (ج_۱)۸۱، ۸۵، ۸۷، ۸۹_۹۲، (ج_۳)۱۷۲۳، ۱۸۸۷، (ج_۴)۱۹۸۲، ۲۰۵۵، ۲۱۸۱_۲۱۸۲، ۲۱۸۴، ۲۱۹۹، ۲۲۵۴، ۲۲۸۱، ۲۲۸۳_۲۲۸۴، ۲۲۸۹_۲۲۹۰، ۲۳۰۷، ۲۳۱۰_۲۳۱۱، ۲۳۲۲، ۲۳۳۴، ۲۳۴۰، ۲۳۵۴، ۲۳۵۶، ۲۴۴۹، ۲۴۶۰، ۲۵۲۲، (ج_۵) ۲۵۶۹، ۲۵۸۲، ۲۶۶۱، ۲۶۶۳، ۲۶۶۵، ۲۶۶۹، ۲۷۶۳، ۲۷۸۲_۲۷۸۳، ۲۸۰۰_۲۸۰۱، ۲۸۰۶، ۲۸۳۲، (ج_۶) ۳۲۰۸، ۳۲۶۴، ۳۳۵۲، ۳۳۵۴، ۳۴۱۷، ۳۴۲۸_۳۴۲۹، ۳۴۴۷، ۳۴۶۸_۳۴۷۰، ۳۶۹۷، ۳۹۳۶، ۳۹۵۰، ۳۹۸۲، (ج_۷) ۴۰۹۲، (ج_۸) ۴۸۶۷، (ج_۹) ۵۲۲۱، ۵۳۵۹، ۵۴۷۰، ۵۵۱۰، ۵۰۲۹، ۵۵۳۱، ۵۵۳۳، ۵۵۳۵_۵۵۳۸، ۵۵۴۰، ۵۵۵۷_۵۵۵۸، ۵۵۶۲، (ج_۱۰) ۵۶۶۶، ۵۷۵۷، ۵۷۶۹، ۵۷۷۲، ۵۸۷۷، ۵۸۸۴، ۵۹۰۵، ۵۸۹۳، ۵۸۹۵، ۶۱۲۲، ۶۱۶۲، ۶۱۶۹، ۶۱۸۲، ۶۳۵۶، ۶۳۷۴

سیف الرحمٰن پیرارچی، آخوندزادہ پیر: (ج_۶)۳۷۷۵

سیف الرحمٰن ڈار، ڈاکٹر: (ج_۱۰)۵۹۲۶

سیف اللہ خاں، نواب (گورنر ٹھٹھہ): (ج_۶)۳۴۷۳، ۳۷۰۰

سیف خان: (ج_۴)۲۲۸۵

سیوطی، علامہ جلال الدین: (ج_۱) ۶۰، ۲۱۶، (ج_۲) ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۷، ۵۱۹، ۵۳۷، ۵۴۲، ۵۶۰_۵۶۱، ۵۶۹_۵۷۰، ۵۷۲، ۵۸۲، ۵۹۶، ۵۹۹، ۶۰۴، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۲۱_۶۲۲، ۶۷۰، (ج_۳)۱۳۷۱، ۱۳۸۷، ۱۶۶۲، (ج_۵) ۲۶۹۸، ۳۰۱۷، ۳۰۷۲، (ج_۶) ۳۹۴۶، (ج_۷)۴۱۳۹، ۴۱۹۱، ۴۲۰۶، ۴۲۸۵، ۴۲۸۷، ۴۳۰۳، ۴۳۰۷، ۴۳۲۷، ۴۳۳۵، ۴۳۴۱، ۴۳۴۷، ۴۳۵۰، ۴۳۵۱، (ج_۸)۴۵۲۳، (ج_۹)۵۰۴۷، ۵۴۲۰

ش

شادی، شیخ: (ج_۷) ۴۰۹۱، ۴۰۹۳

شاطبی، امام: (ج_۲) ۶۹۳

شافعی، امام محمد بن ادریس: (ج_۱) ۳۸۳، (ج_۲) ۶۶۵، ۶۷۲، ۶۹۶، ۷۰۰، ۸۲۰، ۸۳۰، ۱۱۸۷، (ج_۳) ۱۴۹۰، ۱۵۹۸، ۱۶۳۶، ۱۶۵۴، ۱۶۶۲، ۱۶۷۱، ۱۶۸۱، ۱۷۰۱، ۱۸۳۲، (ج_۴) ۲۰۲۳، (ج_۵) ۲۸۸۳، ۳۰۵۱، ۳۰۵۵_ ۳۰۵۶، ۳۰۶۰، ۳۰۶۲_ ۳۰۶۶، (ج_۶) ۳۳۰۱، ۳۶۲۰، (ج_۸) ۴۵۸۴، ۴۵۹۳، ۴۶۳۶، ۴۶۹۵، ۴۷۳۵، ۴۸۰۵، ۴۸۲۲، ۴۸۲۴، (ج_۹) ۵۳۶۹

شاکر بن بدرالدین سرہندی، ملا: (ج_۱۰) ۵۷۶۳

شاکر بن مصطفیٰ عمری ابن الهادی: (ج_۶) ۳۱۷۷

شاکر شاہ پشاوری، سید میر: (ج_۱۰) ۵۸۷۴

شاکرہ بی بی: (ج_۹) ۵۵۲۵

شامل خالدی نقشبندی، شیخ: (ج_۱) ۲۶۴، (ج_۳) ۱۷۲۱، (ج_۵) ۲۶۸۷، (ج_۶) ۳۲۵۷، ۳۲۶۰

شامی، علامہ: (ج_۲) ۶۸۴

شاورز ایچ۔ ایل، میجر (مصنف): (ج_۱۰) ۵۹۵۹

شائستہ خان: (ج_۴) ۲۲۸۵

شائستہ گل، مفتی اعظم پاکستان: (ج_۸) ۴۶۴۵،

شاہ ابوسعید مجددی: (ج_۴) ۲۴۸۹

شاہ احمد سعید: (ج_۴) ۲۴۸۹

شاہ انجم بخاری، پروفیسر: (ج_۱۰) ۵۵۹۴، ۶۰۷۱

شاہ بدخشی کشمیری، ملا (شاہ محمد): (ج_۱۰) ۵۸۶۷

شاہجہان بادشاہ: (ج_:) ۴۱، ۸۰، ۸۹، ۹۰، ۱۸۹، ۴۵۱، ۴۵۲، (ج_۳) ۱۲۸۶، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۴، ۱۴۱۵، ۱۴۵۰، ۱۶۳۸، ۱۷۲۰_ ۱۷۲۱، ۱۷۲۷، ۱۸۵۳، ۱۸۶۱_ ۱۸۶۲، ۱۸۶۴، ۱۸۷۰، (ج_۴) ۱۹۴۳، ۱۹۴۹، ۱۹۷۱، ۲۰۳۲، ۲۰۵۴، ۲۰۶۹، ۲۱۱۹، ۲۱۲۴، ۲۱۵۶، ۲۱۶۰، ۲۱۶۴_ ۲۱۶۵، ۲۱۷۴_ ۲۱۷۵۔ ۲۱۷۸، ۲۱۸۰_ ۲۱۸۳، ۲۱۹۶_ ۲۱۹۷، ۲۱۹۹، ۲۲۱۷، ۲۲۷۷_ ۲۲۷۸، ۲۲۷۲، ۲۳۱۳، ۲۴۴۹، (ج_۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۱، ۲۵۷۸، ۲۷۸۰، ۲۸۳۲، ۲۸۴۰، ۲۹۱۱، (ج_۶) ۳۶۹۷_ ۳۶۹۸، ۳۸۹۵، ۳۹۱۲، (ج_۷) ۴۱۸۸، (ج_۸) ۴۹۰۹، ۴۹۲۳، ۴۹۳۴، (ج_۹) ۵۰۹۶، ۵۱۴۲، ۵۱۴۴۱_ ۵۱۴۵، ۵۴۸۱، ۵۴۹۶، ۵۵۱۰، ۵۵۵۵، (ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۲۶، ۵۶۴۷، ۵۶۶۱، ۵۶۶۵_ ۵۶۶۶، ۵۷۵۶_ ۵۷۵۷، ۵۷۶۱، ۵۷۶۵_ ۵۷۶۸، ۵۷۷۱_ ۵۷۷۲، ۵۷۹۰، ۵۷۹۴، ۵۸۶۸، ۵۹۲۳، ۵۹۲۸، ۶۱۹۶

شاہ حسین: (ج_۱) ۳۵۹

شاہ حسین، حاجی (مرشد سید امام علی شاہ): (ج_۶) ۳۶۲۶، ۳۷۶۷

شاہ حسین، خلیفہ (امرتسر): (ج_۶) ۳۴۴۱

شاہ حسین، سید: (ج_۲) ۱۲۱۵

شاہ حسین گردیزی: (ج_۱) ۳۰، (ج_۴) ۲۵۲۵، (ج_۵) ۲۵۳۶، ۲۵۵۵

شاہ حسین، میاں: (ج_۳) ۱۴۲۳

شاہ حسین ہوتک (بادشاہ قندھار): (ج_۶) ۳۷۱۳، ۳۷۱۵، (ج_۱۰) ۵۹۵۰

شاہ رخ مرزا: (ج_۴) ۲۰۵۲

شاہ رسول بالاگھڑی: (ج_۶) ۳۸۷۱

شاہ رُخ، میرزا: (ج۔۳) ۱۸۶۲

شاہ زمان: (ج۔۱) ۴۰۱، (ج۔۶) ۳۳۴۱

شاہ سکندر: (ج۔۷) ۴۱۷۳، (ج۔۸) ۴۸۵۳

شاہ عالم ثانی: (ج۔۴) ۲۰۵۶، ۲۱۸۸

شاہ علی بیداوازی: (ج۔۸) ۴۸۴۶،

شاہ عیسیٰ، پیر (صوفی بزرگ): (ج۔۱۰) ۵۹۰۳

شاہ فضیل: (ج۔۸) ۴۸۴۱، ۴۸۵۹،

شاہ قادر، ملا: (ج۔۴) ۲۲۸۱

شاہ گل خواجہ حسن جان: (ج۔۲) ۷۰۴

شاہ محمد بدخشی، ملا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۷، ۵۸۸۸

شاہ محمد، سید: (ج۔۲) ۱۲۰۸

شاہ محمد، شیخ: (ج۔۱) ۴۱۲

شاہ محمد، فرزند خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

شاہ محمد قریشی عباسی لاہوری: (ج۔۱۰) ۵۹۳۵

شاہ محمد لدھیانوی، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

شاہ محمد مجددی دہلوی مدنی، ابوشرف: (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۸

شاہ محمد ملک پوری، خواجہ (خلیفہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

شاہ مراد سہروردی علامہ: (ج۔۸) ۴۸۶۲،

شاہ مراد، غازی (بادشاہ بخارا): (ج۔۶) ۳۸۷۵

شاہ مردان شاہ اول، سید (پیر پگارا): (ج۔۶) ۳۵۷۱

شاہ مردان شاہ ثانی، پیر سکندر (پیر پگارا، ہفتم): (ج۔۶) ۳۵۷۱، ۳۵۷۳۔۳۵۷۴

شاہ مسافر: (ج۔۸) ۴۸۷۶،

شاہ موسیٰ الجون، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۸،

شاہ میر پشاوری، سید میر: (ج۔۶) ۳۴۳۳، ۳۵۶۷، (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

شاہ میر قادری لاہوری، میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۸۸

شاہ ولی خان (وزیر اعظم احمد شاہ ابدالی): (ج۔۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۶، ۳۵۶۰

شاہد احمد: (ج۔۱۰) ۶۱'۹۳، ۶۴۹۴

شاہد احمد خان مسعودی: (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴

شاہد خان (ماہنامہ فیض): (ج۔۱۰) ۶۴۳۴

شاہنواز خان، صمصام الدولہ: (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۹) ۵۱۵۵، (ج۔۱۰) ۵۹۲۶

شبابۃ: (ج۔۷) ۴۳۰۴

شبرغانی، مولانا: (ج۔۱) ۲۹۹

شبری سیالکوٹی، ملا: (ج۔۵) ۲۵۶۲

شبستری، شیخ (شاعر): (ج۔۶) ۳۲۸۷

شبلی، شیخ: (ج۔۳) ۱۶۵۵، (ج۔۷) ۴۱۹۷، (ج۔۸) ۴۷۴۷، ۴۸۰۷

شبلی، صوفی: (ج۔۲) ۸۳۱، ۱۲۰۰

شبلی نعمانی، علامہ: (ج۔:) ۷۲۸، (ج۔۳) ۱۵۹۶، ۱۷۲۳، ۱۷۶۴، (ج۔۴) ۲۲۸۹، ۳۰۲۵، ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۶۳۲، ۳۹۵۱

شبیر احمد خان غوری: (ج۔۹) ۵۳۷۳، ۵۳۸۲۔۵۳۸۳، ۵۳۸۶، (ج۔۱۰) ۵۶۵۹۔۵۶۶۰

شبیر احمد سعدی سعید: (ج-۳)۱۳۶۹

شبیر احمد شاہ، سید: (ج-۶)۳۷۹۴

شبیر احمد، شیخ: (ج-۲)۷۳۵

شبیر احمد عثمانی، مولانا: (ج-۲) ۸۰۷، (ج-۶) ۳۹۵۱، (ج-۱۰)۶۱۱۷

شبیر حسین شاہ زاہد، پروفیسر سید: (ج-۲) ۴۸۹، ۹۰۵، (ج-۳) ۱۵۰۴، (ج-۵) ۲۵۵۴، (ج-۶) ۳۹۵۱، (ج-۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۲، ۶۴۹۲-۶۴۹۳

شجاع الرحمن نعیمی، مولانا: (ج-۱۰)۶۴۰۳

شجاع الملک، شاہ (والی افغانستان): (ج-۶) ۳۵۶۹، ۳۷۰۵، ۳۷۲۲، ۳۸۴۵

شجاع شاہ: (ج-۶)۳۳۴۱

شجاع ملک، نواب (نواب چترال): ج-۶)۳۸۵۲

شجاعت علی قادری، سید مفتی جسٹس: (ج-۶) ۳۶۶۸-۳۶۶۹

شجاعت علی مجاہد. (ج-۱۰)۶۰۸۷

شداد: (ج-۶)۳۴۸۹، (ج-۷)۴۰۱۳

شرف الدین محمود مخز دفانی، شیخ: (ج-۸)۴۸۴۶.

شرافت حافظ: (ج-۱۰)۶۴۹۴

شرف الدین درس ولد بلال درس: (ج-۶)۳۴۷۶

شرف الدین، الحاج ملا (ج-۵)۲۱۹۲، ۲۷۶۳

شرف الدین الدمیاطی، حافظ (ج-۷)۴۲۸۵، ۴۲۸۷

شرف الدین بوصیری، امام (ج-۷)۴۲۷۳

شرف الدین چشتی، مولوی (مرشد سید محمد اسمٰعیل شاہ کرمانوالہ اوکاڑہ). (ج-۶)۳۷۱۹

شرف الدین حسین، پیر: (ج-۹)۵۵۳۳

شرف الدین حسین، خواجہ: (ج-۲)۱۲۰۹، (ج-۳)۱۸۶۳، (ج-۹)۵۴۱۶

شرف الدین حسین، میر: (ج-۱۰)۵۹۲۸

شرف الدین، خواجہ: (ج-۹)۵۲۱۵

شرف الدین سعدی، شیخ: (ج-۸)۴۷۹۳،

شرف الدین، سید: (ج-۱)۲۲۹، (ج-۸)۴۸۵۹،

شرف الدین، شیخ: (ج-۶)۳۲۴۴

شرف الدین، صوفی (مرید خواجہ فضل علی قریشی): (ج-۱۰) ۶۰۴۸

شرف الدین کشمیری: (ج-۶)۳۸۳۳-۳۸۳۴، ۳۸۶۳

شرف الدین، میر (فرزند سید میر عبداللہ بخاری اکبرپوری): (ج-۱۰)۵۸۷۶

شرف النساء: (ج-۹)۵۵۲۵

شرف النساء (والد علامہ سید حبیب احمد نقشبندی): (ج-۱۰) ۶۰۷۲

شرف نقشبندی، خواجہ: (ج-۱۰)۶۰۷۲

شریف احمد شرافت، سید: (ج-۶)۳۳۳۸

شریف الحق امجدی، مفتی: (ج-۵)۲۹۱۳

شریف الدین چشتی فیروزپوری: (ج-۱۰)۶۰۷۵

شریف الدین، خواجہ. (ج-۶)۳۹۵۱

شریف آملی (ایرانی شیعہ عالم): (ج-۱۰)۵۷۰۱

شریف جرجانی، سید (ج-۴)۲۲۳۶، (ج-۹)۵۱۷۵، ۵۱۷۸

شریف خاں شیرازی: (ج۔۳)۱۷۲۰
شریف زندنی، حاجی: (ج۔۸)۴۸۵۶،
شریف عامل، مُلّا: (ج۔۴)۲۱۰۷
شریف علی، امیر: (ج۔۹)۵۲۹۴
شستر بیٹی (مستشرق): (ج۔۵)۲۶۷۵
شعبی: (ج۔۲)۷۰۲
شعبة: (ج۔۷)۴۲۹۵
شعرانی، امام: (ج۔۴)۲۳۳۱، (ج۔۷)۴۴۰۹، (ج۔۸) ۴۶۲۹۔۴۶۳۱، (ج۔۹)۵۳۵۷
شعیب (علیہ السلام): (ج۔۱)۲۳۳
شعیب افتخار مسعودی، سید: (ج۔۱)۲، ۵۰، (ج۔۲)۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، (ج۔۶) ۳۱۲۲، (ج۔۷) ۳۹۸۶، (ج۔۸) ۴۴۸۲، (ج۔۹) ۴۹۹۴، ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۸۶، ۵۵۹۳، ۵۸۱۳
شعیب الارنوؤا (محقق زاد المعاد): (ج۔۶)۳۹۵۶
شعیب، شیخ: (ج۔۱)۴۰۸، (ج۔۸)۴۵۰۹، ۴۸۳۸،
شعیب پکھی، شیخ: (ج۔۶)۳۶۹۰
شفقت احمد نقشبندی، علامہ: (ج۔۱۰) ۶۰۸۷، ۶۰۹۴، ۶۴۳۵
شفیع بریلوی: (ج۔۴)۲۱۶۶، (ج۔۶)۳۹۵۱
شفیع محمد پاٹائی، قاضی (بزرگ دادو): (ج۔۶)۳۶۹۰
شفیع محمد قادری: (ج۔۵)۲۹۱۳
شفیق احمد میاں، حاجی: (ج۔۱۰)۶۰۷۷
شفیق علی خان: (ج۔۳)۱۳۷۰، (ج۔۴)۲۰۸۴، ۲۰۹۰، ۲۱۱۱، ۲۱۶۶
شقیق بن سلمة: (ج۔۷)۴۳۰۱
شکر اللہ ٹھٹوی، سید: (ج۔۶)۳۵۵۸
شکور ایم۔ اے: (ج۔۵)۲۹۴۴
شکیب ارسلان، امیر: (ج۔۵)۲۹۲۴، ۲۹۴۳، ۳۰۲۱
شمس الدین: (ج۔۴)۲۴۳۱
شمس الدین احمد، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۲، ۱۹، ۲۲۳، ۴۶۰، (ج۔۳)۱۸۶۳، (ج۔۶)۳۹۵۱
شمس الدین التمش، سلطان: (ج۔۴) ۲۰۸۷، (ج۔۵) ۲۹۱۶، (ج۔۸)۴۹۰۹
شمس الدین الذہبی: (ج۔۹)۵۱۵۶
شمس الدین آقا، میر: (ج۔۶)۳۳۰۱
شمس الدین بلبل، شاعر: (ج۔۶)۳۶۱۷
شمس الدین ترک پانی پتی: (ج۔۴) ۲۰۵۰، (ج۔۸) ۴۸۵۷
شمس الدین، جدامجد شاہ فقیر اللہ علوی): (ج۔۶)۳۵۵۴
شمس الدین، حکیم (نوشہرہ والے): (ج۔۶)۳۶۱۰
شمس الدین خلخالی، میر: (ج۔۴)۲۴۱۸
شمس الدین روجی، مولانا (خلیفہ خواجہ محمد پارسا): (ج۔۱۰) ۶۱۰۲
شمس الدین سیالوی، خواجہ: (ج۔۵) ۲۷۲۵، (ج۔۱۰) ۵۹۷۶
شمس الدین شاہ (عرف شاہ مرزا، حاکم کشمیر): (ج۔۶) ۳۸۰۴۔۳۸۰۵
شمس الدین، شہزادہ (عرف دول بادشاہ، سندھ): (ج۔۱۰)۵۹۰۹

شمس الدین صحرائی: (ج۔۸)۴۸۵۹،

شمس الدین عارف: (ج۔۸)۴۸۶۱،

شمس الدین علوی، شیخ: (ج۔۴)۱۹۵۲

شمس الدین کلاں، شیخ: (ج۔۷)۴۰۹۲

شمس الدین کمبوہ، ملک: (ج۔۱۰)۵۹۰۳، ۶۴۳۳، ۶۴۴۰

شمس الدین محمد، سید: (ج۔۶)۳۴۳۳

شمس الدین، مرشد صالح شاہ): (ج۔۶)۳۵۶۷

شمس الدین، مرشد محمد غوث، سلسلۂ قادریہ): (ج۔۶) ۳۵۶۷

شمس الدین مصری: (ج۔۵)۲۸۰۴

شمس الدین، مولانا: (ج۔۵)۲۶۴۶، ۲۶۵۱

شمس الدین، مولوی: (ج۔۱۰)۶۰۴۷

شمس الدین نقشبندی: (ج۔۱۰)۶۴۳۳، ۶۴۴۰

شمس الدین یحییٰ بدخشاں، سید: (ج۔۴)۲۳۶۵، (ج۔۹) ۵۵۱۷

شمس تبریز (صوفی): (ج۔۷)۴۱۴۷، (ج۔۱۰)۵۷۷۸

شمس، فقیر: (ج۔۱)۴۶۱

شمشیر خان، نواب: (ج۔۴)۲۲۸۴، (ج۔۱۰)۵۷۷۰

شور بازار، ملا (فضل عمر): (ج۔۵)۲۸۰۷، ۲۸۱۱، (ج۔۶) ۳۳۱۰، ۳۳۲۸، ۳۳۳۵، ۳۴۱۸، (ج۔۸) ۴۸۶۹، (ج۔۹)۵۵۷۲، ۵۵۷۷

شوق امرتسری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۵۹۵۵

شوکت حسن خاں، مولانا: (ج۔۵)۲۹۱۳

شوکت علی جوہر، مولانا: (ج۔۶) ۳۴۸۹، ۳۷۵۶، (ج۔۱۰)۵۹۵۵

شوکت محمود، سید: (ج۔۱۰)۵۸۸۸

شہاب الدین: (ج۔۹)۵۱۸۷

شہاب الدین رضوی: (ج۔۵)۲۹۱۲

شہاب الدین، سلطان: (ج۔۷)۴۱۶۹

شہاب الدین سہروردی، شیخ: (ج۔۱)۱۸۲، ۱۸۳، (ج۔۲) ۵۱۶، ۵۷۰، ۵۸۵، ۶۱۶، ۱۰۲۰، ۱۰۲۸، ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۴) ۲۵۰۰، (ج۔۵) ۲۹۲۳، (ج۔۶) ۳۸۸۴، ۳۹۵۱، (ج۔۷) ۴۳۱۰۔۴۳۱۱، (ج۔۸)۴۹۵۱، ۴۸۵۴، (ج۔۹)۵۲۷۱، ۵۲۷۳، ۵۴۲۱، ۵۴۴۸، ۵۴۶۷

شہاب الدین، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۰۴، (ج۔۸) ۴۵۰۹، (ج۔۹)۵۳۷۷، ۵۴۷۱

شہاب الدین علی کابلی (عرف فرخ شاہ، جداعلیٰ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰)۵۲۳۸

شہاب الدین عمر سہروردی: (ج۔۸)۴۸۴۵

شہاب الدین غوری، سلطان: (ج۔۳) ۱۳۶۳، (ج۔۴) ۲۰۷۹، ۲۰۸۴، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷

شہاب الدین (فرخ علی شاہ) کابلی: (ج۔۵) ۲۵۶۰، (ج۔۸)۴۸۳۸

شہاب الدین فضل اللہ توریشتی، امام: (ج۔۴)۲۵۲۶

شہاب الدین (مخدوم، خلیفہ: (ج۔۶)۳۴۴۱

شہاب الدین مرجانی، علامہ: (ج۔۵)۲۶۹۲

شہاب الدین (مولانا: (ج۔۱۰)۶۱۰۴

شہادت اللہ برایخی، مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۳۷

شہباز قلندر نقشبندی، اخون: (ج_۶) ۳۸۲۸_۳۸۲۹، ۳۸۳۲، ۳۸۴۲، ۳۸۴۷

شہباز قلندر (خواجہ عثمان مروندی): (ج_۶) ۳۴۱۶، (ج_۱۰) ۵۹۲۵

شہباز مومند پی، شیخ (المعروف شیخ بابا پیو): (ج_۱۰) ۵۸۶۹

شہر بن حوشب: (ج_۷) ۴۳۱۳_۴۳۱۵

شہرورزی مدنی، علامہ: (ج_۳) ۱۵۶۴

شہریار: (ج_۵) ۳۰۴۹

شہزاد احمد، شاعر: (ج_۱۰) ۵۷۷۸

شہزادہ جان آغا: (ج_۶) ۳۳۲۶، ۳۳۳۱، ۳۳۳۴

شہمیر، حاجی (بدین): (ج_۶) ۳۶۸۹

شہید، شیخ: (ج_۳) ۱۷۳۷

شیبان بن فروح: (ج_۲) ۶۱۳، ۶۱۴

شیبانی، علامہ: (ج_۲) ۵۸۶، ۶۰۸

شیبہ سندھی: (ج_۶) ۳۴۱۵

شیث (علیہ السلام): (ج_۶) ۳۸۸۴، (ج_۱۰) ۶۰۴۹، ۶۰۵۰

شیخ الاسلام، شیخ: (ج_۱۰) ۵۸۹۲

شیخ الدلائل مدنی (مرشد محمد شفیع اوکاڑوی): (ج_۶) ۳۵۹۵

شیخ انصاری شیخ الاسلام: (ج_۳) ۱۳۷۶

شیخ بن مصطفیٰ، شیخ: (ج_۶) ۳۲۰۴

شیخ پاپینی، اخوند (خلیفہ حاجی بہادر کوہائی): (ج_۱۰) ۵۸۸۹

شیخ سرہندی (خلیفہ شیخ احمد): (ج_۴) ۱۹۴۰

شیخ صوفی: (ج_۲) ۶۶۸

شیخی، میاں: (ج_۲) ۱۲۱۵، (ج_۳) ۱۴۲۲

شیدن، میاں: (ج_۳) ۱۷۶۳

شیر باز خان، راجہ: (ج_۱۰) ۵۹۳۹

شیر بہادر پینی، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۵۸۹۲

شیر ربانی اسدی، صاحبزادہ: (ج_۶) ۳۸۰۵

شیر شاہ سوری: (ج_۴) ۲۳۹۷، (ج_۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۴۷، ۵۷۹۴، ۵۸۸۷

شیر محمد اخوند، مولانا: (ج_۶) ۳۷۲۲، ۳۸۹۹، (ج_۱۰) ۵۸۸۱، ۵۸۹۴

شیر محمد خان رضوی، مولانا: (ج_۸) ۴۹۹۰، (ج_۹) ۵۰۰۰، ۵۰۱۶

شیر محمد خان، جھجری: (ج_۱۰) ۶۱۹۳، ۶۱۹۵_۶۱۹۷

شیر محمد خاں، مولوی: (ج_۵) ۲۶۲۰

شیر محمد، خواجہ مولوی (خلیفہ ہادی نامدار شاہ): (ج_۱۰) ۶۰۰۲

شیر محمد شاہ گیلانی، سید: (ج_۱۰) ۵۹۴۳

شیر محمد شرقپوری، میاں: (ج_۳) ۱۴۰۷، (ج_۴) ۲۵۱۲، (ج_۶) ۳۵۹۱، ۳۷۵۶، ۳۷۶۷، ۳۷۷۰، ۳۷۷۳_۳۷۸۴، ۳۷۸۷، (ج_۸) ۴۴۸۵، ۴۸۶۹، (ج_۹) ۵۲۲۱، (ج_۱۰) ۵۸۵۷، ۵۹۴۰، ۵۹۵۵، ۶۰۷۵، ۶۴۲۹، ۶۴۴۵

شیر محمد کابلی (مرید خواجہ محمد زمان لواری شریف): (ج_۶) ۳۵۷۴

شیر محمد، مرید عثمان علی شاہ کرماں والے) : (ج_۱۰) ۶۰۷۷_۶۰۷۸

شیر محمد، مولانا: (ج_۳) ۱۴۲۴

شیر محمد، نظامانی (ٹنڈو قیصر): (ج_۶) ۳۴۴۳

شیر محمد نقشبندی، علامہ مفتی : (ج_۵) ۲۸۲۰، (ج_۱۰) ۶۴۴۳

شیر نوروز خان: (ج_۲) ۷۲۸

شیراز حافظ، خواجہ: (ج_۱) ۲۳۴

شیرازی (راوی حدیث): (ج_۷) ۴۳۰۷

شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ، ابوشجاع : (ج_۲) ۵۸۶، ۶۰۳، ۶۱۱

شیرین جان آغا: (ج_۶) ۳۳۱۰، ۳۳۳۴، ۳۶۶۶

شیرین خان ناصر (مصنف): (ج_۱۰) ۵۹۸۹

شیواجی: (ج_۵) ۲۵۶۴

شیوالا، ہندو (زمیندار جیکب آباد): (ج_۶) ۳۷۳۵

ص

صابر اقبال، ڈاکٹر: (ج_۱) ۱۰۲

صابر بن حاجی (جد اعلیٰ قاضی احمد دمائی): (ج_۶) ۳۴۷۷

صابر حسین بخاری، سید: (ج_۱۰) ۵۸۱۱

صابر حسین شاہ قادری، سید : (ج_۸) ۴۹۹۲، (ج_۹) ۵۰۰۲، ۵۵۶۷

صابر حسین شاہ، سید: (ج_۵) ۲۸۹۹، ۲۹۱۰

صابر درویش ولہاری (صوفی حیدر آباد): (ج_۶) ۳۴۶۱، ۳۶۹۳

صابر، شیخ: (ج_۶) ۳۴۲۹

صابر کلوری، پروفیسر: (ج_۵) ۳۰۴۲، ۳۰۴۴

صاحب جان شیرنی، ملک: (ج_۱۰) ۵۹۵۹

صاحب داد، مفتی (صوفی شکار پور): (ج_۶) ۳۶۹۵

صاحب داد، ملا (ہمعصر شاہ فقیر اللہ علوی): (ج_۶) ۳۵۵۸

صاحبداد سلطان کوٹی، مولوی: (ج_۶) ۳۶۰۳

صاحبقراں، امیر تیمور: (ج_۵) ۳۰۷۹

صادق علی، شاہ: (ج_۶) ۳۳۶۶، ۳۳۶۸، ۳۳۷۲_۳۳۷۳، ۳۳۷۵، ۳۶۴۰، ۳۷۶۷

صادق، امام: (ج_۵) ۲۶۴۳

صادق حلوائی، مولانا: (ج_۶) ۳۳۴۳

صادق کابلی، مولانا: (ج_۴) ۲۳۹۴، (ج_۹) ۵۱۲۶

صادق، ملا: (ج_۱) ۲۹۳

صالح اوز جان: (ج_۵) ۲۸۳۳

صالح بدخشی کولابی، مولانا: (ج_۱۰) ۵۶۵۸

صالح بن ابراھیم جینی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۸۲، ۳۲۲۸، ۳۲۳۸، ۳۲۴۱

صالح بن احمد : (ج_۲) ۵۱۵

صالح بن احمد مرادی، شیخ. (ج_۶) ۳۲۴۰

صالح بن مبارک، خواجہ: (ج_۷) ۴۰۶۶

صالح ترک، ملا: (ج_۲) ۷۱۹

صالح ختلانی، مولانا (خلیفہ مجدد الف ثانی) : (ج_۴) ۱۹۴۳، (ج_۸) ۴۵۶۸، (ج_۹) ۵۲۴۴

صالح شاہ (مرشد سید عبدالقادر): (ج۔۶)۳۵۶۷

صالح کوفتارو، شیخ: (ج۔۶)۳۲۴۹

صالح کولابی بدخشی، ملا: (ج۔۱)۷۶، (ج۔۲)۵۰۹، ۱۰۲۳، (ج۔۸)۴۹۰۹، (ج۔۹)۵۱۲۶

صالح گولامی، مولانا: (ج۔۸)۴۵۵۹

صالح محمد (والد حافظ عبدالغفور پشاوری نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۶۰

صالح محمد آخوند (استاد خواجہ فیض الحق جان چشموی): (ج۔۶)۳۷۲۰، ۳۷۲۶

صالح مدنی، شیخ: (ج۔۶)۳۸۳۹

صالح (والد جامع العتیق امام): (ج۔۵)۲۸۴۷

صالحہ بی بی: (ج۔۹)۵۵۲۵

صبا مسعودی، سیدہ: (ج۔۱)۲، ۳۵، (ج۔۲)۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، ۳۱۲۰، (ج۔۶)۳۱۲۲، ۳۱۳۲، ۳۹۳۸، (ج۔۱۰) ۶۴۹۳۔۶۴۹۴

صباح الدین عبدالرحمٰن، سید: (ج۔۹) ۵۱۵۳۔۵۱۵۴، ۵۳۲۱، ۵۳۷۳۔۵۳۷۴، ۵۳۸۳، ۵۳۸۶، ۵۳۹۵، ۵۴۲۲

صبغت اللہ: (ج۔۹)۵۳۶۴، ۵۴۸۶، ۵۵۴۸۔۵۵۵۰

صبغت اللہ بروہی، قدوۃ العارفین: (ج۔۵)۲۸۸۴

صبغت اللہ، خواجہ: (ج۔۶)۳۴۴۴، ۳۴۷۰

صبغت اللہ، شاہ (پیر ایرانی): (ج۔۶)۳۴۴۲، ۳۴۴۹

صبغت اللہ شاہ، پیر سید: (ج۔۶) ۳۵۶۷، ۳۵۷۱۔ ۳۵۷۳

صبغت اللہ، فاروقی خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۷،

صبغت اللہ مجددی، شیخ: (ج۔۴) ۲۱۸۱، ۲۱۹۶، ۲۲۰۰، (ج۔۶)۳۳۰۰، ۳۳۱۰

صبغت اللہ، مولانا: (ج۔۲)۶۰۲

صبور احمد محمودی: (ج۔۸، ۴۸۶۳، (ج۔۱۰)۶۵۳۰

صدرالدین: (ج۔۸)۴۸۴۵،

صدرالدین اودی: (ج۔۸)۴۸۴۲،

صدرالدین، حافظ (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹

صدرالدین سرھندی، خواجہ مولوی: (ج۔۱۰)۶۰۰۲

صدرالدین، شاہ: (ج۔۶)۳۴۳۱

صدرالدین عارف سہروردی: (ج۔۸)۴۸۵۵،

صدرالدین، قاضی (استاد قاضی محمد شمس الدین نقشبندی): (ج۔۶)۳۸۴۶

صدرالدین قونوی: (ج۔۸)۴۹۶۰، (ج۔۹)۵۱۷۸

صدرالدین لاہوری، قاضی: (ج۔۵)۲۵۵۵

صدر جہاں، سید: (ج۔۱)۱۴۳، (ج۔۲) ۸۴۵، (ج۔۳) ۱۲۸۵، ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۴۱۵، ۱۸۰۹، (ج۔۴) ۱۹۵۴، ۱۹۶۴، ۱۹۶۶، ۱۹۷۰، ۱۹۹۶۔ ۱۹۹۷، ۲۰۱۷، ۲۰۶۹، ۲۱۳۲، ۲۱۴۶، ۲۱۶۲، ۲۲۰۷، ۲۴۵۹، (ج۔۵) ۲۷۷۸، ۲۸۷۳، (ج۔۷) ۴۱۸۱۔ ۴۱۸۵، (ج۔۹) ۵۰۹۴، ۵۱۰۰

صدر جہاں، مفتی: (ج۔۳) ۱۴۱۰، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۶۵۹، ۵۷۰۶، ۵۷۶۶

صدر، شیخ (ہمعصر ابوالفضل): (ج۔۴)۱۹۹۹

صدیق احمد ضیاء، مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۸۷

صدیق احمد مجددی، پشاوری میاں: (ج۔۱۰)۵۸۷۹

صدیق حسن خاں، نواب: (ج۔۱)۲۱، (ج۔۲)۴۸۸، ۵۰۱، ۷۳۵، (ج۔۳) ۱۸۸۵، (ج۔۴) ۱۹۵۱، ۱۹۸۴، ۲۲۱۱، ۲۲۲۳، ۲۳۳۳، ۲۴۴۶، ۲۴۵۴، (ج۔۵) ۲۵۷۸، ۲۸۲۷، ۲۸۴۱، (ج۔۶) ۳۵۵۰، ۳۹۵۱، (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۱۵۴، ۵۱۹۶، ۵۳۳۹، ۵۳۴۱، ۵۳۵۷، ۵۴۲۵۔ ۵۴۲۶، (ج۔۱۰) ۵۶۲۶، ۵۶۳۲، ۵۶۳۸۔ ۵۶۳۹، ۵۶۹۱۔۵۶۹۲، ۵۶۹۵، ۵۷۶۲

صدیق ضیاء انجینئر، صوفی: (ج۔۴) ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۳۰۸۴

صغیر احمد مخدومی، شیخ: (ج۔۴)۱۹۴۱

صغیر احمد، مولانا: (ج۔۴)۲۳۹۴

صغیر الدین، ابوالفتح ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۵۸۸۵، ۶۱۱۲

صفدر حیات صفدر: (ج۔۴) ۱۹۹۲۔۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۱، (ج۔۶)۳۹۵۲

صفر احمد رومی، میر: (ج۔۹)۵۰۶۰۔۵۰۶۱

صفر احمد معصو: شخ (نواسۂ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۵) ۲۶۶۱۔ ۲۶۶۳، ۲۶۶۶۔ ۲۶۶۹، ۳۱۰۹، (ج۔۶) ۳۹۵۱، (ج۔۹) ۵۰۶۳، ۵۲۴۹، ۵۳۶۴، ۵۵۴۸۔ ۵۵۴۹، ۵۵۵۱، (ج۔۱۰) ۵۸۶۳، ۵۸۶۵، ۵۸۸۵، ۵۹۴۵، ۶۳۶۳۔۶۳۶۴

صفر علی خان بدخشی طالقانی: (ج۔۱۰)۶۲۲۶

صفوان بن عسال: (ج۔۲)۵۲۱

صفوان بن محرز: (ج۔۲)۵۲۲

صفی الدین القشاشی (مرشد شیخ الحسن العجمی): (ج۔۶) ۳۶۵۳

صفی الدین کازرونی، شیخ: (ج۔۴)۲۰۴۸، ۲۰۶۳، ۲۰۸۵

صفی الدین مسعودی، ڈاکٹر: (ج۔۱)۳۴، (ج۔۵)۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۲۶۷، ۳۲۷۵، (ج۔۱۰) ۵۵۸۶، ۶۴۳۰، ۶۴۹۲

صفی القدر مجددی، خواجہ: (ج۔۵)۲۵۸۲، (ج۔۱۰)۶۱۸۲

صفی اللہ سرہندی، خواجہ: (ج۔۱۰)۶۱۲۸

صفی اللہ، خواجہ قیوم جہاں: (ج۔۶) ۳۳۰۹، ۳۳۱۷، ۳۳۲۸، ۳۴۱۷۔ ۳۴۱۹، ۳۴۲۲، ۳۴۴۰۔ ۳۴۴۱

صفی اللہ، شاہ (مرشد شاد عبد الباقی): (ج۔۶)۳۶۲۶

صفی اللہ شاہ، خواجہ قیوم جہاں: (ج۔۶)۳۳۱۴، ۳۳۲۶

صفی اللہ مجددی، خواجہ (مرشد مخدوم عبد الواحد سیوستانی): (ج۔۶)۳۵۱۴۔ ۳۵۱۵

صفی اللہ، ملا: (ج۔۶)۳۹۰۸

صفیہ بی بی: (ج۔۹)۵۵۴۸

صفیہ (رضی اللہ عنہا): (ج۔۷)۴۳۷۹

صلاح الدین ایوبی، سلطان: (ج۔۵) ۲۶۸۷، (ج۔۶) ۳۱۷۶

صلاح الدین خان: (ج۔۹)۵۴۰۹

صلاح الدین خواجہ بن فضل الدین خواجہ خوقندی: (ج۔۵) ۲۶۷۶

صلاح الدین، سید: (ج۔۹)۵۱۴۰

صلاح الدین ناسک: (ج۔۴)۲۱۶۶، (ج۔۶)۳۹۵۲

صلاح پتی کوٹی، ملا: (ج۔۶)۳۵۵۸

صوبہ، میاں (خلیفہ خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

صورت خان ترین، سردار: (ج۔۶)۳۷۱۵۔ ۳۷۱۶

صوفی، سید: ۳۴۳۳

صوفی، شیخ: (ج۔۳) ۱۴۳۴، (ج۔۵) ۲۹۷۵، ۳۰۲۵، ۳۰۰۴

ض

ضحاک: (ج۔۹) ۵۲۶۱

ضیاالله، کرنل: (ج۔۶) ۳۵۵۲

ضیاءاللہ نقشبندی، خواجہ: (ج۔۹) ۵۰۱۸

ضیاء احمد جان سرہندی، ملیر والے: (ج۔۶) ۳۵۲۶، ۳۶۱۹، ۳۶۹۱

ضیاءالحق: (ج۔۶) ۳۴۲۶

ضیاءالحق، شاہ شہید شاہ غلام نبی: (ج۔۶) ۳۷۰۶

ضیاءالحق، شیخ: (ج۔۸) ۴۵۰۹

ضیاء الدین آفندی، شیخ عمر: (ج۔۶) ۳۲۵۹۔ ۳۲۶۱، ۳۲۶۴۔ ۳۲۶۵، ۳۲۶۸، ۳۲۸۱، ۳۲۸۳، ۳۲۸۵، ۳۲۸۸

ضیاءالدین، ابونجیب: (ج۔۸) ۴۸۵۵، ۴۸۶۲،

ضیاءالدین اچکزئی، مولوی: (ج۔۵) ۲۶۴۶

ضیاءالدین احمد بن مصطفیٰ، شیخ: ۵۰۲۰

ضیاء الدین احمد قادری مدنی، مفتی: (ج۔۱) ۱۱، ۱۸، ۱۴۸، (ج۔۵) ۲۹۰۵، ۲۹۰۸، (ج۔۶) ۳۵۹۴، ۳۷۹۱، (ج۔۹) ۵۰۶۶، (ج۔۱۰) ۵۶۹۱۔ ۵۶۹۲، ۵۸۰۱، ۵۸۱۰

ضیاءالدین برنی (مورخ): (ج۔۱۰) ۵۸۲۵

ضیاءالدین پیلی بھیتی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۰۶

ضیاءالدین ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۶۸۷

ضیاءالدین داغستانی، حافظ عمر: (ج۔۵) ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۲۵۷

ضیاءالدین سرہندی، شاہ (صحفہ والے): (ج۔۶) ۳۴۷۲

ضیاءالدین سہروردی، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۴۹

ضیاءالدین شامی، امام: (ج۔۳) ۱۵۲۹، ۱۵۵۸، (ج۔۶) ۳۹۵۲

ضیاءالدین، شیخ: (ج۔۲) ۱۲۱۵، (ج۔۶) ۳۲۵۸، ۳۲۸۰

ضیاءالدین کردی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۸۶۱، (ج۔۶) ۳۲۲۷

ضیاءالدین نقشبندی، شیخ عمر: (ج۔۱) ۹۹

ضیاءالدین، مخدوم (استاد مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی): (ج۔۶) ۳۴۷۵، ۳۶۵۲، ۳۶۵۴۔ ۳۶۵۵

ضیاءالرحمٰن صدیقی نقشبندی سیفی: (ج۔۱۰) ۶۴۱۳

ضیاءاللہ کشمیری، خواجہ: (ج۔۶) ۳۹۰۹، (ج۔۱۰) ۵۸۹۲

ضیاءاللہ نقشبندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۶۱

ضیاءالمصطفیٰ، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۱۳

ضیاءعبدالغنی صالحی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۲

ضیاءعلی خان اشرفی: (ج۔۵) ۲۹۱۰

ضیائے احمد، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۷

ضیائے معصوم مجددی کابلی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۰۹، ۳۳۱۱۔ ۳۳۱۵، ۳۳۱۷۔ ۳۳۲۶، ۳۳۲۸۔ ۳۳۲۹، ۳۳۳۱۔ ۳۳۳۳، ۳۳۳۵، ۳۳۳۹، ۳۳۴۲، ۳۳۶۹، ۳۵۴۳۔ ۳۵۴۵، ۳۵۴۹، ۳۵۵۲۔ ۳۵۵۳، ۳۶۴۶، ۳۸۲۷

ط

طالوت (رضی اللہ عنہ): (ج۔۱۰) ۶۱۹۹

طارق بن محمد: (ج۔۷) ۴۳۸۰

طارق سلطانپوری: (ج۔۱۰) ۶۴۹۲

طارق مجاہد جہلمی: (ج۔۵) ۲۹۷۷۔ ۲۹۷۸، ۳۰۱۲، (ج۔۶) ۳۹۵۲

طاش کبری زادہ، علامہ: (ج۔۵) ۲۶۹۷، ۲۸۵۱، ۲۸۵۶۔۲۸۵۷

طالب حسین شاہ، سید مولانا (خلیفہ سید فیض محمد قندھاری): (ج۔۱۰) ۵۸۵۹

طالوت: ۳۰۹۹

طاؤس: (ج۔۷) ۴۳۰۵

طاہر الدین، منشی: (ج۔۵) ۳۰۲۲

طاہر القادری، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۷۳۶

طاہر بدخشی، مولانا: (ج۔۲) ۵۰۹، ۷۵۶، ۶۵۷، ۶۷۶، ۱۲۰۴، (ج۔۳) ۱۳۷۳، (ج۔۴) ۲۳۷۹، ۲۴۳۰، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۸) ۴۵۵۲، ۴۵۵۹، ۴۹۱۸، (ج۔۹) ۵۰۲۶، ۵۱۲۶۔ ۵۱۲۷، ۵۴۸۹، ۵۵۱۸، (ج۔۱۰) ۵۶۵۹، ۶۲۵۹

طاہر بن عبداللہ مرادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۱

طاہر بن عمر خربوتلی آمدی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۳۷، ۳۲۳۹

طاہر بن ملا: (ج۔۲) ۵۱۵، ۶۷۶

طاہر بندگی، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۶۶، (ج۔۱۰) ۵۹۹۰، ۶۳۵۶

طاہر پٹنی، محدث: (ج۔۷) ۴۳۶۶

طاہر سارنگ زئی، ملا (المعروف بابا خرواری): (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

طاہر، شیخ حاجی (بدین): (ج۔۶) ۳۶۸۹

طاہر، شیخ مجذوب (المعروف بہ اڈیرو لال): (ج۔۶) ۳۵۰۸

طاہر عبدالرزاق، علامہ: (ج۔۱۰) ۶۰۹۴

طاہر علاؤالدین بن محمود سام الدین: (ج۔۵) ۲۶۸۱

طاہر لاہوری، شیخ: (ج۔۳) ۱۴۵۱، ۱۴۵۳، (ج۔۴) ۲۳۷۰، ۲۴۳۷، ۲۴۴۹، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۸) ۴۵۴۲، (ج۔۹) ۵۰۲۴۔ ۵۰۲۵، ۵۰۶۰۔ ۵۰۶۱، ۵۱۲۷، ۵۲۱۵

طاہر، ملا (عرف بابا خرواری): (ج۔۴) ۲۳۸۰، (ج۔۶) ۳۷۱۸۔۳۷۱۹

طاہر، شیخ: (ج۔۲) ۵۰۹، (ج۔۶) ۳۱۸۲

طبرانی، امام: (ج۔۲) ۵۲۸، ۵۴۱، ۵۵۱، ۵۶۹، ۵۷۹، ۵۹۴، (ج۔۴) ۲۲۹۵۔۲۲۹۶، ۲۳۲۲، (ج۔۷) ۴۳۰۷، ۴۳۰۹، ۴۳۱۳، ۴۳۳۰، ۴۳۳۲، ۴۳۳۵۔ ۴۳۳۶، ۴۳۴۱۔۴۳۴۷، (ج۔۹) ۵۲۶۱، ۵۳۰۸

طبری، امام: (ج۔۸) ۴۸۳۳،

طحاوی، امام احمد بن محمد بن سلامۃ الازدی الطحاوی: (ج۔۲) ۷۲۹، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۳۴۰

طرطوشی: (ج۔۲) ۶۹۳

طغرل خان، امیر: (ج۔۶) ۳۷۶۳

طفیل احمد، سید: (ج۔۲) ۷۳۰، (ج۔۶) ۳۹۵۲

طفیل محمد، میاں: (ج۔۶)۳۶۳۱

طلال عطبہ (اخبار البلاد جدہ): (ج۔۶)۳۹۵۲

طلحہٰ بن عبیداللہ: (ج۔۹)۵۳۳۶

طلحہٰ بن کریز خزاعی: (ج۔۲)۵۴۲

طلحہٰ (صحابی): (ج۔۱) ۲۱۷، (ج۔۳) ۱۴۲۲، ۱۶۷۱، ۱۷۸۰، (ج۔۴)۲۰۲۵، (ج۔۶)۳۸۸۴، (ج۔۹)۵۴۱۵

طنطاوی، علامہ: (ج۔۶)۳۲۱۳

طوسی، علامہ: (ج۔۲)۵۱۶

طہماسپ صفوی (حاکم یران): (ج۔۱۰)۵۶۴۳

طٰہٰ حسین مصری (مصنف ’’الفتنۃ اکبری‘‘): (ج۔۱۰) ۵۷۸۰

طٰہٰ، میاں (ہندوؤں کے علوم کا ماہر): (ج۔۱۰)۵۸۳۷

طٰہٰ نہری، سید: (ج۔۱۰)۶۳۸۵

طیب اللہ، بہادر شاہ: (ج۔۶)۳۵۷۴

طیب علی شاہ بخاری، سید میر (کرماں والے): (ج۔۶) ۳۷۸۹، (ج۔۱۰)۶۰۷۸، ۶۴۳۹

طیب میمن، حاجی: (ج۔۶)۳۶۰۳

طیفور شامی: (ج۔۸)۴۸۴۶

ظ

ظفر اقبال شاہ، پیر سید: (ج۔۱۰)۶۰۹۴

ظفر اقبال نوری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۰۸۷

ظفر الاسلام، ڈاکٹر: (ج۔۸) ۴۹۹۰، ۴۹۹۱، (ج۔۹) ۵۰۰۰۔۵۰۰۱، ۵۰۲۱، ۵۰۸۹

ظفر الحسن، سید ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۷۸۱

ظفر الدین بہاری عظیم آبادی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۵

ظفر الدین قادری، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۱، (ج۔۶) ۳۶۸۶

ظفر، امام: (ج۔۵)۲۷۸۹، (ج۔۶)۳۹۵۲

ظفر حسین، میر: (ج۔۱۰)۵۹۲۸

ظفر علی خان، مولانا: (ج۔۴)۲۰۵۷

ظفر علی شاہ، سید: (ج۔۶)۳۸۳۶

ظفر علی نعمانی، مفتی: (ج۔۵)۲۹۱۳، ۳۱۱۰

ظم ظم بن باقر: (ج۔۱۰)۶۱۴۱

ظہور ربی حکیم: (ج۔۰)۶۴۴۵

ظہور احمد اختر، قاضی: (ج۔۳) ۱۸۸۵، (ج۔۴) ۱۹۸۹، ۲۵۱۳، (ج۔۱۰)۶۴۴۵

ظہور احمد اظہر، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۸۱۶، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۷

ظہور احمد جلالی، علامہ مفتی: (ج۔۱۰)۶۲۹۹

ظہور الحسن شارب، ڈاکٹر: (ج۔۳)۱۴۰۲، (ج۔۴)۲۱۶۶، ۲۱۷۰، ۲۱۷۴، (ج۔۶)۳۹۵۲

ظہور الحسین غلام پوری فاروقی، مولانا: (ج۔۵)۲۸۸۱، ۲۹۰۸

ظہور الدین احمد، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۵۸۹۲، ۵۹۴۶

ظہور الدین، شیخ: (ج۔۳)۱۳۸۹، (ج۔۶)۳۹۵۲

ظہور اللہ ملتانی، سید: (ج۔۱۰)۵۸۰۴

ظہور اللہ، خواجہ: (ج۔۶)۳۳۰۴، ۳۳۲۶، ۳۳۲۸

ظہور عالم صدیقی مجددی رام پوری: (ج۔۱۰)۶۱۲۳

ظہور مہدی مجددی کابلی، میاں: (ج۔۱۰)۵۸۷۹

ظہیرالدین حسن: (ج۔۵) ۲۶۰۹

ظہیرالدین دہلوی، سید: (ج۔۱۰) ۶۱۰۳

ع

عابد حسین شاہ، پیر سید (نقشہ نقش لاثانی): (ج۔۱۰) ۶۰۸۸، ۶۴۳۳

عابد حسین عابد سہوانی: (ج۔۱) ۱۰، (ج۔۶) ۳۹۵۲، (ج۔۹) ۵۵۸۲، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۰۳

عابد حسین نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۲

عابد حسینی ہروی، میر: (ج۔۱۰) ۵۹۲۸

عابد سنامی، شیخ: (ج۔۴) ۲۴۶۰، (ج۔۵) ۳۰۷۹، (ج۔۶) ۳۳۵۴

عابد سندھی، شیخ: (ج۔۹) ۵۰۶۷

عادل ابی بکر (والد سلطان الکامل محمد): (ج۔۵) ۲۸۵۱، (ج۔۶) ۳۱۷۶

عادل شاہ سوری: (ج۔۱۰) ۵۶۴۴

عارف احمد عبدالغنی: (ج۔۵) ۲۷۰۴، (ج۔۶) ۳۹۵۲

عارف الحسن نقشبندی صاحبزادہ (فرزند خواجہ غلام قاسم کموہ): (ج۔۱۰) ۵۹۰۷

عارف بن احمد منیر دمشقی شافعی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۸۵، (ج۔۶) ۳۲۲۶

عارف دیگ گرانی، مولانا: (ج۔۱) ۲۲۵

عارف ریوگری، خواجہ: (ج۔۶) ۳۹۵۲، ۳۹۸۰

عارف شاہ، میاں: (ج۔۱۰) ۵۹۹۳،

عارف علی قادری (کمپوزر): (ج۔۱۰) ۶۴۴۶

عارف، مولانا: (ج۔۷) ۴۰۹۴، ۴۰۹۷

عارف نوشاہی، ڈاکٹر سید: (ج۔۱۰) ۵۸۹۱، ۵۹۴۶، ۶۱۵۴، ۶۱۵۶

عاشق حسین مجددی، پیر، سید: (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۳

عاصم: (ج۔۲) ۵۵۳۔۵۵۴، (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۷) ۴۲۸۲

عاصم ابراہیم، الشیخ الاکتور: (ج۔۷) ۴۴۷۶

عاصم بن عبیداللہ: (ج۔۲) ۶۳۲

عاصم بن عمر فاروق: (ج۔۸) ۴۶۱۶

عاصم بن محمد: (ج۔۷) ۴۲۸۱

عاصم فاروقی مجددی: (ج۔۶) ۳۷۶۰

عاصمہ رضا کریمی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۶

عاطر محمود: (ج۔۶) ۳۳۷۱، ۳۶۸۳، ۳۹۳۱

عاطف باجوہ: (ج۔۱۰) ۶۰۹۳

عاقل خان: (ج۔۴) ۲۲۸۵

عالم الدین نقشبندی مجددی، مولانا: (ج۔۱) ۲۹، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۸۸۷، (ج۔۵) ۲۲۵۵، ۲۵۲۶، ۲۵۳۷، ۲۶۲۰، ۲۶۴۶، ۲۷۲۳، ۲۷۲۵، ۲۷۲۷، ۲۷۲۹۔۲۷۳۲، (ج۔۶) ۳۱۴۳، ۳۹۴۲، ۳۹۵۲، (ج۔۷) ۴۰۰۹، ۴۱۶۳، (ج۔۸) ۴۵۰۱، ۴۵۷۷، ۴۸۳۳، ۴۸۵۴، (ج۔۹) ۵۰۱۳، ۵۱۱۸۔۵۱۱۹، (ج۔۱۰) ۵۹۴۰، ۵۶۱۵، ۵۸۸۵، ۵۹۴۷، ۶۱۶۳، ۶۲۰۹۔۶۲۱۱، ۶۲۱۳۔۶۲۱۴

عالم خان تاجوخیل: (ج۔۶) ۳۹۱۵

عالم دین سیالکوٹی، قاضی: (ج۔۶) ۳۷۸۲، (ج۔۸) ۴۸۶۹

عالم شاہ، سید: (ج_۶) ۳۶۹۶

عالم کابلی، ملا: (ج_۱۰) ۵۷۰۴

عالیشان خواجہ: (ج_۳) ۱۳۷۶

عامر اسلم: (ج_۱۰) ۶۴۹۴

عامر (رضی اللہ عنہ): (ج_۷) ۴۰۱۸۰، ۴۰۱۸۰

عائشہ بیگم، مخدومہ: (ج_۶) ۳۳۶۹

عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا): (ج_۱) ۲۰۶_۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۷، (ج_۲) ۵۳۱_۵۳۲، ۵۵۷، ۵۶۰، ۵۸۷، ۷۲۱، ۸۶۴، ۱۱۰۸، (ج_۳) ۱۶۲۰، ۱۶۳۵، ۱۶۴۴، ۱۶۴۶، ۱۶۷۱، ۱۶۸۵، ۱۷۸۰، (ج_۴) ۲۰۲۴، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۲۴۲_۲۲۴۳، ۲۲۵۶، (ج_۵) ۲۶۰۱، ۲۸۲۲_۲۸۲۳، ۳۰۱۷، (ج_۷) ۴۰۳۱، ۴۱۹۳، ۴۱۹۹، ۴۳۳۶، ۴۳۴۰، ۴۳۴۳، ۴۳۴۸، ۴۳۵۴، ۴۳۵۷، ۴۳۶۲، ۴۳۸۲، ۴۴۰۸، (ج_۸) ۴۶۸۳، ۴۷۲۰، ۴۷۳۸، ۴۷۷۱، ۴۷۸۲، ۴۸۲۴_۴۸۲۵، (ج_۹) ۵۲۵۰_۵۲۵۱، ۵۳۰۹، ۵۳۱۷، ۵۳۸۷، ۵۴۵۲، (ج_۱۰) ۵۶۵۵، ۵۶۷۰

عبادۃ بن الصامت: (ج_۷) ۴۳۶۷، ۴۲۸۰، ۴۳۱۶

عباد بن یعقوب: (ج_۲) ۵۱۷

عبادت بریلوی، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۹۴۴، ۳۰۲۳

عباس اعظم، شاہ (حاکم ایران): (ج_۱۰) ۵۶۴۵

عباس اقبال (تہران، ایران): (ج_۵) ۲۸۵۶_۲۸۵۸، (ج_۶) ۳۹۵۳

عباس العزاوی: (ج_۶) ۳۲۸۶

عباس بن صالح تاشقندی، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۰۴، (ج_۶) ۳۹۵۲

عباس بن عثمان الدمشقی: (ج_۲) ۵۹۶

عباس بن یزید البحرانی: رج_۷) ۴۳۰۶

عباس صفوی، شاہ (شاہ ایران): (ج_۱۰) ۵۷۰۱

عباس علی خاں، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۹۴۸

عباس (صحابی): (ج_۵) ۲۹۲۱، (ج_۷) ۴۳۵۹

عبدالاحد، مولوی: (ج_۹) ۵۳۲۹

عبدالاحد وحدت، شیخ: (ج_۱) ۲۷، ۸۱، (ج_۲) ۵۰۷، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۷۵، (ج_۳) ۱۲۸۹، ۱۷۲۳، ۱۸۸۵، (ج_۴) ۱۹۰۹، ۱۹۴۱، ۲۰۵۵، ۲۲۰۹، ۲۲۱۶، ۲۲۶۴، ۲۲۶۹، ۲۲۸۹، ۲۳۵۹، ۲۴۵۳، (ج_۵) ۲۶۶۱، ۲۶۶۸، ۲۸۰۱، ۲۸۰۵_۲۸۰۶، ۲۸۷۱، ۲۸۹۲، (ج_۶) ۳۱۶۶، ۳۴۳۹، ۳۴۴۳، ۳۴۵۲، ۳۶۲۶، ۳۹۵۰، ۳۹۵۳، ۳۹۸۲، (ج_۷) ۴۲۱۹، (ج_۸) ۴۸۶۷، ۴۹۷۸، ۴۹۸۰_۴۹۸۱، (ج_۹) ۵۰۲۱_۵۰۲۲، ۵۵۰۰_۵۵۰۱، ۵۵۶۷، (ج_۱۰) ۵۶۳۵، ۵۶۴۰_۵۶۴۱، ۵۶۷۳، ۵۶۷۵، ۵۶۷۸_۵۶۷۹، ۵۷۵۸، ۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۷۶۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۲، ۶۱۲۹_۶۱۳۰، ۶۱۶۰، ۶۱۸۶، ۶۱۹۰_۶۱۹۱، ۶۲۰۳، ۶۲۰۶_۶۲۰۸، ۶۲۲۳، ۶۲۹۲، ۶۳۵۶، ۶۳۷۳

عبدالاحد، شیخ (والدِ مجدد الف ثانی): (ج_۱) ۳۶۹_۳۷۰، ۳۹۰، ۳۹۶، ۴۰۱، ۴۰۸، ۴۱۱، ۴۱۳_۴۱۴، ۴۱۶_۴۱۷، ۴۱۹، ۴۲۷، ۴۴۲_۴۴۳، (ج_۳) ۱۳۶۶، ۱۳۸۶، ۱۴۰۲، (ج_۴) ۱۹۴۲، ۱۹۴۶، (ج_۵) ۲۵۶۰، ۲۵۶۱، ۲۵۹۵، ۲۵۹۹، ۲۷۱۳، ۲۷۴۷، ۲۷۵۷، ۳۰۹۱، (ج_۶) ۳۳۴۴، (ج_۷) ۴۱۷۰ (ج_۸) ۴۵۰۹، ۴۵۱۱، ۴۵۱۴، ۴۵۴۰، ۴۶۰۳، ۴۶۰۵_۴۶۰۶، ۴۶۱۲_۴۶۱۳، ۴۶۶۰، ۴۷۲۹، ۴۸۳۷، ۴۸۴۲_۴۸۴۳، ۴۸۴۵_

۴۸۴۹، ۴۸۵۳، ۴۸۵۵، ۴۸۵۷، ۴۸۶۰ ـ ۴۸۶۱، ۴۹۰۲، ۴۹۴۰، ۴۹۴۲، ۴۹۴۴، ۴۹۴۶، ۵۰۲۹، ۵۰۴۰، ۵۰۴۳، ۵۰۵۲ ـ ۵۰۵۳، ۵۰۵۸، ۵۰۷۳، ۵۱۵۳، ۵۱۷۸، ۵۱۸۷، ۵۱۸۹، ۵۲۲۶ ۵۴۶۸، ۵۴۷۰، ۵۴۷۳، ۵۵۱۳، ۵۵۲۵ ـ ۵۵۲۶، ۵۵۳۱، ۵۵۳۶، ۵۵۴۸

عبدالارشاد، پیر ابن پیر ثانی: (ج۔۶)۳۸۰۵

عبدالاعلیٰ بن امین: (ج۔۲)۵۵۸

عبدالاول نیشاپوری، میر: (ج۔۱۰)۶۱۵۴، ۶۱۵۶

عبد الباری صدیقی، پروفیسر: (ج۔۴) ۲۲۲۴، (ج۔۵) ۲۹۰۷، ۲۹۱۳ ـ ۲۹۱۴، (ج۔۶) ۳۶۸۲، (ج۔۷) ۳۹۸۶، (ج۔۸) ۴۹۹۰، (ج۔۹) ۵۰۰۰، ۵۰۵۱، (ج۔۱۰)۵۶۹۵

عبدالباری فاروقی بدایونی، مولانا: (ج۔۴)۲۳۸۸

عبد الباری فرنگی محلی، پروفیسر: (ج۔۱) ۲۲، ۲۵، (ج۔۲) ۴۸۹، ۹۹۹، (ج۔۳)۱۵۶۸، (ج۔۵)۲۶۸۱، ۲۷۰۱

عبدالباسط، خواجہ: (ج۔۶)۳۴۹۵

عبدالباعث، مولوی: (ج۔۲)۱۲۳۲

عبد الباقی افغانی نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۴۷

عبدالباقی الجزائری، شیخ: (ج۔۵)۲۰۸۲

عبدالباقی، پیر: (ج۔۹)۵۳۵۴

عبدالباقی جان، آغا: (ج۔۶)۳۳۰۰، ۳۵۰۰

عبدالباقی حنبلی، شیخ دمشقی: (ج۔۴)۲۱۶۰

عبدالباقی درخانی، مولانا: (ج۔۶)۳۷۳۹ ـ ۳۷۴۰

عبدالباقی سارنگپوری، سید: (ج۔۸)۴۵۳۳

عبدالباقی، شاہ: (ج۔۶)۳۶۲۶

عبدالباقی، صاحبزادہ: (ج۔۶)۳۴۱۸

عبدالباقی، کابلی دہلوی: (ج۔۶)۳۱۵۵ ـ ۳۱۵۶، ۳۳۱۴، ۳۳۲۷، ۳۳۰۹، ۳۳۱۳، ۳۳۲۸

عبدالباقی مجددی، میاں: (ج۔۶)۳۶۹۲

عبدالباقی، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۵۲

عبدالباقی، میر (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱

عبدالباقی نقشبندی، مولانا: (ج۔۹)۵۵۸۳

عبدالباقی نہاوندی: (ج۔۴)۱۹۷۴، (ج۔۶)۳۹۵۳

عبدالباقی واعظ، میاں: (ج۔۶)۳۴۷۶، ۳۶۹۳، ۳۶۹۹

عبدالجلیل اثری: (ج۔۲)۳۴۷

عبدالجلیل بلگرامی، ملا: (ج۔۶)۳۴۰۸

عبدالجلیل حنبلی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۵

عبدالجلیل (فرزند بابا لعل خان کانشوی بالاکوٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۴

عبدالجمیل، خواجہ: (ج۔۴)۲۲۵۹

عبد الحامد بدایونی، مولانا: (ج۔۶) ۳۵۴۹، ۳۶۴۶، ۳۶۴۹

عبدالحسنی جان چشموی، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۹۵۷

عبدالحسین زرین، ڈاکٹر: (ج۔۷)۴۰۵۴، ۴۰۶۱

عبدالحسین نوائی (تہران): (ج۔۵)۲۸۵۸

عبدالحفیظ، سیرت تالقانی): (ج۔۶)۳۳۲۴

عبدالحفیظ، شاہ: (ج۔۴)۲۴۶۶

عبد الحفیظ کاردار، پروفیسر: (ج_۸) ۴۹۹۰، (ج_۹) ۵۰۰۰، ۵۰۰۹، ۵۵۸۰

عبد الحق الہ آبادی مہاجر مدنی، مولانا شاہ: (ج_۶) ۳۷۸۱

عبد الحق انصاری، ڈاکٹر: (ج_۱) ۰۰، ۳۳، ۴۲، (ج_۴) ۲۵۲۶، (ج_۵) ۲۵۳۷، ۲۶۷۳، ۳۱۱۷_ ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۱۲۹، ۳۱۵۴، ۳۱۹۱، ۳۲۲۵، (ج_۹) ۵۰۸۷، ۵۱۵۴، ۵۳۷۹

عبد الحق انصاری، شیخ (ج_۱۰) ۶۲۸ _ ۵۶۲۹، ۵۷۵۹

عبد الحق ردولوی، شیخ (ج_۸) ۴۸۶۲،

عبد الحق شادمانی، شیخ (ج_۸) ۴۵۵۹ (ج_۹) ۵۱۲۶

عبد الحق شاہ ہمدانی، سید (ج_۶) ۳۷۸۴

عبد الحق ظفر چشتی، مولانا (ج_۱۰) ۶۴۲۲، ۶۴۴۰

عبد الحق (فرزند شیخ شہباز محمد معی): (ج_۱۰) ۵۸۷۰

عبد الحق محدث دہلوی، شاہ: (ج_۱) ۱۱، ۱۸، ۹۰، ۱۴۵، ۱۸۴، ۳۰۲، ۳۳۴، ۳۶۹، (ج_۲) ۵۷۵، ۵۸۵، ۵۸۷_ ۵۸۸، ۵۹۱، ۶۰۰، ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۱۰، ۶۱۵، ۶۷۸، ۷۰۰، ۷۱۷، ۷۶۶، ۷۷۶، ۸۰۱، ۸۲۰، ۱۰۳۷، ۱۰۹۸، ۱۱۲۰، (ج_۳) ۱۲۹۶_ ۱۲۹۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴_ ۱۳۹۷، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴_ ۱۴۰۵، ۱۴۴۸، ۱۵۶۳، ۱۵۹۶، ۱۶۱۵، ۱۸۶۸، (ج_۴) ۱۹۴۸، ۱۹۶۸، ۱۹۷۵، ۱۹۸۲_ ۱۹۸۵، ۲۰۰۱، ۲۱۵۲، ۲۲۷۳، ۲۳۰۲، ۲۳۰۶_ ۲۳۰۷، ۲۳۰۹، ۲۳۱۱_ ۲۳۱۳، ۲۳۲۴، ۲۳۳۲_ ۲۳۳۴، ۲۳۳۹، ۲۳۴۱_ ۲۳۴۲، ۲۳۴۶_ ۲۳۴۷، ۲۳۵۴، ۲۳۶۴، ۲۳۹۰، ۲۳۹۴، (ج_۵) ۲۵۷۴، ۲۶۳۷، ۲۶۵۲، ۲۶۶۹، ۲۷۷۸، ۲۷۹۵، ۲۸۰۶_ ۲۸۰۷، ۲۸۱۰، ۲۸۱۲_ ۲۸۱۵، ۲۸۷۷، ۲۸۸۶، ۲۸۹۰، ۸۹۷، ۳۰۱۶_ ۳۰۱۷، (ج_۶) ۳۱۴۵، ۳۱۴۹، ۳۱۵۳_ ۳۱۵۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۹_ ۳۳۵۲، ۳۸۸۳، ۳۹۵۳، (ج_۷) ۳۹۹۹، ۴۰۶۳، ۴۱۰۳، ۴۱۸۶، ۴۲۰۲، ۴۲۳۲، ۴۳۱۲، ۴۳۵۹، (ج_۸) ۴۶۰۲، ۴۶۱۵، ۴۶۱۷، ۴۶۳۴، ۴۶۴۹، ۴۶۷۵، ۴۶۹۴، ۴۷۹۱، ۴۸۶۲_ ۴۸۶۳، ۴۹۳۲، (ج_۹) ۵۰۰۱_ ۵۰۰۲، ۵۰۳۵، ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، ۵۱۲۴، ۵۱۲۸_ ۵۱۲۹، ۵۱۴۷، ۵۱۵۴، ۵۱۵۷، ۵۱۵۹، ۵۲۹۴، ۵۲۹۶، ۵۳۲۶، ۵۳۲۹_ ۵۳۳۱، ۵۳۳۴، ۵۳۳۶_ ۵۳۳۸، ۵۳۴۰، ۵۳۴۲، ۵۳۴۴، ۵۳۵۲_ ۵۳۵۳، ۵۳۵۷_ ۵۳۶۱، ۵۳۷۱، ۵۳۷۵، ۵۳۷۷، ۵۳۸۱، ۵۳۹۶، ۵۴۱۰، ۵۴۱۵، ۵۴۲۵ _ ۵۴۲۸، ۵۴۶۳_ ۵۴۶۴، ۵۴۶۸، ۵۴۹۷، ۵۵۰۷، ۵۵۱۲_ ۵۵۱۳، ۵۵۱۵، ۵۵۲۲، (ج_۱۰) ۵۶۱۷، ۵۶۲۷، ۵۶۳۴، ۵۶۳۸_ ۵۶۳۹، ۵۶۵۱، ۵۶۵۳_ ۵۶۵۴، ۵۷۰۲، ۵۷۰۷، ۵۷۵۵، ۵۷۶۰، ۵۷۶۳، ۵۸۱۳، ۵۸۲۵، ۵۸۸۶، ۶۱۱۸، ۶۱۲۳، ۶۱۳۳، ۶۲۹۲

عبد الحق، مخدوم بنگلہ والے: (ج_۶) ۳۶۹۵

عبد الحق، مولانا (فرزند حافظ عبد الکریم): (ج_۱۰) ۵۹۴۰

عبد الحق مہاجر مکی، مولانا: (ج_۶) ۳۵۳۱

عبد الحق، میاں: (ج_۲) ۱۲۲۱

عبد الحق، میاں (فرزند خواجہ عبد العزیز): (ج_۶) ۳۷۲۰_ ۳۷۲۱

عبد الحق نقشبندی قادری، ابو البرکات: (ج_۶) ۳۸۵۷، ۳۸۶۶

عبد الحق ہاشمی، قاضی: (ج_۱۰) ۵۹۴۷

عبد الحکیم ابن المصطفیٰ اروائی، سید: (ج_۱۰) ۵۶۶۸

عبد الحکیم اثر افغانی، قاضی: (ج_۱۰) ۵۸۸۸، ۵۹۴۶

عبدالحکیم، اخوند ملا: (ج-۶)۳۸۹۹

عبدالحکیم ارواسی نقشبندی، شیخ: (ج-۱) ۸۲، (ج-۶) ۳۲۷۳

عبدالحکیم انصاری، خواجہ: (ج-۶)۳۹۵۴

عبدالحکیم باغ دروی، خواجہ: (ج-۱۰)۵۹۴۴

عبدالحکیم، حافظ: (ج-۶)۳۸۹۴

عبدالحکیم، خلیفہ ڈاکٹر: (ج-۵)۲۹۳۵، ۲۹۴۵

عبدالحکیم سیالکوٹی، علامہ: (ج-۱) ۷۱، ۳۷۵، (ج-۲) ۵۰۹، ۷۶۸، ۸۰۳، ۱۰۹۸، ۱۱۱۲، ۱۱۱۸، (ج-۳) ۱۲۸۹، ۱۳۷۴، ۱۳۸۶، ۱۸۵۶، ۱۸۷۰، (ج-۴) ۲۲۰۳، ۲۲۶۹، ۲۳۹۴، ۲۴۱۳، ۲۴۴۳، (ج-۵) ۲۵۶۰، ۲۵۷۱، ۲۶۵۱-۲۶۵۲، ۲۷۱۹، ۲۷۵۸-۲۷۶۰، ۲۷۹۸، ۲۸۰۶، ۲۸۷۶، ۲۸۹۱، ۲۹۰۸، ۲۹۱۰-۲۹۱۱، (ج-۶) ۳۹۵۳-۳۹۵۴، (ج-۷) ۴۱۷۲، ۴۱۶۸، ۴۲۰۲، (ج-۸) ۴۸۸۶، ۴۹۴۶، (ج-۹) ۵۰۲۴، ۵۰۳۲، ۵۰۴۶، ۵۰۵۸، ۵۰۶۶، ۵۱۲۸، ۵۱۴۷، ۵۱۵۹، ۵۳۱۰، ۵۴۲۴، ۵۴۷۴، ۵۴۸۹، ۵۴۹۷، ۵۵۱۴، ۵۵۱۹، (ج-۱۰) ۵۶۳۸، ۵۶۹۲، ۵۸۱۰، ۵۹۸۵

عبدالحکیم سیوستانی، خلیفہ: (ج-۶)۳۵۲۰

عبدالحکیم شرف قادری، علامہ: (ج-۸)۴۴۸۹، ۴۹۹۰، (ج-۹) ۵۰۰۰، ۵۵۷۷، ۵۵۷۸، (ج-۱۰) ۵۷۶۰، ۵۸۰۹

عبدالحکیم کاشغری، ملا: (ج-۶)۳۲۷۸

عبدالحکیم کاکر، عرف ناناجی، ملا: (ج-۶)۳۵۵۸، ۳۷۱۲، ۳۷۱۶-۳۷۱۹، ۳۷۲۱، (ج-۱۰) ۵۹۵۰-۵۹۵۲، ۵۹۵۵، ۵۹۵۷،

عبدالحکیم، مولانا (مفتی سرحد): (ج-۶)۳۸۷۰

عبدالحکیم، مولانا: (ج-۸)۴۵۲۹، ۴۶۴۷

عبدالحکیم، مولوی (خلیفہ حضرت مظہر): (ج-۴)۲۴۷۱

عبدالحکیم نقشبندی، خواجہ: (ج-۱۰)۵۸۵۶

عبدالحلیم اثر افغانی: (ج-۶)۳۸۳۱، ۳۸۹۸

عبدالحلیم، حافظ: (ج-۵)۲۹۲۶، ۳۰۲۷

عبدالحلیم خان: (ج-۶)۳۳۹۲

عبدالحلیم سرہندی مجددی، پیر: (ج-۶)۳۵۳۱

عبدالحلیم، صاحبزادہ: (ج-۶)۳۴۲۶

عبدالحلیم مجددی، آغا (صوفی حیدرآباد): (ج-۶)۳۶۹۲

عبدالحلیم زدخیل کاکڑ: (ج-۶)۳۷۱۸

عبدالحلیم، آغا: (ج-۶)۳۵۱۲

عبدالحمید براشق، ڈاکٹر: (ج-۶)۳۱۹۸

عبدالحمید بن بہرام: (ج-۷)۴۳۱۴

عبدالحمید بن بیان الواسطی: (ج-۷)۴۲۸۸

عبدالحمید بن سلطان احمد سوم، شیخ سلطان: (ج-۶)۳۲۰۹، ۳۲۳۹

عبدالحمید بن محمد الخانی الخالدی النقشبندی: (ج-۱۰)۶۳۷۸

عبدالحمید جان سرہندی، آغا: (ج-۶)۳۵۳۰، ۳۵۴۲

عبدالحمید، حکیم: (ج-۵)۲۸۳۷

عبدالحمید خان، سلطان: (ج-۵) ۲۶۴۵، ۲۶۷۷، (ج-۶)۳۱۸۶، ۳۲۸۰، ۳۶۰۸

عبدالحمید داغستانی، شیخ: (ج-۵)۲۶۸۹، ۲۶۹۲، ۲۶۹۵، ۲۶۹۷، (ج-۶)۳۹۵۳

عبدالحیٔ میر: (ج۔۳) ۱۴۱۰
عبدالحیٔ، مُلّا: (ج۔۴) ۲۴۲۰
عبدالخالق بن منذر: (ج۔۷) ۴۳۰۹
عبدالخالق، خواجہ المعروف شمس الکونین: (ج۔۶) ۳۷۹۸
عبدالخالق، خواجہ (مرشد امیر عبداللہ اکبرآبادی): (ج۔۵) ۲۹۱۰
عبدالخالق، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۳۰۰۷، (ج۔۶) ۳۹۵۴
عبدالخالق شاہ مکرانی، سید: (ج۔۶) ۳۶۶۸
عبدالخالق شوقی، شیخ القرآء: (ج۔۵) ۳۰۷۹
عبدالخالق، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۷
عبدالخالق غجدوانی، خواجہ: (ج۔۳) ۱۴۳۲، (ج۔۴) ۲۲۴۶، ۲۲۴۹، ۲۲۵۹، ۲۲۶۱، ۲۳۴۹، (ج۔۶) ۳۲۹۸، ۳۹۸۰، (ج۔۷) ۴۰۳۳، ۴۰۵۵، ۴۰۵۷، ۴۰۵۹، ۴۰۶۰، ۴۰۶۵، (ج۔۸) ۴۵۳۰، ۴۶۹۶، ۴۸۴۷، ۴۸۵۷، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۲۳۵، ۵۳۵۰، (ج۔۱۰) ۵۹۸۹، ۶۱۴۰_۶۱۴۱، ۶۱۴۳، ۶۱۴۷
عبدالخالق قصوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۷۰
عبدالخالق، مخدوم بن ضیاء الدین (خیرپور): (ج۔۶) ۳۴۰۲، ۳۶۹۵
عبدالخالق، مولانا سید (استاد شیخ محمد جمال نقشبندی پشاوری): (ج۔۶) ۳۸۳۷
عبدالخالق، مولوی (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱، (ج۔۶) ۳۳۸۲
عبدالخالق، نقشبندی: (ج۔۶) ۳۴۴۱
عبدالخالق ہوشیارپوری، پیر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۵
عبدالدائم جلالی، مفتی: (ج۔۶) ۳۳۸۹، (ج۔۱۰) ۵۹۴۷
عبدالراشد مسعودی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰
عبدالرب، مولوی: (ج۔۶) ۳۳۷۸
عبدالرب نشتر، سردار: (ج۔۶) ۳۵۵۰
عبدالرحمٰن: (ج۔۷) ۴۲۶؛، (ج۔۹) ۵۳۵۴، ۵۴۳۱، ۵۵۳۷
عبدالرحمٰن ابوالوفا شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۰
عبدالرحمٰن اسفرانی، شیخ: (ج۔۹) ۵۴۳۰
عبدالرحمٰن الاوزاعی: (ج۔۲) ۶۱۴
عبدالرحمٰن السلمی: (ج۔۲) ۵۴۶
عبدالرحمٰن، الشیخ (مصنف المواعظ): (ج۔۶) ۳۹۵۴
عبدالرحمٰن العجلی: (ج۔۲) ۵۹۷
عبدالرحمٰن القراسانی، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۷۵۹
عبدالرحمٰن المعروف شہروش: (ج۔۶) ۳۱۷۶
عبدالرحمٰن، امیر (حاکم قندھار): (ج۔۶) ۳۳۱۵، ۳۵۰۰
عبدالرحمٰن بافہد مکی: (ج۔۷) ۴۱۷۲
عبدالرحمٰن بخاری، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰
عبدالرحمٰن بدخشی، خواجہ: (ج۔۲) ۱۱۰۰، (ج۔۱۰) ۵۶۷۷
عبدالرحمٰن، برہان الدین: (ج۔۵) ۲۸۴۹
عبدالرحمٰن بن اسمٰعیل، ابومحمد: (ج۔۲) ۷۳۲
عبدالرحمٰن بن ابوبکر: (ج۔۷) ۴۰۳۱
عبدالرحمٰن بن ابی عمیرۃ: (ج۔۷) ۴۳۶۱
عبدالرحمٰن بن احمد صنادیقی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۸

عبدالرحمٰن بن اسحاق: (ج-۷) ۴۳۰۸

عبدالرحمٰن بن تاج الدین، تاجی: (ج-۶) ۳۱۶۰

عبدالرحمٰن بن حسن اجھوری، شیخ: (ج-۶) ۳۲۱۳-۳۲۱۴

عبدالرحمٰن بن حسن کردی، شیخ: (ج-۶) ۳۲۱۵

عبدالرحمٰن بن حمدان العلاب: (ج-۲) ۵۶۸

عبدالرحمٰن بن زکریا عطار، شیخ: (ج-۶) ۳۲۲۶

عبدالرحمٰن بن زیاد: (ج-۲) ۵۲۸، ۵۵۷

عبدالرحمٰن بن سعد منیر، شیخ خطاط: (ج-۶) ۳۱۷۸

عبدالرحمٰن بن سلیمان، شیخ: (ج-۶) ۳۲۱۰-۳۲۱۱

عبدالرحمٰن بن سمرہ (صحابی): (ج-۴) ۲۰۴۶، ۲۰۶۲

عبدالرحمٰن بن عائش: (ج-۲) ۶۲۹

عبدالرحمٰن بن عبدالقادر گیلانی، حمدی حنفی: (ج-۶) ۳۱۷۸

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بعلی دمشقی: (ج-۶) ۳۱۷۸، ۳۱۹۵

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بلفقیہ، شیخ: (ج-۶) ۳۲۰۲، ۳۲۰۵

عبدالرحمٰن بن عمر: (ج-۲) ۵۲۳

عبدالرحمٰن بن غنم: (ج-۷) ۴۳۱۴

عبدالرحمٰن بن فہد، شیخ: (ج-۴) ۱۹۵۱، (ج-۸) ۴۹۴۶، (ج-۱۰) ۵۶۷۶

عبدالرحمٰن بن محمد زین الدین، کزبری: (ج-۶) ۳۱۹۵، ۳۲۳۱

عبدالرحمٰن بن محمد صالح، امام: (ج-۴) ۲۴۵۲، (ج-۸) ۴۵۹۹

عبدالرحمٰن بن محمد کفرسوسی دمشقی: (ج-۶) ۳۱۷۸

عبدالرحمٰن بن مصطفیٰ عیدروس یمنی: (ج-۶) ۳۱۸۳، ۳۲۰۳-۳۲۰۷، ۳۲۰۹-۳۲۱۰، ۳۲۱۶-۳۲۱۷

عبدالرحمٰن بن مظفر: (ج ۲) ۶۱۲

عبدالرحمٰن بن مندب، شیخ: (ج-۸) ۴۵۱۲،

عبدالرحمٰن بن مہدی: (ج-۲) ۵۷۰، ۵۹۵

عبدالرحمٰن بن یزید: (ج-۲) ۱۰۹۸، (ج-۸) ۴۶۱۶ (ج-۹) ۵۳۱۲

عبدالرحمٰن پاپینی، مولانا: (ج-۱۰) ۵۸۸۹

عبدالرحمٰن، پاشا: (ج-۶) ۳۲۸۸

عبدالرحمٰن پانی پتی، قاری محدث: (ج-۶) ۳۷۸۱، (ج-۱۰) ۵۹۴۳

عبدالرحمٰن پشاوری، نقشبندی خواجہ: (ج-۶) ۳۸۵۲-۳۸۵۴، ۳۸۹۹

عبدالرحمٰن جامی، مُلا (مرید سعدالدین کاشغری): (ج-۶) ۳۶۵۳

عبدالرحمٰن جان سرہندی، خواجہ: (ج-۴) ۲۳۷۵، (ج-۶) ۳۴۴۹، ۳۴۵۱، ۳۴۸۷-۳۴۸۸، ۳۴۹۶، ۳۵۰۰، ۳۵۰۲، ۳۵۱۰، ۳۵۲۴، ۳۵۹۷، ۳۶۰۰، ۳۶۱۵

عبدالرحمٰن جان آغا (صاحبزادہ ملا محمد عظیم): (ج-۶) ۳۷۲۴

عبدالرحمٰن جبرتی، شیخ: (ج-۶) ۳۲۰۸

عبدالرحمٰن، حاجی (رفیق خواجہ فیض الحق جان چشموی): (ج-۶) ۳۷۴۷

عبدالرحمٰن خان (سسر شاہ ابوالسعد سالم فاروقی مجددی): (ج-۶) ۳۷۶۰

عبدالرحمٰن خان، جرنیل: (ج-۶) ۳۳۴۲

عبدالرحمٰن خانی، شیخ: (ج۔۵)۲۶۸۴

عبدالرحمٰن، خلیفہ: (ج۔۶)۳۳۰۱

عبدالرحمٰن، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۱

عبدالرحمٰن، خواجہ : (ج۔۶) ۳۴۲۰۔۳۴۲۱، ۳۴۲۳۔۳۴۲۴، ۳۴۲۶

عبدالرحمٰن، خواجہ (فرزند خواجہ محمد ہاشم بگھاروی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۲

عبدالرحمٰن، دمشقی بن محمد سعید: (ج۔۶)۳۹۵۴

عبدالرحمٰن دہلوی قادری، شاہ: (ج۔۵)۳۰۷۹

عبدالرحمٰن سکھری (سکھر): (ج۔۶)۳۶۹۵

عبدالرحمٰن، سید شرف الدین: (ج۔۶)۳۸۰۳

عبدالرحمٰن، شارح کتاب الزاہد): (ج۔۲)۵۱۶

عبدالرحمٰن شاہ آغا گردکابلی، سید: (ج۔۶)۳۷۳۱

عبدالرحمٰن شہید بن حسین (مفتی اعظم شام): (ج۔۶) ۳۲۳۳۔۳۲۳۵

عبدالرحمٰن، شیخ (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱

عبدالرحمٰن، شیخ : (ج۔۶) ۳۱۷۵، ۳۲۸۰، ۳۲۸۳، (ج۔۷)۴۰۶۹

عبدالرحمٰن، صاحبزادہ: (ج۔۶)۳۴۲۰، ۳۴۴۶۔۳۷۴۷

عبدالرحمٰن، صباح الدین (مصنف بزم تیموریہ) (ج۔۱۰) ۵۷۷۲

عبدالرحمٰن صفوری، علامہ: (ج۔۲)۵۱۲، ۶۲۱

عبدالرحمٰن طلبانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۳

عبدالرحمٰن ظہیر الدین عبداللہ الگیلانی: (ج۔۶)۳۳۹۱

عبدالرحمٰن، عضد الدین ایجی: (ج۔۹)۵۱۷۸

عبدالرحمٰن عمادی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۹

عبدالرحمٰن غزی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۶۷

عبدالرحمٰن فاروقی مجددی: (ج۔۶)۳۷۵۸

عبدالرحمٰن (فرزند بابا لال خان کانشوی بالاکوٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۴

عبدالرحمٰن قادری، شاہ: (ج۔۴)۲۴۶۱

عبدالرحمٰن کردی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۸۶۱

عبدالرحمٰن کوٹلوی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۶

عبدالرحمٰن کھوڑا: (ج۔۶)۳۴۱۶

عبدالرحمٰن لکھنوی، شاہ: (ج۔۶)۳۳۶۱

عبدالرحمٰن معلوی، قاری: (ج۔۶)۳۵۳۱

عبدالرحمٰن، مجد الدین (فرزند امام تورپشتی): (ج۔۵) ۲۸۴۸۔۲۸۴۹

عبدالرحمٰن مجلد، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۰، ۳۱۷۳

عبدالرحمٰن، مخدوم: (ج۔۶) ۳۲۴۱، ۳۴۵۲، ۳۵۶۵، ۳۷۰۳

عبدالرحمٰن (مستفتی محدث بریلوی): (ج۔۲)۱۱۵۶

عبدالرحمٰن مفتی کابلی، خواجہ: (ج۔۲)۸۲۵، (ج۔۴)۱۹۴۳، (ج۔۹)۵۱۳۹، ۵۳۲۶، ۵۴۸۱

عبدالرحمٰن، ملا: (ج۔۳)۱۴۲۲

عبدالرحمٰن ممند پشاوری نقشبندی (عرف رحمٰن بابا): (ج۔۶)۳۸۳۰، ۳۸۵۶،

عبدالرحمٰن منینی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۶، ۳۱۷۹

بدالرحمٰن، مولانا خواجہ (فرزند سجادہ نشین خواجہ محمد ہاشم): (ج۔۶) ۳۷۸۳۔۳۷۸۴
عبدالرحمٰن، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۷۳
عبد الرحمٰن، مولانا (فرزند حافظ عبد الکریم): (ج۔۱۰) ۵۹۴۰
عبدالرحمٰن، مولوی (سکھر والے): (ج۔۶) ۳۶۰۳
عبد الرحمٰن، میاں (پیر جھر چونڈی): (ج۔۶) ۳۵۳۳۔۳۵۵۴
عبدالرحمٰن، میاں: (ج۔۹) ۵۴۳۴
عبد الرحمٰن، میر (ولد سید میر عبداللہ بخاری اکبر پوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵
عبد الرحمٰن نقشبندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۲۹، ۳۸۵۰۔۳۸۵۱
عبدالرحمٰن نوری پیر، سید: (ج۔۱۰) ۵۹۲۵
عبدالرحیم: (ج۔۶) ۳۴۲۷
عبد الرحیم، امام عماد الاسلام: (ج۔۵) ۲۸۴۸، (ج۔۶) ۳۹۵۸
عبد الرحیم باغ دروی، مولانا خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۶۹، (ج۔۱۰) ۵۹۴۴
عبدالرحیم برکی، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۹۴
عبدالرحیم بھکری، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۱۷
عبدالرحیم پوپلزئی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۷۰
عبدالرحیم حیدرآبادی، مولوی (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۲
عبد الرحیم خان خاناں: (ج۔۲) ۱۰۱۹، ۱۰۲۷۔۱۰۲۸، ۱۸۴۴۔۱۸۴۵، ۱۸۶۹، (ج۔۴) ۱۹۵۸، ۱۹۷۳، ۱۹۷۵، ۲۰۷۸، ۲۳۸۴، ۲۳۱۷، ۲۴۳۶، (ج۔۵) ۲۷۷۷۔۲۷۷۸، (ج۔۷) ۴۱۸۱، ۴۴۳۲، (ج۔۸) ۴۷۰۰، ۴۹۳۸، (ج۔۹) ۵۰۹۳۔۵۰۹۴، ۵۱۰۲، ۵۱۰۷، ۵۱۱۰، ۵۱۸۰، ۵۳۹۸، ۵۴۰۴، ۵۴۹۱، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۶۸۴، ۵۷۰۶
عبدالرحیم خان قادری: (ج۔۸) ۴۸۶۳۔۴۸۶۴
عبد الرحیم خان (مرید شیخ محمد صبغت اللہ پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۲
عبدالرحیم دہلوی، شاہ محدث: (ج۔۱۰) ۵۷۸۱، ۶۱۰۳
عبدالرحیم زیارتی، مُلّا: (ج۔۴) ۲۵۰۶
عبدالرحیم سرہندی، شاہ (جد امجد پیر غلام مجدد سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۳۱
عبدالرحیم سومرو: (ج۔۶) ۳۴۷۶
عبدالرحیم، سید (برادر سید عبدالکریم): (ج۔۴) ۲۵۰۶
عبدالرحیم، سیّد (میر لالہ شاہ غازی): (ج۔۶) ۳۳۴۱
عبدالرحیم، شاہ: (ج۔۳) ۱۴۰۵، (ج۔۵) ۳۰۸۶، ۳۰۸۹، ۳۰۹۲، (ج۔۶) ۳۳۵۸
عبدالرحیم، شہید میاں (پیر بھر چونڈی): (ج۔۶) ۳۵۳۳
عبدالرحیم، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۰۸
عبدالرحیم، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۶
عبدالرحیم طواقی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۰
عبد الرحیم فاروقی، پیر شاہ: (ج۔۴) ۲۳۹۶، (ج۔۶) ۳۹۳۲
عبد الرحیم گرہوڑی، شہید: (ج۔۶) ۳۴۳۹، ۳۴۴۹،

۳۴۵۳، ۳۴۸۱، ۳۵۰۳_۳۵۰۵، ۳۵۰۸_۳۵۰۹،
۳۵۷۴، ۳۵۹۰_۳۵۹۱

عبد الرحیم (مرشد خواجہ محمد حسین جان مجددی): (ج_۶)
۳۶۱۵

عبدالرحیم (مرید دوست محمد قندھاری): (ج_۶) ۳۹۱۵

عبد الرحیم، ملاّ کابلی، دمشقی: (ج_۶) ۳۱۷۰، ۳۱۷۳،
۳۱۷۵

عبد الرحیم، مولانا مفتی (باز کلاں): (ج_۶) ۳۸۵۷،
۳۸۹۹

عبدالرحیم، مولانا (المعروف خلیفہ): (ج_۱۰) ۵۸۹۱

عبدالرحیم، مولانا (فرزند حافظ عبدالکریم): (ج_۱۰) ۵۹۴۰

عبد الرحیم، مولوی: (ج_۵) ۲۶۴۶، ۲۷۳۲، ۳۹۴۲،
(ج_۸) ۴۵۷۷

عبدالرحیم، میاں (کراچی): (ج_۶) ۳۶۹۱_۳۶۹۲

عبد الرحیم نقشبندی، حاجی: (ج_۶) ۳۵۰۰، ۳۸۲۹،
۳۸۳۳، ۳۸۴۷، ۳۸۴۹

عبدالرحیم، نواب: (ج_۸) ۴۵۵۴

عبدالرزاق: (ج_۲) ۵۴۲، ۶۴۷، (ج_۹) ۵۲۶۰

عبدالرزاق آسوی: (ج_۱۰) ۶۰۹۳

عبد الرزاق، امام: (ج_۲) ۵۷۲، ۵۸۹، ۶۱۰، (ج_۴)
۱۹۴۱، (ج_۷) ۴۰۵۱، ۴۳۰۴، ۴۳۱۳، ۴۳۱۵، ۴۴۰۸،
۴۴۱۲

عبدالرزاق بانسوی قادری، شاہ: (ج_۵) ۲۸۹۲

عبدالرزاق بن مخدوم عبدالاحد: (ج_۹) ۵۵۴۸

عبدالرزاق پشاوری، خواجہ: (ج_۱۰) ۵۹۳۴

عبدالرزاق، سائیں بن راؤ عظیم بخش خاں: ۳۷۹۰

عبد الرزاق، سید (فرزند غوث اعظم): (ج_۵) ۲۸۹۱،
(ج_۶) ۳۴۳۳

عبدالرزاق شاہ (برادر مجدد الف ثانی): (ج_۶) ۳۸۷۳

عبد الرزاق فاروقی سرہندی، شیخ (برادر مجدد الف ثانی)
: (ج_۱۰) ۵۸۸۶

عبدالرزاق قادری: (ج_۸) ۴۸۵۹_۴۸۶۰،

عبدالرزاق قریشی: (ج_۵) ۲۸۱۷، (ج_۱۰) ۶۱۳۳

عبدالرزاق کاشی: (ج_۸) ۴۹۶۰

عبدالرزاق (مرشد حامد شاہ): ۳۵۶۷

عبدالرزاق معمر بن ثابت: (ج_۲) ۵۲۴

عبدالرزاق، مُلاّ: (ج_۴) ۲۴۶۸

عبدالرزاق (نواب شاہ): (ج_۶) ۳۶۹۴

عبدالرسول احمد آبادی: (ج_۶) ۳۴۳۶

عبدالرسول، حکیم (انور مرتضوی): (ج_۱۰) ۶۰۴۱

عبدالرسول دہلوی، حافظ: (ج_۴) ۲۴۵۹، (ج_۵) ۳۰۷۹

عبد الرسول قصوری، خواجہ: (ج_۶) ۳۷۶۸_۳۷۶۹،
(ج_۱۰) ۶۰۳۷، ۶۰۳۹_۶۰۴۰

عبد الرسول للہی، صاحبزادہ پروفیسر: (ج_۳) ۱۴۰۴،
(ج_۶) ۳۷۹۷، ۳۷۹۹، ۳۹۵۴، (ج_۷) ۴۴۷۹،
(ج_۸) ۴۴۸۹، ۴۸۱۱

عبدالرسول، میاں: (ج_۱) ۲۸۵_۲۸۶

عبدالرشید: ۳۳۰۸

عبدالرشید اعوان، قاضی: (ج_۱۰) ۶۴۳۸

عبدالرشید، پروفیسر، ڈاکٹر: (ج۔۹)۵۵۷۸
عبدالرشید، حافظ: (ج۔۴)۲۲۳۲
عبد الرشید، خواجہ (تذکرہ شعرائے پنجاب): (ج۔۱۰) ۵۹۴۶
عبدالرشید سورتی، مولانا قاضی (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۶
عبدالرشید طیبی: (ج۔۱۰)۶۴۳۹
عبدالرشید فاضل، سید: (ج۔۵)۲۹۴۵
عبدالرشید، مولانا: (ج۔۶)۳۳۶۹
عبد الرشید، میاں: (ج۔۵) ۲۵۷۷، ۳۰۳۷، ۳۰۴۵، (ج۔۶)۳۹۵۴
عبدالرشید نعمانی، ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۸۱۷، (ج۔۱۰)۶۱۲۶
عبدالرشید نقشبندی، سید: (ج۔۵)۲۶۹۴، (ج۔۶)۳۱۵۷
عبدالرؤف: (ج۔۶)۳۴۲۸
عبدالرؤف، چوہدری: (ج۔۱۰)۶۰۷۸
عبدالرؤف، حاجی: (ج۔۴)۲۲۹۰
عبد الرؤف مناوی، امام: (ج۔۱) ۹۰، (ج۔۲) ۵۶۰، ۵۸۴، (ج۔۶)۳۸۴۶، ۳۹۰۹۔۳۹۱۰
عبد الرؤف (ہالا کندی): (ج۔۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۸، ۳۵۶۱
عبدالستار الصدیقی الحقی، ابوالاسماء (مکہ مکرمہ): (ج۔۶) ۳۷۶۰
عبد الستار جان، سرہندی، پیر: (ج۔۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۴، ۳۴۴۹، ۳۴۶۰، ۳۵۱۰، ۳۶۱۳، (ج۔۹)۵۵۷۴
عبدالستار خان، شیخ: (ج۔۶)۳۲۶۷
عبد الستار خان نیازی نقشبندی مجددی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۹۱، ۳۷۹۳، (ج۔۹)۵۵۷۵
عبدالستار دہلوی مکی، شیخ: (ج۔۵)۲۷۰۳، ۲۶۹۱، (ج۔۶) ۳۱۹۹، ۳۹۵۴
عبد الستار طاہر مسعودی، محمد: (ج۔۷)۳۹۸۶، (ج۔۹) ۵۵۸۴
عبدالستار ممند (والد رحمٰن بابا): (ج۔۶)۳۸۵۶
عبدالسلام اثیم: (ج۔۹)۵۳۷۰
عبدالسلام بدخشی: (ج۔۹)۵۰۸۴
عبد السلام بن حاجی (جد قاضی احمد دمائی): (ج۔۶) ۳۴۷۷
عبدالسلام، پیر: (ج۔۶)۳۴۶۱
عبدالسلام جان مجددی: (ج۔۶)۳۶۹۲
عبدالسلام جبلپوری، مولانا: (ج۔۶)۳۶۸۴
عبدالسلام جونز (بدین): (ج۔۶)۳۶۸۹
عبدالسلام، خواجہ: (ج۔۱)۳۷۹۱
عبدالسلام درس: (ج۔۶)۳۵۷۶
عبد السلام سمرقندی، قاضی: (ج۔۱) ۲۹۳، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۷، (ج۔۴) ۲۵۰۳، (ج۔۶) ۳۳۴۳، (ج۔۸) ۴۹۴۶
عبدالسلام، شیخ: (ج۔۹)۵۱۵۶
عبد السلام صدیقی، مولانا: (ج۔۶) ۳۹۵۴، (ج۔۱۰) ۶۲۴۲
عبدالسلام علی شاہ: (ج۔۸)۴۸۴۷
عبدالسلام، عمادالدین: (ج۔۵)۲۸۴۸۔۲۸۴۹

عبدالسلام لاہوری، مولانا: (ج_۴) ۲۴۴۹
عبدالسلام مجددی، مولانا: (ج_۶) ۳۵۵۳
عبدالسلام نقشبندی، مولانا: (ج_۴) ۲۳۷۱
عبدالشکور چھاچھی اٹکی، سید مولانا: (ج_۱۰) ۵۸۶۴، ۵۸۸۲، ۵۹۳۰_۵۹۳۱
عبدالشکور، حاجی: (ج_۶) ۳۷۴۵
عبدالشکور، سید مولانا: (ج_۱۰) ۵۸۷۲
عبدالشکور شاکرائکی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۳۳_۵۹۳۴
عبدالشکور فاروقی لکھنوی، مولانا: (ج_۲) ۷۵۲، (ج_۵) ۲۵۵۵، ۲۶۱۳، ۲۸۱۸، ۳۰۴۰
عبدالشکور فاروقی، مولانا: (ج_۱۰) ۵۶۳۶_۵۶۳۷
عبدالشکور (فرزند شیخ شہباز مومندؒ): (ج_۱۰) ۵۸۷۰
عبدالشکور لکھنوی: (ج_۶) ۳۹۵۴
عبدالصبور بارہ مولی، حافظ: (ج_۱۰) ۵۸۷۸، ۵۸۹۲
عبدالصبور، خواجہ (مرشد خواجہ گل محمد): (ج_۶) ۳۴۹۵
عبدالصبور منشور ہزاروی: (ج_۱۰) ۶۴۳۵
عبدالصمد: (ج_۴) ۲۱۸۶
عبدالصمد ابن عبدالوارث: (ج_۷) ۴۲۸۷، ۴۳۰۴
عبدالصمد خان، خواجہ: (ج_۶) ۳۷۹۰، (ج_۱۰) ۶۰۰۲
عبدالصمد، خواجہ: (ج_۹) ۵۵۷۴
عبدالعزیز: (ج_۶) ۳۴۲۶
عبدالعزیز العمری العابد: (ج_۲) ۵۲۹
عبدالعزیز، امام بن محمد بن محمود: (ج_۵) ۲۸۴۸
عبدالعزیز بن ابی الدرداء: (ج_۷) ۴۳۴۵
عبدالعزیز بن ابی رواد: (ج_۲) ۵۸۵
عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ: (ج_۵) ۲۶۹۸
عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن: (ج_۲) ۵۳۱
عبدالعزیز بن عمر: (ج_۲) ۵۳۸
عبدالعزیز بن مختار: (ج_۲) ۵۶۶
عبدالعزیز جونپوری، شیخ: (ج_۲) ۷۹۲، ۷۹۵، ۱۰۲۱، ۱۲۰۲، (ج_۴) ۲۴۳۰، (ج_۶) ۳۴۴۷، (ج_۸) ۴۶۶۳، ۴۶۶۵، (ج_۹) ۵۲۸۳
عبدالعزیز، خواجہ (مرشد نظام الدین): (ج_۶) ۳۴۹۵، ۳۷۲۰
عبدالعزیز دہلوی، حاجی: (ج_۱) ۳۶۰
عبدالعزیز سنیدی، ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۱۹۰
عبدالعزیز، شاہ: (ج_۹) ۵۳۰۸_۵۳۰۹، ۵۳۱۲_۵۳۱۳
عبدالعزیز، شیخ: (ج_۱) ۲۹۶، ۳۶۶
عبدالعزیز، شیخ: (ج_۷) ۴۱۷۲
عبدالعزیز، صدرالدین: (ج_۵) ۲۸۴۸_۲۸۴۹
عبدالعزیز صدیقی: (ج_۲) ۴۸۳
عبدالعزیز عیون السعود، شیخ: (ج_۶) ۳۲۴۵
عبدالعزیز فاروقی مجددی، شیخ: (ج_۶) ۳۷۶۰
عبدالعزیز قریشی: (ج_۶) ۳۸۲۴
عبدالعزیز مجددی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۵۹
عبدالعزیز مجددی، میاں: (ج_۶) ۳۶۹۱
عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ: (ج_۱) ۴۵۸، (ج_۲) ۷۱۷، ۱۱۲۰، (ج_۳) ۱۵۹۶، ۱۷۲۸، (ج_۴) ۲۴۵۱،

۲۲۷۶، (ج۔۵) ۲۶۴۳، ۲۸۰۹، ۲۸۱۱۔۲۸۱۳، ۲۸۷۸، ۲۸۸۰، ۲۸۸۶، ۲۸۸۹، ۲۸۹۲، (ج۔۶) ۳۳۶۰۔ ۳۳۶۱، ۳۳۶۳، ۳۳۶۸، ۳۳۷۲، ۳۹۵۴، (ج۔۷) ۴۲۰۲، ۴۲۰۳، (ج۔۸) ۴۸۶۸، (ج۔۹) ۵۲۰۵، ۵۲۵۲، ۵۳۴۰، ۵۳۴۹، ۵۳۵۱، ۵۳۸۳، ۵۳۹۵، ۵۵۲۳، (ج۔۱۰) ۵۸۹۳

عبدالعزیز مکی: (ج۔۸) ۴۸۴۷

عبدالعزیز، میاں (فرزند میاں احمد معصوم مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۷

عبد العزیز، میاں (والد خواجہ فیض الحق جان چشموی): (ج۔۶) ۳۷۲۶۔

عبدالعزیز نحوی حنبلی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۰

عبدالعزیز نحوی حنبلی، شیخ (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۷

عبدالعزیز نسفی: (ج۔۲) ۵۸۹

عبدالعزیز نقشبندی، خواجہ: (ج۔۹) ۵۰۶۱

عبدالعزیٰ: (ج۔۸) ۴۸۳۹

عبد العظیم، شیخ (ولد قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی): (ج۔۱۰) ۵۸۱۰

عبدالعلی انصاری، علامہ: (ج۔۹) ۵۲۶۸

عبدالعلی شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۳۰۱

عبد العلی لکھنوی، علامہ: (ج۔۲) ۱۱۶۷، ۱۱۸۴، (ج۔۵) ۲۸۸۶

عبدالعلی، مولانا: (ج۔۶) ۳۳۷۸

عبدالعلیم باغ دروی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

عبدالعلیم خان: (ج۔۵) ۲۸۵۷، (ج۔۶) ۳۹۴۰

عبدالعلیم سیالوی، مفتی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

عبدالعلیم، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۳۷، ۲۳۰۳

عبدالعلیم صدیقی، مولانا شاہ: (ج۔۶) ۳۵۴۹

عبدالعلیم قریشی: (ج۔۶) ۳۸۰۰

عبدالغفار جان مجددی: (ج۔۶) ۳۶۹۲

عبدالغفار شاہ، پیر: (ج۔۱۰) ۵۹۶۵

عبد الغفار فضلی نقشبندی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۱۸، ۶۰۵۵، ۶۰۵۷، ۶۰۵۹، ۶۰۶۲، ۶۰۶۸

عبد الغفار، قاضی (مرید دوست محمد قندھاری): (ج۔۶) ۳۹۱۵

عبدالغفار، مجددی (ٹنڈو محمد خان): (ج۔۶) ۳۴۴۲

عبدالغفار، مولانا (لاڑکانہ): (ج۔۶) ۳۴۴۲

عبدالغفار نقشبندی، پیر: (ج۔۶) ۳۸۰۵، ۳۸۱۳

عبدالغفور اخوند، خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۵۰۔۴۸۵۱،

عبدالغفور، امام: (ج۔۶) ۳۳۶۹

عبدالغفور بغدادی، سید: (ج۔۵) ۲۶۸۸

عبدالغفور (پردادا شیخ سید امیر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۴۳

عبدالغفور، حافظ اخون صاحب سوات: (ج۔۶) ۳۸۶۶، ۳۸۹۰۔۳۸۹۱، (ج۔۱۰) ۵۸۸۴

عبدالغفور، حافظ شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۷

عبدالغفور سمرقندی، مولانا: (ج۔۱) ۴۵۲، (ج۔۳) ۱۳۷۴، ۱۴۵۳، ۱۷۶۴، (ج۔۴) ۲۳۹۴، ۲۴۲۸، ۲۴۳۷، (ج۔۶) ۳۸۶۰۔۳۸۶۲، (ج۔۹) ۵۱۹۱، ۵۲۲۱، (ج۔۱۰) ۵۸۶۳

عبد الغفور سیوستانی (والد مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی): (ج_۶) ۳۶۵۱
عبد الغفور شاہ، سید (فرزند سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج_۱۰)۵۸۵۸
عبدالغفور لاری، شیخ: (ج_۶)۳۲۸۶
عبد الغفور مدنی، مولانا: (ج_۶) ۳۵۴۹، ۳۶۸۶، (ج_۱۰)۶۰۵۱_۶۰۵۲، ۶۰۵۶_۶۰۵۷
عبدالغفور نقشبندی، شیخ المشائخ: (ج_۶)۳۷۱۳، ۳۸۳۰، ۳۸۹۶
عبدالغنی، الخلیلی: (ج_۸)۴۶۴۸
عبدالغنی بوبکائی، مخدوم: (ج_۶)۳۶۹۰
عبدالغنی، ڈاکٹر: (ج_۱)۱۰۴
عبدالغنی فاروقی دہلوی، شاہ: (ج_۱۰)۵۹۵۴
عبدالغنی قندھاری، حاجی: (ج_۵)۲۶۵۱
عبدالغنی محدث دہلوی مہاجر مدنی، شاہ: (ج_۱)۲۱، ۴۵۷، (ج_۲) ۴۸۸، ۴۹۶، ۸۲۴، (ج_۳) ۱۷۲۸، (ج_۴) ۲۰۷۰، ۲۴۹۲، (ج_۵) ۲۶۸۵، ۲۷۵۶، ۲۶۷۶، ۲۸۲۶، ۲۹۴۵، (ج_۶) ۳۱۵۷، ۳۳۶۰، ۳۳۶۵، ۳۳۸۸، ۳۳۹۰_۳۳۹۱، ۳۵۹۸، ۳۹۵۴، ۳۷۵۶، (ج_۸) ۴۵۷۲، ۴۹۴۸، (ج_۱۰) ۵۸۸۱، ۶۲۶۰_۶۲۶۱، ۶۲۶۶_۶۲۶۷
عبدالغنی نابلسی دمشقی، شیخ: (ج_۱) ۸۷، ۱۸۵، (ج_۲) ۱۱۰۷، (ج_۴) ۱۹۴۰، (ج_۵) ۲۶۹۷، ۲۶۹۹، ۲۸۲۹، (ج_۶)۳۱۶۱_۳۱۶۲، ۳۱۶۸_۳۱۷۱، ۳۱۷۵_۳۱۷۶، ۳۱۸۲، ۳۱۸۷، ۳۲۰۲، ۳۲۱۱، ۳۲۲۵_۳۲۲۶، ۳۲۳۱، ۳۲۸۶، ۳۹۵۴، (ج_۸) ۴۸۷۷، (ج_۹) ۵۰۴۰، ۵۰۶۷، ۵۳۳۹، ۵۴۱۷، (ج_۱۰)۵۶۲۹، ۶۲۰۴
عبدالغنی نیازی، شاہ پروفیسر: (ج_۱۰)۵۸۰۸
عبدالفتاح، شیخ: (ج_۴)۲۵۰۸، (ج_۶)۳۱۷۸، ۳۴۴۷
عبدالقادر: (ج_۶)۳۳۵۶
عبدالقادر احمد قرشی: (ج_۵)۲۸۵۷، (ج_۶)۳۹۵۵
عبدالقادر الجزائری، امیر: (ج_۵)۲۶۸۲_۲۶۸۳
عبد القادر بدایونی، ملا: (ج_۱) ۲۹۳، (ج_۲) ۷۷۹، (ج_۳) ۱۲۹۷، ۱۴۱۰، ۱۴۴۷، ۱۵۰۹، ۱۵۱۲، ۱۵۶۳، ۱۷۲۲، ۱۷۵۳، (ج_۴) ۱۹۸۲_۱۹۸۳، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳_۱۹۹۸، ۲۰۰۳، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۱۰_۲۰۱۲، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۰۶۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۱، ۲۱۰۳_۲۱۰۴، ۲۱۱۸، ۲۱۶۷، ۲۲۰۵، ۲۳۹۸_۲۳۹۹، ۲۴۰۴_۲۴۰۵، ۲۴۳۱_۲۴۳۲، (ج_۵)۲۵۶۲، ۲۵۹۴، ۲۵۹۹، ۲۷۴۹، (ج_۶) ۳۹۵۵، (ج_۷) ۴۲۳۲، (ج_۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، ۵۱۵۳، ۵۱۵۹، ۵۲۹۳، (ج_۱۰) ۵۶۲۵، ۵۶۵۰_۵۶۵۱، ۵۶۶۹، ۵۷۰۰_۵۷۰۲، ۵۷۰۷، ۶۱۰۶
عبدالقادر بن حبیب الصفدی الشامی، سید: (ج_۱۰)۶۱۶۷
عبدالقادر بن درویش ہمزاوی: (ج_۶)۳۲۳۷
عبدالقادر بن عبدالرحمٰن سقطی: (ج_۶)۳۱۷۸، ۳۱۹۰
عبدالقادر بن محمد امین: (ج_۹)۵۵۴۸
عبدالقادر بن محمد طبری، مفتی: (ج_۶)۳۱۵۵
عبدالقادر بن محمد مبارک: (ج_۵)۲۶۸۳
عبدالقادر جبلی، شیخ: (ج_۱۰)۶۳۹۳
عبدالقادر جیلانی، شیخ (غوثِ اعظم)ا: (ج_۱)۹۷، ۱۴۰، ۱۸۲_۱۸۳، ۲۶۱، ۳۷۹، ۴۳۵، (ج_۲)۸۳۱، ۸۳۴، ۹۲۴، ۱۰۲۰، ۱۰۸۹، ۱۰۶۷_۱۰۹۹، ۱۱۰۷، ۱۱۳۸، ۱۱۶۷،

۱۱۸۵، ۱۱۸۷، ۱۱۲۵، ۱۱۴۲، (ج۔۳) ۱۳۶۴، ۱۳۹۰، ۱۴۰۳، ۱۴۲۷، ۱۵۱۵، ۱۵۲۱، ۱۵۶۷، ۱۶۸۲، ۱۶۸۶، ۱۷۸۱، ۱۷۹۶، ۱۸۲۶، ۱۸۴۳_ ۱۸۴۵، ۱۸۵۵، (ج۔۴) ۱۹۴۰_ ۱۹۴۱، ۲۱۹۶، ۲۲۰۰، ۲۲۳۰، ۲۲۵۹، ۲۲۷۳، ۲۴۴۵_ ۲۴۴۶، ۲۵۰۰، ۲۵۰۷، (ج۔۵) ۲۶۳۸_ ۲۶۴۲، ۲۶۵۰، ۲۶۷۹_ ۲۶۸۰، ۲۶۹۸، ۲۷۴۳، ۲۸۸۰، ۲۸۸۷_ ۲۸۸۹، ۲۸۹۱، ۲۸۹۳، ۳۰۴۷_ ۳۰۴۸، ۳۰۷۴_ ۳۰۷۶، ۰۷۸، ۳۰۸۲_ ۳۰۸۹، ۳۰۹۲، ۳۰۹۵_ ۳۰۹۷، ۳۰۹۹_ ۳۱۰۰، ۳۱۰۲، ۳۱۰۴_ ۳۱۰۶، (ج۔۶) ۳۱۴۳، ۳۱۵۱، ۳۱۵۳، ۳۱۷۸، ۳۲۷۸، ۳۲۸۲، ۳۳۵۰، ۳۳۹۱، ۳۴۴۳، ۳۵۶۶_ ۳۵۶۷، ۳۵۹۴، ۳۵۹۸، ۳۶۰۳، ۳۶۰۷، ۳۷۶۵، ۳۸۱۰، ۳۸۵۰، ۳۸۸۲، ۳۸۸۴ ۳۸۹۲_ ۳۸۹۳، ۳۹۱۷، ۳۹۵۵، (ج۔۷) ۴۰۱۲، ۴۰۴۶، ۴۲۰۲، ۴۲۰۵، ۴۲۱۱، ۴۲۴۳(ج۔۸) ۴۵۰۱، ۴۵۳۰، ۴۵۴۳_ ۴۵۴۴، ۴۷۳۸، ۴۷۶۳، ۴۷۹۱، ۴۸۰۸، ۴۸۲۴، ۴۸۳۰، ۴۸۴۹_ ۴۸۵۰، ۴۸۵۸، ۴۸۶۰، ۴۸۶۳، ۴۹۰۳، ۴۹۴۵، (ج۔۹) ۵۰۱۳، ۵۰۳۵، ۵۰۱۴، ۵۰۸۱، ۵۲۰۶، ۵۲۲۸، ۵۲۶۹_ ۵۲۷۰، ۵۳۱۴_ ۵۳۱۶، ۵۳۳۴، ۵۳۳۶، ۵۳۳۸_ ۵۳۳۵، ۵۳۴۶_ ۵۳۴۷، ۵۳۴۹_ ۵۳۵۰، ۵۳۵۷_ ۵۳۵۸، ۵۳۷۲، ۵۳۹۱، ۵۴۱۰، ۵۴۵۳_ ۵۴۵۴، ۴۶۷، ۵۵۰۴، ۵۵۱۵، ۵۵۴۴_ ۵۵۴۵، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶، ۵۷۶۰، ۵۷۷۹، ۵۸۷۳، ۵۹۱۸، ۵۹۴۳، ۵۹۶۹، ۵۹۷۲، ۵۹۷۶، ۶۰۳۸، ۶۰۴۹

عبدالقادر حسنی: (ج۔۶) ۳۴۴۳

عبدالقادر، حکیم: (ج۔۲) ۱۰۰۱

عبدالقادر حنفی، شیخ (مرشد مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی): (ج۔۶) ۳۶۵۳

عبدالقادر خان خٹک بن خوشحال خان خٹک: (ج۔۱۰) ۵۸۷۱، ۵۸۹۰

عبدالقادر، خواجہ (مرشد خواجہ محمود): (ج۔۶) ۳۴۹۵

عبدالقادر خوقیر حنفی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۹۷

عبدالقادر دہلوی، شاہ (فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) (ج۔۱۰) ۵۸۰۰

عبدالقادر سلطان پشاوری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۸۸۸

عبدالقادر، سید (ج۔۶) ۳۴۴۳، ۳۵۶۷

عبدالقادر، سید پروفیسر (ج۔۵) ۲۹۶۵

عبدالقادر، شاہ (ج۔۶) ۳۳۶۰، (ج۔۹) ۵۲۵۷، ۵۲۵۹_ ۵۲۶۰، ۵۲۶۴، ۵۳۲۵

عبدالقادر، شیخ (مجدد الف ثانی کے برادر زادے) (ج۔۸) ۴۶۰۴

عبدالقادر عثمانی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۰

عبدالقادر عطا: (ج۔۲) ۴۹۹

عبدالقادر علی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۶

عبدالقادر عیسیٰ شاذلی، شیخ: (ج۔۵) ۲۹۶۶، ۳۰۰۱_ ۳۰۰۲، ۳۰۱۰، (ج۔۶) ۳۹۵۵

عبدالقادر (مرشد عبدالرزاق، سلسلۂ قادریہ): (ج۔۶) ۳۵۶۷

عبدالقادر، ملا: (ج۔۹) ۵۱۲۹

عبدالقادر، میاں تواپڑے والے: (ج۔۶) ۳۶۹۳

عبدالقادر نقشبندی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۵۷، ۳۸۳۰، (ج۔۱۰) ۵۸۸۶

عبدالقادر آزاد سبحانی، مولانا: (ج-۶) ۳۵۳۴

عبدالقاسم مجددی، میاں: (ج-۶) ۳۶۹۱

عبدالقاہر سہروردی: (ج-۸) ۴۸۴۶، (ج-۹) ۵۴۵۴

عبدالقدوس: (ج-۶) ۳۴۱۷

عبد القدوس جان چشموی: (ج-۶) ۳۷۴۶، (ج-۱۰) ۵۹۵۷

عبدالقدوس حنفی: (ج-۹) ۵۱۷۸

عبدالقدوس گنگوہی، شیخ: (ج-۱) ۱۱، ۱۸، ۱۴۲، ۳۶۹، ۴۱۱، ۴۱۸، ۴۴۲، (ج-۳) ۱۲۸۹، ۱۳۶۴، ۱۴۶۶، ۱۴۰۲، (ج-۴) ۲۰۷۲-۲۰۷۴، (ج-۵) ۲۵۶۰، (ج-۶) ۳۳۶۸، (ج-۷) ۴۰۷۳، ۴۱۷۰، ۴۱۷۲، ۴۱۷۳، (ج-۸) ۴۵۱۱، ۴۵۱۵، ۴۸۴۳، ۴۹۳۷، ۴۹۴۴، ۴۸۴۵، ۴۸۴۶، ۴۸۴۷، ۴۸۴۹، ۴۸۵۵، ۴۸۵۷، ۴۸۶۱، ۴۹۳۲، (ج-۹) ۵۰۵۳، ۵۱۲۲، ۵۱۵۶، ۵۱۸۷، ۵۲۲۶، ۵۴۶۸، ۵۵۱۳، (ج-۱۰) ۵۶۳۵، ۵۶۷۹، ۵۸۲۷

عبد القدوس مجددی (عرف شیریں جاں آغا): (ج-۶) ۳۵۲۵، ۳۵۹۹، ۳۶۰۷، ۳۶۹۲

عبدالقدوس ہاشمی: (ج-۶) ۳۰۳۹، ۳۷۹۹

عبدالقدوس، خواجہ: (ج-۱) ۲۲۸

عبد القدیر آغا، سید (فرزند حاجی بہاء الدین): (ج-۱۰) ۵۸۵۰

عبدالقوی، مولوی: (ج-۱۰) ۵۸۸۲

عبدالقیوم باغ دروی، خواجہ: (ج-۱۰) ۵۹۴۴

عبدالقیوم (بانی اسلامیہ کالج پشاور): (ج-۶) ۳۸۴۶

عبدالقیوم بختیار پوری، مولانا: (ج-۶) ۳۵۲۵، ۳۵۴۰، ۳۶۱۰

عبدالقیوم، پروفیسر: (ج-۵) ۲۹۲۵

عبدالقیوم، حاجی: (ج-۶) ۳۷۴۱

عبدالقیوم، خواجہ: (ج-۶) ۳۴۴۱

عبدالقیوم، شاہ: (ج-۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳، ۳۴۴۶، ۳۴۹۹

عبدالقیوم مجددی، شیخ: (ج-۶) ۳۴۹۶-۳۴۹۷، ۳۵۰۰

عبدالقیوم میرم زئی، مولانا: (ج-۶) ۳۸۵۷

عبدالکریم برزنجی، سید: (ج-۴) ۲۵۰۶

عبدالکریم بگٹی، خواجہ مولانا: (ج-۱۰) ۶۰۶۷

عبدالکریم بلڑی والے: (ج-۶) ۳۴۱۶

عبدالکریم بن ہوازن: (ج-۲) ۷۳۷

عبدالکریم تلمسانی، شیخ: (ج-۶) ۳۲۲۹

عبدالکریم ثانی ٹھٹوی، مخدوم: (ج-۶) ۳۶۸۸، ۳۶۸۸

عبدالکریم ثمر: (ج-۶) ۳۹۵۳

عبدالکریم جان محمد تالپور۔ ڈاکٹر: (ج-۶) ۳۷۰۲، ۳۷۰۵

عبدالکریم جیلی: (ج-۵) ۲۹۷۳، (ج-۶) ۳۹۵۵

عبدالکریم چشتی، مولوی: (ج-۶) ۳۵۳۶

عبدالکریم خلیفتی عباسی مدنی: (ج-۶) ۳۱۷۵

عبدالکریم درس، مولانا: رج-۵) ۳۶۰۹

عبدالکریم رامپوری، شاہ: (ج-۶) ۳۸۴۱

عبدالکریم زیدان: (ج-۶) ۳۹۵۵

عبدالکریم سنامی: (ج-۲) ۷۱۹

عبدالکریم شاہ، سید (فرزند سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج-۱۰) ۵۸۵۸

عبدالکریم، شیخ (والد شیخ نور محمد نقشبندی پشاوری): (ج۔۶) ۳۸۹۹_۳۹۰۰

عبدالکریم، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۷

عبدالکریم غزی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۸

عبدالکریم فضلی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۴

عبدالکریم، قاضی (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۳

عبدالکریم مدرس، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۶۵_۳۲۶۶، ۳۲۷۹، ۳۲۸۶

عبدالکریم، مولوی (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱

عبدالکریم، میاں (پنگرو، سکرنڈ): (ج۔۶) ۳۴۴۱

عبدالکریم، میاں (خلیفہ قاضی احمد دمالی): (ج۔۶) ۳۴۸۶

عبدالکریم، میاں (صوفی نواب شاہ): (ج۔۶) ۳۶۹۴

عبدالکریم نقشبندی، خواجہ (عیدگاہ راولپنڈی): (ج۔۶) ۳۷۷۵، (ج۔۱۰) ۵۸۰۶، ۵۹۳۹..۵۹۴۰

عبدالکریم یوسف زئی، ملا: (ج۔۶) ۳۸۳۸

عبداللطیف بختیارپوری: (ج۔۶) ۳۶۹۰

عبداللطیف بھٹائی، شاہ: (ج۔۶) ۳۴۱۶، ۳۵۱۳، ۳۵۸۱_۳۵۸۳

عبداللطیف پشاوری نقشبندی، مولانا حافظ: (ج۔۶) ۳۸۳۰، ۳۸۵۸، (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

عبداللطیف ثانی، شیخ (بدین): (ج۔۶) ۳۶۸۹

عبداللطیف، حاجی (والد خواجہ محمد زماں لواری شریف): (ج۔۶) ۳۵۷۵_۳۵۷۶

عبداللطیف، حاجی، سہروردی: (ج۔۶) ۳۴۳۷

عبداللطیف حلبی: ۳۱۷۰

عبداللطیف، خواجہ: (ج۔۴) ۲۳۲۵، ۲۵۰۶

عبداللطیف دہلوی، شاہ (ولد شاہ غلام علی دہلوی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۴

عبداللطیف، شاہ: (ج۔۴) ۲۴۷۷، (ج۔۶) ۳۳۵۶

عبداللطیف، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۱۲، ۲۳۱۵، ۲۳۲۱

عبداللطیف، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۱، ۳۴۴۷

عبد اللطیف صدیقی، مفتی (ٹھٹھہ): (ج۔۵) ۲۹۰۷، (ج۔۶) ۳۶۵۷، ۳۶۹۶

عبداللطیف قادری: (ج۔۵) ۲۹۱۳

عبداللطیف لشکرخان، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۸۴

عبداللطیف مخدوم (فرزند مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی): (ج۔۶) ۳۶۵۸_۳۶۵۹، ۳۶۸۸

عبد اللطیف نقشبندی، پیر: (ج۔۱) ۲۲، (ج۔۲) ۴۸۹، ۸۰۵، ۸۱۹، ۱۲۴۶

عبد اللطیف ہالائی، مخدوم (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۳

عبداللہ: (ج۔۶) ۳۳۶۴، ۳۳۷۸، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۵۲۰، ۴۶۱۶، ۴۷۵۸، ۴۸۳۸_۴۸۴۰، ۴۸۶۷

عبداللہ ابن حطاب سفارینی نابلسی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۸

عبداللہ ابن زبیر: (ج۔۱) ۲۱۷، (ج۔۲) ۵۹۴، (ج۔۷) ۴۰۳۱، (ج۔۸) ۴۶۳۵، (ج۔۹) ۵۱۸۷

عبد اللہ ابن عباس: (ج۔۲) ۵۵۵، (ج۔۴) ۲۳۲۰، (ج۔۵) ۲۶۷۹، ۲۶۸۹، ۲۹۲۰، (ج۔۷) ۴۰۲۰، ۴۲۴۹، ۴۲۶۶، ۴۲۸۹_۴۲۹۰، ۴۳۰۴_۴۳۰۵، ۴۳۰۹، ۴۳۳۰، ۴۳۳۳، ۴۳۳۶، ۴۳۴۲، ۴۳۵۶، ۴۳۶۶، ۴۳۶۹، ۴۳۷۳، ۴۳۸۲، ۴۳۸۶، ۴۳۹۳،

۴۳۹۶ـ ۴۳۹۸، ۴۴۰۲، ۴۴۰۸، ۴۴۱۰، (ج۔۸) ۴۵۲۶، ۴۷۴۶، (ج۔۹) ۵۴۱۸

عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب: (ج۔۴) ۲۲۶۲، ۲۲۸۸، ۲۳۱۲، (ج۔۶) ۳۳۷۸، (ج۔۷) ۴۲۸۱، ۴۲۸۲، ۴۲۹۷ـ ۴۲۹۹، ۴۳۰۲، ۴۳۰۶، ۴۳۲۹، ۴۳۳۳، ۴۳۳۵، ۴۳۴۰، ۴۳۴۴ـ ۴۳۴۵، ۴۳۵۷ـ ۴۳۵۸، ۴۳۶۲ـ ۴۳۶۳، ۴۳۷۲، ۴۳۹۱، ۴۴۰۲، ۴۴۰۵، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۵۲۶، ۴۶۱۶، ۴۶۳۴ـ ۴۶۳۵، ۴۷۲۰، ۴۷۹۰، ۴۸۳۹ (ج۔۹) ۵۱۸۶، (ج۔۱۰) ۵۸۳۶

عبد اللہ ابن عمرو بن العاص: (ج۔۲) ۵۵۶ـ ۵۵۷، ۶۱۲، ۱۲۳۴، (ج۔۷) ۴۴۱۱، (ج۔۹) ۵۲۸۸

عبد اللہ ابن مبارک: (ج۔۸) ۴۸۰۶

عبد اللہ ابن محمد باقی باللہ، خواجہ: (ج۔۱) ۱۷، ۳۰۸، ۳۰۶، ۴۲۰، ۴۲۵، (ج۔۲) ۹۹۵، ۱۱۲۱، (ج۔۴) ۲۴۲۲، ۲۴۲۶، (ج۔۷) ۴۴۷۸، (ج۔۸) ۴۴۸۸، ۴۴۹۳

عبد اللہ ابن مسعود: (ج۔۲) ۵۳۷ـ ۵۲۰، ۵۵۳، ۵۷۵، ۵۸۷، ۶۱۱، ۶۱۵ـ ۶۱۷، ۶۸۹، (ج۔۳) ۱۴۹۴، ۱۶۵۱، (ج۔۴) ۲۳۱۲، (ج۔۵) ۲۹۸۰، ۳۰۵۰، (ج۔۷) ۴۲۹۹، ۴۳۰۸، ۴۳۱۶، ۴۳۲۶، ۴۳۲۷، ۴۳۳۳، ۴۳۴۱، ۴۳۴۴، ۴۳۴۵، ۴۳۴۹، ۴۳۵۷، ۴۳۵۸، ۴۳۷۰، ۴۳۷۸۴۳۸۰، ۴۳۹۴، ۴۴۱۱، ۴۴۱۲، (ج۔۸) ۴۵۲۵، ۴۷۸۶، ۴۷۸۹، (ج۔۹) ۵۲۱۱، ۵۲۴۳، ۵۲۴۷، ۵۳۶۹، (ج۔۱۰) ۶۱۴۸

عبد اللہ ابو الخیر مرداد، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۷

عبد اللہ احرار، شیخ: (ج۔۴) ۲۲۹۰

عبد اللہ احمدانی (حیدر آباد): (ج۔۶) ۳۶۹۳

عبد اللہ، اخوزادہ: (ج۔۶) ۳۸۸۹، ۳۸۹۲

عبد اللہ ارزنجانی، شیخ: (ج۔۱) ۹۶، ۲۶۴

عبد اللہ ازبک: (ج۔۹) ۵۴۹۹

عبد اللہ اکبر آبادی، حافظ سید: (ج۔۴) ۲۳۹۶، (ج۔۶) ۳۳۵۸

عبد اللہ الحافظ: (ج۔۲) ۵۷۹

عبد اللہ السفاح، ابو العباس (عباسی خلیفہ): (ج۔۵) ۲۹۲۱

عبد اللہ الصغار: (ج۔۲) ۶۱۵

عبد اللہ العزیز، شاہ: (ج۔۶) ۳۳۶۵

عبد اللہ، العقیلی: (ج۔۷) ۴۳۴۵، ۴۳۵۰

عبد اللہ المحض، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۸

عبد اللہ المدرث، سید: (ج۔۸) ۴۸۵۹،

عبد اللہ (المعروف زید)، امام: (ج۔۱۰) ۵۹۹۶

عبد اللہ الواعظ الاصغر، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸، (ج۔۹) ۵۱۸۷

عبد اللہ الواعظ الاکبر، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۸) ۴۵۰۹

عبد اللہ الٰہی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۵

عبد اللہ، امام دارمی بن عبد الرحمن: (ج۔۵) ۲۸۸۳

عبد اللہ انصاری، پیر (ہرات): (ج۔۹) ۵۳۳۹، ۵۴۲۱

عبد اللہ انصاری، خواجہ: (ج۔۵) ۲۶۵۰، (ج۔۶) ۳۲۹۵، (ج۔۷) ۴۱۳۴، (ج۔۸) ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۲۳۵، ۵۲۶۰، ۵۴۵۶

عبد اللہ آفندی عناقی، مفتی مکہ مکرمہ: (ج۔۴) ۲۴۵۱، (ج۔۵) ۲۸۱۳، (ج۔۶) ۳۲۵۷، ۳۹۵۵، (ج۔۸) ۴۵۹۹

عبداللہ بابر، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵
عبداللہ بخاری، شیخ میر: (ج۔۶) ۳۸۷۳۔۳۸۷۴،
(ج۔۱۰)۵۸۷۵، ۵۹۳۳
عبداللہ برش آبادی، شیخ: (ج۔۸)۴۸۴۶،
عبداللہ بروہی، خواجہ: (ج۔۱)۳۸۱
عبداللہ بلخی، امیر: (ج۔۱)۲۹۴، ۲۹۵
عبداللہ بن ابراہیم محبوب، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۶
عبداللہ بن ابراہیم: (ج۔۷)۴۳۰۶
عبداللہ بن ابوبکر صدیق: (ج۔۵)۲۸۶۱، ۲۹۱۵، ۳۰۷۱،
۳۱۰۶، (ج۔۶)۳۹۷۹، (ج۔۷)۴۰۳۱
عبداللہ بن ابی اوفی: (ج۔۲)۵۴۷
عبداللہ بن ابی بن سلول: (ج۔۸)۴۶۲۰،
عبداللہ بن ابی زیاد: (ج۔۷)۴۳۰۸
عبداللہ بن احمد: (ج۔۶)۳۹۵۵، (ج۔۷)۴۴۶۷
عبداللہ بن احمد بن حنبل: (ج۔۲)۵۱د
عبداللہ بن ادریس: (ج۔۲)۵۴۶، ۵۷۷
عبداللہ بن اسد: (ج۔۷)۴۳۳۸
عبداللہ بن الحسین القاضی: (ج۔۲)۶۰۲
عبداللہ بن الزبیر الحمیدی: (ج۔۲)۵۰۷
عبداللہ بن الصباح: (ج۔۲)۵۵۱
عبداللہ بن المستیذ: (ج۔۷)۴۳۰۵
عبداللہ بن بسر: (ج۔۲)۵۳۲
عبداللہ بن جعفر: (ج۔۸)۴۵۲۶،
عبداللہ بن جعفر المزنی: (ج۔۲)۵۱۹
عبداللہ بن جعفر مدھر باعلوی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۵، ۳۲۰۶
عبداللہ بن حسین سویدی بغدادی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۸
عبداللہ بن خالد: (ج۔۲)۵۶۹
عبداللہ بن روح: (ج۔۷)۴۳۰۹
عبداللہ بن زید: (ج۔۲)۵۵۷
عبداللہ بن زید بن عبدربہ: (ج۔۲)۶۹۷
عبداللہ بن زین الدین بصروی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۸،
۳۲۲۸
عبداللہ بن سالم بصری: (ج۔۶)۳۱۷۰، ۳۱۷۵، ۳۱۹۱
عبداللہ بن سبر: (ج۔۷)۴۳۷۸
عبداللہ بن سفیان المزنی: (ج۔۲)۵۵۶
عبداللہ بن سلیمان ماجری، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۶، (ج۔۷)
۴۲۸۵
عبداللہ بن سہیل، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۶
عبداللہ بن ضمرۃ السلولی: (ج۔۲)۶۰۷
عبداللہ بن عامر: (ج۔۲)۶۳۲
عبداللہ بن عبدالرحمٰن: (ج۔۲)۵۲۹، ۵۵۵، ۵۹۹،
(ج۔۵) ۲۷۰۰، ۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۱۸۹۔۳۱۹۰،
(ج۔۷)۴۳۰۹
عبداللہ بن عبدالرحمٰن جبرین: (ج۔۵)۲۶۹۸
عبداللہ بن عبدالعزیز: (ج۔۷)۴۳۴۵
عبداللہ بن عبدالقدوس: (ج۔۲)۵۱۷
عبداللہ بن عبدالوہاب: (ج۔۷)۴۲۹۵
عبداللہ بن علی باحسین سقاف، سید شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۱۔

۳۱۹۲، ۳۲۱۲

عبداللہ بن عمار: (ج۔۷)۴۲۸۲

عبداللہ بن عمر الجوہری: (ج۔۲)۵۶۲

عبداللہ بن عمر مھار، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵

عبد اللہ بن عنبسۃ: (ج۔۲) ۵۳۴۔ ۵۳۵، (ج۔۷) ۴۲۹۰۔۴۲۹۱، ۴۲۹۵، ۴۲۸۹،

عبداللہ بن غنام: (ج۔۷)۴۲۸۹۔۴۲۹۱

عبداللہ بن قیس: (ج۔۷)۴۳۴۲،

عبد اللہ بن مبارک: (ج۔۳) ۱۵۹۶، (ج۔۵) ۳۰۵۱، (ج۔۶)۳۹۵۶، (ج۔۷)۴۳۱۱، ۴۳۴۵، (ج۔۹)۵۱۱۰

عبداللہ بن محمد: (ج۔۲)۵۱۷، ۵۷۶

عبداللہ بن محمد الطیفونی، ابوالعباس: (ج۔۲)۶۰۷

عبداللہ بن محمد بن اسحٰق: (ج۔۲)۵۲۷

عبداللہ بن محمد بن الحنفیۃ: (ج۔۷)۴۳۶۳،

عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان: (ج۔۲)۶۴۷

عبداللہ بن محمد بن سفیان: (ج۔۲)۵۵۸

عبداللہ بن محمد طاہر مرادی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۳۲۔۳۲۳۳

عبداللہ بن مسلمۃ: (ج۔۷)۴۲۹۱، ۴۲۹۲

عبداللہ بن مصطفیٰ، شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۴

عبداللہ بن مغفل المزنی: (ج۔۲)۵۲۸

عبداللہ بن مفضل: (ج۔۷)۴۳۶۱، ۴۳۶۱

عبداللہ بن منقذ: (ج۔۷)۴۳۴۳، ۴۳۴۳

عبداللہ بن موسیٰ: (ج۔۲)۵۵۸

عبداللہ بن وہب: (ج۔۲)۶۰۵

عبداللہ بن یحییٰ بن معاویۃ، ابوبکر: (ج۔۲)۵۸۷

عبداللہ بن یوسف الاصبہانی: (ج۔۲)۵۴۲

عبداللہ بہاؤالدین: (ج۔۷)۴۲۶۱

عبد اللہ پشاوری، سید (المعروف حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰)۵۸۶۶، ۵۸۶۸، ۵۸۸۸۔ ۵۸۸۹، ۵۸۹۱، ۵۹۳۰

عبداللہ، پیر (المعروف پیر بارو): (ج۔۶)۳۷۹۵

عبد اللہ، تاج الدین (فرزند امام تورپشتی): (ج۔۵) ۲۸۴۸۔۲۸۴۹

عبد اللہ، تاج الدین (فرزند نظام الدین محمد): (ج۔۵) ۲۸۴۹

عبداللہ ٹپٹائی (حیدرآباد): (ج۔۶)۳۶۹۲

عبداللہ ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۸۸

عبد اللہ جان سرہندی، عرف شاہ آغا: (ج۔۶) ۲۸۱۷، (ج۔۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۴، ۳۴۴۹، ۳۵۲۴، ۳۵۲۸۔ ۳۵۲۹، ۳۵۳۹۔ ۳۵۴۱، ۳۵۵۴، ۳۶۰۰، ۳۶۰۵، ۳۶۱۰، ۳۶۱۳، ۳۷۰۱۔۳۷۰۲، ۳۷۰۶۔۳۷۰۷

عبداللہ جان فاروقی، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۷۰،

عبداللہ جان، پیر: (ج۔۹)۵۵۷۳

عبداللہ جبوری: (ج۔۵)۲۷۰۰، (ج۔۶)۳۹۵۶

عبداللہ (جد امجد علامہ سید حبیب احمد نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

عبداللہ جونی، شیخ: (ج۔۴)۲۲۵۹

عبداللہ جیلی، سید: (ج۔۸)۴۸۵۹

عبد اللہ، حافظ (فرزند مولانا حافظ عبداللطیف پشاوری

نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۹

عبداللہ حجازی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

عبداللہ حسینی: (ج۔۶) ۳۴۱۶

عبداللہ حکیم، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۷۱۲_۳۷۱۳

عبداللہ خان بروہی بلوچ، میر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۱

عبداللہ خان مہمند (ولد ارباب معزاللہ خان): (ج۔۱۰) ۵۸۷۶

عبداللہ خان نقشبندی: (ج۔۳) ۱۸۶۲، (ج۔۴) ۲۲۵۲، (ج۔۶) ۳۸۵۰، (ج۔۸) ۴۵۱۳، ۴۵۶۰

عبداللہ خجندی، شیخ: (ج۔۱) ۲۳۸

عبداللہ خرپانی، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۰۶

عبداللہ خرقہ پوش، ملا: (ج۔۶) ۳۵۵۸

عبداللہ، خواجہ: (ج۔۹) ۵۴۷۴

عبداللہ خواجہ: (ج۔۷) ۴۱۳۹

عبداللہ خویشگی قصوری، مولانا: (ج۔۳) ۱۴۰۳، (ج۔۴) ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۵۰، ۲۲۵۲، ۲۲۵۴_۲۲۵۶، (ج۔۵) ۲۸۱۶، ۳۱۰۹، (ج۔۶) ۳۹۵۶، (ج۔۸) ۴۶۰۰، (ج۔۹) ۵۳۳۱_۵۳۳۲، ۵۳۶۳، ۵۳۶۵، ۵۳۷۱، ۵۳۸۴

عبداللہ داغستانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۴_۳۲۴۵، ۳۲۴۹

عبداللہ دحلان مکی، شیخ: (ج۔۶) ۳۷۵۶

عبداللہ درخانی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۳۳، (ج۔۱۰) ۵۹۵۳

عبداللہ، ڈاکٹر سید: (ج۔۵) ۲۹۷۴، ۳۰۱۱، (ج۔۶) ۳۹۵۵

عبداللہ (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷) ۴۳۵۴، ۴۳۶۳، ۴۳۶۷، ۴۳۷۲، ۴۲۸۵، ۴۳۸۷_۴۳۸۸

عبداللہ روپڑی: (ج۔۱) ۳۰، (ج۔۴) ۲۵۲۵، (ج۔۵) ۲۵۳۶، ۲۵۵۶

عبداللہ رومی (مفتی اعظم خلافت عثمانیہ): (ج۔۶) ۳۱۸۳

عبداللہ سالم: (ج۔۸) ۴۸۹۳

عبداللہ سرطاوی، مفتی: (ج۔۵) ۲۶۹۲

عبداللہ سقاف، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۲

عبداللہ سلطان پوری، ملا: (ج۔۴) ۲۳۹۷، (ج۔۸) ۴۹۳۱، (ج۔۹) ۵۱۳۲، ۵۱۶۰، (ج۔۱۰) ۵۷۰۰

عبداللہ سمندر غوریالی (مصنف): (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

عبداللہ سندھی، شیخ مکی: (ج۔۶) ۳۵۰۰

عبداللہ سورتی: (ج۔۴) ۲۴۱۳

عبداللہ سولنگی، الحاج: (ج۔۶) ۳۶۶۸

عبداللہ سہروردی: (ج۔۱) ۱۱، ۱۸، ۶۱، ۱۴۲، (ج۔۲) ۱۱۰۱

عبداللہ شاہ وبھڑائی، حاجی (دادو): (ج۔۶) ۳۶۹۱

عبداللہ، شاہ: (ج۔۶) ۳۳۷۰، (ج۔۹) ۵۵۲۵

عبداللہ شاہ (بخارا): (ج۔۴) ۲۰۰۱

عبداللہ شاہ، سید (مرشد سید عنایت اللہ شاہ): (ج۔۶) ۳۴۹۵

عبداللہ شاہ، مولانا (خلیفہ مولانا عبد الغفار نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۶۸

عبداللہ، شیخ (فرزند شیخ شہباز مومندؒ): (ج۔۱۰) ۵۸۶۹_۵۸۷۰

عبداللہ، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۹) ۵۲۲۸

عبداللہ، صاحبزادہ (پشین کوئٹہ): (ج_۶) ۳۷۱۷
عبداللہ، صاحبزادہ، خواجہ: (ج_۷) ۴۴۶۷
عبداللہ صلاح الدین: (ج_۷) ۴۲۶۱
عبداللہ صوفی، شیخ: (ج_۹) ۵۲۱۶
عبداللہ، عارف باللہ: (ج_۷) ۴۰۶۱
عبداللہ عباسی شافعی، علامہ: (ج_۹) ۵۳۴۱
عبداللہ عتاقی زادہ، مفتی: (ج_۹) ۵۳۴۱
عبد اللہ عرف خواجہ خورد، مولانا قاضی: (ج_۱) ۲۱۷، (ج_۶) ۳۳۴۵
عبداللہ، علامہ: (ج_۱) ۴۲
عبداللہ علمدار: (ج_۸) ۴۸۴۶
عبداللہ علوی حداد تریمی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۹۱
عبد اللہ غازی ہندی مکی، شیخ: (ج_۵) ۲۷۰۳، (ج_۶) ۳۱۹۰، ۳۹۵۵_۳۹۵۶، (ج_۸) ۴۸۵۱
عبداللہ غریب، شیخ: (ج_۶) ۳۲۰۶
عبداللہ غلام علی، شاہ: (ج_۴) ۲۵۰۶_۲۵۰۷، (ج_۸) ۴۸۶۸، ۴۹۰۶
عبداللہ فردی، شیخ: (ج_۴) ۲۵۱۰
عبداللہ قادری ٹھٹوی، سید: (ج_۱۰) ۵۸۹۰
عبداللہ، قاضی: (ج_۴) ۲۰۵۲، ۲۰۶۵
عبداللہ قریشی: (ج_۵) ۲۹۴۴
عبداللہ قطب، شیخ: (ج_۱) ۱۱، ۱۸، ۱۴۱، (ج_۶) ۳۹۵۶، (ج_۱۰) ۵۶۲۱
عبداللہ قندھاری، مولوی: (ج_۱۰) ۵۹۵۵
عبداللہ کاکڑ، ملا: (ج_۶، ۳۵۵۸
عبداللہ کلاں بن عبید اللہ احرار، خواجہ: (ج_۵) ۲۹۱۰
عبداللہ کندیاں نقشبندی، خواجہ: (ج_۶) ۳۸۴۶
عبداللہ، مجددی خواجہ: (ج_۶) ۳۴۴۳
عبداللہ محدث دکن، سید: ج_۱۰) ۶۲۴۴
عبداللہ محمد شریف المکی: (ج_۱۰) ۵۶۳۰
عبداللہ، مخدوم محفہ والے (نواب شاہ): (ج_۶) ۳۶۹۴
عبداللہ، مخدوم ولد مخدوم میدنہ: (ج_۶) ۳۴۷۶
عبداللہ مدنی، السید بن محمد: (ج_۶) ۳۹۵۶
عبد اللہ مراد مکی حنفی شہید، شیخ ابو الخیر: (ج_۶) ۳۹۱۲، ۳۹۵۵
عبداللہ معلّمی، شیخ بن عبدالرحمٰن: (ج_۶) ۳۹۵۶
عبداللہ مغربی، شیخ: (ج_) ۹۵، (ج_۶) ۳۱۶۷، (ج_۸) ۴۸۴۶، (ج_۱۰) ۵۶۲۸، ۵۷۵۹
عبداللہ مکی بن سالم: (ج_۵) ۳۰۷۹
عبداللہ میاں، شیخ: (ج_۱) ۳۳۱۰
عبداللہ میر غنی، علامہ سید: (ج_۵) ۲۶۸۴
عبداللہ نقشبندی القادری، شاہ: (ج_۶) ۳۴۱۰
عبد اللہ نقشبندی، حافظ (مرید خواجہ محمد قاسم موہڑوی): (ج_۶) ۳۸۳۰
عبداللہ نقشبندی، شاہ: (ج_۶) ۳۴۱۰، ۳۹۸۲
عبد اللہ نقشبندی، صوفی (خلیفہ زندہ پیر گھکول شریف): (ج_۶) ۳۹۲۵
عبد اللہ نقشبندی مجددی: (ج_۷) ۴۴۷۸، (ج_۸)

۴۴۸۸
عبداللہ (نواسہ غلام محمد پشاوری نقشبندی مجددی): (ج۔۶) ۳۸۶۷
عبداللہ وجیہ الدین: (ج۔۸)۴۸۵۵،
عبداللہ، وڈیرہ: (ج۔۶)۳۶۱۱
عبداللہ ولد نعمت اللہ: (ج۔۶)۳۴۷۶
عبداللہ وہ وہ لی اوغلو، علامہ: (ج۔۵)۲۷۶۵
عبداللہ ہراتی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۷۹
عبداللہ ہروی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۸۲
عبداللہب بن مسعود: (ج۔۸)۴۷۸۶
عبد المالک گھلو، مولانا (مرید خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۱_۶۰۵۲
عبدالماجد دریا آبادی: (ج۔۲) ۹۸۸، (ج۔۶) ۳۶۴۰، ۳۹۵۶، (ج۔۸)۴۸۳۲
عبدالمالک اخونزادہ، مولانا: (ج۔۶)۳۸۹۲
عبدالمالک صدیقی، حافظ قاری حاجی: (ج۔۱۰)۶۰۳۳، ۶۰۵۶
عبد المالک قریشی، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۶
عبد المالک مجددی، میاں (صوفی کراچی): (ج۔۶) ۳۶۹۱
عبدالمجتبیٰ رضوی: (ج۔۸)۴۸۶۳_۴۸۶۴
عبدالمجید اخوان زادہ، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۶
عبدالمجید بن محمد الخانی الخالدی النقشبندی: (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۰۰_۶۴۰۱، ۶۴۱۶
عبد المجید بن محمد الخانی الخالدی النقشبندی: (ج۔۵) ۲۶۷۵، ۲۶۷۶، ۲۶۸۳، ۲۷۰۰، (ج۔۶) ۳۱۹۰، ۳۹۵۶، (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۰۰، ۶۴۰۱، ۶۴۱۶
عبد المجید جان (فرزند محمد اسماعیل جان مجددی روشن): (ج۔۶)۳۴۹۴_۳۴۹۵، ۳۶۱۹
عبدالمجید، حافظ خواجہ: (ج۔۶)۳۷۱۱، ۳۷۱۹_۳۷۲۰
عبدالمجید خان، سلطان: (ج۔۸)۴۶۶۲، (ج۔۹)۵۲۵۲
عبدالمجید خان، شیخ: (ج۔۴)۲۵۰۸، (ج۔۱۰)۶۴۲۰
عبدالمجید، خواجہ (مرشد خواجہ عبدالعزیز): (ج۔۶)۳۴۹۵
عبدالمجید دہلوی، حکیم: (ج۔۱۰)۵۹۳۵
عبدالمجید سالک: (ج۔۱) ۳۳، (ج۔۵) ۲۹۲۵_۲۹۲۷، ۲۹۴۴، ۳۰۴۱، ۳۱۱۷، (ج۔۶)۳۱۲۹، ۳۱۴۴
عبدالمجید سندھی، مولانا (خلیفہ سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج۔۱۰)۵۸۵۹
عبد المجید سیفی، حکیم: (ج۔۵) ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، (ج۔۸) ۴۵۷۸_۴۵۷۹، ۴۹۸۵،
عبد المجید شاہ، سید (شاگرد محمد عبداللہ درخانی نقشبندی): (ج۔۶)۳۷۳۸
عبدالمجید، شیخ: (ج۔۲)۱۰۱۰، (ج۔۹)۵۱۸۰
عبد المجید، شیخ (مرید خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۴۷، ۶۰۴۹
عبدالمجید، قاری حافظ سید: (ج۔۱۰)۵۹۵۷
عبدالمجید قصوری، مولانا، خلیفہ سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج۔۱۰)۵۸۵۹

عبدالمجید، مولانا: (ج۔۶) ۳۳۶۹، ۳۳۷۲، ۳۳۸۲

عبدالمحسن بن صالح مرادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۳۳، ۳۲۴۰۔۳۲۴۱

عبدالمصطفیٰ ازہری، علامہ: (ج۔۶) ۳۶۷۱، (ج۔۱۰) ۵۸۱۰

عبدالمطلب: (ج۔۸) ۴۸۴۰

عبدالمعطی، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۵۶۰

عبدالمقتدر قادری بدایونی، شاہ مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۱

عبدالملک: (ج۔۴) ۲۳۱۴

عبدالملک بن مرادن (خلیفہ امویہ): (ج۔۵) ۳۰۵۶

عبدالمنان پلوسی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۴

عبدالمنان (فرزند بابا لعل خان کانشوی بالاکوٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۴

عبدالمومن بن عبداللہ ازبک: (ج۔۵) ۲۶۰۱، (ج۔۱۰) ۵۶۷۰

عبدالمومن لاہوری، مولانا: (ج۔۲) ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، (ج۔۳) ۱۴۲۲، ۱۸۵۷، ۱۸۶۴، (ج۔۴) ۲۳۹۴، ۳۰۳۱۔۳۰۳۴، ۳۰۴۴

عبدالنبی، شیخ صدر الصدور: (ج۔۴) ۲۴۰۰، ۲۴۰۲، ۲۴۰۶، (ج۔۱۰) ۵۷۰۰

عبدالنبی، شیخ (ہمعصر عالم شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی): (ج۔۱۰) ۵۹۱۹

عبدالنبی، شیخ محدث: (ج۔۴) ۲۰۰۱، ۲۰۹۱، ۲۱۶۰، ۲۳۹۹، ۲۴۰۳، (ج۔۸) ۴۹۳۲، ۴۹۳۶، (ج۔۹) ۵۱۳۳، ۵۱۶۰، ۵۵۱۳

عبدالنبی قریشی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۴۵

عبدالنبی، مولانا: (ج۔۴) ۲۱۱۹، ۲۴۰۵

عبدالنعیم عزیزی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۰۵، (ج۔۶) ۳۶۴۲، (ج۔۱۰) ۶۹۶:

عبدالواحد: (ج۔۸) ۴۸۴۱

عبدالواحد الملیحی: (ج۔۲) ۵۳۵، (ج۔۷) ۴۲۹۱

عبدالواحد بلگرامی، میر: (ج۔۵) ۲۸۷۷

عبدالواحد بن زیاد: (ج۔۷) ۴۳۰۸

عبدالواحد بن زید، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۵۶،

عبدالواحد بن عبدالعزیز تمیمی: (ج۔۸) ۴۸۶۰

عبدالواحد بن عبدالعزیز، ابوالفضل: (ج۔۸) ۴۸۴۹

عبدالواحد بن عبدالواسط: (ج۔۱۰) ۶۱۴۱

عبدالواحد بوبکائی، میاں حاجی: (ج۔۶) ۳۶۰۳

عبدالواحد پاٹائی: (ج۔۶) ۳۵۱۳

عبدالواحد خان: (ج۔۹) ۵۲۵۲

عبدالواحد، سیوستانی (مخدوم): (ج۔۶) ۳۴۴۲، ۳۴۴۹، ۳۴۷۸، ۳۵۱۲۔۳۵۱۳، ۳۵۱۵۔۳۵۱۶، ۳۵۱۸۔۳۵۲۰، ۳۵۲۳، ۳۶۰۵، ۳۷۰۲

عبدالواحد شاہ، سید قاری (خلیفہ سید فیض محمد شاہ قندھاری): (ج۔۱۰) ۵۸۵۹

عبدالواحد (فرزند صوفی خیر محمد نقشبندی مجددی): (ج۔۱۰) ۵۹۵۸

عبدالواحد لاہوری، مولانا: (ج۔۳) ۱۳۷۳، (ج۔۴) ۲۳۹۳، (ج۔۵) ۲۷۴۸

عبدالواحد، مخدوم سھونی: (ج۔۶) ۳۴۴۰

عبد الواحد معینی، سید: (ج۔۵) ۲۹۴۵، ۳۰۱۱، ۳۰۲۰، ۳۰۴۲، (ج۔۶)۳۹۵۶

عبدالواحد، میاں (نواب شاہ): (ج۔۶)۳۶۹۴

عبدالواحد یحییٰ، شیخ: (ج۔۹)۵۲۵۵

عبدالواحد آخوند، ملا: ۳۷۳۱

عبدالوارث خاں، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۹۲

عبدالواسط بن ظم ظم: (ج۔۱۰)۶۱۴۱

عبدالوالی، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۸۶

عبدالودود خان: (ج۔۲)۷۳۶، (ج۔۶)۳۹۵۶

عبدالودود سلامی، مولانا: (ج۔۵)۲۹۱۳

عبدالوکیل دروبی دمشقی، شیخ: (ج۔۵) ۲۷۰

عبدالولی (نوشہرو فیروز): (ج۔۶)۳۴۴۱

عبدالولی، میاں: (ج۔۶)۳۴۷۵

عبدالوہاب بخاری، سید: (ج۔۱۰)۵۹۲۵

عبدالوہاب بخاری، شیخ: (ج۔۹)۵۵۱۴، ۵۵۱۳

عبدالوہاب بن احمد: (ج۔۲)۷۳۱

عبدالوہاب بن صالح، امام جامع العتیق: (ج۔۵)۲۸۴۶۔ ۲۸۴۷

عبدالوہاب بن عبدالمجید: (ج۔۲)۴۴۔

عبدالوہاب بن یاسین، شیخ: (ج۔۶)۳۳۲۸۔ ۳۳۲۹

عبدالوہاب، پیر (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۸۲

عبد الوہاب تاج الدین سبکی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۴۶۔ ۲۸۴۷، ۲۸۵۰۔ ۲۸۵۲، ۲۸۵۴۔ ۲۸۵۵، ۲۸۵۷، (ج۔۶)۳۹۵۶

عبدالوہاب، حکیم: (ج۔۸)۴۵۰۳، ۴۹۱۹، ۴۸۵۹

عبد الوہاب، سید (المعروف اخوند پنجو بابا): (ج۔۱۰) ۵۸۶۵، ۵۸۷۴، ۵۸۸۶۔ ۵۸۸۷

عبدالوہاب، سید: (ج۔۶)۳۴۳۳

عبد الوہاب شعرانی، امام: (ج۔۱)۱۸۴، (ج۔۲)۵۳۲، ۵۸۸، ۵۹۳، ۶۳۸، (ج۔۳)۱۵۶۶، (ج۔۴)۲۳۲۶، (ج۔۵)۲۶۹۷، (ج۔۶)۳۹۵۷

عبدالوہاب، صوفی (مرید غوث اعظم): (ج۔۶)۳۵۶۷

عبد الوہاب (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۵

عبد الوہاب متقی، شیخ: (ج۔۳)۱۹۸۲۔ ۱۹۸۳، (ج۔۴)۲۴۰۸، (ج۔۶)۳۳۵۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۰

عبدالوہاب موسوی نیازی، پیر سید: (ج۔۵)۲۶۸۹

عبدالوہاب، مولانا: (ج۔۶)۳۳۷۸

عبدالوہاب، میاں ابن پیر ثانی: (ج۔۶)۳۸۰۵

عبدالہادی بدایونی، مولانا: (ج۔۱)۴۵۲، (ج۔۳)۱۳۷۴، ۱۴۲۲، (ج۔۵)۲۷۴۸

عبدالہادی بزمی، پروفیسر: (ج۔۱۰)۵۹۵۸

عبدالہادی ٹھٹوی، سید (عرف جمیل شاہ ناگروی): (ج۔۶)۳۶۸۸

عبدالہادی، شیخ: (ج۔۴)۲۳۹۶، (ج۔۶)۳۴۵۲، ۳۶۶۴

عبد بن جراد: (ج۔۷)۴۴۱۱، ۴۴۱۳

عبد مصری بن علی، شیخ: (ج۔۶)۳۶۵۳

عبد مناف: (ج۔۸)۴۸۴۰

عبدی، ملا (والد شاہ محمد بدخشی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۸

عبدالقادر بدایونی، ملا: (ج۔۳) ۱۴۴۲، (ج۔۴) ۲۲۶۹

عبدۃ بن عبیداللہ: (ج۔۲) ۵۷۳

عبقۃ بن عامر: (ج۔۷) ۴۳۶۰، ۴۳۷۶

عبید الرحمٰن فاروقی مجددی (فرزند شاہ ابوالفیض بلال فاروقی مجددی): (ج۔۶) ۳۷۵۸۔۳۷۵۹

عبید اللہ احرار، خواجہ: (ج۔۲) ۲۶۲۔۲۶۳، ۲۹۹، ۳۰۴، ۳۱۷، ۳۲۳، ۳۳۶، ۳۴۵، ۳۵۳، ۳۶۲، ۴۲۰، ۴۲۵، (ج۔۲) ۹۹۵، ۱۲۱۵، (ج۔۳) ۱۴۵۳، ۱۶۸۴، (ج۔۴) ۱۹۴۴، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۱۹۷، ۲۲۵۰۔۲۲۵۲، ۲۲۶۲۔۲۲۶۴، ۲۳۱۷، ۲۴۲۳، (ج۔۵) ۲۶۷۸، ۲۷۲۸، ۲۸۹۰، ۲۹۷۸، (ج۔۶) ۳۲۲۶ ۳۲۸۵۔۳۲۸۶، ۳۲۹۸، ۳۵۶۶، ۳۹۵۷، ۳۹۸۱، (ج۔۷) ۴۰۳۴، ۴۰۸۰، ۴۱۰۳، ۴۱۳۸، ۴۱۳۹، ۴۱۴۳، (ج۔۸) ۴۵۲۰، ۴۶۱۵، ۴۶۹۶، ۴۷۵۸، ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶۔۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۱۵۷، ۵۲۹۴۔۔۵۲۹۵، ۵۴۷۴، ۵۵۳۲، ۵۳۵۰، ۵۳۶۹، ۵۳۸۸. (ج۔۱۰) ۵۷۸۴۔۵۷۸۷، ۵۷۹۰، ۵۷۹۸، ۵۷۸۳، ۶۱۰۱۔۶۱۰۲، ۶۱۴۰، ۶۱۵۴، ۶۲۷۷

عبیداللہ بلخی عشقی، امیر: (ج۔۴) ۲۳۶۵

عبیداللہ بن ابی رافع: (ج۔۲) ۵۴۹

عبیداللہ بن الفضل الکلاعی: (ج۔۷) ۴۲۸۴

عبیداللہ بن عمر القواریری: (ج۔۲) ۵۶۹

عبیداللہ بن معاذ: (ج۔۷) ۴۲۸۱

عبیداللہ بن موسیٰ: (ج۔۲) ۵۵۹، (ج۔۷) ۴۲۸۱

عبیداللہ جان فاروقی نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۱۰۴

عبیداللہ سرہندی خواجہ: (ج۔۵) ۲۲۸۱

عبید اللہ سرہندی، خواجہ (فرزند خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

عبیداللہ سمرقندی: (ج۔۷) ۴۰۶۱

عبیداللہ، شیخ عارف باللہ: (ج۔۷) ۴۰۶۱

عبیداللہ فاروقی مجددی: (ج۔۶) ۳۷۵۸

عبیداللہ قدسی مصنف آزادی کی تحریکیں: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

عبید اللہ مجددی سرہندی، (مروج الشریعہ): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

عبیداللہ مروج، خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۶۷

عبیداللہ میاں گل (فرزند و خلیفہ میاں محمد عمر چمکنی): (ج۔۶) ۳۸۹۹

عبیداللہ نہری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۹

عبید بن شریک: (ج۔۲) ۵۶۳

عبید کابلی، خواجہ: (ج۔۱) ۲۹۴۔۲۹۵، ۲۹۸

عبیدۃ الربزی: (ج۔۲) ۵۵۱

عبیدۃ بن ابی رائطہ: (ج۔۲) ۵۲۸۔۵۲۹

عتبہ بن حماد الدمشقی، ابوخلید: (ج۔۲) ۶۰۶

عترلیس، شیخ (ولی اللہ): (ج۔۶) ۳۲۱۰

عثمان آخوند، ملا: (ج۔۶) ۳۷۱۱، ۳۷۱۵، ۳۷۲۱

عثمان ابن ابی شیبہ: (ج۔۲) ۵۲۱، (ج۔۷) ۴۲۹۹

عثمان ابن سعد: (ج۔۲) ۵۴۰

عثمان ابن موہب: (ج۔۷) ۴۲۹۷

عثمان احمد آبادی: (ج۔۶) ۳۶۲۹۔۳۶۳۰

عثمان اخوند سنٹیا کاکڑ، ملا: (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

عثمان الہندی: (ج۔۲) ۵۶۹

عثمان بن ابی العاص، الثقفی: (ج۔۷) ۴۲۹۲، ۴۳۹۹

عثمان بن سعید: (ج۔۲) ۵۴۱

عثمان بن سند الوائلی، الشیخ: (ج۔۱۰) ۶۳۹۷

عثمان بن عامر: (ج۔۷) ۴۰۱۸۰

عثمان بن عبداللہ: (ج۔۷) ۴۲۹۸، ۴۴۰۱

عثمان بن عبدالسلام داغستانی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۸۵

عثمان بن عفان (خلیفہ سوم): (ج۔۱) ۲۱۷، ۴۳۶، (ج۔۲) ۶۸۸، (ج۔۳) ۱۵۶۶، ۱۶۳۶، ۱۶۷۱، ۱۶۸۸، ۱۷۷۹، (ج۔۴) ۱۹۴۸، ۲۰۲۲، (ج۔۵) ۲۰۶۲، ۲۳۷۰، ۲۵۰۴، ۲۶۰۲، ۲۶۴۰، ۲۷۴۴، ۳۰۹۶، ۳۰۹۹، (ج۔۶) ۳۶۱۷، ۳۶۲۳، ۳۸۴۰، (ج۔۷) ۴۱۴۵، ۴۱۴۷، ۴۲۹۷۔ ۴۲۹۹، ۴۴۰۱، (ج۔۸) ۴۴۸۷، ۴۵۶۱، ۴۵۶۳، ۴۷۲۸، ۴۷۳۸، ۴۷۴۸، ۴۸۰۶، ۴۸۲۴، ۴۸۳۰، (ج۔۹) ۵۰۷۱، ۵۰۷۸۔ ۵۰۷۹، ۵۰۸۳، ۵۱۳۷، ۵۲۵۱، ۵۳۸۷، ۵۴۹۷، ۵۵۲۰، (ج۔۱۰) ۵۶۱۱، ۵۶۷۰، ۵۶۸۶، ۵۷۶۱، ۵۷۸۰، ۵۹۴۰، ۶۰۵۲، ۶۳۸۹، ۶۳۹۵

عثمان بن فرید نوری پاشا: (ج۔۵) ۲۶۹۷

عثمان بن محمد: (ج۔۷) ۴۴۱۲

عثمان بن محمد قادری بغدادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۱

عثمان پاشا ابن شہزاد: (ج۔۶) ۳۲۷۷

عثمان پاشا ابوطوق (گورنر دمشق): (ج۔۶) ۳۱۸۰، ۳۲۳۰

عثمان جالندھری: (ج۔۴) ۲۴۳۷

عثمان خان سوم، سلطان (گورنر دمشق): (ج۔۶) ۳۱۷۴

عثمان سراج الدین خالدی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۶۴۔ ۳۲۶۵، ۳۲۶۸، ۳۲۸۰۔ ۳۲۸۴، ۳۲۸۸۔ ۳۲۸۹

عثمان، شاہ: (ج۔۶) ۳۲۸۱

عثمان شمعہ: (ج۔۶) ۳۱۷۰، ۳۱۷۵

عثمان، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۷۸، ۳۲۸۰

عثمان، شیخ سلطان: (ج۔۶) ۳۲۸۷

عثمان، شیخ (مصنف اصفی الموارد فی ترجمة حضرة سیدنا خالد): (ج۔۱۰) ۶۳۹۴

عثمان علی شاہ، سید (کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۷۔ ۶۰۷۸

عثمان علی میر (والی دکن). (ج۔۶) ۳۷۷۲، ۳۷۸۱

عثمان غنی طیبی: (ج۔۱۰) ۲۴۳۹

عثمان لاڑکانوی، فقیر: (ج۔۶) ۳۶۹۶

عثمان متعلوی، مخدوم (ہمعصر مخدوم عبدالواحد سیوستانی): (ج۔۶) ۳۷۰۲

عثمان مغربی: (ج۔۸) ۴۸۴۶،

عثمان نقشبندی مجددی پشاوری ثم دہلوی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۶۴، ۵۸۶۷، ۵۸۸۶۔ ۵۸۸۷

عثمان نوری توباس: (ج۔۶) ۳۲۷۱

عثمان ہارونی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۶۴،

عثمان ہروی: (ج۔۸) ۴۸۴۲

عثمان یمنی، شیخ (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۶) ۳۱۶۱، (ج۔۱۰) ۵۶۲۷

عجب نور خٹک (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی):

(ج۔۱۰)۵۹۳۷

عجلوانی:علامہ:(ج۔۲)۶۰۱، ۶۲۰، (ج۔۷)۴۳۰۷

عدنان خورشید مسعودی، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۱۹۴، (ج۔۹) ۵۰۰۲، ۵۵۷۹، (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۲[illegible]۲، ۶۳۴۶

عدنان قبانی، شیخ:(ج۔۶)۳۲۴۹

عدی :(ج۔۸)۴۸۳۹،

عدی بن مسافر الاموی:(ج۔۹)۵۴۶۷

عرب خان، مرزا:(ج۔۹)۵۲۱۵، ۵۲۰۷

عرباض بن ساریہ: (ج۔۷) ۴۳۵۴، ۴۳۵۶، ۴۳۶۱، ۴۳۸۷

عرفان احمد انصاری، قادری:(ج۔۸)۴۹۸۴،

عرفان السعید، مولانا (ایم۔اے): (ج۔۱۰)۶۴۳۴

عرفان حبیب، پروفیسر: (ج۔۵) ۲۷۷۳۔ ۲۷۷۹، ۲۷۸۱۔۲۷۸۲، ۲۷۸۴۔۲۷۹۱، ۲۷۹۳۔۲۷۹۴

عروۃ بن رویم عراقی، علامہ:(ج۔۲)۵۳۶، ۵۳۷، ۵۴۲، ۵۵۲، ۵۶۷، ۵۷۱، ۵۹۶، ۶۱۳، [illegible]، (ج۔۷)۴۳۰۵، ۴۳۱۰، ۴۳۱۴، ۴۳۱۷، ۴۳۲۷

عزالدین کاشانی، علامہ: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۸۴، ۵۸۸، (ج۔۷)۴۳۱۱

عزت اللہ، شاہ:(ج۔۶)۳۴۱۷

عزت اللہ شکراللٰہی شیرازی، سید:(ج۔۶)۳۴۷۶

عزت اللہ، صاحبزادہ:(ج۔۶)۳۴۴۶

عزرائیل (علیہ السلام):(ج۔۶)۳۹۷۸

عزیر محمود ازہری :(ج۔۶) ۳۷۱، ۳۶۸۳، ۳۹۳۱، (ج۔۱۰)۶۴۳۸

عزیز احمد، پروفیسر:(ج۔۱)۲۷، (ج۔۳)۱۸۸۵، (ج۔۴) ۱۹۱۶، ۲۰۳۳، ۲۲۱۶، (ج۔۵) ۲۵۷۲، ۲۵۷۹، ۲۸۳۰، ۲۸۴۲

عزیز الدین نفسی:(ج۔۵)۲۹۲۳

عزیز الرحمٰن بجنوری، مفتی : (ج۔۵) ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۹۵۷

عزیز الرحمٰن خان:(ج۔۶)۳۷۹۸

عزیز الرحمٰن لائل پوری، پروفیسر چودھری:(ج۔۵)۲۸۸۲

عزیز الرحمٰن مجددی، مولانا:(ج۔۴)۲۳۹۶

عزیز الرحمٰن، مفتی:(ج۔۲)۷۲۷، ۷۳۵، (ج۔۵)۳۰۷۲

عزیز القدر مجددی، خواجہ:(ج۔۱۰)۵۸۷۷، ۶۱۸۲

عزیز اللہ خان سلیمان خیل قندھاری:(ج۔۶)۳۵۳۱

عزیز اللہ متعلوی:(ج۔۶)۳۶۹۳

عزیز اللہ بندی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵

عزیز جونپوری، شیخ:(ج۔۲)۱۲۲۲

عزیز حسن بقائی، حافظ:(ج۔۶)۳۹۵۷

عزیز کوکلتاش، مرزا:(ج۔۷)۴۱۸۱

عزیزان علی رامتینی، خواجہ:(ج۔۱)۲۴۸، (ج۔۴)۲۲۶۰۔۲۲۶۱، (ج۔۷) ۴۰۷۳، ۴۰۹۲، ۴۰۹۷، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج۔۹)۵۲۱۳

عصام الدین ہروی، مولانا : (ج۔۳) ۱۷۰۴، (ج۔۶) ۳۹۵۷

عصام بن اللیث اللیثی السدوسی:(ج۔۲)۵۷۹

عصمت پناہ:(ج۔۴)۲۲۲۸۔۲۲۲۹، ۲۲۳۳

عصمۃ:(ج۔۷)۴۳۶۰

عضد الدین امروہوی، شاہ: (ج۔۱۰)۵۸۲۹

عطا الٰہی سکندری: (ج۔۶)۳۴۲۰، ۳۴۲۲

عطا بن ابی رباح: (ج۔۲)۵۹۳

عطا محمد بندیالوی، علامہ (ج۔۶)۳، ۳۶، ۳۹۳۰

عطا محمد، سید (ج۔۱۰)۵۹۶۹

عطا محمد (گورنر ترکستان): (ج۔۶)۳۳۳۶

عطا محمد متعلوی: (ج۔۶)۳۶۹۳

عطا محمد، مخدوم (عرف مخدوم اللہ بخش): (ج۔۶)۳۶۹۵

عطا محمد، مولوی (ج۔۶)۳۴۴۵

عطاء ابن ابی رباح (ج۔۷)۴۳۱۶

عطاء الحق آسوی (ج۔۱۰)۶۰۹۳

عطاء الرحمٰن قاسمی (ج۔۴)۲۴۷۴، (ج۔۶)۳۳۵۸

عطاء اللہ سکندری، شیخ (ج۔۶)۳۴۲۳

عطاء اللہ، شیخ: (ج۔۳) ۱۴۰۵، (ج۔۵) ۲۹۴۳۔۲۹۴۴، ۲۹۴۶، ۳۰۰۷، ۳۰۲۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۴، ۳۴۰۷، (ج۔۶) ۳۹۵۷، (ج۔۱۰)۵۷۳۵

عطاء اللہ، مولوی: (ج۔۶)۳۶۰۳

عطاء بن یزید اللیثی: (ج۔۷)۴۲۸۸

عطاء بن یسار: (ج۔۷)۴۲۸۸

عطاء، شیخ: (ج۔۷)۴۰۵۸

عطاء مجدد مجددی (فرزند میاں نور مہدی مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۸۰

عطائے معصوم کابلی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۰۹، ۳۳۱۳۔۳۳۱۴، ۳۳۲۶، ۳۳۲۸۔۳۳۳۰، ۳۵۴۳، ۳۶۲۶، ۳۸۲۷

عطرس بیگم (زوجہ میاں حامد رسا مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۹

عطیہ، مفتی، فضیلۃ الشیخ: (ج۔۶)۳۱۵۴

عظمت اللہ، راؤ: (ج۔۱۰)۶۴۴۳

عظیم: (ج۔۴)۲۱۸۶

عظیم اللہ نقشبندی، مفتی (مرید شیخ عبدالغفور صوات باباجی): (ج۔۶)۳۸۳۰، ۳۸۶۴۔۳۸۶۵

عفیف عسیران، علامہ: (ج۔۲)۵۸۴

عقبہ بن عامر (صحابی): (ج۔۲) ۵۲۷۔۵۲۸، (ج۔۳) ۱۵۵۲

عقیل شاہ، سید: (ج۔۸)۴۸۵۹

عقیلی، امام: (ج۔۲)۵۵۹، ۶۱۳

عکرمہ بن خالد: (ج۔۷)۴۲۸۱۔۴۲۸۲

علاء الدین اودی، شاہ: (ج۔۸)۴۸۴۲،

علاء الدین بن عبداللطیف، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸

علاء الدین جلال آبادی: (ج۔۶)۳۴۳۵

علاء الدین بن حاجی (جد اعلیٰ قاضی احمد دمائی): (ج۔۶) ۳۴۷۷

علاء الدین خلجی: (ج۔۳)۱۴۳۳، (ج۔۴)۱۹۸۲، ۲۰۵۰، ۲۰۶۴، ۲۰۸۰

علاء الدین، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۱

علاء الدین عطار سمنانی، خواجہ: (ج۔۱)۲۲۹۔۲۳۰، ۳۴۳، ۳۶۲، (ج۔۲)۵۸۳، ۵۸۸۔۵۸۹، ۶۰۲، ۱۲۱۵، ۱۲۳۰، (ج۔۳)۱۴۲۶، (ج۔۴)۲۲۴۹، ۲۲۶۲، (ج۔۵)۲۸۳۱،

(ج۔۷) ۴۱۴۸، ۴۱۶۲، (ج۔۸؛ ۴۸۴۶، ۴۸۸۱، (ج۔۹)۵۳۷۹، ۵۴۳۰

علاء الدین عطار، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۶

علاء الدین علی بن صادق داغستانی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۰

علاء الدین، خواجہ: (ج۔۷) ۰۳۴ ، ۴۰۵۵، ۴۰۷۲، ۴۰۸۸، ۴۰۹۱۔۴۰۹۲، ۴۰۹۴، ۴۱۰۰

علاء الدین، سید شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۴۷

علاء الدین صدیقی نقشبندی، پیر (کشمیر): (ج۔۶) ۳۸۰۴، ۳۸۰۹، ۳۸۱۴

علاء الدین عطار (خلیفہ خواجہ بہاء الدین نقشبندی): (ج۔۶)۳۹۸۱، (ج۔۱۰)۵۷۸۲، ۶۱۴۰، ۶۱۴۹۔۶۱۵۰

علاء الدین علی: (ج۔۴)۱۹۸۳

علاء الدین غجدوانی، خواجہ: (ج۔،) ۴۰۵۵، (ج۔۸) ۴۸۶۶

علاء الدین قریشی انکی: (ج۔۱۰)۵۹۴۵

علاء الدین مدنی، شیخ: (ج۔۶)۳۵۹۵

علاء الدین، مولانا (خلیفہ مولانا سعد الدین کاشغری): (ج۔۱۰)۶۱۰۲

علاء الدین، مولانا: (ج۔۷)۴۱۲۵

علاء الدین نقشبندی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۶۵، ۳۲۶۶

علم اللہ محدث، مولانا: (ج۔۴)۲۴۱۷، ۲۴۳۴

علو ممشاد دینوری: (ج۔۸)۴۸۵۵۔۴۸۵۶

علی آفندی، سید: (ج۔۴)۲۴۵۲، (ج۔۸)۴۵۹۹

علی آقا سرہنگ، حاجی: (ج۔۶)۳۴۹۴

علی ابن ابی طالب (خلیفۂ چہارم). (ج۔۱) ۲۰۸، ۲۱۵۔ ۲۱۶، ۲۱۸، ۴۳۶، (ج۔۲) ۵۴۶، ۵۸۱، ۵۸۶، ۶۱۲، ۶۸۸، ۷۲۰، ۹۲۷، ۱۰۹۹، ۱۱۱۸، ۱۱۸۰، ۱۱۸۹، ۱۱۹۷، ۱۲۰۰، (ج۔۳) ۱۳۷۶، ۱۳۹۵، ۱۴۳۱، ۱۴۹۸، ۱۵۵۳، ۱۵۶۶، ۱۶۱۹، ۱۶۳۵۔ ۱۶۳۷، ۱۶۷۱۔۱۶۷۲، ۱۶۸۰۔ ۱۶۸۱، ۱۷۸۰، ۱۸۲۵۔۱۸۲۶، ۱۸۳۱، (ج۔۴) ۲۰۲۳۔ ۲۰۲۴، ۲۰۴۶، ۲۲۵۶۔۲۲۵۷، ۲۲۶۱۔۲۲۶۲، ۲۲۹۷، ۲۴۷۷، ۲۵۰۶، (ج۔۵) ۲۶۰۲، ۲۶۴۰، ۲۶۴۳، ۲۷۴۴، ۲۸۲۲، ۲۸۶۱، ۲۸۸۰، ۳۰۱۶۔۳۰۱۸، ۳۰۵۰، ۳۰۷۴۔ ۳۰۷۵، ۳۰۷۸، ۳۰۸۴، ۳۰۹۶، ۳۰۹۹۔۳۱۰۰، ۳۱۰۲۔ ۳۱۰۳، ۳۱۰۶، (ج۔۶) ۳۳۵۴، ۳۳۵۶، (ج۔۷) ۴۰۱۹، ۴۰۵۵، ۴۰۸۶، ۴۱۴۵، ۴۱۴۷، ۴۱۸۰، ۴۱۹۳، ۴۲۰۸، ۴۲۴۳، ۴۲۴۹۔۴۲۵۰، ۴۲۸۳، ۴۲۸۵، ۴۳۰۳، ۴۳۳۵، ۴۳۴۰، ۴۳۴۷، ۴۳۵۰، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۶۹، ۴۳۷۵، ۴۳۷۹، ۴۳۸۰۔ ۴۳۸۱، ۴۳۸۳، ۴۴۰۳، ۴۴۱۰، (ج۔۸) ۴۴۸۷، ۴۵۴۵، ۴۵۵۰، ۴۵۵۱، ۴۶۴۱، ۴۷۱۹۔۴۷۲۰، ۴۷۲۹، ۴۷۳۸، ۴۷۴۸، ۴۷۶۳، ۴۸۲۴۔ ۴۸۲۵، ۴۸۳۰، ۴۸۴۵۔ ۴۸۴۶، ۴۸۵۴، ۴۸۵۶، ۴۸۵۸، ۴۸۶۰، (ج۔۹) ۵۰۷۱، ۵۰۷۸۔ ۵۰۷۹، ۵۰۸۱۔ ۵۰۸۲، ۵۰۸۴، ۵۱۲۸، ۵۲۵۱، ۵۳۰ ۹۔ ۵۳۱۰، ۵۳۷۱، ۵۴۰۷، ۵۴۹۸، (ج۔۱۰) ۵۶۱۱، ۵۷۷۹۔ ۵۷۸۰، ۵۷۹۹، ۵۹۵۰، ۶۰۸۳

علی اترہ، شیخ: (ج۔۳)۱۷۵۷، (ج۔۹)۵۰۹۹

علی احمد: (ج۔۶)۳۴۱۸

علی احمد، آخوندزادہ مولانا (استاد مولوی عبدالقادر نقشبندی): (ج۔۶)۳۸۵۷

علی احمد خان: (ج۔۵)۲۹۱۰، ۲۹۴۴

علی احمد سندیلوی، مفتی: (ج۔۷)۴۴۸۰، (ج۔۸)۴۴۹۰،

۴۹۵۷
علی احمد صابر کلیری: (ج۔۴) ۲۰۴۹، (ج۔۶) ۳۸۸۳، (ج۔۸)۴۸۵۷، (ج۔۹)۵۴۶۷
علی اصغر، شاہ: (ج۔۶)۳۴۴۸
علی اکبر اردستانی: (ج۔۵) ۷۷، ۲، ۲۸۴۲، ۲۸۳۰، (ج۔۸)۴۵۷۶، (ج۔۹)۵۳۶۷
علی اکبر شاہ پیر سید (میھڑ شریف): (ج۔۶)۳۶۱۱، ۳۶۹۶
علی الاوشی الفرغانی، سراج الدین ابوحسن: (ج۔۶)۳۹۵۰
علی المتقی بن ابوالقاسم زید: (ج۔۶) ۳۹۵۷
علی المتقی، علامہ: (ج۔۹)۵۳۱۲
علی الحسامی، مولوی: (ج۔۸)۴۶۴۳،
علی الحق، امام: (ج۔۱۰)۶۰۸۶
علی المرغینانی بن عبدالعزیز: (ج۔۶) ۳۹۵۰
علی انور گجیو سعودی، مولانا: (ج۔۱)۲، (ج۔۲) ۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، (ج۔۶) ۳۱۲۳، ۳۶۸۲، (ج۔۷) ۳۹۸۶، (ج۔۸)۴۳۸۶
علی انور، ڈاکٹر، سید: (ج۔۷)۴۲۸۰، ۴۴۷۴
علی بخش: (ج۔۵)۳۰۲۲
علی بخش خان محمد حسین، خان بہادر: (ج۔۶)۳۶۱۱
علی بدخشی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۸۷
علی برغش: (ج۔۴)۲۲۴۵
علی بن ابراہیم القزوینی: (ج۔۲)۵۱۵
علی بن احمد بن عبدان: (ج۔۲)۵۶۱
علی بن احمد، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸
علی بن احمد کز براز ہری: (ج۔۶)۳۱۹۵، ۳۲۲۸
علی بن احمد منفیسی سعیدی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۵
علی بن الحسین: (ج۔۷)۴۲۹۲، ۴۳۵۳
علی بن بہاء الدین محمد: (ج۔۶)۳۲۳۰
علی بن ثابت: (ج۔۷)۴۳۰۶
علی بن حجر: (ج۔۲)۵۸۱
علی بن حسین الواعظ الھروی، شیخ: (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۵
علی بن حسین مرادی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۳۹
علی بن حسین واعظ کاشفی، فخر الدین: (ج۔۶) ۳۴۴۴، ۳۹۶۰، (ج۔۹)۵۲۶۰، ۵۳۸۱
علی بن حسینی رومی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۶۹
علی بن حسینی مرادی شہید: (ج۔۶)۳۲۳۶
علی بن حمشاذ العدل: (ج۔۲)۵۶۳
علی بن زید: (ج۔۲)۶۲۵، (ج۔۷)۴۴۱۳
علی بن سلطان القاری، ملا: (ج۔۲)۶۳۳
علی بن سلیمان دمنتی، علامہ سید: (ج۔۲)۵۸۹
علی بن شیبان: (ج۔۷)۴۳۸۹
علی بن صادق، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸
علی بن صدقۃ: الانصاری: (ج۔۷)۴۲۸۵
علی بن عبد القادر طبری، سید (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰)۵۶۲۷
علی بن عبدالعزیز المرغینانی: (ج۔۲)۵۱۷، ۵۱۸، ۵۷۰
علی بن عبدالقادر امینی علوی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۱
علی بن عبدالقادر طبری، شیخ: (ج۔۶)۳۱۵۸

علی بن عبداللہ عیدروس تریمی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۱۔۳۱۹۲

علی بن عفان العامری: (ج۔۲) ۵۱۷

علی بن علی الدمشقی، قاضی (مصنف شرح العقیدۃ الطحاویہ): (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

علی بن علیل عمری: (ج۔۶) ۳۱۷۰

علی بن عمر دارقطنی، ابو الحسن محدث: (ج۔۷) ۴۳۰۲، ۴۳۵۳

علی بن محمد، ابوالحسین: (ج۔۲) ۵۳۷

علی بن محمد الطنافسی: (ج۔۲) ۵۵۹

علی بن محمد المصری، ابوالحسن: (ج۔۲) ۵۶۲

علی بن محمد بن یوسف القرشی، الھنکاری، ابوالحسن: (ج۔۸) ۴۸۴۹

علی بن محمد، سید: (ج۔۹) ۵۳۴۱

علی بن محمد صالحی سلیمی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۶

علی بن محمد مرادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۲، ۳۲۰۸، ۳۲۳۹

علی بن محمد (والد قاضی علی دمشقی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

علی بن میمون الرقی: (ج۔۲) ۶۰۶

علی ترمذی پیر بابا، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۷۳

علی جان مستونگی، حاجی: (ج۔۶) ۳۷۴۷

علی جان آغا: (ج۔۶) ۳۶۱۳

علی جان، مرزا: (ج۔۸) ۴۸۰۴،

علی جعفری، سید، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۷

علی حسن بن احمد الکاتب: (ج۔۱۰) ۵۶۹۵

علی حسین شاہ نقش لاثانی، پیر سید: (ج۔۲) ۱۲۴۴، (ج۔۶) ۳۷۷۱، (ج۔۱۰) ۰۷ ۵، ۶۰۸۰۔ ۶۰۸۴، ۶۰۸۶، ۶۰۸۸، ۶۰۹۴، ۶۰۹۸، ۶۴۳۳

علی حسین کچھوچھوی، سید شاہ: (ج۔۵) ۲۸۸۱، (ج۔۱۰) ۵۸۰۲۔۵۸۰۳

علی خان، راجہ (حاکم خاندیس): (ج۔۴) ۱۹۷۸

علی خدوری حمصی نقشبندی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۸۳

علی خرقانی، ابوالحسن: (ج۔۱۰) ۵۶۹۵

علی داغستانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۲، ۳۲۳۱

علی دراوی، شیخ بن عبدالملک: (ج۔۶) ۳۶۵۳

علی رامیتنی، خواجہ عزیزاں: (ج۔۴) ۲۲۴۷۔ ۲۲۴۸، (ج۔۶) ۳۹۸۰، (ج۔۱۰) ۵۹۸۹، ۶۱۰۱، ۶۱۴۰، ۶۱۴۴، ۶۱۴۷

علی رحمٰن: (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۰۴۹

علی رضا، امام: (ج۔۴) ۲۵۰۸

علی رضا پاشا، مولانا: (ج۔۷) ۴۲۶۳

علی زین العابدین جعفری، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۴

علی سرفراز صدیقی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

علی، سید: (ج۔۴) ۲۱۸۶

علی، سید (مرشد شاہ میر، سلسلۂ قادریہ): (ج۔۶) ۳۵۶۷

علی شیر، علامہ: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

علی شیر قانع ٹھٹوی، میر: (ج۔۵) ۲۸۱۷، (ج۔۶) ۳۴۴۷، ۳۶۸۸

علی شیر نوائی، شیخ میر: (ج۔۶) ۳۱۸۰

علی طبری، مفتی، شافعی: (ج۔۴) ۲۴۵۲، (ج۔۶) ۳۱۵۸۔ ۳۱۵۹، (ج۔۸) ۴۵۹۹

علی طلبانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۴

علی عاشقاں سرائیمیری، میر: (ج۔۶)۳۴۰۷

علی عباس جلال پوری: (ج۔۵)۲۹۷۸۔۲۹۷۹

علی عرب، سید (عالم دین): (ج۔۴)۲۳۲۵، ۲۳۳۵

علی، علاء الدین: (ج۔۶)۳۹۵۷

علی عیدروس، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۸

علی قاری، ملا: (ج۔۲)۵۱۳، ۵۳۶، ۵۸۲، ۵۸۵، ۵۸۹، ۶۰۱، ۶۰۸، ۷۰۰، ۷۱۵، ۷۱۷، ۱۱۳۳۔۱۱۳۴، ۱۱۳۸، (ج۔۳)۱۶۱۳، ۱۶۱۵، (ج۔۵) ۲۶۹۸، ۲۸۸۴، ۳۰۱۶، (ج۔۶) ۳۴۱۵، ۳۴۶۴، ۳۹۵۷، (ج۔۷) ۴۳۲۷، ۴۳۳۴، ۴۳۵۲، ۴۳۵۸، ۴۳۶۶، ۴۳۹۵، ۴۴۰۸، (ج۔۸) ۴۶۳۹، (ج۔۹) ۵۳۰۸، ۵۳۵۵، ۵۳۵۷، (ج۔۱۰)۵۶۳۴

علی قوام نظامی، شیخ: (ج۔۱)۴۱۲، (ج۔۱۰)۵۶۳۵، ۵۹۲۵

علی گدا، شیخ: (ج۔۲)۷۶۸

علی گرگانی، ابوالقاسم: (ج۔۱۰)۵۶۹۵

علی گوہر جالندھری، مولوی: (ج۔۱۰)۶۰۴۷۔۶۰۴۸

علی گوہر شاہ، سید: (ج۔۶)۳۴۳۱، ۳۵۶۳، ۳۵۷۱

علی لکھنوی، ابوالحسن: (ج۔۶)۳۱۹۰، ۳۹۵۳، ۳۹۵۷

علی مالکی، شیخ (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۶) ۳۱۶۰، (ج۔۱۰)۵۶۲۷

علی متقی، شیخ: (ج۔۲) ۵۴۳، (ج۔۷) ۴۳۰۵، (ج۔۹) ۵۱۴۷، ۵۴۶۸، ۵۵۱۳، (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۱۱

علی محمد جروار: (ج۔۶)۳۶۹۲

علی محمد راشدی، سید پیر: (ج۔۹)۵۳۷۱

علی محمد شاہ، سید دائرہ والے: (ج۔۶)۳۶۹۲

علی محمد فقیر ٹھٹوی، قاضی: (ج۔۶)۳۶۸۸

علی محمد، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۶

علی محمدن البلخی، ابوالاسفار: (ج۔۱۰)۵۸۸۸

علی مرادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۲۔۳۱۸۷، ۳۲۰۹، ۳۲۲۶، ۳۲۳۰، ۳۲۳۸۔۳۲۳۹

علی مرتضیٰ شاہ، سید: (ج۔۶)۳۵۶۵۔۳۵۶۶، ۳۵۶۸

علی مصری (شیخ القراء): (ج۔۶)۳۱۸۲

علی مکی، سید: (ج۔۱۰)۶۱۲۸

علی مکی لکھیاری، سید: (ج۔۶) ۳۴۳۱، ۳۴۳۳، ۳۴۵۲، ۳۵۶۲

علی منینی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۶، ۳۱۷۹

علی، مولوی (استاد عثمان علی شاہ کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۷

علی مہائمی، شیخ: (ج۔۹)۵۲۲۸

علی، میاں: (ج۔۱۰)۶۲۹۴

علی، میر شمس الدین: (ج۔۵)۲۹۵۴

علی نجیب، یحییٰ الدین: (ج۔۵)۲۸۵۷

علی ندوی نقشبندی مجددی، ابوالحسن: (ج۔۱)۲۱، ۹۱، ۹۴، (ج۔۲) ۴۸۸، ۵۰۲، ۹۰۵، (ج۔۴) ۲۱۷۳، ۲۱۹۱، (ج۔۶) ۳۹۳۹، (ج۔۸) ۴۹۰۹، (ج۔۹) ۵۱۲۵، ۵۱۴۳، (ج۔۱۰)۵۶۲۸، ۵۶۳۲

علی نقی لکھنوی، سید: (ج۔۴)۲۰۰۱

علی نواز پوری: (ج۔۵)۲۸۱۵

علی نواز جتوئی، پروفیسر: (ج۔۶)۳۴۴۶، ۳۴۹۶، ۳۷۰۲،

(ج۔۱۰)۶۱۰۴_۶۱۰۵

علی نواز شکارپوری، حکیم: (ج۔۲)۷۰۴، (ج۔۶)۳۶۰۴

علی نواز نقشبندی، ماسٹر: (ج۔۱۰)۶۱۳۲

علی وتری، سید محدث: (ج۔۶)۳۵۳۱

علی وتزی، ملا شیخ: (ج۔۶)۳۲۶۵

علی وردی خاں: (ج۔۴)۲۰۵۵، ۲۱۱۷

علی ہجویری، سید (داتا گنج بخش): (ج۔۱)۳۳۷، (ج۔۲) ۵۲۰، ۵۸۳، ۷۳۷، ۹۸۷، ۱۱۹۸_۱۲۰۱، (ج۔۳)۱۵۹۶، ۱۵۹۸، ۲۰۴۸، ۲۰۶۳، ۲۰۸۵، (ج۔۵)۲۶۴۳، ۲۶۵۰، ۲۷۲۶، ۲۹۲۳، ۳۰۱۳، ۳۰۵۲_۳۰۵۵، ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۳۶۶، ۳۸۶۰، ۳۹۵۷، (ج۔) ۴۰۱۲، ۴۴۳۸، (ج۔۹) ۵۰۵۷، (ج۔۱۰) ۵۸۰۳، ۵۸۲۳، ۵۸۵۶_۵۸۵۷، ۵۹۷۴، ۵۹۹۰، ۶۰۸۶، ۶۴۴۶

علی ہمدانی، سید میر (شاہ ہمدان): (ج۔۱)۲۳۳، (ج۔۵) ۲۸۳۱، ۲۸۴۲، (ج۔۶) ۳۸۶۱ (ج۔۸) ۴۸۴۶، (ج۔۱۰)۵۸۲۶، ۵۸۲۸، ۵۸۵۷

علی یمنی، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۶)۳۱۶۷، (ج۔۱۰)۵۶۲۸، ۵۷۵۹

علیم اشرف خان، ڈاکٹر: (ج۔۸)۴۹۹۱، (ج۔۹)۵۰۰۲، ۵۴۶۳

علیم الدین نقشبندی علامہ، مفتی: (ج۔۶)۳۸۲۴، (ج۔۸) ۴۴۸۸

علیم الرحمن قاضی: (ج۔۸)۴۹۱۳،

علیم اللہ بن عبدالرشید، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۷

علیم اللہ عباسی لاہوری: (ج۔۶)۳۱۵۶، ۳۲۲۶_۳۲۲۷

علیم اللہ گنگوہی، میر (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱

عمادالدین صدیقی: (ج۔۶)۳۶۲۹

عمادالدین (فرزند شیخ شہباز مومندپی): (ج۔۱۰)۵۸۷۰

عمادالدین (مصنف حیاۃ القلوب): (ج۔۶)۳۹۵۷

عماد بن سلمۃ: (ج۔۷)۴۴۱۳

عمار بن محمد: (ج۔۲)۶۳۴

عمار بن یاسر، شیخ: (ج۔۸)۴۸۴۶،

عمار تمالت بن سعید: (ج۔۵)۲۷۰۰، (ج۔۶)۳۹۵۸

عمارۃ بن القعقاع: (ج۔۷)۴۳۱۵

عمر ابنِ خطاب (خلیفۂ دوم): (ج۔۱) ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۷۰، ۴۰۸، ۴۳۶، ۴۵۷، (ج۔۲)۵۲۸، ۵۴۶_۵۴۷، ۵۴۹، ۵۵۵، ۶۰۴، ۶۳۲، ۶۹۷، ۷۵۳، ۸۸۵، ۹۱۷، ۹۲۷، ۱۱۲۴، ۱۱۹۹، (ج۔۳) ۱۲۸۹، ۱۳۶۵، ۱۳۸۶، ۱۴۱۱، ۱۵۱۶_۱۵۱۸، ۱۵۲۲، ۱۵۳۲، ۱۵۴۹، ۱۵۵۲، ۱۵۵۴، ۱۵۶۶، ۱۵۹۶، ۱۶۲۶، ۱۶۳۶_۱۶۳۷، ۱۶۵۵، ۱۶۷۱، ۱۶۸۰_۱۶۸۲، ۱۶۹۸، ۱۷۶۴، ۱۷۷۹، ۱۸۲۶، (ج۔۴) ۱۹۴۸، ۲۰۲۲، ۲۰۴۵، ۲۰۶۲، ۲۲۶۴، ۲۲۹۷، (ج۔۵) ۲۵۴۴، ۲۵۶۰، ۲۶۰۲، ۲۶۱۳، ۲۶۴۰، ۲۷۱۳_۲۷۱۴، ۲۷۴۴، ۲۸۷۱، ۲۹۱۷، ۳۱۰۶، (ج۔۶)۳۱۴۹، ۳۳۶۴، ۳۳۷۸، ۳۳۹۷، ۳۵۴۵_۳۵۴۶، ۳۶۱۶_۳۶۱۷، ۳۶۲۱، ۳۶۵۹، ۳۷۴۲، ۳۷۶۰، ۳۸۷۳، ۳۸۷۹، (ج۔۷) ۴۰۱۲، ۴۰۲۵، ۴۰۲۶، ۴۰۲۷، ۴۰۳۷، ۴۰۴۰، ۴۰۸۵، ۴۰۸۶، ۴۱۴۵، ۴۱۴۷، ۴۱۶۹، ۴۲۰۴، ۴۰۱۲، ۴۰۲۵_۴۰۲۷، ۴۰۳۷، ۴۰۴۰، ۴۰۸۵، ۴۰۸۶، ۴۱۴۵، ۴۱۴۷، ۴۱۶۹، ۴۲۰۴، ۴۲۹۶، ۴۳۱۳، ۴۳۱۵، ۴۳۲۶، ۴۳۳۲، ۴۳۴۰، ۴۳۴۲، ۴۳۶۰، ۴۳۶۲، ۴۳۷۴_۴۳۷۵، ۴۳۷۸_۴۳۷۹، ۴۳۹۳، ۴۴۰۰، ۴۴۱۰، ۴۴۱۶، (ج۔۸) ۴۴۸۷، ۴۵۰۹، ۴۵۲۶، ، ۴۵۳۲،

۴۵۵۰، ۴۵۶۲_۴۵۶۳، ۴۵۸۰، ۴۶۱۶_۴۶۱۷، ۴۶۴۱، ۴۶۶۶، ۴۷۱۹_۴۷۲۱، ۴۷۲۶، ۴۷۲۸، ۴۷۲۹، ۴۷۳۸، ۴۷۴۷_۴۷۴۸، ۴۷۶۳، ۴۸۲۳_۴۸۲۴، ۴۸۳۰، ۴۸۳۷، ۴۸۳۹، ۴۸۴۳، (ج_۹) ۵۰۲۱، ۵۰۲۹، ۵۰۴۳، ۵۰۷۱، ۵۰۷۸_۵۰۷۹، ۵۰۸۱، ۵۰۸۳، ۵۰۸۶، ۵۱۳۶_۱۳۷، ۵۱۸۶، ۵۲۲۵، ۵۲۳۶_۵۲۳۷، ۵۲۴۶، ۵۲۵۰_۵۲۵۱، ۵۳۰۹_ ۵۳۱۰، ۵۳۲۰_۵۳۲۱، ۵۳۲۷، ۵۳۳۵_۵۳۳۶، ۵۳۵۱، ۵۳۶۹_۵۳۷۰، ۵۳۸۷، ۵۴۱۵، ۵۴۲۱، ۵۴۷۱، ۵۴۹۸، ۵۵۰۴، (ج_۱۰) ۵۶۱۱، ۵۶۳۵، ۵۶۷۰، ۵۶۷۵، ۵۶۸۶، ۷۸۰،، ۵۷۹۹، ۵۹۳۶، ۵۹۵۵، ۶۱۹۹

عمر الحسن بن عثمان الواعظ (ج_۲)۵۹۳

عمر بخش (حکمت پناہ)، حکیم: (ج_۶)۳۸۰۱

عمر بزاز، ابوالقاسم: (ج_۵)۲۸۹۰

عمر بن ابراہیم: (ج_۷)۴۲۸۶، ۴۲۸۷

عمر بن احمد سہروردی (ج_۸)۴۸۶۲

عمر بن احمد عقیل علوی: (ج_۶)۳۱۸۲، ۳۱۹۶، ۳۲۰۶

عمر بن حصین: (ج_۲)۵۲۲

عمر بن حفص، شیخ: (ج_۲)۵۲۲، (ج_۸)۴۶۱۶

عمر بن سلطان: (ج_۸)۴۹۳۵

عمر بن عبدالرحیم بصری، شیخ: (ج_۶)۳۱۵۸

عمر بن عبدالسلام، شیخ: (ج_۶)۱۸۹-

عمر بن عبد العزیز (خلیفہ): (ج_۳) ۱۸۳۱، (ج_۸) ۴۸۰۶، (ج_۹)۵۳۸۷، (ج_۱۰)۵۶۳۳

عمر بن عبدالقادر رامنازی، شیخ: (ج_۶)۳۱۹۶

عمر بن عبداللہ باشیبان حضرمی: (ج_۶)۳۱۶۷

عمر بن عبداللہ۔سقاف شافعی، شیخ سید: (ج_۵)۲۶۹۵

عمر بن عبید: (ج_۲)۵۷۱

عمر بن علاء الدین جوہری شاذلی: (ج_۶)۳۱۷۸، ۳۱۹۶

عمر بن علی باعلوی حضرمی، شیخ: (ج_۶)۳۱۶۷

عمر بن محمد داؤد پوتہ، ڈاکٹر: (ج_۶)۳۵۹۱

عمر بن محمد نجم الدین کبریٰ، ابوالجناب: (ج_۸)۴۸۴۶،

عمر بن محمد، شیخ: (ج_۶)۳۱۹۶، ۳۲۰۴

عمر جان، آغا: (ج_۶)۳۳۰۰، ۳۵۰۰

عمر حسین علی پوری، پیر: (ج_۹)۵۵۷۵

عمر حیات قادری، علامہ: (ج_۱۰)۶۴۴۳

عمر خیام: (ج_۶)۳۶۰۵

عمر دین، میاں (عم مولانا سید حبیب اللہ توکلی): (ج_۱۰) ۵۹۷۵

عمر رضا، حالہ: (ج_۵)۲۸۱۷

عمر شافعی یمنی (صوفی): (ج_۶)۳۱۶۷

عمر شیخ عبدالرحمٰن، شیخ: (ج_۶)۳۲۸۳

عمر، شیخ مرزا (والد شہنشاہ بابر): (ج_۱۰)۵۷۸۷

عمر صالح گجراتی: (ج_۹)۵۴۹۷

عمر ضیاء الدین، حافظ: (ج_۷)۴۰۱۰، (ج_۸)۴۵۰۱

عمر ضیاء الدین داغستانی، حافظ: (ج_۴) ۲۲۶۲_۲۲۶۳، (ج_۱۰)۵۶۱۶

عمر عبدالجبار مکی: (ج_۶)۳۹۵۸

عمر فاروق مجددی، ابوحفص بن ابوسعد سالم فاروقی مجددی:

(ج۔۶) ۳۷۵۷، ۳۷۶۰۔ ۳۷۶۱، (ج۔۸) ۴۴۸۸، ۴۵۰۳،
عمر کوہائی، سید حاجی (فرزند سید عبداللہ حاجی بہادر کوہائی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۶
عمر، مولانا (مجدد الف ثانی کے مکتوب الیہ): (ج۔۱۰) ۶۱۷۰
عمر، مولانا: (ج۔۹) ۵۲۵۲
عمر یافعی مدنی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹
عمر یمنی شافعی، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۸
عمران بن حصین: (ج۔۲) ۵۲۲، (ج۔۷) ۴۲۹۴، ۴۲۹۶، ۴۳۰۷، ۴۳۳۳، ۴۳۴۰، ۴۳۴۴، ۴۳۴۶، ۴۳۵۱، ۴۳۵۷، ۴۳۷۱، ۴۴۰۰
عمران، حاجی (خلیفہ خواجہ عبدالرحمٰن نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۴
عمرو بن العاص: (ج۔۲) ۵۶۵، (ج۔۳) ۱۶۷۱، ۱۷۸۰، (ج۔۵) ۲۹۱۵، ۳۰۲۲۔۳۰۲۳، (ج۔۷) ۴۲۸۵، ۴۲۹۴، ۴۲۹۳، (ج۔۹) ۵۲۸۸
عمرو بن اوس الانصاری: (ج۔۲) ۶۰۳
عمرو بن جعفر البلخی: (ج۔۷) ۴۳۰۲
عمرو بن خالد: (ج۔۷) ۴۳۰۷
عمرو بن عاصم: (ج۔۲) ۵۴۹
عمرو بن علی: (ج۔۲) ۵۲۳
عمرو بن عوف، المزنی: (ج۔۷) ۴۳۱۰
عمرو بن قیس الملائی الکوفی، ابو عبداللہ: (ج۔۲) ۵۱۶
عمرو بن قیس: (ج۔۲) ۵۱۶، (ج۔۷) ۴۳۷۳
عمرو بن کعب: (ج۔۷) ۴۰۱۸۰
عمرو بن منصور: (ج۔۲) ۵۳۴، (ج۔۷) ۴۲۹۱
عمر یافعی مدنی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹
عمیر: (ج۔۷) ۴۳۵۶
عنایت اللہ، ڈاکٹر شیخ: (ج۔۱) ۲۴، ۳۰۵، (ج۔۳) ۱۲۸۹، ۱۳۶۷، (ج۔۴) ۲۱۷۰، (ج۔۵) ۲۸۴۱، ۲۸۴۳
عنایت اللہ مٹاروی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۹۳
عنایت اللہ بصیر واعظ ٹھٹھوی: (ج۔۶) ۳۴۷۶
عنایت اللہ خان رامپوری، حافظ مولانا: (ج۔۶) ۳۷۹۴، ۳۸۴۸
عنایت اللہ شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۴۹۵
عنایت اللہ، شیخ (جھوک سندھ): (ج۔۶) ۳۴۱۶، ۳۴۲۸، ۳۴۴۷
عنایت اللہ متعلوی، قاضی: (ج۔۶) ۳۶۹۳
عنایت اللہ نذیر نیازی، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۹۵۸
عنایت، حاجی (مرید محمد علی شاہ کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۷
عنایت علی، مفتی (شاعر): (ج۔۱۰) ۶۰۳۳
عنایت کفش گر، مولانا (خلفیہ شیخ محمد یحیٰ اٹکی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۲
عنصر قریشی، شیخ میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۷۶، ۵۹۳۲
عوارف، شیخ: (ج۔۹) ۵۴۵۴
عوض باقی، ملا: (ج۔۶) ۳۸۷۸

عون بن ابی جحیفہ: (ج۔۲)۶۵۶

عیار، شیخ (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶)۳۶۹۳

عیاض، قاضی: (ج۔۲) ۵۹۸، ۶۲۵، (ج۔۵) ۲۸۸۶، (ج۔۷)۴۳۹۳

عیدامام مفتی، قاضی: (ج۔۴)۲۳۵۲، (ج۔۸)۴۵۹۹

عیدروس، شیخ شازلیہ: (ج۔۶)۳۲۱۱

عیسیٰ (علیہ السلام): (ج۔۱)۲۶۰، (ج۔۲)۶۶۶، ۶۸۲، ۸۲۹، ۹۲۰، ۱۱۱۷، ۱۱۲۳، (ج۔۳)۱۴۹۶۔۱۴۹۷، ۱۵۰۷۔۱۵۰۸، ۱۵۱۳۔۱۵۱۶، ۱۵۱۹۔۱۵۲۰، ۱۵۲۴، ۱۵۲۷۔۱۵۲۸، ۱۵۵۰، ۱۶۵۲۔۱۵۵۳، ۱۵۵۶، ۱۵۶۳۔۱۵۶۴، ۱۵۶۶، ۱۶۳۳، ۱۶۷۳۔۱۶۷۴، ۱۷۴۱، ۱۸۲۶، (ج۔۴) ۲۲۴۲، ۲۲۵۵۔۲۲۵۶، ۲۳۳۲، (ج۔۵)۲۵۶۴، ۲۶۱۷، ۲۷۱۷، ۲۹۵۰، ۲۹۶۳، ۳۰۶۲۔۳۰۶۴، ۳۰۶۶۔۳۰۶۸، ۳۰۷۶، ۳۱۰۵، (ج۔۶) ۳۲۰۴، (ج۔۷) ۴۱۹۸، ۴۳۵۳، ۴۳۷۸، ۴۳۱۵، (ج۔۸) ۴۵۲۸، ۴۶۱۴، ۴۶۷۱، ۴۷۲۹، ۴۷۳۴۔۴۷۳۵، ۴۸۲۰، ۴۸۲۷، (ج۔۹) ۵۲۰۱، ۵۲۵۸، ۵۳۱۵، (ج۔۱۰) ۵۸۱۷، ۵۸۲۴، ۶۱۴۴، ۶۱۷۵

عیسیٰ بلوتی، شیخ (مرشد شیخ موسی شوین): (ج۔۱۰)۵۹۱۹۔ ۵۹۲۰، ۵۹۲۵

عیسیٰ بن جنید شیرازی: (ج۔۵)۲۸۵۵، ۲۸۵۸

عیسیٰ بن محمد السھسار الواسطی: (ج۔۲)۵۵۶

عیسیٰ بن یونس: (ج۔۲)۵۶۹

عیسیٰ دشتی، شیخ: (ج۔۶)۳۶۹۱

عیسیٰ سرہندی، شیخ: (ج۔۹)۵۵۵۸

عیسیٰ، شیخ: (ج۔۲)۱۲۱۵، (ج۔۳)۱۴۲۲

عیسیٰ شیرازی بن جنید: (ج۔۶)۳۹۵۸

عیسیٰ، قاضی: (ج۔۲)۶۱۶

عیسیٰ کرمانی، ناصرالدین: (ج۔۶)۳۹۷۰

عیسیٰ لنگوٹیا، شیخ: (ج۔۶)۳۴۱۶

عیسیٰ نقشبندی، شاہ: (ج۔۱۰)۶۰۷۲

عیسیٰ، پیر: (ج۔۶)۳۵۶۸

عین الدین شامی: (ج۔۸)۴۸۴۶

عینی، علامہ: (ج۔۲)۷۱۷

غ

غازوالدین امازوگھڑی، مولانا: (ج۔۶)۳۸۷۱

غازی بابا (موضع جنگل خیل): (ج۔۶)۳۹۲۴

غازی گجراتی، مولانا: (ج۔۴)۲۳۹۴

غازی، میاں (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۵

غالب بن فہر: (ج۔۷)۴۰۱۸۰

غالب، مرزا اسداللہ: (ج۔۴)۲۲۸۹، (ج۔۵)۲۹۳۴، (ج۔۱۰)۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۶۱۰۹

غانم بن حمویۃ: (ج۔۷)۴۲۸۳

غزالی، امام ابوحامد محمد: (ج۔۱)۱۸۴، ۴۱۵۔۴۱۶، (ج۔۲) ۵۱۴، ۵۲۰، ۵۳۶، ۵۴۲، ۵۵۲، ۵۶۷، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۹۶، ۶۰۳، ۶۲۳، ۶۰۲، ۷۱۷، ۹۱۳، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۸، (ج۔۳) ۱۴۶۵۔۱۴۶۶، ۱۴۷۷، ۱۴۹۰، ۱۴۹۸، ۱۷۳۰، ۱۷۴۰، ۱۸۳۶، (ج۔۴) ۱۹۷۲، ۲۲۰۴، ۲۲۳۶، ۲۲۵۸، ۲۲۸۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۵، (ج۔۵) ۲۶۰۰، ۲۶۹۷، ۲۷۵۸، ۲۷۷۰۔ ۲۷۷۱، ۲۹۲۳، ۲۹۴۸، ۳۰۰۶،

(ج۔۶) ۳۲۶۲، ۳۳۸۴، ۳۸۸۴، ۳۹۵۸، (ج۔۷) ۴۲۶۶، ۴۳۰۵، ۴۳۱۰، ۴۳۳۵، (ج۔۸) ۴۵۱۱، ۴۵۱۴، ۴۶۱۶۔۴۶۱۷، ۴۷۴۶، ۴۸۶۶، ۴۹۵۲، (ج۔۹) ۵۱۷۵، ۵۲۱۰، ۵۲۲۷۔۵۲۲۸، ۵۲۷۳، ۵۳۹۹، ۵۴۷۲، ۵۵۱۴، (ج۔۱۰) ۶۲۰۴

غضنفر علی شاہ، پیر سید (کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۸

غضنفر، میر: (ج۔۴) ۲۲۸۴

غضنفر نہر والی گجراتی: (ج۔۶) ۳۱۵۵

غضیف بن الحرث: (ج۔۷) ۴۳۵۴

غلام مصطفیٰ مجددی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۴۳۳

غلام ابراہیم مجددی شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۹

غلام احمد پرویز، مسٹر: (ج۔۵) ۲۶۴۷

غلام احمد پشاوری (فرزند قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۱

غلام احمد جان مجددی: (ج۔۶) ۳۶۹۲

غلام احمد شرقپوری، میاں: (ج۔۶) ۳۷۷۰

غلام احمد قادیانی، مرزا: (ج۔۳) ۱۵۶۳، (ج۔۶) ۳۷۶۸، (ج۔۷) ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، (ج۔۱۰) ۶۰۱۰

غلام احمد مجددی، عرف شاہ آغا جان: (ج۔۶) ۳۳۰۹، ۳۳۳۰، ۳۵۴۶، ۳۵۴۸، ۳۵۵۳۔۳۵۵۴

غلام احمد، مولوی (والد مولانا غلام محمد قریشی): (ج۔۶) ۳۸۶۸۔۳۸۶۹

غلام احمد، میاں: (ج۔۸) ۴۴۸۶

غلام احمد، میاں (مصنف ذکر العارفین): (ج۔۱۰) ۵۹۹۴

غلام اسماعیل، آغا: (ج۔۶) ۳۵۱۲

غلام اسمٰعیل (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

غلام اللہ شرقپوری، میاں: (ج۔۳) ۱۸۷۳، (ج۔۵) ۲۸۲۰، (ج۔۶) ۳۵۹۲، ۳۵۹۴، ۳۷۷۰، ۳۷۸۴، (ج۔۸) ۴۴۸۵، ۴۸۶۹، (ج۔۹) ۵۵۷۵، (ج۔۱۰) ۶۴۲۹

غلام اللہ، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۷

غلام جابر مصباحی، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۲۸۹

غلام جان ہزاروی، مولوی: (ج۔۵) ۲۹۱۱

غلام جیلانی پشاوری، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۴۵، ۳۸۹۲۔۳۸۹۳، (ج۔۷) ۴۴۷۹، (ج۔۸) ۴۴۸۹، ۴۸۴۱، ۴۸۴۷۔۴۸۴۸، ۴۸۵۲، ۴۸۵۴، ۴۸۶۲

غلام جیلانی جان آغا: (ج۔۶) ۳۳۱۱

غلام جیلانی، مجددی، میاں: (ج۔۶) ۳۳۱۰، ۳۳۲۹

غلام، حافظ (فرزند مولانا حافظ عبداللطیف پشاوری): (ج۔۶) ۳۸۵۹

غلام حبیب، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۹۲

غلام حبیب، مولانا (جد مولانا غلام محمد قریشی): (ج۔۶) ۳۸۶۸۔۳۸۶۹

غلام حسن: (ج۔۶) ۲۰۱۸

غلام حسن پشاوری، شیخ (المعروف حضرت جیو پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۲، ۵۸۷۵

غلام حسن پونگر، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۹۷

غلام حسن، خواجہ بن ملک لعل: (ج۔۶) ۳۷۹۵

غلام حسن سرہندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۵۳۱

غلام حسن شاد، سید: (ج۔۱)۲۵۱
غلام حسن شاہ سہگاں شریف: (ج۔۶)۳۷۴۲
غلام حسن، شاہ (جدامجد خواجہ عبدالرحمٰن مجددی): (ج۔۶) ۳۴۹۹
غلام حسن، شیخ: (ج۔۹)۵۳۶۰
غلام حسن، شیخ (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱
غلام حسن طور، چوہدری: (ج۔۱۰)۶۰۸۲
غلام حسن فاروقی پشاوری نقشبندی: (ج۔۶)۳۸۶۸
غلام حسن، مولانا (استاد مولانا فتح محمد ڈیروی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۳، ۵۸۹۴
غلام حسن نقشبندی، خواجہ (سواگ شریف): (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۹۷۔ ۵۸۹۹، ۵۹۰۴۔ ۵۹۰۵، ۵۹۰۸، ۵۹۵۷۔۵۹۵۸
غلام حسین: (ج۔۶)۳۴۱۸
غلام حسین جان مجددی، پیر: (ج۔۶)۳۶۹۲
غلام حسین دیہ (مترجم ”متولات تصوف“): (ج۔۶) ۳۵۹۰
غلام حسین شاہ گیلانی سلطانپوری، سید: (ج۔۱۰)۵۹۴۴، ۶۰۶۸۔۶۰۶۹
غلام حسین، شاہ (مجدامجد خواجہ عبدالرحمٰن مجددی): (ج۔۶) ۳۴۹۹
غلام حسین (فرزند چوہدری عبدالرؤف): (ج۔۱۰)۶۰۷۸
غلام حسین مجددی پشاوری، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۸۰
غلام حسین (مرید شاہ مفتی محمود الوری): (ج۔۶)۳۶۲۹
غلام حسین ملک (جدامجد خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی): (ج۔۱۰)۵۹۰۳
غلام حسین نقشبندی، پیر: (ج۔۶) ۳۶۹۶، ۳۸۰۴۔ ۳۸۰۵، ۳۸۱۴۔ ۳۸۱۵
غلام حیدر ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶)۳۶۸۸
غلام حیدر حسین، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵
غلام حیدر شاہ: (ج۔۶)۳۳۲۸، ۳۳۳۲
غلام حیدر کمبوہ، مولانا (عم و استاد خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰)۵۹۰۳
غلام حیدر، مجددی، خواجہ: (ج۔۶)۳۳۱۰
غلام دستگیر الہاشمی قصوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۳۵، ۶۰۳۷۔۶۰۳۸، ۱۰۴۰۔۶۰۴۱
غلام دستگیر جان، آغا بن غلام جان: (ج۔۶)۳۵۱۲
غلام دستگیر قصوری مولانا: (ج۔۵) ۳۰۷۳، (ج۔۶) ۳۷۶۸۔۳۷۶۹، ۳۷۷۵، ۳۹۵۸، (ج۔۱۰)۶۰۳۳
غلام دستگیر نامی (تاریخ جالیہ): (ج۔۱۰)۵۸۹۱
غلام دستگیر، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۹،
غلام دستگیر، پیر (مصنف): (ج۔۵)۲۶۲۷
غلام دین اشرفی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۴
غلام ربانی، مجددی، شیخ: (ج۔۶)۳۳۱۰، ۳۳۲۹، ۳۸۰۵
غلام رسول افغان خاموش: (ج۔۶)۳۵۲۰
غلام رسول پتی گجراتی، مولانا: (ج۔۶)۳۸۴۶
غلام رسول جان سرہندی، پیر: (ج۔۶)۳۳۲۳، ۳۴۲۶، ۳۵۳۲، ۳۵۳۹، ۳۶۹۲، ۳۷۰۳
غلام رسول، حاجی: (ج۔۷)۴۴۷۳

غلام رسول سعیدی، علامہ: (ج۔۶) ۳۹۵۸، (ج۔۷) ۴۲۷۸، (ج۔۸) ۴۶۲۱

غلام رسول شاہ، سید: (ج۔۶) ۳۹۲۳

غلام رسول قادری، مولانا حافظ شاہ: (ج۔۵) ۲۸۸۲

غلام رسول قاسمی امرتسری، مولانا مفتی (المعروف رسل بابا): (ج۔۱۰) ۵۹۶۲

غلام رسول کشمیری، مولانا قاری: (ج۔۵) ۳۱۱۰

غلام رسول گوہر قصوری، جماعتی نقشبندی مولانا: (ج۔۶) ۳۷۸۵

غلام رسول (مصنف): (ج۔۶) ۳۷۵۴

غلام رسول (مولانا): (ج۔۵) ۲۹۴۴

غلام رسول (مولوی بن مولوی جان محمد: (ج۔۶) ۳۷۳۴، ۳۷۴۰، ۳۷۴۲

غلام رسول مہر، مولانا: (ج۔۴) ۱۹۲۵، (ج۔۵) ۳۰۲۳، ۳۰۲۸ ـ ۳۰۲۹، (ج۔۶) ۳۶۴۰، ۳۷۰۳، ۳۸۸۹ ـ ۳۸۹۱، ۳۹۰۹، (ج۔۱۰) ۵۹۴۵

غلام سرور رانا، پروفیسر: (ج۔۱) ۱۳، ۲۰، ۳۶۵، (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۵۱

غلام سرور لاہوری، مفتی: (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۲، (ج۔۴) ۲۲۰۱، ۲۸۷۵، ۲۸۹۵، (ج۔۶) ۳۳۹۴، ۳۸۳۴، ۳۸۹۸، ۳۹۱۲، (ج۔۸) ۴۸۶۳ ـ ۴۸۶۴، (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، ۵۳۲۶، ۵۳۸۹، (ج۔۱۰) ۵۷۷۳، ۵۸۸۶، ۵۸۸۸، ۵۹۵۹، ۶۰۴۰

غلام سرور، مولانا: ۵۱۵۹

غلام سرور نقشبندی قادری، مفتی: (ج۔۶) ۳۹۵۸

غلام سرور نقشبندی مجددی لاہوری، صوفی: (ج۔۱) ۱۳، ۳۵، (ج۔۲) ۱۲۴۳، (ج۔۳) ۱۸۷۱، (ج۔۴) ۲۵۱۱، (ج۔۵) ۳۱۰۷، ۳۱۲۰، (ج۔۶) ۳۱۳۲، ۳۹۲۹، ۳۹۳۲، ۳۹۵۸، (ج۔۷) ۴۴۷۹، (ج۔۸) ۴۴۹۰، ۴۹۲۳، (ج۔۹) ۵۰۶۸ ـ ۵۰۶۹، (ج۔۱۰) ۵۶۱۳، ۶۲۴۵، ۶۲۹۹، ۶۳۴۰، ۶۳۵۳

غلام شاہ حکیم، سید (حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۳

غلام شاہ کلہوڑو، میاں: (ج۔۶) ۳۵۸۴، ۳۵۸۶ ـ ۳۵۸۷، ۳۶۵۵ ـ ۳۶۵۶

غلام شبیر بخاری، سید: (ج۔۵) ۲۹۴۵، (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

غلام صابر قدیری، قاری: (ج۔۴) ۲۵۲۵، (ج۔۶) ۳۹۵۸

غلام صادق، پروفیسر خواجہ: (ج۔۱) ۲۸۵، ۲۸۸، (ج۔۵) ۲۹۴۷، ۳۰۰۷

غلام صدیق: (ج۔۱) ۲۹۱، (ج۔۶) ۳۳۲۸

غلام صدیق پشاوری، شاہ (فرزند قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۱

غلام صدیق جان (فرزند عبداللہ جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۲۵

غلام صدیق، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۱۰

غلام صدیق، صاحبزادہ: (ج۔۱) ۲۸۴

غلام صدیق (فرزند عبدالستار جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۱۲

غلام عباس، چوہدری (قائد ملت کشمیر): (ج۔۶) ۳۷۸۱

غلام عثمان (فرزند عبدالستار جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۱۲

غلام علی: (ج۔۹) ۵۰۳۹

غلام علی الانا: (ج۔۵) ۶، ۲۵، ۲۵۸۰

غلام علی اوکاڑوی، علامہ: (ج_۶) ۳۵۹۱، ۳۵۹۵،
(ج_۱۰) ۵۸۰۴، ۵۸۱۰

غلام علی آزاد بلگرامی، علامہ: (ج_۳) ۱۲۹۸، (ج_۴)
۱۹۸۴، ۲۲۱۰، ۲۲۲۳، (ج_۵) ۲۵۷۸، ۲۶۷۴، ۲۶۷۶،
۲۶۷۹، ۲۷۰۰، ۲۹۱۱، (ج_۶) ۳۹۵۹، (ج_۹) ۵۳۶۲،
۵۳۴۱، (ج_۱۰) ۵۶۳۸

غلام علی تالپور، میر: (ج_۶) ۳۵۰۱

غلام علی جان، سرہندی، پیر: (ج_۶) ۳۴۴۹، ۳۵۳۰،
۳۵۳۹_۳۵۴۰

غلام علی جعفری ٹھٹوی، قاضی: (ج_۶) ۳۶۸۸

غلام علی حسینی، شیخ: (ج_۶) ۳۲۰۵

غلام علی دہلوی، شاہ: (ج_۱) ۸۷، ۹۲، ۳۲۳، ۴۵۷_
۴۵۸، (ج_۲) ۷۳۳، ۱۱۱۹، ۱۱۵۰، (ج_۳) ۱۷۷۴،
۱۸۸۷_۱۸۸۸، (ج_۴) ۲۰۵۵، ۲۰۷۰، ۲۲۰۲، ۲۲۰۷،
۲۲۱۰، ۲۲۲۳، ۲۲۸۹، ۲۳۱۳، ۲۳۵۳، ۲۳۵۶، ۲۳۶۰_
۲۳۶۱، ۲۳۶۵، ۲۳۶۸، ۲۳۷۱، ۲۳۷۴، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷_
۲۳۸۱، ۲۳۸۳_۲۳۸۵، ۲۳۸۷، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۳۹۳،
(ج_۵) ۲۵۵۳، ۲۵۷۸، ۲۵۹۱، ۲۵۹۳، ۲۶۲۲، ۲۶۳۴،
۲۶۴۲، ۲۶۵۰، ۲۷۶۲، ۲۸۰۱، ۲۸۱۲_۲۸۱۳، ۲۸۱۶،
۲۸۱۸، ۲۸۳۰، ۲۸۷۶، ۲۸۹۲، ۲۸۹۵، ۳۰۸۳، (ج_۶)
۳۱۴۲، ۳۲۶۴، ۳۲۷۶، ۳۳۵۶_۳۳۵۸، ۳۳۶۱،
۳۳۶۳، ۳۳۶۷، ۳۳۹۴، ۳۴۴۳_۳۴۴۴، ۳۷۶۸،
۳۹۱۶_۳۹۱۷، ۳۹۵۹_۳۹۶۰، (ج_۷) ۴۲۰۲،
۴۰۰۹، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۶۰۲_۴۶۰۳، (ج_۹) ۵۰۱۲،
۵۲۲۰_۵۲۲۱، ۵۳۲۹، ۵۳۳۸، ۵۳۴۰_۵۳۴۱،
۵۳۴۸، ۵۳۵۱_۵۳۵۳، ۵۳۵۷، ۵۳۵۹، ۵۳۹۷،
۵۴۷۰، ۵۵۱۰، (ج_۱۰) ۵۶۱۵، ۵۷۷۷، ۵۷۸۰،
۵۸۸۰، ۵۷۸۱، ۵۸۳۵، ۵۸۴۰، ۵۸۸۱_۵۸۸۲،
۵۸۹۴، ۵۹۰۵، ۶۳۰۴، ۶۰۳۵_۶۰۳۶، ۶۰۴۴،
۶۳۵۰، ۶۳۷۸، ۶۳۸۰_۶۳۸۱

غلام علی، شیخ: (ج_۵) ۳۰۰۷، ۳۰۱۱، ۳۰۴۵

غلام علی عبداللہ، بٹالوی دہلوی: (ج_۶) ۳۱۵۷

غلام علی گوپانگ، حاجی: (ج_۶) ۳۶۹۳

غلام علی مداح ٹھٹوی شاعر: (ج_۶) ۳۶۵۸

غلام علی میاں (بابارتی داڑھی والے): (ج_۱۰) ۵۹۷۰

غلام عمر مجددی ابن خواجہ عبدالباقی: (ج_۶) ۳۳۱۰، ۳۳۲۹

غلام غوث صمدانی، چوہدری: (ج_۴) ۱۹۲۰، (ج_۷)
۴۴۵۲، ۴۴۷۸

غلام فاروق (فرزند خواجہ عبدالستار جان سرہندی): (ج_۶)
۳۵۱۲

غلام فرید (مصنف احوال العارفین): (ج_۱۰) ۵۸۸۷

غلام فضل نقشبندی مجددی صاحبزادہ: (ج_۱۰) ۶۰۳۱

غلام قادر اشرفی فریدکوٹی: (ج_۱۰) ۵۸۱۰، ۵۹۹۴

غلام قادر بھیروی، مولانا: (ج_۶) ۳۷۸۰، (ج_۱۰)
۵۸۱۰

غلام قادر چشتی نظامی امرتسری، حکیم: (ج_۵) ۲۶۲۷

غلام قادر خاں، الحاج: (ج_۶) ۳۶۴۴

غلام قادر سرہندی، شاہ: (ج_۶) ۳۵۴۹

غلام قادر، شاہ: (ج_۶) ۳۳۲۶، ۳۳۳۱، ۳۳۳۴

غلام قادر شاہ، سید: (ج_۱۰) ۵۹۳۹

غلام قادر فوجی، حاجی: (ج_۱۰) ۶۴۴۳

غلام قادر کشمیری، مفتی: (ج۔۶)۳۶۴۹

غلام قادر مجددی، پیر: (ج۔۶)۳۳۰۹، ۳۳۳۵

غلام قاسم کمبوہ نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۵۹۴، ۵۹۰۳۔ ۵۹۰۵

غلام قیوم کابلی، مولانا: (ج۔۶)۳۳۱۰، ۳۳۲۹، ۳۳۳۵

غلام گیلانی، مولوی قاضی (سرحد): (ج۔۵)۲۸۸۲

غلام مجدد، پیر: (ج۔۹)۵۵۷۳

غلام مجدد سرہندی، پیر بن عبد الحلیم مجددی: (ج۔۶) ۳۵۳۰۔۳۵۳۲

غلام مجدد فاروقی، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۷۰،

غلام مجدد، مفتی: (ج۔۶)۳۴۱۸، ۳۴۲۶، ۳۴۴۲

غلام محمد: (ج۔۹)۵۲۹۰

غلام محمد ابنالوی، خواجہ: (ج۔۹)۵۵۷۵

غلام محمد امرتسری (کاتب): (ج۔۱۰)۶۲۰۰

غلام محمد بگوی، مولوی (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۹

غلام محمد پشاوری نقشبندی مجددی: (ج۔۶)۳۸۲۸، ۳۸۳۰، ۳۸۶۶، ۳۸۸۸

غلام محمد پشاوری، شیخ (المعروف حضرت جیو کلاں پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۵، ۵۸۸۰

غلام محمد ترنم، مولانا: (ج۔۶)۳۷۸۱.

غلام محمد جان نعیمی شہید، مفتی: (ج۔۶)۳۶۶۱، ۳۶۷۱۔ ۳۶۷۲

غلام محمد جان، شیخ: (ج۔۶)۳۸۵۴، ۳۹۵۱

غلام محمد (ساہیوال): (ج۔۶)۳۸۱۴

غلام محمد سرہندی فاروقی، فضل احمد معصومی: (ج۔۶)۳۸۳۰، ۳۸۷۳، ۳۸۷۵، ۳۸۷۷۔۳۸۷۸

غلام محمد سرہندی، پیر: (ج۔۲)۹۳۲، (ج۔۹)۵۵۷۲

غلام محمد، شاہ المعروف میاں جی جان آغا: (ج۔۶)۳۳۲۶

غلام محمد، شاہ غلام علی دہلوی مجددی: (ج۔۶)۳۹۳۶

غلام محمد، شیخ: (ج۔۱)۴۱۲، (ج۔۸)۴۹۴۴

غلام محمد عارفی، مولانا: (ج۔۶)۳۴۴۷، (ج۔۱۰)۶۱۲۶

غلام محمد علامہ: (ج۔۹)۵۲۵۲

غلام محمد (فرزند پیر محمد صدیق خانقاہ بھور شریف): (ج۔۶) ۳۷۹۳

غلام محمد (فرزند ملا محمد نسیم صدیقی دہروی): (ج۔۱۰)۵۸۸۰

غلام محمد قریشی پشاوری، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۳۰، ۳۸۶۸۔ ۳۸۶۹، (ج۔۱۰)۵۹۴۴

غلام محمد گرامی: (ج۔۶)۳۷۰۱۔۳۷۰۲

غلام محمد (گورنر جنرل پاکستان): (ج۔۶)۳۵۵۱۔۳۵۵۲

غلام محمد گھوٹوی، مولانا: (ج۔۶)۳۷۸۳، ۳۷۹۵

غلام محمد مجددی پشاوری، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۲

غلام محمد مجددی، پیر: (ج۔۶)۳۵۴۲۔۳۵۴۴، ۳۵۴۹۔ ۳۵۵۰، ۳۵۵۴، ۳۶۴۶

غلام محمد مجددی، خواجہ: (ج۔۶)۳۳۲۵۔۳۳۲۶، ۳۳۳۰، ۳۳۳۵، ۳۴۱۷۔۳۴۱۸، ۳۴۴۹

غلام محمد معصوم ثانی، خواجہ: (ج۔۵)۲۸۱۱، (ج۔۶)۳۳۱۲، ۳۳۱۴، ۳۴۴۰۔۳۴۴۱، ۳۵۳۱، ۳۸۲۸، ۳۸۶۷

غلام محمد معصوم، شیخ (المعروف معصوم ثانی): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵، ۵۸۸۰، ۶۱۲۸

غلام محمد ملکانی: (جـ۶)۳۶۹۰

غلام محمد، میاں: (جـ۲)۹۵۵

غلام محمد نجیبی، فاضل: (جـ۶)۳۳۰۲

غلام محمد ہزاروی، قاضی: (جـ۱)۲۵، (جـ۳)۱۶۶۴

غلام محی الدین، حاجی: (جـ۶)۳۴۱۷ـ۳۴۱۸، ۳۴۴۱

غلام محی الدین خان (ایڈوکیٹ): (جـ۱۰) ۶۴۳۳، ۶۴۳۵، ۶۴۴۰

غلام محی الدین، خواجہ (نیریاں شریف): (جـ۶)۳۷۷۲، ۳۹۲۴

غلام محی الدین، سید: (جـ۵)۳۰۸۶

غلام محی الدین سیوستانی، مخدوم: (جـ۶)۳۵۲۳

غلام محی الدین شاہ غلام صدیق: (جـ۵)۲۸۱۱

غلام محی الدین، صاحبزادہ (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (جـ۱۰)۵۹۳۹

غلام محی الدین غزنوی: (جـ۶)۳۸۰۴، ۳۸۰۷، ۳۸۰۹ـ ۳۸۱۰، ۳۸۱۲، ۳۸۱۴ـ۳۸۱۵

غلام محی الدین (فرزند ملا محمد نسیم صدیقی دہروی): (جـ۱۰) ۵۸۸۰

غلام محی الدین قصوری، خواجہ: (جـ۴) ۲۴۸۷، ۲۴۸۹، (جـ۶) ۳۷۶۸، ۳۷۷۳، ۳۷۹۴، ۳۷۹۷، ۳۹۶۰، (جـ۹) ۵۲۲۰، ۵۵۸۴، (جـ۱۰) ۵۵۹۴، ۶۰۳۳ـ ۶۰۴۰

غلام محی الدین قندھاری، پیر مجددی: (جـ۶)۳۵۱۹

غلام محی الدین گھوسوی، مولانا: (جـ۹)۵۰۱۳، (جـ۱۰) ۵۶۱۶

غلام محی الدین گیلانی، سید: (جـ۱۰)۶۰۹۴

غلام محی الدین مجددی (حیدرآباد): (جـ۶)۳۶۹۱

غلام محی الدین مولانا: (جـ۷) ۴۰۱۰، (جـ۸) ۴۵۰۱، ۴۸۶۸، ۴۸۷۰

غلام محی الدین، مولانا مفتی: (جـ۶)۳۶۴۹

غلام مرتضیٰ بیربلوی، مولانا: (جـ۶) ۳۷۶۸، ۳۷۷۳، (جـ۱۰)۶۰۳۷

غلام مرتضیٰ جان، پیر: (جـ۹)۵۵۷۴

غلام مرتضیٰ، خواجہ: (جـ۶)۳۷۷۵، ۳۷۸۵، (جـ۷) ۴۴۱۷

غلام مرتضیٰ، خواجہ (بیربل شریف):

غلام مرتضیٰ ساقی مجددی، علامہ: (جـ۱)۲۲، (جـ۲)۴۸۹، ۸۵۵، (جـ۱۰)۶۰۹۴

غلام مرتضیٰ سرہندی، صاحبزادہ (ملیر والے): (جـ۶) ۳۶۱۹

غلام مرتضیٰ قصوری، خواجہ: (جـ۶)۳۷۶۸

غلام مرتضیٰ، مخدوم حافظ: (جـ۱۰)۶۰۳۳

غلام مرتضیٰ، مرزا لیفٹیننٹ: (جـ۶)۳۸۵۵، ۳۹۱۰

غلام مصطفیٰ خاں، پروفیسر ڈاکٹر: (جـ۱)۱۹، ۲۴، ۲۷، ۳۴، ۴۴، ۶۲، ۲۹۳، ۴۲۷ـ ۴۳۰، ۴۶۰ـ ۴۶۱، (جـ۳) ۱۲۸۵، ۱۴۶۳، ۱۷۲۲، ۱۸۸۶، (جـ۴) ۲۰۴۵، ۲۰۶۰، ۲۲۰۴، ۲۲۰۷، ۲۲۳۵، ۲۲۴۳، ۲۲۵۴، (جـ۵)۲۵۴۵ـ ۲۵۴۶، ۲۵۴۸، ۲۵۵۰، ۲۵۵۴، ۲۵۷۷، ۲۵۹۷، ۲۶۰۱، ۲۶۰۳، ۲۶۲۰، ۲۶۵۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۲، ۲۸۰۵، ۲۸۰۷، ۲۸۶۹، ۲۹۱۴، ۲۹۳۵، ۲۹۴۵، ۳۰۴۷، ۳۱۱۷، ۳۱۱۹، .(جـ۶) ۳۱۳۱، ۳۴۴۶، ۳۳۵۱، ۳۴۱۵، ۳۴۵۰ـ

۳۴۵۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۴، ۳۶۸۶، ۳۷۰۱، ۳۷۰۳، ۳۷۰۸، ۳۹۱۳، ۳۹۴۲، ۳۹۴۴، ۳۹۶۰، ۳۹۶۹، (ج_۸) ۴۵۷۶_ ۴۵۷۹، ۴۶۰۰، ۴۶۱۷، ۴۸۸۰، ۴۹۵۱، ۴۹۹۱، (ج_۹) ۵۰۱۰، ۵۰۶۸، ۵۱۷۰، ۵۵۵۰، ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۶۴۹، ۵۶۶۹_ ۵۶۷۱، ۵۸۸۵، ۵۹۲۴_ ۵۹۲۵، ۶۰۹۹_ ۶۱۰۵، ۶۱۰۷_ ۶۱۳۳، ۶۲۴۳، ۶۲۴۵، ۶۲۷۳، ۶۳۰۰، ۶۳۳۷، ۶۳۷۳

غلام مصطفیٰ (دادو): (ج_۶)۳۴۴۲

غلام مصطفیٰ، صاحبزادہ: (ج_۶)۳،۲۴۷

غلام مصطفیٰ قاسمی امرتسری، مفتی: (ج_۱۰)۵۹۶۵

غلام مصطفیٰ، قاضی (والد عالم الدین قاضی): (ج_۵) ۲۷۲۷

غلام مصطفیٰ مجددی، پروفیسر: (ج_۱) ۳۰، ۳۳، ۳۵، (ج_۳)۱۲۹۹، (ج_۵)۲۵۳۵_ ۲۵۳۶، ۲۵۲۵، ۲۵۴۴، ۲۶۲۶_ ۲۶۲۸، ۲۸۹۷، (ج_۶) ۳۱۳۷، (ج_۷) ۴۱۰۱، ۴۴۸۰، (ج_۸) ۴۴۹۰، (ج_۹) ۵۰۰۱، ۵۰۶۴، ۵۰۷۲، ۵۱۹۹، (ج_۱۰) ۵۵۹۴، ۶۰۷۹، ۶۲۴۴_ ۶۲۴۵، ۶۳۲۹، ۶۳۳۳، ۶۳۳۵، ۶۳۴۰

غلام مصطفیٰ، مولانا حافظ: (ج_۱۰)۶۰۳۴

غلام مصطفیٰ قاسمی، مولانا: (ج_۶)۳۴۴۵

غلام مصطفیٰ نور القادری: (ج_۶)۳۶۹۲

غلام مصطفیٰ (والد خواجہ سعید پیر مٹھا): (ج_۱۰)۶۰۱۷

غلام معصوم، حاجی: (ج_۴)۲۴۹۵

غلام معین الدین عبداللہ، مولانا: (ج_۶)۳۹۶۰، (ج_۹) ۵۵۲۲

غلام معین الدین، مفتی: (ج_۹)۵۱۵۴

غلام مہر علی، علامہ: (ج_۱۰)۵۹۶۷

غلام ناصر مروت، ڈاکٹر: (ج_۷) ۴۰۳۳، (ج_۱۰) ۵۸۸۸

غلام نبی جان، جنرل: (ج_۶)۳۳۳۶، ۳۴۱۹، ۳۴۲۲

غلام نبی جان سرہندی: (ج_۶)۳۵۳۰_ ۳۵۳۱، ۳۶۹۲

غلام نبی (مرید حضرت محمد قندھاری) ج_۶)۳۹۱۵

غلام نبی، خواجہ (المعروف زلفاں والی سرکار): (ج_۶) ۳۷۸۴

غلام نبی، شاہ (جدامجد محمد فاروق سرمحمد حسن جان سرہندی): (ج_۶)۳۷۰۶

غلام نبی شاہ، خواجہ (فرزند خواجہ محمد نامدار شاہ): (ج_۱۰) ۶۰۰۰

غلام نبی، فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج_۶) ۳۴۹۹، (ج_۱۰)۵۸۷۵

غلام نبی قریشی، مولوی (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰)۵۹۳۹

غلام نبی للھی، مولانا: (ج_۶)۳۷۶۸، ۳۷۷۳، ۳۷۹۷، (ج_۱۰)۶۰۳۷، ۶۰۴۰

غلام نبی، مولانا (خلیفہ شاہ غلام محمد مجددی) (ج_۶) ۳۵۵۰

غلام نبی نعیمی، مولانا: (ج_۱۰)۶۴۹۴

غلام نبی نقشبندی: (ج_۱۰)۶۱۳۳

غلام نقشبند گھوسوی، مولانا: (ج_۵) ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۱۳۰، ۳۴۰۷_ ۳۴۰۸

غلام یحییٰ سید، مولوی: (ج_۲)۱۲۲۸_ ۱۲۲۹

غلام یحییٰ علی قریشی اکی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰)۵۹۴۵

غلام یسین نقشبندی، قاری: (ج۔۱۰)۔ ۶۴۴

غنیمت کنجاہی (شاعر) (ج۔۱۰)۵۹۴۵

غنیمت کنجاہی، ملا (کنجاہ شریف گجرات) (ج۔۶) ۳۷۹۶

غوث بخش، مولوی (ج۔۱۰)۶۰۴۵

غوث علی شاہ، سید (سابق وزیر اعلیٰ سندھ) (ج۔۴) ۲۲۱۷، (ج۔۱۰)۶۰۲۰

غوث محمد کابی، مولوی (مصنف سراج العارفین) (ج۔۱۰)۔ ۵۸۴۷، ۵۸۵۰

غوثی مندوی (ج۔۵)۲۶۰۸۔۲۶۰۹

غوری، سلطان شہاب الدین محمد (ج۔۴)۲۰۴۸، ۲۰۶۳، ۲۰۸۶، (ج۔۵)۲۹۱۶، (ج۔۹)۵۰۲۲، (ج۔۱۰)۵۸۲۳

غیاث الدین بلبن (ج۔۱)۳۹۵، (ج۔۴)۲۰۴۹، ۲۰۶۴، ۲۰۸۰

غیاث الدین تغلق (ج۔۹)۵۰۹۶

غیاث الدین کوبی، شیخ (ج۔۶)۳۲۰۵

غیاث الدین ملک (ج۔۵)۲۸۴۸

غیاث الدین میر (فرزند سید میر عبداللہ بخاری اکبر پوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۶

غیور بیگ مرزا: (ج۔۳)۱۳۶۸

ف

فارابی۔ (ج۔۳)۱۷۴۰

فاسی، علامہ: (ج۔۲)۶۱۱

فاضل سرہندی، مولانا: (ج۔۳)۱۷۶۴

فاطمہ بنت عزیز الدین: (ج۔۱۰)۵۸۵۸

فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم): (ج۔۱)۲۶۹۔۲۷۰، (ج۔۲) ۷۲۰، ۱۰۸۹، ۱۶۱۹، ۱۶۳۵، ۱۶۸۵، ۱۷۰۳، ۱۸۲۵، (ج۔۵) ۲۶۴۰، ۲۸۲۲، ۳۰۷۴، ۳۱۰۱، ۳۱۰۳، (ج۔۶) ۳۷۳۷، (ج۔۷) ۴۲۸۳، ۴۳۸۱، ۴۳۸۳، ۴۳۹۵، (ج۔۸) ۴۶۹۵، ۴۷۳۸، ۴۸۲۴۔۴۸۲۵، (ج۔۹)۵۳۰۹، (ج۔۱۰)۶۰۷۶، ۶۲۵۱، ۶۲۵۳

فاطمہ بی بی (ج۔۹)۵۵۲۵

فاطمہ، حافظہ (ج۔۴)۲۳۵۰

فاطمہ (صاحبزادی مولانا خالد کردی): (ج۔۴)۲۵۰۸

فاطمہ صاحبہ، مائی (ربیبہ خواجہ غلام حسن نقشبندی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۷

فائز محمود، صاحبزادہ (ج۔۶)۳۳۷۱، ۳۶۸۳، ۳۹۳۱، (ج۔۱۰)۶۴۳۸

فتح الدولہ، نواب (ج۔۱۰)۵۸۸۲

فتح الدین، حافظ: (ج۔۶)۳۸۰۱

فتح الدین، حافظ (خلیفہ خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۹

فتح الدین، حکیم (وزیر شاہجہاں): (ج۔۶)۳۸۰۱۔۳۸۰۲

فتح اللہ، خواجہ: (ج۔۱) ۴۱۰، (ج۔۸) ۴۵۱۰، (ج۔۹) ۵۴۹۱

فتح اللہ زادہ، شیخ: (ج۔۱۰)۶۴۰۴

فتح اللہ، شیخ: (ج۔۴)۱۹۷۴، ۲۰۲۸، (ج۔۵)۲۸۶۳

فتح اللہ طیبی، خواجہ: (ج۔۱۰)۶۴۳۹

فتح اللہ لاہوری (جد امجد مولانا نور محمد مدقق): (ج-۱۰) ۵۸۹۱
فتح اللہ حکیم، مرزا: (ج-۷)۴۱۸۳، (ج-۹)۵۱۰۵، ۵۲۱۴
فتح اللہ صدیقی رہتکی، قاضی: (ج-۶) ۳۸۱۶، ۳۸۱۸، ۳۸۲۳
فتح اللہ گولن: (ج-۶)۳۲۷۲
فتح اللہ گیلانی، حکیم: (ج-۵)۲۷۸۰، (ج-۹)۵۴۹۸
فتح اللہ میر: (ج-۹)۵۴۹۱
فتح اللہ، مُلّا: (ج-۴)۲۴۱۹، ۲۴۲۱
فتح پوری، میرزا: (ج-۳)۱۸۶۲
فتح خان گکھڑ، سلطان (حاکم کشمیر): (ج-۶)۳۸۱۶
فتح دین رنگپوری، حافظ: (ج-۵)۲۷۲۷
فتح سنگھ: (ج-۱)۴۰۳
فتح علی خان: (ج-۱)۳۲۴۷
فتح محمد جلال پوری قادری، حافظ قاری: (ج-۱۰)۶۰۶۰، ۶۰۶۸
فتح محمد چشتی، شیخ: (ج-۴) ۲۴۳۳، (ج-۶) ۳۴۶۱، (ج-۹)۵۳۶۰
فتح محمد، حافظ (والد حافظ محمد رانجھا نقشبندی): (ج-۱۰) ۵۹۸۴
فتح محمد ڈیروی، مولانا شیخ: (ج-۱۰)۵۸۸۲
فتح محمد سہوانی، حکیم: (ج-۶)۳۵۲۴، ۳۵۳۶
فتح محمد، شاہ: (ج-۹)۵۳۴۳
فتح محمد، شیخ (ابوالحسن): (ج-۶)۳۴۲۸
فتح محمد فتحپوری: (ج-۹)۵۳۲۸-۵۳۳۰
فتح محمد، مولانا بن باباجنگ یار: (ج-۶)۳۷۹۲
فتح محمد، مولوی (مرید دوست محمد قندھاری): (ج-۶) ۳۹۱۵
فتح محمد نسیم، حاجی پروفیسر: (ج-۱۰)۶۴۳۵
فتح محمد (نصرپور): (ج-۶)۳۴۴۷
فخر الدین جان چشموی، خواجہ آغا: (ج-۶) ۳۷۴۶، (ج-۱۰)۵۹۵۷
فخر الدین رازی، امام محمد بن عمر: (ج-۵)۲۶۰۰، ۲۹۴۸، (ج-۶)۳۹۴۹
فخر الدین زنجانی، شیخ: (ج-۴)۲۰۴۸، ۲۰۶۳
فخر الدین صافی، شیخ: (ج-۶)۳۲۹۸
فخر الدین مبارک شاہ: (ج-۹)۵۰۶۳
فخر الدین، منشی (مالک مطبع): (ج-۱۰)۶۲۴۳
فخر الدین، مولانا: (ج-۹)۵۲۱۳
فخر النساء: (ج-۹)۵۵۲۵
فدا احمد: (ج-۶)۳۴۱۸
فدا حسین فدا، ابوالطاہر: (ج-۵) ۳۱۱۷، (ج-۶)۳۱۲۹، ۳۱۳۹، (ج-۷)۳۹۹۱
فدا، شاعر (معتقد مجدد الف ثانی): (ج-۶)۳۸۲۵
فدا علی طالب، مولوی: (ج-۶)۳۹۶۰
فدا محی الدین: (ج-۶)۳۴۱۸
فدائے معصوم، خواجہ: (ج-۶)۳۳۱۰، ۳۳۲۶
فرحت (شاعر): (ج-۱۰)۶۰۷۱

فرخ الدین قندھاری (نقشبندی صوفی): (ج۔۱۰) ۵۹۵۸

فرخ حسین، مولانا: (ج۔۱) ۴۵۲، (ج۔۲) ۵۱۰، (ج۔۳) ۱۳۷۴، (ج۔۴) ۲۳۹۴، (ج۔۸) ۴۵۶۰، (ج۔۹) ۵۱۲۶

فرخ حسین، مولانا (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۶

فرخ سیر، شہزادہ: (ج۔۴) ۲۱۸۶، (ج۔۵) ۳۰۲۲

فرخ شاہ سرہندی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۹۹، ۳۰۸۰

فرخ شاہ کابلی، شیخ شہاب الدین: (ج۔۱) ۴۰۸، ۴۰۹، (ج۔۹) ۵۲۲۶، ۵۳۴۰، ۵۵۲۵۔۵۵۲۶، ۵۵۵۳، ۵۵۵۷۔۵۵۵۸، (ج۔۱۰) ۵۹۹۶

فرخ شاہ، مولوی: (ج۔۸) ۴۵۹۸،

فرخ، شیخ: (ج۔۴) ۲۴۱۳

فرعون: (ج۔۳) ۱۴۹۶، ۱۵۵۰، ۱۵۶۵، (ج۔۵) ۲۹۸۳، (ج۔۷) ۴۱۱۳، ۴۲۶۸، ۴۲۷۵، (ج۔۸) ۴۶۰۲، ۴۶۱۸، (ج۔۹) ۵۱۴۶، ۵۳۳۸، (ج۔۱۰) ۵۶۸۴

فرمان شاہ بخاری نقشبندی، سید: (ج۔۶) ۳۸۳۶

فرمان علی، پروفیسر: (ج۔۹) ۵۳۶۵، ۵۴۸۳

فرمان فتح پوری، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۶۸۵

فروغ احمد اعظمی مصباحی: (ج۔۵) ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۱۳۰

فرہاد شکیلی: (ج۔۵) ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۲۷۵

فری لینڈ ایبوٹ، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۲۱۴، (ج۔۵) ۲۸۳۵۔۲۸۳۶، ۲۸۳۸

فرید احمد باسط، حکیم: (ج۔۶) ۳۶۷۴

فرید اکبر پوری پشاوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۵۔۵۸۶۶، ۵۸۸۷

فریدالحق قادری، پروفیسر شاہ: (ج۔۶) ۳۶۳۲

فریدالدین، شاہ: (ج۔۸) ۴۸۴۲،

فریدالدین، سید مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۹

فریدالدین عطار، شیخ: (ج۔۹) ۵۲۹۲، (ج۔۱۰) ۵۷۸۲

فرید الدین قادری، ڈاکٹر صاحبزادہ: (ج۔۵) ۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۳۸۵، (ج۔۹) ۵۵۷۸

فریدالدین مسعود، گنج شکر: (ج۔۱) ۴۰۹، (ج۔۲) ۹۹۴، ۱۱۲۶، (ج۔۳) ۱۵۹۶، (ج۔۴) ۲۰۴۹، ۲۰۸۷، ۲۱۶۶، (ج۔۸) ۴۸۵۶، (ج۔۹) ۵۲۲۶، ۵۳۱۴، ۵۴۶۷، (ج۔۱۰) ۵۶۳۵، ۵۸۰۷، ۵۸۲۶، ۵۸۵۷

فریدالدین (ناناشاہ مفتی محمد محمود الوری): (ج۔۶) ۳۶۲۴

فریدالدین ولد عمادالدین، میر: (ج۔۶) ۳۳۰۱

فرید بخاری، شیخ مرتضیٰ خان: (ج۔۱) ۲۹۶، ۴۰۶، (ج۔۲) ۷۵۷، ۷۸۶، ۸۲۵، ۸۴۵، ۹۹۱، ۱۰۰۰، ۱۲۲۱، (ج۔۳) ۱۲۸۵، ۱۳۶۷، :۳۶۹، ۱۵۶۸، ۱۵۹۴، ۱۷۲۰، ۱۸۰۹، ۱۸۶۹، ۱۸۴۹۔۱۸۵۰، ۱۸۶۴، ۱۸۶۹، ۱۸۷۸، (ج۔۴) ۱۹۱۷، ۱۹۵۷، ۱۹۵۹۔۱۹۶۰، ۱۹۶۲، ۱۹۶۴۔۱۹۶۵، ۲۰۱۷۔۲۰۱۹، ۲۰۶۹، ۲۱۲۱، ۲۱۳۴، ۲۱۳۶۔۲۱۳۷، ۲۱۳۹۔۲۱۴۰، ۲۱۱۶، ۲۱۶۲، ۲۲۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۱۲، ۲۴۱۵، ۲۳۳۲، (ج۔۵) ۲۵۷۴، ۲۵۷۶، ۲۶۳۸، ۲۷۷۴۔۲۷۷۸، ۲۷۹۱، ۲۸۴۵، ۲۸۵۴، ۲۸۷۲۔۲۸۷۴، ۲۹۷۲، ۳۰۹۰، (ج۔۷) ۴۱۸۱، ۴۱۸۳، ۴۱۸۹، ۴۴۲۱، ۴۴۳۵، ۴۴۴۳، ۴۴۵۷۔۴۴۵۸، (ج۔۸) ۴۶۹۴، ۴۹۰۹، ۴۹۳۸، (ج۔۹) ۵۰۹۱، ۵۰۹۳، ۵۰۹۸، ۵۱۰۰، ۵۱۰۳، ۵۱۰۷۔۵۱۰۸، ۵۱۳۵، ۵۲۱۴، ۵۲۹۹، ۵۳۰۱، ۵۳۰۳، ۵۳۶۶، ۵۳۷۶، ۵۳۸۰۔۵۳۸۱، ۵۳۸۸، ۵۳۹۷، ۵۳۹۹۔۵۴۰۳، ۵۴۰۵۔۵۴۰۷، ۵۴۱۸۔۵۴۲۰،

۵۴۷۷ـ ۵۴۷۸، ۵۴۸۶، ۵۴۹۱، ۵۵۱۵ـ ۵۵۱۶، ۵۵۴۶، ۵۵۵۶، (ج۔۱۰) ۵۶۵۷، ۵۶۶۱، ۵۷۰۲، ۵۷۰۴ـ ۵۷۰۶، ۵۷۶۶، ۶۱۷۰

فرید بھکری، شیخ: (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۴) ۲۴۰۰، (ج۔۵) ۲۶۱۵، (ج۔۱۰) ۵۷۰۷

فرید دہلوی، شیخ: (ج۔۹) ۵۴۰۷

فرید، سید: (ج۔۸) ۴۷۹۷،

فرید، شیخ (استاد میاں محمد عمر چمکنی): (ج۔۶) ۳۸۹۶

فرید، شیخ سید: (ج۔۸) ۴۸۰۳، ۴۹۱۵، ۴۹۱۶ـ ۴۹۱۷، ۴۹۲۰

فرید فاروقی شیخ: (ج۔۴) ۲۲۳۸

فرید، بابا (صوفی پنجابی شاعر): (ج۔۱۰) ۵۸۲۹

فرید، نواب سید: (ج۔۴) ۲۱۲۰

فریڈ مین یوحنا، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۷۷۲، ۲۷۷۴، ۲۷۹۱ـ ۲۷۹۲، ۲۸۰۸ـ ۲۸۰۹، ۲۸۵۴، ۲۸۵۸، (ج۔۸) ۴۸۸۰ـ ۴۸۸۲، ۴۸۹۸

فریڈرک ثانی: (ج۔۵) ۲۸۵۱

فصیح احمد خوانی: (ج۔۵) ۲۸۴۸، ۲۸۵۰، ۲۸۵۵، ۲۸۵۸

فصیح الدین، شیخ: (ج۔۹) ۵۳۲۷

فضل احمد بیربلوی مولوی: (ج۔۶) ۳۷۷۴

فضل احمد جیوری: (ج۔۶) ۳۹۶۷

فضل احمد، حاجی: (ج۔۶) ۳۸۰۰

فضل احمد حبیبی، میاں: (ج۔۱) ۲۳، (ج۔۲) ۱۰۳۸، ۱۰۹۲

فضل احمد (خلیفہ خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

فضل احمد سرہندی، شاہ: (ج۔۱۰) ۶۱۰۸

فضل احمد، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۰۰

فضل احمد لدھیانوی، قاضی: (ج۔۵) ۳۰۷۳، (ج۔۶) ۳۹۶۱

فضل احمد معصومی (نواسہ مجدد الف ثانی): (ج۔۶) ۳۸۴۴، ۳۹۰۹، ۳۹۱۱

فضل احمد معصومی، شیخ (المعروف حضرت جی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۷، ۵۸۷۹ـ ۵۸۸۱، ۵۸۸۳ـ ۵۸۸۴

فضل احمد، مفتی حافظ بن مفتی حبیب اللہ: (ج۔۶) ۳۸۶۵

فضل احمد، ملا (محمد نسیم صدیقی دہروی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۰

فضل احمد ہزاروی، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۱

فضل الدین، قاری: (ج۔۶) ۳۶۴۵

فضل الدین ملک: (ج۔۴) ۲۴۳۳، ۲۴۳۷، (ج۔۵) ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۲۰، ۲۶۲۹، ۲۷۲۶، ۲۸۵۴، (ج۔۸) ۴۹۸۴، (ج۔۱۰) ۶۲۰۹ـ ۶۲۱۱، ۶۲۷۲، ۶۲۹۵ـ ۶۲۹۶، ۶۳۵۰، ۶۳۷۵

فضل الدین، مولوی (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

فضل الرحمٰن، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۰۰، (ج۔۴) ۲۲۲۱، ۲۴۳۷، (ج۔۵) ۲۶۲۹، ۲۶۴۷، ۲۸۳۳، ۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۹۶۱، (ج۔۸) ۴۹۰۷، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۲

فضل الرحمٰن قادری، شیخ (صاحبزادہ مفتی ضیاء الدین مدنی): (ج۔۵) ۲۹۰۵

فضل الرحمٰن مجددی پیر (فرزند پیر غلام محمد مجددی): (ج۔۱) ۶۴، (ج۔۶) ۳۳۳۸، ۳۵۴۸، ۳۵۵۴، ۳۷۰۳

فضل الرحمٰن نقشبندی مجددی، مولانا صوفی: (ج_۶) ۳۷۸۸
فضل اللہ آخوزادہ، حاجی: (ج_۶) ۳۸۰۹
فضل اللہ برہانپوری صدیقی، شیخ: (ج_۴) ۱۹۸۱، (ج_۵) ۲۷۲۰
فضل اللہ بن عبدالقادر: (ج_۹) ۵۵۴۸
فضل اللہ تورپشتی، امام شہاب الدین: (ج_۳) ۱۷۵۹، (ج_۵) ۲۵۳۷، ۲۸۴۵_ ۲۸۴۶، ۲۸۴۸_۲۸۵۵، ۲۸۵۸، (ج_۶) ۳۹۴۵
فضل اللہ، خلیفہ (پاٹ والے): (ج_۶) ۳۴۴۱
فضل اللہ، خواجہ (فرزند شاہ غلام نبی): (ج_۶) ۳۴۹۹
فضل اللہ، خواجہ: (ج_۷) ۴۴۲۲
فضل اللہ، صاحبزادہ: (ج_۳) ۱۲۹۸، (ج_۴) ۱۹۴۱، (ج_۶) ۳۴۱۹، ۳۴۲۲، ۳۴۲۶
فضل اللہ (فرزند حافظ محمد ہاشم جان سرہندیؒ): (ج_۶) ۳۶۶۶
فضل اللہ مجددی، خواجہ: (ج_۵) ۲۸۰۶، ۲۸۱۷، (ج_۶) ۳۴۴۴، ۳۷۰۲
فضل اللہ، مولوی (خلیفہ حضرت مظہر): (ج_۴) ۲۴۷۱
فضل اللہ نقشبندی قندھاری، حاجی: (ج_۵) ۲۶۴۲، (ج_۶) ۳۵۱۵، ۳۹۶۰
فضل الٰہی راجہ (والد راجہ نور محمد نظامی): (ج_۱۰) ۶۴۹۰
فضل برہانپوری، شیخ: (ج_۱۰) ۵۶۳۸
فضل حسین (مصنف مناقب پیر زین الدین): (ج_۱۰) ۵۸۸۹
فضل حق، پیر: (ج_۹) ۵۵۷۵
فضل حق معصومی: (ج_۶) ۳۸۴۴، ۳۸۷۹، ۳۹۰۹، ۳۹۱۱
فضل ربانی بنوری، سید: (ج_۶) ۳۸۷۱
فضل ربانی زاہدی، صاحبزادہ (نقشبندی صوفی کشمیر): (ج_۶) ۳۸۰۵
فضل ربانی آغا مجددی (فرزند شاہ غلام محمود مجددی): (ج_۶) ۳۵۵۴
فضل رحمٰن، شاہ: (ج_۹) ۵۲۰۵
فضل رحمٰن گنج مرادآبادی، شاہ: (ج_۱) ۴۵۸، (ج_۲) ۵۰۱، (ج_۳) ۱۷۲۸، (ج_۵) ۲۹۰۳، ۲۹۰۹، ۱(ج_۶) ۳۳۶، ۳۳۶۲، ۳۷۸۰، ۳۸۷۰، (ج_۹) ۵۲۵۷، (ج_۱۰) ۵۸۰۲، ۵۸۰۵، ۵۸۱۰
فضل رحمٰن، مولانا: (ج_۹) ۵۲۵۹
فضل رسول قادری بدایونی، مولانا: (ج_۵) ۲۶۷۱، ۲۹۸۹، ۳۰۱۴، (ج_۶) ۳۹۶۰
فضل صمدانی بنوری، مولانا سید: (ج_۶) ۳۸۳۰، ۳۸۷۱، ۳۸۹۸، ۳۹۰۶
فضل عثمان فاروقی خواجہ: (ج_۸) ۴۸۰۷،
فضل عثمان مجددی: (ج_۶) ۳۳۰۹، ۳۳۳۵_۳۳۳۶، ۳۳۳۸، ۳۴۱۸
فضل عثمان نقشبندی، خواجہ: (ج_۱۰) ۶۱۲۸_۶۱۲۹
فضل عزیز، میاں (فرزند میاں احمد معصوم مجددی پشاوری): (ج_۱۰) ۵۸۷۷
فضل علی شاہ، حاجی: (ج_۶) ۳۶۹۱
فضل علی مجددی، خواجہ: (ج_۹) ۵۵۸۴

فضل عمر مجددی کابلی ، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۲۹۹، ۳۳۳۶،۳۳۴۲

فضل غفار مجددی: (ج۔۶)۳۳۱۱،۳۵۵۴

فضل قیوم: (ج۔۶)۳۴۱۸

فضل کریم فضل، صوفی: (ج۔۱۰)۶۴۴۱

فضل کریم، مفتی: (ج۔۶)۳۸۸۷،۳۸۹۳

فضل مجدد مجددی (فرزند میاں نور مہدی مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۸۰

فضل محمد عرف شاہ آغا: (ج۔۶)۳۲۱۰،۳۲۹۹،۳۳۱۱

فضل محمد مجددی: (ج۔۶)۳۳۲۹

فضل محمود مجددی (فرزند شاہ غلام [illegible] مجددی): (ج۔۶) ۳۵۵۴

فضل محمود، مولوی (ساکن بھانہ ماڑی): (ج۔۶)۳۸۶۹

فضیل بن عیاض ، شیخ: (ج۔۲) ۵۳۹۔۵۴۱، (ج۔۳) ۱۵۹۶، (ج۔۸)۴۸۵۶،

فضیل قادری شاہ (مرشد کمال کیتھلی): (ج۔۵)۲۸۹۲

فقیر احمد جہلمی، مولوی: (ج۔۵)۲۸۹۵

فقیر احمد مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۷،۵۸۸۴

فقیر اللہ بن عبدالرحمٰن: (ج۔۱۰)۶۲۶۶

فقیر اللہ، شاہ: (ج۔۸)۴۸۶۸

فقیر اللہ علوی، شاہ علامہ: (ج۔۵)۲۶۴۲،۲۶۵۰،۲۸۱۷، (ج۔۶) ۳۴۳۱، ۳۴۳۵، ۳۴۴۹، ۳۵۵۴۔۳۵۵۶، ۳۵۵۸۔۳۵۶۱، ۳۵۶۴، ۳۵۶۷، ۳۶۰۵، ۳۶۵۳، ۳۶۵۹، ۳۷۳۰، (ج۔۱۰) ۵۹۵۱ ۵۹۵۵۔۵۹۵۶، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۶۳۷۸، ۶۳۹۸

فقیر اللہ نیازی، مولانا: (ج۔۹)۵۵۷۵

فقیر محمد بلوچ: (ج۔۶)۳۶۷۱

فقیر محمد جہلمی، مولانا: (ج۔۵) ۲۷۰۱، ۳۰۴۹، ۳۰۷۲، (ج۔۶)۳۱۹۰، ۳۹۶۱، (ج۔۱۰)۵۸۹۱

فقیر محمد، حافظ بن حکیم مفتی فضل احمد: (ج۔۶)۳۸۶۵

فقیر محمد، خواجہ: (ج۔۵)۲۷۲۷۔۲۷۲۸

فقیر محمد دیلمی: (ج۔۹)۵۱۵۳

فقیر محمد عثمانی، مولانا خواجہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۱

فقیر محمد فاروقی چوراہی، خواجہ: (ج۔۶)۳۷۷۱، ۳۷۸۱۔۳۷۸۲، ۳۸۰۱، (ج۔۱۰)۵۹۳۷۔۵۹۳۹، ۶۰۱۰

فقیر محمد وھڑائی، پیر (وھڑ سہون): (ج۔۶) ۳۶۹۰، ۳۶۹۷

فلاطینوس (فلسفی): (ج۔۵)۲۹۶۴

فواد، سید: (ج۔۶)۳۹۶۱

فہمی ادک، سیاستدان: (ج۔۶)۳۲۷۲

فھد بن علی عندس، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۸

فی الحال، میاں شاہ بن محمد اشرف سرہندی: (ج۔۵) ۲۸۰۶۔۲۸۰۷، (ج۔۶)۳۹۵۱

فیاض حسین (فرزند چودھری عبد الرؤف): (ج۔۱۰) ۶۰۷۸

فیروز الدین، قاضی: (ج۔۶)۳۸۴۶

فیروز خان برکی: (ج۔۴)۲۲۳۷

فیروز خان نون: (ج۔۶)۳۳۳۷

فیروز شاہ تغلق، سلطان: (ج۔۱) ۳۱۸، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۴۲، (ج۔۴) ۲۰۵۱، ۲۰۶۴، ۲۰۸۰، (ج۔۵) ۲۷۱۳، (ج۔۸)

۴۹۰۹، (ج۔۹) ۵۰۹۶، ۵۴۷۱، ۵۵۱۴
فیروز طغرائی امرتسری، حکیم: (ج۔۶) ۳۷۰۱
فیض احمد اویسی، علامہ: (ج۔۵) ۳۱۱۰
فیض احمد بیگ، مرزا: (ج۔۶) ۳۶۹۳
فیض احمد ٹھٹوی، مخدوم میاں: (ج۔۶) ۳۴۷۷، ۳۶۸۷۔ ۳۶۸۸
فیض الباری: (ج۔۲) ۷۳۳
فیض الحسن سہارنپوری، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۸۰
فیض الحسن، سید: (ج۔۱) ۲۱، (ج۔۲) ۴۸۸، ۴۹۵
فیض الحسن شاہ آلومہاروی، صاحبزادہ. (ج۔۱۰) ۶۴۳۱
فیض الحق جان چشموی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۱۱، ۳۷۱۹۔ ۳۷۲۱، ۳۷۲۶، ۳۷۲۸۔ ۳۷۲۹، ۳۷۳۳۔ ۳۷۳۴، ۳۷۳۶، ۳۷۴۳، (ج۔۱۰) ۵۹۵۷
فیض اللہ آخوند، ملا: (ج۔۶) ۳۷۳۰۔ ۳۷۳۱
فیض اللہ منصور، پروفیسر: (ج۔۸) ۴۸۴۴، ۴۸۵۱
فیض اللہ نقشبندی مجددی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۳۸
فیض اللہ ٹھٹوی، شیخ نقشبندی: (ج۔۶) ۳۴۲۹، ۳۴۳۸، ۳۵۷۵، ۳۶۸۷، ۳۶۹۹
فیض اللہ کاکڑ قندھاری، ملا: (ج۔۶) ۳۵۵۸، (ج۔۱۰) ۵۹۵۱
فیض اللہ، مولانا: (ج۔۶) ۳۱۶۱، ۳۱۶۴
فیض اللہ، نقشبندی، شیخ: (ج۔۶) ۳۰۶۰
فیض بخش رہتاسی، صوفی: (ج۔۱۰) ۵۹۳۴
فیض بخش محمد شاہ قندھاری، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۵۹۳
فیض چرم رنگ: (ج۔۱۰) ۵۹۹۳
فیض شاہ قادری: (ج۔۳) ۱۳۶۶
فیض عالم صدیقی، حکیم: (ج۔۴) ۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۵۷۳، ۲۵۷۷
فیض عبدالاحد شیخ: (ج۔۳) ۱۴۰۲
فیض علی، میاں (خلیفہ خواجہ شیخ احمد جی عثمانی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۱
فیض لدھیانوی: (ج۔۶) ۳۲۹۳، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۰۵
فیض محمد، پیر میاں: (ج۔۶) ۳۶۹۴
فیض محمد خان ذکریا کابلی، سردار: (ج۔۱) ۳۲۱، ۳۲۴
فیض محمد شاہ قندھاری، سید: (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۵۱۔ ۵۸۶۱
فیض محمد شاہ، سید پیر بن سید محمد شاہ: (ج۔۶) ۳۷۹۳
فیض محمد، میاں (سجادہ نشین درگاہ قاضی احمد دمائی): (ج۔۶) ۳۴۸۶، ۳۷۰۱
فیض محمد نقشبندی کوٹلوی (تاپانی): (ج۔۶) ۳۸۰۵، ۳۸۱۴
فیض محمد، والد خواجہ عبدالرحمٰن نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۰
فیضان رشید: (ج۔۳) ۱۷۲۳
فیضی ابوالفضل: (ج۔۳) ۱۴۱۰، ۱۴۱۳
فیضی: (ج۔۱) ۴۱۴۔ ۴۱۶، ۴۴۴، ۴۴۷، (ج۔۲) ۷۴۲، (ج۔۳) ۱۴۰۱، ۱۵۱۲، ۱۵۶۱، ۱۵۶۳، (ج۔۴) ۱۹۸۲۔ ۱۹۸۳، ۱۹۹۷۔ ۱۹۹۸، ۲۰۰۰، ۲۰۱۵، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۱۰۱، ۲۱۰۷، ۲۱۱۹، ۲۲۰۴، ۲۲۶۹۔ ۲۲۷۱، ۲۴۰۰۔ ۲۴۰۱، ۲۴۰۴، ۲۴۳۵، (ج۔۵) ۲۵۶۱، ۲۵۹۴، ۲۶۳۱، ۲۶۴۷، ۲۷۲۴، ۲۷۴۰، ۲۷۷۱، ۲۸۴۱، ۲۹۱۸، (ج۔۶) ۳۹۶۱،

(ج_۸) ۴۸۴۳، ۴۸۸۲، ۴۸۹۱ ۴۹۰۳، ۴۹۳۰، ۴۹۳۳، ۴۹۳۵_۴۹۳۶،

فیضی، ابو الفیض (شاعر): (ج_۳) ۱۲۹۰، ۱۳۸۶، (ج_۱۰) ۵۶۴۰ _ ۵۶۴۱، ۵۶۴۶، ۵۶۴۹ _ ۵۶۵۰، ۵۶۵۲_۵۶۵۳، ۵۶۶۲، ۵۶۶۷، ۵۶۷۷، ۵۷۰۰، ۵۷۰۲، ۵۷۹۳_۵۷۹۴، ۶۱۰۶، ۶۱۱۲

فیوض الرحمٰن جدون، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۵۸۹۳، ۶۰۵۷

ق

قادر بخش بغلانی، مولوی قاضی: (ج_۵) ۲۸۸۲

قادر بخش جہاں خیلاں، خواجہ: (ج_۶) ۳۷۶۹

قادر بخش جھلمی، حکیم شیخ: (ج_۱۰) ۶۲۸۹

قادر بخش، فقیر (سجادہ نشین خانقاہ میبل شریف): (ج_۶) ۳۷۹۱، ۳۷۹۳، ۳۷۹۸

قادر بخش، شیخ (مصنف): (ج_۱۰) ۶۲۴۳

قادر شاہ، خواجہ (فرزند خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰) ۵۹۳۸

قاسم آفندی رومی ثم المکی، شیخ: (ج_۴): ۲۴۵

قاسم، امام: (ج_۴) ۲۲۵۷، (ج_۸) ۴۸۶۵

قاسم بن ابی بکر: (ج_۷) ۴۰۵۵

قاسم بن سلام: (ج_۷) ۴۴۱۳

قاسم بن عبد الرحمٰن: (ج_۷) ۴۳۰۸

قاسم بن علی بکرجی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۹۶

قاسم بن قطلو بغا: (ج_۶) ۳۹۶۱

قاسم بن محمد بغدادی، شیخ: (ج_۶) ۳۱۹۱_۳۱۹۲

قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق: (ج_۴) ۲۲۴۳، ۲۲۵۶، (ج_۶) ۳۹۷۸، (ج_۸) ۴۸۵۷

قاسم بن محمد، امام: (ج_۸) ۴۸۴۷،

قاسم بیگ تبریزی (استاد شاہجہاں بادشاہ): (ج_۱۰) ۵۷۶۶ .

قاسم حنفی، شیخ: (ج_۴) ۲۴۵۲

قاسم، خواجہ: (ج_۹) ۵۰۶۱

قاسم سنجدار کی حنفی، علامہ: (ج_۸) ۴۵۹۹، (ج_۹) ۵۳۴۱

قاسم، شیخ: (ج_۶) ۳۱۵۸

قاسم علی، ملا: (ج_۱) ۴۵۲، (ج_۲) ۵۰۹، (ج_۳) ۱۳۷۳، ۱۴۲۱_۱۴۲۲، ۱۴۵۳، (ج_۴) ۲۳۸۶، ۲۴۱۵، (ج_۵) ۲۷۴۸

قاسم قلیج خانی خواجہ: (ج_۳) ۱۸۵۲

قاسم محمد، سید: (ج_۵) ۲۸۹۵_۲۸۹۶، ۳۹۶۱

قاسم، مولانا: (ج_۹) ۵۱۲۶

قاضی احمد دمائی: ۳۴۷۷_۳۴۷۸

قاضی امیر: (ج_۸) ۴۸۵۰،

قاضی برنی: (ج_۵) ۲۵۵۵

قاضی بیضادی: (ج_۹) ۵۱۷۸

قائم الدین قانونگوئے پنشر (مصنف ''ذکر مبارک''): (ج_۱۰) ۵۸۱۳

قائم شکارپوری حاجی (صوفی شکارپور): (ج_۶) ۳۶۹۵

قبول محمد (معتقد شاہ فقیر اللہ علوی): (ج_۶) ۳۵۵۸

قبیصہ بن عقبہ: (ج_۲) ۵۶۸

قتادہ: (ج۔۱) ۶۳۰، (ج۔۷) ۴۲۷۴، ۴۲۴۹، ۴۳۱۶، (ج۔۹) ۵۲۶۱
قتلغ ترکان (خاتون حاکمۂ کرمان): (ج۔۵) ۲۸۴۷
قتلغ خان بن سعد، ابوبکر: (ج۔۵) ۲۸۰۳
قتیبۃ الشہابی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۳۷۹، ۶۳۱۲
قتیبہ ابن سعید (ج۔۷) ۴۲۹۲
قتیلہ بنت العزیٰ (ج۔۷) ۴۰۳۱
قثم بخاری ترکستانی، شیخ (ج۔۱) ۲۵
قثم، شیخ (ج۔۱) ۲۲۵، ۲۳۲۔۲۴۳
قجار شاہ، شیخ (ج۔۶) ۳۲۸۷
قدرت اللہ، میاں، شیخ (ج۔۶) ۳۳۱۰، ۳۳۱۳
قدسی (فارسی شاعر) (ج۔۱۰) ۰۹۷
قدوس ایم۔اے (ج۔۴) ۲۱۹۳
قدوس، خواجہ (ج۔۸) ۴۸۴۲
قدوسی، مولانا (ج۔۶) ۳۴۴۸
قدیر احمد خاں، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۰۲
قدیر محمد قریشی: (ج۔۶) ۳۹۵۲
قدیر مرزا، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۸۳۵
قربان جدید صوفی: (ج۔۴) ۲۳۹۴
قربان، صوفی: (ج۔۷) ۴۴۴۲
قربان قدیم صوفی: (ج۔۳) ۱۳۷۳۔۱۳۷۴، (ج۔۴) ۲۳۹۴
قرط: (ج۔۸) ۴۸۳۹
قرطبی: (ج۔۷) ۴۳۱۲
قریش بن سلیمان: (ج۔۲) ۵۷۰
قریشی ڈی۔ایم: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۴۸
قرۃ (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷) ۴۳۴۰
قسطلانی امام: (ج۔۲) ۵۸۹، ۵۹۱۔۵۹۲، ۶۱۰، ۶۲۲، (ج۔۱۰) ۶۲۰۴
قسور جمیل رومانی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰
قشاشی، علامہ: (ج۔۶) ۳۹۶۱
قشیری، امام: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۴۳، ۷۸۹
قشیری، شیخ عبدالکریم بن ہوازن: (ج۔۶) ۳۹۵۵
قصی: (ج۔۸) ۴۸۴۰،
قضائی، علامہ: (ج۔۲) ۵۱۸، ۶۱۲
قطب الدین ایک: (ج۔۴) ۱۹۸۳، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۶۴، ۲۰۷۹، ۲۰۸۷، (ج۔۵) ۲۹۱۶
قطب الدین ایبک: (ج۔۸) ۴۹۰۹، (ج۔۹) ۵۰۹۶
قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۰۴۹، ۲۰۸۷، ۲۴۱۳، ۲۴۹۵، (ج۔۵) ۳۰۸۹، (ت۔۶) ۳۳۸۷، ۳۳۹۰، (ج۔۸) ۴۸۵۶، ۴۹۳۶، (ج۔۹) ۵۴۶۷
قطب الدین بن امیر تیمور: (ج۔۸) ۴۹۳۵
قطب الدین خان: (ج۔۴) ۲۱۱۸
قطب الدین خراسانی، شیخ: (ج۔۷) ۴۰۹۸
قطب الدین، خواجہ: (ج۔۷) ۴۲۷۶، (ج۔۸) ۴۸۴۲
قطب الدین، دل بینا: (ج۔۸) ۴۸۴۷
قطب الدین، سلطان (حاکم کرمان): (ج۔۵) ۲۸۴۷
قطب الدین سہالوی، ملا: (ج۔۹) ۵۱۴۷

قطب الدین، شیخ: (ج-۴)۲۱۶۶
قطب الدین، ملا: (ج-۶)۳۴۰۸
قطب الدین نہروانی (ادعیۃ الحج والعمرۃ): (ج-۵) ۲۶۹۸، (ج-۶)۳۹۶۱
قطب شہید، سید (مصنف کتاب سود): (ج-۲) ۷۳۶، ۱۲۰۴، (ج-۶)۳۹۶۱
قطب علی خان رامپوری، نواب: (ج-۱۰)۵۹۵۵
قطبی : (ج-۱۰)۵۷۴۰
قطبی بیگم (والدہ میاں حامد رسا مجددی پشاوری): (ج-۱۰) ۵۸۷۹،
قل احمد: (ج-۵)۲۶۶۹
قل شاہ: (ج-۴)۲۰۵۶
قلندر بخش، مولوی (خلیفہ حضرت مظہر): (ج-۴)۲۴۷۱
قلندر بوعلی شاہ: (ج-۶)۳۳۶۶
قلندر ممند: (ج-۶)۳۸۵۶
قلیج الدین قلیج خان: (ج-۸)۴۹۳۸
قلیج اللہ جان بن قلیج خان، مرزا: (ج-۱)۴۲۶، (ج-۳) ۱۶۴۰، ۱۸۰۹، ۱۸۶۹، (ج-۵)۲۹۵۱، (ج-۷)۴۱۸۱-۴۱۸۲، ۴۴۵۵، (ج-۹)۵۱۰۷
قلیج بیگ، مرزا: (ج-۶) ۳۷۰۵، ۳۵۷۱-۳۵۷۲، (ج-۱۰)۵۶۱۹
قلیج خاں اندجانی، محمد: (ج-۱)۳۰۲، (ج-۵) ۲۶۳۸، ۲۷۷۸، (ج-۹) ۵۰۶۵، ۵۰۹۴-۵۰۹۵، ۵۰۹۹، ۵۱۸۱، ۵۲۱۴، ۵۴۹۱، ۵۵۱۵، (ج-۱۰)۵۶۵۸، ۵۷۰۶، ۵۷۶۶
قمر الدین پشاوری حنفی، میاں: (ج-۱۰)۶۴۱۱
قمر الدین، حافظ: (ج-۶)۳۳۶۹
قمر الدین (وزیر محمد شاہ): (ج-۴)۲۴۶۱
قمر رضا خان، علامہ: (ج-۵)۲۹۱۳
قمر یزدانی: (ج-۱)۲۴، (ج-۳)۱۸۸۵، (ج-۴)۱۹۱۲، (ج-۸) ۴۴۸۷، ۴۵۰۷، (ج-۹) ۵۵۸۲، (ج-۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۰۶، ۶۱۳۱
قمر یوسف زئی، ڈاکٹر: (ج-۱۰)۶۱۱۰
قوی احمد، سید پروفیسر: (ن-۱۰)۶۴۳۸
قیاس الدین (فرزند شیخ شہباز مومند بابی): (ج-۱۰) ۵۸۷۰
قیام الدین، صوفی: (ج-۶)۳۳۹۲
قیس (جد اعلی امام اعظم): (ج-۵)۳۰۴۹
قیصر (بادشاہ روم): (ج-۴)۲۳۷۷، (ج-۱۰)۵۶۷۵
قیوم جان آغا مجددی، پیر: (ج-۶)۳۲۹۹
قیوم رابع: (ج-۲)۱۱۵۰

ک

کاتب، شیخ ابوعلی: (ج-۸)۴۸۴۶،
کاکا، حضرت: (ج-۱۰)۵۸۵۶
کاکے شاہ، پیر سید (سیداں والے): (ج-۱۰)۶۰۷۶
کاتیار، ملا (صوفی): (ج-۶)۳۴۴۶
کارل مارکس: (ج-۵)۲۷۸۹
کاشانی، امام: (ج-۵)۳۰۱۷، (ج-۶)۳۹۶۱
کاظم، امام: (ج-۵)۲۶۴۳

کاک احمد، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۳، ۳۲۸۵

کام بخش، شہزادہ: (ج۔۴)۲۱۸۱، ۲۱۸۵

کامل سلمان جبوری: (ج۔۶)۳۲۱۷

کاوش، پروفیسر فیاض احمد خاں: (ج۔۱۰)۶۴۴۵

کبیر: (ج۔۱۰)۵۸۲۷

کبیر الدین شاہ دولہ، دریائی سہروردی: (ج۔۸)۴۸۵۰۔ ۴۸۵۱

کبیر، خواجہ: (ج۔۴)۲۲۴۶، (ج۔۶)۳۴۲۶، ۳۴۲۷

کثیر بن عبداللہ المزنی: (ج۔۷)۴۳۰۹، ۴۳۱۰، ۴۳۹۰

کثیر بن ہشام: (ج۔۷)۴۳۱۶

کرامت اللہ خاں دہلوی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۲

کرامت اللہ، میاں شیخ: (ج۔۶)۳۳۱۰، ۳۳۱۳

کرامت علی سعد آبادی، رئیس: (ج۔۱۰)۵۹۵۵

کرامت علی شاہ، پیر سید: (ج۔۱۰)۶۰۹۴

کرم الدین بابو (مرید فقیر محمد خواجہ): ۸(ج۔۵)۲۷۲۔ ۲۷۲۹

کرم الدین (فرزند شیخ شہباز مومندی): (ج۔۱۰) ۵۸۷۰

کرم سنگھ، مہاراجہ: (ج۔۱)۴۰۳

کرم شاہ ازہری چشتی، پیر محمد: (ج۔۲) ۱۲۰۳، (ج۔۵) ۲۶۸۱، (ج۔۶) ۳۶۳۲، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۱، ۴۲۷۸، (ج۔۸) ۴۶۱۸، ۴۸۷۳، ۴۸۹۷، (ج۔۹) ۵۲۱۰

کرم علی خاں تالپور، میر: (ج۔۶)۳۵۱۵۔ ۳۵۱۷، ۳۵۱۹

کریم احمد مجددی، میاں: (ج۔۱۰)۵۸۸۴

کریم الدین بابا حسن ابدالی، شیخ: (ج۔۳)۱۳۷۳، (ج۔۴) ۲۳۹۳، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۶) ۳۴۱۷، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۱۳، ۵۹۱۶۔ ۵۹۱۸، ۵۹۲۰۔ ۵۹۲۳، ۵۹۲۵، ۵۹۲۸

کریم الدین، مولانا شیخ: (ج۔۹)۵۱۲۷، (ج۔۱۰)۶۲۵۹

کریم اللہ، حافظ: (ج۔۶)۳۸۶۴، ۳۸۶۵

کریم بخش: (ج۔۲)۷۳۶

کریم بخش بہاولپوری مولانا حافظ: (ج۔۱۰)۶۰۵۵

کریم بخش، مولانا پروفیسر: (ج۔۵) ۲۶۴۹، (ج۔۶) ۳۹۶۱

کریم بخش، سیٹھی پشاوری: (ج۔۶)۳۸۶۰

کریم بخش، مولوی: (ج۔۱۰)۶۳۹۸

کریم بلھڑی والا، شاہ: (ج۔۶)۳۵۸۵

کریم داد بلوچ، شاعر: (ج۔۶)۳۷۲۵

کریم شاہ، سید (والد پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری): (ج۔۶)۳۷۸۰

کریم ہادی مولی ابوالعلائی اکبر آبادی، سید: (ج۔۵) ۲۸۸۰

کسریٰ (ملک فارس): (ج۔۱۰)۵۲۷۵

کسریٰ: (ج۔۴)۲۳۷۷

کشن پرشاد، مہاراجہ: (ج۔۵)۲۹۷۵

کشن (بت): (ج۔۴)۲۲۰۵، ۲۲۷۰

کعب: (ج۔۷)۴۳۴۹، (ج۔۸)۴۸۴۰

کعب الاحبار: (ج۔۴)۲۳۳۰

کعب بن سعد: (ج۔۷’۴۰۱۸۰

کعب بن علقمہ: (ج۔۲) ۶۰۴، ۶۰۵

کعب بن عمرو: (ج۔۷) ۴۳۰۲، ۴۳۰۳

کعب بن لوی: (ج۔۷) ۴۰۱۸۰. (ج۔۸) ۴۸۳۹، ۴۸۴۰

کعب بن مرہ: (ج۔۷) ۴۳۴۲

کفایت اللہ دھلوی، مفتی: (ج۔۵) ۲۹۰۳، (ج۔۶) ۳۶۴۶، ۳۷۲۵، ۳۸۴۶،

کلاخان قادری چشتی، علامہ: (ج۔۶) ۳۸۹۴-۳۸۹۵

کلال، سید امیر: (مرشد خواجہ بہاء الدین نقشبندی): (ج۔۱۰) ۵۹۸۹، ۶۱۰۱، ۶۱۰۴، ۶۱۰۸

کلال، خواجہ: (ج۔۳) ۱۸۶۲، (ج۔۴) ۲۰۰۱

کلبی، امام: (ج۔۲) ۱۱۷۳

کلمۃ اللہ: (ج۔۹) ۵۵۳۷

کلیم اللہ چشتی دہلوی، شاہ: (ج۔۵) ۲۸۷۷، (ج۔۶) ۳۳۶۶

کلیم عثمانی (شاعر مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰) ۵۶۹۷

کلیم عثمانی: (ج۔۱) ۲۴، (ج۔۸) ۴۹۲۷

کلیم قادری محمد دین: (ج۔۳) ۱۳۷۰، (ج۔۵) ۲۸۹۲

کمال الدین امیر: (ج۔۵) ۳۰۷۸

کمال الدین حسین خوارزمی: (ج۔۸) ۴۸۴۶،

کمال الدین، خواجہ: (ج۔۷) ۴۱۷۲، ۴۲۰۲، (ج۔۹) ۵۱۵۴

کمال الدین سالار پوری: (ج۔۶) ۳۶۴۲

کمال الدین غزی، مفتی شافعیہ، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۳۶

کمال الدین (فرزند تاج الدین عبداللہ): (ج۔۵) ۲۸۴۹

کمال الدین کشمیری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳، ۵۶۷۶

کمال الدین کشمیری، مولانا: (ج۔۱) ۴۱۴، ۴۴۳، (ج۔۲) ۷۷۵، (ج۔۳) ۱۲۸۹، (ج۔۴) ۱۹۵۱، ۲۲۶۹، (ج۔۵) ۲۵۶۰، ۲۷۱۲، ۲۲۶۴، ۲۸۷۱، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۸۴۳، ۴۹۴۲، ۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۰۲۲، ۵۱۲۱، ۵۱۵۳، ۵۲۲۷، ۵۴۷۱، ۵۵۱۴، ۵۵۶۷

کمال الدین لاہوری، ملا: (ج۔۵) ۲۸۹۱

کمال الدین محمد احسان، خواجہ: (ج۔۳) ۱۴۰۳، (ج۔۹) ۵۵۵۴

کمال الدین یمنی: (ج۔۶) ۳۸۱۶

کمال اوہیچہ، حاجی: (ج۔۶) ۳۴۷۵

کمال بن الزملکانی، علامہ: (ج۔۹) ۵۲۷۱

کمال بن ہمام، علامہ: (ج۔۹) ۵۴۱۹

کمال کیتھلی، شاہ: (ج۔۱) ۶۰، ۳۶۹، ۴۱۲، ۴۱۷-۴۱۸، (ج۔۳) ۱۳۶۴، ۱۳۶۶، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ۱۴۰۲، (ج۔۴) ۲۲۰۹، ۲۵۰۰، (ج۔۵) ۲۵۶۱، ۲۸۷۱، ۲۸۹۱-۲۸۹۲، (ج۔۷) ۴۱۷۳، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۵۱۴، ۴۵۳۰، ۴۶۱۵، ۴۸۴۳، ۴۸۴۹، ۴۸۵۹، (ج۔۹) ۵۱۲۲، ۵۲۲۶، ۵۳۵۰، ۵۴۷۳، ۵۵۱۵، (ج۔۱۰) ۵۶۳۵، ۵۶۷۳، ۵۶۷۵-۵۶۷۶، ۵۶۷۹

کمال، شیخ: (ج۔۲) ۱۲۱۵، (ج۔۳) ۱۴۲۲

کنھیالال: (ج۔۵) ۲۷۶۲

کوثر، ڈاکٹر پروفیسر انعام الحق: (ج۔۱) ۳۵، (ج۔۵) ۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۷۱۱، ۳۷۵۳-۳۷۵۵، ۳۹۳۱،

۳۹۴۴

کوثر نیازی، مولانا: (ج۔۳) ۱۸۸۵، (ج۔۴) ۱۹۴۶، ۲۵۱۳

کوکب زمان :(ج۔۹)۵۵۸۳

کوکب زمان، محترمہ:(ج۔۱۰)۵۵۹۳، ۵۹۰۹

کوکب نورانی، مولانا:(ج۔۶)۳۵۹۶

کوکہ، مرزا خان اعظم :(ج۔۱۰)۵۶۵۴، ۵۶۵۸، ۵۶۸۴

کیرانوی، مولانا (اظہار الحق):(ج۔۶)۳۹۶۱

کیف بناری (ج۔۱)۱۰، ۱۷

کے۔ بی نسیم، ڈاکٹر (ج۔۱۰)۶۴۴۱

گ

گاندھی، مہاتما:(ج۔۶)۳۶۰۹، (ج۔۹)۵۵۷۰

گب ایچ۔ اے۔ آر، پروفیسر:(ج۔۱۰)۵۸۵۲

گپس، مسٹر (انگریز کلکٹر):(ج۔۶)۳۵۳۲

گدا رحمٰن، سید:(ج۔۸)۴۸۵۹، ۴۸۶۱

گدائی شیخ :(ج۔۴)۲۰۰۲

گدائے معصوم، مجددی، خواجہ:(ج۔۶)۳۳۱۰۔۳۳۱۱

گدا، شیخ مولانا اخون:(ج۔۶)۳۸۳۱

گدول:(ج۔۶)۳۵۸۷۔۳۵۸۸

گرڈجیف، فلسفی (روسی صوفی):(ج۔۱۰)۵۷۷۸

گرونانک:(ج۔۱۰)۶۸۴۷

گل احمد سیالکوٹی، علامہ مولانا:(ج۔۱۰)۵۹۸۵

گل جان آغا، میاں:(ج۔۶)۳۳۱۰، ۳۳۳۴

گل حسن روپڑی، مولوی:(ج۔۱۰)۵۹۴۱

گل حسن صدیقی، خواجہ:(ج۔۶)۳۵۹۵، ۳۶۸۹

گل رحمان، حاجی خواجہ:(ج۔۱۰)۵۹۴۴

گل شاہ، ہندی:(ج۔۶)۳۴۷۵

گل محمد اکبرآبادی ثم ہزاری، شہزادمیاں:(ج۔۱۰)۵۸۷۸

گل محمد، خواجہ:(ج۔۶)۳۴۳۹، ۳۴۹۵

گل محمد رہتاسی، صوفی:(ج۔۱۰)۵۹۳۴

گل محمد، سادات کلی:(ج۔۶)۳۶۱۳

گل محمد سندھی، مولانا:(ں۔۶)۳۷۹۳

گل محمد، شیخ:(ج۔۶)۳۴۴۰

گل محمد، صاحبزادہ:(ج۔۶)۳۴۳۷۔۳۴۳۹

گل محمد صدیقی مرغزی، حافظ :(ج۔۱۰) ۵۸۷۷۔۵۸۷۸

گل محمد، مخدوم میاں (فرزند خواجہ محمد زمان): (ج۔۶) ۳۵۰۴۔۳۵۰۷، ۳۵۰۹، ۳۵۸۹۔۳۵۹۰، ۳۶۸۹

گل محمد، مولانا (استاد پیر ثانی غزنوی نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۰۷، ۳۸۱۰

گل محمد، میاں (خلیفہ خواجہ شیخ احمد جی عثمانی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۱

گل محمد بالائی (خلیفہ محمد راشد روضے دھنی): (ج۔۶) ۳۴۳۲، ۳۵۷۰

گل نبی، خواجہ (فرزند خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۸

گل نواز، حاجی:(ج۔۶)۳۸۴۷

گلاب خان، راجہ (جد امجد راجہ نور محمد نظامی): (ج۔۱۰)

۶۴۹۰

گلاب شاہ مشہدی، سید (خلیفہ محمد قاسم موہڑوی): (ج۔۱۰)۵۹۵۷

گلبدن بیگم: (ج۔۴)۱۹۹۰

گلرخ بیگم (مغل شہزادی): (ج۔۶)۳۷۶۵

گلزار حسین، خلیفہ (کوٹلی): (ج۔۶)۳۸۰۵

گلزار محمد، خواجہ: (ج۔۶)۳۹۶۲

گموشانوی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۷۱

گنائی عاصمی، شیخ: (ج۔۹)۵۱۵۳

گنگ کوئی (ہندی شاعر): (ج۔۴)۱۹۷۵

گوپال داس، رائے بہادر منشی: (ج۔۶)۳۹۰۹

گوتھم برہمن: (ج۔۴)۲۰۰۵

گومش خانوی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۵۷

گوہر آراء: (ج۔۴)۲۱۸۲

گوہر آراء بیگم (والدہ شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۵

گوہر آراء، شہزادی (ہمشیرہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ): (ج۔۱۰)۵۷۷۱

گوہر جاوید طیبی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۳۹

گوہر رحمٰن، مولانا: (ج۔۲)۷۳۶، (ج۔۶)۳۹۶۲

گیسو دراز، بندہ نواز: (ج۔۱۰)۵۸۲۷

گیسو دراز، خواجہ سید: (ج۔۲)۵۲۱، ۶۰۲، ۶۰۳، (ج۔۴)۲۰۴۹، (ج۔۸)۴۸۴۲

ل

لالہ بیگ: (ج۔۴)۱۹۶۲، ۱۹۶۴، ۱۹۸۱، ۲۰۱۸، ۲۰۶۸، ۲۱۲۱، ۲۱۳۱، ۲۴۰۹، (ج۔۵)۲۶۳۸، (ج۔۷)۴۱۸۳، (ج۔۸)۴۹۲۰، (ج۔۹)۵۰۹۵

لالہ، مولانا (عرف صوفی مولانا، استاد مفتی عظیم اللہ): (ج۔۶)۳۸۶۵

لبید (شاعر): (ج۔۴)۲۳۰۸

لدہ، شیخ (بزرگ دادو): (ج۔۶)۳۶۹۰

لطافت علی سعد آبادی، رئیس: (ج۔۱۰)۵۹۵۵

لطائف گل پشاوری مولانا (پیر پیائی نوشہرہ): (ج۔۶)۳۹۱۰

لطائف گل، مولوی (استاد خواجہ عبدالرحمٰن نقشبندی و مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ): (ج۔)۳۸۵۱

لطف اللہ حسینی بلگرامی چشتی: (ج۔۵)۲۶۷۹

لطف اللہ علی گڑھی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۵

لطف اللہ، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰)۶۰۵۰

لطف اللہ، مولانا: (ج۔۱)۲۹۴، ۲۹۹

لطف اللہ، شاہ: (ج۔۹)۵۵۲۵

لطف علی ملک، مولانا (جد اعلیٰ خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی): (ج۔۱۰)۵۹۰۳

لطیف احمد شیروانی: (ج۔۵)۳۰۱۱

لطیف اللہ، پروفیسر: (ج۔۷)۴۰۶۲

لطیف، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۴

لعل جیونگر ہاری، سید میاں: (ج_۶) ۳۷۱۳
لعل خان کانشوی بالاکوٹی، بابا: (ج_۱۰) ۵۸۸۴
لعل شاہ جیونگر ہاری، سید: (ج_۱۰) ۵۹۵۰
لعل شاہ ہمدانی انکی، سید: (ج_۱۰) ۵۸۸۸، ۵۹۴۱، ۶۰۴۳_۶۰۴۴
لعل محمد حعلوی، مولانا حاجی: (ج_۶) ۳۵۲۵، ۳۵۳۰، ۳۵۹۸، ۳۶۱۰، ۳۶۹۳، ۳۷۲۹، ۳۷۶۸
لعل محمد منیاروی، مولانا: (ج_۶) ۳۵۴۰
لعل محمد، ملک (والد خواجہ غلام حسن نقشبندی): (ج_۱۰) ۵۸۹۷
لکھن مست لاہوری: (ج_۶) ۳۷۶۶
لوط (علیہ السلام): (ج_۱) ۳۵۴
لوی بن غالب: (ج_۷) ۴۰۱۸۰
لیاقت علی خان: (ج_۶) ۳۵۴۸، ۳۵۵۰_۳۵۵۱، ۳۵۷۴
لیاقت علی خاں، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۵۹۴۷
لیری ڈی۔او: (ج_۵) ۲۹۵۳، ۲۹۸۸، ۳۰۰۸، ۳۰۱۵
لیلیٰ عامری: (ج_۷) ۴۲۷۱

م

ماجد حسین (مجلہ فیضان کرم): (ج_۱۰) ۶۴۳۹
مادھولال حسین: (ج_۴) ۲۱۶۶
مارٹن لوتھر (مترجم بائبل): (ج_۱۰) ۵۸۰۰
مال ابوبکر آخوند، شاعر (قلات): (ج_۶) ۳۷۲۵
مالک: (ج_۷) ۴۲۹۳، ۴۲۹۴
مالک، امام: (ج_۱) ۱۸۳، ۳۸۳، (ج_۲) ۶۹۳، ۶۹۶، ۷۱۸، (ج_۳) ۱۴۴۰، ۱۵۹۸، ۱۶۶۲، ۱۶۷۱، (ج_۴) ۲۲۵۹، (ج_۵) ۲۶۴۳، ۲۸۸۳، ۳۰۵۱، ۳۰۶۲_۳۰۶۳، (ج_۷) ۴۳۰۰، ۴۳۵۳، (ج_۸) ۴۵۵۰، ۴۵۸۴، ۴۹۸۳، (ج_۹) ۵۱۸۶، ۵۲۶۵
مالک بن اسماعیل ابوغسان النہوی: (ج_۲) ۵۸۰، ۵۹۷_۵۹۸
مالک بن دینار: (ج_۷) ۴۳۵۳
مان سنگھ، راجہ: (ج_۴) ۲۰۹۴، ۲۱۰۱، (ج_۵) ۲۷۶۹
مانون یوسف زئی پشاوری، شیخ: (ج_۱۰) ۵۸۶۷_۵۸۶۸
ماوردی، امام: (ج_۲) ۵۸۴، (ج_۵) ۳۰۱۷، (ج_۶) ۳۹۶۲
ماہم انگا (منتظمہ سلطنت دور اکبری): (ج_۱۰) ۵۶۴۴
مبارک بن علی الحزوی، ابوسعید: (ج_۸) ۴۸۴۹،
مبارک ناگوری، ملا: (ج_۲) ۱۲۱۵، (ج_۳) ۱۴۴۴، ۱۴۴۸، ۱۵۱۲، (ج_۴) ۱۹۹۷_ ۲۱۰۱، ۲۲۰۵_ ۲۰۰۶، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، ۲۱۰۳، ۲۲۰۴، ۲۳۹۹_۲۴۰۱، ۲۴۰۴، (ج_۵) ۲۵۹۴، ۲۶۳۱، ۲۶۴۷، ۲۷۴۴، (ج_۸) ۴۹۳۰، ۴۹۳۶، (ج_۹) ۵۱۴۵، ۵۲۹۴_۵۲۹۵، ۵۵۷۰، (ج_۱۰) ۵۶۵۰، ۵۶۵۲، ۵۶۹۹_۵۷۰۰، ۶۱۰۶
مجاہد، امام: (ج_۲) ۱۱۷۳_۱۱۷۴
مجاہد (راوی حدیث): (ج_۷) ۴۳۰۹، (ج_۹) ۵۲۶۱
مجاہد رفیق: (ج_۱۰) ۵۸۶۲

مجدالدین شیرازی، امام: (ج۔۲)۵۹۴

مجدالدین فیروزآبادی: (ج۔۴)۱۹۸۳، (ج۔۶)۳۹۶۲

مجدالدین، شیخ: (ج۔۸)۴۸۴۶،

مجیب احمد، پروفیسر: (ج۔۳) ۱۶۶۰، (ج۔۵) ۲۷۹۱، (ج۔۱۰)۵۸۰۹

مجیب الدین، شیخ: (ج۔۹)۵۴۵۴

مجیب ایم جامعی، پروفیسر: (ج۔۹)۵۲۷۳، ۵۳۸۶

مجید اللہ قادری، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۲۸۷۱، ۲۸۹۵۔۲۸۹۶، ۲۹۱۳، ۳۱۰۹، (ج۔۹)۵۵۷۸، (ج۔۱۰)۵۶۹۵، ۵۸۰۹، ۶۲۴۴، ۶۳۳۰

محب اللہ بہاری، قاضی: (ج۔۵)۲۸۷۷

محب اللہ مانکپوری، میر سید: (ج۔۲)۷۹۷، ۱۰۲۱، (ج۔۳) ۱۳۷۴، (ج۔۴) ۲۳۸۹۔ ۲۳۹۰، (ج۔۵) ۲۷۴۸، ۳۰۰۳، (ج۔۹)۵۰۲۴، ۵۰۲۶، ۵۱۲۷، ۵۱۸۲

محبّ اللہ، شاہ (گوٹھ پیر جھنڈو): (ج۔۶)۳۴۴۳

محبت الدین مجددی گجراتی ہندوستانی: (ج۔۱۰)۵۸۸۵

محبت خان بروہی بلوچ: (ج۔۵) ۳۰۷۸، (ج۔۶) ۳۵۵۶، (ج۔۱۰)۵۹۵۱

محبت خان مہمند: (ج۔۱۰)۵۸۷۶

محبوب احمد بھٹی نقشبندی: (ج۔۹) ۵۵۸۳۔۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳۔۵۵۹۴، ۵۸۹۷، ۶۰۴۳، ۶۰۵۷، ۶۰۵۹

محبوب احمد فقیر: (ج۔۱۰)۶۰۶۹

محبوب الحسن صاحب رضوی، مولوی سید: (ج۔۴)۲۳۹۶

محبوب الرسول قادری، ملک: (ج۔۱۰)۶۴۴۰

محبوب الٰہی، مولانا: (ج۔۶)۳۳۶۶، ۳۳۷۸، ۳۶۲۶، (ج۔۸)۴۵۷۹، (ج۔۱۰)۵۹۴۴، ۶۱۲۰

محبوب حسن، سید: (ج۔۷)۴۰۶۱

محبوب حسین مشہدی، سید: (ج۔۱۰)۵۹۵۷

محبوب شاہ، سید (باغ، آزاد کشمیر): (ج۔۶)۳۸۰۵

محبوب عالم توکلی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۶۹۔ ۳۷۷۰، (ج۔۱۰)۵۹۷۰۔۵۹۷۳، ۵۹۷۸۔۵۹۷۹

محبوب علی خان نظام، میر: (ج۔۱۰)۵۹۵۵

محبوب علی خان، مولانا (برادر محمد حشمت علی خان پیلی بھیتی): (ج۔۵)۲۹۰۴

محراب شاہ: (ج۔۴)۲۰۵۶

محرم علی چشتی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۴

محسن ترہٹی، مولانا: (ج۔۵)۲۶۸۵، ۲۸۰۴، ۲۸۱۷

محسن شاہ بخاری، سید: (ج۔۶)۳۸۳۶، (ج۔۱۰)۵۹۵۷

محسن، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۵۲

محشر بدایونی: (ج۔۶)۳۹۶۲

محفوظ علی، سید: (ج۔۶)۳۶۷۹

محمد آصف آصفی الخیری: (ج۔۱۰)۶۴۴۱

محمد آصف نقشبندی، صوفی: (ج۔۱۰)۶۴۳۵

محمد آصف ہزاروی، ڈاکٹر: (ج۔۱)۲۱، ۴۴، (ج۔۲)۴۸۸، ۷۳۸

محمد آغا کابلی (خلیفہ خواجہ خاوند محمود حضرت ایشاں): (ج۔۶)۳۷۶۵

محمد آفاق، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۸،

محمد آفاق، شاہ: (ج_۶)۳۳۶۱_۳۳۶۲، ۳۳۶۶
محمد ابراہیم بخاری مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج_۱۰)۶۰۵۶
محمد ابراہیم ٹھٹوی، مخدوم: (ج_۶)۳۵۱۵
محمد ابراہیم جان سرہندی، پیر: (ج_۲)۲۵۲۶، (ج_۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۴، ۳۴۲۶، ۳۴۴۹، ۳۴۶۱_۳۴۶۲، ۳۴۶۴، ۳۴۹۴، ۳۶۱۹، ۳۶۳۱، ۳۶۹۹، (ج_۹) ۵۵۷۴
محمد ابراہیم خان (والد میاں محمد عمر چمکنی): (ج_۶)۳۸۹۴_۳۸۹۶
محمد ابراہیم خلیل، مخدوم: (ج_۵)۲۸۱۷، (ج_۶)۳۶۸۸، (ج_۶)۳۶۹۷، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰
محمد ابراہیم دامانی مجددی سراجی، حافظ: (ج_۶)۳۹۲۱_۳۹۲۲
محمد ابراہیم، سید (تایا جی سید حبیب اللہ توکلی): (ج_۱۰) ۵۹۷۵
محمد ابراہیم شاہ ہاشمی پونچھوی، پیر: (ج_۶)۳۷۸۳
محمد ابراہیم قصوری (خلیفہ میاں شیر محمد شرقپوری): (ج_۶) ۳۷۰۱، ۳۷۰۵، ۳۷۷۰
محمد ابراہیم کودی، مخدوم: (ج_۶)۳۳۲۷
محمد ابراہیم مجددی بن ملا شور بازار: (ج_۵) ۲۵۳۷، ۲۷۰۵، ۲۸۰۷، ۲۸۱۱، ۲۸۱۸، ۲۸۴۳، (ج_۶) ۳۲۹۹، ۳۳۱۰
محمد ابراہیم، مخدوم توی: (ج_۶)۳۳۲۷، ۳۴۱۸، ۳۴۴۱_۳۴۴۲
محمد ابراہیم، مرشد زادہ حافظ: (ج_۶)۳۸۵۳
محمد ابراہیم، مفتی (گڑھی یاسین): (ج_۶)۳۷۰۲
محمد ابراہیم، مولانا حافظ: (ج_۶)۳۶۱۲
محمد ابراہیم (نوائے اسلام): (ج_۱۰)۶۴۴۳
محمد ابن احمد بن سعید الرازی: (ج_۲)۵۳۴
محمد ابن العباس: (ج_۷)۴۳۰۹
محمد ابن أمد بن سعید الرازی: (ج_۷)۴۲۹۱
محمد ابن سراج الطحان: (ج_۲)۶۱۷
محمد ابن سیرین، علامہ: (ج_۶)۳۸۸۴، (ج_۷)۴۲۹۴
محمد ابو المساکین، خواجہ: (ج_۶) ۳۴۳۷، ۳۴۶۱، ۳۵۷۶_۳۵۸۰
محمد ابوالمواہب حنبلی، شیخ: (ج_۶)۳۱۷۰، ۳۱۹۱
محمد ابوطاہر، جمال الدین: (ج_۱۰)۵۷۶۲
محمد اترہ، حاجی: (ج_۳)۱۷۵۷، (ج_۹)۵۰۹۹، ۵۱۹۲
محمد اجمل خان، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱۰)۵۷۹۱
محمد اجمل خان، حافظ: (ج_۹)۵۴۰۳
محمد اجمل خان، حکیم: (ج_۱۰)۵۸۰۷
محمد احسان: (ج_۱)۶۰، (ج_۳)۱۲۹۸، (ج_۷)۴۲۰۲، (ج_۹)۵۳۶۰
محمد احسان احمد، پروفیسر: (ج_۷)۴۴۲۷
محمد احسان اللہ: (ج_۷)۴۲۲۰
محمد احسان اللہ عباسی گورکھپوری، علامہ ابوالفضل: (ج_۳) ۱۲۹۸، (ج_۵)۲۷۲۵، (ج_۹)۵۰۲۸، (ج_۱۰)۶۲۹۷
محمد احسان جرداد، حاجی: (ج_۶)۳۶۰۳
محمد احسان سرہندی، خواجہ: (ج_۱۰)۵۷۶۲_۵۷۶۳،

۵۷۷۳، ۵۸۶۳_۵۸۶۵، ۵۸۶۸، ۵۸۷۲، ۵۸۸۵_۵۸۸۶، ۵۹۱۶، ۵۹۳۴_۵۹۳۵، ۵۹۴۴، ۵۹۷۳، ۶۴۴۳، ۶۲۹۵_۶۲۹۶

محمد احسان، شیخ (خلیفہ حضرت مظہر): (ج_۴)۲۴۷۱

محمد احسان عباس: (ج_۹) ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، (ج_۱۰) ۶۲۴۳

محمد احسان قادری، پروفیسر: (ج_۷)۳۹۹۴

محمد احسان مجددی سرہندی، خواجہ: (ج_۱) ۱۳، ۲۵، ۸۵، (ج_۲)۱۱۴۸_۱۱۴۹، (ج_۵)۲۵۷۶، ۲۶۳۷، ۲۶۶۸_۲۶۶۹، ۲۸۰۲_۲۸۰۳، ۲۸۱۶_۲۸۱۷، ۲۶۳۹، (ج_۶) ۳۹۳۲، ۳۹۶۱_۳۹۶۲

محمد احسن، مولانا حافظ بن محمد صدیق: (ج_۶) ۳۸۹۱_۳۸۹۲

محمد احسن میاں، مولانا: (ج_۶)۳۳۸۱

محمد احمد: (ج_۶)۳۹۶۲

محمد احمد، حافظ قاری: (ج_۱) ۱۸۶، (ج_۶) ۳۳۷۶، ۳۳۸۳_۳۳۸۴، ۳۳۸۹

محمد احمد خان، صاحبزادہ پروفیسر: (ج_۳)۱۸۷۳، (ج_۶) ۳۷۸۹، ۳۷۹۸

محمد احمد درنیقہ، ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۰۲، (ج_۶) ۳۱۹۰، ۳۹۶۲، (ج_۱۰)۶۴۰۳، ۶۴۰۵

محمد احمد، ڈاکٹر مفتی: (ج_۶)۳۳۸۱

محمد احمد عبدالرحیم المحفوظ المصری، علامہ: (ج_۵) ۲۹۰۷، ۲۹۱۰، ۲۹۱۴

محمد احمد علی خاں شوق، حافظ: (ج_۵)۲۶۰۸

محمد احمد قادری، سید ابوالحسنات مولانا: (ج_۵) ۲۹۱۳، (ج_۱۰)۵۸۰۲_۵۸۰۳

محمد احمد لکھنوی، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج_۱۰) ۶۰۵۶

محمد احمد محسنی، سید: (ج_۱۰)۶۰۷۱

محمد احمد نعیمی، مفتی: (ج_۵)۳۶۷۱

محمد اختر چیمہ ابنِ حاجی غلام حسین: (ج_۳)۱۸۷۲

محمد اختر چیمہ، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱) ۲۴، (ج_۳) ۱۳۸۵، ۱۸۷۲

محمد اخونزادہ (خلیفہ میاں محمد عمر چمکنی): (ج_۶)۳۸۹۹

محمد ادریس، ڈاکٹر: (ج_۹) ۵۵۸۳، (ج_۱۰)۵۵۹۳

محمد ادریس کاندلوی، مولوی: (ج_۳)۱۵۰۸

محمد ادریس مجددی پشاوری، قاضی: (ج_۱۰)۵۸۸۰

محمد ادیب بن محمد عبدالقَادر تقی الدین، شیخ: (ج_۶)۳۲۴۰

محمد ارشاد خان (تاریخ پندارہ): (ج_۱۰)۵۸۹۲

محمد ارشد احمد: (ج_۶)۳۳۸۷

محمد ارشد، شیخ: (ج_۹)۵۵۵۸

محمد ازدمیر (مالک مطبع): (ج_۱۰)۶۴۱۵

محمد اسحٰق ابڑو، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۴) ۲۲۱۹، (ج_۶) ۳۹۵۸، (ج_۸)۴۴۸۸، ۴۵۰۵

محمد اسحٰق بھٹی: (ج_۶)۳۹۶۲

محمد اسحٰق (پوتا مولانا حافظ عبداللطیف پشاوری نقشبندی): (ج_۶)۳۸۵۹

محمد اسحٰق ٹھٹوی، سید: (ج_۱۰)۵۹۴۶

محمد اسحٰق جان سرہندی: (ج_۶)۳۴۹۳_۳۴۹۴، ۳۶۱۹،

۳۷۰۱، (ج۔۹)۵۵۷۳
محمد اسحٰق جان فاروقی، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۷۰،
محمد اسحٰق چھاچھی اٹکی، سید: (ج۔۱۰)۵۸۰۶، ۵۹۳۰
محمد اسحٰق دہلوی، خواجہ: (ج۔۵)۲۶۸۴، (ج۔۰)۵۹۴۳، ۶۱۲۱
محمد اسحٰق، صاحبزادہ (فرزند حافظ عبد اللہ نقشبندی): (ج۔۶)۳۸۶۰
محمد اسحٰق گادروئی، میراں سید (ج۔۱۰)۵۹۹۰
محمد اسحٰق ملا کا تیار، مخدوم (ج۔۶)۳۶۹۲
محمد اسداللہ عباسی گورکھپوری، مولوی (ج۔۱۰)۶۲۹۷
محمد اسد خان، ملتانی (ج۔۵)۲۶۷۹، ۳۰۲۹۔۳۰۳۰، ۳۰۴۳۔۳۰۴۴
محمد اسد شاہی، مولانا شیخ (ج۔۱۰)۶۳۹۷
محمد اسعد طلس (ج۔۵)۲۶۵۱
محمد اسلم، پروفیسر ڈاکٹر (ج۔۱)۷۰۔ ۲۸، ۱۰۲، (ج۔۳)۱۵۱۱، ۱۸۸۵۔۱۸۸۶، (ج۔۴)۱۹۱۷، ۲۰۷۲، ۲۵۱۵، (ج۔۵)۲۵۶۴، ۲۵۷۵، ۲۶۴۸، ۲۸۴۴، (ج۔۶)۳۷۹۹، ۳۹۶۲، (ج۔۹)۵۰۷۰، ۵۱۲۵، (ج۔۱۰)۵۶۵۱
محمد اسلم شہزاد، علامہ: (ج۔۱۰)۶۴۴۳
محمد اسلم مسعودی، شیخ: (ج۔۱۰)۶۴۳۰
محمد اسلم میاں، مولانا: (ج۔۶)۳۳۸۱
محمد اسمٰعیل لاشاری، پیر: (ج۔۶)۳۴۴۱
محمد اسمٰعیل نقشبندی، ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۹۶۲
محمد اسمٰعیل، شیخ: (ج۔۵)۲۸۱۱، ۲۸۱۸۔
محمد اسمٰعیل پریاں لوئی، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۴۱، ۳۵۶۳۔ ۳۵۶۴، ۳۵۶۶، ۳۶۹۵
محمد اسمٰعیل پشاوری، مولانا: (ج۔۱۰)۵۹۳۰
محمد اسمٰعیل جان فاروقی خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۹، (ج۔۹)۵۵۷۱
محمد اسمٰعیل جان مجددی سرہندی روشن: (ج۔۶)۳۴۲۱، ۳۴۲۴۔ ۳۴۲۵، ۳۴۴۹، ۳۴۶۱۔ ۳۴۶۲، ۳۴۶۵، ۳۴۸۷۔ ۳۴۸۸، ۳۴۹۰، ۳۵۳۰۔ ۳۵۳۱، ۳۶۱۹، ۳۶۲۶، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲
محمد اسمٰعیل خان نظامانی، حاجی: (ج۔۶)۳۶۰۳
محمد اسمٰعیل، خواجہ (مرید خواجہ محمد معصوم سرہندی): (ج۔۶)۳۳۱۴، ۳۶۲۶
محمد اسمٰعیل ذبیح دامانی سراجی، مولانا: (ج۔۶)۳۹۲۲
محمد اسمٰعیل سراجی، خواجہ مولانا: (ج۔۶)۳۹۱۸، ۳۹۲۰، (ج۔۱۰)۵۹۰۲
محمد اسمٰعیل سرہندی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۲، ۵۸۷۵
محمد اسمٰعیل شاہ بخاری، سید (کرمانوالے): (ج۔۶) ۳۵۹۲، ۳۵۹۴، ۳۷۷۰، ۳۷۸۹، ۳۷۹۱، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۶۰۷۵۔۶۰۷۶
محمد اسمٰعیل غوری پشاوری، مولانا: (ج۔۶)۳۸۲۸۔۳۸۲۹، ۳۸۳۲، ۳۸۳۴، ۳۸۶۱، (ج۔۱۰)۵۸۶۴، ۵۸۸۶
محمد اسمٰعیل قریشی، ماسٹر: (ج۔۶)۳۴۹۴
محمد اسمٰعیل کاموی، مولانا: (ج۔۶)۳۳۳۱
محمد اسمٰعیل مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۸۰
محمد اسمٰعیل، مخدوم: (ج۔۶)۳۴۳۱
محمد اسمٰعیل، مولانا (المروف میاں وڈا): (ج۔۱۰)۵۸۹۱

محمد اشرف احمد نقشبندی مجددی: (ج۔۱۰)۶۴۴۵

محمد اشرف ٹھٹوی نقشبندی، شیخ ابن: مخدوم آدم ٹھٹوی: (ج۔۶)۳۶۸۷، ۳۶۹۸۔۳۶۹۹

محمد اشرف، حافظ (مترجم حضرات القدس): (ج۔۱۰)۶۱۳۰

محمد اشرف سرہندی، خواجہ (فرزند مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰) ۵۶۷۲، ۵۷۵۷

محمد اشرف سیالوی، علامہ: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۰

محمد اشرف، شیخ: (ج۔۳)۱۴۵۰، (ج۔۴)۲۳۹۵، ۲۴۱۳، ۲۴۲۹، (ج۔۵)۲۸۰۶۔۲۸۰۷، ۳۰۰۷، ۳۰۴۱

محمد اشرف، صاحبزادہ (مصنف): (ن۔۱۰)۵۸۹۲

محمد اشرف عثمانی، مولانا: (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۳۴

محمد اشرف کابلی، خواجہ: (ج۔۱) ۸۵، ۴۲۶، (ج۔۳) ۱۳۶۹، ۱۳۷۲۔۱۳۷۳، ۱۴۵۳، ۱۶۸۳، (ج۔۴)۲۱۹۶، ۲۲۰۰، ۲۲۶۴، ۲۳۹۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۷۔۲۴۲۸، ۲۴۳۷، (ج۔۵)۲۶۲۹، ۲۸۰۱، ۳۰۲۱، (ج۔۶)۳۴۱۷، ۳۴۲۹، ۳۴۳۷، ۳۴۴۸، ۳۴۶۰، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۷۶۳، ۵۸۶۳، ۶۳۷۰

محمد اشرف کرانوی، سید: (ج۔۶)۳۷۲۷، ۳۷۲۹

محمد اشرف مجددی، مولانا (خلیفہ شاہ مفتی محمود الوری): (ج۔۶)۳۶۲۷

محمد اشرف محبوب اللہ، شیخ: (ج۔۴)۲۱۸۲

محمد اشرف، مولانا (برادر خواجہ عبد الغفار نقشبندی): (ج۔۱۰)۶۰۵۹

محمد اشرف، خواجہ بن محمد معصوم سرہندی: (ج۔۵)۲۸۰۲، (ج۔۶)۳۹۶۳

محمد اشفاق: (ج۔۱۰)۶۴۹۴

محمد اصغر شاہ، سید: (ج۔۶)۳۸۵۱

محمد اطہر عباس رضوی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۴۹۲

محمد اطہر احمد: (ج۔۶)۳۶۵۱

محمد اعجاز احمد: (ج۔۱۰)۶۴۴۳

محمد اعجاز ولی خان رضوی، مفتی: (ج۔۱۰)۶۰۷۳

محمد اعزاز الدین احمد نقشبندی، منشی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳، ۶۲۹۳۰

محمد اعظم باغ دروی، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۴

محمد اعظم، خواجہ: (ج۔۶)۳۹۶۳

محمد اعظم دیدہ مری (تاریخ کشمیر اعظمی): (ج۔۱۰)۵۸۸۸

محمد اعظم، شہزادہ: (ج۔۴)۲۲۹۰

محمد اعظم (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

محمد اعظم مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۷، ۵۸۸۴

محمد اعظم، مفتی علامہ (دار العلوم مظہر اسلام): (ج۔۵) ۲۹۰۵

محمد اعظم، ملک (جد اعلیٰ خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی): (ج۔۱۰)۵۹۰۳

محمد اعظم، مولانا (جامع مکتوبات سیف الدین): (ج۔۱۰) ۶۳۷۴

محمد اعلیٰ، حاجی: (ج۔۱۰)۶۱۱۲، ۶۱۲۰

محمد افتخار حسین جیبی: (ج۔۵)۲۶۲۸، (ج۔۷)۴۴۷۲

محمد افضل جالندھری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۶۰۴۶، ۶۰۵۶

محمد افضل جیوری: (ج۔۱۰)۵۹۲۴

محمد افضل رضا، پروفیسر حاجی: (ج۔۶) ۳۸۵۶

محمد افضل رہتاسی، مولوی: (ج۔۱۰) ۵۹۳۵

محمد افضل سیالکوٹی، حاجی: (ج۔۶) ۳۳۵۴

محمد افضل سیالکوٹی، ملا: (ج۔۲) ۷۶۸، (ج۔۴) ۲۲۰۹، ۲۴۵۹، ۲۴۶۳، (ج۔۵) ۳۰۷۹، (ج۔۶) ۳۲۰۲، ۳۳۵۴

محمد افضل، مولوی (شاگرد مخدوم عبدالواحد سیوستانی): (ج۔۶) ۳۵۱۴، ۳۵۱۹-۳۵۲۰

محمد اقبال احمد باروی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۵۹۰۲

محمد اقبال ڈار (مصنف): (ج۔۵) ۳۰۰۸، ۳۰۴۴

محمد اقبال سعیدی، مولانا: (ج۔۱) ۳۲، (ج۔۴) ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۳۰۹۵

محمد اقبال سلیم مرزا، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۰۸۳

محمد اقبال مجددی، پروفیسر: (ج۔۱) ۰ - ۲، ۴۴، ۸۵، (ج۔۲) ۷۲۹، (ج۔۳) ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۷۱۷، ۱۷۱۹، ۱۷۲۱، (ج۔۴) ۲۱۹۸، ۲۴۳۳، ۲۴۵۲، ۲۴۶۵، ۲۴۷۵، ۲۴۷۹، ۲۵۲۵-۲۵۲۶، (ج۔۵) ۲۵۳۶-۲۵۳۷، ۲۶۲۸، ۲۶۴۷، ۲۶۵۹، ۲۶۶۲-۲۶۶۳، ۲۷۹۵، ۲۸۴۵، ۳۰۸۳، ۳۱۰۹، (ج۔۶) ۳۳۹۲، ۳۹۵۸-۳۹۵۹، ۳۹۶۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۱۳، ۵۶۳۲، ۵۶۹۹، ۵۷۶۰-۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۸۸۵، ۵۸۸۸، ۵۸۹۳، ۵۹۴۵، ۶۱۱۱، ۶۳۵۶، ۶۳۶۲-۶۳۶۵، ۶۳۷۱، ۶۳۷۸، ۶۳۸۰، ۶۴۳۵

محمد اقبال ملک: (ج۔۱۰) ۶۱۰۱

محمد اقبال موسیٰ زئی، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۶۳۵۶

محمد اقبال میمن: (ج۔۱۰) ۶۴۳۸

محمد اقبال نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

محمد اکبر اعوان: (ج۔۶) ۳۳۳۹

محمد اکبر بیگ طبی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۹

محمد اکبر چوہدری (ایڈوکیٹ): (ج۔۱۰) ۶۴۳۵

محمد اکبر خاں، ملک: (ج۔۶) ۳۸۰۷، ۳۸۱۰

محمد اکبر علی شاہ دہلوی، سید: (ج۔۶) ۳۸۸۶، ۳۹۱۲

محمد اکرام الدین بخاری، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۲

محمد اکرام، ڈاکٹر شیخ: (ج۔۱) ۲۱، (ج۔۲) ۴۸۸، ۵۰۳، ۷۷۵، ۷۸۳، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۹۲، ۱۴۰۱، ۱۴۰۶، ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۲۰۳۲، ۲۱۵۲، ۲۱۶۶، (ج۔۵) ۲۴۰۵، ۲۴۳۲، ۲۴۴۷، ۲۵۵۹، ۲۵۷۰، ۲۵۷۲-۲۵۷۳، ۲۵۷۷-۲۵۸۰، ۲۵۹۷، ۲۶۰۵-۲۶۰۶، ۲۶۰۹، ۲۶۴۷-۲۶۴۸، ۲۷۴۲، ۲۹۴۵، (ج۔۶) ۳۸۰۳، ۳۸۲۴، ۳۹۶۳، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۵۱، ۵۰۵۶، ۵۱۲۵، ۵۱۴۰، ۵۱۵۳، ۵۱۵۸، ۵۲۹۶، ۵۳۲۱، ۵۳۹۰-۵۳۹۱، ۵۴۰۴-۵۴۰۵، ۵۴۱۷، (ج۔۱۰) ۵۶۴۹-۵۶۵۰، ۵۸۲۲، ۶۱۱۴، ۶۱۱۶، ۶۱۱۸

محمد اکرام مجددی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۵

محمد اکرم توگیروی، چوہدری: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

محمد اکرم خاں الازہری: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۵) ۳۰۱۰، (ج۔۶) ۳۹۵۵، ۳۹۶۳

محمد اکرم رانا، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۶۶۳، (ج۔۱۰) ۶۳۰۷

محمد اکرم ضیاء، پروفیسر: (ج۔۶) ۳۸۰۰

محمد اکرم مجددی، مولانا: (ج۔۱) ۲۸۲، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۲۱۸۳، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۲، ۲۴۵۵

محمد اکرم، مولوی (مرید گنج کرم کرماں والے): (ج۔۱۰) ۶۰۷۶

محمد اکرم میاں، مولانا: (ج_۶) ۳۳۸۱

محمد البرزنجی، سید: (ج_۵) ۲۶۵۲، ۲۸۰۳

محمد البهوی الحنبلی، شیخ ابوالسرور: (ج_۴) ۲۴۵۱

محمد البهنسی، شیخ: (ج_۶) ۳۶۵۳

محمد التمیمی، ابوالفضل: (ج_۲) ۵۸۷

محمد الجامی الماسی بن محمد: (ج_۶) ۳۷۱۲

محمد الحسینی الهروی، میر عماد الدین: (ج_۱۰) ۵۹۲۸، ۶۳۵۷

محمد الحفظی بن الشیخ ولی الدین، شیخ: (ج_۵) ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵

محمد الحلو، عبدالفتاح: (ج_۵) ۲۸۵۷

محمد الدین فوق: (ج_۵) ۲۹۲۲_۲۳، ۱

محمد الدین قصوری حاجی: (ج_۶) ۳۷۸۴

محمد القرطبی ابن وضاح: (ج_۶) ۳۹۶۲

محمد اللہ دتہ طالب، مولانا ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۷۹۶

محمد اللہ دتہ یوسفی، صاحبزادہ: (ج_۱۰): ۶۴۴

محمد المشرب: (ج_۲) ۹۴۰

محمد (المعروف ابن البزاز الکردی): (ج_۶) ۳۹۶۸

محمد الیاس عطار قادری، مولانا: (ج_۵) ۲۹۱۳

محمد الیاس مجددی، شیخ: (ج_۱۰) ۵۸۷۷

محمد الیاس مسعودی، حاجی: (ج_۱۰) ۶۴۳۰

محمد امام بن فتح محمد، سید: (ج_۶) ۳۴۳۱

محمد، امام: (ج_۲) ۷۰۲، ۷۰۴، ۹۸۷، ۹۹۷، (ج_۳) ۱۵۲۹، ۱۵۹۵، (ج_۵) ۲۸۸۳: (ج_۸) ۴۶۳۲، ۴۹۶۳،

محمد امجد علی، مولوی (مالک مطبع): (ج_۱۰) ۶۲۹۳

محمد امیر خان افغانستان: (ج_۶) ۳۸۱۴

محمد امیر شاہ قادری پشاوری، سید: (ج_۱۰) ۵۸۸۹_۵۸۹۰

محمد امیر شاہ گیلانی: (ج_۳) ۱۶۵۹، (ج_۶) ۳۹۰۶

محمد امین: (ج_۱) ۳۸۴، (ج_۴) ۱۹۴۱

محمد امین ابن عابدین شامی، علامہ: (ج_۱۰) ۵۶۲۸، ۶۳۷۸، ۶۳۹۰_۶۳۹۱

محمد امین الطبقلجی: (ج_۶) ۳۹۶۳

محمد امین المعروف بہ اخوند جان بخاری مرغینانی: (ج_۵) ۲۶۸۵

محمد امین اندرابی، سید: (ج_۱۰) ۵۸۰۴

محمد امین اویس، سید: (ج_۱) ۲۴۹

محمد امین آفندی، مفتی الحلتہ: (ج_۱۰) ۶۳۹۴

محمد امین بدخشی مکی، مولانا: (ج_۴) ۲۲۷۵_۲۲۷۷، ۲۲۷۹، ۲۴۴۲، ۲۴۵۲، ۲۴۵۴، (ج_۵) ۲۶۶۳، ۲۷۹۹، ۲۸۳۰، (ج_۶) ۳۸۲۹، ۳۸۳۷_۳۸۳۸، ۳۸۴۰، ۳۹۰۰_۳۹۰۲، ۳۹۰۶_۳۹۰۷، ۳۹۶۳، (ج_۱۰) ۵۶۳۲، ۵۷۵۸، ۵۷۶۳، ۵۸۶۴_۵۸۶۷، ۵۸۷۰، ۵۸۸۶_۵۸۸۷، ۶۲۸۷، ۶۲۴۲

محمد امین بن صالح: (ج_۶) ۳۲۳۳

محمد امین بن عمر عابدین حسینی نقشبندی خالدی: (ج_۶) ۳۲۳۵، ۳۲۳۷، ۳۹۳۹

محمد امین بن فتح اللہ، شیخ: (ج_۱۰) ۵۷۵۹، ۵۷۶۳

محمد امین بیراگی ٹھٹوی: (ج_۵) ۲۸۰۵

محمد امین ترخوی، آخوند: (ج۔۶) ۳۷۲۷، ۳۷۲۹
محمد امین توقاری، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۶۹
محمد امین جامی، مولانا: (ج۔۶) ۳۱۵۵
محمد امین چھترائی ٹھٹھوی: (ج۔۶) ۳۴۴۱، ۳۶۸۸
محمد امین حافظ آبادی، ملا: (ج۔۵) ۲۶۶۵۔ ۲۶۶۶
محمد امین، حافظ (فرزند و خلیفہ حافظ محمد عظیم گنجوی): (ج۔۶)
۳۸۹۳
محمد امین، حافظ (ج۔۱۰) ۵۹۴۷
محمد امین، خواجہ (مکتوب شاہ ولی اللہ): (ج۔۱۰) ۶۲۳۱
محمد امین خوبیانی (ج۔۶) ۳۳۲۳
محمد امین خیر پوری، میاں (ج۔۶) ۳۰۲۰
محمد امین سندھی (ج۔۶) ۳۶۰۵
محمد امین شاہ، خواجہ سید (ج۔۱۰) ۵۹۱۰۔ ۵۹۱۱، ۵۹۹۵،
۶۰۰۴، ۶۰۰۸۔ ۶۰۱۰، ۶۰۱۳۔ ۶۰۱۴
محمد امین شرقپوری (ج۔۶) ۳۷۰۱۔ ۳۷۹۹، ۳۹۶۳،
(ج۔۱۰) ۶۰۷۶
محمد امین عاصی، کیپٹن: (ج۔۶) ۳۷۹۶، ۳۷۹۹
محمد امین عثمانی، مولانا خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۱، ۵۹۴۳
محمد امین عطاری، حافظ: (ج۔۱۰) ۶۰۴۳
محمد امین فاروقی سرہندی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۸۶
محمد امین (فرزند میر نعمان): (ج۔۴) ۲۴۱۶
محمد امین قرۃ علی: (ج۔۲) ۵۹۸
محمد امین کابلی: (ج۔۳) ۱۸۶۹
محمد امین کردی: (ج۔۵) ۲۸۶۰۔ ۲۸۶۱، ۲۸۶۳، (ج۔۱۰)
۶۴۰۴
محمد امین مارہروی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۱۳
محمد امین (مصنف): (ج۔۵) ۲۵۷۸
محمد امین، مولانا: (ج۔۳) ۱۸۴۳، ۱۸۶۱
محمد امین، میاں: (ج۔۶) ۳۳۲۹
محمد امین نقشبندی، مفتی: (ج۔۲) ۱۲۴۷، (ج۔۳) ۱۲۹۷
محمد امین (والد مولوی عبدالقادر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۷
محمد انس، حافظ (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
محمد انس فاروقی، ابوالنصر: (ج۔۶) ۳۳۶۷
محمد انصار خاں، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۲۹، ۱۰۲، (ج۔۳) ۱۸۸۷،
(ج۔۴) ۲۳۳۸، (ج۔۶) ۳۹۴۴، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳،
۶۳۰۶
محمد انور سعیدی، چوہدری: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳
محمد انور شاہ غاسی، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۳۳۱
محمد انور شاہ قصوری، پیرزادہ: (ج۔۶) ۳۷۸۴، ۳۷۹۹
محمد انور علی فریدی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۷
محمد انیس مسعودی، سید: (ج۔۱) ۲، (ج۔۲) ۴۸۲، (ج۔۵)
۲۵۳۰، (ج۔۶) ۳۱۲۲، ۳۳۹۳، (ج۔۱۰) ۶۴۳۰
محمد اویس احمد: (ج۔۳) ۱۸۷۴
محمد ایوب بخاری، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۸۹
محمد ایوب حنفی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۱
محمد ایوب خان: (ج۔۴) ۲۲۰۰، (ج۔۶) ۳۳۳۷
محمد ایوب شاہ، مولانا استاد العلماء: (ج۔۶) ۳۸۷۲
محمد ایوب قادری، پروفیسر: (ج۔۱) ۲۹، (ج۔۳) ۱۸۸۷،

۲۲۸۰، ۲۴۹۲، ۲۵۱۴، (ج۔۵) ۲۶۵۰، ۲۸۹۵، (ج۔۶) ۳۹۶۴، ۳۳۹۴۔۳۳۹۵، (ج۔۱۰) ۵۹۲۰

محمد باجورہ بن عبداللہ: (ج۔۵) ۲۹۶۴

محمد باقر بن شرف الدین لاہوری، مفتی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۹، ۶۴۴۳

محمد باقر حزین (شاگرد حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۶۵

محمد باقر شیخ بن محمد جعفر حنفی دہلوی: (ج۔۵) ۲۶۶۵

محمد باقر شیخ: (ج۔۴) ۲۳۱۲، ۲۳۳۵

محمد باقر فتح آبادی: (ج۔۴) ۲۲۸۴

محمد باقر لاہوری، مفتی (خلیفۂ خواجہ معصوم): (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۵) ۲۶۶۳۔ ۲۶۶۵، ۲۶۶۹، ۲۷۶۲۔ ۲۷۶۳، ۲۷۶۶

محمد باقر، مخدوم: (ج۔۶) ۳۶۵۸

محمد باقر، میر (معروف ارادت خان): (ج۔۱۰) ۵۷۷۰

محمد باقر، امام: (ج۔۲) ۱۱۱۰، (ج۔[illegible]) ۲۲۵۷، (ج۔۶) ۳۹۷۹

محمد باقشیر، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۶

محمد باقی بغدادی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۶۲

محمد باقی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۶

محمد بالکی مشہور بہ ابن آدم مُلّا: (ج۔۴) ۲۵۰۶

محمد بختاور خان (تاریخ اورنگزیب): (ج۔۱۰) ۵۸۸۹

محمد بخش حاجی پوری، مولانا فقیر: (ج۔۱۰) ۶۰۵۶

محمد بخش حکیم: (ج۔۶) ۳۷۹۳

محمد بخش، خواجہ بن ملک بلند خان: (ج۔۶) ۳۷۸۶

محمد بخش، خواجہ میاں (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

محمد بخش عالم، مولانا: (ج۔۴) ۲۲۰۲

محمد بخش (فرزند شاہ غلام حسن مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۵

محمد بخش گجراتی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۶۰۱۳

محمد بخش مسلم بی اے، مولانا: (ج۔۳) ۱۸۸۶، (ج۔۹) ۵۵۶۹

محمد بخش (میاں (عارف کھڑی شریف): (ج۔۶) ۳۶۶۷، ۳۷۸۳

محمد بخش، میر ولد امام بخش میر: (ج۔۶) ۳۵۳۵

محمد بخش نادان: (ج۔۹) ۵۳۵۳

محمد بدخشانی، مرزا: (ج۔۸) ۴۵۲۶

محمد بدر الاسلام صدیقی، صاحبزادہ: (ج۔۳) ۱۶۹۴، ۱۷۱۰، ۱۷۸۷، (ج۔۷) ۴۴۸۰، (ج۔۸) ۴۴۹۰، ۴۹۳۹

محمد بشیر احمد نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۸۸

محمد بشیر الدین، ابوالبشر سید: (ج۔۱۰) ۶۲۹۸

محمد بشیر بریلوی قادری، سید: (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

محمد بن ابراہیم اکلنشی: (ج۔۶) ۳۹۶۴

محمد بن ابراہیم العنبری، ابوعبداللہ: (ج۔۲) ۵۴۰

محمد بن ابواسحاق محمد، ابوبکر: (ج۔۷) ۴۴۶۷

محمد بن ابوبکر، امام: (ج۔۲) ۷۳۷، (ج۔۷) ۴۰۳۱، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۷

محمد بن ابوبکر جاویش دمشقی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۸

محمد بن ابوبکر شلی حضرمی تریمی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۴

محمد بن ابی العز (جد قاضی علی دمشقی): (ج۔۱۰)۵۶۲۸

محمد بن ابی بکر بن القیم الجوزی، ابوعبداللہ: (ج۔۲)۷۳۳

محمد بن احمد: (ج۔۲)۵۷۸، (ج۔۶)۳۱۹۲، ۳۲۴۰

محمد بن احمد الغطریفی، ابواحمد: (ج۔۲)۵۵۸، ۵۷۰، ۱۱۱۰

محمد بن احمد، القاضی، ابواحمد: (ج۔۷)۴۲۸۰

محمد بن احمد الحبوبی، ابوالعباس: (ج۔۲)۵۵۹

محمد بن احمد المفید ابوبکر،: (ج۔۲)۵۷۸

محمد بن احمد بصیر میرانی شافعی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۷۸

محمد بن احمد بن سعید الحنفی المکی، شیخ (ن عقیلہ): (ج۔۱۰)
۶۳۸۲۔۶۳۸۳

محمد بن احمد جوہری خالدی شافعی: (ج۔۶)۳۲۱۶

محمد بن احمد دبری، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸

محمد بن احمد سفارینی تابلسی حنبلی: (ج۔)۳۱۷۸

محمد بن احمد عانی شافعی ازہری: (ج۔۶)۳۲۳۳

محمد بن احمد عقلیہ مکی: (ج۔۶)۳۱۹۱۔۳۲۰۲

محمد بن احمد علیش ازہری، شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۶

محمد بن ادریس الرازی، ابوحاتم: (۔۲)۵۳۵، ۵۶۸،
(ج۔۷)۴۲۹۱

محمد بن ادریس شافعی، امام: (ج۔۱۰)۶۲۵۸

محمد بن اسحاق: (ج۔۲)۵۶۹

محمد بن اسحاق، ابوالعباس: (ج۔۷)۳ /۴۲

محمد بن اسحاق الصنعانی: (ج۔۷)۴۳۰۱

محمد بن اسمٰعیل بن ابوحنیفہ: (ج۔۱۰)۶۱۴۱

محمد بن الباقی النقشبندی، الشیخ: (ج۔۵)۲۶۴۵

محمد بن الحاج محمد عطر، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۷

محمد بن الحسن العسکری: (ج۔۷)۴۳۰۶

محمد بن الحسن المیر بندکشائی: (ج۔۲)۶۱۷

محمد بن الحسن الوراق، ابوالحسن: (ج۔۲)۵۷۹

محمد بن الحسن بن الخلیل: (ج۔۲)۵۷۳

محمد بن الصباح: (ج۔۷)۴۲۸۸

محمد بن الفضل: (ج۔۷)۴۳۰۶

محمد بن اللیث: (ج۔۲)۵۵۸

محمد بن المثنیٰ الغندی: (ج۔۲)۵۶۵، (ج۔۷)۴۲۹۳

محمد بن المظفر: (ج۔۷)۴۳۰۱

محمد بن المنکدر: (ج۔۲)۵۱۹

محمد بن بشار: (ج۔۲)۵۶۷

محمد بن بکر البرسانی: (ج۔۲)۵۹۴

محمد بن تغلق، بادشاہ: (ج۔۱۰)۵۸۲۷

محمد بن ثابت البنانی: (ج۔۲)۵۲۴

محمد بن ثور: (ج۔۲)۵۳۹

محمد بن جعفر: (ج۔۲)۵۱۵، ۵۲۰، ۶۵۶

محمد بن جعفر، ابوبکر: (ج۔۷)۴۳۰۶

محمد بن جعفر بن الہیثم: (ج۔۲)۵۴۴

محمد بن چاند، مولانا (مصنف درر نظامی): (ج۔۱۰)۵۸۳۴

محمد بن حاتم: (ج۔۲)۵۹۵، ۶۰۷

محمد بن حاتم المؤدب: (ج۔۲)۶۳۴

محمد بن حبیب اللہ شیخ: (ج۔۳)۱۳۶۶

محمد بن حسن (المعروف بہ سمنودی مصری)، شیخ: (ج۔۶)

۳۱۹۶

محمد بن حسن شیبانی، امام: (ج_۳)۱۶۰۴_۱۶۰۶، ۱۶۱۲_ ۱۶۱۵، ۱۶۶۲

محمد بن حسین حصاری حنفی، شیخ: (ج_۶)۳۱۸۱

محمد بن حمید الروازی: (ج_۲)۵۶۹

محمد بن حمید القصنائی: (ج_۷)۴۲۸۴_۴۲۸۶

محمد بن حمید: (ج_۲)۵۲۳

محمد بن حنفیہ (فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ): (ج_۵) ۳۰۷۸، (ج_۱۰)۵۹۴۵

محمد بن حیان: (ج_۲)۵۳۲

محمد بن خلیل بغدادی، شیخ: (ج_۶)۳۲۲۸

محمد بن رمح، المصری: (ج_۷)۴۲۹۲

محمد بن زیاد الالھانی: (ج_۷)۴۲۸۴_۴۲۸۵

محمد بن زید: (ج_۷)۴۲۸۱

محمد بن زین العابدین، شیخ: (ج_۶)۳۲۰۳

محمد بن سعد: (ج_۹)۵۳۱۲

محمد بن سعید بن مہران الابلی: (ج_۲)۶۱۳

محمد بن سفینہ: (ج_۷)۴۳۷۵

محمد بن سلطان (جد اعلیٰ قاضی احمد دمائی): (ج_۶)۳۴۷۷

محمد بن سلمان البغدادی حنفی النقشبندی: (ج_۱۰)۶۳۷۹، ۶۳۹۷، ۶۴۱۶

محمد بن سلیمان مغربی مکی مدنی: (ج_۶)۳۱۶۰

محمد بن سیرین: (ج_۲)۵۶۶

محمد بن صادق، شیخ (ابوالحسن سندھی صغیر): (ج_۶)۳۱۹۶

محمد بن صالح بن ھانی: (ج_۲)۵۷۵، ۵۸۰

محمد بن طیب فاسی مہاجر مدنی، شیخ: (ج_۶)۳۱۸۲، ۳۲۰۶

محمد بن عادل ابی بکر، سلطان: (ج_۵)۲۸۵۱

محمد بن عادل، سلطان الکامل: (ج_۵)۲۸۵۱

محمد بن عالم حنفی، شیخ: (ج_۶)۳۲۰۷

محمد بن عبدالحیّ داؤدی، شیخ: (ج_۶)۳۲۲۸

محمد بن عبدالرحمٰن: (ج_۱)۲۱۳، ۲۱۷

محمد بن عبدالرحمٰن بن بنیہ: (ج_۲)۵۱۹

محمد بن عبدالرحمٰن غزی، شیخ: (ج_۶)۳۲۲۸

محمد بن عبدالرحمٰن کزبری، شیخ: (ج_۶)۳۱۷۸

محمد بن عبدالرحیم: (ج_۲)۵۶۸

محمد بن عبدالرسول، برزنجی مفتی: (ج_۴)۲۴۵۲، (ج_۶) ۳۱۶۰

محمد بن عبدالعزیز: (ج_۲)۵۶۹

محمد بن عبدالقادر بن محمد مبارک: (ج_۵)۲۶۸۳

محمد بن عبداللہ الخانی الخالدی النقشبندی: (ج_۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۴

محمد بن عبداللہ الخطیب: (ج_۸)۴۸۰۸

محمد بن عبداللہ القدامی المغربی المالکی: (ج_۴)۲۴۵۱، (ج_۶)۳۶۵۳

محمد بن عبداللہ، امام ولی الدین: (ج_۲)۷۷۰

محمد بن عبداللہ باجودہ: (ج_۵)۲۷۰۳

محمد بن عبداللہ بن احمد: ۴۴۶۷

محمد بن عبداللہ بن الفضل الکلاعی: ۴۲۸۴

محمد بن عبداللہ بن المستیذ: ۴۳۰۵
محمد بن عبداللہ بن عباد الحضرمی: (ج۔۲) ۵۲۳
محمد بن عبداللہ بن عمار: (ج۔۷) ۴۲۸۲
محمد بن عبداللہ حمید عنزی کی سنوسی: (ج۔۶) ۳۲۱۴
محمد بن عبداللہ (مشکوۃ شریف): (ج۔۲) ۷۶۹
محمد بن عبدالملک: (ج۔۲) ۵۱۸، (ج۔۳) ۱۸۳۷
محمد بن عبدالوہاب نجدی: (ج۔۵) ۲۸۴۶
محمد بن عبدالہادی، شیخ ابوالحسن: (ج۔۶) ۳۴۱۶
محمد بن عبید (ج۔۲) ۵۳۹
محمد بن عبیداللہ عطار دمشقی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۸
محمد بن عثمان (ج۔۲) ۵۵۸
محمد بن عجمی حنفی (ج۔۶) ۳۱۷۸
محمد بن علوی مالکی حسنی، سید (ج۔۳) ۱۶۶۳
محمد بن علی (ج۔۲) ۵۲۴
محمد بن علی احمدی باعلوی، شیخ. (ج۔۶) ۳۱۹۱، ۳۱۹۳
محمد بن علی برھانی داغستانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۳۶
محمد بن علی صبان، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۱
محمد بن علی طرابلس، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۷
محمد بن عمران: (ج۔۲) ۵۵۵
محمد بن عمرو، القرشی: (ج۔۷) ۴۲۸۳
محمد بن عیینہ: (ج۔۷) ۴۳۰۹_۴۳۱۰
محمد بن فخر الدین: (ج۔۸) ۴۵۱۱
محمد بن فضل اللہ محبی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹
محمد بن فضل برہان پوری، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۸۹
محمد بن فضل بلخی: (ج۔۳) ۱۵۶۵
محمد بن قاسم اودھی، درویش: (ج۔۸) ۴۸۴۵_۴۸۴۷، ۴۸۵۵،
محمد بن قاسم (فاتح سندھ): (ج۔۳) ۱۳۶۳، (ج۔۴) ۲۰۴۶، ۲۰۶۲، ۲۰۸۱_۲۰۸۲، ۲۱۶۶، (ج۔۱۰) ۵۸۲۳، ۵۹۵۰
محمد بن قطب الدین جون پوری: (ج۔۸) ۴۸۴۷
محمد بن قیس: (ج۔۷) ۴۴۱۲
محمد بن کثیر: (ج۔۲) ۶۱۶
محمد بن کعب: (ج۔۷) ۴۲۸۷، ۴۲۸۶
محمد بن مالک: (ج۔۵) ۲۶۸۲
محمد بن محمد، ابومنصور: (ج۔۸) ۴۶۱۶،
محمد بن محمد ازہری (المعروف امیر کبیر): (ج۔۶) ۳۲۱۱
محمد بن محمد البخاری: (ج۔۷) ۴۰۵۵
محمد بن محمد (المعروف کمال الدین): (ج۔۶) ۳۲۳۱
محمد بن محمد بن محمد جامی: (ج۔۶) ۳۵۵۸
محمد بن محمد بھنسی عقیلی مصری: (ج۔۶) ۳۱۵۵
محمد بن محمد مراد مرادی: (ج۔۶) ۳۱۸۳
محمد بن محمود: (ج۔۶) ۳۹۶۴
محمد بن محمود حنفی، شیخ: (ج۔۸) ۴۶۱۶
محمد بن موسیٰ: (ج۔۷) ۴۳۰۱، ۴۳۰۵
محمد بن نوح: (ج۔۷) ۴۳۰۷
محمد بن ہارون: (ج۔۲) ۵۵۸
محمد بن ہارون الطیغونی: (ج۔۲) ۶۰۷

محمد بن ہارون، رازی: (ج۔۷)۴۳۰۷

محمد بن یحییٰ: (ج۔۲)۵۲۸

محمد بن یحییٰ الحفار، ابوبکر: (ج۔۲)۵۹۳، ۶۵۲

محمد بن یحییٰ المروزی: (ج۔۲)۵۱۵

محمد بن یحییٰ بن حیان: (ج۔۲)۵۷۷

محمد بن یحییٰ بن مندہ: (ج۔۲)۵۳۲

محمد بن یحییٰ تیمی: (ج۔۹)۵۰۴۰

محمد بن یعقوب، ابوالعباس: (ج۔۲)۵۱۷، (ج۔۷)۴۳۰۱

محمد بن یعقوب، امام محی الدین: (ج۔۷)۴۳۹۳

محمد بن یوسف: (ج۔۲)۵۷۴، (ج۔۸)۴۸۴۹

محمد بن یوسف، امام ناصر الدین: (ج۔۲)۷۲۹

محمد بن یوسف مراکشی مصری: (ج۔۶)۳۲۱۶

محمد بوبکائی، مخدوم حاجی: (ج۔۶)۳۶۹۰

محمد بہاری: (ج۔۳)۱۳۷۴

محمد بہاء الدین بخاری نقشبند، خواجہ: (ج۔۱) ۹۷، ۲۲۳۔ ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۴۱۔ ۲۴۴، ۲۴۷۔ ۲۴۸، ۲۵۰۔ ۲۵۲، ۲۶۲۔ ۲۶۴، ۲۷۶۔ ۲۷۸، ۲۹۵۔ ۲۹۶، ۳۳۰، ۳۴۹، ۳۶۱، ۳۹۵، (ج۔۲)۷۱۶، ۱۱۲۵، ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۴۳۰، ۱۸۶۵، (ج۔۴)۲۱۹۴، ۲۲۴۸۔ ۲۲۵۰، ۲۲۶۱۔ ۲۲۶۲، (ج۔۵) ۲۶۶۶، ۲۴۶۹۔ ۲۴۷۰، ۲۴۷۴، ۲۴۹۷، ۲۵۰۰، ۲۵۰۷، ۲۷۲۸، ۲۸۶۸، ۳۰۲۳، ۳۰۶۷۔ ۳۰۶۸، ۳۰۸۴، ۳۰۸۸۔ ۳۰۹۰، ۳۰۹۲، (ج۔۶) ۳۱۵۴، ۳۲۶۸، ۳۲۸۷ ۳۲۹۸، ۳۳۲۷، ۳۴۱۹، ۳۴۲۲، ۳۴۴۱، ۳۴۵۰۔ ۳۴۵۱، ۳۵۶۶، ۳۶۵۳، ۳۷۶۳، ۳۷۷۶، ۳۹۱۰، ۳۹۳۴، ۳۹۸۰، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۳۳۔ ۴۰۳۵، ۴۰۵۳، ۴۰۵۶۔ ۴۰۵۹، ۴۰۶۳۔ ۴۰۶۸، ۴۰۷۲۔ ۴۰۷۳، ۴۰۷۸۔ ۴۰۸۹، ۴۰۹۱۔ ۴۱۰۰، ۴۱۱۴، ۴۱۴۰، ۴۱۴۲، ۴۱۴۸۔ ۴۱۴۹، ۴۱۵۶۔ ۴۱۵۷، ۴۱۶۴، ۴۲۱۴، (ج۔۸) ۴۵۰۲، ۴۷۰۸، ۴۷۱۱، ۴۸۳۲، ۴۸۴۷، ۴۸۵۱، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۰۱۳۔ ۵۰۱۴، ۵۰۸۵، ۵۲۱۸، ۵۳۵۰، ۵۴۶۸، ۵۴۹۸، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶، ۵۷۱۰، ۵۷۳۷، ۵۷۷۷، ۵۷۸۰۔ ۵۷۸۲، ۵۷۹۰، ۵۸۴۱، ۵۹۲۱، ۵۹۵۱، ۵۹۸۹، ۶۱۰۱، ۶۱۰۴، ۶۱۴۶، ۶۱۹۹، ۶۴۰۴

محمد بہاء الدین حسینی اویسی بخاری نقشبندی، سید: (ج۔۵) ۲۸۵۹۔ ۲۸۶۰، ۲۸۶۳

محمد بہاء الدین مرادی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۲، ۳۱۷۴، ۳۱۸۶، ۳۱۷۸، ۳۲۶۵، ۳۲۸۰، ۳۲۸۳، ۳۲۸۸

محمد بہاء الدین نقشبند (نانا خواجہ خواوند محمود حضرت ایشاں): (ج۔۶)۳۷۱۱، ۳۷۶۵

محمد بیگ، علامہ: (ج۔۹)۵۳۴۱

محمد بیگ اوزبکی برہانپوری، شیخ: (ج۔۱) ۹۹، (ج۔۵) ۲۶۹۹، ۲۸۰۳

محمد بیگ بدخشی، مرزا: (ج۔۴)۲۴۵۳، (ج۔۸)۴۵۹۷۔ ۴۵۹۸، ۴۶۰۳، ۴۶۵۰

محمد بیگ بلجر، سید: (ج۔۴)۲۲۸۴

محمد بیگ بن عبداللہ: (ج۔۶)۳۲۳۰

محمد بیگ ترکی ثم مکی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۷۸، ۳۰۸۰، (ج۔۶)۳۹۶۴

محمد بیگ فریکتی، مولانا: (ج۔۴)۲۴۲۸، ۲۴۳۷، ۲۴۵۱

محمد پاچینی، حاجی: (ج۔۱۰)۵۸۸۹

محمد پارسا بن شیخ عبیداللہ، شیخ: (ج۔۱۰)۵۷۶۱

محمد پارسا، خواجہ: (ج۔۱) ۲۳۴۔۲۳۶، ۲۳۸، (ج۔۲) ۵۵۰، ۸۳۱، ۹۵۴، ۱۰۳۲، ۱۱۹۲، ۱۲۳۲، ۱۲۴۸، ۱۲۵۶، (ج۔۳) ۱۵۲۰، ۱۵۶۴، ۱۶۵۲، (ج۔۵) ۳۰۶۲۔۳۰۶۳، ۳۰۶۵۔۳۰۶۸، (ج۔۶) ۳۱۵۵، ۳۲۹۸، ۳۳۴۳، ۳۹۶۴، (ج۔۷) ۴۰۳۴، ۴۰۵۵، ۴۰۹۵، ۴۰۹۶، (ج۔۸) ۴۷۰۸، ۴۷۳۵، ۴۸۵۴، (ج۔۹) ۵۲۶۰، ۵۲۷۱، ۵۳۳۲، (ج۔۱۰) ۵۷۳۷، ۵۷۵۵، ۵۷۶۱، ۵۷۸۲، ۵۸۷۹، ۵۸۹۲، ۶۱۰۲، ۶۱۴۰، ۶۱۴۶، ۶۱۴۸، ۶۲۷۷

محمد پاشا (غازی)، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۵۷

محمد پناہ نوتانی (ج۔۱۰) ۶۰۶۹

محمد پناہ جیو رقم، خلیفہ (ج۔۶) ۳۵۶۱

محمد پناہ سیہر، خلیفہ (رتوڈیرو): (ج۔۶) ۳۵۷۰

محمد تاجی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۱

محمد تاودی بن غالب بن سودہ فاسی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۱

محمد تراب (ج۔۳) ۱۸۵۲

محمد تعظیم، ڈاکٹر (بھارتی مقالہ نگار): (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۲۱

محمد تغلق: (ج۔۴) ۲۰۵۰، ۲۰۶۴، ۲۰۸۰

محمد تقی، خواجہ: (ج۔۳) ۱۸۰۹، (ج۔۴) ۲۰۲۳، (ج۔۵) ۳۰۹۷، (ج۔۹) ۵۳۰۲، ۵۵۲۵

محمد تقی عثمانی: (ج۔۶) ۳۹۶۴

محمد ٹھٹھوی، شیخ ابوالمساکین: (ج۔۶) ۳۴۳۹، ۳۶۸۷، ۳۶۹۸۔۳۶۹۹

محمد جان، آقا: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳

محمد جان قندھاری، مولوی: (ج۔۱۰) ۵۸۴۸

محمد جالندھری نقشبندی مجددی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۹۸

محمد جان العمری: (ج۔۸) ۴۴۸۸، ۴۴۹۴،

محمد جان، پیر آغا: (ج۔۶) ۳۶۹۶

محمد جان، حاجی (عرف باباجی): (ج۔۶) ۳۸۸۲

محمد جان سرہندی: (ج۔۷) ۴۴۷۸

محمد جان قندھاری، ملا: (ج۔۶) ۳۷۲۴

محمد جان، مولانا شیخ: (ج۔۵) ۲۷۶۴

محمد جان، ملا (درباری): (ج۔۴) ۲۳۳۳

محمد جان نعیمی، مفتی (ج۔۱) ۶۴، (ج۔۶) ۳۶۴۴، ۳۶۶۹، ۳۶۷۱۔۳۶۷۲، (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۲۳۵، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۲۱، ۵۶۳۱

محمد جاوید اکبر قادری: (ج۔۱۰) ۶۴۴۴

محمد جاوی، شیخ بن عمر: (ج۔۶) ۳۹۶۴

محمد (جد ابو محمد حسین بغوی شافعی): (ج۔۵) ۲۸۵۲

محمد (جد امجد جامع العتیق): (ج۔۶) ۲۸۴۷۔۲۸۴۸

محمد جدید، شیخ بغدادی: (ج۔۶) ۳۹۱۷

محمد جعفر بوبکائی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۶۰۵

محمد جعفر شملو (تاریخ منازل الفتوح): (ج۔۱۰) ۵۹۲۵

محمد جعفر صادق: (ج۔۸) ۴۸۴۷،

محمد جلال الدین: (ج۔۴) ۲۲۳، (ج۔۵) ۲۵۷۵، (ج۔۸) ۴۸۴۵، ۴۸۵۱۔۴۸۵۲،

محمد جلال الدین (تاجر کتب کشمیری بازار): (ج۔۶) ۳۷۴۸

محمد جمال تلوی، مولانا: (ج۔۹) ۵۰۵۸

محمد جمال کابلی نقشبندی، شیخ: (ج_۶) ۳۸۲۸_۳۸۲۹،
۳۸۳۷، ۳۸۳۹
محمد جمیل بدخشی حارثی کشمیری بن ابوتراب: (ج_۵)
۲۸۵۷، (ج_۶) ۳۹۵۸، ۳۹۶۴
محمد جمیل سعیدی، راؤ: (ج_۱۰) ۱۴۴۳
محمد جمیل نقشبندی، شیخ: (ج_۶) ۳۲۶۴
محمد جواد: (ج_۸) ۴۹۷۹،
محمد جونپوری، سید: (ج_۸) ۴۷۳۷، (ج_۹) ۵۴۱۱، ۵۴۳۴
محمد جی: (ج_۶) ۳۷۸۹
محمد جیا سندھی، شیخ (المعروف شیخ محمد رسیوتہ): (ج_۱۰)
۵۹۳۵
محمد چالاک غازی، اخوند ملا (ملا کابل گرام): (ج_۱۰) ۵۸۸۹
محمد چتری، شیخ: (ج_۲) ۶۹۷، ۱۰۰۹، (ج_۵) ۳۰۰۰،
(ج_۸) ۴۵۴۷
محمد چمن شاہ نوری، خواجہ سید: (ج_۱۰) ۶۰۱۰، ۶۰۱۵
محمد، حافظ ابوجعفر بن علی: (ج_۵) ۲۸۴۷
محمد حافظ، مولانا: (ج_۳) ۱۷۶۲
محمد حبیب اللہ، خواجہ (خلیفہ خواجہ نامدار شاہ ہادی): (ج_۱۰)
۵۹۹۷، ۵۹۹۹
محمد حبیب اللہ شاہ، سید: (ج_۷) ۴۴۷۶، (ج_۱۰)
۶۰۰۰_۶۰۰۱
محمد حبیب اللہ قدس سرہ، سید: (ج_۲) ۱۰۹۲
محمد حبیب اللہ نقشبندی توکلی، مولانا سید: (ج_۱۰) ۵۹۶۹،
۵۹۷۲_۵۹۷۷، ۵۹۷۹، ۵۹۸۱_۵۹۸۲
محمد حبیب، پروفیسر (مسلم یونیورسٹی علی گڑھ): (ج_۵)
۲۶۵۲، (ج_۹) ۵۰۶۲، ۵۳۷۴_۵۳۷۷، ۵۳۸۰
محمد حبیب ھیلہ، پروفیسر، ڈاکٹر (مکہ المکرمہ): (ج_۶)
۳۱۹۰
محمد حرمی، شیخ: (ج_۳) ۱۳۷۴، (ج_۴) ۲۳۹۴
محمد حسن: (ج_۵) ۲۸۰۵، (ج_۹) ۵۳۶۰
محمد حسن اللہ پاٹائی، حاجی: (ج_۶) ۳۵۳۱، ۳۵۳۷
محمد حسن (برادر پروفیسر محمد حسین آسی): (ج_۱۰) ۶۰۸۰
محمد حسن (برادر مخدوم عبدالواحد سیوستانی): (ج_۶)
۳۵۱۳، ۳۵۲۴
محمد حسن برشوری: (ج_۶) ۳۷۲۴
محمد حسن ٹھٹوی، مولانا مفتی: (ج_۶) ۳۵۴۰
محمد حسن جان سرہندی، خواجہ: (ج_۵) ۲۸۱۵، ۲۸۱۷_
۲۸۱۸، (ج_۶) ۳۳۲۳، ۳۳۲۷، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸،
۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۹، ۳۵۰۳، ۳۵۱۰، ۳۵۲۴_
۳۵۲۵، ۳۵۳۹_۳۵۴۰، ۳۵۹۷، ۳۶۱۱_۳۶۱۲،
۳۶۱۴، ۳۶۲۴، ۳۶۶۰، ۳۶۶۴، ۳۶۶۶، ۳۷۰۷،
(ج_۹) ۵۵۷۱، (ج_۱۰) ۶۲۴۵، ۶۲۸۸، ۶۳۵۱
محمد حسن جان فاروقی، خواجہ: (ج_۸) ۴۸۶۹
محمد حسن جان، قاضی: (ج_۶) ۳۴۲۳
محمد حسن جان، آقا: (ج_۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳
محمد حسن، جسٹس: (ج_۵) ۲۸۶۱
محمد حسن، حاجی (لاڑکانہ): (ج_۶) ۳۶۹۶
محمد حسن، حافظ: (ج_۸) ۴۵۹۸، (ج_۹) ۵۳۵۹
محمد حسن، حافظ: (ج_۴) ۲۲۹۰، ۲۳۱۲
محمد حسن رہتاسی: (ج_۶) ۳۸۱۶

محمد حسن، سائیں (زلفاں والے): (ج۔۶) ۳۸۰۴، ۳۸۰۶
محمد حسن شاہ: (ج۔۷) ۴۰۶۰، ۴۰۶۲
محمد حسن شاہ مدنی، خواجہ (بدین): (ج۔۶) ۳۶۸۹
محمد حسن عرب (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱
محمد حسن، قاضی (ساکن موضع کالس ضلع جہلم) (ج۔۵) ۲۷۲۵
محمد حسن کردی، نجم الدین (ج۔۵) ۲۸۶۳
محمد حسن (مصنف) (ج۔۶) ۳۸۴۷
محمد حسن، مولانا (ج۔۴) ۲۴۱۹، ۲۴۳۲
محمد حسن، مولانا (فرزند فقیر محمد رضا نوحانی زکوزوی المعروف لالہ جی) (ج۔۱۰) ۵۸۸۳-۵۸۸۴
محمد حسن، مولوی (ج۔۹) ۵۱۵۴، (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
محمد حسن نقشبندی مجددی کیت پوری، مولانا (ج۔۱۰) ۵۹۰۸، ۶۰۳۶، ۶۳۷۸، ۶۴۰۶
محمد حسن نوحانی، مولانا (ج۔۷) ۴۰۰۱
محمد حسن یسین زئی، میاں (ج۔۶) ۳۷۱۱، ۳۷۱۵
محمد حسنی مستونگی (ج۔۱۰) ۵۹۵۶
محمد حسین (ج۔۹) ۵۵۳۷
محمد حسین آزاد، مولوی (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۹) ۵۱۵۵، (ج۔۱۰) ۵۶۵۰
محمد حسین آسی نقشبندی، پروفیسر (ج۔۱) ۲۳، ۲۹، ۴۴، (ج۔۲) ۴۹۰، ۱۱۵۲، (ج۔۳) ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۲۲۶۷، (ج۔۶) ۳۹۶۵، (ج۔۹) ۵۵۸۲، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۵۹۴، ۵۶۰۷، ۵۶۰۹، ۶۰۷۹-۶۰۸۰، ۶۰۸۴-۶۰۸۹، ۶۰۹۲، ۶۰۹۴-۶۰۹۵، ۶۰۹۷-۶۰۹۸، ۶۳۲۵، ۶۳۳۳، ۶۳۳۵، ۶۳۴۴، ۶۳۹۴
محمد حسین، آقا: (ج۔۶) ۳۵۱۲
محمد حسین اصفہانی، مفتی: (ج۔۶) ۳۴۰۷
محمد حسین الہ آبادی، شاہ: (ج۔۹) ۵۲۰۵
محمد حسین انصاری سندھی، شیخ: (ج۔۵) ۲۸۸۴، (ج۔۶) ۳۵۰۰
محمد حسین بخاری، مولوی (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری) (ج۔۱۰) ۵۸۸۲
محمد حسین بن قادر بخش، مولوی (ج۔۸) ۴۵۷۶
محمد حسین پسروری نقشبندی، مولوی: (ج۔۵) ۲۷۲۷-۲۷۲۸، ۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۱، ۳۸۰۱-۳۸۰۲، (ج۔۷) ۴۰۱۰، (ج۔۸) ۴۵۰۱، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶، ۵۸۱۰
محمد حسین پشاوری، خواجہ (سجادہ نشین خواجہ محمد صدیق پشاوری) (ج۔۱۰) ۵۸۶۴
محمد حسین، پیر سید (مرشد پیر محمد بڈھا): (ج۔۶) ۳۷۸۸
محمد حسین تبسمی، ڈاکٹر (ج۔۱۰) ۶۴۹۰
محمد حسین ٹھٹوی، مفتی (صوفی ٹھٹہ): (ج۔۶) ۳۶۹۶
محمد حسین جان سرہندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳، ۳۴۲۵، ۳۴۶۲، ۳۴۴۷، ۳۴۴۹، ۳۴۸۷-۳۴۸۸، ۳۵۰۳، ۳۵۹۹، ۳۶۱۵-۳۶۱۹، (ج۔۸) ۴۸۶۹، (ج۔۹) ۵۵۷۱
محمد حسین جہلمی (مؤلف سوانح عمری امام ربانی): (ج۔۱۰) ۶۲۸۹
محمد حسین چوہدری: (ج۔۵) ۳۰۲۲
محمد حسین (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱

محمد حسین دوسری بصری، مولانا: (ج۔۶) ۳۹۱۷
محمد حسین سیوستانی: (ج۔۶) ۳۵۲۰
محمد حسین شاہ، خواجہ سید (المعروف ٹانگے والے پیر): (ج۔۱۰) ۶۰۰۴، ۶۰۰۹
محمد حسین شاہ، سید علی پوری: (ج۔۶) ۳۷۸۱
محمد حسین، شیخ (عم شیخ محمد عابد سندھی): (ج۔۶) ۳۶۲۰
محمد حسین طیبی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۹
محمد حسین قادری، مفتی: (ج۔۵) ۲۹۱۳
محمد حسین قریشی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۸
محمد حسین کاپڑیا: (ج۔۱۰) ۶۳۶۰
محمد حسین کھاوڑ، رئیس: (ج۔۶) ۳۵۲۰
محمد حسین مرادآبادی: (ج۔۵) ۲۵۷۴
محمد حسین مکی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
محمد حسین، مولانا: (ج۔۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۴
محمد حسین، مولانا (فرزند فقیر محمد رضا نوحانی زکوڑوی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۳
محمد حسین مولوی ابن قادر بخش مولوی: (ج۔۵) ۲۰۴۶، ۲۷۲۴
محمد حسین مہیسر، خلیفہ: (ج۔۶) ۳۴۳۲، ۳۵۷۰
محمد حسین نعیمی، مفتی: (ج۔۵) ۲۹۱۳
محمد حسین نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۴۴۴
محمد حسینی مکی، سید: (ج۔۹) ۵۳۴۱
محمد حفظی آفندی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۶۵
محمد حفیظ البرکات شاہ، الحاج: (ج۔۵) ۲۷۲۷
محمد حفیظ الرحمٰن، قاری: (ج۔۶) ۳۳۸۲، ۳۳۹۲
محمد حفیظ، راجہ (جدِ اعلیٰ راجہ نور محمد نظامی): (ج۔۱۰) ۶۴۹۰
محمد حفیظ ملک، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۲۱۵
محمد حفیظ نقشبندی مجددی، ابوالارشد: (ج۔۵) ۲۷۹۷
محمد حفیظ نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۴۹۲
محمد حکیم، مرزا: (ج۔۱) ۲۹۳۔۲۹۴، (ج۔۴) ۱۹۸۱، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳
محمد حلیم: (ج۔۶) ۳۹۶۵، (ج۔۹) ۵۰۲۸
محمد حماد مسعودی، حافظ: (ج۔۶) ۳۳۹۳
محمد حمید الدین حیدر شاہ گنوری: (ج۔۶) ۳۳۶۹
محمد حمید الدین، مولانا: (ج۔۶) ۳۳۶۹
محمد حمید اللہ، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۷۲۷، (ج۔۶) ۳۹۶۵
محمد حمید فضلی، قاضی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۴
محمد حنیف: (ج۔۸) ۴۹۷۹،
محمد حنیف خاں رضوی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۴، ۲۹۰۵، ۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۶۴۲
محمد حنیف، خواجہ: (ج۔۶) ۳۴۳۹، ۳۶۱۳، ۳۶۲۶
محمد حنیف، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۸۸۶
محمد حنیف رامے: (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۷۷۷
محمد حیات ڈیروی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۸۲، ۵۹۰۲
محمد حیات سندھی: (ج۔۲) ۷۳۲، (ج۔۵) ۲۶۷۹، (ج۔۶) ۳۱۸۲، ۳۲۰۶، ۳۴۱۶، ۳۹۶۵
محمد خالد رضا، ڈاکٹر: (ج۔۸) ۴۸۴۴

محمد خالد کردی شامی نقشبندی، مولانا: (ج۔۱) ۳۵، ۹۱_۹۲، ۹۶، ۲۶۴، (ج۔۳) ۱۸۸۸، (ج۔۴) ۲۳۸۷، ۲۳۸۹، ۲۳۹۷، ۲۵۰۴_۲۵۱۰، (ج۔۵) ۲۵۵۳، ۲۶۸۸، ۲۷۶۲، ۳۱۲۰، (ج۔۶) ۳۱۳۲، ۳۱۴۲، ۳۱۴۸، ۳۲۶۴_۳۲۶۵، ۳۲۷۵_۳۲۷۹، ۳۲۸۱_۳۲۸۲، ۳۲۸۶_۳۲۸۷، ۳۲۸۹، ۳۳۵۸، ۳۹۱۷، ۳۹۳۷، ۳۹۷۸، (ج۔۷) ۴۰۰۹، (ج۔۸) ۴۸۶۸، ۴۹۸۷_۴۹۸۸، (ج۔۹) ۵۰۱۳، ۵۰۶۷، ۵۴۷۰، ۵۵۱۰

محمد خالد مجددی (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۴

محمد خان بلوچ، (والی مکران) (ج۔۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۶

محمد خان (جرنیل) (ج۔۶) ۳۵۴۸

محمد خان جونیجو (ج۔۶) ۳۶۳۱

محمد خان درانی، سلطان (ج۔۶) ۳۸۶۹

محمد خان عالم نقشبندی مجددی، خواجہ (ج۔۶) ۳۷۷۴، (ج۔۱۰) ۶۰۰۱

محمد خان قادری، مفتی (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

محمد خان لودھی، شاہ (ج۔۱۰) ۵۹۳۵

محمد خان، مولانا (شاگرد مولانا غلام محمد قریشی): (ج۔۶) ۳۸۷۰

محمد خان مہمند: (ج۔۱۰) ۵۸۷۶

محمد خان، نواب: (ج۔۹) ۵۰۵۹_۵۰۶۰

محمد خاندانی، آغا: (ج۔۶) ۳۳۴۹

محمد خانی، میر: (ج۔۴) ۲۲۸۴، (ج۔۵) ۲۶۸۳

محمد خاوند، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۶

محمد خرکوشی: (ج۔۷) ۴۰۹۵

محمد خلیل بدخشانی: (ج۔۶) ۳۴۳۶

محمد خلیل بن علی بن محمد بہاؤالدین بخاری: (ج۔۶) ۳۱۸۸، ۳۲۲۳

محمد خلیل خان برکاتی، مفتی علامہ: (ج۔۱۰) ۶۰۷۳

محمد خلیل خان فیضی، مولانا: (ج۔۷) ۴۳۲۳

محمد خلیل مرادی نقشبندی مجددی، سید: (ج۔۵) ۲۶۶۷، ۲۶۸۱، ۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۱۸۸، ۳۱۹۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۴، ۳۲۳۶، ۳۲۴۱، ۳۲۰۹، ۳۹۶۵، (ج۔۱۰) ۵۷۵۹، ۶۳۷۸، ۶۴۰۲

محمد خلیل، مولوی (مرید خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۴۶

محمد خواص خان اعوان: (ج۔۱۰) ۵۸۸۵، ۵۸۹۵

محمد داغستانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۶، ۳۲۲۸

محمد دانیال احمد: (ج۔۳) ۱۸۷۴

محمد داؤد اقبال، شیخ: (ج۔۶) ۳۳۰۳

محمد داؤد امرتسری: (ج۔۹) ۵۰۲۸

محمد داؤد بگھیو، مفتی: (ج۔۶) ۳۶۹۶

محمد داؤد پسروری، ابوالبیان: (ج۔۴) ۲۳۵۴، ۲۳۵۶، (ج۔۸) ۴۹۳۸، (ج۔۱۰) ۵۹۲۶

محمد داؤد رضوی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۶۰۹۴

محمد داؤد سہروردی، ابوالبیان: (ج۔۳) ۱۷۲۳

محمد درآئی، خواجہ: (ج۔۷) ۴۰۹۱

محمد دراب خان غزنوی نقشبندی، پیر ثانی: (ج۔۶) ۳۸۰۷_۳۸۰۸، ۳۸۱۳

محمد درویش لاہوری: (ج۔۱۰) ۵۸۸۷

محمد درویش، مولانا: (ج_۴)۲۲۵۲
محمد دکدکجی، شیخ: (ج_۶)۳۱۷۰
محمد دلربا نقشبندی مجددی، صاحبزادہ: (ج_۱۰)۶۰۳۱
محمد دمشقی، شیخ سید ابونصر: (ج_۶)۳۶۰۳
محمد دمشقی، شیخ (فرزند شیخ مراد شامی): (ج_۱۰)۵۷۵۹
محمد دہلوی، ابوالحسنات سید مولانا: (ج_۶)۳۹۶۵
محمد دیدار علی شاہ الوری: (ج_۵)۲۹۰۴، (ج_۶)۳۷۸۳، (ج_۸)۴۸۶۹
محمد دیری، شیخ: (ج_۶)۳۱۸۲
محمد دین، رنگساز: (ج_۱۰)۶۰۰۵
محمد دین فوق (تاریخ اقوام پونچھ): (ج_۱۰)۵۸۹۲
محمد دین کلیم قادری: (ج_۸)۴۸۶۴، (ج_۹)۵۵۸۷
محمد دین کلیم، میاں (مورخ): (ج_۱۰)۵۸۰۶، ۵۸۰۹
محمد ذاکر اللہ نقشبندی افغانی، علامہ: (ج_۷) ۳۹۹۴، ۴۴۵۳
محمد ذاکر اللہ نقشبندی، مفتی علامہ: (ج_۱)۱۳، ۲۰
محمد ذاکر شاہ چشتی سیالوی، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۶)۳۱۹۰
محمد ذکی راز دان، خواجہ: (ج_۶)۳۶۲۶
محمد ذوقی، شاہ: (ج_۷)۴۱۶۳
محمد ذہبی، شمس الدین: (ج_۵)۲۸۵۶_۲۸۵۷، (ج_۶) ۳۹۴۳
محمد راشد شاہ، سید روضے دھنی: (ج_۶)۳۴۳۱_۳۴۴۳، ۳۴۳۵، ۳۴۴۲، ۳۴۴۹، ۳۵۵۸، ۳۵۶۲، ۳۵۶۴، ۳۵۶۶_۳۵۷۲، ۳۷۰۵
محمد رانجھا نقشبندی، حافظ: (ج_۷) ۴۱۰۰، (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰)۵۵۹۴، ۵۹۸۳_۵۹۹۲، ۵۹۹۴
محمد رحمت اللہ کیرانوی، مولانا: (ج_۵)۲۶۸۷
محمد رحمٰن، مولوی: (ج_۵)۲۸۹۶
محمد رحمۃ اللہ، شیخ: (ج_۴) ۲۵۰۸، (ج_۶) ۳۱۹۴، ۳۲۷۸، ۳۴۵۰
محمد رحیم ٹھٹوی، میاں: (ج_۶)۳۶۵۹
محمد رحیم لغاری (صوفی خیر پور): (ج_۶)۳۶۹۵
محمد رسا مجددی، شیخ: (ج_۱۰)۵۸۷۹، ۵۸۸۱
محمد رسا، شاہ: (ج_۶)۳۸۷۳
محمد رشید رضا مصری: (ج_۱۰)۵۷۷۹
محمد رضا: (ج_۹)۵۳۲۲
محمد رضا القہوجی، الدکتور: (ج_۱۰)۶۳۷۸، ۶۳۸۲
محمد رضا خان، پروفیسر: (ج_۳)۱۸۸۵، (ج_۴)۱۹۱۷
محمد رضا علی خان نقشبندی، علامہ: (ج_۵)۲۸۷۸، ۲۸۸۰، ۲۸۹۸، ۲۹۰۰، ۲۹۰۸، ۲۹۱۰
محمد رضا نوحانی زکوڑوی، فقیر: (ج_۱۰)۵۸۸۳
محمد رضاء الدین صدیقی: (ج_۱۰)۶۴۳۵
محمد رضوان یٰسین، حافظ: (ج_۱۰)۶۴۳۲
محمد رضی مجددی، شیخ: (ج_۱۰)۵۸۷۹، ۵۸۹۳
محمد رفاقت، حاجی (ماہنامہ فیض): (ج_۱۰)۶۴۳۴
محمد رفیع ٹھٹوی، شاعر: (ج_۶)۳۶۵۸
محمد رفیق احمد رزاقی: (ج_۶)۳۷۹۹
محمد رفیق افضل: (ج_۶)۳۹۶۵

محمد رفیق، پروفیسر قاری: (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۶۳۹۴

محمد رفیق مجاہد نقشبندی، مولانا: (ج۔۵) ۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۱، ۳۹۲۳، ۳۹۲۷۔۳۹۲۸

محمد رفیق مسعودی، پروفیسر قاری: (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۲۶۱

محمد رفیق نقشبندی، پروفیسر ڈاکٹر قاری: (ج۔۱۰) ۵۶۲۲

محمد رکن الدین الوری، شاہ: (ج۔۱۰)، ۶۴۳

محمد رکن الدین الوری، شاہ: (ج۔۱) ۶۲، (ج۔۶) ۳۳۱۴، ۳۳۲۸، ۳۳۷۰، ۳۳۷۲۔۳۳۷۳، ۳۵۴۳، ۳۵۶۵، ۳۵۷۴، ۳۶۱۳۔۳۶۱۴، ۳۶۲۳، ۳۶۲۵۔۳۶۲۶، ۳۶۲۸، ۳۶۳۸، ۳۶۴۶، ۳۶۴۸، ۳۶۷۲۔۳۶۷۵، ۳۶۷۷۔۳۶۸۰، ۳۶۸۲، ۳۷۵۶، ۳۹۳۰، (ج۔۹) ۴۹۹۷

محمد رمضان فیضی (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

محمد رمضان (والد مفتی محمد عبداللہ نعیمی): (ج۔۶) ۳۶۶۷

محمد روح اللہ قادری، حکیم: (ج۔۵) ۲۶۰۵

محمد رؤف احمد: (ج۔۳) ۱۲۹۷

محمد رؤف احمد، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۳۵۰

محمد ریاض صالح، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۷۰۰۔۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۹۶۵

محمد زاہد انکی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۸۹۰، ۵۹۳۲، ۵۹۴۶

محمد زاہد خان موہڑوی، پیر: (ج۔۶) ۳۸۱۰

محمد زاہد، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۵۱۔۲۲۵۲، ۲۲۶۳، (ج۔۶) ۳۵۶۶، ۳۹۸۱

محمد زاہد، درویش: (ج۔۷) ۴۰۹۰

محمد زاہد کوٹکو، جناب: (ج۔۶) ۳۲۷۲

محمد زاہد، مولانا: (ج۔۸) ۴۸۴۷

محمد زاہد وخشی، خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۵۸، ۴۸۶۶

محمد زبیر: (ج۔۴) ۲۱۹۸

محمد زبیر ابوالخیر، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۲۳، ۳۴، (ج۔۲) ۱۱۱۳، ۱۲۱۵، (ج۔۵) ۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۱، ۳۳۳۹، ۳۳۷۱، ۳۳۹۶، ۳۴۴۹۔۳۴۵۰، ۳۴۶۳، (ج۔۶) ۳۶۲۷، ۳۶۸۲، ۳۸۲۷، ۳۹۰۶، ۳۹۳۰، (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۱۶۷، (ج۔۸) ۴۹۰۶، (ج۔۹) ۵۵۷۷۔۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۳۸، ۶۳۷۸، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۳۸

محمد زبیر، خواجہ: (ج۔۲) ۱۱۴۸۔۱۱۴۹، (ج۔۴) ۲۱۸۵۔۲۱۸۷، ۲۵۲۱، (ج۔۵) ۲۶۶۸۔۲۶۶۹، (ج۔۶) ۳۶۹۷، (ج۔۸) ۴۶۱۳

محمد زبیر سرہندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۳۴۔۵۹۳۵، ۶۱۰۸

محمد زبیر، شاہ نقشبند ثانی (مرید خواجہ محمد معصوم سرہندی): (ج۔۶) ۳۹۰۹

محمد زبیر، شیخ: (ج۔۹) ۵۵۵۴۔۵۵۵۵

محمد زبیر فاروقی، خواجہ: (ج۔۸) ۴۸۶۸

محمد زبیر (فرزند حافظ محمد ہاشم جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۶۶۶

محمد زبیر مجددی نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

محمد زبیر نقشبندی (مرشد خواجہ ضیااللہ نقشبندی): (ج۔۶) ۳۳۶۱

محمد زبیر مجددی، صاحبزادہ: (ج۔۱) ۱۰۲

محمد زروار خان، حاجی: (ج۔۶) ۳۲۳۹

محمد زمان ثانی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۴۳۹۔۳۴۴۰، ۳۶۸۸۔

۳۶۸۹

محمد زمان، حاجی (خادم دربار عالیہ راولپنڈی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۷

محمد زمان خان، نواب: (ج۔۱۰) ۶۱۲۱

محمد زمان، خواجہ (لواری شریف). (ج۔۶) ۳۴۶۰، ۳۴۲۷، ۳۴۳۷، ۳۴۴۱، ۳۴۴۹، ۳۴۵۸۔۳۴۵۹، ۳۴۷۶۔۳۴۷۷، ۳۴۷۹، ۳۴۸۱، ۳۵۰۳۔۳۵۰۶، ۳۵۷۴۔۳۵۸۰، ۳۵۸۲۔۳۵۸۳، ۳۵۸۷۔۳۵۸۸، ۳۶۲۲۔۳۶۲۳، ۳۶۲۶

محمد زمان رو، قاضی (استاد حافظ محمد ٗبدالکریم): (ج۔۶) ۳۷۸۲

محمد زمان، قاضی (حافظ عبدالکریم): (ج۔۱۰) ۵۹۳۹

محمد زمان، میر (شاعر): (ج۔۱۰) ۵۹۴۵

محمد ساقی مستعد خاں: (ج۔۳) ۲۲۔۱۰،۱، (ج۔۵) ۲۸۰۰، ۲۸۱۶، (ج۔۶) ۳۳۹۴

محمد سالم بن احمد، سلفی،: (ج۔۷) ۴۲۸۴

محمد سالم، شاہ (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱

محمد سبحانی، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۵۹۶

محمد سجاد: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد سدید زوزنی، ابوالمفاخر: (ج۔۵) ۲۸۴۸

محمد سرفراز نعیمی، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

محمد سراج الدین دامانی نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۸۹۸، ۵۹۰۴، ۵۹۴۱، ۵۹۴۳، ۶۰۴۳۔۶۰۴۴، ۶۰۶۹

محمد سراج الدین دامانی، مولانا: (ج۔۶) ۳۹۲۰۔۳۹۲۱

محمد سردار احمد لائلپوری، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۰۴

محمد سرفراز خان صفدر: (ج۔۲) ۷۲۸

محمد سرفراز خان، کلہوڑا: (ج۔۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۶۔۳۵۵۷، ۳۵۶۰، ۳۵۸۸۔۳۵۸۹

محمد سرور جامی: (ج۔۷) ۴۰۶۲

محمد سرور خان، ایڈووکیٹ: (ج۔۶) ۳۶۳۰

محمد سرور سلطان، خواجہ پیر: (ج۔۶) ۳۷۸۶

محمد سرہندی، خواجہ (فرزند خواجہ محمد معصوم سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۳۱

محمد سعد سراجی دوست محمدی، پروفیسر (المعروف مرشد بابا): (ج۔۱۰) ۶۱۰۸

محمد سعد، پروفیسر (مرشد بابا): (ج۔۶) ۳۹۲۲

محمد سعید: (ج۔۱) ۳۰۸، ۳۶۰، (ج۔۶) ۳۴۴۸، (ج۔۹) ۵۰۲۵، ۵۳۴۰، ۵۳۶۵

محمد سعید احمد مجددی (ناشر): (ج۔۱۰) ۶۴۳۱

محمد سعید احمد مجددی، ابوالبیان علامہ: (ج۔۱۰) ۵۵۹۴۔۵۹۹۶، ۶۱۶۳، ۶۲۲۸، ۶۴۳۱

محمد سعید احمد نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۳۶

محمد سعید، المعروف مسعود شاہ، فرزند شیخ شہباز مومند ؒ): (ج۔۱۰) ۵۸۷۰

محمد سعید آلومہاروی، خلیفہ: (ج۔۱۰) ۵۹۹۹

محمد سعید، حافظ: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد سعید، حکیم: (ج۔۱۰) ۶۱۳۲

محمد سعید، خواجہ: (ج۔۱) ۷۵، ۸۱، ۸۵، ۴۱۳، ۴۲۶، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۱، (ج۔۲) ۵۰۷، ۷۶۷۔۷۶۸، ۸۲۹، ۱۲۰۵، (ج۔۳) ۱۳۷۲، ۱۴۰۴۔۱۴۰۶، ۱۴۵۱۔۱۴۵۲، ۱۶۰۰، ۱۶۱۱،

۱۸۰۹، (ج_۴) ۱۹۸۵، ۲۱۶۵، ۲۱۷۵، ۲۱۸۰، ۲۱۹۶، ۲۲۰۹، ۲۲۲۸، ۲۲۳۰_۲۲۳۷، ۲۲۷۶، ۲۲۸۵، ۲۲۸۹، ۲۳۶۱_۲۳۶۲، ۲۳۹۳، (ج_۵) ۲۶۵۹، ۲۶۶۰_۲۶۶۲، ۲۷۳۹، ۲۷۵۶، ۲۷۸۳، ۲۷۹۸_۲۷۹۹، ۲۸۰۱، ۲۸۰۴_۲۸۰۶، ۲۸۷۵، ۳۰۵۷، ۳۰۶۱، ۳۰۶۴، ۳۱۱۲، ۳۱۱۶، (ج_۶) ۳۳۳۹، ۳۷۰۵، (ج_۸) ۴۵۴۲، ۴۵۷۰، ۴۶۰۳، ۴۶۰۹_۴۶۱۵، ۴۷۶۳، ۴۹۰۸_۴۹۰۹، ۴۹۷۸، ۴۹۸۱، (ج_۹) ۵۰۶۱، ۵۰۶۷، ۵۱۸۹، ۵۲۴۷، ۵۲۵۴، ۵۲۵۸، ۵۴۷۰، ۵۴۸۴، ۵۴۸۸، ۵۴۹۳، ۵۴۹۵، ۵۵۱۰، ۵۵۲۴، ۵۵۲۵، ۵۵۲۶، ۵۵۲۸_۵۵۲۹، ۵۵۵۷، (ج_۱۰) ۵۶۷۲_۵۶۷۳، ۵۶۷۹، ۵۶۸۵، ۵۷۴۳، ۵۷۵۵، ۵۷۵۸، ۵۷۶۷، ۵۷۷۱_۵۷۷۲، ۶۱۶۲، ۶۱۶۹، ۶۲۶۱، ۶۲۶۴، ۶۲۷۱، ۶۳۵۶، ۶۳۷۳

محمد سعید (سجادہ نشین حاجی میاں محمد الدین) (ج_۶) ۳۷۸۵

محمد سعید، سید پروفیسر (ج_۱۰) ۶۳۰۶

محمد سعید، شیخ (خلیفہ شیخ آدم بنوری): (ج_۱) ۴۵۲، (ج_۵) ۲۷۸۴، (ج_۶) ۳۷۰۳

محمد سعید، شیخ (ج_۹) ۵۳۶۷، ۵۵۳۵_۵۵۳۶، ۵۵۵۹

محمد سعید عامودی (ج_۵) ۲۷۰۳، (ج_۶) ۳۹۵۵

محمد سعید قریشی، قاضی (ج_۱۰) ۵۹۴۵

محمد سعید قریشی، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج_۱۰) ۶۰۵۵

محمد سعید لاہوری، شیخ: (ج_۵) ۲۶۲۰، (ج_۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۵

محمد سعید، مخدوم (استاد مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی): (ج_۶) ۳۳۳۷_۳۳۳۸، ۳۶۵۲

محمد سعید مسعودی مجاہد آبادی، ملک: (ج_۱) ۴۳، (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۵۹۵، ۶۴۲۷، ۶۴۳۰

محمد سعید، مفتی: (ج_۲) ۵۱۹، ۵۴۳، (ج_۵) ۲۶۲۰، (ج_۶) ۳۳۷۲، ۳۳۷۷_۳۳۷۸

محمد سعید، مولانا: (ج_۶) ۳۳۶۹، ۳۳۷۷

محمد سعید، میاں، شیخ: (ج_۶) ۳۳۱۰، ۳۳۲۹_۳۳۳۰

محمد سعید نقشبندی، خواجہ (عرف پیر مٹھا): (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۵۹۴، ۶۰۱۷، ۶۰۱۹_۶۰۲۵، ۶۰۲۸، ۶۰۳۱

محمد سعید نقشبندی، مولانا: (ج_۲) ۸۲۲، (ج_۳) ۱۴۰۱، ۱۷۲۹، (ج_۵) ۲۶۷۳، (ج_۶) ۳۹۴۲، (ج_۱۰) ۶۰۳۷

محمد سعید (والد شیخ سید امیر نقشبندی): (ج_۶) ۳۸۴۳

محمد سلطان پوری، شیخ پیر: (ج_۴) ۲۲۳۷

محمد سلطان شاہ، ڈاکٹر: (ج_۷) ۴۲۷۹، (ج_۸) ۴۴۸۹، ۴۸۷۳

محمد سلطان شیخ: (ج_۹) ۵۴۸۸

محمد سلطان عالم نقشبندی، خواجہ: (ج_۶) ۳۸۰۴، ۳۸۰۶، ۳۸۱۷، ۳۸۱۹

محمد سلمان یوسفی، حافظ: (ج_۱۰) ۶۴۴۲

محمد سلیم اختر، ڈاکٹر: (ج_۷) ۳۹۹۳، ۴۱۰۳، (ج_۱۰) ۶۴۹۰

محمد سلیم جان مجددی (بدین): (ج_۶) ۳۶۹۰، (ج_۷) ۴۴۷۸، (ج_۸) ۴۴۸۸، ۴۴۹۶، (ج_۱۰) ۵۶۲۱

محمد سلیم حماد، صاحبزادہ میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۰۹
محمد سلیم نقشبندی، حافظ: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳
محمد سلیم (نوائے اسلام): (ج۔۱۰) ۶۴۴۳
محمد سلیمان توکلی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۶۹
محمد سلیمان تونسوی، خواجہ شاہ: (ج۔۶) ۳۶۲۳
محمد سلیمان عاجز: (ج۔۴) ۲۴۵۶
محمد سلیمان فاروقی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۲۰
محمد سلیمان قادری چشتی، حکیم: (ج۔۸) ۴۸۴۸، ۴۸۵۲،
محمد سلیمان، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۵۱
محمد سلیمان ندوی، سید: (ج۔۶) ۳۵۴۹، ۳۹۶۵
محمد سلیمان نوری توکلی، چوہدری: (ج۔۱۰) ۵۹۶۴، ۵۹۶۶
محمد سندھی، علامہ ابن عبد الہادی: (ج۔۵) ۲۸۸۴
محمد سہروردی، ابوسہل: (ج۔۶) ۳۹۳۹
محمد سہیل: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
محمد سہیل مسعودی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰
محمد، سید: (ج۔۴) ۲۱۵۹
محمد سیوستانی، مخدوم (بزرگ دادو): (ج۔۶) ۳۶۹۰
محمد شافعی بن عبد الدائم: (ج۔۶) ۳۹۶۴
محمد شاکر: (ج۔۹) ۵۵۴۶۔۵۵۴۷
محمد شاکر بن علی عقاد صدیقی خلوتی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۱۱، ۳۲۳۶
محمد شاکر سرہندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۶۳۷۱
محمد شامی دمشقی، شیخ ابونصر: (ج۔۶) ۳۵۹۸
محمد شاہ: (ج۔۸) ۴۹۴۴، (ج۔۹) ۵۵۵۵، ۵۵۶۵
محمد شاہ خان ہوتکی: (ج۔۱۰) ۶۲۲۶
محمد شاہ خاں: (ج۔۴) ۲۱۸۷، ۲۴۶۱، (ج۔۶) ۳۶۰۸
محمد شاہ، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲
محمد شاہ، مولانا (استاد مولانا محمد سراج الدین دامانی): (ج۔۶) ۳۹۲۰
محمد شاہ ولد سید محمد ابراہیم: (ج۔۱۰) ۵۹۷۵
محمد شاہ آنی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۹۱
محمد شجاع الدین، قاضی: (ج۔۶) ۳۴۱۰
محمد شجاع نقشبندی، سید: (ج۔۶) ۳۴۳۱
محمد شرف الدین یاتقایا: (ج۔۵) ۲۸۵۷
محمد شریف، آخوزادہ (شاگرد مفتی عظیم اللہ نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۶۶
محمد شریف احمد، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۰۳، (ج۔۵) ۳۰۲۳، (ج۔۱۰) ۵۶۳۱
محمد شریف، اشرف الاتقیاء: (ج۔۶) ۳۳۵۲
محمد شریف اعوان: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
محمد شریف الصواف: (ج۔۱۰) ۶۳۷۸
محمد شریف، الصواف: (ج۔۸) ۴۹۸۷،
محمد شریف بخاری، خواجہ: (ج۔۴) ۲۳۰۶
محمد شریف بدخشانی: (ج۔۶) ۳۵۷۴
محمد شریف (جد امجد خواجہ شیخ احمد جی عثمانی): (ج۔۱۰) ۵۹۴۰
محمد شریف، حاجی: (ج۔۶) ۳۴۱۸
محمد شریف سرہندی: (ج۔۶) ۳۶۰۶
محمد شریف سیالوی، ڈاکٹر: (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۵۳

محمد شریف، شیخ (استاد شیخ محمد جمال پشاوری): (ج۔۶) ۳۸۴۷

محمد شریف غزی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۳۱

محمد شریف فقیہ اعظم، مولانا: (ج۔۸)۴۸۶۹،

محمد شریف کمبوہ، قاری: (ج۔۷)۲۹۸۶، (ج۔۸)۴۳۸۲، (ج۔۹) ۴۹۹۴، ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۸۶، ۵۵۹۴، ۵۹۰۳

محمد شریف کوٹلوی، مولانا حافظ: (ج۔۱۰)۵۸۰۶۔۵۸۰۷، ۵۹۴۰، ۵۹۶۵

محمد شریف، مولانا محدث: (ج۔۶)۳۸۵۳

محمد شریف، مولانا (کوٹلی لوہاراں): (ج۔۶)۳۶۶۵

محمد شریف یعقوبی، شیخ: (ج۔۵)۲۶۸۲

محمد شعیب تورڈھیری، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۶۸، ۵۸۸۸، ۵۸۹۰

محمد شعیب، شیخ: (ج۔۷)۳۹۹۲، ۴۰۳۳، (ج۔۹)۵۵۳۷

محمد شعیب مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۷

محمد شفیع: (ج۔۳)۱۸۴۸

محمد شفیع اوکاڑوی، مولانا: (ج۔۶)۳۴۴۹، ۳۵۹۱، ۳۶۹۱، ۳۵۹۳، ۳۷۰۶، (ج۔۱۰)۵۸۱۰

محمد شفیع تھانوی، مفتی: (ج۔۶)۳۹۶۵

محمد شفیع دہلوی، میر: (ج۔۶)۳۴۰۷

محمد شفیع دیوبندی، مفتی: (ج۔۲)۳۶۷، (ج۔۳)۱۵۶۳، (ج۔۶)۳۵۴۹، ۳۹۶۵

محمد شفیع، ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۹۴۴، (ج۔۶)۳۴۴۵، ۳۹۶۵، (ج۔۱۰)۶۱۱۹، ۶۱۲۷

محمد شفیع صابر (مصنف شخصیات سرحد): (ج۔۱۰)۵۸۹۰

محمد شفیع قادری حامدی، مولانا: (ج۔۵)۳۱۱۰

محمد شفیع قریشی، مولانا قاضی: (ج۔۱۰)۵۹۴۳

محمد شفیع لاہوری، مولوی: (ج۔۶)۳۵۵۸

محمد شفیع، مولانا: (ج۔۲)۴۵۷، (ج۔۶)۳۳۷۸

محمد شفیع، میاں (صوفی نواب شاہ): ۳۶۹۴

محمد شفیع، میر: (ج۔۶)۳۴۰۸

محمد شفیع نقشبندی (گوجرخاں): (ج۔۶)۳۸۱۴، (ج۔۱۰) ۵۹۴۷

محمد شفیع نوری، مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۸۸

محمد شکارپوری، قاضی: (ج۔۶)۳۵۱۹۔۳۵۲۰

محمد شمس الدین نقشبندی، مولانا قاضی: (ج۔۶) ۳۸۲۹، ۳۸۴۶

محمد شمس الدین (مرشد حامد شاہ): (ج۔۶)۳۵۶۷

محمد شمیم اختر قاسمی: (ج۔۸)۴۹۹۱(ج۔۹)۵۰۰۱، ۵۱۲۱

محمد شہاب الدین رضوی: (ج۔۵) ۲۷۰۳، ۲۸۹۶، (ج۔۶)۳۹۶۵

محمد شہزوری، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۸۔

محمد شہزاد (سی۔اے): (ج۔۱۰)۶۴۴۴

محمد شیبانی، امام: (ج۔۲)۷۰۴، (ج۔۳)۱۷۰۸۔۱۷۰۹

محمد، شیخ: (ج۔۱)۴۰۸، (ج۔۶)۳۲۷۹، (ج۔۸)۴۵۰۹، ۴۸۳۸

محمد، شیخ بن عبداللہ خان: (ج۔۵)۲۶۸۴

محمد، شیخ بن عمر جادی: (ج۔۵)۲۶۹۸

محمد، شیخ سید بن محمد مبارک حسنی مالکی: (ج۔۵) ۲۶۸۱

محمد، شیخ مولانا (عم مولانا غلام محی الدین قصوری): (ج۔۱۰) ۶۰۳۴

محمد صادق: (ج۔۱) ۳۵۹۔۳۶۱، ۴۱۵، (ج۔۳) ۱۷۵۴، (ج۔۶) ۳۴۱۷، (ج۔۹) ۵۲۲۵، ۵۳۰۲، ۵۳۱۰، ۵۳۳۷

محمد صادق، بوالحسن: (ج۔۶) ۳۴۱۶

محمد صادق، میر: (ج۔۶) ۳۴۷۵

محمد صادق بدخشانی، خواجہ: (ج۔۵) ۲۷۰۸

محمد صادق ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۵۷۶، ۳۶۸۷

محمد صادق دہلوی کشمیری: (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۱۰۳

محمد صادق سرہندی، خواجہ (فرزند مجدد الف ثانی): (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۲۳۶، (ج۔۵) ۲۶۱۵، ۲۶۳۵، ۲۹۲۸، ۳۰۲۸، ۳۱۱۲، ۳۱۱۶، (ج۔۶) ۳۴۹۰، ۳۹۳۵، (ج۔۸) ۴۸۶۶، (ج۔۱۰) ۵۶۷۲۔۵۶۷۳، ۵۶۷۹، ۵۷۶۷

محمد صادق، شیخ: (ج۔۴) ۲۳۶۷، (ج۔۶) ۳۴۳۷

محمد صادق، صاحبزادہ: (ج۔۱) ۴۱۵

محمد صادق (فرزندِ اکبر شیخ احمد): (ج۔۴) ۱۹۴۰

محمد صادق قصوری، میاں: (ج۔۱) ۳۵، ۴۸، (ج۔۵) ۲۷۰۱، ۲۸۹۵، ۲۹۱۰، ۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۱، ۳۷۰۳، ۳۷۰۷، ۳۷۷۹، ۳۷۹۸۔۳۷۹۹، (ج۔۷) ۴۰۸۴، ۴۱۰۰، ۴۴۷۸، (ج۔۸) ۴۴۸۸، (ج۔۹) ۵۰۶۸، ۵۰۸۸، ۵۵۷۰، ۵۵۷۷۔۵۵۷۸، ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۰۱، ۵۸۰۹، ۵۸۱۱، ۶۳۷۸، ۶۴۰۹

محمد صادق کشمیری: (ج۔۱) ۳۰۳، ۴۱۰، (ج۔۴) ۲۲۴۱، (ج۔۶) ۳۸۰۴، ۳۸۱۸۔۳۸۱۹، ۳۸۲۱۔۳۸۲۳، ۳۹۲۵، ۳۹۶۵

محمد صادق مجددی کابلی، خواجہ: (ج۔۱) ۱۹، ۲۷۳، ۳۹۱، ۴۰۱، ۴۴۸، ۴۵۲، (ج۔۲) ۵۰۷، ۵۱۰، ۷۶۷، (ج۔۳) ۱۳۷۲۔۱۳۷۳، ۱۴۲۳، ۱۴۳۸، ۱۴۵۱، ۱۶۲۸، ۱۷۶۲، (ج۔۴) ۲۲۶۴، ۲۲۷۶، ۲۲۸۰، ۲۳۵۹۔۲۳۶۲، ۲۴۱۶۔۲۴۱۷، ۲۴۲۳، ۲۴۳۱، ۲۴۵۵، (ج۔۵) ۲۵۷۹، ۲۵۹۸، ۲۷۴۸، (ج۔۶) ۳۴۴۴، ۳۹۶۵، (ج۔۷) ۴۱۷۶، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۵۲۷، ۴۵۲۹، ۴۵۴۶، ۴۵۵۰، ۴۵۶۰، ۴۵۶۷، ۴۵۶۹۔۴۵۷۰، ۴۶۰۳۔۴۶۰۹، ۴۶۱۴، ۴۷۲۵، (ج۔۹) ۵۰۲۴۔۵۰۲۶، ۵۱۸۹، ۵۲۳۶۔۵۲۳۷، ۵۲۵۴، ۵۴۸۸، ۵۴۹۰۔۵۴۹۱، ۵۵۲۴، ۵۵۲۷، (ج۔۱۰) ۶۱۲۰

محمد صادق، مولانا: (ج۔۴) ۲۲۳۳، (ج۔۶) ۳۵۳۶، ۳۶۱۰

محمد صادق مولانا خواجہ (خلیفہ مجدد الف ثانی): (ج۔۱۰) ۶۲۵۹

محمد صادق، مولانا کھڈہ والے: (ج۔۶) ۳۶۰۹

محمد صادق، میاں: (ج۔۷) ۴۱۴۳، ۴۱۵۷، ۴۱۶۵

محمد صادق، میاں (صوفی نواب شاہ): (ج۔۶) ۳۶۹۴

محمد صادق ہمدانی (سوانح نگار): (ج۔۱۰) ۵۷۶۰

محمد صالح: (ج۔۵) ۲۷۴۸

محمد صالح بیگ اٹکی، صوفی: (ج۔۱۰) ۵۹۲۹

محمد صالح، خواجہ: (ج۔۳) ۱۷۵۸، ۱۷۸۷، (ج۔۹) ۵۱۹۳

محمد صالح دمائی، میاں (نواب شاہ): (ج۔۶) ۳۴۷۷، ۳۶۹۴

محمد صالح زواوی شافعی، علامہ سید: (ج۔۵) ۲۶۷۶، ۲۶۸۹، ۲۶۹۰۔۲۶۹۳، ۲۶۹۵، (ج۔۶) ۳۳۵۹،

۳۹۶۶(ج-۹)۵۳۴۱، (ج-۱۰)۵۶۹۵
محمد صالح، سید: (ج-۶)۳۴۳۳
محمد صالح کمبوہ (مصنف عمل صالح): (ج-۱۰)۵۷۷۲
محمد صالح کوریجہ، خواجہ (فرزند قاضی احمد دمائی): (ج-۶) ۳۴۸۳، ۳۴۸۶
محمد صالح کولابی نقشبندی، مولانا: (ج-۱)۴۵۲، (ج-۳) ۱۳۷۳، ۱۴۵۳، ۱۸۰۰، (ج-۴)۲۲۸۲، ۲۳۸۴، ۲۴۲۶، ۲۴۳۰، (ج-۷)۴۴۱۹، (ج-۱۰)۶۰۴۳، ۶۲۷۲
محمد صالح کھڑائی، حاجی: (ج-۶)۳۵۷۴، ۳۶۹۴
محمد صالح گجراتی: (ج-۴)۲۴۵۱، (ج-۶)۳۹۶۶
محمد صالح لکھی (شکارپور): (ج-۶)۳۴۴۱
محمد صالح مواھی حلبی، شیخ: (ج-۶)۳۱۹۶
محمد صالح، مولانا: (ج-۸)۴۶۰۷،
محمد صالح، مولانا (خلیفہ مولانا عبد الغفار نقشبندی): (ج-۱۰)۶۰۶۷
محمد صالح، میاں: (ج-۶)۳۷۰۱
محمد صالح وزیرآبادی، مخدوم: (ج-۶)۳۶۹۵
محمد صبار، شیخ: (ج-۶)۳۱۸۰
محمد صبغت اللہ مجددی سرہندی ثم پشاوری، شیخ: (ج-۱۰) ۵۸۷۲
محمد صبغۃ اللہ: (ج-۹)۵۵۳۱
محمد صبغۃ اللہ سرہندی، خواجہ (فرزند خواجہ معصوم سرہندی): (ج-۱) ۸۵، (ج-۵) ۲۸۰۱-۲۸۰۲، ۲۸۰۶، ۲۸۱۱، (ج-۶) ۳۴۱۷، (ج-۶) ۳۹۶۵، (ج-۱۰) ۵۷۵۹، ۵۷۶۱، ۵۸۷۲، ۵۸۸۰
محمد صحبت خان کوہاٹی، مولانا: (ج-۱۰)۶۴۳۲
محمد صدرالدین کشمیری، مفتی مولانا: (ج-۶)۳۹۵۱
محمد صدیق: (ج-۶)۳۴۱۷-۳۴۱۸، (ج-۹)۵۱۸۱
محمد صدیق احمد ضیاء: (ج-۱۰)۶۰۹۴
محمد صدیق السندی (والد قاضی احمد دمائی): (ج-۶) ۳۴۷۷-۳۴۷۸، ۳۴۸۳
محمد صدیق اوبھی (بدین): (ج-۶)۳۶۸۹
محمد صدیق اوکاڑوی، صوفی: (ج-۱۰)۵۸۵۹-۵۸۶۰
محمد صدیق بدخشی کشمی، خواجہ: (ج-۱)۲۹۴، ۴۲۸، (ج-۲) ۴۲۸، (ج-۳) ۱۳۷۳، ۱۴۵۳، ۱۸۰۹، (ج-۴) ۱۹۴۱، ۲۳۸۴، ۲۴۱۵، ۲۴۲۶، ۲۴۳۶، (ج-۵) ۲۶۰۸-۲۶۰۹، ۲۶۲۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۸، (ج-۸) ۴۵۷۹، ۴۷۱۳، ۴۹۱۸، (ج-۹) ۵۰۲۶، ۵۲۴۹، ۵۴۸۹، ۵۵۰۴، ۵۵۱۹، (ج-۱۰)۵۶۵۸، ۵۶۷۱، ۶۱۱۵-۶۱۱۶
محمد صدیق پشاوری، خواجہ (فرزند خواجہ عبد الغفور سمرقندی پشاوری): (ج-۱۰)۵۸۶۴-۵۸۶۵، ۵۸۶۷
محمد صدیق پشونی، حافظ: (ج-۶)۳۸۴۱
محمد صدیق، پیر (خانقاہ بھورشریف): (ج-۶)۳۷۹۲
محمد صدیق، خلیفہ (خلیفہ خواجہ سید امین شاہ): (ج-۱۰) ۶۰۰۹
محمد صدیق، خواجہ (نبیرۂ مجدد الف ثانی): (ج-۵)۳۱۱۲، ۳۱۱۵، (ج-۶)۳۱۵۷، ۳۱۹۲، ۳۲۱۲، ۳۹۳۶، (ج-۸)۴۵۳۲، ۴۸۶۸، (ج-۹)۵۵۳۱
محمد صدیق داؤد (مرید گنج کرم کرماں والے): (ج-۱۰) ۶۰۷۶
محمد صدیق سربندی، شیخ: (ج-۱۰)۵۸۷۹

محمد صدیق، شیخ: ۵۵۵۳

محمد صدیق فانی، ابوکلیم: (ج۔۷) ۳۱۹۳، ۴۳۲۳

محمد صدیق مجاہد: (ج۔۶) ۳۷۹۹

محمد صدیق مجددی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۹۳

محمد صدیق محبوب الٰہی، شیخ: (ج۔۴) ۲۱۸۶

محمد صدیق مستونگی نقشبندی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۱۲، ۳۷۳۰، ۳۷۳۲، ۳۷۴۷، ۳۷۵۱۔۳۷۵۲، ۳۷۵۴، (ج۔۱۰) ۵۹۵۶، ۵۹۵۸

محمد صدیق (مکتوب الیہ امام ربانی): (ج۔۱۰) ۵۷۲۰

محمد صدیق، ملا: ۵۳۹۹

محمد صدیق، میاں (صوفی نواب شاہ): (ج۔۶) ۳۶۹۴

محمد صدیق میر، پیر: (ج۔۶) ۳۳۰۱

محمد صدیق نقشبندی (خلیفہ شاہ غلام حسن): (ج۔۶) ۳۸۶۸

محمد صدیق نقشبندی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

محمد صدیق ہزاروی، علامہ: (ج۔۷) ۴۴۷۸، (ج۔۸) ۴۴۸۸، ۴۶۱۹، (ج۔۹) ۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

محمد صغیر الدین صدیقی، ابو الفتح ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۱۲۴، ۶۱۲۶، ۶۱۳۱، ۶۲۷۳

محمد صفی اللہ مجددی، خواجہ: ۳۳۰۹، ۳۳۱۲، ۳۳۲۶۔۳۳۲۷

محمد صلاح: (ج۔۴) ۲۲۶۰، ۲۳۸۳، ۲۴۱۳، ۲۴۱۹، ۲۴۳۱، ۲۴۵۶

محمد صلاح، شیخ (فرزند شیخ زکریا شہید میاں): (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

محمد صوفی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۶۱

محمد ضیاء الحق، جنرل: (ج۔۶) ۳۵۹۶

محمد ضیاء الحق سرہندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۵۳۱، ۳۵۳۸

محمد ضیاء الدین مدنی، مفتی: (ج۔۵) ۲۹۰۰

محمد ضیاء اللہ روح الامین، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۷۹۷

محمد طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۹۶۶

محمد طاہر بدخشی، مولانا: (ج۔۲) ۷۹۵، (ج۔۴) ۲۴۲۸، (ج۔۱۰) ۶۲۰۰

محمد طاہر بن عبداللہ بن مصطفیٰ، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۳۲، ۳۲۴۱

محمد طاہر بندگی لاہوری، خواجہ: (ج۔۵) ۲۶۱۲، (ج۔۶) ۳۱۶۶، ۳۷۶۵، (ج۔۷) ۴۲۰۵، ۴۴۴۶، ۴۴۵۰، (ج۔۸) ۴۶۰۵، ۴۶۰۹، ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۱۸۹، ۵۴۸۹، ۵۵۲۷

محمد طاہر عثمانی کریمی مجددی نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۶

محمد طاہر فاروقی، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۵۸۱۱

محمد طاہر لاہوری، مولانا: (ج۔۱) ۴۴۷، ۴۴۹، (ج۔۲) ۷۶۷، (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۲۸۰، ۲۴۳۴، ۲۴۳۹، (ج۔۵) ۲۵۷۱، ۲۸۰۶، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۷۶۷

محمد طاہر مظہری، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۳۹۲، ۳۶۴۴، (ج۔۱۰) ۶۴۹۳

محمد طفیل احمد نقشبندی: (ج۔۶) ۳۷۰۷

محمد طفیل (القول السدید ماہنامہ): (ج۔۱۰) ۶۴۴۴

محمد طفیل، قاری: (ج۔۶) ۳۶۸۳، ۳۹۳۰

محمد طنطاوی ازہری، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۸۳

محمد طٰہٰ خان، پروفیسر: (ج۔۶) ۳۸۵۶

محمد طیب قافلاتی، مغربی مالکی: (ج_۷) ۲۶۸۱، (ج_۶) ۳۱۸۴

محمد ظاہر شاہ: (ج_۶) ۳۳۴۲

محمد ظفر احمد نقشبندی، قاری: (ج_۲) ۴۸۲، (ج_۵) ۲۵۳۰، (ج_۶) ۳۱۲۲، ۳۱۳۰، ۳۲۵۷، ۳۶۵۰، ۳۷۰۷، (ج_۷) ۳۹۸۶، (ج_۸) ۴۴۸۲، (ج_۱۰) ۵۵۸۶

محمد ظفر اقبال عابد شاہ، صاحبزادہ پیر سید: (ج_۱۰) ۶۴۳۳

محمد ظفر اقبال نوری، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۶۰۹۷_۶۰۹۸، ۶۴۳۵

محمد ظفر الدین قادری رضوی بہاری، مولانا: (ج_۵) ۲۸۷۷، ۲۸۹۵_۲۸۹۶، ۲۹۰۴، ۲۹۰۶، (ج_۶) ۳۹۶۶

محمد ظفر خاں، حکیم: (ج_۶) ۳۶۲۷، ۳۶۴۴

محمد ظفر شرقپوری، کمانڈر: (ج_۱) ۳۴، (ج_۵) ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۱۳۰، ۳۲۷۰، (ج_۱۰) ۶۳۳۰، ۶۴۹۳_۶۴۹۴

محمد ظہور الحسین فاروقی نقشبندی مجددی: (ج_۵) ۲۹۰۰، ۲۹۱۱

محمد ظہیر الدین بھٹی: (ج_۱۰) ۵۸۸۶

محمد عاصم اعظمی، ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۶۲۹۲

محمد عابد انصاری سہوانی، مخدوم: (ج_۶) ۳۵۲۰

محمد عابد بگھیو، علامہ: (ج_۶) ۳۶۹۶

محمد عابد جان (فرزند حافظ محمد ہاشم جان سرہندی): (ج_۶) ۳۶۶۶

محمد عابد سنامی، شاہ: (ج_۱۰) ۵۸۹۳

محمد عابد سندھی مہاجر مدنی، مولانا: (ج_۱) ۹۷، (ج_۵) ۲۶۸۴، ۲۶۸۸، ۲۶۹۶، ۲۸۸۴، (ج_۶) ۳۱۹۹، ۳۴۴۹، ۳۶۲۰_۳۶۲۲

محمد عابد سھونی، شیخ: (ج_۶) ۳۴۴۰

محمد عابد شاہ پشاوری، سید میر: (ج_۱۰) ۵۸۷۴

محمد عابد نقشبندی: (ج_۶) ۳۹۸۲

محمد عادل، پروفیسر ڈاکٹر حافظ: (ج_۵) ۲۷۲۶

محمد عادل شاہ (مصنف): (ج_۱۰) ۵۹۴۷

محمد عارف اظہر، پروفیسر: (ج_۱) ۲۵، ۲۷، (ج_۳) ۱۴۲۰، ۱۸۸۵، (ج_۴) ۱۹۱۶

محمد عارف اللہ میرٹھی، علامہ شاہ: (ج_۵) ۲۹۱۳

محمد عارف حسین، پیر (خانقاہ لکھن): (ج_۶) ۳۷۸۶

محمد عارف حسین، مولانا: (ج_۱۰) ۶۴۳۲

محمد عارف، خواجہ: (ج_۳) ۱۷۶۳، (ج_۴) ۲۲۴۷، ۲۲۴۹، ۲۲۶۰، ۲۳۳۰_۲۳۳۱، ۲۴۱۳

محمد عارف ریوگری، خواجہ: (ج_۱) ۱۸۴، (ج_۴) ۲۲۴۶، ۲۲۵۹، (ج_۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۶، (ج_۱۰) ۶۱۰۸

محمد عارف سیوستانی مخدوم (دادو): (ج_۶) ۳۶۹۰

محمد عارف شیخ: (ج_۸) ۴۸۵۷

محمد عارف ضیائی، شیخ: (ج_۵) ۲۹۰۰، ۲۹۰۵، (ج_۱۰) ۵۶۹۲

محمد عارف محمود مہجور رضوی، سید: (ج_۱۰) ۵۹۸۸

محمد عارف، مخدوم (خلیفہ مخدوم عبد الواحد سیوستانی): (ج_۶) ۳۵۲۴

محمد عارف مسعودی: (ج_۱۰) ۶۴۳۰

محمد عارف میمن (مرید شاہ مفتی محمود الوری): (ج۔۶) ۳۶۳۰

محمد عاریجو، مولانا (استاد سید راشد روضے دھنی): (ج۔۶) ۳۵۶۴

محمد عاشق پھلتی (خلیفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی): (ج۔۱۰) ۵۷۶۲_۵۷۶۳

محمد عاشق حسین مجددی، صاحبزادہ سید: (ج۔۱) ۳۴، ۴۰۳، (ج۔۵) ۲۵۵۸، ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۳۴۱_ ۳۳۴۲، ۳۳۶۰، (ج۔۱۰) ۶۱۶۲

محمد عاشور بخاری: (ج۔۴) ۲۲۸۴

محمد عاصم مسعودی: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد عاطف: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد عاقل چشتی مظہری، حکیم: (ج۔۶) ۳۶۴۲

محمد عاقل، مخدوم (فرزند مخدوم احمدی): (ج۔۶) ۳۴۳۱، ۳۴۴۱، ۳۵۶۴_ ۳۵۶۵، ۳۵۶۹_ ۳۵۷۰، ۳۶۹۵، ۳۷۰۴

محمد عالم: (ج۔۶) ۳۷۲۳

محمد عالم الدین نقشبندی، مفتی: (ج۔۴) ۲۲۲۰

محمد عالم آسی امرتسری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۶۵، ۵۹۷۱

محمد عالم سیالکوٹی، مولانا حافظ: (ج۔۱۰) ۵۸۰۴

محمد عالم مختار حق: (ج۔۱) ۱، ۲، ۳۰_ ۳، ۴۶، ۵۰، ۶۷، (ج۔۲) ۴۸۱_۴۸۲، (ج۔۴) ۱۸۹۰، ۲۱۰۹، ۲۲۰۰، ۲۵۲۵، (ج۔۵) ۲۵۲۹_ ۲۵۳۰، ۲۵۳۶_ ۲۵۳۷، ۲۵۶۴، ۲۶۲۶، ۲۷۲۳، (ج۔۶) ۳۱۲۲، ۳۶۸۴، (ج۔۷) ۳۹۸۵_۳۹۸۶، ۴۰۰۷، (ج۔۸) ۴۴۸۱، ۴۸۶۲، ۴۴۸۲، ۴۹۲۵، (ج۔۹) ۴۹۹۳_ ۴۹۹۴، (ج۔۱۰) ۵۵۸۵_ ۵۵۸۶

محمد عامر: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد عامر بیگ، پروفیسر: (ج۔۷) ۴۴۷۹، (ج۔۸) ۴۴۸۹، ۴۹۱۱،

محمد عباس علی خاں، حافظ حاجی: (ج۔۱۰) ۶۳۷۵

محمد عباس مجددی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۷

محمد عباس مروی، حاجی: (ج۔۶) ۳۷۲۷_۳۷۲۸

محمد عباسی، میر: (ج۔۶) ۳۵۱۶

محمد عبدالاحد: (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۷۵، (ج۔۶) ۳۹۶۶

محمد عبدالاحد (محشی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۳

محمد عبدالباقی، علامہ (سہون شریف): (ج۔۶) ۳۶۹۶

محمد عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۸۱

محمد عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۸۵

محمد عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری، علامہ: (ج۔۱) ۲۱، ۲۹، ۳۲، (ج۔۲) ۴۸۸، (ج۔۳) ۱۴۰۱، ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۱۹۹۴، ۲۰۰۰، ۲۰۱۷، ۲۴۷۶، ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۲۵۸۱، ۲۹۰۷، ۲۹۱۰، (ج۔۶) ۳۶۴۴، ۳۹۵۹، ۳۹۶۶، (ج۔۹) ۵۰۰۷، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۲۱، ۶۳۲۸، ۶۳۳۲، ۶۳۸۱

محمد عبدالحکیم سیالکوٹی، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۰۰، (ج۔۱۰) ۵۶۷۶

محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ: (ج۔۱) ۲۵، (ج۔۳) ۱۶۰۳، ۱۸۷۴، (ج۔۵) ۲۹۰۷_ ۲۹۰۸، (ج۔۶) ۳۲۵۰، ۳۳۳۹، ۳۳۷۶، ۳۶۴۴، ۳۷۰۶_ ۳۷۰۷، ۳۹۱۲، (ج۔۷) ۴۰۱۲، ۴۴۷۹، (ج۔۸) ۴۷۸۹، (ج۔۹) ۵۰۱۵، (ج۔۱۰) ۵۹۶۷، ۶۲۴۵، ۶۳۳۹،

۶۴۴۰

محمد عبدالحکیم مستونگی (نقشبندی صوفی بلوچستان): (ج۔۱۰) ۵۹۵۳

محمد عبدالحیٔ کتانی، علامہ سید: (ج۔۵)۲۶۹۳

محمد عبدالحیٔ لکھنوی، مولانا: (ج۔۵)۲۶۸۵

محمد عبدالخالق نقشبندی: (ج۔۶)۳۹۳۱

محمد عبدالرحمٰن بن عمر: (ج۔۲)۵۱۸

محمد عبدالرحمٰن، خواجہ: (ج۔۶)۳۷۸۲

محمد عبدالرسول، خواجہ: (ج۔۶)۳۷۸۵، ۳۸۰۰

محمد عبدالستار خاں نیازی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۰۱، ۵۸۱۰

محمد عبدالستار طاہر مسعودی، صوفی: (ج۔۱)۲، (ج۔۲)۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، ۲۹۱۳، ۳۱۲۰، (ج۔۶) ۳۱۲۲، ۳۱۳۲، ۳۳۷۷، ۳۶۳۸، ۳۶۴۱، ۳۷۰۶، ۳۹۳۸، (ج۔۸) ۴۴۸۲، (ج۔۹) ۴۹۹۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۶۸، ۶۳۳۹، ۶۳۹۹، ۶۴۳۰، ۶۴۹۲_۶۴۹۴

محمد عبدالسلام، صاحبزادہ: (ج۔۷ ۴۴۸۰، (ج۔۸) ۴۴۹۰، ۴۹۲۹

محمد عبدالشکور: ۵۰۲۸

محمد عبدالعزیز خان: (ج۔۱۰)۶۲۹۴

محمد عبدالعلی عثمانی، مولانا خواجہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۴

محمد عبدالعلیم صدیقی، مولانا: (ج۔۵)۲۹۰۴

محمد عبدالغفار رحمت پوری (صوفی لاڑکانہ): (ج۔۶) ۳۶۹۶

محمد عبدالغفار فضلی، خواجہ: ۵۵۸۴

محمد عبدالغفار نقشبندی، خواجہ مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۱۷

محمد عبدالقادر قادری برکاتی، شاہ مولانا: (ج۔۵)۲۸۸۱

محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری، مفتی: (ج۔۲) ۴۹۰، ۱۱۳۱، (ج۔۵)۲۹۱۲

محمد عبدالکریم نقشبندی مجددی، حافظ: (ج۔۵) ۲۷۲۵، ۲۷۲۷، (ج۔۶)۳۷۸۲، (ج۔۱۰)۶۲۰۹_۶۲۱۱

محمد عبداللطیف زکوڑی، پیر: (ج۔۸)۴۸۴۴، ۴۸۵۱

محمد عبداللہ: ۵۲۴۱

محمد عبداللہ اشرفی قصوری، مولانا مفتی: (ج۔۶)۳۷۸۵

محمد عبداللہ پشاوری نقشبندی، حکیم: (ج۔۶)۳۸۶۵

محمد عبداللہ ٹونکی، مفتی: (ج۔۶)۳۷۸۰

محمد عبداللہ جان پشاوری، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۷۲۳، ۵۸۴۶، ۶۱۰۸، ۶۱۲۲، ۶۳۷۳

محمد عبداللہ جان سندھی مجددی: (ج۔۵)۲۶۲۰

محمد عبداللہ جان نقشبندی ابوالخیر: (ج۔۶)۳۸۳۰، ۳۸۸۲

محمد عبداللہ حکیم: (ج۔۶) ۳۷۴۸_۳۷۴۹، ۳۷۵۲، ۳۷۵۴

محمد عبداللہ، خواجہ: (ج۔۲)۸۲۷، (ج۔۷)۴۱۳۶

محمد عبداللہ درخانی نقشبندی مجددی، مولانا: (ج۔۶)۳۷۳۷

محمد عبداللہ رام پوری، مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۵۶

محمد عبداللہ سلطان پوری ملا: (ج۔۴)۲۰۰۱

محمد عبداللہ، سید ڈاکٹر: (ج۔۱۰)۵۹۷۳

محمد عبداللہ، شیخ: (ج۔۴)۲۱۸۲

محمد عبداللہ قادری، سید: (ج۔۷)۴۴۷۹، (ج۔۸)۴۸۴۱، ۴۸۴۳، ۴۴۸۹

محمد عبداللہ قادری، مولانا حافظ: (ج۔۵) ۲۸۸۲
محمد عبداللہ قریشی: (ج۔۵) ۳۰۱۲، ۳۰۴۲
محمد عبداللہ قریشی: (ج۔۶) ۳۹۶۶
محمد عبداللہ قصوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۰۴
محمد عبداللہ قندھاری، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۵۶
محمد عبداللہ، میر (عرف پیر بارو): (ج۔۱۰) ۵۹۰۵، ۵۹۰۸
محمد عبداللہ نعیمی، مفتی: (ج۔۶) ۳۴۵۰، ۳۵۱۴، ۳۶۶۶
محمد عبداللہ نقشبندی مجددی: (ج۔۸) ۴۶۵۷
محمد عبداللہ نقشبندی محدث دکن، سید: (ج۔۱۰) ۶۳۲۶
محمد عبدالمجید بن علی زبادی فاسی، شیخ: (ن۔۶) ۳۲۱۱
محمد عبدالمجید، شیخ (معصوم دہلوی): (ج۔۶) ۳۱۵۸
محمد عبدالمجید یزدانی: (ج۔۱) ۲۰
محمد عبدالواحد: (ج۔۱۰) ۶۲۹۴
محمد عبدالواحد، حافظ خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۲۳
محمد عبیداللہ اسعدی، مولانا: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۴) ۲۱۹۹، (ج۔۶) ۳۹۶۶
محمد عبیداللہ سرہندی بن خواجہ محمد معصوم: (ج۔۵) ۲۶۶۱، ۲۶۶۶، ۲۷۶۰، ۲۸۰۲، (ج۔۶) ۳۲۱۷، (ج۔۹) ۵۵۳۱، ۵۵۴۶_۵۵۴۷، ۵۵۵۲_۵۵۵۴، (ج۔۱۰) ۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۷۷۰، ۵۷۷۹، ۵۸۸۵، ۵۸۹۲، ۶۲۹۵_۶۲۹۶، ۶۳۵۶، ۶۳۷۱
محمد عتیق، ابوالقاسم: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۴۰
محمد عتیق الرحمٰن: (ج۔۷) ۴۲۸۰، ۴۴۷۴
محمد عثمان: (ج۔۹) ۵۵۳۷، (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
محمد عثمان بلالانی، فقیر: (ج۔۶) ۳۵۳۵
محمد عثمان پشاوری، مولوی (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۱
محمد عثمان دامانی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۸۲، ۳۹۱۸_۳۹۲۱، (ج۔۱۰) ۵۸۸۲، ۵۸۹۷_۵۸۹۸، ۵۹۰۱، ۵۹۰۴، ۵۹۴۱_۵۹۴۳، ۶۰۴۳_۶۰۴۴، ۶۰۵۴
محمد عثمان سراج الدین، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۱۰، (ج۔۶) ۳۲۸۹
محمد عثمان شاہ، حاجی: (ج۔۶) ۳۶۰۳
محمد عثمان شیخ: (ج۔۳) ۱۸۷۳
محمد عثمان کچلاغی، حاجی: (ج۔۶) ۳۷۲۷_۳۷۲۸
محمد عثمان کوہاٹی، سید (فرزند سید عبداللہ حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۷
محمد عثمان مکرانی، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۶۷
محمد، عثمان مولانا: (ج۔۶) ۳۶۱۰
محمد عثمان نقشبندی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۳۰، ۳۸۵۲، ۳۸۸۵_۳۸۸۷
محمد عثمان ہزاروی: (ج۔۱۰) ۵۸۷۸
محمد عزیز الرحمٰن نقشبندی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۴_۳۸۵۵
محمد عزیز بن خواجہ محمد صدیق، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۸۶۳
محمد عزیز مولانا بن میاں گوہر علی: (ج۔۶) ۳۷۸۵
محمد عطار علاء الدین (مرید محمد بہارالدین نقشبند): (ج۔۶) ۳۶۵۳
محمد عظیم آخوند، ملا: (ج۔۶) ۳۷۲۰
محمد عظیم رئیسانی، حاجی: (ج۔۶) ۳۷۳۷
محمد عظیم، صاحبزادہ ملا: (ج۔۱) ۲۸۲، (ج۔۶) ۳۷۲۳_

۳۷۲۴، ۳۷۶۷، (ج_۱۰) ۵۹۵۳

محمد عظیم گنجوی واعظ، حافظ: (ج_۶) ۳۸۳۰، ۳۸۴۳، ۳۸۸۷_۳۸۸۹، ۳۸۹۱_۳۸۹۴

محمد عظیم مجددی، مولانا: (ج_۱۰) ۶۰۳۵

محمد عظیم، مولوی: (ج_۶) ۳۷۳۷

محمد علان، شیخ: (ج_۵) ۲۷۴۰

محمد علاء الدین الحنفی الحصکفی: (ج_۶) ۳۱۶۱، ۳۹۶۶

محمد علاء الدین، خواجہ: (ج_۴) ۲۲۵۰

محمد علم الدین فریدکوٹی، مولانا: ۵۵۷۵

محمد علوی مالکی، سید: (ج_۵) ۲۹۱۳

محمد علی الدین، شیخ: (ج_۶) ۳۲۸۵

محمد علی بیضون: (ج_۷) ۴۴۷۶، (ج_۹) ۵۰۲۰، (ج_۱۰) ۶۲۰۶_۶۲۰۸

محمد علی تالپور، حاجی: (ج_۶) ۳۶۹۲

محمد علی ترمذی، امام: (ج_۷) ۴۰۹۸

محمد علی جناح (قائد اعظم): (ج_۳) ۱۸۳۸، ۱۸۸۶، (ج_۴) ۲۱۶۶، ۲۲۰۲، ۲۵۵۲، ۲۸۹۹_۲۹۰۰، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۵۳۳_۳۵۳۶، ۳۵۵۰_۳۵۵۱، ۳۷۷۲، ۳۸۰۲، (ج_۷) ۴۰۰۹، ۴۲۰۰، (ج_۹) ۵۰۱۲، ۵۵۶۷_۵۵۶۹، ۵۵۷۲_۵۵۷۶، (ج_۱۰) ۵۵۸۹، ۵۶۱۵، ۵۶۱۷، ۶۰۸۰، ۶۰۹۳، ۶۰۹۷

محمد علی جوہر، مولانا: (ج_۶) ۳۳۳۶، ۳۴۸۹، ۳۵۳۴، ۳۷۵۶، (ج_۱۰) ۵۹۵۵.

محمد علی چوہدری: (ج_۴) ۲۰۸۳، ۲۱۶۶، (ج_۶) ۳۹۶۶

محمد علی، حاجی (خادم دربار عالیہ راولپنڈی): (ج_۱۰) ۵۹۴۷

محمد علی خان، سردار: (ج_۶) ۳۴۹۵

محمد علی دستار، شیخ: (ج_۶) ۳۴۸۰

محمد علی رضوی، علامہ سید: (ج_۱۰) ۶۰۷۳

محمد علی شاہ بخاری، سید (کرماں والے): (ج_۶) ۳۷۸۹، (ج_۱۰) ۶۰۷۷_۶۰۷۸

محمد علی صدیقی نقشبندی، خواجہ صوفی: (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۶) ۳۹۶۶، (ج_۱۰) ۵۹۱۲

محمد علی طالب بکھری: (ج_۶) ۳۶۹۶

محمد علی عیون السعود، شیخ: (ج_۶) ۳۲۴۵

محمد علی (فرزند شیخ شہباز مومندی): (ج_۱۰) ۵۸۷۰

محمد علی کشمیری: (ج_۴) ۲۰۴۲

محمد علی لطفی: (ج_۶) ۳۹۴۸

محمد علی لغاری، حاجی: (ج_۶) ۳۶۹۳

محمد علی مجددی، میاں: (ج_۶) ۳۶۹۲

محمد علی مدنی، شیخ: (ج_۶) ۳۵۹۵

محمد علی مغربی: (ج_۵) ۲۷۰۲، (ج_۶) ۳۹۶۶

محمد علی مونگیری، سید مولانا: (ج_۱) ۴۵، (ج_۵) ۲۸۷۸، ۲۸۸۵، ۲۹۰۱، (ج_۶) ۳۷۸۰، (ج_۹) ۵۲۰۳، (ج_۱۰) ۵۶۹۲

محمد علی مینار (رفیق قائداعظم): (ج_۶) ۳۵۵۱، (ج_۹) ۵۵۷۲

محمد علی نقشبندی مجددی، صوفی: (ج_۵) ۲۶۲۹، (ج_۷) ۴۰۶۲، ۴۴۷۳، (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۵۹۴_۵۹۹۵، ۵۹۹۹، ۶۰۰۴، ۶۴۳۳، ۶۴۴۳

محمد علیم الدین نقشبندی مجددی، مفتی: (ج۔۱)۱۳، ۲۰، ۲۶، (ج۔۳) ۱۷۴۷، (ج۔۶) ۳۹۶۶-۳۹۶۷، (ج۔۷) ۴۴۷۱، (ج۔۸)۴۵۰۵، (ج۔۱۰)۵۷۳۱

محمد علیم جلال آبادی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۶۵، ۵۸۸۷

محمد عمانی بصری (والیٔ بصرہ): (ج۔۶)۳۹۱۷

محمد عمدیہ سہروردی: (ج۔۸)۴۸۶۲،

محمد عمر اچھروی، مولانا: (ج۔۱۰)۶۰۷۶

محمد عمر استانبولی، علامہ ضیاء الدین: (ج۔۶)۳۷۸۱

محمد عمر بن ابراہیم نیشاپوری: (ج۔۴)۲۴۵۵

محمد عمر بیربلوی، صاحبزادہ: (ج۔۱)۱۰، ۱۹، ۱۵۱

محمد عمر پشاوری، شیخ: (ج۔۶)۳۸۶۱

محمد عمر جان اویسی بنوری نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱۰)۵۹۵۸

محمد عمر جان چشموی: (ج۔۱۰)۵۹۵۷

محمد عمر جان مجددی (حیدر آباد): (ج۔۶)۳۴۴۲، ۳۶۹۲

محمد عمر جان نقشبندی، خواجہ: (ج۔۶)۳۷۴۷

محمد عمر چمکنی نقشبندی (میاں چمکنی): (ج۔۶) ۳۷۱۲، ۳۷۲۲، ۳۷۲۸، ۳۷۳۳-۳۷۳۴، ۳۷۳۶-۳۷۳۷، ۳۷۳۹-۳۷۴۰، ۳۷۴۳، ۳۸۳۰، ۳۸۶۵، ۳۸۷۱، ۳۸۹۴-۳۸۹۷، ۳۹۰۴-۳۹۰۵، (ج۔۱۰) ۵۸۶۴، ۵۸۶۸، ۵۸۷۴، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۸۶، ۵۹۳۱-۵۹۳۳، ۵۹۴۶، ۵۹۵۲

محمد عمر، حافظ (فرزند شیخ شہباز مومند ہی): (ج۔۱۰) ۵۸۷۰

محمد عمر خلجی قادری، مفتی: (ج۔۱۰)۶۴۳۸

محمد عمر دہلوی، شاہ: (ج۔۱۰)۶۱۷۹، ۶۱۸۲، ۶۲۵۹

محمد عمر، ڈاکٹر: (ج۔۵)۲۷۷۶، ۲۷۷۸، ۲۷۹۲، (ج۔۱۰) ۵۸۳۲، ۵۸۳۴

محمد عمر رئیسانی، مولانا: (ج۔۶)۳۷۳۱

محمد عمر زمخشری، علامہ: (ج۔۶)۳۹۶۶

محمد عمر سومرو، حاجی: (ج۔۶)۳۷۳۵

محمد عمر (شاگرد، مولانا غلام محمد قریشی): (ج۔۶)۳۸۷۰

محمد عمر، شاہ: (ج۔۵)۲۵۸۲، ۲۶۹۴، (ج۔۹)۵۳۴۱

محمد عمر، شیخ: (ج۔۹)۵۵۵۲

محمد عمر، صاحبزادہ (پوتا خواجہ غلام مرتضیٰ بیربلوی): (ج۔۶) ۳۷۷۴، (ج۔۱۰)۶۰۷۶

محمد عمر، صاحبزادہ (خلیفہ میاں شیر محمد شرقپوری): (ج۔۶) ۳۷۷۰

محمد عمر فاروق (بی۔ایس۔سی): (ج۔۱۰)۶۴۴۴

محمد عمر فاروقی مجددی، آغا (فرزند شاہ ابوسعد سالم فاروقی): (ج۔۱۰)۵۹۵۶

محمد عمر فاروقی مجددی، شاہ (والد شاہ ابوالخیر فاروقی مجددی): (ج۔۱۰)۵۹۵۴

محمد عمر کوٹی، مجذوب (تھرپارکر): (ج۔۶)۳۶۹۱

محمد عمر کوہاٹی، سید (فرزند سید عبد اللہ حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰)۵۸۶۷

محمد عمر مجددی دہلوی، شاہ: (ج۔۱۰)۶۱۷۲

محمد عمر، مولانا (مرید خواجہ عمر جان نقشبندی): (ج۔۱)۴۵۷، (ج۔۶)۳۷۴۷، ۳۳۷۸

محمد عمر، مولانا (استاد شاہ ابو السعد سالم فاروقی مجددی): (ج۔۶)۳۷۶۰

محمد عمر نعیمی مرآدآبادی، مفتی: (ج۔۶)۳۶۴۹، ۳۶۶۷، ۳۶۶۹

محمد عمر نقشبندی، شیخ: (ج۔۴)۲۶۵۷

محمد عمیر صدیقی: (ج۔۱۰)۶۴۳۲

محمد عوض گلزاری، حاجی: (ج۔۶)۳۷۲۷۔۳۷۲۸، ۳۷۳۴

محمد عیسیٰ: (ج۔۱)۴۲۶، (ج۔۲)۱۳۷۲، (ج۔۴)۲۲۶۴

محمد عیسیٰ، خواجہ: (ج۔۲) ۵۰۹۔۵۱۰، (ج۔۶) ۳۹۰۶، (ج۔۸) ۴۶۰۴، ۴۶۰۶۔۴۶۰۸، (ج۔۱۰) ۵۶۷۲، ۵۹۳۶

محمد عیسیٰ سید (خلیفہ سید جمال اللہ): (ج۔۶)۳۸۸۰

محمد عیسیٰ، شیخ: (ج۔۳) ۱۴۵۰، (ج۔۴) ۲۳۹۵، (ج۔۹) ۵۰۲۵، ۵۴۸۸، ۵۵۳۷

محمد عیسیٰ قندھاری، ملا: (ج۔۶)۳۷۲۴۔۳۷۲۵

محمد عیسیٰ گورمانی (مصنف چشمہ حیات): (ج۔۱۰)۵۸۹۴

محمد عیسیٰ مجددی، میاں: (ج۔۱۰)۵۸۷۷

محمد غزی، شیخ (مفتی شافعیہ): (ج۔۶)۳۱۸۲

محمد غفران، مرزا: (ج۔۶)۳۹۱۰

محمد غلام رسول قادری، حافظ مولانا: (ج۔۵)۲۶۸۱

محمد غلام مجدد: (ج۔۹)۵۵۵۴۔۵۵۵۵

محمد غنی، حضرت جی: (ج۔۹)۵۳۲۲

محمد غوث، سید شاہ: (ج۔۶)۳۴۳۳، ۳۹۰۴

محمد غوث، شیخ: (ج۔۹)۵۳۲۰

محمد غوث صدیقی مرغزی: (ج۔۱۰)۵۱۰۷۸

محمد غوث، علامہ سید تخی شاہ: (ج۔۶)۳۸۶۲۔۳۸۶۳

محمد غوث قادری پشاوری، سید شاہ: (ج۔۵) ۲۹۰۵، (ج۔۱۰)۵۸۷۳

محمد غوث قادری نقشبندی لاہوری، شاہ: (ج۔۱۰)۵۸۸۹، ۵۸۹۱

محمد غوث گوالیاری، شاہ: (ج۔۳) ۱۶۳۸، (ج۔۴) ۱۹۹۱، (ج۔۸) ۴۹۰۹، (ج۔۹) ۵۳۱۹، ۵۳۲۱، ۵۳۲۲، (ج۔۱۰)۵۸۲۹، ۵۸۵۷، ۵۸۶۸

محمد غوث لاہوری، شاہ: (ج۔۸)۴۸۶۸، (ج۔۱۰)۵۸۶۸

محمد غوث (مرشد عبدالقادر، سلسلۂ قادریہ): (ج۔۶) ۳۵۶۷

محمد غوثی مانڈوی، مولانا: (ج۔۴) ۲۲۰۸، ۲۲۲۲، (ج۔۶) ۳۹۶۷، (ج۔۱۰)۵۹۲۴

محمد فاتح، سلطان: (ج۔۵)۲۶۸۶

محمد فاخر عباسی الٰہ آبادی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵

محمد فاروق: (ج۔۶)۳۶۱۳

محمد فاروق ابن ابوالقاسم: (ج۔۶)۳۷۰۶

محمد فاروق القادری، پروفیسر سید: (ج۔۲)۷۳۷، (ج۔۵) ۲۹۱۱

محمد فاروق، خواجہ (فرزند مولانا خواجہ عبد الغفور سمرقند پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۶۴

محمد فاضل اعوان مکھڈی، میاں: (ج۔۱۰)۵۹۴۳

محمد فاضل پاپینی، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۹۶، (ج۔۱۰) ۵۸۷۰، ۵۸۸۹

محمد فاضل جان، مولانا: (ج۔۶)۳۷۱۲، ۳۷۵۴

محمد فاضل دُرخانی (عالم و صوفی نقشبندی بلوچستان):

(ج_٦)٣٧٣٢، ٣٧٣٧، (ج_١٠)٥٩٥٣

محمد فاضل سندھی نقشبندی: (ج_٦)٣٨١٤

محمد فاضل (شاگرد شاہ فقیر اللہ علوی): (ج_٦)٣٥٦٠

محمد فاضل، ابو عبداللہ: (ج_٨)٤٥٧١

محمد فاضل، مولانا (معتقد شیخ سعدی لاہوری): (ج_٦) ٣٨٩٦

محمد فتحی خضر: (ج_٥)٢٦٧٤

محمد فدا علی طالب، مولوی: (ج_٩) ٥١٥٥، (ج_١٠) ٥٩٢٤

محمد فرخ، خواجہ: (ج_١)٤٢٦، (ج_٢)٥٠٨، ٥١٠، ٧٠٤، (ج_٣)١٣٧٢، ١٤٥٠، (ج_٤)٢٢٦٤، ٢٣٩٥، ٢٤٣٩، ٢٤٥٣_٢٤٥٤، ٢٧٩٩، ٢٨٠٤، (ج_٦) ٣٤٣٩، ٣٤٤٤، ٣٩٦٠، ٣٩٦٧، (ج_٨) ٤٦٠٢_٤٦٠٤، ٤٦٠٦_٤٦٠٨، ٤٦١٣، ٤٩٧٥.. ٤٩٧٦، (ج_٩) ٥٠٢٥، ٥٤٨٨، ٥٤٩٧، (ج_١٠)٥٦٠٢، ٥٦٨٢

محمد فرخ مجددی بن خواجہ محمد سعید، خواجہ: (ج_١٠)٥٧٥٨

محمد فرمان، پروفیسر: (ج_٣) ١٢٩٨، (ج_٤) ٢١٥٣، (ج_٥) ٢٦١٤، (ج_٦) ٣٩٦٧، (ج_٩) ٥٠٢٨، ٥١٥٣، ٥٢٥٤، ٥٣٦١، ٥٣٦٣، ٥٤٠٤_٥٤٠٥، (ج_١٠)٦١١٤_٦١١٥، ٦٢٤٣، ٦٣١٢

محمد فرید مجددی، میاں: (ج_٦)٣٦٩١

محمد فضل الرحمٰن: (ج_٢)٧٣٦، (ج_٦)٣٩٦٧

محمد فضل اللہ: (ج_٩)٥٠٤٠

محمد فضل اللہ تورپشتی، خواجہ: (ج_١٠)٦٢٨٨

محمد فضل اللہ، شاہ: (ج_٥)٢٥٧٤، (ج_١٠)٦٢٤٢

محمد فضل اللہ فاروقی سرہندی، شیخ: (ج_١٠)٥٨٦٤، ٥٨٧٢، ٥٨٨٦، ٥٨٩٠

محمد فضل اللہ، مولوی (عرف فیض اللہ): (ج_١٠)٥٨٨٢

محمد فضل اللہ، خواجہ: (ج_٦)٣٤١٨، ٣٤٤٦

محمد فضل اللہ، شیخ (داماد خواجہ معصوم سرہندی): (ج_٥) ٢٦٦١_٢٦٦٢

محمد فضل اللہ عیدروس، شیخ: (ج_٦)٣٢٠٥

محمد فضل اللہ قندھاری، حاجی: (ج_٥)٢٦٦٨

محمد فضل شاہ، پیر (سجادہ نشین نتھیال شریف): (ج_١٠) ٥٩٩٦

محمد فضل علی قریشی نقشبندی مجددی، خواجہ: (ج_١٠)٥٥٩٤، ٦٠٤٣، ٦٠٤٦_٦٠٤٩، ٦٠٥١_٦٠٥٣، ٦٠٦٠_٦٠٦٢، ٦٠٦٦، ٦٠٦٩

محمد فقیر بن عبدالحفیظ: (ج_٦)٣٤٤٣

محمد فقیہ دردمند: (ج_٤)٢٤٦٥

محمد فیروز (والد مولانا نور محمد مدقق): (ج_١٠)٥٨٩١

محمد فیض احمد اویسی رضوی، علامہ: (ج_١) ٢٣، (ج_٢) ٤٩٠، ١٠٩٧، (ج_٣)١٨٧٤، (ج_١٠)٦٠٨٦، ٦٢٤٤، ٦٣٢٣_٦٣٢٤

محمد فیض اللہ، خواجہ (الد خواجہ نور محمد فاروقی چوراہی): (ج_١٠)٥٩٣٦

محمد فیض اللہ تیراہی نقشبندی: (ج_٦) ٣٨٣٠، ٣٨٧٩_٣٨٨٠

محمد فیض علی فیضی: (ج_٦)٣٧٨٨

محمد فیض مجددی نقشبندی، شاہ: (ج_١٠)٦٠٧٢

محمد قاسم بدخشی، خواجہ: (ج۔۸) ۴۷۳۰

محمد قاسم جان نعیمی، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۷۱

محمد قاسم، خواجہ: (ج۔۶) ۳۴۹۵

محمد قاسم شاہ بخاری ٹھٹوی، سید: (ج۔۶) ۳۶۸۸

محمد قاسم کوہاٹی، سید (فرزند سید عبد اللہ حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۷

محمد قاسم کیانی موہڑوی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴۔۵۹۴۵، ۵۹۵۷، ۶۰۰۲

محمد قاسم گڑھی یاسین: (ج۔۶) ۳۶۹۵

محمد قاسم، مولانا: (ج۔۲) ۵۱۰، (ج۔۴) ۲۲۳۳، (ج۔۸) ۴۵۷۰، (ج۔۹) ۵۰۲۴

محمد قاسم موہڑوی، پیر خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۷۲، ۳۷۸۶، ۳۸۰۷۔۳۸۰۸، ۳۸۱۱۔۳۸۱۲، ۳۸۳۵، ۳۸۵۹، ۳۹۲۴، (ج۔۸) ۴۸۶۹

محمد قاسم، وڈیرہ: (ج۔۶) ۳۶۱۱

محمد قاسم ہندو شاہ استر آبادی: (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۸۰، (ج۔۶) ۳۹۶۷

محمد، قاضی شیخ بن عبد الدائم شافعی شاذلی: (ج۔۵) ۲۶۷۸

محمد، قاضی میاں (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

محمد قاضی (شکارپوری): (ج۔۶) ۳۴۴۱

محمد، قاضی (ہمعصر مخدوم عبد الواحد سیوستانی): (ج۔۶) ۳۷۰۲

محمد قرۃ العین نقشبندی مجددی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۶۰۳۱

محمد قزلجی، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۰۵

محمد قزوینی، امام: (ج۔۵) ۲۸۵۴، ۲۸۵۷، (ج۔۶) ۳۹۶۷

محمد قصّاب آملی: (ج۔۹) ۵۳۱۵

محمد قطب بنوری، مولانا سید: (ج۔۱۰) ۵۸۷۰

محمد قطب (احوال العارفین): (ج۔۱۰) ۵۸۹۳

محمد قطب، سید (نبیرہ آدم بنوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۶

محمد قلیج موفق، مولانا: (ج۔۳) ۱۷۴۷

محمد قلیج، مولانا: (ج۔۴) ۲۴۴۱، (ج۔۷) ۴۴۲۲

محمد قلیج، میاں: (ج۔۴) ۲۴۲۲

محمد قمر الدین رضوی، مولانا: (ج۔۲) ۴۸۳

محمد کابلی، خواجہ: (ج۔۸) ۴۹۱۸،

محمد کاظم: (ج۔۵) ۲۷۸۴، ۲۷۹۳

محمد کاظم شکارپوری: (ج۔۶) ۳۶۹۵

محمد کاظم علی خان قادری رزاقی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۷۸، ۲۸۹۲

محمد کاملی، شیخ: (ج۔۵) ۳۱۱۸

محمد کبیر احمد مظہر، سید پروفیسر: (ج۔۹) ۵۵۸۳۔۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۶۹

محمد کبیر علی شاہ چوراہی، سید: (ج۔۱۰) ۶۴۳۱

محمد کتبی حنفی، شیخ سید: (ج۔۵) ۲۶۹۶

محمد کچھوچھوی، مولانا سید محدث: (ج۔۲) ۴۹۰، ۱۲۳۸، (ج۔۵) ۲۹۰۴، (ج۔۶) ۳۶۶۵، (ج۔۱۰) ۵۸۰۵

محمد کریم سطانی، علامہ: (ج۔۲) ۱۲۴۷

محمد کلاہ: (ج۔۴) ۲۲۶۰

محمد کلب علی خاں، نواب: (ج_۶)۳۳۴۱

محمد کلہوڑو، حاجی: (ج_۶)۳۵۸۷

محمد کمال الدین بکری صدیقی، شیخ: (ج_۶)۳۱۷۱، ۳۱۸۸

محمد کمال سنبھلی: (ج_۱)۳۰۵_۳۰۶

محمد کوہستانی خراسانی، شمس الدین: (ج_۶)۳۹۵۱

محمد گجراتی، مولانا: (ج_۴)۲۳۹۴

محمد گلزار، خواجہ: (ج_۵)۳۰۰۷، ۳۰۴۵

محمد گیسودراز، سید: (ج_۲)۶۳۱، (ج_:)۲۹۲۳

محمد لاہوری، ملا حاجی: (ج_۲) ۷۸۵، (ج_۵) ۲۹۴۹،
(ج_۶) ۳۴۸۱، (ج_۷) ۴۴۳۹، (ج_۹) ۵۱۰۱،
۵۱۸۰_۵۱۸۱، ۵۳۰۵

محمد لطیف اللہ، مولانا: (ج_۵)۲۸۸۶

محمد لطیف، حکیم (خلیفہ فیض محمد شاہ قندھاری): (ج_۱۰)
۵۸۵۹

محمد لقمان کوری، خلیفہ: (ج_۶)۳۵۷۰

محمد مآذ، حکیم: (ج_۶)۳۵۳۶

محمد ماورائی، ملا شیخ: (ج_۶)۳۲۶۵

محمد مبارک، شیخ: (ج_۶)۳۹۶۷

محمد مبارک، علامہ: (ج_۵) ۲۶۷۵_۲۶۷۶، ۲۶۸۲_
۲۶۸۳

محمد مبشر احمد، حافظ قاری: (ج_۶)۲۳۸۵

محمد مجتبیٰ خان رامپوری، حاجی: (ج_۵)۲۸۶۲

محمد مجددی بغوی، میاں حاجی: (ج_۱۰)۵۸۸۴_۵۸۸۵

محمد مجددی، ابوالشرف: (ج_۲)۸۸۵

محمد مجددی، شاہ (مرشد فضل احمد معصومی پشاوری): (ج_۱۰)
۵۸۷۷

محمد مجذوب بیابانی (بدین): (ج_۶)۳۶۸۹، ۳۶۰۳

محمد مجیب، پروفیسر: (ج_۵) ۲۵۶۴، ۲۵۷۵، ۲۵۸۰،
(ج_۶) ۳۳۸۷، (ج_۹) ۵۳۸۸، ۵۳۸۹، ۵۳۹۱_
۵۳۹۴، ۵۳۹۶_۵۳۹۷، ۵۳۹۹، ۵۴۰۱_۵۴۰۲،
۵۴۰۴_۵۴۰۶، ۵۴۰۸_۵۴۱۰، ۵۴۱۳، ۵۴۱۹،
(ج_۱۰)۵۸۳۲

محمد مجید الحسن جہلمی، سید: (ج_۵)۲۸۸۲

محمد مجید جیلانی، ایڈووکیٹ: (ج_۱۰)۶۴۳۲

محمد محبوب الٰہی، مولانا: (ج_۵)۲۶۲۷

محمد محبوب عارف، پروفیسر: (ج_۱۰)۶۰۸۷، ۶۰۸۸

محمد محسن بن یحییٰ البکری: (ج_۱۰)۵۷۶۲

محمد محسن ترھٹی، مولانا: (ج_۶)۳۹۶۲

محمد محسن، حافظ خواجہ: (ج_۸)۴۸۶۸، (ج_۱۰)۵۹۰۵

محمد محسن دہلوی، حافظ: (ج_۵)۲۶۶۹، (ج_۱۰)۵۸۹۳،
۶۱۲۳

محمد محسن، سید اسد اللہ شاہ (المعروف مدنی میاں): (ج_۱۰)
۶۰۷۲

محمد محسن شاہ بخاری، سید: (ج_۶)۳۷۴۲

محمد محسن، مولانا: (ج_۱)۹۰، (ج_۶)۳۳۵۲

محمد محفوظ ٹھٹوی، قاضی: (ج_۶)۳۶۸۸

محمد محمود احمد مسعودی، ڈاکٹر: (ج_۶)۳۳۸۶

محمد محمود الوری، شاہ مفتی: (ج_۱) ۶۲، (ج_۶) ۳۳۷۰_
۳۳۷۱، ۳۴۴۹، ۳۴۶۳_۳۴۶۴، ۳۵۳۴_۳۵۳۵،

۴۳۸۲، ۴۳۸۸، ۴۶۵۹، ۴۹۲۵، ۴۹۹۰، (ج_۹) ۴۹۹۳_۴۹۹۴، ۵۰۰۰، ۵۰۶۵، ۵۰۷۰، ۵۵۸۲، ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۵۸۵_۵۵۸۶، ۵۵۹۲، ۵۵۹۵، ۵۶۸۹، ۵۷۶۳، ۶۱۳۷، ۶۲۴۴ _ ۶۲۴۵، ۶۳۳۰_۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۴۳۰

محمد مسعود احمد انور حبیبی، صاحبزادہ سید: (ج_۷) ۴۴۷۲

محمد مسعود احمد، پروفیسر، ڈاکٹر: (ج_۱) ۱، ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۵، ۲۸_۳۲، ۴۱، ۴۵، ۵۰، ۶۲_۶۳، ۶۵_۶۶، ۶۸، ۴۶۲، (ج_۲) ۴۹۰، ۶۹۳_۶۹۴، ۷۷۱، ۸۴۴، ۸۴۷، ۸۴۹، ۸۵۳_۸۵۴، ۱۰۳۳، ۱۰۳۷، ۱۲۴۶، (ج_۳) ۱۳۶۵، ۱۳۶۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۵۱۱، ۱۶۲۱، ۱۶۵۷ _ ۱۶۵۸، ۱۶۶۲_۱۶۶۳، ۱۷۲۱_۱۷۲۲، ۱۸۶۸، ۱۸۷۴، ۱۸۸۶_۱۸۸۷، (ج_۴) ۲۱۹۸، ۲۲۰۸، ۲۲۲۳، ۲۲۷۵، ۲۲۸۹، ۲۴۴۴، ۲۴۵۱، ۲۵۲۵_۲۵۲۷، (ج_۵) ۲۵۳۶_۲۵۳۸، ۲۵۵۹، ۲۵۷۴_۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۶۳۰، ۲۶۹۶، ۲۷۳۲، ۲۸۲۷، ۲۸۳۲، ۲۸۷۵، ۲۸۷۲_۲۸۷۴، ۲۸۸۲، ۲۸۹۵ _ ۲۸۹۶، ۲۹۰۴_۲۹۰۸، ۲۹۱۰_۲۹۱۲، ۲۹۱۴، ۲۹۱۸، ۲۹۲۲، ۲۹۴۳_۲۹۴۶، ۲۹۷۱، ۳۰۱۱، ۳۰۲۰، ۳۰۲۳، ۳۰۲۸_۳۰۲۹، ۳۰۳۸، ۳۰۴۰، ۳۰۴۲_۳۰۴۳، ۳۰۴۵، ۳۰۵۷، ۳۰۶۱، ۳۰۶۴، ۳۱۰۹_۳۱۱۰، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۳۵۸، ۳۳۳۷، ۳۳۳۹، ۳۳۶۷، ۳۳۷۱، ۳۳۷۶، ۳۳۸۴_۳۳۸۶، ۳۳۹۰_۳۳۹۱، ۳۳۹۳، ۳۳۹۵، ۳۳۹۷، ۳۴۳۵، ۳۴۴۷، ۳۴۴۹، ۳۶۲۷، ۳۶۳۳، ۳۶۴۰_۳۶۴۳، ۳۶۴۶، ۳۶۴۸، ۳۶۸۴_۳۶۸۵، ۳۶۸۲، ۳۷۰۶_۳۷۰۸، ۳۷۶۱، ۳۷۷۹، ۳۹۶۷_۳۹۶۸، (ج_۷) ۳۹۸۵، ۴۰۰۷، ۴۱۶۷، ۴۲۲۰، ۴۲۷۶، ۴۲۷۸، ۴۲۷۹، (ج_۸) ۴۳۸۱، ۴۳۸۹، ۴۵۶۴، ۴۵۹۹، ۴۶۰۳، ۴۶۱۶ _ ۴۶۱۷، ۴۶۷۷، ۴۶۷۹، ۴۷۲۸، ۴۷۳۴، ۴۷۴۸، ۴۷۵۶، ۴۷۶۲، ۴۷۶۵، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱، ۴۸۶۳، ۴۸۸۱، ۴۸۹۸، ۴۹۰۱، ۴۹۲۵، ۴۹۳۶ _ ۴۹۳۷، (ج_۹) ۴۹۹۳، ۵۰۲۸، ۵۰۲۸، ۵۰۷۰، ۵۱۶۴، ۵۲۰۳، ۵۳۱۹، ۵۵۷۷، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، (ج_۱۰) ۵۵۸۵، ۵۵۹۲_۵۵۹۳، ۵۶۲۲، ۵۶۲۵، ۵۶۹۴، ۵۶۹۶، ۵۷۵۵، ۵۷۶۳، ۵۸۱۳، ۵۹۰۸، ۶۱۱۰، ۶۱۱۹، ۶۲۴۴، ۶۲۷۳ _ ۶۲۷۵، ۶۳۱۳_۶۳۱۸، ۶۳۲۶، ۶۳۳۲ _ ۶۳۳۳، ۶۳۴۱، ۶۳۴۳، ۶۳۶۰، ۶۳۷۸، ۶۴۲۲، ۶۴۹۲، ۶۴۹۴

محمد مسعود دائم پشاوری، شیخ: (ج_۶) ۳۵۵۵، ۳۵۶۰، (ج_۱۰) ۵۹۵۱

محمد مسعود، شیخ: (ج_۸) ۴۵۵۵، ۴۶۰۵، ۴۹۴۴،

محمد مسعود محدث دہلوی، فقیہ الہند شاہ: (ج_۱) ۶۳، (ج_۵) ۲۹۱۲، (ج_۶) ۳۱۲۵، ۳۳۶۷ _ ۳۳۶۸، ۳۳۷۰_۳۳۷۱، ۳۳۷۳، ۳۳۷۷، ۳۳۹۶، ۳۵۷۴، ۳۶۲۳، ۳۶۲۶، ۳۶۳۴، ۳۶۳۸، ۳۶۴۰، ۳۶۴۵، (ج_۹) ۴۹۹۷، (ج_۱۰) ۶۴۳۰

محمد مسکین باغ دروی، خواجہ: (ج_۱۰) ۵۹۴۴

محمد مسلم سہارنپوری، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج_۱۰) ۶۰۵۶

محمد مشتاق تجاوری، مفتی: (ج_۹) ۵۰۸۷، ۵۱۵۴

محمد مشرف احمد، مفتی علامہ: (ج_۵) ۲۹۰۴، (ج_۶) ۳۳۷۶، ۳۳۸۱، ۳۶۶۵، ۳۶۷۹

محمد مصری، ابو الفضل جمال الدین: (ج_۵) ۲۷۰۲، (ج_۶) ۳۹۴۰

محمد مصری، ابو زہرہ: (ج_۶) ۳۹۶۲

۲۸۰۷، ۲۸۱۱، (ج۔۶) ۳۱۴۲، ۳۱۵۶، ۳۱۶۲۔۳۱۶۳، ۳۱۶۷، ۳۱۹۲، ۳۲۰۸، ۳۲۲۵، ۳۲۶۹، ۳۳۱۴، ۳۳۵۲، ۳۳۵۴، ۳۴۱۷۔۳۴۱۸، ۳۴۲۶۔۳۴۲۸، ۳۴۴۷، ۳۴۵۰۔۳۴۵۵، ۳۵۳۱، ۳۶۲۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۹، ۳۷۶۶، ۳۹۰۹، ۳۹۳۵۔۳۹۳۶، ۳۶۶۶، ۳۹۶۸، ۳۹۸۲، (ج۔۷) ۴۰۰۱، ۴۰۰۹۔۴۰۱۰، ۴۲۰۴۔۴۲۰۵، ۴۳۰۸، (ج۔۸) ۴۵۰۰۔۴۵۰، ۴۵۳۲، ۴۵۳۶۔۴۵۳۷، ۴۵۴۲، ۴۵۴۶، ۴۵۶۷، ۴۵۷۲، ۴۵۷۵، ۴۶۰۳، ۴۶۱۰، ۴۶۱۳۔۴۶۱۵، ۴۶۶۳۔۴۶۶۵، ۴۷۴۲، ۴۸۳۳، ۴۸۴۷۔۴۸۴۸، ۴۸۶۷، ۴۹۰۶، ۴۹۰۹، ۴۹۳۴، ۴۹۴۳، ۴۹۸۴۔۴۹۸۵، (ج۔۹) ۵۰۱۲، ۵۰۲۵، ۵۰۶۰، ۵۰۶۱، ۵۰۶۳، ۵۰۷۶، ۵۱۸۹، ۵۲۴۹، ۵۲۵۴، ۵۲۵۸، ۵۲۷۴، ۵۳۰۱، ۵۳۶۰، ۵۳۶۴، ۵۳۶۵، ۵۳۶۷، ۵۳۷۵، ۵۳۷۹، ۵۳۸۱، ۵۴۲۰، ۵۴۷۰، ۵۴۸۲، ۵۴۸۴، ۵۴۸۶، ۵۴۸۸، ۵۴۹۱، ۵۴۹۳، ۵۵۰۵، ۵۵۱۰، ۵۵۲۴، ۵۵۲۶، ۵۵۲۹، ۵۵۳۰، ۵۵۳۱، ۵۵۳۴، ۵۵۳۵، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، ۵۵۵۰، ۵۵۵۳، ۵۵۵۴، ۵۵۵۷، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۱۵، ۵۶۲۶۔۵۶۲۷، ۵۶۶۶، ۵۶۷۲۔۵۶۷۳، ۵۶۷۹، ۵۶۸۵، ۵۷۵۵۔۵۷۵۹، ۵۷۶۱، ۵۷۶۷۔۵۷۷۲، ۵۷۹۹، ۵۸۵۵۔۵۸۵۶، ۵۸۶۳۔۵۸۶۷، ۵۸۷۲، ۵۸۷۵، ۵۸۷۷، ۵۸۷۹۔۵۸۸۰، ۵۸۸۴، ۵۸۸۷، ۵۸۹۳، ۵۸۹۵، ۵۹۰۵، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۷۳، ۶۰۳۶، ۶۰۷۲، ۶۱۰۸، ۶۱۱۱، ۶۱۲۰، ۶۱۲۲۔۶۱۲۳، ۶۱۲۶، ۶۱۷۷، ۶۱۸۲، ۶۲۹۵۔۶۲۹۶، ۶۲۹۹، ۶۳۵۶، ۶۳۵۹، ۶۳۶۰۔۶۳۶۱، ۶۳۶۳۔۶۳۶۴، ۶۳۷۰۔۶۲۷۲، ۶۳۷۵

محمد معصوم شاہ، پیرزادہ، مولوی (گجرات): (ج۔۵) ۲۸۸۲

محمد معصوم، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۴۶، (ج۔۹) ۵۰۱۳، ۵۰۵۳، ۵۵۵۵

محمد معصوم ضیائے نقشبندی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۳۰، ۳۲۶۴۔۳۲۶۵، ۳۲۶۷، ۳۶۲۳، ۳۶۲۶، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶

محمد معصوم کوٹلوی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۱۹

محمد معصوم، ملا: (ج۔۵) ۲۵۵۵

محمد معصوم موہڑوی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۱۵۸، ۳۷۵۳، ۳۷۷۵، (ج۔۱۰) ۵۸۰۴

محمد معصوم نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱) ۹۴

محمد معصوم نقشبندی، شیخ: (ج۔۱) ۹۹، (ج۔۱۰) ۵۹۰۴

محمد معظم احمد، مفتی ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۳۸۶، ۳۳۹۱، (ج۔۹) ۵۵۳۸

محمد معظم، شہزادہ: (ج۔۳) ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۲۲۹۰، ۲۳۳۴

محمد معین ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۴) ۲۴۱۳، ۲۴۴۳، (ج۔۵) ۲۸۰۵، (ج۔۶) ۳۴۳۰، ۳۴۳۵، ۳۴۳۷، ۳۴۴۴، ۳۴۷۳۔۳۴۷۵، ۳۵۵۸۔۳۵۶۰، ۳۶۰۵، ۳۶۵۲، ۳۶۵۶، ۳۹۶۸

محمد معین نقوی: (ج۔۴) ۲۴۵۴

محمد مغربی، شیخ: (ج۔۴) ۲۴۴۴

محمد مفتی، شیخ: (ج۔۲) ۱۰۱۸

محمد مفید مستوفی: (ج۔۵) ۲۸۵۴، ۲۸۵۸، (ج۔۶) ۳۹۶۸

محمد مقبول الرسول، حافظ (خانقاہ للہ شریف): (ج۔۶) ۳۷۹۷

محمد مقبول، چوہدری (والد پروفیسر محمد حسین آسی): (ج۔۱۰) ۶۰۸۰

محمد مقبول، میاں (والد ڈاکٹر محمد انعام الحق کوثر): (ج۔۶) ۳۹۳۱

محمد مقتدیٰ، شیخ: (ج۔۸) ۴۵۹۳،

محمد مقصود احمد، حافظ پروفیسر: (ج۔۶) ۳۶۲۷

محمد مقصود الٰہی نقشبندی، پروفیسر: (ج۔۶) ۳۶۹۷، (ج۔۱۰) ۶۴۳۲

محمد مقیم بیلائی ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۶۸۷

محمد مقیم ولد سعداللہ (جھچہ): (ج۔۶) ۳۴۷۵

محمد مکرم احمد، مفتی ڈاکٹر: (ج۔۱) ۳، ۳۲، ۱۰۳، ۱۰۵، (ج۔۲) ۴۸۳، ۴۸۹، ۱۰۱۵، (ج۔۴) ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۲۹۰۷، ۲۹۱۴۔۲۹۱۵، (ج۔۶) ۳۳۷۱، ۳۳۷۳، ۳۳۷۶، ۳۳۸۵، ۳۳۸۷، ۳۳۸۹۔۳۳۹۱، ۳۳۹۳، ۳۶۴۴، (ج۔۷) ۳۹۹۲، ۴۰۱۲، (ج۔۸) ۴۹۰۷، ۴۹۹۰، (ج۔۹) ۵۰۰۰، ۵۰۴۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۱۳، ۵۶۱۹، ۵۶۳۰، ۵۶۹۶، ۶۴۹۳

محمد مکرم، سید: (ج۔۶) ۳۳۰۱

محمد مکی بن موسیٰ لاہوری: (ج۔۹) ۵۱۸۰

محمد مکی، شیخ سید (خلیفہ محمد مظہر): (ج۔۵) ۲۶۹۵

محمد ممتاز پروفیسر، شیخ: (ج۔۱۰) ۶۰۴۹

محمد ممتاز شامی، شیخ: (ج۔۱۰) ۶۰۴۶

محمد منان رضا خان، علامہ: (ج۔۵) ۲۹۰۵، (ج۔۶) ۳۶۴۲

محمد منصور مسعودی، سید: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

محمد منظور احمد، مفتی: (ج۔۸) ۴۸۶۹،

محمد منظور مدیر: (ج۔۳) ۱۲۹۸

محمد منظور نعمانی: (ج۔۲) ۷۷۹، ۷۹۲، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۲۱۶۷، ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۵۸۰، ۲۶۵۱، ۲۸۹۵، (ج۔۶) ۳۳۵۹، ۳۶۴۰، (ج۔۹) ۵۰۲۸، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۳۰۲

محمد منیر اعوان طیبی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۹

محمد منیر (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱

محمد منیر، قاضی: ۲۳۳۶

محمد منیر ناصر نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

محمد منیر احمد سلیچ، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۷۹۹

محمد مودود، شیخ: (ج۔۱) ۴۵۲

محمد موسیٰ امرتسری، حکیم: (ج۔۱) ۳۰، (ج۔۴) ۲۵۲۵، (ج۔۵) ۲۵۳۶، ۲۶۲۷، ۲۶۳۱، ۲۷۲۳۔۲۷۲۴، ۲۹۰۶، (ج۔۸) ۴۵۷۶، ۴۸۴۴، (ج۔۹) ۵۵۳۷، (ج۔۱۰) ۵۸۱۰، ۶۳۳۳

محمد موسیٰ جان، مولانا: (ج۔۶) ۳۹۱۸

محمد موسیٰ، فقیر: (ج۔۶) ۳۶۹۰۔۳۶۹۱

محمد موسیٰ معصومی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۷

محمد موسیٰ، مولوی: (ج۔۶) ۳۳۸۲

محمد مولانا حاجی: (ج۔۸) ۴۵۹۴،

محمد، مولانا: (ج۔۹) ۵۱۹۱

محمد، مولوی قندھاری (فرزند ضیاء الدین اچکزئی): (ج۔۵) ۲۶۴۶

محمد، مولوی (فرزند مولوی عبدالقادر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۷

محمد مہدی بن احمد بن علی یوسف الفاسی: (ج۔۲) ۶۵۲

محمد مہدی سکلاوی خلوتی الجزائری، شیخ: (ج۔۵)۲۶۸۲

محمد مہدی مجددی، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۹، ۵۸۹۳

محمد میاں برکاتی بھوپالی، میاں: (ج۔۱۰)۶۰۷۳

محمد میاں ثمر دہلوی، مفتی: (ج۔۶)۳۳۸۱

محمد میاں (خانقاہ حامدیہ ملتان): (ج۔۶)۳۷۹۵

محمد میاں، شیخ: (ج۔۱)۳۶۰

محمد میاں صدیقی: (ج۔۲)۷۳۶

محمد میاں (مصنف علماء ہند کا شاندار ماضی): (ج۔۲) ۷۴۰، ۷۶۸، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۷۱، (ج۔۴) ۱۹۸۹، ۱۹۹۱، (ج۔۵)۲۷۶۰، (ج۔۶)۳۹۶۸، (ج۔۹)۵۰۲۸، ۵۰۴۱، ۵۰۴۹، ۵۱۵۴

محمد، میاں (نواسہ مخدوم آدم ٹھٹوی): (ج۔۶)۳۴۷۶

محمد میر آغا جان: (ج۔۱۰)۶۱۲۵

محمد میر داد قاری عرب: (ج۔۶)۳۵۵۸

محمدِ ناصر الدین الہانی: (ج۔۶)۳۹۶۸

محمد نامدار شاہ، خواجہ ہادی: (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۳۷، ۵۹۴۱، ۵۹۹۵ـ۶۰۰۰، ۶۰۰۸، ۶۰۷۲

محمد نبی بخش حلوائی، مولانا: (ج۔۶) ۳۷۷۴ـ۳۷۷۵، ۳۹۳۲

محمد نبی، خواجہ (فرزند خواجہ فقیر محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۸

محمد نجات اللہ صدیقی، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۶۸

محمد نجم الدین غزی: (ج۔۶)۳۱۶۸

محمد نجم الدین کردی، شیخ: (ج۔۵)۲۸۶۱

محمد نجیب میاں مارہروی: (ج۔۵)۲۹۱۳

محمد نذر احمد: (ج۔۶)۳۶۵۱

محمد نذیر احمد دیوبندی، حاجی: (ج۔۴)۲۳۹۶

محمد نذیر رانجھا: (ج۔۱۰)۵۸۹۴، ۵۹۰۲، ۵۹۴۷، ۶۰۵۶

محمد نسیم احمد نقشبندی: (ج۔۱۰)۶۴۴۳

محمد نسیم صدیقی دہروی، ملا: (ج۔۱۰)۵۸۸۰

محمد نصیر احمد مجددی، میاں: (ج۔۱۰)۵۸۸۴ـ۵۸۸۵

محمد نصیر ملک، ملا (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۷

محمد نظام الدین (فرزند کمال الدین): (ج۔۵)۲۸۴۹

محمد نعمان بدخشی برہان پوری، میر: (ج۔۱)۳۰۹، ۴۲۳، (ج۔۲) ۷۶۵، ۹۹۴، ۱۰۱۷، ۱۱۱۷، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، (ج۔۳) ۱۳۷۳، ۱۴۱۲، ۱۴۵۳، ۱۵۹۷، ۱۸۴۵، (ج۔۵) ۲۵۷۱، ۲۶۱۲، ۲۶۱۷، ۲۷۳۶، ۲۷۴۸، ۲۷۵۵، (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۸) ۴۶۵۲، (ج۔۹) ۵۲۹۰، ۵۴۹۲، (ج۔۱۰) ۵۶۵۸، ۵۷۲۳، ۵۷۳۸، ۶۱۲۳ـ۶۱۲۴، ۶۲۵۴

محمد نعمان بن شمس الدین: (ج۔۸) ۴۶۶۸ـ۴۶۶۹، ۴۶۷۳

محمد نعمان شیخ (مصنف "اعلام الہدیٰ"): (ج۔۱۰) ۵۷۶۲

محمد نعمان کشمی، خواجہ میر: (ج۔۱)۳۱۹، (ج۔۲)۵۰۹، ۶۹۰، ۷۲۶، ۹۲۷ـ۹۲۸، ۱۱۴۳، (ج۔۳) ۱۶۰۳، ۱۷۵۸، ۱۸۶۹، (ج۔۴) ۲۰۲۸، ۲۳۶۵ـ۲۳۶۷، ۲۳۶۹، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۴۱۵ـ۲۴۱۹، ۲۴۲۳ـ۲۴۲۴، ۲۴۲۶، ۲۴۳۰، ۲۴۳۴ـ۲۴۳۵، ، (ج۔۷) ۴۱۷۵، ۴۱۷۷، (ج۔۸) ۴۵۲۶، ۴۵۲۸، ۴۵۵۴، ۴۵۵۸، ۴۶۷۴،

۴۸۳۳، ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۰۲۴۔۵۰۲۵، ۵۱۹۳،
۵۲۳۲، ۵۲۵۳، ۵۴۷۶، ۵۴۸۹، ۵۵۱۷، ۵۵۱۹

محمد نعیم الدین علوی، مولانا: (ج۔۹) ۵۳۶۷

محمد نعیم الدین مرادآبادی، مولانا سید: (ج۔۱۰) ۵۸۰۳۔۵۸۰۴، ۵۹۷۱

محمد نعیم اللہ: (ج۔۲) ۱۲۲۸

محمد نعیم اللہ خان خیالی: (ج۔۵) ۲۶۳۰، ۲۶۷۱، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۷

محمد نعیم اللہ مراد آبادی، صدرالافاضل مولانا: (ج۔۵) ۲۹۰۴۔

محمد نعیم طاہر رضوی: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

محمد نعیم کابلی، اخوند مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۸، ۵۸۷۳، ۵۸۸۸، ۵۸۹۱

محمد نعیم، مولوی (عرف مسکین شاہ): (ج۔۱۰) ۵۸۸۲

محمد نقشبند ثانی خواجہ، شیخ: (ج۔۱) ۸۱، (ج۔۲) ۱۱۴۸، (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۲۸۵، ۲۴۵۲، (ج۔۵) ۲۶۶۱، ۲۶۶۶۔۲۶۶۷، ۲۸۰۰۔۲۸۰۱، ۲۸۰۶، ۲۸۱۶، (ج۔۶) ۳۳۱۷، (ج۔۸) ۴۸۶۷،

محمد نقشبند، خواجہ (فرزند خواجہ معصوم): (ج۔۴) ۲۱۸۱۔۲۱۸۲، (ج۔۵) ۲۷۸۲، (ج۔۶) ۳۶۹۷، (ج۔۹) ۵۵۳۱

محمد نقشبند، شیخ: (ج۔۹) ۵۵۵۰، ۵۵۵۰، ۵۵۵۷، ۵۵۶۴

محمد نقشبند مجددی سرہندی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۳۵، ۶۱۰۸

محمد نقشبندی، شاہ: (ج۔۱۰) ۶۰۷۲

محمد نقشبندی، صاحبزادہ ابوطاہر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

محمد نقی علی خاں قادری بریلوی: (ج۔۵) ۲۸۷۸۔۲۸۷۹

محمد نواز خالد، پروفیسر: (ج۔۱۰) ۵۸۹۰

محمد نواز عارف، سلطان: (ج۔۱۰) ۵۹۵۳

محمد نواز، مولوی (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۲

محمد نورالعین نقشبندی مجددی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰) ۶۰۳۱

محمد نوراللہ بصیرپوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۰۴

محمد نور پوپلزئی قندھاری ملا: (ج۔۶) ۳۷۲۴

محمد نور قندھاری، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۵۸

محمد نوید اقبال مجددی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۱

محمد نیر مجددی ابوالرضا: (ج۔۷) ۴۴۷۸

محمد نیشاپوری، میر: (ج۔۲) ۱۲۲۱

محمد نیّر مجددی، ابوالرضا، مفتی: (ج۔۸) ۴۴۸۸، ۴۶۴۹

محمد واسع، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۹۸۹

محمد واصل (خلیفہ حضرت مظہرؒ): (ج۔۴) ۲۴۷۱

محمد وامق احمد: (ج۔۳) ۱۸۷۴

محمد وجیہ الدین، پروفیسر شیخ: (ج۔۵) ۲۶۲۹

محمد وجیہ الدین نقشبندی، شیخ: (ج۔۱۰) ۶۱۶۴

محمد وصی الدین خان، پروفیسر: (ج۔۸) ۴۸۴۴،

محمد وقاص ہاشمی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۴۳۲

محمد وکیل احمد، پروفیسر: (ج۔۹) ۵۵۸۲، (ج۔۱۰) ۵۵۹۲، ۵۶۳۳

محمد ولی وارثی: (ج۔۱۰) ۶۰۷۶

محمد ہادی بخش ابن الصدیق: (ج۔۲) ۴۸۹، ۹۱۱

محمد ہادی بن مروج: (ج۔۹) ۵۵۵۴

محمد ہادی سرہندی، شیخ: (ج۔۱) ۸۵، (ج۔۵) ۲۸۰۱۔۲۸۰۲ (ج۔۶) ۳۹۶۸، (ج۔۹) ۵۵۵۳، (ج۔۱۰) ۵۸۷۵، ۶۲۹۵۔۶۲۹۶

محمد ہارون: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمد ہاشم: (ج۔۴) ۲۲۳۴، ۲۲۳۸، ۲۴۲۲

محمد ہاشم بگھاروی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۲

محمد ہاشم بن عبدالرحمٰن تاجی خلوتی، شیخ: (ج۔۶) ۳۴۳۸

محمد ہاشم بوبکائی، مخدوم (دادو): (ج۔۶) ۳۶۹۰

محمد ہاشم ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۵) ۲۸۰۵، ۲۸۸۴، (ج۔۶) ۳۴۱۶، ۳۴۳۵، ۳۴۴۰۔۳۴۴۱، ۳۴۴۳، ۳۴۴۷، ۳۴۴۹، ۳۴۵۳۔۳۴۵۴، ۳۵۵۸، ۳۶۰۵، ۳۶۵۱۔۳۶۵۳، ۳۶۵۵۔۳۶۵۹، ۳۶۶۶

محمد ہاشم ٹھٹوی، مخدوم: (ج۔۱۰) ۶۱۲۷

محمد ہاشم جان مجددی سرہندی، مولانا: (ج۔۳) ۱۴۰۶، (ج۔۴) ۲۲۱۶، ۲۴۴۴، (ج۔۵) ۲۵۹۷۔۲۵۹۸، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۱۳، ۲۷۳۸، ۲۸۰۸، ۲۸۱۵، ۲۹۲۵۔۲۹۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۴۳، (ج۔۶) ۳۴۴۴۔۳۴۴۵، ۳۴۴۹، ۳۵۹۹، ۳۶۰۱، ۳۶۱۳، ۳۶۵۹۔۳۶۶۰، ۳۶۶۵، ۳۷۰۷، (ج۔۹) ۵۵۷۳، (ج۔۱۰) ۵۶۹۵، ۶۱۰۷، ۶۱۱۱، ۶۱۱۹، ۶۱۲۳، ۶۱۲۶، ۶۱۲۹، ۶۲۸۸

محمد ہاشم خادم، مولانا: (ج۔۴) ۲۳۹۴

محمد ہاشم خافی خاں: (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۸۰، (ج۔۶) ۳۹۶۹

محمد ہاشم، خواجہ (خانقاہ بگھار شریف راولپنڈی): (ج۔۶) ۳۷۸۲

محمد ہاشم، خواجہ: (ج۔۲) ۷۷۱

محمد ہاشم درس: (ج۔۶) ۳۶۰۳

محمد ہاشم، شیخ: (ج۔۶) ۳۹۶۹

محمد ہاشم کردی، مخدوم: (ج۔۶) ۳۳۲۷

محمد ہاشم کشمی، خواجہ: (ج۔۱) ۱۱، ۱۸، ۲۸، ۸۵، ۲۹۷، ۳۰۵۔۳۰۶، ۳۷۷، ۴۰۸۔۴۰۹، ۴۱۱۔۴۱۵، ۴۱۷۔۴۲۰، ۴۲۳، ۴۲۹۔۴۳۰، ۴۴۹۔۴۵۰، ۴۵۲، (ج۔۲) ۵۱۱، ۶۸۵، ۷۵۲، ۷۰۳، ۹۲۸، ۱۱۱۸، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۳۶۵، ۱۳۷۳، ۱۴۰۶، ۱۴۵۰، ۱۴۵۲، ۱۶۶۱، ۱۷۱۰، ۱۷۲۲، ۱۸۷۰، ۱۸۸۶۔۱۸۸۷، (ج۔۴) ۱۹۴۰، ۲۰۵۴، ۲۲۴۰، ۲۳۶۷۔۲۳۶۸، ۲۳۸۴، ۲۳۹۳، ۲۴۱۸۔۲۴۲۱، ۲۴۳۳، ۲۴۳۵، ۲۴۵۳، (ج۔۵) ۲۵۷۱، ۲۵۷۴، ۲۵۸۱، ۲۶۱۱۔۲۶۱۲، ۲۶۱۵، ۲۶۱۷، ۲۶۳۴۔۲۶۳۷، ۲۶۴۱، ۲۶۶۲، ۲۷۳۵۔۲۷۳۶، ۲۷۴۸، ۲۷۵۴۔۲۷۵۵، ۲۷۵۹۔۲۷۶۰، ۲۷۷۰، ۲۷۹۸، ۲۸۱۶، ۲۸۳۰، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، (ج۔۶) ۳۳۴۸، ۳۳۹۳، ۳۹۴۲، ۳۹۶۹، (ج۔۷) ۴۰۶۱، ۴۰۶۲، ۴۱۶۸، ۴۲۲۰، ۴۲۳۱، (ج۔۸) ۴۵۷۰۔۴۵۷۱، ۴۵۷۸، ۴۶۵۹، ۴۶۶۶، ۴۶۷۴، ۴۷۳۰، ۴۸۱۳، ۴۸۳۳، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱، ۴۸۶۴، ۴۸۶۷، ۴۹۰۹۔۴۹۱۰، ۴۹۵۲، ۴۹۵۴۔۴۹۵۵، (ج۔۹) ۵۰۲۵۔۵۰۲۶، ۵۰۴۰، ۵۰۵۱، ۵۰۶۳، ۵۰۷۰، ۵۱۱۹، ۵۱۵۴، ۵۲۲۶۔۵۲۲۷، ۵۲۳۳، ۵۲۳۸، ۵۲۴۳۔۵۲۴۴، ۵۲۴۶۔۵۲۴۷، ۵۲۵۰، ۵۲۷۶، ۵۲۹۲، ۵۳۱۰۔۵۳۱۱، ۵۳۳۷، ۵۳۶۵، ۵۳۹۷، ۵۴۸۹۔۵۴۹۲، ۵۵۰۷، ۵۵۱۹، ۵۵۸۲، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۶۳۲، ۵۶۵۸، ۵۶۶۹، ۵۶۹۴، ۵۷۲۳، ۵۷۳۲، ۵۷۳۸، ۵۷۷۲۔۵۷۷۳، ۵۸۸۵، ۵۸۶۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۶، ۵۹۲۴، ۵۹۷۳، ۶۱۱۱، ۶۱۳۱،

۶۱۳۳، ۶۲۱۸، ۶۲۴۲، ۶۲۴۷، ۶۲۵۱_۶۲۵۲، ۶۲۵۴،
۶۲۵۹، ۶۲۷۳

محمد ہاشم، مولانا: (ج_۳)۱۳۷۱، (ج_۶)۳۵۸۰_۳۵۸۱

محمد ہالائی، الحاج: (ج_۶)۳۶۹۲

محمد ہدایت علی جے پوری: (ج_۱۰)۶۱۰۵

محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی: (ج_۱۰)۶۱۶۳، ۶۲۱۹

محمد ہمایوں عباس شمس، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱)۲۱، ۲۶، ۱۰۲،
(ج_۲) ۶۶۳، ۷۶۹، ۱۲۴۷، (ج_۳) ۱۷۷۱، (ج_۶)
۳۹۷۲، (ج_۸)۴۹۹۱، (ج_۹)۵۰۰۱، ۵۲۰۹

محمد یار، خواجہ: (ج_۴)۲۲۶۰

محمد یار، فقیر: (ج_۸)۴۹۸۰،

محمد یار، مولانا (استاد خواجہ نور محمد): (ج_۶)۳۷۸۶

محمد یاسین اختر مصباحی، مولانا: (ج_۵)۲۹۱۱

محمد یاسین امجدی، علامہ: (ج_۵)۲۹۱۳

محمد یاسین، ڈاکٹر: (ج_۴)۲۰۳۲، (ج_۵)۲۵۷۱، ۲۵۸۰

محمد یاسین، مولانا: (ج_۶)۳۳۳۱

محمد یحییٰ، ابوالغیاث (المشہور نور محمد): (ج_۱۰)۵۸۹۱

محمد یحییٰ اٹکی، شیخ (حضرت جی بابا اٹکی): (ج_۱۰)۵۸۶۹_
۵۸۷۰، ۵۸۷۳_۵۸۷۶، ۵۹۲۸_۵۹۳۶

محمد یحییٰ پشاوری (فرزند قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری):
(ج_۱۰)۵۸۸۱

محمد یحییٰ ثالث ٹھٹوی، قاضی: (ج_۶)۳۶۸۸

محمد یحییٰ، خلیفہ: (ج_۱)۱۰۶، (ج_۲)۴۸۳

محمد یحییٰ، خواجہ (فرزند مجدد الف ثانی): (ج_۱) ۲۲۶، ۴۲۶،
(ج_۲) ۵۱۰، ۷۶۸، (ج_۳) ۱۳۷۲، (ج_۴) ۲۲۶۴،
۲۲۵۳، (ج_۵) ۲۸۰۳، ۲۸۰۵_ ۲۸۰۶، (ج_۶)
۳۹۶۹، (ج_۸) ۴۶۰۳_ ۴۶۰۴، ۴۶۱۴_ ۴۶۱۵،
۴۸۶۷، ۴۹۰۸، (ج_۹) ۵۰۲۵، ۵۳۴۰، ۵۴۸۸،
(ج_۱۰)۵۶۷۲، ۵۷۵۵

محمد یحییٰ، سید: (ج_۱)۳۹۹، ۴۰۲، (ج_۲)۷۰۳، (ج_۴)
۲۳۹۵، ۲۳۷۰، (ج_۶)۳۹۶۹

محمد یحییٰ، شیخ: (ج_۳)۱۴۵۱، (ج_۹)۵۵۵۳، ۵۵۵۷

محمد یحییٰ، مولانا: (ج_۶)۳۸۵۷

محمد یزدانی، ملا قاضی: (ج_۲)۸۷۷

محمد یزدی جونپوری، قاضی ملاّ: (ج_۴) ۲۰۰۲، (ج_۶)
۲۵۵۵

محمد یعقوب: (ج_۶)۳۳۵۳، ۳۳۹۴

محمد یعقوب چرخی، مولانا: (ج_۴)۲۲۵۰_۲۲۵۱

محمد یعقوب خاں، امیر: (ج_۱) ۴۰۱، (ج_۶) ۳۳۱۹،
۳۳۴۱

محمد یعقوب، خواجہ (فرزند خواجہ محمد ہاشم بگھاری): (ج_۱۰)
۵۹۴۲

محمد یعقوب، درویش بن مولانا محمد ابراہیم: (ج_۶)
۳۷۸۸

محمد یعقوب، شیخ: (ج_۹)۵۵۲۵

محمد یعقوب، قاضی: (ج_۸)۴۹۳۱

محمد یعقوب کوہاٹی، سید (فرزند سید عبد اللہ بہادر کوہاٹی):
(ج_۱۰)۵۸۶۷

محمد یعقوب، مولانا خواجہ: (ج_۶)۳۷۸۳

محمد یعقوب، مولانا صوفی (ڈھاکہ): (ج_۶)۳۸۵۴

محمد یعقوب، میر: (ج۔۴) ۲۲۸۴

محمد یعقوب، میر قاضی بنگال: (ج۔۵) ۲۵۵۵

محمد یوسف اٹکی، مولوی: (ج۔۱۰) ۵۹۲۹، ۵۹۴۶

محمد یوسف السقا، شیخ: (ج۔۲) ۹۹۱، ۱۲۱۰، (ج۔۵) ۲۸۶۰

محمد یوسف باڑی، حافظ: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

محمد یوسف بنوری (نیو ٹاؤن کراچی): (ج۔۶) ۳۵۴۹، ۳۹۶۹

محمد یوسف، چوہدری: (ج۔۱۰) ۶۴۴۲

محمد یوسف، حافظ علامہ: (ج۔۶) ۳۵۱۱

محمد یوسف خیارین شریف، مخدوم: (ج۔۶) ۳۶۹۴

محمد یوسف سمرقندی، مولانا: (ج۔۸) ۴۵۵۰،

محمد یوسف، شیخ: (ج۔۷) ۴۴۶۱، (ج۔۹) ۵۲۱۴

محمد یوسف، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۴۴۶

محمد یوسف علی نگینہ، حاجی علامہ: (ج۔۱۰) ۶۴۴۲

محمد یوسف کوہاٹی، سید (فرزند سید عبداللہ حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۷

محمد یوسف کوبج، علامہ: (ج۔۵) ۲۷۲۱

محمد یوسف، کھیاری: (ج۔۶) ۳۴۴۱

محمد یوسف گیلانی، سید: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

محمد یوسف مجددی: (ج۔۷) ۴۴۷۹،، ج۔۸) ۴۴۸۹

محمد یوسف مجددی (مصنف جواہر مجددیہ): (ج۔۱۰) ۵۸۹۴، ۵۹۰۲، ۵۹۴۷

محمد یوسف (مرید خواجہ عبدالرحمٰن جان مجددی): (ج۔۶) ۳۴۹۸

محمد یوسف، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۵۶، (ج۔۹) ۵۱۲۶، ۵۳۷۷، (ج۔۱۰) ۶۲۵۹

محمد یوسف، میاں: (ج۔۱۰) ۶۴۴۲

محمد یوسف میمن (دادو): (ج۔۶) ۳۴۴۲

محمد یوسف نقشبندی، مولانا سید: (ج۔۹) ۵۵۸۴، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۷۷-۵۹۷۹، ۵۹۸۲

محمد یوسف ہمدانی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۴۵-۲۲۴۶

محمد یونس (استاد میاں محمد عمر چمکنی): (ج۔۶) ۳۸۹۶

محمد یونس باڑی مظہری، الحاج: (ج۔۳) ۱۸۸۸، (ج۔۴) ۲۵۰۴، (ج۔۵) ۳۱۱۸-۳۱۱۹، (ج۔۶) ۳۱۳۰-۳۱۳۱، ۳۲۹۵، ۳۸۰۱، (ج۔۱۰) ۶۳۱۸، ۶۳۴۲

محمد یونس دانش: (ج۔۱۰) ۶۴۳۸

محمد یونس گیلانی، اخوند مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۶۹، ۵۸۸۹

محمد یونس مرادآبادی، مولان (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۵۶

محمد یٰسین شاہ، پیر (المعروف بہ پیر جھنڈا): (ج۔۶) ۳۵۷۱

محمد یٰسین (مصنف): (ج۔۵) ۲۵۷۹

محمد یٰسین مظہر صدیقی: (ج۔۸) ۴۹۹۱، (ج۔۹) ۵۰۰۱، ۵۰۷۳

محمد، مولانا شیخ (عم مولانا غلام محی الدین قصوری): (ج۔۱۰) ۶۰۳۴

محمدی صاحبزادہ (فرزند خلیفہ میاں محمد عمر چمکنی): (ج۔۶) ۳۸۹۹

محمدی صدیقی مرغزی بن گل محمد مرغزی: (ج۔۱۰) ۵۸۷۸

محمود: (ج۔۳) ۱۵۰۱

محمود آلوسی علامہ ابو الفضل: (ج۔۷) ۴۳۶۱، ۴۲۶۲، ۴۲۶۸، ۴۲۷۱، ۴۲۷۴، (ج۔۹) ۵۲۹۶، ۵۳۱۷، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸۔

محمود احمد برکاتی، سید: (ج۔۱۰) ۵۷۶۲

محمود احمد خان، حکیم (دہلوی): (ج۔۶) ۳۷۵۶

محمود احمد دہلوی، ڈاکٹر: (ج۔۶) ۳۳۹۱

محمود احمد رضوی، سید: (ج۔۵) ۲۹۱۳، (ج۔۱۰) ۵۸۱۱

محمود احمد سلامی، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۱۳

محمود احمد، شیخ: (ج۔۲) ۷۳۵۔۷۳۶، (ج۔۳) ۱۴۵۳، (ج۔۶) ۳۹۶۹

محمود احمد غازی، ڈاکٹر: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۶۹، (ج۔۷) ۴۴۷۹، (ج۔۸) ۴۴۸۹، ۴۸۱۱

محمود احمد قادری، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۹۲، ۲۹۱۱، (ج۔۶) ۳۹۶۹، (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

محمود احمد کانپوری، مولانا: (ج۔۵) ۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۹۶۹

محمود اختر، حافظ ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۳۰۸

محمود اسعد جوشان: (ج۔۶) ۳۲۷۱۔۳۲۷۲، ۳۲۸۳

محمود الحسن عارف، ڈاکٹر: (ج۔۳) ۱۲۸۹، (ج۔۶) ۳۴۱۲

محمود الحسن نقشبندی، میاں: (ج۔۱۰) ۶۴۴۰

محمود الفرازی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۶۷۷

محمود، امیر مبارز الدین بن مظفر: (ج۔۵) ۲۸۴۸

محمود انجیر فغنوی، خواجہ: (ج۔۱) ۲۴۸، (ج۔۴) ۲۲۴۷، ۲۲۴۹، ۲۲۶۰، (ج۔۶) ۳۲۹۸، ۳۹۸۰، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۳، ۴۸۶۶

محمود ایس۔ ایف: (ج۔۵) ۲۵۷۶، ۲۵۰۱۰

محمود بغدادی، مولانا (برادر شیخ خالد بغدادی نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۳۸۹، ۶۳۹۲، ۶۳۹۷

محمود بن حسین (افضلی حازقی گیلانی): (ج۔۶) ۳۱۵۵

محمود بن سلیمان (حاکم غزنی): (ج۔۳) ۱۳۶۵

محمود بن عباس عبدلانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۸

محمود بن غیلان: (ج۔۲) ۵۲۱، (ج۔۷) ۴۳۰۴

محمود بن لبید: (ج۔۲) ۵۶۰، ۵۶۲، (ج۔۷) ۴۴۰۳

محمود بن محمد (والد ابوالمفاخر زوزنی): (ج۔۵) ۲۸۴۸

محمود پاشا: ۷(ج۔۶) ۳۲۷

محمود پنچوانی: (ج۔۳) ۱۵۱۲

محمود جونپوری، ملا: (ج۔۹) ۵۱۴۷

محمود، حاجی: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴

محمود حسن، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۶۶۸

محمود حسین بریلوی، پروفیسر (روہیل کھنڈ یونیورسٹی): (ج۔۵) ۲۹۱۰

محمود حسین خاں نازاں چشتی سلیمانی: (ج۔۶) ۳۸۸۷

محمود حسین، ڈاکٹر: (ج۔۴) ۲۲۱۷، (ج۔۹) ۵۵۶۸

محمود خان، سلطان (حکومت عثمانیہ): (ج۔۶) ۳۲۸۴

محمود خان، شاہ (حاکم قندھار): (ج۔۶) ۳۷۱۳

محمود، خلیفہ (چانڈیو): (ج۔۶) ۳۴۳۳

محمود، خلیفہ (قریہ گنور خان): (ج۔۶) ۳۴۳۲

محمود، خواجہ: (ج۔۹) ۵۳۲۸

محمود، خواجہ (مرشد سید عبداللہ شاہ): (ج۔۶) ۳۴۹۵

محمود سامی، رمضانوگلو: (ج۔۶) ۳۲۷۱

محمود سماسی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۶۱

محمود سمنانی، سید: (ج۔۷) ۴۰۹۷

محمود، سید (مکتوب الیہ امام ربانی): (ج۔۲) ۱۰۰۶

محمود، سید: (ج۔۷) ۴۴۳۱

محمود شاشی، خواجہ: (ج۔۴) ۲۲۶۲

محمود شاہ، سید (سجادہ نشین پیر سید ولایت شاہ گجرات): (ج۔۶) ۳۷۹۶

محمود شاہ غازی (والی ہرات): (ج۔۶) ۳۸۷۶۔۳۸۷۷

محمود شاہ (فرزند تیمور شاہ): (ج۔۶) ۳۷۰۵

محمود شاہ گجراتی، سید: (ج۔۹) ۵۵۷۵، (ج۔۱۰) ۵۸۰۴

محمود شکری آلوسی، سید: (ج۔۹) ۵۲۵۲

محمود، شیخ: (ج۔۴) ۲۵۰۸، ۲۵۱۰، (ج۔۶) ۳۲۸۵، ۳۴۳۳، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸، (ج۔۱۰) ۵۹۳۸

محمود شیرازی، مولانا: (ج۔۶) ۳۹۲۰

محمود علی پشاوری، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۵۶

محمود علی مسعودی: (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

محمود غزنوی، سلطان: (ج۔۱) ۳۹۵، (ج۔۲) ۸۱۱، (ج۔۳) ۱۳۶۳، (ج۔۴) ۲۰۱۵، ۲۰۴۷۔۲۰۴۸، ۲۰۷۹، ۲۰۶۳، ۲۰۸۳، ۲۲۴۵، (ج۔۶) ۳۴۰۲، ۳۶۹۷، ۳۸۶۹، (ج۔۸) ۴۷۹۷، (ج۔۱۰) ۵۸۲۳

محمود، قاری انصاری (جداعلیٰ شیخ محمد عابد سندھی): (ج۔۶) ۳۶۲۰

محمود کدکجی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۰

محمود کرایائی، خلیفہ: (ج۔۶) ۳۵۷۰

محمود گجراتی، حافظ: (ج۔۳) ۱۳۷۴، (ج۔۴) ۲۴۳۶۔۲۴۳۷، (ج۔۶) ۳۲۸۴

محمود مدراسی بن صبغۃ اللہ: (ج۔۶) ۳۹۶۹

محمود مزدقانی، شیخ: (ج۔۱) ۲۳۳

محمود، ملا: (ج۔۳) ۱۶۰۳، (ج۔۴) ۲۴۱۷

محمود، مولانا: (ج۔۲) ۱۲۱۵

محمود، میاں: (ج۔۶) ۳۴۲۷

محمود نظامانی، گڑیہ والے: (ج۔۶) ۳۵۷۰

محمود نظامی: (ج۔۵) ۲۹۱۰، ۲۹۴۳، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۴۲، ۳۰۴۵

محمود ہالائی، مجذوب: (ج۔۶) ۳۶۹۳

محی الدین القاب: (ج۔۲) ۱۱۲۶

محی الدین، ابوالظفر: (ج۔۹) ۵۰۳۶

محی الدین بن احمد خانی، شیخ: (ج۔۵) ۲۷۰۲

محی الدین، سید (فرزند سید میر عبداللہ بخاری اکبر پوری): (ج۔۱۰) ۵۸۷۶

محی الدین، شیخ: (ج۔۲) ۱۰۲۲، (ج۔۹) ۵۲۵۲، ۵۲۷۴، ۵۲۷۶

محی الدین، مدرس، مسجد اموی: (ج۔۶) ۳۲۱۱

محی الدین ہادی، مولانا: (ج۔۶) ۳۴۰۹

مختار احمد سرشار، چوہدری: (ج۔۱۰) ۶۴۴۱

مختار الدین آرزو، ڈاکٹر: (ج۔۵) ۲۹۰۶، (ج۔۶) ۳۶۸۴

مختار بن محمود الزاہدی، امام نجم الدین: (ج۔۲) ۷۳۷

مختار جان آغا: (ج۔۶) ۳۳۱۱، ۳۳۳۴
مخدوم الملک: (ج۔۴) ۱۹۹۶۔ ۱۹۹۷، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۳۹۸۔ ۲۳۹۹، ۲۴۰۱۔ ۲۴۰۲، ۲۴۰۴۔ ۲۴۰۶
مدثر چوہدری: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
مدثر، صاحبزادہ (خلیفہ شیخ سید امیر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۴۶
مدثر، مولوی (استاد مولوی عبدالقادر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۵۷
مدحت پاشا: (ج۔۵) ۲۶۸۷
مدخان افغانی: (ج۔۶) ۳۵۰۴
مدو بن سید موسیٰ، سید (والد سید موسیٰ شاہ شین غری): (ج۔۱۰) ۵۹۵۱
مراداخونزادہ، مولانا: (ج۔۶) ۳۸۹۲
مراداللہ عرف غلام کاکی: (ج۔۴) ۲۴۷۱
مراد بن علی مراد، شیخ (خلیفہ خواجہ معصوم سرہندی): (ج۔۱۰) ۵۶۲۷
مراد بن یعقوب، الحافظ: (ج۔۶) ۳۶۲۰
مراد پنجم، سلطان: (ج۔۵) ۲۶۸۷
مراد حنفی مجددی شیخ: (ج۔۳) ۱۶۱۲، ۱۶۱۵
مراد، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۱، ۳۴۱۶، (ج۔۱۰) ۵۶۲۹
مراد، شیخ (مصنف ذیل الرشحات): (ج۔۱۰) ۵۶۲۸
مراد علی شاہ (والد خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۴۳
مراد، ملا: (ج۔۶) ۳۹۶۲
مراد، میر (فرزند میر عماد الدین محمد حسینی): (ج۔۱۰) ۵۹۲۸، ۵۹۴۵
مرتضائی، سیوستانی، سید: (ج۔۶) ۳۵۵۸
مرتضیٰ اختر جعفری، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۴۴۱
مرتضیٰ شاہ، سید (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۷
مرتضیٰ شیعی، امام: (ج۔۹) ۵۱۷۵
مرتضیٰ، میر: (ج۔۴) ۲۳۳۹
مرتضیٰ ولد کمال الدین خاں رضوی، میر: (ج۔۶) ۳۴۷۶
مرتعش: (ج۔۷) ۴۳۵۲
مرداس الاسلمی: (ج۔۷) ۴۳۳۷
مرزا جان (والد مظہر جان جاناں): (ج۔۴) ۲۴۵۹، (ج۔۵) ۳۰۷۹، (ج۔۱۰) ۵۸۲۲
مرزا خاں: (ج۔۴) ۱۹۷۳
مرزا شمس الدین: (ج۔۴) ۲۴۲۹
مرزبان بن قیس: (ج۔۴) ۲۰۴۹
مرشد الدین بن احمد مرشدی، علامہ: (ج۔۹) ۵۳۴۱
مرشد حنفی، قاضی: (ج۔۴) ۲۳۵۲
مروان (حاکم امویہ): (ج۔۴) ۲۳۱۴
مروان بن شادی بن ایوب: (ج۔۵) ۲۸۵۱
مروان بن معاویہ: (ج۔۷) ۴۳۰۹
مرہ: (ج۔۸) ۴۸۴۰
مرہ بن کعب: (ج۔۷) ۴۰۱۸۰
مری جان مولے (مغربی دانشور): (ج۔۶) ۳۲۹۸
مرید احمد (فرزند ملا محمد نسیم صدیقی دہروی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۰
مرید احمد (فرزند میاں سراج الاسلام): (ج۔۱۰) ۵۸۹۲

مرید محی الدین نوشہروی، علامہ (ج۔۶)۳۸۹۰
مریم (علیہا السلام): (ج۔۲) ۱۱۲۳، (ج۔۴) ۲۵۶۴، (ج۔۵)۳۱۰۱، (ج۔۷)۴۰۸۵، (ج۔۱۰)۶۱۴۴
مزمل آخوندزادہ، مولوی: (ج۔۶)۳۷۱۸
مزمل، شیخ: (ج۔۲) ۱۲۱۵، (ج۔۳) ۱۳۷۴، ۱۴۲۲، ۱۴۵۳، ۱۸۵۲۔۱۸۵۳، ۱۸۶۹، (ج۔۴) ۲۳۷۸، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۹)۵۴۸۹
مسالم (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷)۴۰۱۸۰
مست علی، مولوی: (ج۔۱۰)۵۹۳۷، ۵۹۳۹
مستان شاہ میواتی: (ج۔۴)۲۰۵۶
مستجاب خان مہمند: (ج۔۱۰)۵۸۷۶
مستجاب قاشقاری، مولانا قاضی: (ج۔۶)۳۸۶۶
مستقیم زادہ: (ج۔۶)۳۹۶۹
مستنصر باللہ: (ج۔۴)۱۹۸۳
مسجدی، میاں (فرزند شیخ غلام حسن حضرت جیو پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۷۲، ۵۸۷۵
مسرور احمدزئی، ڈاکٹر: (ج۔۹)۵۵۸۴، (ج۔۱۰)۵۵۹۵
مسرور بن سعید التمیمی: (ج۔۲)۶۱۳۔۶۱۴
مسروق بن سعید: (ج۔۷)۴۳۵۰
مسعود احمد اشرفی: (ج۔۲)۴۸۳
مسعود بن ابو محمد حسین البغوی الشافعی: (ج۔۵)۲۸۵۲
مسعود بن عبداللہ، شیخ: (ج۔۳)۱۳۶۵، (ج۔۹)۵۱۸۷
مسعود بن عمر تفتازانی، علامہ سعد الدین: (ج۔۵)۲۶۹۸، (ج۔۶)۳۹۴۵
مسعود بن عمر تفتازانی، علامہ: (ج۔۲)۷۲۶
مسعود بن محمود غزنوی سلطان: (ج۔۴)۲۰۸۶
مسعود بیگ کابلی، میرک: (ج۔۱۰)۵۹۲۰۔۵۹۲، ۵۹۲۶
مسعود، سید: (ج۔۶)۳۴۳۳
مسعود، شیخ: (ج۔۳) ۱۸۴۸، (ج۔۶) ۳۴۱۵، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸
مسعود کلال سوخاری، سید: (ج۔۶)۳۷۶۳
مسعود، مرشد سید علی، سلسلۂ قادریہ): (ج۔۶)۳۵۶۷
مسعود، مولانا قاضی: (ج۔۶)۳۸۸۹، ۳۸۹۲
مسلم ابو عبید: (ج۔۷)۴۲۸۸
مسلم، امام بن حجاج قشیری: (ج۔۲)۵۲۱، ۵۴۷، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۴۔۵۷۵، ۵۷۸، ۶۰۵، ۶۱۱، ۶۱۶ (ج۔۵) ۲۸۸۳، ۲۹۸۷، ۳۰۱۴، (ج۔۶) ۳۹۶۹، (ج۔۷)۴۲۸۱، ۴۲۸۷، ۴۲۹۲۔۴۲۹۳، ۴۲۹۵، ۴۲۹۹، ۴۳۰۴، ۴۳۲۷، ۴۳۳۰، ۴۳۳۲۔۴۳۳۴، ۴۳۳۹، ۴۳۴۱۔۴۳۴۴، ۴۳۴۸، (ج۔۹) ۵۱۷۸، (ج۔۱۰) ۶۱۴۸
مسلمان، میر (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱
مسلمۃ بن الخشنی: (ج۔۷)۴۳۰۱
مسلمۃ بن علی: (ج۔۷)۴۳۰۲
مسلمۃ بن قعنب: (ج۔۷)۴۲۹۲
مسلیمہ کذاب: (ج۔۳)۱۵۰۶
مسور بن مخرمہ: (ج۔۷)۴۳۸۱
مسوئی، خلیفہ: (ج۔۶)۳۴۳۲
مسیح الدین، بابا: (ج۔۶)۳۶۷۵

مسیح اللہ: (ج۔۶)۳۸۸۲
مشاہد رضا خاں، علامہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
مشتاق احمد انبیٹھوی ثم لدھیانوی، مولوی: (ج۔۱۰)۵۹۶۳
مشتاق احمد حیدری، حکیم: (ج۔۶) ۳۴۵۰، ۳۶۲۷، ۳۶۴۸، ۳۶۷۲
مشتاق احمد سلطانی، علامہ: (ج۔۱۰)۶۰۹۴
مشتاق احمد، قاضی: (ج۔۶)۳۳۷۰
مشتاق احمد کانپوری، مولانا شاہ: (ج۔۵)۲۸۸۱
مشتاق احمد نقشبندی، پروفیسر، قاری: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶)۳۹۷۰، (ج۔۷)۳۹۹۴، ۴۴۳۷
مشرع بن ھامان: (ج۔۲)۵۲۷
مشرف حسین بن میر عماد الدین بروی: (ج۔۴)۲۲۸۱
مشوری صاحب، مولانا: (ج۔۶)۳۴۴۸
مشیخ بن علوی باعبود مدنی، شیخ: (ج۔۱) ۹۶، (ج۔۶) ۳۲۰۲_۳۲۰۳، ۳۲۰۵
مصطفیٰ باغپت، سید: (ج۔۵)۲۷۴۷
مصطفیٰ برزانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۸۳، ۳۲۸۵، ۳۲۸۹
مصطفیٰ بن خلیل قزلی: (ج۔۶)۳۲۳۷
مصطفیٰ بن عبدالرحمٰن: (ج۔۹)۵۰۲۰
مصطفیٰ بن عبدالرحمٰن عیدروس، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۷، ۳۲۱۲
مصطفیٰ بن عمر مھار، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۵، ۳۲۰۸
مصطفیٰ بن کمال الدین البکری، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۶۵، ۳۱۷۰_۳۱۷۱، ۳۱۹۷، ۳۲۰۸
مصطفیٰ بن محمد ایوبی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۶
مصطفیٰ بن محمد مرادی، شیخ: (ج۔۴)۲۱۸۲
مصطفیٰ بیگ بن علی، شیخ: (ج۔۱۰)۶۳۷۸
مصطفیٰ حسنین عبدالہادی: (ج۔۱۰)۶۱۶۳، ۶۲۰۶_۶۲۰۸
مصطفیٰ حسنین، عبدالہادی: (ج۔۹)۵۰۷۰
مصطفیٰ خاں: (ج۔۴) ۲۲۸۵، (ج۔۶) ۳۱۶۴، ۳۱۸۳، ۳۲۳۰
مصطفیٰ، شیخ: (ج۔۳)۱۴۶۱، ۱۶۱۷، ۱۷۲۵، (ج۔۶)۳۲۴۱
مصطفیٰ، صبری: (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۵) ۲۸۳۲، ۲۸۴۲، (ج۔۹)۵۰۴۰
مصطفیٰ صبغۃ اللہ شاہ (پیر ایرانی): (ج۔۶)۳۴۹۴
مصطفیٰ عالیانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۴۹
مصطفیٰ علوانی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۸۸
مصطفیٰ قاضی شیخ، میاں: (ج۔۳)۱۷۶۳_۱۷۶۴، (ج۔۹) ۵۲۱۶
مصطفیٰ کمال پاشا: (ج۔۵)۲۶۸۷
مصطفیٰ موجی شافعی: (ج۔۶)۳۱۸۱
مصعب بن سعید بن ابی وقاص: (ج۔۲) ۵۱۷، (ج۔۷) ۴۳۲۶
مصلح الدین قادری، قاری: (ج۔۵)۲۹۱۳
مصلح بن عبدالکریم سامری، شیخ: (ج۔۶)۳۱۹۸
مطرف: (ج۔۷)۴۲۹۲، ۴۳۳۹
مطیع النبی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۵۳
مطیع اللہ، کابلی، شیخ: (ج۔۶)۳۳۱۰
مطیع اللہ، میاں: (ج۔۶)۳۳۱۳

مظفر اقبال، چوہدری (ایڈوکیٹ): (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

مظفر الدین قاجاری شاہ: (ج۔۶) ۳۴۸۰

مظفر حسین ملاٹھوی: (ج۔۲) ۷۳۶، (ج۔۶) ۳۹۷۰

مظفر علی، پیر جی: (ج۔۱) ۳۲۲

مظفر علی حصاروی خواجہ (خلیفہ توکل شاہ انبالوی): (ج۔۶) ۳۷۹۰

مظفر علی، سید: (ج۔۶) ۳۹۷۱

مظفر قریشی ربیعی باغنوی، شیخ: (ج۔۵) ۲۸۴۷

مظفر، مرزا: (ج۔۳) ۱۸۵۸، (ج۔۹) ۵۲۱۴

مظفر ولد شیخ گھوان اشراف، میاں: (ج۔۳) ۱۷۶۲

مظہر الدین فاروقی: (ج۔۵) ۲۸۳۰، (ج۔۶) ۳۹۷۰

مظہر الدین مدراسی، حافظ: (ج۔۱۰) ۵۸۰۴

مظہر اللہ دہلوی، حکیم جی: (ج۔۱) ۷۵۷

مظہر بقاء، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۷۶۲

مظہر جان جاناں، مرزا: (ج۔۱) ۳۲، ۸۷، ۹۱۔۹۲، ۴۵۸، (ج۔۲) ۵۰۱، ۷۰۹، ۱۱۲۱، ۱۲۲۳، ۱۲۳۲، ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹، (ج۔۳) ۱۷۲۸، ۱۷۷۴، ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۰۷۰، ۲۲۰۷، ۲۲۱۱، ۲۲۸۹، ۲۳۶۴، ۲۴۵۹۔۔۲۴۶۰، ۲۴۶۳۔ ۲۴۶۶، ۲۴۶۹۔۲۴۷۰، ۲۴۷۲، ۲۴۷۴، ۲۴۷۹۔۲۴۸۰، ۲۴۸۸، ۲۴۹۰، ۲۵۰۳، ۲۵۰۷، ۲۵۱۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۲۵۵۳، ۲۶۴۲، ۲۷۶۲، ۲۸۰۴، ۲۸۰۷، ۲۸۱۰، ۲۸۱۲، ۲۸۱۵۔۲۸۱۷، ۲۸۷۶، ۲۸۸۸۔۲۸۸۹، ۲۸۹۲، ۲۹۰۱، ۳۰۷۸، ۳۰۸۱۔۳۰۸۲، (ج۔۶) ۳۱۴۲، ۳۲۰۲، ۳۳۵۲۔ ۳۳۵۵، ۳۳۵۷۔۳۳۵۸، ۳۳۶۱، ۳۳۶۴، ۳۳۶۷، ۳۶۹۸، ۳۸۸۳، ۳۹۳۶، (ج۔۷) ۴۰۰۹، (ج۔۸) ۴۵۰۱، ۴۵۹۶، ۴۶۰۰، ۴۶۴۹، ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۰۱۲، ۵۳۳۰، ۵۴۹۷، ۵۵۳۷، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۱۵، ۵۶۳۸۔ ۵۶۳۹، ۵۶۶۶، ۵۷۷۰، ۵۷۸۱۔ ۵۸۲۱، ۵۸۲۲۔۵۸۲۳، ۵۸۳۰، ۵۸۳۲، ۵۸۳۵، ۵۸۷۸، ۵۸۸۰۔ ۵۸۸۱، ۵۸۹۳۔۵۸۹۴، ۵۹۰۵، ۶۰۳۶، ۶۰۴۴، ۶۱۰۰، ۶۱۲۵۔۶۱۲۶، ۶۱۳۲۔۶۱۳۳، ۶۳۸۰

مظہر دہلوی، شیخ: (ج۔۲) ۸۲۳

مظہر علی خاں مظہر لکھنوی: (ج۔۱۰) ۵۶۰۵

مظہری آر۔ بی: (ج۔۶) ۳۷۰۶

معاذ بن جبل: (ج۔۲) ۶۳۰، (ج۔۴) ۲۲۸۷، ۲۲۹۳، ۲۳۰۱۔۲۳۰۲، (ج۔۷) ۴۳۱۳، ۴۳۱۶، ۴۳۶۲، ۴۴۰۰

معاذ بن رفاعۃ السلامی: (ج۔۲) ۵۹۴

معاذ (رضی اللہ عنہ): (ج۔۱۰) ۵۹۹۲

معاویہ بن ابی سفیان، امیر المومنین: (ج۔۷) ۴۳۴۰، ۴۳۶۱، (ج۔۱۰) ۵۹۲۷

معبد اللہ خجندی، شیخ: (ج۔۷) ۴۰۹۸

معتبر خان: (ج۔۴) ۲۱۸۳

معتمد خان بخشی: (ج۔۵) ۲۵۶۳، (ج۔۶) ۳۹۷۰

معتمر: (ج۔۷) ۴۲۹۴

معذان: (ج۔۷) ۴۳۴۳

معراج الدین مسعودی، حاجی: (ج۔۷) ۴۴۷۳، (ج۔۸) ۴۹۹۰، (ج۔۹) ۵۰۰۰، ۵۰۱۷، (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۳، ۶۴۳۰

معروف ابو محفوظ: (ج۔۲) ۵۵۸

معروف کرخی، شیخ: (ج۔۳) ۱۴۲۶، ۱۴۳۲، (ج۔۵) ۲۶۴۳، (ج۔۶) ۳۲۷۷، ۳۸۸۴، (ج۔۸) ۴۸۴۶،

۴۸۴۹، ۴۸۵۵، ۴۸۶۰، (ج۔۱۰)۵۶۹۵، ۶۱۴۷

معروف کوکرئی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۶۵

معروف نوداہی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۷۶، ۳۲۸۳

معزالدین حسین، سلطان ابن غیاث الدین بلبن: (ج۔۱) ۲۲۶

معزالملک: (ج۔۸)۴۹۳۱

معزاللہ، حافظ (پردادا مفتی عظیم اللہ): (ج۔۶)۳۸۶۴

معز اللہ خان، ارباب: (ج۔۶) ۳۸۹۹، (ج۔۱۰) ۵۸۷۶، ۵۸۹۲

معشوق یار جنگ بہادر، نواب: (ج۔۵)۲۸۶۸، (ج۔۸) ۴۸۵۰، ۴۸۵۲

معصوم علی شاہ: (ج۔۶)۳۹۷۰

معصوم مولانا: (ج۔۸)۴۶۰۵

معظم جان: (ج۔۴)۲۱۸۶

معظم شاہ، پیر (تواریخ حافظ رحمت خانی): (ج۔۱۰)۵۹۵۹

معظم قطب الدین شاہ عالم بہادر: (ج۔۴)۲۱۸۵

معلوف لوئیس: (ج۔۵)۳۰۱۲، (ج۔:)۳۹۶۲

معلیٰ بن اسد: (ج۔۲)۵۶۶

معلیٰ بن مہدی: (ج۔۲)۵۱۷

معمر (راوی حدیث): (ج۔۲) ۵۲۴، (ج۔۷) ۴۳۰۴، ۴۳۱۳، ۴۳۱۵

معموری، مولانا (خلیفہ شیخ محمد یحییٰ اٹکی): (ج۔۱۰)۵۹۳۱

معید الیوحتی: (ج۔۵)۲۹۸۸

معین الحق، ڈاکٹر سید: (ج۔۴)۲۴۰۲، ۲۴۰۴، ۲۴۳۲

معین الدین: (ج۔۴)۲۲۸۴

معین الدین جان چشموی: (ج۔۱۰)۵۹۵۷

معین الدین جان چشموی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۷۴۰_۳۷۴۲، ۳۷۴۶

معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ: (ج۔۱) ۹۷، (ج۔۲) ۱۱۲۵، ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۲۹۳، ۱۳۷۱، ۱۶۴۴، (ج۔۴) ۱۹۹۱، ۲۰۴۸_۲۰۴۹، ۲۰۶۵، ۲۰۶۴، ۲۰۸۶_۲۰۸۷، ۲۰۹۱، ۲۱۵۹_۲۱۶۰، ۲۵۰۰، ۲۵۱۲، (ج۔۵) ۲۷۴۹، ۲۸۸۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۶، ۳۰۸۸، ۳۰۹۲، (ج۔۶) ۳۶۱۰، ۳۶۶۰_۳۶۶۱، ۳۶۶۳، ۳۷۰۷، ۳۷۴۰، ۳۸۴۹، ۳۸۶۰، ۳۸۸۳، ۳۹۲۳، (ج۔۷) ۴۰۴۰، ۴۰۵۰، ۴۰۵۱، (ج۔۸) ۴۸۴۲، ۴۸۵۶، ۴۸۶۲، ۴۹۳۶، (ج۔۹) ۴۹۹۷، ۵۴۶۷، (ج۔۱۰) ۵۸۵۶_۵۸۵۷، ۵۸۷۵، ۶۰۴۶

معین الدین، سید ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۸۵

معین الدین صفوی سید: (ج۔۷)۴۳۵۰

معین الدین عبداللہ، مولانا: (ج۔۹)۵۴۲۸

معین الدین قریشی اٹکی: (ج۔۱۰)۵۹۴۵

معین الدین ندوی، شاہ: (ج۔۹)۵۱۹۶

معین الدین نظامی، صاحبزادہ ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۵۷۶۳، ۵۸۸۶، ۶۲۴۲، ۶۲۸۷

معین الدین ہادی نقشبندی، خواجہ: (ج۔۱)۲۴۹_۲۵۱

مغفل بن یسار: (ج۔۷)۴۳۴۱

مغل ابراہیم: (ج۔۱)۱۳۸۰

مغیرۃ الحزامی: (ج۔۷)۴۲۹۳

مغیرۃ بن شعبۃ: (ج۔۷)۴۲۸۶_۴۲۸۷، ۴۳۷۰

مفافر حسین ثاقب، پیر : (ج۔۹) ۵۵۳۱، (ج۔۱۰) ۵۷۷۰، ۵۹۲۸

مقبول احمد (فرزند حکیم مشتاق احمد): (ج۔۶) ۳۶۷۷

مقبول احمد مجددی، میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۱۴

مقبول احمد، مولانا (خلیفہ شاہ غلام محمد مجددی): (ج۔۶) ۳۵۵۳

مقبول حسین بخاری، سید مولانا: (ج۔۱۰) ۶۴۳۳

مقدم بن معدی کرب: (ج۔۷) ۴۳۳۱

مقصود احمد باجڑہ گڑوی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۰۷۶

مقصود احمد خان مظہری، حاجی: (ج۔۸) ۴۶۷۹

مقصود احمد عمری، پیر: (ج۔۶) ۳۲۲۴

مقصود حسین قادری : (ج۔۱) ۲، (ز۔۲) ۴۸۲، (ج۔۵) ۲۵۳۰، (ج۔۶) ۳۱۲۲، (ج۔۷) ۴۴۶۷

مقصود علی، پروفیسر حافظ سید: (ج۔۱) ۲۲، (ج۔۲) ۴۸۹، ۸۳۷، (ج۔۶) ۳۴۵۰، ۳۶۷۸۔ ۳۶۷۹، ۳۷۰۷، (ج۔۱۰) ۶۴۳۰، ۶۴۹۴

مقصود علی تبریزی، ملا: (ج۔۵) ۲۷۷، (ج۔۹) ۵۴۱۸۔ ۵۴۱۹

مقصود علی، حافظ (درباری): (ج۔۴) ۲۳۳۶، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹

مکحول شامی، ابوعبداللہ بن عبداللہ: (ز۔۲) ۷۰۲، (ج۔۶) ۳۹۳۹، (ج۔۷) ۴۳۴۵

مکرم حسین خوارزمی، شیخ: (ج۔۱۰) ۵۶۷۶

مکرم خان، نواب (گورنر لاہور): (ج۔۴) ۲۲۸۵، ۲۲۹۰، (ج۔۶) ۳۶۹۸، (ج۔۹) ۵۵۳۱، (ز۔۱۰) ۵۷۷۰

مکرم شافعی، امام: (ج۔۱) ۱۳۸۰

مکی بن ابراہیم: (ج۔۲) ۵۵۱، (ج۔۷) ۴۲۸۶، ۴۲۸۷

ملک احمد: (ج۔۳) ۱۸۶۵

ملنگ شاہ، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

ملنگی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۳۴۴

ممتاز احمد سدیدی، مولانا : (ج۔۱) ۱۰۳، (ج۔۴) ۲۵۲۷، (ج۔۵) ۲۵۳۸، ۲۸۵۹

ممتاز احمد (ماہنامہ فیض): (ج۔۱۰) ۶۴۳۳

ممتاز الحسن نقشبندی، صاحبزادہ (فرزند خواجہ غلام قاسم کمبوہ): (ج۔۱۰) ۵۹۰۷

ممتاز حسین (فرزند چودھری عبد الرؤف) : (ج۔۱۰) ۶۰۷۸

ممتاز سراج الدین، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۷

ممتاز شاہ غاسی: (ج۔۶) ۳۳۳۱، ۳۴۲۱، ۳۴۲۴

ممتاز علی شاہ دہلوی، مولانا حافظ: (ج۔۱۰) ۶۰۵۶

ممتاز محل، ملکہ ارجمند بانو: (ج۔۲) ۸۹، (ج۔۶) ۳۶۹۷

ممتاز نقشبندی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۵

ممریز خان: (ج۔۹) ۵۱۰۲

ممشاد علو دینوری، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۴۱، ۴۸۶۲

ممنون احمد آسوی: (ج۔۱۰) ۶۰۹۳

مناظر احسن گیلانی سید : (ج۔۱) ۴۱۶، (ج۔۴) ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵۔ ۲۰۱۶، ۲۰۹۱، ۲۱۶۷۔ ۲۱۶۸، ۲۴۰۲۔ ۲۴۰۳، ۲۴۳۲، (ج۔۵) ۲۶۴۵، ۲۶۴۹، (ج۔۶) ۳۹۷۰، (ج۔۸) ۴۸۱۲، ۴۸۳۲، ۴۹۳۷،

(ج۔۹)۵۲۹۳
منان رضا خان، علامہ: (ج۔۵)۲۹۱۳
مناوی، امام: (ج۔۲) ۵۱۳، ۵۳۷، ۵۷۶۔ ۵۷۷، (ج۔۶)۳۹۴۴
منتخب الحق، مولانا: (ج۔۶)۳۶۴۰
منچن، میجر: (ج۔۱۰)۵۹۵۹
منذری، علامہ: (ج۔۲)۵۳۳، (ج۔۷)۴۳۰۰، ۴۳۰۷، ۴۳۰۹
منصور: (ج۔۲)۱۲۲۳، (ج۔۷)۴۲۹۹، ۴۴۴۶
منصور بن حلاج سرمد: (ج۔۳)۱۵۳۶، (ج۔۴)۲۳۴۹، (ج۔۵) ۳۰۳۷، (ج۔۶) ۳۸۸۳، (ج۔۸) ۴۹۵۲، (ج۔۹)۵۴۰۲
منصور بن صفیہ: (ج۔۲)۵۳۲
منصور بن یوسف بدیری، شیخ: (ج۔۶)۳۲۰۳
منصور عرب: (ج۔۹)۵۲۱۵
منصور، ملاں: (ج۔۱۰)۵۹۴۶
منظور احمد دہلوی، مولانا: (ج۔۶)۳۶۳۶۔۳۶۳۷
منظور احمد سعیدی ڈاکٹر: (ج۔۸)۴۷۷۰
منظور احمد مکان شریفی، سید: (ج۔۶) ۳۵۷۴، (ج۔۹) ۵۵۷۵
منظور احمد، مولانا ابن مفتی محمد مظہر اللہ: (ج۔۱)۱۸۷
منظور احمد نعمانی، مولانا: (ج۔۴) ۲۱۶۸، (ج۔۵) ۳۰۴۰، (ج۔۶)۳۹۷۰، (ج۔۹)۵۰۶۸، ۵۱۱۸، ۵۱۵۴، ۵۲۹۳
منظور الحق صدیقی (تاریخ حسن ابدال): (ج۔۱۰)۵۹۲۴
منظور حسین جیلانی: (ج۔۵)۲۹۱۳
منظور حسین سندھی: (ج۔۵)۲۸۶۲
منظور حسین مجذوب (مرید خواجہ سید محمد امین شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۱۴
منظور علی بدایونی، سید: (ج۔۴)۲۳۹۶
منظور علی، سید (والد پروفیسر سید مقصود علی): (ج۔۶)۳۶۷۸
منور احمد خاں (خانقاہ کوٹ عبد الخالق بھارت): (ج۔۶) ۳۷۹۸
منور حسین شاہ، سید: (ج۔۶)۳۷۸۱
منیر احمد جان (صاحبزادہ مفتی محمد عبد اللہ نعیمی شہید): (ج۔۶)۳۶۷۱
منیر احمد خاں، حافظ ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۸۶، (ج۔۱۰)۶۱۲۱
منیر احمد، سید: (ج۔۱۰)۶۴۳۸
منیر احمد شاہ: (ج۔۶)۳۷۹۴
منیر احمد (فرزند علامہ محمد شیخ اوکاڑوی): (ج۔۶)۳۵۹۵
منیر احمد (کاتب): (ج۔۱۰)۶۳۳۳
منیر احمد، مولانا: (ج۔۱۰)۶۴۳۴
منیر احمد یوسفی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰)۶۴۴۲
منیر حسین: (ج۔۷)۳۹۹۲، ۴۰۱۴
منیر حسین مسعودی: (ج۔۱)۴۸، (ج۔۲)۴۸۳، ۹۵۵
منیر احمد مسعودی (برمنگھم، یو۔کے): (ج۔۱۰)۶۴۴۷
مودو، سلطان (والی افغانستان): (ج۔۴)۲۰۸۶
مودود چشتی، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۴۲، ۴۹۴۴، ۴۸۵۶
مودود محمد، مولانا شیخ: (ج۔۱)۴۱۲، (ج۔۲)۱۰۲۸، (ج۔۳) ۱۴۲۲

مودودی، ابو الاعلیٰ سید : (ج_۱) ۳۰، (ج_۲) ۷۳۶، (ج_۴)۲۵۲۵، (ج_۵)۲۵۳۶، ۲۵۵۴، (ج_۹)۵۱۵۵

مورث، سید: (ج_۸)۴۸۵۹

موسیٰ (علیہ السلام): (ج_۲)۷۵۴: ۸۶، ۸۶۸، ۱۱۰۷، ۱۱۰۹، ۱۱۲۲، ۱۱۶۶، ۱۱۸۴، (ج_۳)۱۳۸۳، ۱۴۱۸، ۱۴۹۵_۱۴۹۷، ۱۵۱۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۹، ۱۵۴۴، ۱۵۵۰، ۱۵۵۳، ۱۵۶۴_۱۵۶۶، ۱۶۲۸، ۱۶۴۲، ۱۶۴۵، ۱۶۷۶_۱۶۷۷، ۱۶۷۹، ۱۸۳۰، ۱۸۵۷، (ج_۴)۲۳۳۲، ۲۴۲۱، ۲۴۹۴، (ج_۵) ۲۶۰۷، ۲۷۱۶_۲۷۱۷، ۲۹۸۳، ۳۰۹۷، ۳۰۹۹_۳۱۰۰، (ج_۷)۴۱۴۰، ۴۲۵۶، ۴۲۵۷، ۴۲۷۵، ۴۳۷۵، ۴۴۱۶، (ج_۸) ۴۶۰۲، ۴۶۱۸، ۴۷۲۵، ۴۷۳۶، ۴۷۴۴، ۴۷۵۷، ۴۷۷۶، (ج_۹) ۵۱۴۶، ۵۲۴۵، ۵۲۷۰، ۵۳۲۰، ۵۳۳۱، ۵۳۳۸، ۵۳۷۲، ۵۳۹۷، ۵۴۴۸، (ج_۱۰)۵۸۱۵، ۵۸۱۷، ۵۸۲۴

موسیٰ، ابوصالح: جنگی دوست: (ج_۸)۴۸۵۹

موسیٰ الصغار: (ج_۵)۲۸۴۷

موسیٰ بن ابوسعود مرادی، شیخ: (ج_۶)۳۲۳۴، ۳۲۳۹

موسیٰ بن اسعد محاسنی، شیخ: (ج_۶)۳۱۸۲، ۳۲۲۸

موسیٰ بن اسمعیل : (ج_۲)۵۳۱، ۵۴۶، ۵۵۳، (ج_۷) ۴۲۹۷

موسیٰ بن عبیدۃ الربزی: (ج_۲)۶۴۲

موسیٰ بن عیسیٰ: (ج_۷)۴۳۰۵

موسیٰ ثانی سید: (ج_۸)۴۸۵۹

موسیٰ رضا، امام: (ج_۱۰)۵۶۹۵، ۵۸۰۱

موسیٰ سندھی، شیخ (مرید مجدد الف ثانی): (ج_۱۰)۶۱۲۸

موسیٰ سہوانی، شیخ : (ج_۶) ۳۲۴۱، ۳۴۱۷، ۳۴۴۶، ۳۴۴۵، ۳۴۵۰_۳۴۵۲

موسیٰ شاہ شین غری، سید: (ج_۱۰)۵۹۵۱

موسیٰ شاہ لوئی، پیر (مرشد مخدوم احمدی): (ج_۶)۳۷۰۴

موسیٰ شوین، شیخ قاضی: (ج_۱۰)۵۹۱۹، ۵۹۲۳، ۵۹۲۵

موسیٰ صدیقی مرغزی (المعروف موسیٰ بابا) : (ج_۱۰) ۵۸۷۷

موسیٰ قادری، سید: (ج_۸)۴۸۶۰

موسیٰ، قاضی (دادو): (ج_۲)۱۲۰۹، (ج_۶)۳۶۹۰

موسیٰ قلعہ دار (رفیق قائداعظم): (ج_۶)۳۵۵۱، (ج_۹) ۵۵۷۲

موسیٰ کاظم، امام : (ج_۶) ۳۴۳۱، ۳۸۸۴، (ج_۱۰) ۵۶۹۵

موسیٰ گیلانی، شیخ : (ج_۴) ۱۹۸۲، (ج_۶) ۳۳۴۹، (ج_۹)۵۳۳۴_۵۳۳۵

موسیٰ لاہوری: (ج_۹)۵۱۸۰

موفق بن احمد مکی، علامہ: (ج_۳)۱۶۶۲، (ج_۵)۳۰۷۲_۳۰۷۳، (ج_۶)۳۹۴۷، ۳۹۷۰

مولابخش سومرو، حاجی خان بہادر: (ج_۶)۳۷۳۵

مولابخش قریشی: (ج_۶)۳۸۶۹

مولاداد قندھاری، حاجی: (ج_۶)۳۵۵۸

مولوی خان، خواجہ (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج_۱۰) ۶۰۰۲

مومن بلغی، میر: (ج_۸)۴۵۶۰، (ج_۱۰)۵۶۳۸

مومن، درویش: (ج_۶)۳۶۹۳

مہا دیو (بت): (ج_۴)۲۲۰۵

مہابت خان لودھی : (ج۔۱) ۳۹۷، (ج۔۳) ۱۲۸۵، ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹، (ج۔۴) ۲۰۳۰، ۲۱۴۶، ۲۱۶۲۔ ۲۱۶۳، ۲۲۰۷، ۲۲۷۲، (ج۔۵) ۲۵۷۶۔ ۲۵۷۷، (ج۔۸) ۴۵۶۷، (ج۔۹) ۵۴۸۲، ۵۴۸۶ ۵۵۵۶، (ج۔۱۰) ۵۶۸۴، ۵۶۸۷، ۵۷۶۶

مہاجر مکی، مولانا: (ج۔۶) ۳۵۰۰

مہامائی (بُت): (ج۔۴) ۲۲۰۵

مہتر ہالینڈ (مصنف): (ج۔۱۰) ۵۶۳۱

مہدی، امام: (ج۔۲) ۶۹۴، ۱۰۹۹، ۱۱۱۷، ۱۱۵۱، (ج۔۳) ۱۳۸۴، ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹، ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۷، ۱۵۵۶، ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴، ۱۵۶۶، ۱۸۲۶، (ج۔۴) ۲۲۷۰، ۲۳۲۸، (ج۔۵) ۲۷۱۹، ۳۰۷۶، ۳۱۰۵، (ج۔۶) ۳۳۴۷، (ج۔۷) ۴۲۱۷، ۴۳۷۰، ۴۴۲۹، (ج۔۸) ۴۵۲۶۔ ۴۵۲۸، ۴۵۳۸۔ ۴۵۳۹، ۴۵۴۵، (ج۔۹) ۵۱۴۰، ۵۲۰۱، ۵۳۱۵، ۵۴۱۶، ۵۴۹۶، (ج۔۱۰) ۶۱۷۵

مہدی بن منصور (عباسی خلیفہ): (ج۔۵) ۲۹۲۱

مہدی حسن شاہجہانپوری، مولانا: (ج۔۵) ۲۶۰۳، ۲۸۱۰

مہدی حسن، مفتی: (ج۔۵) ۲۸۱۷

مہر بیگ (جدِ اعلیٰ شیخ سید امیر نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۴۳

مہر شاہ (مرید خواجہ غریب نواز اجمیری): (ج۔۱۰) ۶۰۴۶

مہر علی شاہ گولڑوی ، پیر سید: (ج۔۵) ۲۹۲۸، ۳۰۲۳، (ج۔۶) ۳۸۴۶، ۳۸۵۹، ۳۸۶۹، (ج۔۷) ۴۴۱۷، (ج۔۱۰) ۵۹۴۰، ۵۹۴۵، ۵۹۷۳۔ ۵۹۷۴، ۶۰۱۰

مہر علی نواز پوری: (ج۔۶) ۳۹۷۰

مہر محمد زکریا دہلوی، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۹۳۵

مہر محمد صوبہ لاہوری: (ج۔۶) ۳۷۷۵۔ ۳۷۸۶

مہربان علی شاہ (اخوڑہ اختک): (ج۔۶) ۳۸۶۹

مہمند، شیخ الاسلام: (ج۔۶) ۳۳۰۱

مہندخت معتمدی، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۲۹، (ج۔۳) ۱۸۸۸، (ج۔۴) ۲۵۰۹، ۲۵۰۴، (ج۔۱۰) ۶۳۸۴

مہندی، شیخ: (ج۔۵) ۲۵۸۶

میاں میر: (ج۔۳) ۱۴۰۳، ۱۶۳۸، ۲۱۶۵، (ج۔۴) ۲۱۷۴، (ج۔۸) ۴۹۰۹

میدنہ نصرپوری، مخدوم: (ج۔۶) ۳۴۷۶

میر اعظم افغان علی زئی معروفی، مُلا: (ج۔۶) ۳۵۹۸

میر تقی میر: (ج۔۴) ۲۳۹۰

میر تقی، میر: (ج۔۱۰) ۵۷۸۴

میر حالا کابلی، ملا (خلیفہ خواجہ خاوند محمود): (ج۔۶) ۳۷۶۵

میر حسین (فرزند ملا محمد نسیم صدیقی دہروی) : (ج۔۱۰) ۵۸۸۰

میر درد، خواجہ : (ج۔۴) ۲۳۹۲، ۲۴۶۳، ۲۵۱۲، (ج۔۵) ۲۶۲۷، (ج۔۹) ۵۴۰۵، ۵۵۲۳

میر عدل، قاضی: (ج۔۴) ۱۹۷۰

میر کاسلوانی، مولانا: (ج۔۹) ۵۲۱۳

میر محمد : (ج۔۸) ۴۵۶۰

میر محمد پیر سباکی، سید: (ج۔۱۰) ۵۸۷۳، ۵۹۳۰

میر محمد ، حافظ (عم حافظ محمد رانجھا نقشبندی) : (ج۔۱۰) ۵۹۸۴

میر، میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۵۷

میر ناصر، خواجہ: (ج۔۹) ۵۵۲۳

میر احمد، حافظ: (ج۔۶)۳۸۸۲

میران شاہ بن قطب الدین: (ج۔۸)۴۹۳۵

میراں محمد شاکر ٹکھرائی، سید: (ج۔۶)۳۶۹۲

میراں محمد شاہ، سید: (ج۔۶)۳۵۰۰۔۳۵۰۱

میرک، شیخ بن فصیح الدین شیخ: (ج۔۳)۱۴۵۳

میرک، علامہ: (ج۔۳)۱۸۵۳۔۱۸۵۴، ۱۸۷۰

میرک گرزبردار، مرزا: (ج۔۴)۲۲۸۵

میرک معین الدین: (ج۔۴)۲۲۸۴

میسرۃ الفجر: (ج۔۷)۴۳۵۶

میسی نیون، پروفیسر: (ج۔۱۰)۵۸۶۰

میکانگی، میجر (مصنف): (ج۔۱۰)۵۱۵۹

میکائیل (علیہ السلام): (ج۔۷)۴۲۷۱

میکائیل، پیر عرف شش انگشت: (ج۔۴)۲۵۰۴

میکڈ انلڈ، پروفیسر (مصنف ''شیون اسلام''): (ج۔۱۰) ۵۸۶۰

میکیاولی: (ج۔۵)۲۹۸۶

میمون بن مہران: (ج۔۲)۷۰۲

مینوکی: (ج۔۸)۴۹۰۳

ن

نادر خان (بادشاہ افغانستان): (ج۔۶)۳۷۵۹

نادر دین، خواجہ بابا: (ج۔۱۰)۶۰۰۲

نادر شاہ افشار (حاکم قندھار): (ج۔۶)۳۷۱۵

نادر شاہ ایرانی (حاکم ایران): (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۱۸۷، (ج۔۶) ۳۳۰۰، ۳۳۰۸، ۳۵۸۰، ۳۶۵۵، ۳۸۶۸، (ج۔۱۰)۵۹۵۰

نادر شاہ، پیر (برادر ہفتم پیر پگارا شاہ مردان شاہ): (ج۔۶) ۳۵۷۴

نادر شاہ (والی افغانستان): (ج۔۶)۳۷۷۲، ۳۷۸۱

نادر علی شاہ مشھدی، سید (جد اعلیٰ سید گلاب شاہ مشھدی): (ج۔۱۰)۵۹۵۷

نازیہ عادل الحقانی القبرصی: (ج۔۶)۳۲۴۹

ناصر الدین البانی: (ج۔۲)۷۰۰

ناصر الدین، سلطان: (ج۔۴)۲۰۸۷

ناصر الدین قاچار: (ج۔۶)۳۴۹۴

ناصر الدین قادری، ڈاکٹر صاحبزادہ: (ج۔۴) ۲۴۷۷۔۲۴۷۹، (ج۔۶)۳۳۵۷، ۳۹۶۰

ناصر الدین کرمانی، منشی: (ج۔۵)۲۸۵۰۔۲۸۵۱، ۲۸۵۸، ۲۸۵۵

ناصر الدین محمد شاہ: (ج۔۹)۵۵۴۹

ناصر الدین محمود: (ج۔۴)۲۰۴۹، ۲۰۶۴

ناصر، سید میر: (ج۔۸)۴۸۶۸

ناصر، شیخ: (ج۔۸)۴۵۰۹، ۴۶۱۶

ناصر، شیخ بن حضرت عبداللہ: (ج۔۱)۴۰۸، (ج۔۳)۱۳۶۵

ناصر علی سرہندی: (ج۔۶) ۳۶۹۸، (ج۔۹) ۵۵۳۱، ۵۵۳۳، (ج۔۱۰)۵۷۶۸۔۵۷۷۰

ناطق کلانوری گجراتی: (ج۔۶)۳۸۰۰

ناظم الدین، خواجہ: (ج۔۶)۳۵۵۰

ناظم القبرصی الحقانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۴۳، ۳۲۴۶،

۳۲۴۷
ناظم، بشیر حسین: (ج۔۱) ۳۳، (ج۔۵) ۳۱۱۷، (ج۔۶) ۳۱۲۹، ۳۱۳۸
ناظم، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۷۲
نافع بن جبیر: (ج۔۲) ۷۰۲
نافع (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷) ۴۳۰۶، (ج۔۹) ۵۱۸۶
ناگوری، شیخ: (ج۔۲) ۱۲۱۵
نامدار جالندھری مولوی: (ج۔۱۰) ۶۰۴۷
نبھانی، علامہ: (ج۔۲) ۵۸۸، ۵۸۹، (ج۔۹) ۵۲۷۰
نبی بخش باگڑجی، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۵۰۵۶
نبی بخش بلوچ، ڈاکٹر (محقق): (ج۔۶) ۳۷۰۱، ۳۷۰۵، (ج۔۱۰) ۶۱۳۲
نبی بخش خواجہ خیل، ارباب: (ج۔۶) ۳۷۳۲
نبی بیگ، مرزا: (ج۔۶) ۳۵۸۸
نبی شاہ، صوبیدار: (ج۔۶) ۳۶۴۴
نپولین بوناپاٹ: (ج۔۶) ۳۲۳۵
نتھے شاہ (جدامجد سید حبیب اللہ نقشبندی توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۹
نٹشے (جرمن فلاسفر): (ج۔۵) ۲۹۳۶۔۲۹۳۸
نثار احمد جان سرہندی، پروفیسر: (ج۔۱) ۲۶، (ج۔۲) ۱۷۱۷
نثار احمد فاروقی: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴
نثار احمد کانپوری، مولانا: (ج۔۶) ۳۵۳۲، (ج۔۱۰) ۵۸۰۵، ۶۳۵۶
نثار احمد مجددی (صوفی حیدرآباد): (ج۔۶) ۳۶۹۲
نثار الحق سیفی نقشبندی مجددی صوفی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۹
نجدت طوسون، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۱۰۲
نجف علی شاہ، سید (والد سید دیدار علی شاہ الوری): (ج۔۱۰) ۵۸۰۱
نجم الاسلام، ڈاکٹر: (ج۔۱۰) ۶۱۲۵
نجم الاسلام (فرزند شیخ میاں سراج الاسلام): (ج۔۱۰) ۵۸۹۲
نجم الدین بن قطب الدین قلندر: (ج۔۸) ۴۸۴۷
نجم الدین بن محمد امین الکردی الاربلی: (ج۔۱۰) ۶۴۰۴
نجم الدین، خواجہ (المعروف ہڈہ ملاصاحب): (ج۔۶) ۳۸۴۱، ۳۸۷۲
نجم الدین رازی، علامہ: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۵۰، ۵۸۸۔۵۸۹، ۶۰۲، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۶۰، (ج۔۵) ۳۰۱۶، (ج۔۶) ۳۹۷۰، (ج۔۷) ۴۳۱۲
نجم الدین رملی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۷۰
نجم الدین سلمانی (مصنف مناقب المحبوبین): (ج۔۱۰) ۵۸۹۴
نجم الدین، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۶
نجم الدین صغریٰ: (ج۔۴) ۲۰۸۷
نجم الدین غزی (شیخ الاسلام): (ج۔۶) ۳۱۷۸
نجم الدین (فرزند شیخ شہباز مومندہی): (ج۔۱۰) ۵۸۷۰
نجم الدین کبریٰ، شیخ: (ج۔۲) ۱۱۴۲، ۱۱۸۷، (ج۔۳) ۱۳۸۲، ۱۴۲۶، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، (ج۔۴) ۲۵۰۰

نجم الدین کردی سراجی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۸۱
نجم الدین، مولانا: (ج۔۴) ۲۵۰۸، (ج۔۶) ۳۳۳۰
نجم الدین نقشبندی، شیخ: (ج۔۱) ۹۹
نجیب الدولہ، نواب: (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۱۸۹
نجیب الدین، ابوالفتح، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۹۴
نجیب بن احمد قلعی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۳۷
نذر الاسلام صافی: (ج۔۶) ۳۳۹۲
نذر صابری (مرتب دیوان شاکر): (ج۔۱۰) ۵۹۳۳
نذر محمد (راولپنڈی): (ج۔۶) ۳۷۸۲
نذر محمد، مولانا (سکھر): (ج۔۶) ۳۷۳۸
نذر محمد، میاں: (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
نذیر احمد جان، علامہ: (ج۔۶) ۳۶۷۱
نذیر احمد حافظ (حضرت کرام نقشبندی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۴
نذیر احمد عابد (ماہنامہ فیض): (ج۔۱۰) ۶۴۳۴
نذیر احمد (مصنف اکبری دور کا فارسی ادب): (ج۔۱۰) ۵۷۰۷
نذیر احمد، مولانا (خلیفہ خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۵۶
نذیر صابری پروفیسر: (ج۔۱۰) ۶۴۹۰
نذیر نیازی، سید: (ج۔۱) ۲۴، (ج۔۵) ۲۸۴۱، ۲۹۱۰، ۲۹۲۵، ۲۹۲۷، ۲۹۴۴، ۳۰۰۷۔۳۰۰۸، ۳۰۲۰۔۳۰۲۲، ۳۰۳۳، ۳۰۴۱، ۳۰۴۴، (ج۔۶) ۳۸۴۴، ۳۹۷۰
نزار اباظہ: (ج۔۶) ۳۹۷۰
نسائی، امام: (ج۔۲) ۵۳۳۔۵۳۴، ۵۵۳۔۵۵۴، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۲۸۱، ۴۲۸۴، ۴۲۸۷، ۴۲۹۱، ۴۲۹۲، ۴۳۰۲، ۴۳۱۱، ۴۳۱۲، ۴۳۲۴
نسفی، امام، حافظ: (ج۔۹) ۵۴۴۸
نسیم الف۔د، ڈاکٹر: (ج۔۳) ۱۸۷۲
نسیم احمد فریدی امروہوی: (ج۔۳) ۱۸۸۷، (ج۔۴) ۲۳۵۹، (ج۔۵) ۲۷۲۵، ۲۷۹۳، (ج۔۶) ۳۹۷۰، (ج۔۹) ۵۱۱۸، ۵۲۵۴، ۵۳۸۳، ۵۴۰۱، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۰
نسیم احمد، مولانا: (ج۔۵) ۲۷۴۱
نسیم، حضرت (خلیفہ مرزا مظہر جان جاناں): (ج۔۱۰) ۶۱۲۶
نصر المروزی: (ج۔۲) ۵۹۴
نصر اللہ ہوتکی، مولوی: (ج۔۵) ۲۵۳۷، ۲۷۱۵، ۲۷۲۲، ۲۷۱۴، (ج۔۶) ۳۹۷۱، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۳۶
نصر بن الجہضمی: (ج۔۲) ۵۹۵
نصر اللہ خان، قاضی: (ج۔۶) ۳۳۸۹
نصر اللہ، مرید خواجہ محمد عمر جان چشموی): (ج۔۶) ۳۷۳۵
نصیر احمد پشاوری، شیخ المحدثین: (ج۔۶) ۳۸۶۵
نصیر احمد، شیخ: (ج۔۸) ۴۸۳۸
نصیر احمد نعیمی، مولانا: (ج۔۱۰) ۶۴۹۴
نصیر الدین: (ج۔۶) ۳۳۶۱، (ج۔۷) ۴۴۷۳
نصیر الدین چراغ دہلوی، شیخ: (ج۔۴) ۲۰۴۹، (ج۔۶) ۳۸۸۳، (ج۔۹) ۵۴۶۷
نصیر الدین شاہ: (ج۔۸) ۴۸۴۲
نصیر الدین، شیخ: (ج۔۸) ۴۵۰۹

نصیرالدین نوشہرائی: (ج۔۶)۳۶۹۴

نصیراللہ طیبی: (ج۔۱۰)۶۴۳۹

نصیرخان بلوچ (حاکم قلات): (ج۔۶)۳۵۵۶، ۳۵۶۰، (ج۔۱۰)۵۹۵۱

نصیرلغاری، حاجی: (ج۔۶)۳۶۹۳

نضر بن انس: (ج۔۷)۴۳۱۶

نظام الدین احمد، مورخ: (ج۔۵)۲۵۶۳، ۲۵۸۱، (ج۔۹) ۵۱۵۵

نظام الدین اولیاء، خواجہ: (ج۔۱) ۱۸۲، (ج۔۲) ۹۸۷، ۱۱۲۵، (ج۔۴) ۲۰۴۹، ۲۴۹۵، ۲۵۰۲، (ج۔۵) ۲۹۲۳، ۲۹۲۵، (ج۔۶)۳۳۵۳، ۳۳۶۶ ـ ۳۳۶۷، ۳۳۸۴، ۳۳۸۷، ۳۸۸۳، ۳۹۷۱، (ج۔۹) ۵۳۷۵، ۵۴۶۷، (ج۔۱۰)۵۸۲۶، ۵۸۲۷

نظام الدین بخشی، مرزا: (ج۔۴)۱۹۸۲

نظام الدین بدخشی، قاضی: (ج۔۶)۳۳۰۶

نظام الدین بریلوی، مولانا: (ج۔۸)۴۶۴۲

نظام الدین بلخی، سید (تحفہ المرشد): (ج۔۱۰)۵۸۹۲

نظام الدین توکلی: (ج۔۹)۵۰۲۸

نظام الدین تھانیسری، شیخ: (ج۔۱۰)۵۹۴۶

نظام الدین، حکیم: (ج۔۶)۳۶۶۰

نظام الدین، خواجہ مولوی (خلیفہ خواجہ ہادی نامدار شاہ): (ج۔۱۰)۶۰۰۳

نظام الدین، خواجہ (خلیفہ خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج۔۱۰)۵۹۳۷

نظام الدین خواجہ (کیاں شریف آزاد کشمیر): (ج۔۶) ۳۷۷۲

نظام الدین، خواجہ (مرشد خواجہ محمد قاسم): (ج۔۶)۳۴۹۵

نظام الدین، راجہ (جداعلیٰ نور محمد نظامی): (ج۔۱۰)۶۴۹۰

نظام الدین سرہندی، خواجہ: (ج۔۱)۲۷، (ج۔۳)۱۸۸۵، (ج۔۴)۱۹۰۵، (ج۔۸)۴۹۹۰، (ج۔۹)۵۰۰۰، ۵۰۰۵

نظام الدین سندھی نقشبندی، شیخ: (ج۔۵)۲۸۸۴

نظام الدین سہالوی، ملا: (ج۔۶)۳۴۰۸

نظام الدین سیالوی، ملا (بانی درس نظامی): (ج۔۱۰) ۵۸۲۱۔۵۸۲۲

نظام الدین شاہ: (ج۔۸)۴۸۴۲

نظام الدین شکارپوری: (ج۔۵)۲۸۱۱، (ج۔۶)۳۹۷۱

نظام الدین فاروقی، شیخ: (ج۔۹)۵۱۱۴

نظام الدین قاسمی، صاحبزادہ: (ج۔۶) ۳۸۰۴، ۳۸۱۴، ۳۸۲۳

نظام الدین مجددی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۶۹۵، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۰

نظام الدین مخمور توکلی: (ج۔۱۰)۵۹۸۱

نظام الدین (مرید علاء الدین محمد عطار): (ج۔۶)۳۶۵۳

نظام الدین، مولانا (ڈیرہ اسمٰعیل خان): (ج۔۶)۳۹۱۸

نظام الدین، مولوی (استاد خواجہ عبدالغفار فضلی نقشبندی): (ج۔۱۰)۶۰۵۹۔۶۰۶۰

نظام الدین نارنولی، شیخ: (ج۔۲)۶۷۸، ۱۱۰۱

نظام الملک: (ج۔۴)۲۰۵۵

نظام بدخشی، قاضی: (ج۔۱۰)۵۷۰۴

نظام تھانسیری، شیخ: (ج۔۲)۶۶۳، ۱۲، ۷، ۱۲۰۹
نظام علی خان، نظام الملک: (ج۔۴)۲۱۹۰
نظام معتزلی: (ج۔۹)۵۱۷۵
نظامی بدایونی: (ج۔۵)۲۵۷۳، (ج۔۶)۳۵۸۱
نظر علی ٹھٹوی، سید میر: (ج۔۶)۳۶۸۸
نظر علی خاں تالپور، میر: (ج۔۶)۳۵۹۰، ۳۶۹۸_۳۷۰۱، ۳۷۰۵، ۳۷۰۲
نظر کامرانی، ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۸۵
نظر محمد جمالی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۴۰
نظر محمد دیہاتی، مولانا: (ج۔۶)۳۵۳۹، ۳۶۹۴
نظیر احمد، پیر (موہڑہ شریف): (ج۔۶)۳۷۷۲
نظیر حسین زیدی، ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۸۵
نعمان بن بشیر: (ج۔۷) ۴۳۰۶: ۴۳۳۹، ۴۳۷۷، ۴۳۹۰
نعمان بن مرزبان (جد امام اعظم): (ج۔۵)۳۰۴۹
نعمان بن مرۃ: (ج۔۷)۴۳۰۰
نعمان خان سراجی، میر: (ج۔۶)۳۹۲۲
نعمت اللہ پشاوری، ملا: (ج۔۱۰)۵۸۶۵
نعمت اللہ جونپوری، شیخ: (ج۔۵)۲۷۴۷
نعمت اللہ، صاحبزادہ ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۷۶۸
نعمت اللہ فارسی، شاہ (مرشد بلال شاہ سہروردی): (ج۔۶) ۳۸۰۳
نعمت اللہ، فقیر میاں: (ج۔۶)۳۶۹۰
نعمت خان عالی: (ج۔۵) ۲۷۸۱_۲۷۸۲، ۲۷۸۵_ ۲۷۸۷، ۲۷۹۳
نعیم احمد، ڈاکٹر: (ج۔۵)۳۰۱۰، (ج۔۶)۳۹۷۱
نعیم الدین مراد آبادی، مولانا: (ج۔۶) ۳۶۴۶، ۳۶۷۷، (ج۔۹)۵۱۹۹
نعیم اللہ بہرائچی، شاہ: (ج۔۹)۵۳۵۸_۵۳۵۹
نعیم اللہ خان، ملا: (ج۔۱۰)۵۸۷۷
نعیم اللہ، خواجہ: (ج۔۸)۴۸۶۸
نعیم اللہ، میر (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴)۲۴۷۱
نفیس خلیلی (شاعر): (ج۔۱۰)۶۰۷۶
نفیل: (ج۔۸)۴۸۳۹
نقی علی خاں بریلوی، مولانا: (ج۔۵)۲۸۹۶، ۲۹۱۸
نکمٹین ارباکان (سیاستدان): (ج۔۶)۳۲۷۲
نکولس مینوکی (اطالوی سیاح): (ج۔۵)۲۵۶۴، ۲۵۷۵، ۲۵۷۷، (ج۔۶)۳۹۷۱
نمرود: (ج۔۶)۳۴۸۹، (ج۔۸)۴۸۲۶
نوبہار غازی بن شیخ اورنگ، شیخ: (ج۔۱۰)۵۸۷۴
نواب الدین علی، صاحبزادہ: (ج۔۱۰)۵۹۳۹
نواب الدین موہروی، صوفی: (ج۔۱۰)۵۹۴۰
نواب الدین، پیر (موہری شریف): (ج۔۶) ۳۷۷۵، ۳۸۸۲
نواب الدین، مولوی (مرید خواجہ فضل علی قریشی): (ج۔۱۰) ۶۰۴۶
نواب بیگم: (ج۔۶)۳۳۶۴
نواز شاہ غاسی: (ج۔۶)۳۳۳۱

نوح (علیہ السلام): (ج_۲) ۱۱۰۹، ۱۱۵۹، (ج_۳) ۱۵۶۶، (ج_۴) ۲۲۹۲، ۲۳۳۲، ۲۴۲۵، (ج_۵) ۲۷۱۹، (ج_۸) ۴۶۹۵، ۴۸۰۶، (ج_۹) ۵۴۰۴، ۵۴۰۶

نوح بن حرب العسکری: (ج_۷) ۴۳۰۷

نوح ہالائی، مخدوم: (ج_۶) ۳۴۱۶

نوراحمد بدایونی، سید: (ج_۹) ۵۳۵۹

نور احمد پسروری ثم امرتسری، مولانا: (ج_۷) ۴۴۷۳، (ج_۱۰) ۵۷۲۱، ۶۱۹۸، ۶۲۰۱

نوراحمد جان ریسانی نقشبندی، خواجہ: زج_۶) ۳۷۴۶

نوراحمد جان نقشبندی (فرزند خواجہ محمد عمر جان اویسی بنوری): (ج_۱۰) ۵۹۵۸

نوراحمد حاجی (عم سید حبیب اللہ توکلی): (ج_۱۰) ۵۹۷۵، ۵۹۷۶

نوراحمد، حافظ (فرزند حافظ محمد رانجھا نقشبندی): (ج_۱۰) ۵۹۹۳

نوراحمد رانجھا، حافظ: (ج_۱۰) ۵۹۹۴

نوراحمد سہروردی، مولوی: (ج_۹) ۵۲۵۳

نوراحمد شاہتاز، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۱۰) ۶۴۳۲

نوراحمد فاروقی: (ج_۹) ۵۱۵۴

نوراحمد فریدی، مولانا: (ج_۵) ۲۸۸۲

نوراحمد کشمیری، مولانا: (ج_۱۰) ۱۴۹۰

نوراحمد مجددی، عرف نورآغا: (ج_۶) ۳۵۵۴، ۳۷۰۳

نوراحمد مسعودی: (ج_۱۰) ۶۴۳۰

نوراحمد مقبول: (ج_۶) ۳۷۹۹

نوراحمد، مولانا: (ج_۶) ۳۹۷۱

نوراحمد نقشبندی مجددی امرتسری، مولانا: (ج_۱) ۴۳۰، (ج_۳) ۱۶۱۵، (ج_۵) ۲۶۱۱، ۲۶۲۰، ۲۶۲۸، ۲۶۳۶_۲۶۳۷، ۲۶۴۴، ۲۶۴۷، ۲۶۵۱، ۲۶۶۴_۲۶۶۵، ۳۰۶۸، (ج_۶) ۳۸۰۱، (ج_۸) ۴۵۷۹، ۴۸۰۳، ۴۸۰۹، ۴۸۶۹

نوراحمد نقشبندی مولانا: (ج_۸) ۴۵۷۶، (ج_۹) ۵۱۸۰، ۵۱۸۳

نوراحمد نقشبندی، شیخ: (ج_۶) ۳۸۲۸

نورالاسلام، شیخ: (ج_۱۰) ۵۸۹۲

نورالحسن: (ج_۷) ۴۰۵۷

نورالحسن آفاقی، سید: (ج_۱۰) ۶۲۴۰

نور الحسن، پروفیسر ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۷۶۹، ۲۷۷۹_۲۷۸۰، ۲۷۹۰، ۲۷۹۲_۲۷۹۳، (ج_۹) ۵۳۷۶

نورالحسن تنویر چشتی، مولانا: (ج_۱) ۲۲، (ج_۲) ۴۸۹، ۸۷۳، (ج_۶) ۳۹۷۱، (ج_۱۰) ۶۳۷۰

نورالحسن خان ذوالمنن، نواب: (ج_۸) ۴۸۴۸، ۴۸۵۲

نورالحسن شاہ، سید (کیلیانوالے، گوجرانوالہ): (ج_۶) ۳۷۷۰، ۳۷۸۷

نورالحق، شیخ (فرزند عبدالحق محدث دہلوی): (ج_۱) ۱۸، ۱۶۰، (ج_۲) ۵۰۳، ۹۹۰، (ج_۳) ۱۳۸۹، ۱۳۹۳، (ج_۴) ۱۹۸۴، ۲۴۱۲، (ج_۵) ۲۶۳۷، ۲۷۴۷، ۲۷۷۸، ۳۱۱۷، (ج_۶) ۳۱۲۹، ۳۱۴۹، ۳۹۷۱، (ج_۸) ۴۹۷۹، (ج_۹) ۵۳۲۹_۵۳۳۰، ۵۴۲۷، ۵۴۴۸، (ج_۱۰) ۵۶۳۸، ۵۷۶۰، ۵۸۸۶

نورالحق مشرقی، شیخ: (ج_۴) ۲۴۳۲

نورالدین، ابوالحسن: (ج_۵) ۲۸۹۰، (ج_۶) ۳۴۱۷

نور الدین، ابو سعید ڈاکٹر: (ج_۵) ۲۹۳۵، ۲۹۴۵، ۲۹۶۵_۲۹۶۶، ۲۹۷۹، ۳۰۱۰، (ج_۶) ۳۹۳۹

نورالدین، شیخ: (ج_۹) ۵۰۶۰، ۵۲۵۴

نورالدین علی خان، میرک معین الدین سید بن سید عبداللہ خاں بارہہ: (ج_۱۰) ۵۷۷۰

نورالدین محمد بیگ، شیخ: (ج_۹) ۵۴۹۷

نور اللہ جان نقشبندی (فرزند نور احمد جان نقشبندی): (ج_۱۰) ۵۹۵۸

نوراللہ، خواجہ (نواب شاہ): (ج_۶) ۳۶۹۴

نوراللہ شوستری، قاضی: (ج_۴) ۲۰۰۱، (ج_۱۰) ۵۸۲۸

نوراللہ، مولوی: (ج_۶) ۳۳۶۰

نورالمصطفی رضوی، صاحبزادہ: (ج_۱۰) ۶۰۸۷، ۶۰۹۴، ۶۴۳۵

نوراوصال: (ج_۶) ۳۹۵۸

نوراللہ شوستری، قاضی: (ج_۹) ۵۱۳۶، ۵۱۴۰_۵۱۴۱، ۵۱۶۱، ۵۵۵۶

نوربخش توکلی، پروفیسر: (ج_۴) ۲۴۸۸، ۲۴۹۲، (ج_۵) ۳۰۷۲، (ج_۶) ۳۷۶۹، ۳۷۹۹، ۳۹۷۱، (ج_۸) ۴۶۱۶، ۴۶۴۹، ۴۸۶۹، (ج_۹) ۵۵۸۴، (ج_۱۰) ۵۵۹۴، ۵۹۶۱_۵۹۶۵، ۵۹۶۸، ۵۸۰۳

نورپارسا (فرزند میاں سراج الاسلام): (ج_۱۰) ۵۸۹۲

نورجہاں، ملکہ: (ج_۳) ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۹۳، ۱۶۳۶، (ج_۴) ۲۰۲۱، ۲۰۲۷، ۲۰۳۱، ۲۱۶۳، ۲۱۹۸، (ج_۵) ۲۷۸۰، (ج_۷) ۴۱۸۶، ۴۱۹۳، (ج_۸) ۴۸۹۱، (ج_۹) ۵۱۳۵، ۵۱۴۱، ۵۳۲۶، ۵۴۱۲، ۵۴۸۱، (ج_۱۰) ۵۷۹۴، ۵۹۲۶

نورحسین شاہ، سید: (ج_۶) ۳۷۸۱

نورحسین قادری، سلطان: (ج_۱۰) ۵۹۵۸

نورخان، مولانا (خلیفہ خواجہ محمد عثمان دامانی): (ج_۶) ۳۷۹۵، (ج_۱۰) ۵۸۹۷

نورشاہ ولی (صوفی): (ج_۱۰) ۵۹۶۶

نورعالم خالد، مولانا (شاعر): (ج_۱۰) ۶۰۸۲

نورعلی شاہ، سید: (ج_۶) ۳۵۹۱

نورکمال عیسیٰ خیلوی، مولانا: (ج_۶) ۳۷۹۲

نورمحمد: (ج_۵) ۳۱۰۳، ۳۱۰۵

نورمحمد آخونزادہ (خلیفہ سید امیر نقشبندی): (ج_۶) ۳۸۴۶

نورمحمد اناری، شیخ: (ج_۸) ۴۵۵۶، ۴۵۵۷، ۴۵۹۵

نور محمد بدایونی دہلوی، سید: (ج_۴) ۲۴۵۹، (ج_۵) ۳۰۷۹، (ج_۶) ۳۲۶۴، ۳۳۵۲_۳۳۵۴، ۳۳۶۶، ۳۹۳۶، (ج_۸) ۴۵۹۸، (ج_۹) ۵۲۱۸

نورمحمد بدایونی نقشبندی مجددی: (ج_۱۰) ۵۸۴۰، ۵۸۸۰، ۵۸۹۳، ۵۹۰۵، ۶۰۳۶

نورمحمد بہاری، شیخ: (ج_۵) ۳۰۷۷

نورمحمد پٹنی، شیخ: (ج_۳) ۱۳۷۴، ۱۴۵۳، (ج_۵) ۲۷۴۸، (ج_۹) ۵۱۲۷

نورمحمد پشاوری سوادی نقشبندی، شیخ: (ج_۶) ۳۸۳۷، ۳۸۹۹_۳۹۰۰، ۳۹۰۲_۳۹۰۳

نورمحمد پیرزداہ، میاں: (ج_۶) ۳۶۹۶

نورمحمد تہاری: (ج_۵) ۲۶۳۷_۲۶۳۹، ۲۶۴۱، ۲۶۵۰

نورمحمد تیراہی، خواجہ: (ج_۶) ۳۷۷۱، ۳۷۷۴، (ج_۱۰) ۵۹۹۷_۵۹۹۹، ۶۰۰۱، ۶۰۰۹، ۶۰۷۲، ۶۰۹۳

نور محمد جیو درانی، میاں نقشبندی (بلوچستان): (ج۔۶) ۳۷۱۱

نور محمد، خلیفہ مولانا عبدالغفار نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۶۸

نور محمد، سید: (ج۔۸) ۴۸۶۸

نور محمد، شیخ: (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۰۲۶، ۵۴۸۹

نور محمد، شیخ (والدعلامہ اقبال): (ج۔د ۲۹۲۵۱

نور محمد فاروقی چوراہی، خواجہ: (ج۔۱۰) ۵۹۳۶-۵۹۳۸، ۵۹۴۱

نور محمد، فقیر مولانا بن نیک محمد: (ج۔۶) ۳۷۹۳

نور محمد قادری، سید: (ج۔۵) ۲۹۴۴، (ج۔۸) ۴۸۴۴

نور محمد قریشی (خلیفہ میاں محمد عمر چمکنی): (ج۔۶) ۳۸۹۹

نور محمد قندھاری اخون (خلیفہ حضرت مظہر): (ج۔۴) ۲۴۷۱، (ج۔۶) ۳۷۱۱، ۳۷۱۵، ۳۷۱۹، (ج۔۱۰) ۵۹۵۷

نور محمد کلہوڑا، میاں (حاکم سندھ): (ر۔۶) ۳۵۱۳

نور محمد کنڈائی، سید شاہ: (ج۔۶) ۳۴۸۵، ۳۶۹۴

نور محمد مدقق لاہوری، مولانا: (ج۔۱۰) ۵۸۷۳، ۵۸۹۱

نور محمد، مولانا (استاد خواجہ محمد حسن جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۵۹۸

نور محمد، مولانا (اگڑا والے): (ج۔۱۰) ۶۰۶۴

نور محمد، مولانا (معتقد مولانا عبدالغفار نقشبندی): (ج۔۱۰) ۶۰۶۳

نور محمد مہاروی چشتی، خواجہ: (ج۔۶) ۳۸۸۷، (ج۔۱۰) ۵۸۹۴

نور محمد نظامی انکی: (ج۔۱۰) ۵۸۸۶

نور محمد نظامی نقشبندی مجددی راجہ: (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۳-۵۵۹۴، ۵۹۲۷، ۵۹۴۶-۵۹۴۷، ۵۸۶۳، ۵۸۸۷، ۵۸۸۹-۵۸۹۰، ۶۴۹۰

نور محمد نقشبندی: (ج۔۶) ۳۹۸۲

نور محمد نقشبندی، خواجہ (لاہور): (ج۔۶) ۳۷۷۵، ۳۷۸۵-۳۷۸۶

نور محمد نقشبندی، شیخ (سرحد): (ج۔۶) ۳۸۳۰، ۳۸۳۸

نور مہدی مجددی پشاوری میاں: (ج۔۱۰) ۵۸۷۹

نورانی، علامہ شاہ احمد: (ج۔۵) ۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۶۳۲، ۳۶۵۰

نورانی وصال شیرازی: (ج۔۵) ۲۸۵۸

نورنگ خان، خان بہادر میجر: (ج۔۶) ۳۹۱۴-۳۹۱۵

نوری، شیخ: (ج۔۹) ۵۲۷۱

نوشیرواں (جداعلیٰ امام اعظم): (ج۔۵) ۳۰۴۹

نولکشور، منشی: (ج۔۵) ۲۷۳۸

نولک، مولانا: (ج۔۸) ۴۵۶۰

نووی، امام شیخ محی الدین ابوزکریا: (ج۔۱) ۲۱۱، (ج۔۲) ۵۳۵، ۵۸۲، ۶۷۰، ۶۹۹، ۷۱۸، ۷۲۹، ۸۱۹، (ج۔۶) ۳۰۵۶، ۳۲۷۲، ۳۹۴۹-۳۹۵۰، ۳۹۷۲، (ج۔۷) ۴۲۸۹، ۴۳۵۱، (ج۔۹) ۵۲۷۱

نہر بن حکیم (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷) ۴۳۵۹

نہرو، جواہر لعل: (ج۔۶) ۳۵۵۰-۳۵۵۱

نہریزہ بی بی: (ج۔۴) ۲۰۸۸

نھشل بن سعد الضبی: (ج۔۷) ۴۲۸۳

نیاز مجدد مجددی، میاں (فرزند میاں نور مہدی مجددی پشاوری): (ج۔۱۰) ۵۸۸۰

نیاز محمد بدخشانی، مولوی (خلیفہ قاضی محمد ادریس مجددی پشاوری): (ج۔۱۰)۵۸۸۱

نیازمحمد خان ایڈووکیٹ، مولوی: (ج۔۸)۴۸۵۰

نیر مجددی، ابوالرضا مفتی: (ج۔۳)۱۸۳۰

نیک عالم شاہ کشمیری، سید: (ج۔۱۰)۵۸۸۵

نیک محمد آخوند، ملا: (ج۔۶)۳۷۲۴

نیناور بند: (ج۔۸)۴۸۹۵

نیوٹن (سائنسدان): (ج۔۵)۲۹۹۶

و

واثلہ: (ج۔۲)۶۲۳

وارث پشاوری، ملا: (ج۔۶)۳۵۵۸

وارث شاہ، پیر سید: (ج۔۶)۳۷۶۸، (ج۔۱۰)۵۷۸۸، ۶۰۳۳

وائل بن حجر: (ج۔۸)۴۶۳۵

واہٹ ہیڈ (فلسفی): (ج۔۵)۲۹۹۸

وجاہت رسول قادری، سید: (ج۔۵) ۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۶۴۱

وجیہ الدین، ابوالمراحم، شیخ: (ج۔۶)۳۲۱۰

وجیہ الدین دہلوی، شیخ (والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی): (ج۔۱۰)۶۱۰۳

وجیہ الدین عبداللہ: (ج۔۸)۴۸۶۲

وجیہ الدین گجراتی، حضرت (استاد شاہجہاں بادشاہ): (ج۔۹)۵۱۴۷، (ج۔۱۰)۵۷۶۶

وحید احمد مسعود: (ج۔۴)۲۰۸۶، ۲۱۶۶

وحیدالزمان، کیرانوی: (ج۔۵)۳۰۱۲

ورقاء ابن عمر: (ج۔۷)۴۳۰۴

وزیر خان: (ج۔۴)۲۱۸۵

وصی احمد محدث سورتی نقشبندی مجددی، مولانا: (ج۔۵) ۲۸۸۱، (ج۔۱۰)۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۱۰

وصی مظہر ندوی، مولانا: (ج۔۶)۳۶۳۱

وفا راشدی ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۶۸۵

وقار الدین قادری مفتی: (ج۔۳)۱۸۷۴، (ج۔۵)۲۹۱۳

وقار الملک، نواب: (ج۔۶)۳۷۷۲

وقار انبالوی: (ج۔۱) ۳۱، (ج۔۴) ۲۵۲۶، (ج۔۵) ۲۵۳۷، ۲۸۱۹

وکیع، امام: (ج۔۲)۵۱۶، (ج۔۳)۱۵۹۶

وکیل احمد سکندر پوری نقشبندی، مولانا: (ج۔۴) ۲۴۱۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۶، (ج۔۵)۲۵۷۴، ۲۵۸۱، ۲۶۹۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۴، ۲۸۱۷۔۲۸۱۸، ۲۹۱۱، (ج۔۶)۳۹۷۱، (ج۔۹) ۵۳۲۸۔۵۳۲۹، ۵۳۴۰، ۵۳۵۷، (ج۔۱۰) ۶۴۹۴، ۶۳۷۹

ولایت شاہ، سید پیر بن احمد شاہ: (ج۔۶)۳۷۹۵۔۳۷۹۶

ولز (برطانیہ کا شہزادہ): (ج۔۶)۳۴۸۸۔۳۴۸۹

ولزلے ہیگ، سر: (ج۔۴)۱۹۹۸

ولی اترہ، شیخ: (ج۔۹)۵۱۹۲

ولی اکبر جی، سیٹھ: (ج۔۶)۳۶۲۷، ۳۶۳۱

ولی الدین تبریزی: (ج۔۸)۴۹۴۵، (ج۔۹)۵۱۷۸

ولی اللہ شاہ کابلی، شیخ: (ج۔۶)۳۳۰۹

ولی اللہ، شاہ (فرزند شاہ امان اللہ افغانی): (ج۔۱۰)۵۸۵۰

ولی اللہ شاہ، محدث دہلوی: (ج_۱) ۱۱، ۱۸، ۴۴_۴۵، ۹۱، ۱۴۷، ۲۶۳، ۳۳۴، ۳۸۴، ۴۰۶، (ج_۲) ۵۰۱_۵۰۲، ۷۶۸، ۸۰۳، ۱۱۸۸، (ج_۳) ۱۲۹۳، ۱۳۹۶، ۱۳۹۶_ ۱۳۹۷، ۱۴۰۰، ۱۵۶۶، ۱۵۹۶، ۲۸ ۱۷، (ج_۴) ۲۰۲۲، ۲۰۵۵، ۲۰۷۰، ۲۱۸۸_۲۱۸۹، ۲۱۹۳، ۲۲۰۷_۲۲۰۸، ۲۲۱۱، ۲۲۱۴، ۲۲۱۷، ۲۲۲۳، ۲۲۸۹، ۲۳۹۶، ۲۴۵۳، ۲۴۶۲، (ج_۵) ۲۵۵۹، ۲۵۷۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۴۲، ۲۶۸۷، ۲۷۶۷، ۲۷۷۰، ۲۷۸۸، ۲۷۹۰، ۲۸۰۶، ۲۸۰۸_۲۸۱۱، ۲۸۱۷، ۲۸۲۰، ۱۲۹، ۲۸۳۲، ۲۸۳۵_ ۲۸۳۶، ۲۸۷۷، ۲۸۸۹، ۲۸۹۲، ۲۹۳۴، ۳۰۸۴، ۳۰۸۸_۳۰۹۰، (ج_۶) ۳۱۹۳، ۳۱۹۶_۳۱۹۷، ۳۱۹۹، ۳۲۰۲، ۳۳۵۸، ۳۳۱۳، ۳۳۵۸_۳۳۶۰، ۳۳۶۸، ۳۸۸۳، ۳۹۵۰_۳۹۵۱، (ج_۷) ۴۰۴۸، ۴۰۵۸، ۴۰۶۲ (ج_۸) ۴۶۰۳: ۴۸۶۷، ۴۸۷۷، ۴۸۸۲، ۴۸۸۳، ۴۹۲۳، ۴۹۴۸، (ج_۹) ۵۰۲۹، ۵۰۳۵، ۵۰۳۷_۵۰۳۸، ۵۰۴۴، ۵۰۶۷، ۵۰۷۳، ۵۰۷۵، ۵۰۸۴، ۵۲۰۳، ۵۲۰۵، ۵۲۵۲، ۵۲۶۳، ۵۲۶۹، ۵۳۳۳، ۵۳۴۱، ۵۳۴۳، ۵۳۶۱، ۵۳۷۹، ۵۳۸۱، ۵۴۱۳، ۵۴۲۴، ۵۵۰۰، ۱۰، ۵۵۱۲، ۵۵۶۸، (ج_۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۳۸_۵۶۳۹، ۵۶۶۴، ۵۶۶۶، ۵۶۹۱، ۵۷۵۵، ۵۷۶۲، ۵۷۸۱، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸_ ۵۷۹۹، ۵۸۲۱_۵۸۲۲، ۵۸۹۰، ۵۹۵۱، ۵۹۹۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۹، ۶۱۵۴، ۶۲۳۱

ولی النبی، مولانا: (ج_۶) ۳۵۵۳

ولی خان، ملا (معاصر خواجہ بابا نور محمد فاروقی چوراہی): (ج_۱۰) ۵۹۳۶

ولی محمد حاجی: (ج_۸) ۴۵۷۳

ولی محمد (خانقاہ مبیل شریف بھکر): (ج_۱۰) ۳۷۳۰، ۳۷۹۳

ولی محمد سوخیل، ملا: (ج_۶) ۳۳۷۸

ولی محمد قندھاری، میاں: (ج_۱۰) ۵۹۵۸

ولی محمد، میاں (استاد و مرشد محمد صدیق مستونگی): (ج_۱۰) ۵۹۵۶

ولید اموی: (ج_۴) ۲۰۴۶

وہب بن جریر: (ج_۲) ۵۲۵

وہب بن منبہ: (ج_۲) ۵۷۱

وہیب بن الورد العابد: (ج_۲) ۶۰۷

وھبۃ الزحیلی، ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۹۷۱

وھیب: (ج_۷) ۴۳۰۴

وھیہ چانھیہ، شیخ: (ج_۶) ۳۶۹۰

ویس خان ہوتک، میر: (ج_۱۰) ۵۹۵۱

ویکا گارڈنز: (ج_۱۰) ۶۴۴۷، ۵۵۹۵

ہ

ہادی نامدار: (ج_۶) ۳۸۰۱

ہادی نقشبندی، مولانا شاہ آل محی الدین: (ج_۶) ۳۱۱۸، ۳۴۱۰_۳۴۱۱

ہارٹ ورگ، ڈاکٹر: (ج_۶) ۳۹۷۱

ہارون (علیہ السلام): (ج_۳) ۱۵۵۳، ۱۶۴۵

ہارون: ۵۳۷۲

ہارون الرشید، پیر (خانقاہ موہڑہ شریف): (ج_۶) ۳۷۷۲

ہارون بن زیاد النجار: (ج_۷) ۴۲۸۵

ہارون بن عنترۃ: (ج_۷) ۴۳۰۶

ہارون بن ملول المصری: (ج_۲) ۵۲۸

ہارون ٹھکرائی، حافظ: (ج۔۶)۳۵۲۷

ہارون، حافظ دلگیر: (ج۔۶)۳۴۸۸

ہارون (لاڑکانہ): (ج۔۱۰)۶۰۶۹

ہاشم بن القاسم: (ج۔۷)۴۲۸۲

ہاشم بن ہاشم: (ج۔۷)۴۲۸۷، ۴۲۸۶

ہاشم ثناء، ابومعاویہ: (ج۔۷)۴۲۹۸

ہاشم، حاجی: (ج۔۸)۴۵۷۳، ۴۸۴۰

ہاشم شاہ توکلی: (ج۔۶)۳۷۶۹

ہاشم علی خان: (ج۔۹)۵۱۵۴

ہاشم قبانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۵۲

ہاشم مخلص (مدیر اخبار مسلمان): (ج۔)۳۴۹۳

ہاشم وحیدی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۲۶

ہاشمی فرید آبادی، سید: (ج۔۴) ۲۳۹۸، ۲۴۰۱، ۲۴۰۳، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، (ج۔۵)۲۵۴۷، ۲۵۸۱، (ج۔۶)۳۹۷۱

ہٹی پی۔کے (P-K,Hitti): (ج۔۵)۲۸۵۶، ۲۸۵۸

ہدایت الحق حضروی، مولانا: (ج۔۶)۳۸۱۳۔۳۸۱۴

ہدایت اللہ جیپوری، شاہ: (ج۔۶)۳۵۷۴

ہدایت اللہ، حافظ (خلیفہ خواجہ محمد زماں): (ج۔۶)۳۵۸۸، ۳۶۸۹

ہدایت علی نقشبندی مجددی جے پوری، شاہ: (ج۔۵) ۲۶۴۶، ۲۷۲۵، ۲۷۳۲، (ج۔۶) ۳۹۷۱، (ج۔۸) ۴۵۷۷

ہری رام گپتا (مصنف): (ج۔۱۰)۵۹۲۵

ہرم بن حیان: (ج۔۷)۴۴۰۹

ہروی، شیخ الاسلام (ابواسماعیل الانصاری): (ج۔۵) ۲۹۳۳، (ج۔۸)۴۸۰۷

ہروے رام: (ج۔۴)۲۰۷۶، (ج۔۵)۲۶۳۷

ہرے بھرے حضرت: (ج۔۶)۳۸۸۳

ہسنگز اے۔ جی: (ج۔۶)۳۹۰۹

ہشام بن حسان: (ج۔۷)۴۲۹۴

ہشام بن زید: (ج۔۷)۴۲۹۵

ہشام بن عروۃ: (ج۔۲)۵۱۸، ۵۲۶

ہشام بن عمار: (ج۔۷)۴۳۰۱

ہشام کبانی، شیخ: (ج۔۶)۳۲۴۵، ۳۲۵۲۔۳۲۵۳

ہلاکو خان: (ج۔۶)۳۷۶۲

ہلال بن یسار: (ج۔۸)۴۹۴۴، ۴۹۴۵

ہلنیس، ڈاکٹر (Dr. Hilnis): (ج۔۵)۲۸۴۱، ۲۸۴۳

ہمایوں، بادشاہ نصیر الدین: (ج۔۳)۱۶۳۸، (ج۔۴)۱۹۹۱، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵، (ج۔۸) ۴۹۳۵، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳۔۵۶۴۴، ۵۶۴۶، ۵۷۸۷، ۵۷۹۴

ہمایوں عباس شمس، ڈاکٹر: (ج۔۱) ۴۴، (ج۔۲) ۴۸۸، (ج۔۱۰)۶۳۳۳، ۶۳۰۷

ہمایوں (وزیر اعظم عادل شاہ سوری): (ج۔۱۰)۵۶۴۴

ہمدانی، امام عین القضاۃ: (ج۔۵)۳۰۱۶، (ج۔۶)۳۹۵۸

ہمدانی عین القضاۃ، علامہ: (ج۔۲)۵۵۰، ۵۸۳۔۵۸۵، ۵۸۸، ۵۹۳، ۵۹۹، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۳۱

ہود (علیہ السلام): (ج۔۶)۳۲۰۴

ہیثمی، علامہ: (ج۔۲)۵۱۷، ۵۱۸، ۵۵۱، ۵۶۲، ۵۷۹

ہیر: (ج۔۱۰)۵۷۸۸

ہیسٹنگس جے (J.Hastings): (ج۔۵)۲۸۴۱

ہیثمی، علامہ: (ج۔۲)۵۵۹، (ج۔۷)۴۳۰۸، ۴۳۱۷
ھوتچند مولچند گربخشانی، ڈاکٹر: (ج۔۶)۳۷۰۱۔۳۷۰۲، ۳۷۰۵

ی

یارعلی نقشبندی، شیخ: (ج۔۶)۳۸۳۰، ۳۸۳۸، ۳۹۰۲
یارمحمد بدخشی، مولانا: (ج۔۸) ۵۹، ۴۔ ۴۶۶۱، ۴۸۱۲، ۴۸۳۲، (ج۔۹)۵۰۲۶، ۵۲۵۳، ۵۴۹۰
یارمحمد پاپینی، مولانا: (ج۔۱۰)۵۸۸۹
یارمحمد (جد شیخ سید امیر نقشبندی): (ج۔۶)۳۸۴۳
یارمحمد جدید بدخشی طالقانی، خواجہ: ج۔۱) ۴۲۹، ۴۵۲، (ج۔۲) ۵۱۰، (ج۔۴) ۲۴۱۵، (ج۔۵) ۲۶۱۴، ۲۶۳۵، ۲۹۶۸، (ج۔۱۰) ۵۶۶۹، ۵۸۸۵، ۶۱۹۹۔۶۲۰۰، ۶۲۰۶۔۶۲۰۸
یارمحمد، شیخ (استاد شیخ محمد جمال پشاوری نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۳۷
یارمحمد قدیم الطالقانی، مولانا: (ج۔۱) ۴۵۲، (ج۔۳) ۱۳۷۳، (ج۔۴)۲۳۸۶، ۲۴۱۶، ۲۴۳۰، ۲۴۳۳، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۸) ۴۵۵۹، ۴۵۶۰، ۴۸۶۷، (ج۔۹) ۵۰۲۶، ۵۴۸۹، ۵۵۱۸، (ج۔۱۰)۶۲ ۹
یارمحمد کابلی، آخونزادہ: (ج۔۶)۳۸۴۴، ۳۹۰۹
یارمحمد کلھوڑا (حاکم سندھ): (ج۔۶)۳۴۷۸
یارمحمد گل مہاری، مولانا (خلیفہ سید آدم بنوری): (ج۔۶) ۳۸۴۳، (ج۔۱۰)۵۸۸۶، ۵۹۳۰
یارمحمد، مخدوم میاں (استاد سید راشد روضے دھنی): (ج۔۶) ۳۵۶۴۔۳۵۶۵، ۳۵۶۷
یارمحمد، مولانا: (ج۔۹)۵۱۲۶، (ج۔۱۰)۶۰۵۹
یاسر (رضی اللہ عنہ): (ج۔۷)۴۰۱۸۰
یافعی امام: (ج۔۳)۱۸۳۶، (ج۔۹)۵۲۷۱
یحییٰ (علیہ السلام): (ج۔۶)۳۲۴۰، (ج۔۱۰)۵۸۲۴
یحییٰ: (ج۔۷)۴۳۰۲
یحییٰ ابن معاذ الرازی: (ج۔۵)۳۰۱۷، ۳۰۵۲
یحییٰ الحفار: (ج۔۲)۵۹۵
یحییٰ الحلوانی: (ج۔۲)۶۱۴
یحییٰ الدین علی مجیب: (ج۔۶)۳۹۷۲
یحییٰ بن ابی کثیر: (ج۔۲)۵۵۸
یحییٰ بن الضریس: (ج۔۲)۵۶۹
یحییٰ بن المتوکل: (ج۔۲)۵۱۵
یحییٰ بن آدم: (ج۔۲)۵۲۱، ۵۵۴
یحییٰ بن حبیب، الحارثی: (ج۔۷)۴۲۹۵
یحییٰ بن حسان: (ج۔۲)۵۳۵، (ج۔۷)۴۲۸۹
یحییٰ بن خلف الباہلی: (ج۔۷)۴۲۹۴
یحییٰ بن سعید الانصاری: (ج۔۲)۵۵۶، ۵۶۹
یحییٰ بن سعید: (ج۔۷)۴۳۰۰
یحییٰ بن عبدالباقی المعیمی: (ج۔۲)۵۷۹
یحییٰ بن عتیق: (ج۔۲)۵۶۶
یحییٰ بن محمد العنبری، ابوزکریا: (ج۔۲)۵۴۰
یحییٰ بن معاذ الرازی: (ج۔۲) ۵۸۲، ۲۲۵۷، (ج۔۷) ۴۳۵۹
یحییٰ بن معین: (ج۔۷)۴۲۸۷
یحییٰ تاجی، شیخ: (ج۔۶)۳۱۶۲

یحییٰ، خواجہ: (ج_۷) ۴۱۳۸
یحییٰ زاہد، سید: (ج_۸) ۴۸۵۹
یحییٰ سندیلہ، شیخ: (ج_۱۰) ۵۹۲۴
یحییٰ، شاہ: (ج_۵) ۳۰۸۰
یحییٰ، شیخ (مرشد میاں محمد عمر چمکنی) (ج_۶) ۳۴۷۵، ، ۳۸۳۰، ۳۸۹۷، ۳۹۰۴_۳۹۰۵، (ج_۸) ۴۵۹۸
یحییٰ منیری، شیخ شرف الدین: (ج_۴) ۲۲۸۹، (ج_۵) ۲۹۱۰، (ج_۶) ۳۵۰۲، (ج_۱۰) ۵۸۲۵_۵۸۲۶
یرویس خان (حاکم قندھار): (ج_۶، ۳۷۱۴
یزدگرد (جد اعلیٰ امام اعظم): (ج_۵)، ۳۰۴
یزید بن ابی حبیب: (ج_۷) ۴۲۹۲، ۴۲۹۳
یزید بن جابر: (ج_۸) ۴۶۱۶، (ج_۹) ۵۳۱۲
یزید بن معاویہ: (ج_۲) ۶۸۸، (ج_۳) ۱۶۷۰_۱۶۷۱، (ج_۵) ۲۹۱۶
یزید بن موہب: (ج_۲) ۵۳۳، (ج_۷) ۴۲۹۰
یزید بن ہارون، الواسطی: (ج_۲) ۵۴۶، (ج_۷) ۴۳۰۲
یعقوب (علیہ السلام): (ج_۷) ۴۲۵۱، ۴۲۵۲، (ج_۹) ۵۲۶۰_۵۲۶۱، ۵۴۲۷، ۵۴۶۴
یعقوب: (ج_۲) ۵۱۷
یعقوب ابن ابراہیم بن سعد: (ج_۲) ۵۲۸
یعقوب الحافظ بن محمود قاری انصاری: (ج_۶) ۳۶۴۰
یعقوب القمی: (ج_۷) ۴۳۰۶
یعقوب الکندی بن اسحاق: (ج_۵) ۲۹۹۶
یعقوب بن سفیان: (ج_۷) ۴۲۸۶
یعقوب بن عبدالواحد: (ج_۱۰) ۶۱۴۱
یعقوب بیگ، سپہ سالار: (ج_۵) ۲۶۸۶
یعقوب چرخی، خواجہ: (ج_۲) ۵۳۸، (ج_۴) ۲۲۶۲_۲۲۶۳، (ج_۵) ۲۶۶۶، (ج_۶) ۳۲۲۶، ۳۴۴۴، ۳۵۶۶، ۳۹۸۱، (ج_۷) ۴۰۵۵، ۴۱۶۲، (ج_۸) ۴۸۴۷، ۴۸۵۸، ۴۸۶۴، ۴۸۶۶، (ج_۱۰) ۶۱۰۱
یعقوب شاہ بخاری نقشبندی، سید: (ج_۶) ۳۸۳۶
یعقوب صرفی کشمیری، شیخ: (ج_۵) ۲۸۹۱، (ج_۸) ۴۹۴۱_۴۸۴۳، ۴۸۴۶، ۴۹۴۶، ۴۹۴۷، ۴۸۵۳، (ج_۹) ۵۰۲۲، ۵۲۲۷، ۵۴۷، ۵۵۱۴، (ج_۱۰) ۵۶۳۸
یعقوب کشمیری، مولانا: (ج_۱) ۷۱، ۳۶۹، ۴۱۴، ۴۴۳، (ج_۳) ۱۲۹۰، ۱۴۰۲، (ج_۴) ۲۲۶۴، (ج_۵) ۲۵۶۰، ۲۷۲۱، ۲۷۵۷_۲۷۵۸، ۲۸۳۱، ۲۸۷۱، (ج_۷) ۴۱۷۲، ۴۱۷۳، (ج_۸) ۴۵۱۲، (ج_۹) ۵۱۲۱، ۵۱۴۷، ۵۱۵۲، ۵۵۶۷، (ج_۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳
یعقوب کوسج: (ج_۵) ۲۷۲۱
یعقوب محدث کشمیری، شیخ: (ج_۴) ۱۹۵۱
یعلی بن حکیم: (ج_۲) ۵۲۵
یمنی، امام (حاکم یمن): (ج_۶) ۳۶۲۱
یمین الدین شامی: (ج_۸) ۴۸۴۶
یوحنا فریڈمین، ڈاکٹر: (ج_۱) ۱۰۲، (ج_۴) ۲۱۹۸، (ج_۵) ۲۵۷۷_۲۵۷۸، ۲۵۸۱، ۲۸۱۷_۲۸۱۸، (ج_۹) ۵۳۷۳، ۵۳۸۴، ۵۴۲۲
یوسف (علیہ السلام): (ج_۲) ۵۷۴، ۱۱۵۹، ۱۸۶۱، (ج_۵) ۲۹۸۳، (ج_۷) ۴۲۵۱، ۴۲۶۵، ۴۴۱۲، (ج_۸) ۴۵۹۷، ۴۶۵۰، (ج_۹) ۵۴۲۷، ۵۲۶۰_۵۲۶۱، ۵۴۶۴، (ج_۱۰) ۵۷۴۱
یوسف القرضاوی، الدکتور: (ج_۲) ۷۳۶

یوسف النقشبندی، الشیخ: (ج۔۶) ۳۹۴۲

یوسف برکی، خواجہ: (ج۔۳) ۱۳۷۴، (ج۔۵) ۲۷۴۸، (ج۔۷) ۴۴۴۰، (ج۔۸) ۴۵۵۹

یوسف بن اسمٰعیل نبہانی، شیخ: (ج۔۶ ۳۱۶۰، ۳۱۹۰

یوسف بن سالم حنفی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۸

یوسف بن فرخ شاہ: (ج۔۳) ۱۳۶۵۔۱۳۶۶

یوسف بن محمد خلوتی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۲۸

یوسف (پردادا فضل اللہ نور چشتی): (۔۵) ۲۸۴۹

یوسف پشاوری، اخوند ملا (خلیفہ شیخ آدم بنوری): (ج۔۱۰) ۵۸۶۴، ۵۸۶۷

یوسف جمال الدین بن تغری بردی: (ج۔۵) ۲۸۵۶۔۲۸۵۷، (ج۔۶) ۳۹۴۶

یوسف، حافظ (استاد محمد اسماعیل جان مجددی): (ج۔۶) ۳۴۸۸

یوسف حسینی رفاعی، شیخ: (ج۔۶) ۳۲۰۵

یوسف زئی پٹھان (مصنف): (ج۔۶) ۳۹۰۹

یوسف سلیم چشتی، پروفیسر: (ج۔۵) د: ۲۹، ۲۹۲۷، ۲۹۵۲، ۳۰۰۸، ۳۰۱۴، ۳۰۲۰، ۳۰۲۷۔۳۰۲۸، ۳۰۳۶، ۳۰۴۱، ۳۰۴۳، (ج۔۶) ۳۹۷۲

یوسف سمرقندی، مولانا: (ج۔۳) ۱۳۷۳۔۱۳۷۴، ۱۴۵۳، ۱۸۴۰، (ج۔۴) ۲۳۸۱، (ج۔۵) ۴۸۔ ۲، (ج۔۹) ۵۰۲۶

یوسف شامی، شیخ: (ج۔۵) ۲۶۷۵

یوسف، شیخ: (ج۔۱) ۴۰۸، (ج۔۲) ۵۰۹، (ج۔۸) ۴۵۰۹، ۴۸۳۸

یوسف طرطوسی، ابوالفرح: (ج۔۸) ۴۸۰۰

یوسف قاضی: (ج۔۸) ۴۷۱۶

یوسف قلیچ، السید ترکی: (ج۔۵) ۲۷۶۵

یوسف گدا: (ج۔۸) ۴۸۴۲

یوسف گردیزی، شاہ: (ج۔۴) ۲۰۸۶

یوسف لیان، سرکس: (ج۔۵) ۲۸۱۷

یوسف مجددی: (ج۔۸) ۴۸۷۰

یوسف، مولانا: (ج۔۹) ۵۲۳۵، ۵۵۵۳

یوسف، مُلّا (خلیفہ شیخ محمد جمال پشاوری نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۳۸

یوسف ہمدانی، خواجہ (مرشد خواجہ عبدالخالق غجدوانی): (ج۔۱) ۲۶۱، (ج۔۴) ۲۲۵۹، (ج۔۶) ۳۲۹۸، ۳۹۸۰، (ج۔۸) ۴۸۴۷، ۴۸۶۶

یونس (علیہ السلام): (ج۔۴) ۲۰۶۱، (ج۔۵) ۳۰۹۷، (ج۔۷) ۴۲۱۶، ۴۳۱۱، ۴۳۱۲

یونس: (ج۔۲) ۵۷۴

یونس بن ابراہیم سامرائی، شیخ: (ج۔۵) ۲۷۰۱، (ج۔۶) ۳۹۷۲

یونس بن عبدالاعلیٰ: (ج۔۷) ۴۲۹۰

یونس بن عبدالرحمٰن ایرانی نقشبندی: (ج۔۵) ۲۶۴۴، ۲۶۷۵۔۲۶۷۶، ۲۶۸۱

یونس جمشید پوری، سید: (ج۔۱۰) ۶۴۹۲

یونگ سی جی (فلسفی): (ج۔۵) ۲۹۳۸۔۲۹۳۹، ۲۹۴۶

یٰسین اختر مصباحی، علامہ: (ج۔۸) ۴۹۹۰، (ج۔۹) ۵۰۰۰، ۵۰۱۵

یٰسین گیلانی، شیخ: (ج۔۶) ۳۱۸۰۔۳۱۸۱

یٰسین محمود: (ج۔۴) ۲۱۲۵

یٰسین، ملا (خلیفہ شاہ امان اللہ افغانی): (ج۔۱۰) ۵۸۴۹۔۵۸۵۰

Asma' al-Rijal

'Abd al-Hakim al-Afghani: (v-6) 3255
Abd al 'Aziz Siddiqui: (v-1) 3, (v-2) 483, (v-3) 1267, (v-4) 1891, (v-5) 2531, (v-6) 3123, (v-7) 3987, (v-8) ,4483(v-9) 4995,(v-10) 5587
Abd al-Ghani of Nablus: (v-5) 2829, (v-8) 4877
Abd al-Hakim Tabibi:(v-6) 3305
Abd al-Karim Mudarris: (v-6) 3289, 3290, 3291
Abdul Arvasi, Shaykh: (v-6) 3273
Abdul Aziz, Shah:(v-5) 2809
Abdul Hakim Sialkoti:(v-8) 4885
Abdul Mu'min:(v-5) 3031
Abu al-Fazl:(v-4) 2101, (v-8) 4882, 4890
Abu Manneh: (v-6) 3290
Abual Hassan Zayd Farooqui:(v-3) 1403, (v-10) 6379, 6425
Adam:(v-1) 979
Adnan Muhammad Kabani:(v-6) 3254
Ahmad Sirhindi :(v-3) 1370, 1371, 1403
Ahmad, Burhan:(v-9) 5042, 5049
Ahmed Riza Khan Bareilwi:(v-1) 54
Ahmed Sirhindi: (v-1) 93, (v-2) 956, 978, 1260, (v-3) 1368, (v-4) 2110-2111, 2112, 2147, 2148, 2164, 2177, 2221, 2222, (v-5) 2827, 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2837, 2838, 2939, 2840, 2971, 3030, 3031, (v-7) 4475, (v-8) 4785, 4874- 4891, 4893- 4897, (v-9) 5049
Ahmed Ziauddin Gumush Khanewi:(v-6) 3257, 3271
Ahmed Zubaid:(v-9) 5042
Ahrar, Khawaja:(v-1) 103
Akbar, Emperor:(v-4) 2091, 2093, 2097, 2099, 2102, 2110, 2111, (v-8) 4879, 4882, 4884, 4886, 4889-4890, 4894
Akbar:(v-4) 2112, 2177, 2204
Al a Dawla Simnani, Kubrawi:(v-5) 2831
Ali Asani, Prof:(v-6) 3253
Ali Hamadani, Syed:(v-5) 2831, 2842
Amir Ali:(v-9) 5042
Annandale, Charles:(v-1) 191
Anwar Ali, Syed:(v-4) 2168, 3145
Arberry, A. J.:(v-5) 2828
Arnold, T.W.: (v-3) 1298, (v-5) 2841, 2895,(v-8) 4875, 4987, (v-9) 5049
Arnold, T.W.:(v-3) 1298
Arshi, I.A.:(v-5) 2856
Aurangzeb Alamgir:(v-4) 2176, 2185,(v-5) 2827-2828, 2838, 2841,(v-8) 4885, 4894
Ayesha Siddiqa:(v-8) 4783
Aziz Ahmed, Prof.:(v-5) 2842
Babar Baig Mitaly:(v-10) 6305
Badaoni, Abdul Qadir:(v-9) 5042
Baha al-Din, Shah:(v-1) 103
Baha'uddin Naqshband:(v-2) 978,(v-4) 2221, (v-8) 4893
Bain Bridge:(v-6) 3247, 3254
Baljon, Johannes M.S.:(v-5) 2830
Balmeer Gascoigns:(v-4) 2167
Baqi Billah:(v-4) 2221, (v-8) 4879, 4884, 4889-4890, 4893
Behn, was H:(v-6) 2858
Bergson:(v-6) 3006
Bhagwandas, Raja:(v-6) 2101
Blachman:(v-6) 803
Bosworth, C.E.:(v-6) 4883
Bottcher, Annabella, Dr.:(v-1) 93, 98, 104,(v-6) 3242,(v-8) 4909
Boutas:(v-5) 3118, (v-6) 3304, 3305
Briggs, J:(v-8) 5042, 5049
Brockelmann, Carl:(v-5) 2858, 5042
Brown, John P.:(v-8) 4874
Buehlar, Arthur F.:(v-4) 2201, 2224, (v-7) 4475, (v-8) 4893, 4898, (v-10) 6379, 6421
Burhan Ahmad Faruqi:(v-10) 6301
Butros Abu Manneh:(v-6) 3289
Carl Gustav Yung:(v-5) 2946
Chatherjee, Atul Chandra:(v-4 2175
Dar, B.A.:(v-5) 3043
Dara Shikoh:(v-2) 803,(v-4) 2222,(v-8) 4885
David Damrel:(v-4) 2198
David, Gilwartin:(v-4) 2200
Dephne Hababis:(v-6) 3244, 3246, 3253, 3254, 3255
Elizabeth Ozdalgu (Istanbul):(v-1) 103

Enstein, Albert:(v-5) 2946, 2998
Etennal Garden:(v-4) 2199
Fayzi:(v-4) 2101,(v-8) 4890
Fehmi Adak:(v-6) 3272
Foweer, F.J.:(v-1) 192
Freeland, Abbot :(v-5) 2835- 2836, (v-8) 4882, 4898
Galata Maulawikhanesi:(v-6) 3258
Geddie, William:(v-1) 192
Ghazali:(v-5) 3006
Ghulam Ali, Shah:(v-6) 3289
Ghulam Muhammad Ahmad Sirhindi, Mian:(v-2) 956
Ghulam Muhammad, Mian:(v-2) 956
Gibb, H.A.R.:(v-1) 192, (v-5) 2842, (v-8) 4877, 4898
Gottschalk, Louis:(v-8) 4898
Grahame Bailey, Dr.:(v-4) 2059
Gurdjieff:(v-10) 5778
Hafeez Malik, Prof. Dr.:(v-4) 2223,(v-5) 2843,
Haji Bektashi Veli.(v-6) 3271
Hajjia Awna:(v-6) 3246
Hamid Algar:(v-6) 3291, 3305
Hamilton, A.R.:(v-1) 192
Hardy, Peter:(v-5) 2830
Hasan Brkaya:(v-6) 3257
Hassan Aksay:(v-) 3272
Hastings, J.:(v-5) 2841
Havell:(v-9) 5042
Hidiv Abbas Hilmi Pasha:(v-6) 3259
Hilmi Tunahan, Shaykh:(v-1) 98
Hilmi, Rafiq:(v-6) 3291
Hilnis, Dr.:(v-5) 2841
Hishman Kabani, Shaykh Muhammad:(v-6) 3255
Hitti P.K.:(v-5) 2856, 2858
Hoda Boyer:(v-6) 3254
Husam al- din Ahmad:(v-8) 4879
Ibn Arabi:(v-5) 2831
IBN 'Arabi:(v-5) 2973
Ibn Tayimiya:(v-4, 2221
Ibn-i-Arabi:(v-8) 4896
Ikhlas Holding:(v-6) 3273
Inayatullah, Shaykh:(v-9) 5042
Iqbal:(v-4) 2221
Isa al-Kurdi, Shaykh:(v-6) 3255
Ishtiaq Hussain Qureshi, Dr.:(v-4) 2170
Ismail Nejati Effendi Shaykh:(v-6) 3259
Jaffar S.M.:(v-9) 5042
Jahangir, Emperor:(v-3) 1368, 1370, (v-4) 2111, 2147, 2153, 2160, 2164,(v-5) 2827, 2832, 2837, 2841,(v-8) 4875, 4884, 4890
Jawaid Iqbal, Dr.:(v-5) 3008
Jesus:(v-2) 979
Jhon Ogilvie:(v-1) 191
Kambiz Ghanea Bassiri:(v-6) 3253
Kemal Kacar:(v-6) 3273
Khalid, Mawlana:(v-6) 3289
Korkut Ozal:(v-6) 3272
Larry Posten:(v-6) 3247, 3254
Ludvig W. Adamec:(v-6) 3305, 3306
Maan Z. Madina, Prof.:(v-1) 193
Mahmud Es'ad Cosan:(v-6) 3271
Mahmud Ustaosman Oglu:(v-6) 3270
Mann Singh, Raja:(v-4) 2101
Manzur M.:(v-9) 5041
Marglioth:(v-5) 2829
Marijian Mole:(v-5) 2831, 3005, (v-8) 4896
Marshall, D.N.:(v-8) 4878, 4898
Masood Ahmed Ashrafi:(v-1) 3, (v-2) 483, (v-3) 1267, (v-4) 1891, (v-5) 2531, (v-6) 3123, (v-7) 3987, (v-8) 4483, (v-9) 4995, (v-10) 5587
Massignon, Prof:(v-1) 192
Mas'ud Barzani:(v-6) 3291
Mayor, Adrian, C:(v-4) 2200
Mc Donald, D.B.:(v-1) 192
Mirak, Shaykh:(v-1) 222
Miyceb, M.:(v-10) 5834
Moreland W.H.:(v-4) 2175,(v-9) 5042
Moses:(v-2) 979
Muawiah:(v-8) 4783
Muhammad Abu'l Khayr al-Midani:(v-6) 3255
Muhammad Ahmad Al-Dumaiqa:(v-6) 3254
Muhammad Hisham Kabani, Shaykh:(v-6) 3254
Muhammad Iqbal Dr.:(v-5) 2842, 3008, 3011, 3044

Muhammad Iqbal Mujaddidi:(v-2) 1260, 1263, (v-10) 6366, 6367
Muhammad Masud Ahmad, Dr. Prof.:(v-10) 6379, 6423
Muhammad Masum Sirhindi, Khawaja:(v-2) 1263
Muhammad Mukarram Ahmed, Dr. Mufti:(v-1) 3, (v-2) 483, (v-3) 1267, (v-4) 1891, (v-5) 2531,(v-6) 3123, (v-7) 3987, (v-8)4483,(v-9) 4995, (v-10) 5587
Muhammad Qamaruddin Rizvi, Mawlana:(v-1) 3,(v-2) 483,(v-3) 1267,(v-4) 1891, (v-5) 2531, (v-6) 3123, (v-7) 3987,(v-8) 4483, (v-9) 4995, (v-10) 5587
Muhammad Riyad al-Malih:(v-6) 3255
Muhammad Sadiq:(v-2) 978, 979
Muhammad Uthman Siraj Ad-Deen An Naqshbandi:(v-6) 3290
Muhammad Yahya, Khalifa:(v-1) 3,(v-2) 483, (v-3) 1267,(v-4) 1891,(v-5) 2531, (v-6) 3123, (v-7) 3987,(v-8) 4483, (v-9) 4995,(v-10) 5587
Muhammad Zahid Kotku:(v-6) 3272
Munir Husasain Masoodi:(v-1) 3,(v-2) 483, (v-3) 1267,(v-4) 1891,(v-5) 2531,(v-6) 3123,(v-7) 3987,(v-8) 4483,(v-9) 4995,(v-106) 5587
Mustafa Sabri:(v-5) 2842
Necmettin Erbakan :(v-1) 264, (v-6) 3272
Nicholoson, R.A.:(v-1) 192,(v-5) 2842
Nizami, K.A.:(v-10) 5707
Nur Ahmad:(v-2) 978, 979
Nur Jehan, Empress :(v-8) 4887, 4891
Olivier Roy:(v-6) 3305
Osman Nuri Topbas:(v-6) 3271
Ouspensky:(v-10) 5778
Pnina Werbner:(v-8) 4895
Ram Sherma, Sir:(v-4) 2167
Zubaid Ahmed:(v-5) 2817
Rich, Claudius James:(v-6) 3290
Rizvi S.A.A.:(v-10) 5834
Rose, H.A.:(v-6) 4874
Safr Ahmad Masumi, Mir:(v-2) 1261-1262,(v-10) 6367, 6368
Sardar Ali Ahmad Khan:(v-10) 6379, 6424
Sardar Iqbal Shah:(v-7) 4062
Schimmel, Annemarie:(v-2) 979,(v-4) 2201, (v-8) 4884, 4898,(v-10) 6379, 6422
Shafi, Muhammad:(v-9) 5042
Shafiq Ali Khan, Dr.:(v-4) 2166
Shah Musafur:(v-8) 4876
Shahjahan, Emperor:(v-4) 2160, 2164, 2175
Sharif, Abd as Sattar Tahir:(v-6) 3291
Sherwani, Latif Ahmed:(v-5) 3011
Smith, Vincent A.:(v-9) 5042
Stark:(v-6) 3247, 3254
Storey, C. A.:(v-5) 2829, 2842
Suleman Hilmi Tunahan:(v-6) 3273
Ter Haar, J. G. J.:(v-4) 2198,(v-5) 2854, 2858
Theodre de Bary, William:(v-4) 2223,(v-5) 2842
Thomas Roe, Sir:(v-5) 2832
Trimingham, J. Spencer :(v-8) 4879,(v-9) 4898
Turgat Ozal:(v-6) 3272
Usha Sanyal, Dr.:(v-1) 54,(v-5) 2909
Vika Gardner:(v-1) 46,(v-10) 5595
Waliullah, Shah:(v-5) 2829,(v-8) 4877, 4883
Werbner, Pinna:(v-8) 4899
Whitehead:(v-5) 2998
Willam Dwight Whitney:(v-1) 191
Willium Geddie:(v-1) 192
Yohanan, Friedmann Dr.:(v-4) 2198,(v-5) 2817, 2854, 2858,(v-8) 4880, 4898
Y'qub Kashmiri, Shaykh:(v-5) 2831
Zahid Ali Kamil, Mir:(v-3) 1403
Zahid Ali Kamil:(v-3) 1403

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

پروفیسر ڈاکٹر آرتھر بیولر

(وکٹوریہ یونیورسٹی، سوئٹزر لینڈ)

☆☆

خدا کرے آپ بخیریت ہوں۔ آپ کی فی سبیل اللہ مساعی جمیلہ پر بہت بہت مبارک باد۔۔۔ جہان امام ربانی کی مزید پانچ جلدیں مکمل ہونے پر مبارکباد۔ مجھے امید ہے کہ میں یہ جلدیں بھی مطالعہ کر سکوں گا۔ جہان امام ربانی کی سات جلدوں پر تأثرات لکھنا میرے لیے باعث اعزاز و اکرام ہوگا۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں زندہ رہنے والی خدمت اور ذوق وشوق کی زندگی ہے جو انسانیت کو امام ربانی کے پیغام سمجھا رہی ہے۔۔۔

میں اپنی کتاب کے ایک باب میں اس عظیم الشان کام کا ذکر کروں گا جو آپ نے امام ربانی کے لیے کیا ہے۔ بدقسمتی سے مجددی حلقے کے علاوہ دوسرے حلقے ابھی بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ کسی بھی زبان میں کسی بھی صوفی پر اتنا عظیم الشان کام نہیں ہوا جو آپ نے کیا ہے۔ خدا کرے آپ کا یہ کام ہم سب کے لیے اور پندرہویں صدی کے بعد بھی آنے والوں کے لیے مینارۂ نور بنے۔ آمین

جذبہ محبت اور پذیرائی کے ساتھ

آرتھر بیولر

(ای میل بنام حضرت مسعود ملت مورخہ ۲ر فروری ۲۰۰۷ء) (انگریزی سے ترجمہ)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدهٗ و نصلی علٰی رسوله الکریم

اشاریہ کتب جہان امام ربانی

☆☆

پروفیسر قاری محمد رفیق، صوفی عبدالستار طاہر، سید زبیر حسین جیلانی، حاجی امجد افضل
حاجی محمود، محمد شریف اعوان، صبا مسعودی، حنا مسعودی، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد
بشریٰ، مدثر چوہدری، محمد عثمان، حافظ محمد سعید، حافظ محمد انس، محمد سجاد، محمد اشفاق
اسامہ امجد، حافظ شرافت، محمد عاطف، عامر اسلم، محمد عامر، محمد ہارون
حافظ بلال ساجد، مولانا غلام نبی، مولانا احمد صادق

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

آ

آب کوثر: (ج۔۴) ۲۰۵۸، ۲۱۶۶، ۲۳۵۵، (ج۔۶) ۳۸۰۳، ۳۸۲۴

آثار الصنادید: (ج۔۱) ۱۹۷، ۳۲۳، ۳۵۲، (ج۔۴) ۲۴۹۲، (ج۔۶) ۳۳۵۶، ۳۳۹۴، (ج۔۹) ۵۱۵۶، ۵۳۳۴

آثار الکریم: (ج۔۵) ۲۷۲۹۔۲۷۳۰

آثار المبتدعین لاہدام حبل اللہ المتین: (ج۔۵) ۲۵۶۰

آثار اولیاے شہر بدایوں: (ج۔۴) ۲۳۹۶

آثار عبداللہ خویشگی قصوری: (ج۔۴) ۲۴۵۵

آخری پیغام: (ج۔۱) ۴۶۴، (ج۔۶) ۳۶۳۹

آخری پیغام (عربی ترجمہ): (ج۔۶) ۳۳۹۳

آداب القرآن: (ج۔۶) ۳۲۶۱

آداب المریدین: (ج۔۲) ۵۱۳، ۶۲۵، ۶۲۷، ۶۳۳، ۶۶۱، (ج۔۳) ۱۲۹۵، (ج۔۴) ۲۰۳۳، (ج۔۵) ۲۵۷۰، ۲۵۹۲، ۲۶۳۳، ۲۹۱۷، (ج۔۸) ۴۵۷۹، (ج۔۹) ۵۰۲۷، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۲۴۹، ۵۴۹۰، ۵۵۰۷

آداب سالک: (ج۔۶) ۳۶۲۴

آدم درخانی قصہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۱

آزادی کی تحریکیں: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

آغاز سلوک: (ج۔۶) ۳۵۰۳

آفتاب سرہند: (ج۔۴) ۲۵۱۳

آفتاب شرف: (ج۔۴) ۱۹۲۱۔۱۹۲۲، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۸

آفتاب ولایت: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۴

آفتاب ہدایت: (ج۔۷) ۴۲۷۸

آگاہی سید امیر کلال: (ج۔۱۰) ۶۱۰۴

آئین اکبری: (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۵، ۲۵۷۹، (ج۔۹) ۵۱۵۵، ۵۲۹۵، (ج۔۱۰) ۵۹۲۴

آئینہ اور اقبال: (ج۔۵) ۲۹۴۴

آئینۂ حقیقت: (ج۔۶) ۳۵۹۷

آئینۂ دیوبند: (ج۔۴) ۲۵۱۳

آیات قیومیہ: (ج۔۳) ۱۸۷۴

ا

ابجد العلوم: (ج۔۴) ۱۹۵۲، (ج۔۵) ۲۸۴۱، (ج۔۶) ۳۲۱۷۔۳۲۱۸، (ج۔۹) ۵۱۵۴، ۵۱۵۷، ۵۱۶۲، ۵۱۹۶، ۵۳۳۹، ۵۳۵۸، (ج۔۱۰) ۵۶۳۲، ۵۷۶۲

ابحاث: (ج۔۴) ۲۴۳۶

ابراہیم شاہی: (ج۔۳) ۱۷۶۰

ابریق المنار بشموع المزار: (ج۔۱) ۱۱۵

ابن ابی شیبہ: (ج۔۷) ۴۳۳۲، ۴۳۳۹، ۴۳۴۹

ابن السنی: (ج۔۴) ۲۳۲۵، (ج۔۵) ۲۸۸۳

ابن النجار: (ج۔۴) ۲۳۳۰

ابن امیر حاج: (ج۔۸) ۴۶۴۶

ابن بطوطہ: (ج۔۴) ۲۰۵۸

ابن حبان: (ج۔۲) ۵۵۳، ۶۱۸۔ ۶۱۹، ۶۳۸، ۶۴۲، ۶۴۷، ۶۵۸۔ ۶۵۹، (ج۔۳) ۱۷۹۹، (ج۔۴) ۲۲۹۵۔ ۲۲۹۶، ۲۳۲۹، (ج۔۷) ۴۲۸۵، ۴۲۸۹، ۴۳۱۸، ۴۳۳۱۔ ۴۳۳۴، ۴۳۳۶، ۴۳۴۲۔ ۴۳۴۳، ۴۳۴۵، ۴۳۴۸، ۴۳۵۰۔ ۴۳۵۱، ۴۳۵۴، ۴۳۵۸، ۴۳۶۱، ۴۳۶۳، ۴۳۶۵۔ ۴۳۶۶، ۴۳۶۹۔ ۴۳۷۰، ۴۳۷۷، ۴۳۸۳، ۴۳۸۶، ۴۴۰۶

ابن زنجویہ: (ج۔۴) ۲۲۹۷، ۲۳۳۰

ابن ماجہ: (ج۔۱) ۱۷۳، (ج۔۲) ۵۴۴، ۵۵۶، ۵۷۶۔ ۵۷۷، ۵۹۶، ۶۰۶، ۶۰۸، ۶۱۹، ۶۲۳۔ ۶۲۴، ۶۳۸، ۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۷، ۶۵۳، ۶۵۶، ۶۵۹۔ ۶۶۰، ۷۰۸، ۸۰۷۔ ۸۰۸، ۸۲۰، ۸۲۴، ۸۳۵، ۸۸۶، (ج۔۳) ۱۵۷۹، ۱۷۹۹، (ج۔۴) ۲۳۱۲، (ج۔۵) ۲۶۸۵، ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۲۷۸، ۴۲۹۲، ۴۳۱۰، ۴۳۱۹، ۴۳۲۱، ۴۳۲۴۔ ۴۳۲۵، ۴۳۲۹۔ ۴۳۳۰، ۴۳۳۲، ۴۳۳۴۔ ۴۳۳۵، ۴۳۴۰۔ ۴۳۴۱، ۴۳۴۳۔ ۴۳۴۴، ۴۳۴۸۔ ۴۳۴۹، ۴۳۵۴۔ ۴۳۵۵، ۴۳۵۹، ۴۳۶۴، ۴۳۶۶، ۴۳۶۹، ۴۳۷۲، ۴۳۷۶۔ ۴۳۷۸، ۴۳۸۷۔ ۴۳۹۱، ۴۳۹۹، ۴۴۰۲۔ ۴۴۰۳، ۴۴۰۹، ۴۴۱۱، (ج۔۸) ۴۷۸۶، ۴۹۴۵، (ج۔۹) ۵۲۴۳، ۵۲۶۱، (ج۔۱۰) ۵۸۴۴

ابوالمکارم: (ج۔۸) ۴۶۴۵۔ ۴۶۴۶

ابوحنیفہ، آراؤ فقہ: (ج۔۲) ۷۲۷

ابوداؤد: (ج۔۱) ۱۷۳، ۴۳۰، (ج۔۲) ۵۱۳، ۵۲۲۔ ۵۲۳، ۵۳۰، ۵۳۲۔ ۵۳۳، ۵۳۵، ۵۴۶، ۵۸۰۔ ۵۸۱، ۶۱۹، ۶۲۵، ۶۳۸۔ ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۸، ۶۵۹، ۶۶۱، ۷۰۸، ۸۲۰، ۸۳۵، ۸۸۶، ۱۱۲۹، ۱۲۴۶، ۱۲۶۲، (ج۔۳) ۱۵۰۷، ۱۶۵۱، ۱۶۵۹، ۱۷۹۹، (ج۔۴) ۲۳۳۰، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۲۸۹، ۴۲۹۵۔ ۴۲۹۶، ۴۳۱۲، ۴۳۱۸۔ ۴۳۱۹، ۴۳۲۲، ۴۳۲۴، ۴۳۲۹، ۴۳۴۶، ۴۳۴۸، ۴۳۶۳۔ ۴۳۶۵، ۴۳۷۲، ۴۳۷۴، ۴۳۸۹، ۴۴۰۱، ۴۴۰۸، (ج۔۸) ۴۶۲۰، ۴۶۳۴۔ ۴۶۳۵، ۴۶۴۴، ۴۷۸۵، ۴۷۸۷، ۴۹۴۵، (ج۔۹) ۵۲۴۷، ۵۴۱۶، (ج۔۱۰) ۵۶۷۴

ابوالکلام آزاد: (ج۔۹) ۵۰۲۷

ابیات مثنوی: (ج۔۶) ۳۵۰۴، ۳۵۹۱

اتحاد بین المسلمین: (ج۔۶) ۳۷۹۲

اتحاف الاخلاق باوصاف الاسلاف: (ج۔۶) ۳۱۸۸

اتحاف الخلیل بمشرب الجلیل الجمیل: (ج۔۶) ۳۲۱۲

اتحاف الخلیل شرح منظومۃ سیدی عبداللہ بن عمر خلیل: (ج۔۶) ۳۲۱۲

اتحاف الذائق بشرح بیتی الصادق: (ج۔۶) ۳۲۱۲

اتحاف السادۃ الاشراف ببذہ من کلام سیدی عبداللہ حسین السقاف: (ج۔۶) ۳۲۱۲

اتحاف السلاف فی انساب السادۃ الاشراف: (ج۔۶) ۳۲۱۳

اتحاف ذوی الامعیۃ فی تحقیق معنی المعیۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۲

اتحاف: (ج۔۹) ۵۳۶۹، ۵۴۲۷

اتقان: (ج۔۶) ۳۱۹۸

اتمام الاعلام: (ج۔۵) ۲۷۰۱

اتھروید: (ج۔۴) ۲۱۰۱، (ج۔۱۰) ۵۶۴۶

اثبات النبوۃ: (ج_۱) ۴۱۴، ۴۲۷، ۴۳۱، ۴۶۲، (ج_۲) ۵۰۷، ۷۴۳، ۷۶۸، (ج_۳) ۱۲۹۵، ۱۴۴۹، ۱۴۶۳، ۱۵۲۱، ۱۵۲۶، ۱۵۵۷_ ۱۵۵۸، ۱۵۶۰_ ۱۵۶۱، ۱۵۶۳، (ج_۴) ۱۹۴۱_ ۱۹۴۲، ۲۰۳۳، ۲۰۵۳_ ۲۰۵۴، ۲۰۶۶، ۲۲۰۴_ ۲۲۰۵، ۲۲۱۹، ۲۲۷۱، ۲۴۱۱، ۲۴۳۴، (ج_۵) ۲۵۷۰، ۲۵۷۹، ۲۵۹۲_ ۲۵۹۳، ۲۵۹۵، ۲۵۹۷_ ۲۶۰۰، ۲۶۲۴، ۲۶۲۶، ۲۶۳۳، ۲۷۱۰، ۲۹۱۷، (ج_۶) ۳۴۴۳، ۳۶۸۶، (ج_۷) ۴۰۰۸، ۴۱۹۵، ۴۴۲۱، ۴۴۲۳، (ج_۸) ۴۵۱۲، ۴۵۷۹، ۴۹۳۳، ۴۹۳۷، (ج_۹) ۵۰۱۲، ۵۰۲۶، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۰۷۰، ۵۱۵۰، ۵۱۶۷، ۵۱۶۹، ۵۱۷۵، ۵۱۷۸، ۵۱۸۳، ۵۱۸۹، ۵۲۲۸، ۵۲۴۹_ ۵۲۵۰، ۵۲۹۷، ۵۳۸۷، ۵۳۹۹، ۵۴۱۳، ۵۴۱۵، ۵۴۷۲، ۵۴۸۹، ۵۵۰۲، ۵۵۰۰، ۵۵۲۰، (ج_۱۰) ۵۶۲۰، ۵۶۴۰، ۵۶۵۵، ۵۶۶۲، ۵۶۶۷، ۵۶۶۹، ۵۷۰۳، ۶۱۰۵_ ۶۱۰۶، ۶۱۱۲، ۶۱۶۴، ۶۲۳۶

الاجابۃ الربانیہ: (ج_۵) ۲۸۵۹، ۲۸۶۱، ۲۸۶۳، (ج_۶) ۳۱۴۳، (ج_۷) ۴۰۰۹، (ج_۸) ۴۵۰۱، (ج_۹) ۵۰۱۳، (ج_۱۰) ۶۴۰۴

اجابۃ الغوث: (ج_۲) ۱۱۹۱

الاجازات المتینہ لعلماء بکۃ والمدینۃ: (ج_۵) ۲۸۹۶، ۲۹۱۰

اجازۃ (مخطوط مخزونہ مکتبہ ظاہریہ، دمشق): (ج_۶) ۳۱۹۷

الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ الایرانیہ: (ج_۷) ۴۲۶۱

الاجوبۃ المنفیۃ عن اعتراضات ابن ابی شیبۃ علیٰ ابی حنیفہ: (ج_۲) ۷۲۷

احادیث کے محاورات واستعارات: (ج_۶) ۳۶۸۷

الاحسان فی علوم القرآن: (ج_۶) ۳۱۹۸

احسن الفتاویٰ: (ج_۲) ۷۳۵

احسن الکلام: (ج_۲) ۷۳۳

احصاء العلوم (فارابی): (ج_۹) ۵۱۹۶

احقاق الحق: (ج_۹) ۵۳۴۰

احقاق (رسالہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی): (ج_۱) ۱۱۱

احکام شریعت: (ج_۳) ۱۶۶۰

الاحکام فی اصول الاحکام: (ج_۲) ۵۱۹، ۶۳۵

احمد رضا بڑھیچ افغانی: (ج_۶) ۳۳۳۹

احمد سرہندی اور ان کے اصلاحی کارنامے (مقالۂ ڈاکٹریٹ)(انگریزی): (ج_۳) ۱۵۰۳

احوال ابدال (امام سیوطی): (ج_۲) ۱۱۹۱

احوال الامام الربانی: (ج_۵) ۲۶۷۷، ۳۰۹۳

احوال العارفین: (ج_۱۰) ۵۸۸۷_ ۵۸۸۸، ۵۸۹۰، ۵۸۹۲_ ۵۸۹۳

احوال بزرگان: (ج_۴) ۲۴۹۰

احوال شاہ نقشبند: (ج_۴) ۲۴۹۰، (ج_۶) ۳۳۵۸

احوال مجدد الف ثانی (نظام الدین مجددی توکلی): (ج_۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۰

احوال وسخنان خواجہ عبید اللہ احرار: (ج_۱۰) ۶۱۵۴، ۶۱۵۶

احوال و آثار عبداللہ خویشگی قصوری: (ج_۳) ۱۴۰۳، (ج_۴) ۲۴۳۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۶، (ج_۵) ۲۷۹۵، ۲۸۱۶، ۳۱۰۹، (ج_۹) ۵۳۳۱_ ۵۳۳۲، ۵۳۶۳، ۵۳۸۴

احیاء علوم الدین (امام غزالی): (ج_۱) ۱۹۶، (ج_۲) ۵۱۴، ۵۲۰، ۵۳۶_ ۵۳۸، ۵۵۲، ۵۶۷، ۵۸۴، ۵۸۷،

۵۹۶، ۶۲۵، ۶۳۲_ ۶۳۵، ۶۳۹_ ۶۴۰، ۶۴۲، ۶۴۵_ ۶۴۶، ۶۴۹_ ۶۵۰، ۶۵۳، ۶۶۱_ ۶۶۲، ۷۲۵، ۸۸۷، ۹۳۰، (ج_۳) ۱۴۶۵، (ج_۴) ۲۲۳۶، ۲۳۱۵، (ج_۶) ۳۱۷۹، ۳۲۶۲، (ج_۷) ۴۳۰۵، ۴۳۱۰، ۴۳۲۰_ ۴۳۲۲، ۴۳۲۵، ۴۳۳۵، ۴۳۶۴، ۴۳۵۸، ۴۳۹۵_ ۴۳۹۶، ۴۴۰۳، ۴۴۰۶_ ۴۴۰۷، ۴۴۰۹، ۴۴۱۳، (ج_۹) ۵۱۷۵، ۵۲۱۰، ۵۲۲۲

اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ: (ج_۲) ۷۲۸

اخبار الاخیار: (ج_۲) ۱۰۹۸، ۱۱۲۰، ۱۱۲۹، (ج_۳) ۱۲۹۸، ۱۳۸۷، ۱۳۹۵، ۱۴۰۲، ۱۴۰۵، ۱۴۱۶، (ج_۴) ۲۴۳۲_ ۲۴۳۳، (ج_۶) ۳۱۴۹، ۳۱۵۳، ۳۳۵۱، (ج_۷) ۴۰۶۳، (ج_۸) ۴۸۶۲_ ۴۸۶۴، ۴۹۳۷، (ج_۹) ۵۰۳۵، ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، ۵۱۴۷، ۵۱۵۴، ۵۱۵۶_ ۵۱۵۷، ۵۱۵۹، ۵۴۲۶، ۵۵۱۲_ ۵۵۱۳، ۵۵۲۳، (ج_۱۰) ۵۶۳۴، ۵۶۳۸

اخبار الاخیار فی اسرار الابرار: (ج_۶) ۳۳۵۲

اختلاف امت کا المیہ: (ج_۴) ۲۴۵۶، (ج_۵) ۲۵۷۳، ۲۵۷۷

اخلاص نامہ: (ج_۹) ۵۳۴۲

اخلاق و اعمال: (ج_۶) ۳۵۹۷

ادب الدنیا والدین: (ج_۱) ۵۸۴، ۶۴۹، (ج_۵) ۳۰۱۷

الادب المفرد: (ج_۲) ۸۸۵

ادبی جائزے: (ج_۵) ۲۹۴۵

ادعیہ ماثورہ: (ج_۲) ۵۵۳

ادعیۃ الحج والعمرۃ: (ج_۵) ۲۶۹۸

ادلۃ اھل السنۃ والجماعۃ: (ج_۱) ۱۰۹

اذکار الابرار ترجمہ گلزار ابرار (مترجم محمد افضل جیوری): (ج_۴) ۲۲۲۲، (ج_۱۰) ۵۹۲۴

اذکار صبح: (ج_۲) ۶۳۹

اذکار طریقہ الچشتیہ والنقشبندیہ: (ج_۵) ۲۶۷۴

الاذکار للنووی: (ج_۷) ۴۳۱۸، ۴۳۵۱

اذکار معصومیہ: (ج_۶) ۳۶۶۶

اذکار نبویہ: (ج_۱۰) ۶۳۵۶، ۶۳۷۰

اربعین بروایت سراج المسلمین: (ج_۶) ۳۵۲۳

اربعین فی اصول الدین: (ج_۶) ۳۴۴۴

اربعین فی رشد الطالبین: (ج_۶) ۳۵۲۲

اربعین فی فضل المجاہدین: (ج_۶) ۳۵۲۲

اربعین مجدد الف ثانی: (ج_۲) ۷۵۲

اربعین (مفتی محمد محمود الوری): (ج_۶) ۳۶۲۴

ارتحال مجددی مع وصال احمدی: (ج_۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۳

الارج المسکی فی التاریخ المکی: (ج_۶) ۳۱۵۹

اردو ادب کے ارتقا میں علماء کا حصہ: (ج_۴) ۲۵۱۴

اردو دائرۃ معارف اسلامیہ: (ج_۳) ۱۴۰۲، ۱۴۰۴، ۱۴۰۶، (ج_۴) ۲۱۴۵، ۲۱۶۹_ ۲۱۷۰، (ج_۵) ۲۵۵۲، ۲۹۹۵، ۳۰۱۵، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۱۴۶، ۳۷۵۴، (ج_۹) ۵۰۱۲، (ج_۱۰) ۵۹۷۳

اردو شاعری میں احادیث کی تعلیمات: (ج_۶) ۳۶۸۷

اردو میں قرآنی محاورے: (ج_۱) ۴۶۲

اردو نعت گوئی اور فاضل بریلوی: (ج_۱) ۵۴، (ج_۱۰) ۵۶۹۶

اردوے قدیم اورچشتی صوفیہ: (ج۔۳)۱۸۷۲
ارزش میراث صوفیہ: (ج۔۷)۴۰۶۱۔۴۱۶۲
ارشادالساری شرح صحیح البخاری: (ج۔۱)۲۱۹، ۲۲۰
ارشاد السالکین: (ج۔۶) ۳۷۴۳، ۳۷۵۴، (ج۔۱۰) ۵۹۵۷
ارشادالصنایۃ فی الکتابۃ تحت بعض آیۃ: (ج۔۶)۳۲۱۳
ارشادالصواب لمن وقع فی بعض الاصحاب: (ج۔۶)۳۵۲۲
ارشادالطالبین: (ج۔۱)۴۳۱، (ج۔۲)۱۱۲۰، ۱۱۲۹، (ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵)۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۸۱۰، ۲۸۹۵، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۷۴، ۵۸۸۴
ارشادذی اللوذعیہ علی بیتی المعیۃ: (ج۔۶)۳۲۱۳
ارشادرحیمیہ: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۶)۳۶۸۶، (ج۔۱۰)۶۱۰۳
الارشادات السنیہ فی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۶)۳۲۱۳
ارشادات حضرت مجددالف ثانی (مرتبہ ابولبرکات سیداحمد قادری): (ج۔۱۰)۶۲۴۴
ارشادات مجدد الف ثانی (محمود اشرف عثمانی): (ج۔۱۰) ۶۳۳۴
ارشادات مجددالف ثانی: (ج۔۳)۱۸۳۰۔۱۸۳۱، (ج۔۴) ۲۰۳۸، (ج۔۵)۲۸۱۹۔۲۸۲۲، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۴، ۶۲۴۴، ۶۳۳۲
ارشادات مجدد (مرتبہ صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری): (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۳۳
ارغام المرید: (ج۔۱۰)۶۳۱۴
ارکان دین: (ج۔۶)۳۳۷۷
ارمغانِ اقبال: (ج۔۵)۳۰۴۲
ارمغانِ پاک: (ج۔۵)۲۷۵۲
ارمغانِ حجاز: (ج۔۵)۲۹۶۲، ۳۰۰۸، ۳۰۱۴
ارمغانِ حجاز بہ یارانِ طریق: (ج۔۵)۳۰۰۷
ارمغانِ مجاہد ملت: (ج۔۶)۳۷۹۸
ارمغانِ ہند: (ج۔۱)۴۶۱
ازالۃ الاشتباہ فی قطع ھمزۃ یااللہ: (ج۔۶)۳۵۲۲
الازھادالمتناثرہ فی الاخبارالمتواترۃ: (ج۔۶)۳۵۲۲
الاساورالعسجدیہ فی المآثرالخالدیہ: (ج۔۴)۲۵۰۹
الاستدارک للدوراک: (ج۔۶)۳۵۲۳
استنزال النصر بالتوسل باھل بدر: (ج۔۶)۳۱۷۹
الاستیعاب: (ج۔۱)۲۱۹، ۲۲۰، (ج۔۷)۴۰۳۱۔۴۰۳۲،
اسٹوری: (ج۔۹)۵۵۶۳
اسرارالاولیاء: (ج۔۶)۳۸۰۳، ۳۸۲۴
اسرارالتشہد: (ج۔۱۰)۵۶۳۵
اسرارالتوحید: (ج۔۱۰)۵۸۷۴
اسرارالصلوٰۃ: (ج۔۵)۲۶۲۷
اسرارالطریقہ: (ج۔۱۰)۵۸۸۹
اسرار المرفوعۃ فی الخیار الموضوعۃ: (ج۔۲) ۵۸۲، ۶۳۹، ۶۴۸، ۶۵۴، ۶۵۹،
الاسرارالمطویہ فی الاسماءالسھر وردیۃ: (ج۔۶)۳۱۹۷
اسرارالمناسک: (ج۔۴)۲۳۳۹
اسرارتشہد (شیخ عبد الاحد، والد حضرت مجدد): ۴۱۲، (ج۔۹)۵۲۲۶، ۵۲۹۲
اسرارتوحید: (ج۔۵)۲۷۱۰

اسرارِ حقیقی: (ج ـ ۷) ۴۰۵۱

اسرارِ خودی: (ج ـ ۳) ۱۳۹۸، (ج ـ ۵) ۲۹۳۲، ۲۹۷۴، ۳۰۰۹، ۳۰۱۸، ۳۰۲۴، ۳۰۴۲

اسرارِ خودی اور تصوف: (ج ـ ۵) ۳۰۱۱ ـ ۳۰۱۲

الاسرار شریف: (ج ـ ۵) ۲۸۹۰

اسرار طریقت (رسالہ): (ج ـ ۱۰) ۵۸۷۳ ـ ۵۸۷۴، ۵۸۹۱

اسرار فقہ: (ج ـ ۶) ۳۳۵۹

اسرائیلیات: (ج ـ ۲) ۵۶۷

الاسرة الطمریۃ المکیۃ: (ج ـ ۶) ۳۱۶۰، ۳۱۸۹

اسلام: (ج ـ ۶) ۳۲۷۱

اسلام اور روحانیت: (ج ـ ۲) ۱۲۴۷

اسلام اور سود: (ج ـ ۲) ۷۳۵

اسلام کا نظام تعلیم اور مرزائیوں کے باطل نظریات: (ج ـ ۲) ۱۲۴۷

اسلام کا نظریہ سود اور بینکاری: (ج ـ ۲) ۷۳۵

اسلام میں ربا کی حرمت اور بلا سود سرمایہ کاری: (ج ـ ۲) ۷۳۶

اسلامی انسائیکلوپیڈیا: (ج ـ ۵) ۲۸۹۵ ـ ۲۸۹۶

اسلامی تصوف اور اقبال: (ج ـ ۵) ۳۰۱۰، ۳۰۱۲

اسلامی تصوف اور صوفیائے سرحد: (ج ـ ۱) ۸۹، ۱۱۲

اسلامیات لازمی: (ج ـ ۶) ۳۶۸۷

اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان: (ج ـ ۱) ۴۵۸، (ج ـ ۸) ۴۹۴۸

اسماعیل دہلوی: (ج ـ ۶) ۳۸۹۰، ۳۹۱۱

اسماء الرجال: (ج ـ ۶) ۳۳۵۲

اسمبلی کی نشست کے فیصلہ کی قلمی دستاویزات: (ج ـ ۶) ۳۷۰۷

اسنی المطالب فی نجاۃ ابی طالب: (ج ـ ۵) ۲۶۹۸

اسئلہ واجوبہ فی علم حدیث: (ج ـ ۶) ۳۲۶۰

الاشارات السنیہ لسالکی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج ـ ۵) ۲۸۵۹، ۲۸۶۱، ۲۸۶۴، (ج ـ ۶) ۳۱۴۳، (ج ـ ۷) ۴۰۰۹، (ج ـ ۸) ۴۵۰۱، (ج ـ ۹) ۵۰۱۳، (ج ـ ۱۰) ۶۴۱۷

الاشارہ الی البشارہ: (ن ـ ۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۴

الاشارۃ السنیہ لسالکی الطریقہ النقشبندیہ: (ج ـ ۱۰) ۶۳۷۹

الاشباہ والنظائر: (ج ـ ۶) ۳۱۷۰

اشتباہ (محمد صالح گجراتی): (ج ـ ۴) ۲۴۵۱، ۲۴۵۶

اشتباہ: (ج ـ ۹) ۵۴۹۷

اشدا الجہاد فی ابطال دعویٰ الاجتہاد: (ج ـ ۵) ۲۶۸۸

اشعار جالی شریف (مکتوبہ حضرت مجدد الف ثانی): (ج ـ ۱۰) ۶۱۶۲

اشعۃ اللمعات: (ج ـ ۱) ۱۹۵، (ج ـ ۲) ۷۳۴، ۸۲۲، (ج ـ ۴) ۱۹۸۳، (ج ـ ۸) ۴۶۳۶

الاصابہ فی معرفۃ الصحابہ: (ج ـ ۱) ۲۱۹، ۲۲۱، (ج ـ ۲) ۱۰۹۸، (ج ـ ۸) ۴۶۱۶، (ج ـ ۹) ۵۳۱۲

اصحاب الکرام: (ج ـ ۱۰) ۵۶۶۸

اصدق التصدیق بافضلیۃ الصدیق: (ج ـ ۶) ۳۵۲۲

اصطلاحات الصوفیہ الواردۃ فی الفتوحات المکیہ: (ج ـ ۹) ۵۲۷۳

اصفی الموارد فی سلسال احوال مولانا خالد: (ج ـ ۴) ۲۵۰۹

اصلاحات نقشبندیہ: (ج ـ ۷) ۴۰۶۲

الاصول الاربع فی تردید الوہابیہ: (ج-۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۰، ۳۶۱۰

اصول السرخسی: (ج-۲) ۷۳۰-۷۳۱

اصول الفقہ (ابوزہرہ، محمد): (ج-۲) ۷۳۱

اصول الفقہ الاسلامی (ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی): (ج-۲) ۷۳۰-۷۳۱

اصول حدیث: (ج-۶) ۳۳۵۲، (ج-۱۰) ۵۸۷۴

اصول فقہ: (ج-۸) ۴۹۴۸

اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ: (ج-۱۰) ۵۷۶۲

الاضواء المبتہجہ: (ج-۶) ۳۱۶۲

اطائب التہانی فی مناقب مجدد الف ثانی (امام احمد رضا خان بریلوی): (ج-۵) ۲۸۹۱، ۲۹۰۶، (ج-۱۰) ۵۶۹۴

اطلاعات: (ج-۵) ۲۸۵۶، ۲۸۵۸

اظہار الحق الجلی: (ج-۵) ۲۶۸۷، ۲۸۹۶

اظھار الاسقام: (ج-۱۰) ۵۸۰۳

اعجاز القران (نور بخش توکلی): (ج-۱۰) ۵۹۶۶

اعز الاکتناہ فی رد صدقۃ مانع الزکوٰۃ: (ج-۱) ۱۱۵

اعلام: (ج-۱۰) ۶۲۰۱

اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للھجرۃ (محمد علی مغربی): (ج-۵) ۲۷۰۲

الاعلام الشرقیہ فی المائۃ الرابعۃ عشر الھجریہ: (ج-۵) ۲۷۰۱، ۲۷۰۳

اعلام المکیین من القرن التاسع الی القرن الرابع عشر الھجری: (ج-۵) ۲۶۹۶، ۲۷۰۳-۲۷۰۴، (ج-۶) ۳۱۶۰-۳۱۶۲، ۳۱۸۹، ۳۲۰۱، ۳۲۱۸

اعلام الھدیٰ: (ج-۱۰) ۵۷۶۲

الاعلام فی فضائل الشام: (ج-۶) ۳۱۷۹

الاعلام (قاموس تراجم لاشھر الرجال): (ج-۵) ۲۷۰۱-۲۷۰۳، (ج-۶) ۳۱۶۰، ۳۱۶۲، ۳۱۶۷، ۳۱۷۳، ۳۱۸۰، ۳۱۸۵، ۳۱۸۸-۳۱۸۹، ۳۲۰۱، ۳۲۱۷-۳۲۱۸، ۳۲۳۲

اعلیٰ التاریخ: (ج-۶) ۳۳۹۴

اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام: (ج-۲) ۱۲۴۶

اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی: (ج-۲) ۱۲۴۶

اعیان دمشق: (ج-۶) ۳۲۳۲، ۳۲۳۴-۳۲۳۵، ۳۲۳۸-۳۲۴۰

افازۃ المصلی: (ج-۶) ۳۷۳۹

افضل الرسل: (ج-۶) ۳۷۸۱

افضل الفوائد: (ج-۴) ۲۰۵۸

افضل القریٰ: (ج-۲) ۵۹۱

افضل المقال فی رد علی الرافض القال (نور بخش توکلی): (ج-۱۰) ۵۹۶۷،

افضلیتِ غوث اعظم: (ج-۳) ۱۸۳۴-۱۸۳۵

افغانز آف دی پاسز (اے عزیز لونی): (ج-۱۰) ۵۹۵۹

افکار اقبال: (ج-۵) ۳۰۱۴-۳۰۱۶، ۳۰۱۸

افکار حضرت مجدد الف ثانی اور عصر حاضر: (ج-۱۰) ۶۲۴۵، ۶۲۵۳

اقبال: (ج-۵) ۳۰۴۴

اقبال اور حدیث: (ج-۶) ۳۶۸۷

اقبال اور ختم نبوت: (ج-۱) ۴۵۹، (ج-۲) ۱۲۴۴

اقبال اور طریقت: (ج۔۵) ۲۹۴۴

اقبال اور مجدد الف ثانی: (ج۔۵) ۳۰۱۰

اقبال اور مسلک تصوف: (ج۔۵) ۳۰۱۰

اقبال ایک صوفی شاعر: (ج۔۵) ۳۰۱۰، ۳۰۱۸

اقبال بنام شاد: (ج۔۵) ۳۰۱۲

اقبال کا تصور بقائے دوام: (ج۔۵) ۳۰۱۰

اقبال کا تصور فقر اور اسلامی تصوف: (ج۔۱) ۴۵۹

اقبال کا علم کلام: (ج۔۵) ۳۰۱۲

اقبال کے فلسفۂ خودی میں مقام عبدیت: (ج۔۵) ۲۵۷۶، ۲۹۴۳

اقبال کے محبوب صوفیہ: (ج۔۹) ۵۱۵۴، ۵۱۵۶

اقبال نامہ: (ج۔۳) ۱۴۰۵، (ج۔۴) ۱۹۷۳، ۱۹۷۸، ۱۹۸۱، ۲۴۳۴، (ج۔۵) ۲۹۴۳-۲۹۴۴، ۲۹۴۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۹، ۳۰۲۰، ۳۰۴۱-۳۰۴۳، (ج۔۹) ۵۳۹۴

اقبالیات اسد ملتانی: (ج۔۵) ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۳۰، ۳۰۴۳-۳۰۴۴

اقتضاء الصراط المستقیم (ابن تیمیہ): (ج۔۲) ۷۳۲

اقوال الصحیحہ فی جواب الجرح علی ابی حنیفہ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۷

الاقوال الصحیحہ فی جواب الجرح علیٰ ابی حنیفہ: (ج۔۵) ۳۰۷۲

الاقوال العالنۃ فی احکام الدروز والتیامنۃ: (ج۔۶) ۳۱۸۵، ۳۲۳۹

اکابرِ تحریک پاکستان: (ج۔۵) ۲۹۱۰، (ج۔۶) ۳۷۰۳، ۳۷۰۷، (ج۔۹) ۵۵۷۰، ۵۵۷۷-۵۵۷۸

اکبر نامہ: (ج۔۴) ۱۹۹۱، (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۵، ۲۵۷۹، ۲۷۷۸، ۲۷۸۵، ۲۷۹۰، ۲۷۹۲، (ج۔۹) ۵۲۹۵، (ج۔۱۰) ۵۷۰۷

اکبری دور کا فارسی ادب: (ج۔۱۰) ۵۷۰۷

الاکمال فی اسماء الرجال ملحق بمشکوٰۃ المصابیح: (ج۔۲) ۶۶۲، ۶۲۹، ۶۳۴

اکمل التاریخ: (ج۔۶) ۳۳۵۳

الطاف القدس: (ج۔۶) ۳۳۶۰

الطاف رحمانی فی مناقب امام ربانی: (ج۔۵) ۲۶۴۶، (ج۔۶) ۳۴۴۵

الطباعۃ فی المملکۃ العربیہ السعودیہ: (ج۔۵) ۲۷۰۴

الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ: (ج۔۸) ۴۹۳۶

امالی: (ج۔۳) ۱۶۱۵

امام ابن السنی: (ج۔۷) ۴۲۸۴

امام ابن تیمیہ (محمد یوسف کوکن عمری): (ج۔۹) ۵۳۷۷

امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی: (ج۔۲) ۷۲۷

امام احمد رضا اور ان کے مکتوبات: (ج۔۱) ۵۵

امام احمد رضا اور ترکِ موالات: (ج۔۱) ۴۶۴

امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ: (ج۔۱) ۱۰۸، (ج۔۵) ۳۱۱۰، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۳۱

امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات: (ج۔۱) ۵۵، ۱۰۷، (ج۔۵) ۲۹۱۱

امام احمد رضا اور عالم اسلام: (ج۔۱) ۱۰۷، (ج۔۵) ۲۸۹۶

امام احمد رضا اور عالمی جامعات: (ج۔۵) ۲۹۱۳-۲۹۱۴

امام احمد رضا اور علماء ڈیرہ غازی خان: (ج۔۵) ۲۸۹۶،

۳۱۱۰

امام احمد رضا اور علماء ریاست بہاولپور: (ج-۵)۲۸۹۶، ۳۱۱۰

امام احمد رضا اور علماء سندھ: (ج-۵)۳۱۱۰

امام احمد رضا اور علوم جدیدہ: (ج-۷)۴۲۷۸

امام احمد رضا اور مسعود ملت: (ج-۱)۵۶

امام احمد رضا بریلوی کی اردو ادب میں خدمات: (ج-۱) ۵۵

امام احمد رضا بریلوی کے حالات و افکار اور اصلاحی کارنامے: (ج-۱)۵۴

امام احمد رضا خاں اور ان کے خلفاء کا تحریک پاکستان میں کردار: (ج-۱)۵۵

امام احمد رضا خاں کی فکری تنقیدیں: (ج-۱)۵۴

امام احمد رضا خاں، حیات و کارنامے: (ج-۱)۵۴

امام احمد رضا علمائے حجاز کی نظر میں: (ج-۱)۴۶۴

امام احمد رضا کا تصور عشق: (ج-۱)۵۴

امام احمد رضا کی انشا پردازی: (ج-۱)۵۴

امام احمد رضا کے عربی آثار: (ج-۵)۲۹۱۰

امام احمد رضا والعالم العربی: (ج-۱)۱۰۷، (ج-۵)۲۹۰۷

امام اعظم ابوحنیفہ: (ج-۲)۷۲۷، (ج-۵)۳۰۷۲

امام اعظم اور علم حدیث: (ج-۲)۳۲۸

امام اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں: (ج-۲)۱۲۴۶

الامام الاکبر المجدد احمد رضا خان: (ج-۵)۲۹۱۰، ۲۹۱۴

الامام السرہندی حیاتہ واعمالہ: (ج-۵)۲۷۰۲-۲۷۰۳

امام بخاری شافعی (نوربخش توکلی): (ج-۱۰)۵۹۶۶

امام پاک اور یزید پلید: (ج-۶)۳۵۹۷

امام ربانی اور اتباع رسول ﷺ: (ج-۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۳۸

امام ربانی کی تحریک اصلاح تصوف: (ج-۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۸

امام ربانی (اقبال احمد اختر القادری): (ج-۳) ۱۸۶۸، (ج-۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۴۷

امام غزالی (مصنفہ شبلی): (ج-۵)۳۰۲۵

الامدادات السنیۃ فی طریقۃ النقشبندیہ: (ج-۶)۳۲۱۳

امرت کنڈ: (ج-۹)۵۳۲۰، (ج-۱۰)۵۸۲۹

الامعان فی اقسام القرآن: (ج-۲)۷۲۳

الامن والعلیٰ: (ج-۲)۱۱۵۹، ۱۱۶۹، (ج-۵)۲۸۹۱

امیر عبدالقادر الجزائری کا قصیدہ: (ج-۵)۲۶۸۳

امیر ملت اور ان کے خلفاء: (ج-۱۰)۵۸۰۹

انارۃ الاشارۃ: (ج-۱)iii، (ج-۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۱۰

انتباہ مترجم: (ج-۵)۳۰۹۳

انتخاب (مکتوبات امام ربانی): (ج-۸) ۴۵۷۷، (ج-۱۰)۶۱۰۵، ۶۱۶۳، ۶۲۲۲

انٹرنیٹ کی فنی حیثیت: (ج-۲)۷۳۶

انجاح الحاجۃ حاشیہ ابن ماجہ: (ج-۲)۸۲۴، (ج-۵)۲۶۸۵

انجیل: (ج-۳)۱۵۸۰، (ج-۴)۲۱۰۴، (ج-۱۰)۵۷۸۱

انساب الانجاب: (ج-۵) ۲۸۱۸، (ج-۶) ۳۳۲۳، ۳۳۲۷-۳۳۲۸، ۳۴۲۰، ۳۴۴۴، ۳۴۴۷، ۳۶۰۰، (ج-۱۰)۶۲۴۵

انساب الطاہرین: (ج-۶)۳۳۶۴

انساب سمعانی: (ج۔۵)۲۸۸۳

انساب نامون (پیر غلام رسول جان سرہندی): (ج۔۶) ۳۳۲۳

انسان العیون: (ج۔۹)۵۲۵۱

انسان کامل: (ج۔۵)۲۹۷۳

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر: (ج۔۴) ۲۱۹۱۔۲۱۹۲

انسائیکلوپیڈیا آف ریلجن اینڈ ایتھکس: (ج۔۱۰)۵۶۶۰

انسائیکلوپیڈیا: (ج۔۳)۱۵۴۷

انسائیکلوپیڈیا پاکستانیکا: (ج۔۵) ۳۱۱۷، (ج۔۶) ۳۱۲۹، ۳۱۴۶

انسائیکلوپیڈیا آف اسلام: (ج۔۴) ۲۲۰۳، (ج۔۶) ۳۱۴۶، ۳۶۴۱، (ج۔۸) ۴۸۸۳، (ج۔۹) ۵۳۷۷، ۵۴۱۶، ۵۴۵۴

انسیہ (رسالہ): (ج۔۱۰)۶۱۵۴

انشاء واحدی: (ج۔۶)۳۵۲۲

انشائے روشن: (ج۔۶)۳۴۹۳

انشر الوری باخبار مولانا خالد نقشبندی الکردی: (ج۔۴) ۲۵۰۹

انفاس العارفین: (ج۔۱) ۲۹۷، ۳۱۰، (ج۔۵) ۳۰۹۳۔۳۰۹۴، (ج۔۶) ۳۳۶۰، (ج۔۹) ۵۳۸۱

انگوٹھے چومنے کا مسئلہ: (ج۔۶)۳۵۹۷

انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب: (ج۔۶)۳۱۸۰

انوار آفتاب صداقت: (ج۔۵)۳۰۷۳

انوار احمدیہ: (ج۔۱)۸۶، (ج۔۴)۲۴۵۶، (ج۔۵)۲۸۱۴، (ج۔۹)۵۳۲۹، ۵۳۴۰

انوار اصفیاء: (ج۔۱۰)۵۹۳۶

انوار اقبال: (ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۹۲۳، ۲۹۴۳، ۲۹۴۵، ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۴۲

انوار الاقمار من یم صلوٰۃ الاسرار: (ج۔۵)۲۵۷۳

انوار الانہار: (ج۔۵)۲۵۷۹

انوار الاولیاء: (ج۔۳)۱۳۹۲، ۱۴۰۳

انوار التجید فی ادلۃ التوحید: (ج۔۱)۱۸۵

انوار التنزیل: (ج۔۲)۵۶۰، ۶۴۴

الانوار الحامدیہ فی حالات نقشبندیہ: (ج۔۴)۲۴۵۶

الانوار الصمدیہ: (ج۔۵)۲۸۶۱

انوار العارفین: (ج۔۵)۲۵۷۴

انوار الفیوضات الباطنیہ: (ج۔۶)۳۴۴۲

انوار القدسیہ فی مناقب سادات النقشبندیہ: (ج۔۱)۸۹، (ج۔۴)۲۵۰۹، (ج۔۱۰)۵۶۳۲

انوار الکریم: (ج۔۶)۳۷۹۹

انوار امیر ملت: (ج۔۱)۵۷

انوار حمید: (ج۔۶)۳۷۹۹

انوار رسالت: (ج۔۶)۳۵۹۷

انوار قطب مدینہ: (ج۔۱۰)۵۸۰۹

انوار محی الدین: (ج۔۶)۳۷۹۴

انوار معصومیہ: (ج۔۱)۱۱۲، ۴۵۴، (ج۔۳)۱۷۲۳، (ج۔۴)، ۲۱۹۱۔۲۱۹۲، ۲۲۹۰، (ج۔۱۰) ۵۷۶۲۔۵۷۶۳، ۶۳۵۶، ۶۳۷۲

الانہار الاربعہ در بیان سلاسل اربعہ: (ج۔۱۰)۶۱۰۹
انہار الانوار من یم صلوٰۃ الاسرار: (ج۔۵)۲۸۸۸
انیس الطالبین از طریق قدسیہ: (ج۔۱)۲۵۲
انیس الطالبین وعدۃ السالکین: (ج۔۱)۲۵۲
انیس المریدین: (ج۔۶)۳۴۲۰، ۳۴۴۴، ۳۶۰۰
الاوائل العجلونیۃ: (ج۔۶)۳۱۹۴
اوج مورد (اسرار نقشبند): (ج۔۵)۲۸۱۱، (ج۔۶)۳۴۴۴
اوراق غم: (ج۔۱۰)۵۸۰۳
اوراق گم گشتہ: (ج۔۵) ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۴۱۔ ۳۰۴۲، ۳۰۴۵
اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر: (ج۔۳)۱۷۲۳
اوسط: (ج۔۹)۵۳۰۸
اولیائے کشمیر: (ج۔۶)۳۸۲۴
اولیائے لواری شریف: (ج۔۶)۳۷۰۱۔۳۷۰۲، ۳۷۰۵
اولیائے مانکی شریف اور تحریک پاکستان: (ج۔۹)۵۵۷۸
اولیائے نقشبند المعروف سیرت پاک شیر ربانی: (ج۔۶) ۳۷۰۱
اہم فکری مسائل: (ج۔۵)۲۹۷۷، ۳۰۱۲
الایثار بمعرفۃ رواۃ الآثار: (ج۔۳)۱۶۶۲

ایرادات برزنجی: (ج۔۴)۲۴۱۳، ۲۴۵۱، ۲۴۵۶، (ج۔۹)۵۴۹۷
ایضاح الدّلالات: (ج۔۹)۵۳۳۹، ۵۴۱۷
ایضاح الحق الصریح: (ج۔۸)۴۹۴۸
ایضاح الطریقہ: (ج۔۴)۲۲۲۳، ۲۴۹۰، (ج۔۵)۲۵۷۸
ایضاح العاقبۃ فی طلب العافیۃ: (ج۔۶)۳۵۲۲
ایک انمول ہیرا (سیرت حضرت عالی امام ربانی): (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۹
ایک نیک بزرگ: (ج۔۵)۲۸۱۸
ایگریرین سسٹم آف مغل انڈیا: (ج۔۵)۲۷۸۲، ۲۷۸۸، ۲۷۹۳
ایمان افروز وصایا شریف: (ج۔۹)۵۵۷۷
الایمان والاسلام: (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۳۸۷۔ ۶۳۸۸
ایوانوف (کرزن گلکشن): (ج۔۹)۵۵۶۵
ایہا الولد (امام غزالی): (ج۔۵)۲۶۹۷

ب

بارہویں صدی ہجری میں دلی کا شاعرانہ ماحول: (ج۔۳) ۱۸۷۲
باغ عارف: (ج۔۶)۳۳۲۳
باقیات باقی: (ج۔۱۰)۵۶۴۹۔ ۵۶۵۰، ۶۱۱۶، ۶۱۳۱
باقیات مظہری: (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۳۹۹
بال جبریل: (ج۔۱) ۱۹۷، ۲۵۴، ۴۰۸، (ج۔۳) ۱۴۰۶، ۱۴۵۸، (ج۔۴) ۲۰۳۸، (ج۔۵) ۲۵۷۹، ۲۷۵۷، ۲۹۲۷، ۲۹۲۹، ۲۹۴۴۔ ۲۹۴۵، ۳۰۰۷، ۳۰۰۹، ۳۰۱۲، ۳۰۱۴۔ ۳۰۱۶، ۳۰۲۰، ۳۰۲۶، ۳۰۳۵، ۳۰۳۷، ۳۰۴۳، ۳۰۴۵، (ج۔۸) ۴۵۷۵، (ج۔۹) ۵۰۷۰، (ج۔۱۰) ۵۶۴۲، ۵۶۷۴، ۵۶۹۴، ۵۶۹۶
بانگ درا: (ج۔۱)۲۵۵
بائبل: (ج۔۱۰)۵۸۰۰

بحرالأنساب: (ج-۹) ۵۰۵۸

بحرالحیات: (ج-۹) ۵۳۲۰، (ج-۱۰) ۵۸۲۹

البحر الرائق: (ج-۲) ۷۰۸، ۷۳۳، (ج-۸) ۴۶۴۴، ۴۶۴۷

بحرالفراست (سید عبداللہ کوہاٹی): (ج-۱۰) ۵۸۶۶

بحرالمعارف: (ج-۹) ۵۲۵۳

بخاری شریف: (ج-۱) ۷۱، ۱۷۳، ۱۹۰، ۱۹۳-۱۹۴، ۲۲۰، ۴۴۶، (ج-۲) ۵۲۰، ۵۲۲، ۵۲۵-۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۳، ۵۴۶، ۵۶۷-۵۶۸، ۵۷۲-۵۷۳، ۵۷۶، ۶۱۹، ۶۴۱، ۶۴۴-۶۴۶، ۶۵۹، ۶۸۹، ۷۰۹، ۷۷۰، ۸۴۱، ۸۵۳، ۸۶۹، ۸۷۵، ۹۰۷، ۹۳۰، ۱۱۳۰، ۱۱۹۱، ۱۲۴۶، (ج-۳) ۱۵۰۵، ۱۵۷۹-۱۵۸۱، ۱۵۸۹، ۱۶۵۱، ۱۶۶۲، ۱۷۹۹-۱۸۰۰، (ج-۴) ۱۹۸۴، ۲۲۰۹، ۲۲۹۷، ۲۳۰۶، ۲۳۲۹، (ج-۵) ۲۶۱۳، ۲۶۶۲، ۲۶۷۹، ۲۶۸۳، ۲۶۹۴، ۲۷۱۲، ۲۸۴۶-۲۸۴۷، ۲۸۸۰، ۲۸۸۳، (ج-۶) ۳۱۶۱، ۳۱۷۶، ۳۱۹۱، ۳۱۹۴-۳۱۹۶، ۳۲۲۹-۳۲۳۰، ۳۵۶۷، ۳۵۹۸، ۳۷۵۹، (ج-۷) ۴۰۴۵-۴۰۴۷، ۴۲۲۵، ۴۲۸۱، ۴۲۸۵-۴۲۸۶، ۴۲۹۰، ۴۲۹۵-۴۲۹۹، ۴۳۰۴، ۴۳۱۷، ۴۳۱۹-۴۳۲۰، ۴۳۲۵-۴۳۲۸، ۴۳۳۱، ۴۳۳۶-۴۳۳۷، ۴۳۳۹، ۴۳۴۲-۴۳۴۴، ۴۳۴۶-۴۳۴۷، ۴۳۵۱، ۴۳۵۴، ۴۳۵۷، ۴۳۶۳، ۴۳۶۷-۴۳۶۸، ۴۳۷۲، ۴۳۷۵، ۴۳۸۱، ۴۳۸۹-۴۳۹۱، ۴۳۹۳، ۴۳۹۵، ۴۳۹۷، ۴۴۰۰-۴۴۰۱، ۴۴۰۳، ۴۴۰۶، ۴۴۱۲، ۴۴۱۴، (ج-۸) ۴۵۱۲، ۴۵۲۶، ۴۵۶۹، ۴۶۳۶، ۴۶۸۵، ۴۷۰۱، ۴۷۰۸، ۴۷۲۹، ۴۷۸۵-۴۷۸۷، ۴۸۳۲، ۴۸۳۴، ۴۹۴۶، (ج-۹) ۵۱۷۸، ۵۲۶۱، ۵۲۶۳، ۵۲۶۶، ۵۲۷۲، ۵۳۱۷-۵۳۱۸، ۵۳۹۴، ۵۳۹۶، (ج-۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳

بدائع الصنائع: (ج-۲) ۷۰۸

البدایۃ والنہایہ: (ج-۲) ۷۳۳، (ج-۵) ۲۸۵۶-۲۸۵۷، (ج-۹) ۵۳۳۶

بدریہ: (ج-۸) ۴۶۴۳

البدع والنہی عنہا: (ج-۲) ۷۳۲

البراہین الغرفی منع بیع الحر: (ج-۶) ۳۵۲۳

البراہین القاطعہ: (ج-۲) ۷۳۲

براھین النجات من مصائب الدنیا والعرصات: (ج-۶) ۳۴۳۶، ۳۵۵۹

براھین قاطعہ: (ج-۳) ۱۶۷۴

برجندی: (ج-۸) ۴۶۴۴، ۴۶۴۶

برصغیر کے دبستانِ مصوری: (ج-۴) ۲۵۱۲

برصغیر میں راجپوتوں کے آباد کردہ شہر: (ج-۴) ۲۵۱۲

برصغیر میں فارسی ادب: (ج-۱) ۴۶۲، (ج-۶) ۳۶۸۶

برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ: (ج-۲) ۸۰۴

برکات احمدیہ: (ج-۱) ۳۱۶، (ج-۳) ۱۳۹۵، (ج-۵) ۳۰۳۹-۳۰۴۰، (ج-۶) ۳۱۵۲، (ج-۹) ۵۱۲۸

برکات السماء: (ج-۶) ۳۷۸۹

برکات معصومی: (ج-۴) ۱۹۴۱، (ج-۹) ۵۲۴۹، ۵۳۶۴

برکات میلاد شریف: (ج-۶) ۳۵۹۷

برگ سبز: (ج-۶) ۳۵۲۷

برھان الاصول: (ج-۶) ۳۸۹۹

برھان پور کے سندھی اولیاء: (ج-۱) ۳۱۲

بریقہ شرح طریقہ محمدیہ: (ج-۸) ۴۶۲۸-۴۶۲۹

بزازیہ:(ج-۸)۴۶۳۷

بزرگان دمائی:(ج-۶)۳۷۰۱

بزم تیموریہ: (ج-۵)۲۷۶۳، ۲۷۶۶، (ج-۹)۵۱۵۳-۵۱۶۲، (ج-۱۰)۵۷۶۵، ۵۷۷۲

بزم جاناں:(ج-۶)۳۳۷۱، ۳۶۸۳، ۳۷۰۷، ۳۹۳۰

بزم صوفیاء:(ج-۱۰)۵۸۳۳

بزودی:(ج-۱)۴۴۶، (ج-۲)۹۰۷

بساتین الغفران:(ج-۱)۱۰۷، (ج-۵)۲۹۰۷، ۲۹۱۴

البستان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان:(ج-۲)۷۲۷

بسط العبارۃ فی ایضاح معنی الاستعارۃ:(ج-۶)۳۲۱۳

بسط القال فی حل الاشغال:(ج-۶)۳۴۴۲

بشائر الحسنات فی الصلوٰۃ والسلام علیٰ سید الکائنات:(ج-۱۰) ۶۲۴۲، ۶۲۴۶

بشارات مظہریہ:(ج-۹)۵۳۵۸-۵۳۶۰

بشارت:(ج-۶)۳۶۰۴

البصائر:(ج-۸)۴۶۴۴

بضعۃ الاربعین:(ج-۱۰)۵۸۷۰، ۵۸۸۹

بعض کتب معتبرہ کے حواشی:(ج-۶)۳۵۰۴

بغیۃ الواجد فی مکتوبات حضرت مولانا خالد:(ج-۴)۲۵۰۹

بلاسود بینکاری (ڈاکٹر طاہر القادری):(ج-۲)۷۳۶

بلاسود بینکاری (ڈی۔ ایم۔ قریشی):(ج-۲)۷۳۶

بلاسود بینکاری (شیخ احمد ارشاد):(ج-۲)۷۳۶

بلاسود بینکاری (محمد اکرم خان):(ج-۲)۷۳۶

بلاسود بینکاری (مظفر حسین ملاٹھوی):(ج-۲)۷۳۶

بلاسود معیشت اور اسلامی بینکاری:(ج-۲)۷۳۶

بلغۃ الحیران:(ج-۶)۳۸۸۶

بلغۃ المحتاج لمعرفۃ مناسک الحاج:(ج-۶)۳۱۷۹

بلوچستان میں تحریک تصوف:(ج-۶)۳۷۵۳

بلوچستان میں فارسی:(ج-۶)۳۹۳۱

بلوغ المرام فی خلوتیۃ الشام: (ج-۵)۲۸۸۳، (ج-۶) ۳۱۷۱، (ج-۷)۴۳۹۸

بناء الاسلام:(ج-۶)۳۴۲۱

بوستان :(ج-۳)۱۷۶۱، ۱۸۷۳، (ج-۶)۳۷۱۳

بوستان ادب:(ج-۱)۴۶۱

بوستان سخن:(ج-۱)۴۶۱

بہارِ ادب:(ج-۱)۴۶۱

بہارِ سخن:(ج-۱)۴۶۱

بہارِ مثنوی:(ج-۶)۳۳۷۰

بہجۃ الاذکیاء فی التوسل بالمشہور من الانبیاء:(ج-۶)۳۱۷۱

بہجۃ الاسرار: (ج-۲) ۱۱۰۶، (ج-۵) ۲۷۴۳، ۲۸۸۹، (ج-۹)۵۴۵۴

بہجۃ الرائح و الغادی فی احاسن محاسن الوادی: (ج-۵) ۲۶۸۲

بہجۃ النظار فی براۃ الابرار: (ج-۱) ۸۶، (ج-۴) ۲۴۵۴، (ج-۵)۲۸۰۵، (ج-۶)۳۴۴۴

البہجۃ السنیہ فی آداب الطریقۃ العلیہ الخالدیہ: (ج-۴) ۲۵۰۹، (ج-۵)۲۶۸۴

بھنگالی شریف میں ہمدان کے مشائخ نقشبندیہ:(ج-۱)۴۳

بیاضِ قلمی (ہاشم جان مجددی): (ج۔۱۰) ۵۶۹۵

بیاضِ واحدی (مخدوم عبد الواحد سیوستانی): (ج۔۶) ۳۵۱۴، ۳۵۱۹، ۳۷۰۲

بیان الدین القیم فی تبرۃ ابنِ تیمیہ وابن القیم: (ج۔۵) ۲۶۸۸

بیان روشن: (ج۔۶) ۳۷۰۱

البیان والتفھیم لمتبع ملۃ ابراہیم: (ج۔۵) ۲۵۵۵، (ج۔۶) ۳۲۱۰، ۳۲۱۳

بیضاوی: (ج۔۱) ۴۴۷۔ ۴۴۸، ۴۵۰، ۴۵۲، (ج۔۳) ۱۵۷۷۔ ۱۵۷۸، (ج۔۴) ۲۳۶۱، (ج۔۶) ۳۲۲۸، ۳۶۶۳، (ج۔۹) ۵۱۷۸، ۵۵۲۵

بیعت کی تشکیل اور تربیت: (ج۔۲) ۱۲۴۷

بیل بائیگرافیکل ڈکشنری: (ج۔۹) ۵۵۶۵

بینک کا سود، اقتصادی اور شرعی نقطۂ نظر سے: (ج۔۲) ۷۳۶

بیہقی شریف: (ج۔۲) ۷۰۸، ۸۲۸، ۸۸۵، ۱۱۲۹، (ج۔۴) ۲۲۸۷، ۲۲۹۵۔ ۲۲۹۶، ۲۳۰۲، ۲۳۲۵، ۲۳۲۹۔ ۲۳۳۰، ۲۵۰۲، (ج۔۵) ۲۸۱۰، ۴۳۱۰، ۴۳۲۴، ۴۳۴۵، ۴۳۶۲، ۴۳۷۴۔ ۴۳۷۵، ۴۳۸۶، ۴۳۸۸، ۴۳۹۰، (ج۔۸) ۴۷۰۸، (ج۔۹) ۵۲۴۶، ۵۳۰۸۔ ۵۳۰۹

البیّنات شرح مکتوبات: (ج۔۵) ۲۶۳۰، ۲۶۷۳، ۲۷۰۰، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۸

پ

پارلیمانی اجماع کا ارضیاتی تصور: (ج۔۱) ۴۵۹

پاک وہند کی ملت اسلامیہ: (ج۔۲) ۸۰۲۔ ۸۰۳

پاکستان کیا ہے اور کیسے بنے گا: (ج۔۶) ۳۷۹۲

پاکستان کے بزرگان قادریہ (پچاس سال) کی علمی ودینی خدمات (مقالہ ڈاکٹریٹ): (ج۔۱) ۴۲

پاکستان میں صوفیانہ تحریکیں: (ج۔۱۰) ۶۱۰۸

پاکستان میں فارسی ادب (ڈاکٹر ظہور احمد): (ج۔۱۰) ۵۸۹۲

پاکستانی معیشت میں بلاسود اسکیم کے نفاذ کا جائزہ: (ج۔۲) ۷۳۶

پبختانہ شعراء: (ج۔۱۰) ۵۸۹۰

پٹھانوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ: (ج۔۶) ۳۳۳۹

پرتو عشق: (ج۔۱۰) ۶۱۵۴

پریم کہانی: (ج۔۶) ۳۷۸۹

پشاور سے کوئٹہ تک (ایم زمان کھوکھر): (ج۔۱۰) ۵۸۹۴

پشتانہ شعراء: (ج۔۶) ۳۸۵۶

پشتو شاعری: (ج۔۱۰) ۵۸۹۰

پشتو نامہ: (ج۔۶) ۳۸۹۸

پنج گنج: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۳

پنجاب کے نقشبندی بزرگ (۱۸۵۷ء/۱۹۴۷ء): (ج۔۱) ۱۱۴

پندرہ روزہ آوازِ نقشبند (شیخوپورہ): (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۵

پندرہ روزہ بیداری (بالاپور): (ج۔۶) ۳۴۱۰

پندرہ روزہ مجلہ تعمیر حیات (لکھنؤ): (ج۔۹) ۵۴۱۱

پیام مشرق: (ج۔۵) ۳۰۱۰، ۳۰۱۳۔ ۳۰۱۴، ۳۰۱۷

پیغمبر اسلام کے وارث صوفیہ (انگریزی): (ج۔۵) ۲۶۴۸

پیغمبر اسلام (عبد الستار خان نیازی): (ج۔۶) ۳۷۹۲

ت

تابعین (شاہ معین الدین ندوی): (ج۔۹)۵۱۹۶

تاتارخانیہ: (ج۔۳)۱۶۰۶، (ج۔۸)۴۶۳۷، ۴۶۴۱

تاج العروس: (ج۔۱)۱۷۳، ۱۹۳، (ج۔۶)۳۱۷۹، ۳۲۰۳

تاج المآثر: (ج۔۹)۵۰۵۷

تاجدار سرہند (معراج الدین مسعودی): (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۴۳

تاریخ آئینۂ تصوف: (ج۔۶)۳۸۴۲

تاریخ ابن عساکر: (ج۔۲)۶۱۲، ۶۱۵، (ج۔۳)۱۵۸۷، (ج۔۴)۲۳۲۵، (ج۔۷)۴۳۲۵، ۴۳۵۰، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۸۰، ۴۳۸۳

تاریخ ابن کثیر: (ج۔۹)۵۱۶۱

تاریخ اسراریہ: (ج۔۱)۳۰۵

تاریخ اسلاف: (ج۔۱۰)۶۱۰۰

تاریخ الادب العربی: (ج۔۵)۲۸۵۶

تاریخ الامم والسلوک: (ج۔۹)۵۳۳۶

تاریخ الاولیاء: (ج۔۱۰)۵۸۸۸

تاریخ البدایہ والنہایہ: (ج۔۹)۵۳۲۰

تاریخ الخطیب: (ج۔۷)۴۳۲۷

تاریخ الخلفاء: (ج۔۱)۲۱۹۔۲۲۰، (ج۔۷)۴۳۶۲، ۴۳۸۰

تاریخ الخمیس: (ج۔۱)۲۱۹، (ج۔۲)۵۲۱، ۶۱۹، ۶۲۲، ۶۵۸، ۶۶۰، (ج۔۷)۴۳۱۲

التاریخ الکبیر: (ج۔۲)۵۲۲۔۵۲۳، ۵۳۳۔۵۳۴، ۶۱۹، ۶۳۸، ۶۵۹، (ج۔۷)۴۲۸۹، ۴۳۸۱

تاریخ امراء المدینۃ المنورہ: (ج۔۵)۲۷۰۴

تاریخ اورنگ زیب: (ج۔۱۰)۵۸۸۹

تاریخ بغداد: (ج۔۱)۲۲۰، (ج۔۲)۵۴۳، ۶۵۲، (ج۔۳)۱۶۶۲، (ج۔۵)۳۰۷۲، (ج۔۷)۴۳۰۰، ۴۳۰۲، ۴۳۰۷، ۴۳۲۱، ۴۳۸۵

تاریخ بہرام شاہ غزنوی: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۶)۳۶۸۶

تاریخ پاک وہند: (ج۔۳)۱۴۰۴، (ج۔۴)۲۱۹۲۔۲۱۹۳

تاریخ پشاور: (ج۔۶)۳۸۴۳، ۳۸۴۵، ۳۸۸۹، ۳۸۹۳، ۳۹۰۹

تاریخ تصوف: (ج۔۵)۳۰۲۰، ۳۰۲۵، ۳۰۴۲

تاریخ جبرتی (مصر عجائب الآثار): (ج۔۶)۳۲۱۱

تاریخ جدیدہ یزد: (ج۔۵)۲۸۵۴، ۲۸۵۸

تاریخ جلیلہ: (ج۔۱۰)۵۸۹۱

تاریخ جہانگیر: (ج۔۴)۲۴۳۵

تاریخ حسن ابدال (منظور الحق صدیقی): (ج۔۱۰)۵۹۲۴

تاریخ داؤدی: (ج۔۴)۲۰۵۱

تاریخ دعوت وعزیمت: (ج۔۱)۱۰۸، ۱۱۱، (ج۔۲)۵۰۳، ۷۲۹، ۹۰۵، ۹۰۸، (ج۔۸)۴۹۰۹، ۴۹۴۸، (ج۔۹)۵۰۲۸، ۵۰۶۹، ۵۰۸۷، ۵۱۱۹، ۵۱۵۳۔۵۱۵۷، ۵۱۵۹۔۵۱۶۳، ۵۱۶۷، ۵۱۸۳، (ج۔۱۰)۵۶۳۲

تاریخ دمشق: (ج۔۱)۲۱۹

تاریخ ذھبی: (ج۔۷)۴۲۸۶،

تاریخ روس: (ج۔۵)۲۶۹۴

تاریخ سکھ (پیارے لال): (ج۔۲)۷۷۱

تاریخ سندھ: (ج ـ ۴) ۲۰۵۷، (ج ـ ۶) ۳۷۰۳، (ج ـ ۱۰) ۵۹۵۹

تاریخ طبری: (ج ـ ۹) ۵۱۶۱

تاریخ علماء بغداد فی القرن الرابع عشر الہجری: (ج ـ ۵) ۲۷۰۱، ۲۷۰۳

تاریخ علمائے دمشق: (ج ـ ۵) ۲۷۰۱ـ۲۷۰۲

تاریخ فخر الدین مبارک شاہ: (ج ـ ۹) ۵۰۶۳

تاریخ فرشتہ: (ج ـ ۴) ۲۰۵۷ـ ۲۰۵۸، ۲۱۶۶، ۲۱۷۰، (ج ـ ۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۵، ۲۵۸۰

تاریخ قازان وبلغار: (ج ـ ۵) ۲۶۹۳

تاریخ کالا پانی: (ج ـ ۴) ۲۵۱۴

تاریخ کشمیر اعظمی (خواجہ محمد اعظم): (ج ـ ۱) ۳۱۰، ۳۱۴، (ج ـ ۱۰) ۵۸۸۸

تاریخ گزیدہ: (ج ـ ۴) ۲۰۵۷، (ج ـ ۵) ۲۸۵۶، ۲۸۵۸

تاریخ لاہور: (ج ـ ۵) ۲۷۶۶

تاریخ مختصر افغانستان: (ج ـ ۶) ۳۳۲۴

تاریخ مدینہ: (ج ـ ۴) ۱۹۸۴

تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت: (ج ـ ۱) ۴۳۳، (ج ـ ۴) ۲۰۵۷، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، (ج ـ ۵) ۲۵۷۴، ۲۵۸۱

تاریخ مسلمانان عالم: (ج ـ ۴) ۱۹۱۷

تاریخ مشائخ چشت: (ج ـ ۲) ۸۰۳، (ج ـ ۳) ۱۲۹۸، (ج ـ ۶) ۳۷۵۳، (ج ـ ۱۰) ۵۸۳۳

تاریخ مشائخ قادریہ رضویہ: (ج ـ ۱۰) ۵۸۰۹

تاریخ مشائخ نقشبندیہ: (ج ـ ۱) ۴۳، ۵۷، (ج ـ ۱۰) ۶۳۷۸، ۶۴۰۹، (ج ـ ۶) ۳۷۹۹، (ج ـ ۷) ۴۰۸۴، ۴۱۰۰

تاریخ منازل الفتوح (محمد جعفر شملو): (ج ـ ۱۰) ۵۹۲۵

تاریخ منتخب الباب کی روشنی میں ملا عبد القادر: (ج ـ ۹) ۵۱۲۹

تاریخ نظریہ پاکستان: (ج ـ ۴) ۲۱۶۶

التاریخ والمؤرخون بمکۃ من القرن الثالث الہجری الی القرن ثالث عشر: (ج ـ ۶) ۳۲۰۱، ۳۲۱۸

تاریخ وتذکرہ خانقاہ احمدیہ سعدیہ: (ج ـ ۱۰) ۵۸۹۴، ۵۹۰۲

تاریخ وتذکرہ خانقاہ مریٰ زئی شریف (از محمد نذیر رانجھا): (ج ـ ۱۰) ۵۰۵۶

تاریخ ہاشمی: (ج ـ ۴) ۲۰۵۸

تاریخ ہزارہ دار الشفا: (ج ـ ۱۰) ۵۸۹۲

تاریخ ہندوستان: (ج ـ ۷) ۴۱۸۲، (ج ـ ۹) ۵۲۹۴ـ ۵۲۹۵، ۵۳۹۴

تاریخ یعقوبی: (ج ـ ۹) ۵۱۶۱

تاریخ آئینہ: (ج ـ ۶) ۳۸۴۷

تاریخی مقالات: (ج ـ ۴) ۲۵۱۵

تازہ نوائے معارک (عبد الحیٔ حبیبی): (ج ـ ۶) ۳۳۲۴

تائید اہل سنت: (ج ـ ۸) ۴۵۷۸، ۴۶۱۷، (ج ـ ۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۳۷

تائید مذہب اہل سنہ مع فضائل صحابہ واہل بیت: (ج ـ ۵) ۲۶۲۷

تبریز المکنونات فی تخریج احادیث المکتوبات: (ج ـ ۵) ۲۶۷۶

تبصیر الرحمٰن: (ج ـ ۳) ۱۷۴۵، (ج ـ ۹) ۵۲۲۸

تبلیغ عجیب: (ج ـ ۱۰) ۵۹۹۷، ۵۹۹۹ـ ۶۰۰۰

تبیان الحقائق: (ج۔۱۰)۵۸۶۶

تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ: (ج۔۲)۷۲۸، (ج۔۳)۱۶۶۲، (ج۔۵)۳۰۷۲

التبیین: (ج۔۸)۴۶۳۷، ۴۶۴۶-۴۴۶۴۷

تتمہ اخبار الاخیار: (ج۔۱)۱۴۶

تتمہ علم عقائد: (ج۔۵)۲۷۲۱

تجارتی سود: (ج۔۲)۷۳۶

تجدید احوال: (ج۔۵)۲۸۰۲

تجدید واحیائے دین: (ج۔۹)۵۱۵۵

تجدیدیہ: (ج۔۱)۸۷

التجریر: (ج۔۳)۱۵۸۲

التجلیات الدوستیہ: (ج۔۶)۳۹۱۸

تجلیات امام ربانی: (ج۔۱)۶۴، (ج۔۲)۸۵۴، (ج۔۳) ۱۳۹۷، ۱۴۰۱-۱۴۰۶، ۱۴۵۰، ۱۴۵۹، ۱۵۱۱، ۱۵۶۴، ۱۸۶۸، (ج۔۴) ۲۰۳۴-۲۰۳۵، ۲۰۳۷-۲۰۳۸، (ج۔۵) ۲۵۸۱، ۲۷۲۵، (ج۔۷) ۴۲۷۸، (ج۔۹) ۵۱۱۸-۵۱۲۰، ۵۲۵۴، ۵۳۸۴، ۵۴۰۱، ۵۴۰۷، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۰، ۶۲۴۴، ۶۳۱۶، ۶۳۲۱

تجلیات امام ربانی ـــ مقدمہ (ڈاکٹر محمد مسعود احمد): (ج۔۲) ۸۵۴۔

تجلیات رسالت: (ج۔۲)۱۲۴۵

تجلیات ضیائے حرم: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۸۲۷، ۳۹۰۶، ۳۹۳۰

تجلیات ضیائے معصوم: (ج۔۶)۳۳۳۹

تجلیات غوثیہ: (ج۔۳)۱۸۷۲

تجلیات مہر انور: (ج۔۵)۲۷۰۲

تجلیات ہجویر: (ج۔۲)۱۲۴۵

التجنیس: (ج۔۸)۴۶۴۷

تحدیث نعمت: (ج۔۲)۸۵۳

تحریر اقلیدس: (ج۔۱)۴۴۸

تحریر المسائل علیٰ حسب النوازل: (ج۔۶)۳۵۲۱

تحریر مسالۃ الکلام علی ما ذھب الیہ الاشعری الامام: (ج۔۶) ۳۲۱۳

تحریک پاکستان اور علماء کرام: (ج۔۶)۳۷۹۹، (ج۔۹) ۵۵۷۸، (ج۔۱۰)۵۸۱۱

تحریک پاکستان اور مشائخ عظام: (ج۔۶) ۳۳۹۹، (ج۔۹)۵۵۷۷-۵۵۷۸

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء: (ج۔۶)۳۷۹۲

تحریک آزادی ہند اور السواد اعظم (ڈاکٹر محمد مسعود احمد): (ج۔۱)۴۶۴، (ج۔۵)۲۵۷۵، ۲۵۸۰

تحریک آزادی (صلاح الدین ناسک): (ج۔۴)۲۱۶۶، ۲۱۹۳

تحصیل التعرف فی معرفۃ الفقہ والتصوف: (ج۔۱)۱۹۲، ۱۹۵-۱۹۶

تحفۃ الاحرار: (ج۔۱۰)۵۷۸۷

تحفۃ السالکین: (ج۔۱۰)۵۸۸۸-۵۸۸۹، ۵۸۹۱

تحفۃ المرشد: (ج۔۱۰)۵۸۹۲-۵۸۹۳، ۵۸۹۵

تحفۃ المرشد: (ج۔۸)۴۸۴۴

تحفہ اثنا عشریہ: (ج۔۵)۲۶۵۰، ۲۸۰۹، (ج۔۹)۵۲۵۲-۵۳۸۳، ۵۳۹۵

تحفہ احمدیہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۴

تحفہ اہل النظر فی مصطلح اہل الخیر: (ج۔۲)۷۳۴

تحفہ رسولیہ: (ج۔۱۰)۶۰۳۸۔۶۰۴۰

تحفہ زاہدیہ: (ج۔۱۰)۵۹۴۱

تحفہ زوّاریہ (شاہ احمد سعید): (ج۔۱) ۴۶۲، (ج۔۱۰) ۶۱۰۷

تحفہ شیعہ (نور محمد بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۷

تحفہ لواری شریف: (ج۔۶)۳۷۰۱۔۳۷۰۲

تحفہ مظفری: (ج۔۵)۲۸۵۷

تحفہ دستگیریہ: (ج۔۵)۳۰۷۳

التحفۃ الابراہیمیہ فی اعفاء اللحیہ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۷

تحفۃ الاحباب فی السلوک الی طریق الاصحاب: (ج۔۶)۳۱۶۶

تحفۃ الاخیار فی بیان الصلوٰۃ علی السکون والوقار: (ج۔۱)۱۱۱

تحفۃ الاولیاء: (ج۔۱۰)۵۸۹۱۔۵۸۹۲

تحفۃ الاولیاء: (ج۔۸)۴۸۴۴

تحفۃ الخطاطین: (ج۔۵)۲۶۶۹۔۲۶۷۰

تحفۃ الدہر فی تراجم معاصریہ من اہل المدینۃ: (ج۔۶) ۳۱۸۹

تحفۃ الزائرین: (ج۔۶)۳۷۰۶

تحفۃ السالکین: (ج۔۵)۲۸۵۲

التحفۃ السنیہ فی الاجوبۃ عن الاسئلۃ المرضیہ: (ج۔۵)۲۸۰۴

تحفۃ الطاہرین: (ج۔۶)۳۴۴۶، ۳۶۹۸

تحفۃ العوام: (ج۔۶)۳۷۴۰

تحفۃ الکرام: (ج۔۶)۳۴۴۷، ۳۶۹۹۔۳۷۰۰

تحفۃ الکرام باخبار عمارۃ السقف والباب بیت اللہ الحرام: (ج۔۵)۲۸۱۷، (ج۔۶)۳۱۵۹

تحفۃ المرشدین: (ج۔۵)۲۸۵۲

تحفۃ المرشد: (ج۔۶)۳۸۷۷، ۳۸۷۹، ۳۸۸۸، ۳۹۱۱

تحفۃ المہتدین باخبار المجددین: (ج۔۹)۵۰۳۳، ۵۰۴۷

تحفۃ سلطانیہ: (ج۔۶)۳۸۰۶، ۳۸۲۴

تحقیق الاکابر فی قدم الشیخ عبدالقادر: (ج۔۲)۱۱۰۷

تحقیق الحرام فی منع القرأۃ خلف الامام (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۷

تحقیق الحق المبین۔(۱۹۸۶)(شاہ احمد سعید): (ج۔۱۰)۶۱۲۱

تحقیق الرویا: (ج۔۶)۳۳۶۱

تحقیق النبوت اثبات النبوۃ (مخطوطہ): (ج۔۵)۲۵۸۲۔۲۵۸۳، (ج۔۹)۵۵۲۱، (ج۔۱۰)۶۱۶۲، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴

تحقیق الوجد: (ج۔۶)۳۷۸۶

تحقیق دربارۂ احوال و آثار فارسی حضرت سلطان باہو: (ج۔۱۰)۵۹۵۹

تحقیقات اللواری: (ج۔۶)۳۴۳۷

تخریج احادیث: (ج۔۲)۱۲۴۷، (ج۔۵)۳۰۴۱

تخریج احیاء: (ج۔۲)۵۱۴، ۵۴۲، (ج۔۷)۴۳۱۰

تخصصاتِ مسعودِ ملت: (ج۔۱)۵۶، ۱۰۶، (ج۔۵)۲۹۱۳

التدبیرات الالٰہیۃ: (ج۔۶)۳۱۷۰

تذکار مسعود ملت: (ج۔۱)۵۶، ۱۰۷

تذکرہ: (ج۔۹)۵۱۵۵۔۵۱۵۶

تذکرہ اکابر اہلسنت (محمد عبدالحکیم شرف قادری): (ج۔۹) ۵۵۷۷۔۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۸۰۹، ۵۹۶۷

تذکرہ امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج۔۹) ۵۱۱۸، (ج۔۱۰) ۶۳۰۲

تذکرہ امام ربانی (محمد عبدالشکور): (ج۔۹) ۵۰۲۸، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶

تذکرہ امام ربانی (منظور احمد نعمانی): (ج۔۹) ۵۱۵۴، ۵۱۶۰۔۵۱۶۱، ۵۱۶۳، ۵۲۹۳

تذکرہ اہل سنت و جماعت لاہور (اقبال احمد فاروقی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۰، ۵۹۶۷

تذکرہ پیر سباک وسادات پیر سباک: (ج۔۱۰) ۵۸۸۹

تذکرہ حضرت ابوالنجیب عبدالقاہر السہر وردی: (ج۔۹) ۵۴۵۴

تذکرہ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی نقشبندی (از ڈاکٹر فیوض الرحمٰن): (ج۔۱۰) ۶۰۶۸

تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت: (ج۔۹) ۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

تذکرہ شیخ عبدالحق: (ج۔۹) ۵۱۵۷، ۵۱۵۹

تذکرہ صوفیائے بلوچستان (ڈاکٹر انعام الحق الکوثر): (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

تذکرہ صوفیائے سرحد: (ج۔۱۰) ۵۸۹۱

تذکرہ علماء پنجاب: (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

تذکرہ علماء ومشائخ سرحد: (ج۔۱۰) ۵۸۸۹، ۵۸۹۱

تذکرہ علمائے ہزارہ (خواص خان): (ج۔۱۰) ۵۸۹۵

تذکرہ علمائے ہند: (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۱۵۳۔ ۵۱۵۷، ۵۱۶۰

تذکرہ فقیہہ اعظم: (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

تذکرہ کلکتا: (ج۔۹) ۵۰۳۹

تذکرہ مجدد الف ثانی: (ج۔۱۰) ۵۶۶۱، ۵۶۷۴، ۶۲۴۳

تذکرہ محدث سورتی: (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

تذکرہ مشائخ امینہ (صوفی محمد علی): (ج۔۱۰) ۵۹۹۹

تذکرہ مشائخ قادریہ: (ج۔۹) ۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۸۰۶

تذکرہ مشائخ نقشبندیہ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۸۹۳، ۵۹۶۶

تذکرہ (ابوالکلام آزاد): (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۴) ۲۰۳۴، ۲۱۶۸، ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۵۵۴، ۲۵۷۹، ۲۸۴۳، (ج۔۹) ۵۰۲۷، ۵۱۵۳۔۵۱۵۴، ۵۱۵۷، ۵۱۵۹، ۵۱۶۱، ۵۱۶۳، ۵۲۹۴، ۵۳۸۰

تذکرہ (محمد سعید آلومہاروی): (ج۔۱۰) ۵۹۹۹

تذکرۂ آدمیہ: (ج۔۴) ۲۱۷۳

تذکرۂ اعلیٰ حضرت للّٰہی: (ج۔۶) ۳۷۹۹

تذکرۂ اکابر اہل سنت: (ج۔۶) ۳۳۳۹، ۳۷۰۶۔ ۳۷۰۷، ۳۹۱۱

تذکرۂ الصلحاء فی بیان الاتقیاء: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۲، ۳۵۹۷

تذکرۂ الواصلین: (ج۔۴) ۲۳۸۸، ۲۳۹۶

تذکرۂ امام اعظم: (ج۔۵) ۳۰۷۲

تذکرۂ امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج۔۱) ۴۳۳، (ج۔۲) ۸۰۳، (ج۔۴) ۲۰۳۸، (ج۔۵) ۳۰۴۰

تذکرۂ اولیاء علی پور سیّداں: (ج۔۶) ۳۷۹۹

تذکرۂ اولیائے پاک وہند: (ج۔۴) ۲۱۶۶۔ ۲۱۶۷،

۲۱۷۰، ۲۱۹۱، (ج_۵) ۲۶۲۲_۲۶۲۳
تذکرۂ اولیائے پوٹھوہار: (ج_۱) ۴۳
تذکرۂ اولیائے کرام: (ج_۱) ۳۵۲
تذکرۂ اولیائے نقشبند: (ج_۱) ۳۵۲، (ج_۶) ۳۷۹۹
تذکرۂ بابر: (ج_۴) ۲۰۵۸
تذکرۂ پیران پاگار: (ج_۶) ۳۷۰۵
تذکرۂ پیران زکوڑی شریف: (ج_۶) ۳۷۹۹
تذکرۂ حضرت محدث دکن: (ج_۶) ۳۲۶۷
تذکرۂ حیات صدر المشائخ: (ج_۶) ۳۳۳۹
تذکرۂ خلفائے مجدد الف ثانی: (ج_۴) ۲۳۵۹، (ج_۶) ۳۳۵۹
تذکرۂ رحمانی: (ج_۵) ۲۹۱۲
تذکرۂ شعرائے کنجاہ: (ج_۶) ۳۷۹۹
تذکرۂ صوفیائے بلوچستان: (ج_۶) ۳۷۵۴، ۳۹۳۱
تذکرۂ صوفیائے سندھ: (ج_۶) ۳۶۹۷، ۳۶۹۸_۳۷۰۰، ۳۷۰۳، ۳۷۰۵
تذکرۂ علماء مشائخ سرحد: (ج_۱) ۱۱۱_۱۱۲، (ج_۶) ۳۳۳۹، ۳۸۲۷، ۳۹۰۶_۳۹۰۸، ۳۹۱۰، ۳۹۱۲
تذکرۂ علماء ہند: (ج_۳) ۱۲۹۸، (ج_۴) ۲۴۹۲، (ج_۵) ۲۵۷۸، ۲۶۲۲_۲۶۲۳، ۲۷۶۵، ۲۸۹۱_۲۸۹۲، ۲۸۹۵_۲۸۹۶، ۲۹۱۰_۲۹۱۱، (ج_۶) ۳۳۹۴_۳۳۹۵
تذکرۂ علمائے اہل سنت: (ج_۵) ۲۷۰۱_۲۷۰۲، ۲۸۹۲
تذکرۂ علمائے پنجاب: (ج_۶) ۳۷۹۹
تذکرۂ گلزار ابرار: (ج_۱) ۲۹۶، ۳۱۰، ۳۱۲، (ج_۴) ۲۲۲۲، (ج_۵) ۲۶۰۸، ۲۶۰۹
تذکرۂ مجدد الف ثانی: (ج_۲) ۸۰۱، ۹۸۹، (ج_۳) ۱۴۵۹، (ج_۴) ۱۹۴۱، ۲۱۶۷_۲۱۶۸، ۲۲۲۳، ۲۴۳۲، (ج_۵) ۲۵۷۵، ۱۵۸۰، ۲۶۲۴، ۲۶۵۱، ۲۷۵۲، ۲۸۱۸، ۲۸۹۵، (ج_۷) ۴۰۶۲، (ج_۸) ۴۹۳۶_۴۹۳۷، (ج_۹) ۵۵۱۴، ۵۵۱۷، ۵۵۲۳
تذکرۂ مخادیم کھڑہ: (ج_۶) ۳۵۶۴، ۳۵۶۸_۳۵۶۹، ۳۷۰۴_۳۷۰۵
تذکرۂ مسعود: (ج_۱) ۵۶، (ج_۶) ۳۳۹۷
تذکرۂ مشائخ قادریہ: (ج_۵) ۲۸۹۲
تذکرۂ مشائخ نقشبندیہ: (ج_۲) ۱۱۱۲، (ج_۴) ۲۴۹۲، (ج_۶) ۳۷۶۹، ۳۷۹۹
تذکرۂ مشاہیر سندھ: (ج_۶) ۳۷۰۲، ۳۷۰۶_۳۷۰۷
تذکرۂ مشائخ قادریہ رضویہ: (ج_۸) ۴۸۶۳_۴۸۶۴
تذکرۂ مظہر مسعود: (ج_۶) ۳۳۳۹، ۳۳۷۶_۳۳۷۷، ۳۳۹۵_۳۳۹۶، ۳۶۳۵، ۳۷۰۷
تذکرۂ مولانا فضل رحمان گنج مرادآبادی: (ج_۶) ۳۳۶۱
تذکرۂ میر درد دہلوی: (ج_۴) ۲۵۱۲
تذکرۂ نقشبندیہ خیریہ (محمد صادق قصوری): (ج_۶) ۳۷۹۹
تذکرۂ نقشبندیہ (نور بخش توکلی): (ج_۸) ۴۶۱۶، ۴۶۴۹
تذکرۂ ہزار مزار: (ج_۵) ۲۸۵۵، ۲۸۵۸
تذکرۃ الانساب: (ج_۶) ۳۶۹۹
تذکرۃ الاولیاء: (ج_۳) ۱۵۶۵، (ج_۹) ۵۴۵۹
تذکرۃ العابدین: (ج_۴) ۲۳۹۶
تذکرۃ المحدثین: (ج_۷) ۴۲۷۸،

تذکرۃ المشائخ: (ج_۶) ۳۷۹۹

تذکرۃ المصنفین: (ج_۹) ۵۲۹۶

تذکرۃ الموضوعات: (ج_۷) ۴۳۲۸، ۴۳۵۰، ۴۳۵۹_۴۳۶۰، ۴۳۶۶، ۴۳۹۵

تراجم اعیان المدینۃ المنورۃ: (ج_۳) ۳۲۰۲_۳۲۰۳، ۳۲۱۸

تراجم وتفاسیر: (ج_۶) ۳۶۳۹

ترتیب وتصحیح دعائے حزب البحر: (ج_۱۰) ۵۹۴۰

ترجمہ قرآن (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی): (ج_۶) ۳۳۶۰

ترجمہ وتفسیر قرآن مجید فارسی: (ج_۱۰) ۵۸۷۴

ترغیب الصلوٰۃ: (ج_۳) ۱۶۰۷، ۱۷۶۰، ۱۷۷۳، (ج_۷) ۴۱۸۸

الترغیب والترہیب: (ج_۲) ۵۳۳، ۵۷۰، ۶۳۸، ۶۴۶، (ج_۳) ۱۸۰۰، (ج_۵) ۲۸۸۴، (ج_۷) ۴۳۰۰، ۴۳۰۹، ۴۳۱۹، ۴۳۲۱، (ج_۸) ۴۷۸۷

ترغیب وترہیب (تلخیص): (ج_۱۰) ۵۹۵۶

الترقی الی الغرف من کلام السلف والخلف: (ج_۶) ۳۲۱۳

ترکستان نامہ: (ج_۱) ۲۵۳

ترمذی شریف: (ج_۱) ۷۱، ۲۲۱، (ج_۲) ۵۲۰، ۵۲۷_۵۲۸، ۵۳۰، ۵۴۳_۵۴۶، ۵۴۹، ۵۵۳، ۵۵۶، ۵۶۸، ۵۸۰_۵۸۱، ۵۹۷، ۵۹۹، ۶۰۴، ۶۰۶_۶۰۸، ۶۱۹، ۶۲۳، ۶۲۵_۶۲۷، ۶۲۹_۶۳۰، ۶۳۵، ۶۳۸، ۶۴۱_۶۴۳، ۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۳_۶۵۴، ۶۵۶، ۶۵۹_۶۶۲، ۷۰۸، ۷۷۰، ۸۰۵، ۸۰۸، ۸۲۰، ۸۳۵، ۸۵۳، ۸۶۹، ۸۸۶، ۱۱۳۰، ۱۲۳۴، (ج_۳) ۱۵۰۵، ۱۵۱۵، ۱۵۵۱_۱۵۵۲، ۱۵۷۹، ۱۵۸۸، ۱۶۳۷، ۱۶۵۱، ۱۷۹۹، (ج_۴) ۱۹۴۱، ۲۲۹۵، ۲۳۱۲، (ج_۵) ۲۴۵۴، ۲۸۸۳، (ج_۶) ۳۳۶۵، ۳۴۱۵، ۳۵۵۸، (ج_۷) ۴۰۶۷، ۴۲۲۴_۴۲۴۵، ۴۲۸۱_۴۲۸۲، ۴۲۸۷، ۴۲۹۷_۴۲۹۸، ۴۳۰۸_۴۳۱۰، ۴۳۱۳، ۴۳۱۶_۴۳۱۷، ۴۳۱۹، ۴۳۲۱_۴۳۲۲، ۴۳۲۴_۴۳۲۶، ۴۳۲۸_۴۳۲۹، ۴۳۳۱، ۴۳۳۳، ۴۳۳۵، ۴۳۳۷_۴۳۳۸، ۴۳۴۰، ۴۳۴۲_۴۳۴۵، ۴۳۴۷، ۴۳۴۹، ۴۳۵۱، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۵۷، ۴۳۵۹_۴۳۶۱، ۴۳۶۴، ۴۳۶۷_۴۳۷۳، ۴۳۷۶، ۴۳۷۹_۴۳۸۰_۴۳۸۱، ۴۳۸۴_۴۳۸۵، ۴۳۸۷_۴۳۸۹، ۴۳۹۱_۴۳۹۲، ۴۳۹۴، ۴۳۹۸_۴۴۰۴، ۴۴۰۷، ۴۴۱۱_۴۴۱۲، ۴۴۱۴، (ج_۸) ۴۵۱۲، ۴۵۳۳، ۴۷۰۸، ۴۷۲۱، ۴۷۸۶_۴۷۸۷، ۴۷۹۰، ۴۹۴۵_۴۹۴۶، (ج_۹) ۵۱۷۸، ۵۱۹۹، ۵۲۴۷، ۵۲۶۱، ۵۲۸۸، (ج_۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳، ۵۸۴۴

ترویجیہ: (ج_۱) ۸۷، (ج_۹) ۵۵۵۴

تروح الارواح: (ج_۶) ۳۷۲۵

تزک جہانگیری: (ج_۲) ۸۰۱، (ج_۳) ۱۲۹۷، ۱۳۹۳_۱۳۹۴، ۱۴۰۴، ۱۴۰۶، (ج_۴) ۱۹۶۷، ۱۹۷۵_۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۴، ۲۰۳۷، ۲۱۴۷، ۲۱۴۹، ۲۱۵۹، ۲۱۷۰، ۲۴۳۲، ۲۴۳۵، ۲۴۵۵_۲۴۵۶، (ج_۵) ۲۵۷۷، ۲۵۸۰، ۲۷۷۳، ۲۷۷۷، ۲۷۷۹، ۲۷۹۱، (ج_۶) ۳۳۵۱، (ج_۷) ۴۱۸۲_۴۱۸۳، (ج_۸) ۴۵۶۳، ۴۶۶۵، ۴۶۱۷، ۴۹۳۸، (ج_۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، ۵۰۶۳، ۵۱۳۶، ۵۱۶۲، ۵۳۶۱، ۵۳۶۳، ۵۳۶۶، ۵۳۶۸، ۵۴۸۷، ۵۵۱۳، ۵۵۱۶_۵۵۱۷، ۵۵۶۵، ۵۶۳۲، ۵۶۵۶، ۵۶۵۸، ۵۷۷۷، ۵۸۸۵، ۵۹۲۶

تزیین العبارۃ فی تحسین الاشارۃ: (ج۔۳) ۱۶۱۴

تسہیل الصعب فی ابیات الکعب: (ج۔۶) ۳۵۲۲

تسہیل کنز الایمان: (ج۔۲) ۱۲۴۶

التسہیل الخاطرہ فی قرأۃ العاشرہ: (ج۔۶) ۳۲۶۰

تشریحات جاوید: (ج۔۵) ۳۰۱۸

تشطیر البردۃ: (ج۔۵) ۲۶۸۸

تشکیل جدید الہیات اسلامیہ: (ج۔۱) ۱۰۹، (ج۔۲) ۱۰۳۷، (ج۔۳) ۱۳۹۹، (ج۔۴) ۲۰۳۸، ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۵۷۸۔۲۵۷۹، ۲۹۴۶، ۲۹۵۷

تشنیف الاسماع ببعض اسرار السماع: (ج۔۶) ۳۲۱۳

تشنیف السمع ببعض لطائف الوضح: (ج۔۶) ۳۲۱۳

تشنیف الکوس من حمیا ابن العیدروس: (ج۔۶) ۳۲۱۳

تشید المبانی فی تخریج احادیث مکتوبات الامام الربانی: (ج۔۲) ۵۱۹، ۵۳۹، ۶۳۵، ۶۴۰۔۶۴۱، ۶۵۵، (ج۔۵) ۲۶۲۰، ۲۶۴۶، (ج۔۹) ۵۴۹۶

تصانیف اقبال میں ذکرِ مجدد: (ج۔۲) ۱۲۴۴

تصحیح الاشارہ بتصریح البشارہ: (ج۔۱) ۱۱۰

تصوف (عبدالماجد دریابادی): (ج۔۱) ۳۵۲

تصوف: (ج۔۶) ۳۴۳۹

تصوف، اولیاء مانکی شریف اور تحریک پاکستان: (ج۔۱) ۱۱۲

تصوف اسلام: (ج۔۲) ۹۸۹، (ج۔۸) ۴۸۳۲

تصوف اور سرّیت: (ج۔۷) ۴۰۶۲

تصوف اور ویدانت۔۔ مشترک قدریں: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴

تصوف اور ہندوستانی معاشرہ: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴

تصوف اور شریعت: (ج۔۹) ۵۰۸۷، ۵۱۵۴، ۵۱۶۰۔۵۱۶۱

تصوف کیا ہے؟ طریقہ نقشبندیہ کیا ہے: (ج۔۱) ۹۷، ۲۶۵

تصوف کے روشن حقائق: (ج۔۵) ۳۰۱۰، ۳۰۱۷،

تعارف علمائے اہلسنت: (ج۔۱) ۵۷، (ج۔۹) ۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۸۰۹

تعارف علمائے دیوبند: (ج۔۶) ۳۵۹۷

تعارف مخزن چشت: (ج۔۳) ۱۸۷۲

تعریب المکتوبات الصوفیہ لاحمد النقشبندی الفاروقی: (ج۔۵) ۲۶۴۴، ۲۶۷۵

تعریب رشحات عین الحیاۃ: (ج۔۵) ۲۶۹۳،

تعریف الثقاف بمباشرۃ شہود وحدۃ الافعال والصفات و الذات: (ج۔۶) ۳۲۱۳

التعریف بتعدد شق صدرہ الشریف: (ج۔۶) ۳۲۱۳

التعریف بمساجد السلیمانیہ ومدارسھا: (ج۔۴) ۲۵۰۵

تعریفات جرجانی: (ج۔۵) ۳۰۲۵

تعظیم وتوقیر: (ج۔۶) ۳۶۴۰

التعظیم والتوقیر (عربی): (ج۔۶) ۳۳۹۲

التعقبات علی الموضوعات: (ج۔۲) ۵۱۵، ۶۳۴، ۶۵۸، (ج۔۷) ۴۳۰۲، ۴۳۱۸، ۴۳۲۰

تعلیقات العوارف: (ج۔۸) ۴۵۷۹

تعلیقات بر شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ: (ج۔۱) ۴۲۹، (ج۔۹) ۵۴۹۰، ۵۵۰۶، (ج۔۱۰) ۵۶۷۱

تعلیقات بر مقامات معصومی: (ج۔۵) ۲۶۶۷، ۲۶۶۹

تعلیقات عوارف : (ج۔۴) ۲۳۲۱، (ج۔۵) ۲۵۹۲، ۲۶۳۳، (ج۔۹) ۵۰۲۷، ۵۴۹۰، ۵۵۰۷

تعلیقات محقق: (ج۔۵) ۲۶۶۳

تعلیقات مشکوٰۃ المصابیح: (ج۔۴) ۲۳۶۲، (ج۔۹) ۵۵۲۶

تعلیقات (رسالہ) (خواجہ باقی باللہ): (ج۔۵) ۲۸۴۸، (ج۔۱۰) ۶۱۵۸

التعلیقۃ الجلیلۃ علی مسلسلات ابن عقیلہ: (ج۔۶) ۳۱۹۹

تعلیم السلوک: (ج۔۶) ۳۷۱۸

تعلیم المتعلم مع الشرحین: (ج۔۸) ۴۹۴۴۔ ۴۹۴۵، ۴۹۴۹

تعلیمات اہل سنت: (ج۔۵) ۲۶۴۹

تعلیمات مجددیہ : (ج۔۵) ۲۶۴۹، ۲۸۱۹۔ ۲۸۲۳، (ج۔۹) ۵۵۱۲، ۵۵۲۲

تعمیر حیات: (ج۔۹) ۵۴۱۱

التعین اللہ تعین: (ج۔۶) ۳۴۴۳

تفسیر ابن عباس: (ج۔۲) ۱۱۹۰، (ج۔۷) ۴۳۶۶

تفسیر ابن کثیر: (ج۔۲) ۱۱۷۲، (ج۔۹) ۵۲۶۰

تفسیر احمدی: (ج۔۸) ۴۶۳۰

تفسیر اعوذ و بسم اللہ و فاتحہ والشمس واخلاص و فلق: (ج۔۱) ۳۲۰

تفسیر الحسنات: (ج۔۱۰) ۵۸۰۳

تفسیر الم نشرح: (ج۔۵) ۲۸۹۶

تفسیر المدارک: (ج۔۲) ۱۱۷۲، (ج۔۳) ۱۷۶۱

تفسیر بیضاوی: (ج۔۱) ۴۴۶، (ج۔۲) ۹۰۷، ۱۱۹۸، (ج۔۳) ۱۵۸۹، (ج۔۴) ۲۲۸۰، (ج۔۵) ۲۷۱۲، (ج۔۶) ۳۱۵۵، ۳۱۷۶، ۳۱۹۶، ۳۶۸۳، ۳۹۳۱، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۶۰۸، ۴۹۴۶، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۷۶۷، ۵۷۶۳، ۵۷۶۷

تفسیر تبصیر الرحمٰن: (ج۔۳) ۱۷۶۲

تفسیر جلالین: (ج۔۶) ۳۷۲۵

تفسیر جمل: (ج۔۲) ۱۱۵۳، ۱۱۹۱

تفسیر حسینی: (ج۔۲) ۵۶۷، ۵۸۸، ۵۹۹، ۶۲۸، ۶۴۵، ۶۵۱، ۶۵۴، ۶۶۱، (ج۔۵) ۳۰۱۶۔ ۳۰۱۷

تفسیر خازن: (ج۔۲) ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴، ۱۱۶۹، ۱۱۷۲

تفسیر درالاسرار: (ج۔۹) ۵۲۹۶

تفسیر درمنثور: (ج۔۸) ۴۷۸۷

تفسیر روح البیان (اسمٰعیل حقی): (ج۔۲) ۶۲۸، ۹۱۴، (ج۔۹) ۵۰۱۴

تفسیر روح المعانی: ۸۷، (ج۔۲) ۱۱۷۲، ۱۱۹۸، (ج۔۳) ۱۵۰۷، (ج۔۵) ۲۶۴۵، (ج۔۷) ۳۹۹۳، ۴۲۶۱۔ ۴۲۶۲، ۴۲۶۴، ۴۲۷۳۔ ۴۲۷۴، ۴۲۷۷۔ ۴۲۷۸، (ج۔۸) ۴۵۰۲، ۴۶۲۱، (ج۔۹) ۵۳۱۷، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

تفسیر رؤفی (مؤلف تفسیر رؤف احمد): (ج۔۱۰) ۶۰۳۵

تفسیر سورہ فاتحہ و بقرہ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۶

تفسیر شیخ الاکبر: (ج۔۱) ۱۹۴

تفسیر صاوی: (ج۔۲) ۱۱۷۲

تفسیر طبری: (ج۔۸) ۴۷۸۷،

تفسیر عرائس البیان: (ج۔۵) ۲۷۴۳

تفسیر قرطبی: (ج۔۲) ۱۱۹۸

تفسیر قرآن مجید: (ج۔۴) ۲۰۰۱، (ج۔۵) ۲۶۶۳،

۲۶۶۷، (ج۔۶)۳۷۷۵
تفسیر کبیر: (ج۔۱)۲۲۱، (ج۔۲)۹۱۴، ۹۳۰، ۱۱۶۹، ۱۱۹۰، (ج۔۳)۱۵۰۷، (ج۔۷)۴۳۹۳
تفسیر مدارک: (ج۔۸)۴۶۴۲، (ج۔۹)۵۴۴۸
تفسیر مظہری: (ج۔۱)۲۲۱، (ج۔۲)۱۱۲۰، ۱۱۵۴، ۱۱۶۹، ۱۱۹۱، (ج۔۴)۲۵۰۳، (ج۔۵)۲۸۱۰، ۲۸۷۶، ۲۸۹۲، ۲۸۹۵، (ج۔۷)۳۹۹۳، ۴۲۳۵۔۴۲۵۹، (ج۔۸)۴۵۰۲، (ج۔۹)۵۰۱۴
تفسیر معالم التنزیل: (ج۔۸)۴۵۲۵،
تفسیر معراج المومنین: (ج۔۹)۵۵۴۴
تفسیر نبوی: (ج۔۶)۳۷۷۴۔۳۷۷۵، ۳۹۳۲
تفسیر نعیمی: (ج۔۲)۱۱۸۸۔۱۱۸۹
تفسیر نیشاپوری: (ج۔۷)۴۴۰۸
تفسیر واحدی: (ج۔۵)۲۷۱۲، (ج۔۸)۴۵۱۲، ۴۹۴۶، (ج۔۱۰)۵۶۴۰، ۵۶۷۳
تفسیر یعقوب چرخی: (ج۔۶)۳۴۴۴
تفسیرات احمدیہ: (ج۔۲)۱۱۶۹، ۱۱۹۱
التفصیل فی اسرار معانی التنزیل: (ج۔۹)۵۲۷۰
تفہیم المتفہم علی تعلیم المتعلم: (ج۔۸)۴۹۴۵
تقدیس الوکیل (غلام دستگیر قصوری): (ج۔۱۰)۶۰۳۷
تقدیم بر فتاوی خیریہ: (ج۔۶)۳۷۶۱
تقدیم مکتوبات بحیثیت ماخذ ایمانیات: (ج۔۹)۵۲۰۳
تقریب الاحوال: (ج۔۶)۳۷۰۶
تقریظ رسالہ کلمات الحق: (ج۔۴)۲۴۶۵
تقصار جیود الاحرار من تذکار جنود الابرار: (ج۔۲)۵۰۱، (ج۔۴)۲۲۲۳، ۲۴۵۴، (ج۔۵)۲۵۷۸، (ج۔۱۰)۵۶۳۸، ۵۶۹۵
تقلید کی شرعی حیثیت: (ج۔۲)۷۲۹
تقویم تاریخی: (ج۔۵)۳۰۳۹۔۳۰۴۱، (ج۔۶)۳۷۹۹
تقویۃ الایمان: (ج۔۳)۱۶۷۴، (ج۔۶)۳۶۰۰، ۳۶۱۰، (ج۔۸)۴۹۴۸
التقیید لمعرفۃ فی رواۃ السنن والمسانید: (ج۔۲)۵۳۹، ۶۴۰
تکملہ حدائق الحنفیہ: (ج۔۵)۲۷۰۲، (ج۔۶)۳۱۶۷
تکملہ مقالات الشعراء: (ج۔۵)۲۸۱۷۔۲۸۱۸، (ج۔۶)۳۴۱۸، ۳۴۴۷۔۳۴۴۸، ۳۴۵۰۔۳۴۵۱، ۳۴۷۵، ۳۶۹۷، ۳۶۹۹۔۳۷۰۰
تکملۃ الورد المحمدی: (ج۔۶)۳۵۹۱
تکمیل الایمان: (ج۔۱)۳۱۰، (ج۔۵)۲۸۹۰، ۲۸۹۷، (ج۔۶)۳۳۵۲
تلخیص الذہبی علی حاشیہ المستدرک: (ج۔۲)۵۵۹، ۶۴۳
تلخیص المتشابہ: (ج۔۲)۵۷۸، ۶۴۸
تلخیص مستدرک (علامہ ذہبی): (ج۔۲)۵۵۹
التلخیصات الکبریۃ فی ترجمۃ خلاصۃ الکبریۃ: (ج۔۶)۳۱۷۱
تلمیحات و اشاراتِ اقبال: (ج۔۵)۳۰۴۵
تلویح: (ج۔۱)۴۵۲، (ج۔۲)۶۴۶، ۶۶۳، (ج۔۴)۲۲۸۰، (ج۔۷)۴۱۶۴، (ج۔۹)۵۱۹۳
تمشیۃ القلم ببعض انواع الحکم: (ج۔۶)۳۲۱۴
تمدنِ ہند پر اسلامی اثرات (ڈاکٹر محمد مسعود احمد): (ج۔۲)۴۶۴

تمدنِ ہند (ڈاکٹر گستاؤلی بان): (ج۔۷) ۴۱۸۰

تمغۃ الاولیاء: (ج۔۱۰) ۵۸۸۷

تمہید ایمان مع حسام الحرمین (امام احمد رضا خان بریلوی): (ج۔۲) ۱۱۳۹

تمہید (امام ابوشکور سالمی): (ج۔۲) ۵۱۳، ۶۳۳

تمہیدات: (ج۔۲) ۵۳۶، ۵۵۰، ۵۸۳_۵۸۵، ۵۸۸، ۵۹۳، ۵۹۹، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۲۸، ۶۳۱، ۶۳۹، ۶۴۲، ۶۴۹_۶۵۲، ۶۵۴، ۶۵۸_۶۵۹، ۶۶۱_۶۶۲، (ج۔۵) ۳۰۱۶

تمیز الطیب من الخبیث: (ج۔۲) ۵۸۶، ۶۰۸، ۶۵۰، ۶۵۷

تنبیہ الاخوان: (ج۔۸) ۴۶۳۵،

تنبیہ الضمائر علیٰ رد الذخائر: (ج۔۸) ۴۶۴۵

تنبیہ الغافلین: (ج۔۲) ۵۱۳، ۶۳۳، ۶۵۰، (ج۔۵) ۲۸۰۷

تنبیہات الخمسہ: (ج۔۴) ۲۴۶۵

تنقیح الرواۃ فی تخریج احادیث مشکوٰۃ: (ج۔۲) ۷۳۵

تنقیدات وتعصّبات: (ج۔۵) ۲۹۱۲

تنمیق الاسفار: (ج۔۶) ۳۲۱۴

تنمیق السفر فیما جری بمصر: (ج۔۶) ۳۲۱۴

تنمیق الطروس فی اخبار شیخ بن عبداللہ العیدروس: (ج۔۶) ۳۲۱۴

تنویر الابصار: (ج۔۸) ۴۶۴۰، ۴۶۴۴_۴۶۴۵، ۴۶۴۷_۴۶۴۸

تنویر حرم: (ج۔۳) ۱۸۷۳

تواریخ اقوام پونچھ (محمد دین فوق): (ج۔۱۰) ۵۸۹۲، ۵۸۹۶

تواریخ حافظ رحمت خانی (پیر معظم شاہ): (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

تواریخ مجمع الانساب (قلمی): (ج۔۱۰) ۵۸۸۷_۵۸۸۸

تواریخ آئینہ تصوف: (ج۔۷) ۴۰۶۰، ۴۰۶۲

توحید الاسلام: (ج۔۶) ۳۶۱۰

توحید الایمان: (ج۔۶) ۳۶۰۰

تورات: (ج۔۳) ۱۵۸۰، (ج۔۱۰) ۵۷۸۱

توضیح العقائد: (ج۔۶) ۳۶۱۲، ۳۶۲۴، ۳۶۲۸

توضیح الکلام: (ج۔۲) ۷۳۳

توضیح المعانی شرح خلاصہ کیدانی: (ج۔۶) ۳۸۹۷، ۳۹۰۴

توضیح وتلویح: (ج۔۴) ۲۳۷۲، (ج۔۸) ۴۶۲۱، (ج۔۱۰) ۵۷۶۷

تہافت الفلاسفۃ: (ج۔۵) ۲۷۵۸

تہذیب المنطق: (ج۔۴) ۲۵۰۶

تہذیب المواہب السرمدیۃ فی اجلاء السادۃ النقشبندیۃ: (ج۔۷) ۴۴۶۶، ۴۴۷۶

تہذیب تاریخ دمشق الکبیر: (ج۔۲) ۶۵۷

تہذیب مواہیب السروریہ: (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

تہذیب مواہب السرمدیہ فی اجلاء السادۃ النقشبندیہ: (ج۔۱۰) ۵۶۲۸، ۵۷۶۳

تہذیب نفس: (ج۔۲) ۱۲۴۷

تھا جس کا انتظار: (ج۔۱) ۵۶

تھدید الغافر فی تعذیب الکافر: (ج۔۶) ۳۵۲۱

تیسیر الاحکام: (ج۔۳) ۱۷۶۰، ۱۷۷۳

تیسیر القدیر فی اضحیۃ الفقیر: (ج۔۶) ۳۵۲۲

تیغ بُرّاں بر فتنہ غلام خان: (ج۔۶) ۳۸۴۶

ث

ثبت الکاملی: (ج۔۶) ۳۲۳۱

ثبت صغیر: (ج۔۶) ۳۱۹۷

ثبت محمد عقیلہ: (ج۔۶) ۳۱۹۷

ثمانیۃ قصائد صغار فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم: (ج۔۶) ۳۶۵۳

الثمین: (ج۔۵) ۳۰۹۳

ثواب العبادت: (ج۔۶) ۳۵۹۷

ج

جامع الاحادیث: (ج۔۱) ۱۰۸، (ج۔۲) ۵۱۹، ۵۲۴

جامع الاصول فی الاولیاء: (ج۔۳) ۱۵۸۶، (ج۔۹) ۵۰۲۰، (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

الجامع الأخلاق الراوی وآداب السامع: (ج۔۲) ۶۴۰

جامع البرکات: (ج۔۶) ۳۳۵۲

جامع الدرر: (ج۔۷) ۴۲۰۲

جامع الرضوی صحیح البہاری: (ج۔۶) ۳۶۸۶

جامع الرموز: (ج۔۲) ۶۷۷، ۷۰۵، ۷۰۸، ۷۲۲، (ج۔۳) ۱۷۰۹، ۱۷۶۰، (ج۔۴) ۲۲۳۵، (ج۔۸) ۴۶۴۵_۴۶۴۶

جامع الصغیر: (ج۔۷) ۴۳۴۷، (ج۔۹) ۵۲۶۳

الجامع الصغیر: (ج۔۲) ۵۱۷، ۵۱۹، ۵۲۹، ۵۴۲، ۵۶۰، ۵۶۹، ۵۷۹، ۵۹۹، ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۳_۶۴۵، ۶۴۸، ۶۵۳_۶۵۴، (ج۔۷) ۴۲۸۷، ۴۳۰۷، ۴۳۱۸، ۴۳۲۱، ۴۳۲۶_۴۳۲۷، ۴۳۲۹_۴۳۳۰، ۴۳۳۳، ۴۳۳۶، ۴۳۳۹، ۴۳۴۱_۴۳۴۲، ۴۳۴۵، ۴۳۴۹، ۴۳۵۱، ۴۳۵۷_۴۳۵۸، ۴۳۶۲، ۴۳۷۱، ۴۳۷۴، ۴۳۷۸، (ج۔۹) ۵۳۷۳، ۵۴۱۴

جامع العلوم والحکم فی شرح خمیس حدیثاً من جوامع الکلم: (ج۔۲) ۵۲۰، ۵۴۳، ۶۳۵، ۶۴۱

جامع الفتاویٰ: (ج۔۲) ۶۷۲، (ج۔۸) ۴۶۴۲

جامع الکلم (خواجہ عبد الخالق غجدوانی): (ج۔۱۰) ۶۱۴۰، ۶۱۴۳

جامع المضمرات: (ج۔۸) ۴۶۳۷

جامع المفردات القرآنیہ: (ج۔۶) ۳۱۶۶

جامع انسائیکلوپیڈیا (اردو): (ج۔۸) ۴۸۵۱

جامع بیان العلم: (ج۔۲) ۵۱۷، ۶۳۵، (ج۔۷) ۴۳۰۵، ۴۳۲۰

جامع خطیب بغدادی: (ج۔۲) ۵۴۰

جامع سوانح شاہ ابو الخیر: (ج۔۱۰) ۵۹۵۶

جامع صغیر سیوطی: (ج۔۳) ۱۶۰۴، (ج۔۴) ۲۳۱۲، (ج۔۵) ۲۷۱۲، ۲۸۸۳، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۹۴۶، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳

جامع کبیر: (ج۔۳) ۱۶۰۴

جامع کرامات اولیاء: (ج۔۶) ۳۱۶۷، ۳۱۷۳، ۳۱۹۰، (ج۔۹) ۵۲۷۰، ۵۳۸۷

الجامع لاحکام القرآن (علامہ قرطبی): (ج۔۷) ۴۳۱۲، ۴۳۲۲

الجامع للخطیب: (ج۔۷) ۴۳۶۲

جامع مفیدی: (ج۔۵)۲۸۵۴، ۲۸۵۸

الجامع (علامہ سیوطی): (ج۔۷)۴۳۹۵

جان ایمان: (ج۔۶)۳۶۴۰

جان جانان: (ج۔۱)۴۶۴، (ج۔۶)۳۶۴۰

جانشین ابوھریرہ حضرت باباجی غلام رسول بلیاں والے: (ج۔۱)۵۳

جاوید نامہ: (ج۔۱) ۲۵۴، (ج۔۵) ۲۹۴۵_۲۹۴۶، ۲۹۹۹، ۳۰۰۹_۳۰۱۰، ۳۰۱۳، ۳۰۱۵، ۳۰۱۸، ۳۰۲۰، ۳۰۳۷، ۳۰۴۵

جبر التسکین فی کسر التنوین: (ج۔۶)۳۵۲۳

جبر السکین فی تسلیمۃ المسکین: (ج۔۶)۳۵۲۲

جد الممتار علیٰ رد المحتار (تخریج اور تحشی): (ج۔۱)۵۵

جدید طبی مسائل کا شرعی حل: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۰

جذب القلوب: (ج۔۶)۳۱۵۳، (ج۔۹)۵۰۳۶

جذب و سلوک: (ج۔۹)۵۰۲۷، ۵۲۴۹، ۵۵۲۰

الجذبۃ الشوقیۃ الی الحضرۃ المجددیہ: (ج۔۱۰)۵۶۰۵

جزیل المواھب فی انتقال المذاھب: (ج۔۲)۶۷۰

جشن بہاراں: (ج۔۶)۳۶۴۰

جلالین: (ج۔۲)۱۱۷۲، (ج۔۶)۳۸۰۹

جلی الصوت لنھی الدعوت امام الموت: (ج۔۱)۱۱۵

جمال السلوک (مخزونہ مدینہ منورہ): (ج۔۱)۱۰۱، (ج۔۱۰)۵۶۲۹، (ج۔۱۰)۶۱۶۲

جمع الجوامع: (ج۔۱) ۶۰، ۴۳۰، (ج۔۲) ۱۰۹۷، ۱۳۷۱، ۱۳۷۸، ۱۳۸۷، (ج۔۴) ۱۹۳۳، (ج۔۶) ۳۱۵۰، ۳۵۷۰، (ج۔۷) ۴۱۹۱، ۴۲۰۶، (ج۔۸) ۴۵۲۳، (ج۔۹)۵۳۱۱_۵۳۱۲، (ج۔۱۰)۵۶۳۴

جمع الفوائد: (ج۔۷)۴۳۵۹، ۴۳۷۵_۴۳۷۶، ۴۳۸۰، ۴۳۸۳، ۴۴۰۸، (ج۔۸)۴۸۴۰

جمع القلائد و مجمع الشوائد فی فرائد مولانا خالد: (ج۔۴)۲۵۰۹

جمع المسائل علیٰ حسب النوازل: (ج۔۶)۳۵۱۴

جمع الوسائل فی شرح الشمائل: (ج۔۲)۶۳۳

جمل (تفسیر): (ج۔۲)۱۱۶۹

الجنات الثمانیہ (خواجہ عبدالاحد): (ج۔۱)۴۳۰، (ج۔۵)۲۸۰۶، (ج۔۹)۵۰۰۰، ۵۰۵۱_۵۰۵۴، (ج۔۸)۴۹۹۰

جنۃ النعیم فی فضائل القرآن العظیم: (ج۔۶)۳۴۴۳

جزاء اللہ عدوہٗ باباۂ ختم النبوۃ: (ج۔۳)۱۵۶۳

جنگ نامہ آصف الدولہ: (ج۔۴)۲۵۱۴

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء: (ج۔۴)۲۵۱۴

جنود اللہ: (ج۔۸)۴۱۱۳،

جنید و بایزید: (ج۔۲)۱۲۴۷

جواز سود: (ج۔۲)۷۳۶

جوالمتانہ (جعفر بوبکانی): (ج۔۶)۳۴۱۶

جوامع الحکایات: (ج۔۴)۲۰۵۷

جوامع الکلم: (ج۔۲)۵۴۳، ۶۴۱، (ج۔۱۰)۵۸۳۴

جواہر الاوراد: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

الجواہر البدائع: (ج۔۶)۳۷۰۵

الجواہر البحیۃ: (ج۔۶)۳۲۱۴

جواہر العشاق: (ج۔۲)۵۲۱، ۵۸۴، ۶۰۲_۶۰۳، ۶۳۱، ۶۴۹، ۶۵۵، ۶۶۲

الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ: (ج۔۵)۲۸۴۸، ۲۸۵۵، ۲۸۵۷

الجواہر المنتظمۃ بفضیلۃ الکعبۃ المعظمۃ: (ج۔۶)۳۱۵۹

الجواہر المنظوم فی تفسیر القرآن العظیم بالمرفوع من کلام سید المرسلین والحکوم: (ج۔۶)۳۱۹۷

جواہر خمسہ: (ج۔۶)۳۴۱۰، (ج۔۹)۵۳۲۱

جواہر شرح مواقف: (ج۔۱)۳۰۸، (ج۔۳)۱۷۴۲

جواہر علویہ: (ج۔۱)۳۲۳، (ج۔۳)۱۲۹۷، (ج۔۴)۱۹۴۱، ۲۴۷۹، ۲۴۹۲، (ج۔۶) ۳۳۵۳، (ج۔۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۵۰

جواہر مجددیہ (خواجہ احمد حسین خان): (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۲۰

جواہر مجددیہ: (ج۔۱) ۱۴۲، ۴۳۱۔۴۳۲، (ج۔۲) ۱۱۰۱، (ج۔۳) ۱۳۶۶، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۷۱۳۔۱۷۱۶، ۱۸۰۰، (ج۔۴)۱۹۵۲، ۲۴۴۱، (ج۔۵)۲۴۵۵، ۲۶۲۲۔۲۶۲۳، (ج۔۶) ۳۱۵۰، ۳۱۵۳، ۳۹۰۶، (ج۔۷) ۴۲۳۱۔۴۲۳۲، ۴۴۲۸، ۴۴۳۱، (ج۔۸) ۴۶۰۰، ۴۹۴۴، (ج۔۹)۵۱۵۴، ۵۱۹۶، (ج۔۱۰)۵۸۹۴

جواہر معصومیہ دراحوال حضرت عروۃ الوثقیٰ: (ج۔۳)۱۷۲۳، (ج۔۴) ۲۴۵۵، (ج۔۶) ۳۴۴۴، (ج۔۱۰) ۵۷۶۳، ۶۳۵۶، ۶۳۷۵

جواہر مکتوبات مقدسہ: (ج۔۷)۴۴۷۸، (ج۔۸)۴۴۸۹، (ج۔۹)۵۰۱۴

جواہر نفیسہ: (ج۔۶)۳۴۹۳

جواہر نقشبندیہ: (ج۔۸)۴۸۷۰، (ج۔۱۰)۵۹۰۲

جودۃ الطبع فی کثرۃ السبع: (ج۔۶)۳۵۲۳

جہاد و قِتال: (ج۔۶)۳۵۹۷

جہانگیر نامہ: (ج۔۵)۲۵۶۳، ۲۵۷۵

جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج۔۳) ۱۴۰۷، ۱۵۶۱، (ج۔۴)۱۹۱۳، (ج۔۵)۲۵۵۱، (ج۔۶)۳۱۴۱، ۳۳۴۶، (ج۔۷) ۴۰۰۷۔۴۰۰۸، ۴۱۶۷، ۴۲۳۰، ۴۳۲۳، ۴۴۷۷، (ج۔۸) ۴۴۹۹، ۴۵۰۲، ۴۶۸۰، ۴۸۶۱۔۴۸۶۲، ۴۸۶۴، ۴۹۰۷۔۴۹۰۸، ۴۹۲۵، ۴۹۸۹، ۴۹۹۲، (ج۔۹) ۵۰۰۲، ۵۰۱۴، ۵۰۷۰، (ج۔۱۰) ۵۵۸۵، ۵۵۹۱، ۵۶۱۳۔۵۶۱۴، ۵۶۲۲، ۵۶۲۹، ۵۷۵۹، ۵۷۶۳، ۵۸۳۵

جہانِ مسعود: (ج۔۱)۵۶، ۱۰۶، (ج۔۶)۳۷۰۶،

جہاں نما۔ ڈاکٹر عدنان خورشید: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵۔۶۳۴۶

چ

چار چمن: (ج۔۴)۱۹۰۹

چانن تے سویرا: (ج۔۲)۱۲۴۵

چراغ ہفت محفل خواجہ محمد معصوم: (ج۔۵)۲۷۴۰

چرخہ: (ج۔۵)۲۷۳۲

چشمہ حیات: (ج۔۱۰)۵۸۹۴۔۵۸۹۵

چگونہ یک نفر ایرانی در جنگہای صلیبی فرماندہ و جنگ و واسطہ صلح بود: (ج۔۵)۲۸۵۶، ۲۸۵۸

چند پاروں کی تفسیر: (ج۔۶)۳۶۲۸

چند مقبول دعائیں: (ج۔۶)۳۳۹۲

چودھویں صدی کے مجدد: (ج۔۵)۲۸۷۷، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶

چہل حدیث امام ربانی: (ج۔۵)۲۶۱۳

چہل حدیث (مولانا جامی): (ج-۶) ۳۴۴۴، (ج-۸) ۴۹۳۲
چہل مکتوب: (ج-۴)۲۴۳۷

ح

حاشیہ اشباہ والنظائر: (ج-۶)۳۵۲۱
حاشیہ البنانی علی جمع الجوامع: (ج-۲)۷۳۰
حاشیہ تفسیر بیضاوی: (ج-۵)۲۹۱۱
حاشیہ تکملۂ مقالات الشعراء: (ج-۶) ۳۶۹۸، ۳۶۹۹-۳۷۰۰
حاشیہ توضیح وتلویح: (ج-۸)۴۶۱۹
حاشیہ جلال الدین دوّانی: (ج-۴)۲۵۰۶
حاشیہ خیالی: (ج-۱)۴۴۸، (ج-۳)۱۷۶۱، (ج-۸)۴۶۱۰
حاشیہ درمختار: (ج-۵)۲۸۸۴
حاشیہ شرح ملا: (ج-۴)۲۳۹۸
حاشیہ شرح مواقف: (ج-۵)۲۹۱۱
حاشیہ شرح ہدایت الحکمۃ: (ج-۶)۳۳۶۱
حاشیہ عضدی: (ج-۱)۴۴۶
حاشیہ علی اتحاف الذائق: (ج-۶)۳۲۱۴
الحاشیہ علی شرح العقائد الجلالی: (ج-۸)۴۵۷۹
حاشیہ قرۃ کمال قری: (ج-۳)۱۷۶۱
حاشیہ قرآن مجید: (ج-۵)۲۶۶۲
حاشیہ کشاف: (ج-۹)۵۱۷۸
حاشیہ لب تاریخ سندھ: (ج-۶)۳۷۰۵
حاشیہ مستخلص الحائق: (ج-۱۰)۵۸۸۱
حاشیہ مطول: (ج-۵)۲۹۱۱
حاشیہ میر زاہد (شاہ عبد العزیز محدث دہلوی): (ج-۱) ۴۴۸، (ج-۶)۳۳۶۱
حاشیہ ہدایت الحکمہ: (ج-۵)۲۹۱۱
حاشیہ علی تحفۃ المحتاج: (ج-۵)۲۶۹۷
الحاکم المستدرک: (ج-۷)۴۳۳۲
حالات حضرت امام ربانی: (ج-۳)۱۸۷۳
حالات خواجہ صبغت اللہ: (ج-۶)۳۴۴۴
حالات مشائخ نقشبندیہ (محمد حسن نقشبندی): (ج-۹) ۵۵۵۹، (ج-۱۰)۶۰۳۶
حالات ومقامات شیخ احمد فاروقی سرہندی: (ج-۳)۱۲۹۸، (ج-۹)۵۰۴۰
حالات وملفوظات پیر محمد راشد (سندھی): (ج-۶)۳۴۴۲
حانۃ العشاق وریحانۃ الاشواق: (ج-۶)۳۱۸۷
الحاوی للفتاویٰ: (ج-۲)۶۲۱-۶۲۲، ۶۵۹
حبِ رسول: (ج-۸)۴۸۴۸، ۴۸۵۲
حجِ فقیر برآستانۂ پیر: (ج-۶)۳۷۸۶
حجت ربانی: (ج-۶)۳۷۸۶
حجۃ الاحمدیہ: (ج-۱) ۸۷، (ج-۵) ۲۸۰۲، (ج-۹) ۵۵۵۴
حجۃ الحق فی دفع اعتراضات شیخ عبدالحق: (ج-۵)۲۸۰۶-۲۸۰۷
حجۃ الصوف فی الغزو: (ج-۱)۱۹۳

الجنۃ الفائحۃ لطیب التعین والفاتحہ: (ج۔۱)۱۱۵، (ج۔۳) ۱۶۶۱

حجۃ اللہ البالغہ: (ج۔۵)۳۰۹۴، (ج۔۶)۳۳۵۹

حجۃ اللہ علی العالمین: (ج۔۲)۵۸۵، ۵۸۸۔۵۸۹، ۶۵۰۔۶۵۱، (ج۔۳)۱۸۶۸

الحجۃ المنذرہ فی الاسئلۃ المبتدرہ: (ج۔۸)۴۶۴۵

حدائق الحنفیہ: (ج۔۵)۲۶۲۲۔۲۶۲۳، ۲۷۰۱۔۲۷۰۲، ۲۷۵۸، ۲۸۹۲، ۲۸۹۴۔۲۸۹۵، ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۱۹۰، (ج۔۹) ۵۱۵۳۔ ۵۱۵۴، ۵۱۵۶۔ ۵۱۵۷، ۵۱۵۹۔ ۵۱۶۰، (ج۔۱۰)۵۸۹۱

الحدائق الوردیۃ فی حقائق اجلاء النقشبندیہ: (ج۔۱)۲۵۲، (ج۔۴)۲۵۱۰، (ج۔۵)۲۶۷۵، ۲۶۸۴، ۲۷۰۰، ۲۷۰۲، (ج۔۶)۳۱۵۹۔۳۱۶۰، ۳۱۶۶۔۳۱۶۷، ۳۱۸۶، ۳۱۹۰، ۳۲۰۱، ۳۲۱۸، ۳۲۳۸، (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۰۰۔۶۴۰۱

حدائق بخشش: (ج۔۵)۲۸۷۹، (ج۔۷)۴۲۲۰

حدیث اربعین فی حقوق سلاطین: (ج۔۶)۳۲۵۹

حدیث مسلسل: (ج۔۸)۴۹۴۶

حدیث نو: (ج۔۱)۴۶۱

حدیقۃ الاسرار فی اخبار الابرار: (ج۔۱۰)۵۸۹۴

حدیقہ خنک: (ج۔۱۰)۵۸۹۰

حدیقۂ ندیہ: (ج۔۱)۱۹۶

حدیقۃ الاولیاء: (ج۔۳)۱۴۰۲، ۱۴۰۵، (ج۔۸)۴۸۶۳۔۴۸۶۴، (ج۔۱۰)۵۸۸۸

حدیقۃ الصفا فی اسماء المصطفیٰ: (ج۔۶)۳۶۵۳

حدیقۃ الصفا فی مناقب عبداللہ بن مصطفیٰ: (ج۔۶)۳۲۱۴

الحدیقۃ الندیہ فی الطریقۃ النقشبندیہ والبھجۃ الخالدیۃ: (ج۔۴)۲۵۰۹، (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۶

حرز العنایات ترجمہ کنز الہدایت: (ج۔۵)۲۶۶۵، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵۔۲۷۶۶

حرمت سود: (ج۔۲)۷۳۶

حرمت سود---اشکالات کا علمی جائزہ: (ج۔۲)۷۳۶

الحزب الاعظم والورد الافخم: (ج۔۵)۲۶۹۸

حزب البحر: (ج۔۶)۳۴۱۰، ۳۷۸۲

حزب الرغبہ والرھبۃ والاستغاثۃ العیدروسیۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۴

حزب السر المعون، المستنبط من الکتاب المکنون: (ج۔۶) ۳۱۹۷

حسام الحرمین: (ج۔۵)۲۵۷۳، (ج۔۹)۵۲۰۵

حسن نماز: (ج۔۲)۱۲۴۷

حسنات الحرمین: (ج۔۱) ۸۷، (ج۔۲) ۱۱۳۹، (ج۔۴) ۲۱۹۹۔۲۲۰۰، (ج۔۵)۳۱۰۹، (ج۔۹)۵۵۴۶، ۵۵۶۴، (ج۔۱۰)۵۶۳۲، ۵۷۵۹، ۵۷۶۳، ۶۳۵۶، ۶۳۷۱

حشرات الارض پر تحقیقی مقالہ: (ج۔۹)۵۵۸۰

حصر الشارد: (ج۔۵)۲۸۸۴، (ج۔۶)۳۱۹۹

حصن الایمان: (ج۔۶)۳۲۱۶۔۳۲۱۷، (ج۔۱۰)۵۹۵۱

حصن حصین: (ج۔۶)۳۳۶۶

حصول الانس فی انتقال حضرۃ مولانا خالد الی حظیرۃ القدس: (ج۔۴)۲۵۰۹

حضرات القدس: (ج۔۱) ۶۰، ۷۵، ۸۴۔ ۸۵، ۱۰۹، ۳۰۹۔۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۷۲، ۳۷۵، ۴۲۸، ۴۴۰،

۴۴۸، ۴۵۱، ۴۵۳_۴۵۴، ۴۶۲، (ج_۲)۷۳۴_۷۳۵، ۸۲۴_۸۲۵، ۹۰۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۲، ۱۱۴۷، ۱۱۵۱، (ج_۳) ۱۲۹۷، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵، ۱۴۰۱_۱۴۰۳، ۱۴۰۵، ۱۴۱۹، ۱۴۹۹، ۱۵۳۰، _ ۱۵۳۱، ۱۸۳۸، ۱۸۶۸، ۱۸۷۰، ۱۸۷۸، ۱۸۸۰، ۱۸۸۲، (ج_۴) ۱۹۴۱، ۱۹۴۳، ۱۹۸۸، ۲۰۴۰، ۲۱۷۰، ۲۳۹۶، ۲۴۱۹_۲۴۲۱، ۲۴۲۳_ ۲۴۲۴، ۲۴۳۳_ ۲۴۳۷، ۲۴۵۲، ۲۴۵۴_ ۲۴۵۵، (ج_۵) ۲۵۳۷، ۲۵۶۱، ۲۵۸۰، ۲۶۱۲، ۲۶۲۲_۲۶۲۳، ۲۶۲۵، ۲۶۴۸، ۲۶۵۹_ ۲۶۶۰، ۲۶۶۲، ۲۷۳۵، ۲۷۳۹، ۲۷۴۲_ ۲۷۴۴، ۲۷۴۶_ ۲۷۴۸، ۲۷۵۰، ۲۷۵۲_ ۲۷۵۳، ۲۷۵۶، ۲۷۹۷، ۲۸۱۶، ۳۰۳۹، (ج_۶) ۳۱۲۸، ۳۱۴۳، ۳۱۵۰، ۳۱۵۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۶، ۳۶۸۶، (ج_۷) ۴۰۰۹، ۴۱۶۹، ۴۲۱۷، ۴۲۱۹_ ۴۲۲۰، ۴۲۳۲، (ج_۸) ۴۴۹۳، ۴۵۰۱، ۴۵۲۴، ۴۵۹۶، ۴۶۰۳، ۴۶۴۹، ۴۶۵۰_ ۴۶۵۱، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱، ۴۹۱۰، ۴۹۴۶، ۴۹۵۴_ ۴۹۵۵، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۰۵۱، ۵۰۵۸، ۵۱۱۹_ ۵۱۲۰، ۵۱۲۸، ۵۱۵۴، ۵۱۶۲، ۵۲۳۱_ ۵۲۳۲، ۵۲۳۸، ۵۲۴۶، ۵۲۴۹، ۵۳۲۷، ۵۳۴۰، ۵۳۶۵، ۵۳۶۶، ۵۴۰۷، ۵۴۱۳، ۵۴۱۵، ۵۵۰۷، ۵۵۱۴_ ۵۵۱۵، ۵۵۱۹_ ۵۵۲۰، ۵۵۲۳، ۵۵۲۵، ۵۵۴۱، ۵۵۴۲_ ۵۵۴۴، ۵۵۴۶، ۵۵۵۴، ۵۵۵۷، ۵۵۵۹_ ۵۵۶۰، ۵۵۶۲_ ۵۵۶۳، (ج_۱۰) ۵۶۷۷، ۵۶۹۴، ۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۶، ۶۱۳۰، ۶۲۴۲، ۶۲۶۰، ۶۲۶۶، ۶۲۷۴ .

حضرات کرام نقشبندیہ: (ج_۱۰)۵۸۹۴

حضرت امام اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں: (ج_۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۸

حضرت امام ربانی کے مکتوبات: (ج_۱)۱۱۴

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج_۵)۲۶۷۱

حضرت برھان الدین غریب نواز کے ملفوظات (انگریزی): (ج_۴)۲۵۱۲

حضرت جی صاحب پشاور والے: (ج_۶)۳۸۶۷

حضرت حاجی بہادر کوہائی: (ج_۱۰)۵۸۸۸

حضرت خواجہ نقشبندیہ اور طریقت نقشبندیہ: (ج_۱)۴۶۱

حضرت شاہ فقیر اللہ علوی کے مکتوبات: (ج_۶)۳۵۶۷

حضرت شیخ احمد سرھندی کی عربی زبان و ادب میں خدمات: (ج_۱)۱۱۴

حضرت شیخ شہباز بابا: (ج_۱۰)۵۸۸۹

حضرت عبید اللہ کے مکتوبات: (ج_۵)۲۷۳۹

حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: (ج_۱)۶۴، ۱۰۲، ۴۴۰، ۴۶۴، (ج_۲) ۱۰۳۷، (ج_۵) ۲۵۷۶، ۲۸۹۶، (ج_۹)۵۰۷۰

حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی (پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی): (ج_۱)۱۰۷_۱۰۸؛ (ج_۲)۷۵۷، (ج_۱۰)۶۲۴۴

حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا (پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، کراچی): (ح_۱۰)۶۲۴۴

حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: (ج_۱۰)۵۶۹۶

حضرت مجدد الف ثانی کا نظریۂ توحید: (ج_۳) ۱۳۷۰، ۱۵۴۱، (ج_۵)۲۹۴۵، (ج_۸)۴۹۳۵

حضرت مجدد الف ثانی کی تفسیری و فقہی خدمات ــ ایک تحقیقی اور تجزیاتی جائزہ (مقالۂ ڈاکٹریٹ): (ج_۱)۱۱۳، (ج_۲)۶۶۳، ۷۶۹، ۱۲۴۷، (ج_۱۰)۶۲۴۳، ۶۳۰۷

حضرت مجدد الف ثانی کی دینی وعلمی خدمات: (ج۔۱)۱۱۴، (ج۔۲)۹۹۸، (ج۔۶)۳۹۳۳، (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۴۰

حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت وقیومیت (پروفیسر محمد حسین آسی): (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۵

حضرت مجدد الف ثانی کے سیاسی مکتوبات: (ج۔۴)۲۰۳۴، ۲۱۵۷، ۲۱۶۷۔۲۱۶۸، ۲۱۷۰، (ج۔۵)۲۷۲۵، (ج۔۸) ۴۵۷۷، (ج۔۱۰)۶۲۹۱

حضرت مجدد الف ثانی کے عربی مکتوبات شریفہ: (ج۔۲) ۷۷۱

حضرت مجدد الف ثانی (سید زوار حسین شاہ): (ج۔۱) ۴۳۱، (ج۔۲) ۷۶۹، ۱۱۳۰، (ج۔۳) ۱۵۱۸، ۱۷۲۲، (ج۔۵) ۲۶۲۳۔ ۲۶۲۵، ۲۸۹۵، ۳۰۹۳، (ج۔۸) ۴۸۳۳، ۴۸۴۰، ۴۸۶۱۔ ۴۸۶۲، ۴۹۳۸، ۴۹۴۴۔ ۴۹۴۶، ۴۹۴۸، (ج۔۹)۵۰۲۸، (ج۔۱۰)۵۹۲۴، ۶۲۴۵

حضرت مجدد الف ثانی (نظام الدین توکلی): (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۷۶۲۔۵۷۶۳، ۶۳۵۲

حضرت مجدد الف ثانی، حالات وافکار: (ج۔۱)۶۴، ۱۰۲، ۴۶۴، (ج۔۲) ۸۵۳، ۹۹۸، (ج۔۳) ۱۵۱۱، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۱۴

حضرت مجدد الف ثانی ـــ ایک تحقیقی جائزہ: (ج۔۳) ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۲۲۷۰، ۲۴۵۴، (ج۔۵) ۲۵۷۷، (ج۔۶)۳۳۵۱، (ج۔۸)۴۶۰۰، (ج۔۱۰)۶۳۰۰

حضرت مجدد اور اُن کے ناقدین: (ج۔۱) ۸۶، ۳۱۵، (ج۔۲) ۱۱۶۷، (ج۔۳) ۱۷۲۲، ۱۸۷۳، (ج۔۴) ۲۰۵۹، ۲۲۹۰، (ج۔۵) ۲۵۶۹، ۲۶۲۴، ۲۶۹۹، ۲۸۱۵، ۳۰۹۳، (ج۔۸) ۴۵۹۹، ۴۶۱۸، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۲۷

حضرت مجدد اور تحقیقی جائزے: (ج۔۱۰)۵۶۴۹

حضرت مجدد شاہ ولی اللہ کی نظر میں: (ج۔۵)۲۸۱۷

حضرت مجدد فقہ کے افق پر: (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۱۹

حضرت مجدد کا تصور توحید (انگریزی): (ج۔۱۰)۶۲۴۳

حضرت مجدد کی دینی خدمات: (ج۔۶)۳۶۸۷

حضرت محدث سورتی اور امام احمد رضا: (ج۔۱۰)۵۸۱۱

حضرت مولانا محمد یعقوب بگھاری، سوانح، ملفوظات و مکتوبات: (ج۔۶)۳۷۸۳، ۳۷۹۹

حضور امام ربانی کا لقب، مجدد الف ثانی: (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۳

حضور جی: (ج۔۶)۳۷۹۹

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر: (ج۔۲)۱۲۴۵

حضور مجدد الف ثانی کی شان قیومیت: (ج۔۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۴

حضورِ قلب: (ج۔۲)۱۲۶۷

الحطۃ فی ذکر الصحاح الستۃ: (ج۔۹)۵۰۴۰

حفاظتِ ناموسِ حضور کی اہمیت: (ج۔۸)۴۹۴۸

الحق المبین فی رد الوھابین: (ج۔۱۰)۶۱۰۹

حق نبی: (ج۔۶)۳۹۳۰

حقانیتِ اسلام: (ج۔۲)۱۲۴۶

حقائق التفسیر: (ج۔۷)۴۰۶۹

حقائق خطیرۃ عن الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۵)۲۶۹۸

حقائق نادرہ: (ج۔۳)۱۳۹۵، (ج۔۹)۵۱۲۸

حقیقت وحدۃ الوجود: (ج۔۲)۹۸۹

حقیقۃ البیان فی جواب السائل عن الدلیل: (ج۔۶)۳۱۹۸

حکایات مثنوی مولانا روم: (ج۔۶) ۳۶۲۸

حکایت الصالحین: (ج۔۶) ۳۷۸۷

حکم: (ج۔۶) ۳۶۰۳

حل العقود فی طلاق السود (جعفر بوبکانی): (ج۔۶) ۳۴۱۶

حل المغلقات فی الرد علی اہل الضلالات: (ج۔۱) ۸۵، (ج۔۵) ۲۸۰۲

حلاوۃ الفہم فی ذکر جوامع الکلم: (ج۔۶) ۳۶۵۴

حلیۃ النبی ﷺ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۶

حلیدین (مجموعہ غزلیات): (ج۔۶) ۳۷۲۲_۳۷۲۳، (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء: (ج۔۲) ۵۲۲، ۵۲۸_۵۲۹، ۵۳۱، ۵۳۷، ۵۴۱_۵۴۲، ۵۴۴، ۵۵۷، ۵۷۵_۵۷۶، ۵۸۷، ۵۹۹، ۶۱۴، ۶۳۸، ۶۴۰_۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۷، ۶۵۰، ۶۵۴، ۶۵۸، ۱۱۲۹، (ج۔۷) ۴۰۱۷، ۴۰۲۳، ۴۰۳۱_۴۰۳۲، ۴۲۸۶، ۴۳۰۰، ۴۳۱۸، ۴۳۲۰، ۴۳۵۲، (ج۔۹) ۵۳۱۲

حلیۃ البشر: (ج۔۶) ۳۲۳۲، ۳۲۳۴، ۳۲۳۸_۳۲۳۹

الحلیۃ (ابونعیم): (ج۔۷) ۴۳۰۲، ۴۳۲۵، ۴۳۳۲، ۴۳۳۴، ۴۳۵۱، ۴۳۵۳، ۴۳۵۶، ۴۳۹۹_۴۴۰۰، ۴۴۰۳، ۴۴۰۸

حواشی بر رسالہ اعتراضات شیخ عبدالحق دہلوی (فارسی): (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۸۱۲

حواشی علیٰ شرح المقاصد: (ج۔۹) ۵۰۵۵

حیات اعلیٰ حضرت: (ج۔۱) ۴۶، ۵۷، (ج۔۵) ۲۵۵۶

حیات القلوب فی زیارۃ المحبوب: (ج۔۶) ۳۶۵۳

حیات باقیہ (محمد صدیق ہدایت): (ج۔۱) ۴۲۸، (ج۔۴) ۲۴۳۶

حیات باقی: (ج۔۶) ۳۴۴۴

حیات سعیدیہ (سید زوار حسین شاہ): (ج۔۱۰) ۶۰۵۷

حیات شیخ عبدالحق: (ج۔۲) ۷۷۱، ۸۰۱، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۴۰۴، (ج۔۴) ۲۴۳۲_۲۴۳۳، ۲۴۴۳، ۲۴۵۴، (ج۔۵) ۲۶۵۲، (ج۔۶) ۳۳۵۱، (ج۔۹) ۵۱۵۷، ۵۳۳۷، ۵۳۴۰، ۵۳۴۲، ۵۳۵۱_۵۳۵۳، ۵۳۵۷، ۵۳۶۰_۵۳۶۱

حیات مجدد (پروفیسر محمد فرمان): (ج۔۱) ۳۳۴، ۳۵۲، (ج۔۲) ۸۰۱، (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۵) ۲۶۲۵، (ج۔۹) ۵۱۵۴_۵۱۵۸، ۵۱۶۰، ۵۱۶۳، ۵۲۵۴، ۵۳۶۳، ۵۵۱۷، ۵۵۲۲، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۱۵۳، ۵۳۶۱، (ج۔۱۰) ۶۱۱۴، ۶۲۴۳، ۶۳۱۲

حیات محی الدین غزنوی: (ج۔۶) ۳۸۲۴

حیات و آثار میاں محمد عمر چمکنی: (ج۔۱۰) ۵۸۸۶، ۵۸۸۸_۵۸۹۰، ۵۸۹۲

حیات و تعلیمات مجدد الف ثانی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۴۱

حیاۃ الدکتور محمد مسعود احمد: (ج۔۶) ۳۳۹۳

حیاۃ القلوب: (ج۔۵) ۳۰۱۴_۳۰۱۷

خ

ختم نبوت: (ج۔۳) ۱۵۶۳، (ج۔۴) ۱۹۱۷

خریطۂ جواہر: (ج۔۴) ۲۴۵۶، (ج۔۶) ۳۳۵۶

خزانۃ الروایات: (ج۔۲) ۷۰۵، (ج۔۳) ۱۶۰۶، ۱۷۶۱

خزائن العرفان: (ج۔۱) ۲۲۱، (ج۔۹) ۵۱۹۹

خزائن نبوت: (ج۔۸) ۴۹۷۴، ۴۹۷۸

خزینت الاعمال: (ج۔۶) ۳۳۹۲

خزینۂ کرم: (ج۔۶) ۳۷۹۹

خزینۂ معرفت: (ج۔۳) ۱۸۷۳، (ج۔۶) ۳۴۷۹_ ۳۴۸۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۵

خزینۃ الاسرار: (ج۔۶) ۳۸۹۶، ۳۸۹۸

خزینۃ الاصفیاء: (ج۔۱) ۳۱۰، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۷۰، ۱۳۹۸، (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۱۵۶، ۲۱۶۶، ۲۱۶۹_ ۲۱۷۰، ۲۲۰۱، ۲۲۸۱، (ج۔۵) ۲۷۵۸، ۲۸۹۵، (ج۔۶) ۳۳۹۴، ۳۸۳۳_ ۳۸۳۴، ۳۸۶۱، ۳۸۶۳_ ۳۸۶۴، ۳۸۹۸، ۳۹۰۰، ۳۹۰۲، ۳۹۱۰، (ج۔۸) ۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، ۵۱۵۹، ۵۲۲۲، ۵۳۲۶، ۵۴۹۹، ۵۵۱۶، ۵۵۲۲، ۵۵۲۴، ۵۵۳۰_ ۵۵۳۱، ۵۵۵۹_ ۵۵۶۲، ۵۵۶۵، (ج۔۱۰) ۵۷۶۷، ۵۷۶۹، ۵۷۷۱، ۵۷۷۳، ۵۸۸۶، ۵۹۵۹، ۶۰۴۰

خزینۃ المعارف: (ج۔۱) ۴۶۲، (ج۔۵) ۲۶۶۱، (ج۔۶) ۳۶۸۶

الخصائص الکبریٰ: (ج۔۲) ۶۰۴، ۶۱۸، ۶۲۲، ۶۲۹، ۶۵۵، ۶۵۸، ۶۶۰، ۶۶۲، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۳۷۴، ۴۳۸۸، ۴۴۱۰

خصائص کنز الایمان: (ج۔۲) ۱۲۴۶

خصائص نسائی: (ج۔۵) ۲۸۸۳

خطبات سندھی: (ج۔۶) ۳۴۹۳

خطبات غفاریہ (حبیب الرحمٰن گبول): (ج۔۱۰) ۶۰۴۸

خطبات آل انڈیا سنی کانفرنس: (ج۔۵) ۲۵۷۵

خطبۂ شوقیہ: (ج۔۹) ۵۱۵۸

خطوطِ اقبال: (ج۔۵) ۳۰۱۱_ ۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۴۱

خفتگانِ خاک گجرات: (ج۔۶) ۳۷۹۹

خلاصہ: (ج۔۲) ۷۰۵، ۷۰۸، (ج۔۳) ۱۷۰۵، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱

خلاصہ تفسیر احمدی: (ج۔۱۰) ۵۸۸۳

خلاصہ کیدانی: (ج۔۵) ۲۶۶۳، (ج۔۶) ۳۸۹۸، (ج۔۸) ۴۶۳۸_ ۴۶۳۹، ۴۶۴۳، ۴۶۴۵_ ۴۶۴۶، (ج۔۹) ۵۵۴۴

خلاصہ مزیل الشبہات فی تبطیل الاشارۃ: (ج۔۸) ۴۶۴۵

خلاصہ مکتوبات ربانی: (ج۔۸) ۴۵۷۷

خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر: (ج۔۵) ۲۸۱۷، (ج۔۱۰) ۵۷۵۹

خلاصۃ الجواہر العلویہ: (ج۔۵) ۲۶۸۵

خلاصۃ الفتاوٰی: (ج۔۸) ۴۶۳۳، ۴۶۳۷، ۴۶۴۰،

خلاصۃ المعارف فی اسرار العقائد: (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۹، ۲۶۴۲، ۲۶۵۰، (ج۔۱۰) ۵۶۲۵، ۶۲۴۲

خلاصۃ الوفاء فی اخبار المصطفیٰ: (ج۔۵) ۲۶۹۸

خلافت پاکستان: (ج۔۶) ۳۷۹۲

خلفائے اعلیٰ حضرت: (ج۔۵) ۲۸۹۵

خلفائے مسعود ملت: (ج۔۶) ۳۳۷۷

خلفائے مظہری: (ج۔۱) ۳۳۷۷

خلویستبت حدیث: (عبد القادر خان خٹک): (ج۔۱۰) ۵۸۷۱

خم خانۂ تصوف: (ج۔۳)۱۴۰۲

خمیس (علامہ دیار بکری): (ج۔۲)۵۹۱

خواجہ باقی باللہ: (ج۔۱)۳۱۰

خواجہ باقی باللہ کی علمی اور متصوفانہ خدمات: (ج۔۱)۱۱۴

خواجہ بہاء الدین نقشبند (تالیف شیخ محمد شعیب): (ج۔۷) ۴۰۳۳

خواجہ عزیزاں، رسالہ (خواجہ علی رامیتنی): (ج۔۱۰)۶۱۴۰، ۶۱۵۴

خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات: (ج۔۵)۲۷۶۱

خوارق العادات: (ج۔۱۰)۵۸۹۰

خوب و ناخوب: (ج۔۱)۵۵، ۱۰۷، (ج۔۵)۲۹۱۱

خودنوشت احوال مشمولہ سرو آزاد: (ج۔۴)۲۴۶۵

خود نوشت حالات از شیخ محمد معصوم ضیائے نقشبندی: (ج۔۶)۳۲۶۷

خودنوشت حالات بری سفینۂ خوش گو: (ج۔۴)۲۴۶۵

خیابان سرہندی: (ج۔۶)۳۶۱۵

خیال بخاری: (ج۔۱۰)۵۸۹۲

خیالی: (ج۔۱)۴۵۴، (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۱

خیر البیان: (ج۔۱)۴۵۹

الخیر الدال وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال: (ج۔۲) ۱۱۹۱

خیر المقال فی رویت الہلال: (ج۔۱)۴۵۸

الخیرات الحسان فی مناقب النعمان: (ج۔۲) ۷۲۷، (ج۔۵)۳۰۷۳

د

دار المعارف: (ج۔۵)۲۶۲۲

دارقطنی: (ج۔۴) ۲۲۹۷، ۲۳۳۰، (ج۔۷) ۴۳۵۳، ۴۳۶۳

دارمی: (ج۔۲)۵۴۶، ۵۴۹، ۵۸۱، ۶۲۹، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۲، ۸۸۶، (ج۔۳)۱۴۱۶، (ج۔۵)۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۰۵۱، ۴۳۵۵، ۴۳۴۳، ۴۳۷۳، ۴۳۸۵، ۴۳۸۹، ۴۳۹۳، ۴۴۰۰۔ ۴۴۰۱، ۴۴۰۷، (ج۔۸) ۴۶۳۴۔ ۴۶۳۵

داستان اردو: (ج۔۶)۳۷۸۱، (ج۔۱۰)۵۸۰۸

دافع طاعون: (ج۔۶)۳۶۲۴

دام حق (فارسی منظوم بجواب نام حق): (ج۔۵)۲۶۶۳، ۲۷۶۲

دائرۃ المعارف الاسلامیہ: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۵)۲۸۴۳، (ج۔۶)۳۲۰۱، ۳۲۱۸، ۳۴۱۲، ۳۶۸۵، (ج۔۷)۴۰۰۸، ۴۲۷۷، (ج۔۸) ۴۵۰۰، (ج۔۹) ۵۱۸۵، ۵۱۹۶، (ج۔۱۰)۵۶۶۷

دائرۃ المعارف عثمانیہ: (ج۔۵)۲۸۵۷

دآدم درخانی قصہ: (ج۔۱۰)۵۸۷۱

دبستانِ مذاہب: (ن۔۴) ۲۴۵۵، (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۵

دپشتو قبیلو منر شجری (شحرین خان ناصر): (ج۔۱۰)۵۹۵۹

الدراسات اسلامیہ: (ج۔۸)۴۸۱۱

الدر الثمن: (ج۔۶)۳۹:۳۲

الدر الثمین: (ج۔۱۰)۵۷۶۲

الدر الفائق فی الصلوٰۃ علیٰ اشرف الخلائق: (ج۔۶)۳۱۷۲
الدرر المنتقی شرح ملتقی الابحر: (ج۔۶)۳۱۶۱
الدر المختار فی شرح تنویر الابصار: (ج۔۶)۳۱۶۱
در المعارف: (ج۔۲) ۷۳۳، (ج۔۴) ۲۴۹۱۔ ۲۴۹۲، (ج۔۵)۲۶۵۰، (ج۔۶)۳۳۵۸، ۳۳۹۴
در المعرفت: (ج۔۹)۵۱۵۱، ۵۲۵۳، ۵۴۹۰
الدر المکنونات النفیسہ: (ج۔۱۰)۶۱۶۳
در بیان کسب سلوک و بیان: (ج۔۶)۳۸۶۲
در دفع اعتراضات: (ج۔۹)۵۳۰۸، ۵۳۱۲
دُرِّ لاثانی (خلاصہ مکتوبات امام ربانی): (ج۔۵)۲۶۴۶، ۲۷۲۵، (ج۔۸) ۴۵۷۷، (ج۔۹) ۵۲۵۴، (ج۔۱۰) ۶۲۱۹
در مختار: (ج۔۶) ۳۱۶۱، ۳۱۷۷، ۳۲۲۸، ۳۲۳۵، ۳۲۳۷، (ج۔۸)۴۶۳۳، ۴۶۴۷۔ ۴۶۴۸
دراسات اللبیب: (ج۔۵)۲۸۱۷، (ج۔۶)۳۴۴۷
دراسۃ تحلیلیہ ونقدیۃ لمکتوبات الشیخ احمد السرہندی العربیہ: (ج۔۷)۴۴۶۶، ۴۴۷۴
در المعارف: (ج۔۱۰)۶۳۴۸، ۶۳۸۱
دربار اکبری: (ج۔۳)۱۷۲۳، (ج۔۹) ۵۱۵۵، ۵۱۶۰، (ج۔۱۰)۵۶۵۰
دربار ملی: (ج۔۴)۲۴۵۵
درجات الابرار: (ج۔۱)۸۴، (ج۔۵)۲۷۴۲۔ ۲۷۴۳، (ج۔۸)۴۹۱۰
درجات الاولیاء: (ج۔۵)۲۷۴۳
درحمان بابا دَ ژوند مختصر حالات: (ج۔۶)۳۸۵۶
الدرر السنیہ: (ج۔۶)۳۷۰۶
الدرر الفرید الجامع لمتفرقات الاسانید: (ج۔۶)۳۲۰۱
الدرر المکنونات النفیسہ: (ج۔۱)۹۴، ۹۹، (ج۔۲)۶۰۴، ۶۵۵، (ج۔۵)۲۶۲۰، ۲۶۷۷، ۲۷۰۱، ۲۷۰۳، ۲۸۱۶۔ ۲۸۱۸، ۲۸۴۲، (ج۔۸)۴۸۳۳، (ج۔۹)۵۰۷۰
الدرر المنتثرہ: (ج۔۲)۵۸۲، ۵۸۶، ۶۱۰، ۶۱۷۔ ۶۱۸، ۶۴۶، ۶۴۸، ۶۵۰، ۶۵۷۔ ۶۵۸، ۹۲۶، (ج۔۵) ۳۰۱۷، (ج۔۷) ۴۳۰۷، ۴۳۲۱، ۴۳۵۰۔ ۴۳۵۱، ۴۳۵۳، ۴۳۶۲، ۴۳۶۵، ۴۴۱۱
الدرر المنثور فی التفسیر انماثور: (ج۔۲)۵۶۱، ۵۷۰، ۶۴۴
الدرر المنظم: (ج۔۵)۲۶۹۵
الدرر المنیفۃ فی الرد علی ابن ابی شیبۃ عن الامام ابی حنیفہ: (ج۔۲)۷۲۷
درس توحید: (ج۔۶)۳۵۰۶
درس حدیث: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۰
درس قرآن: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۰
درس نظامی: (ج۔۱۰)۵۸۳۴
درود منظوم: (ج۔۶)۳۸۹۹
درۃ التاج جاوید وجمع کمالات نبوت: (ج۔۹)۵۵۳۲
الدرۃ الثمینۃ المعروف بالرسالۃ الخاقانیہ: (ج۔۵)۲۷۵۸
دس ولی: (ج۔۳)۱۳۶۹، (ج۔۴)۲۱۷۰
دعائے ختم القرآن (عربی): (ج۔۶)۳۵۰۳
دعائے خلیل: (ج۔۶)۳۶۴۰
دعوت اسلام: (ج۔۴)۲۱۷۰
دعوت نامے: (ج۔۱)۱۰۹

دعوۃ اسلام آباد: (ج۔۲)۸۰۴

دلائل التجدید (عبد الحکیم سیالکوٹی): (ج۔۱) ۸۶، ۳۷۶، (ج۔۲)۱۰۹۸، ۱۱۱۲، (ج۔۵)۲۷۹۸، (ج۔۸)۴۵۲۹

دلائل الخیرات: (ج۔۶) ۳۳۶۶، ۳۴۱۰، ۳۶۰۸، ۳۷۸۳، (ج۔۱۰)۵۹۰۵

دلائل النبوۃ: (ج۔۲) ۷۱۲، (ج۔۵) ۲۹۲۱، (ج۔۷) ۴۰۸۵، ۴۱۰۰

دلائل الیمن والبرکات: (ج۔۶)۳۱۷۵

دلائل انارۃ: (ج۔۸)۴۶۴۷

دلائل (ابونعیم): (ج۔۵)۲۹۲۰

دلی کے بائیس خواجہ: (ج۔۶)۳۳۹۴

دلیل الرسائل الجامعیۃ فی المملکۃ العربیۃ السعودیۃ: (ج۔۶) ۳۲۰۱، ۳۲۱۸

دلیل العارفین: (ج۔۳)۱۸۷۲

دوقومی نظریہ حضرت مجدد الف ثانی اور علامہ اقبال کی نظر میں: (ج۔۹)۵۵۷۷

دور حاضر میں عشق رسول کے تقاضے: (ج۔۶)۳۹۳۳

الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ: (ج۔۱) ۱۰۷، (ج۔۵) ۲۶۹۵، ۲۹۱۹-۲۹۲۱، (ج۔۶)۳۲۰۰

دہلی زیارات وآثار اور ملہمات: (ج۔۴)۲۵۱۲

دہلی میں دفن خزینے: (ج۔۴)۲۴۷۴، (ج۔۶)۳۳۵۸

دیار پورب میں علم وعلما: (ج۔۶)۳۴۰۸

دیا کرن: (ج۔۱۰)۵۹۸۶

دیباچہ مثنوی اسرار خودی: (ج۔۵)۳۰۱۱

الدین الالٰہی الاکبری: (ج۔۸)۴۸۳۲

دین الٰہی اور اسکا پس منظر: (ج۔۳)۱۵۱۱، (ج۔۴)۱۹۱۷، ۲۰۳۷، ۲۵۱۵، (ج۔۵) ۲۵۷۵، ۲۶۴۸، (ج۔۸) ۴۹۳۶-۴۹۳۷، (ج۔۹)۵۰۷۰، (ج۔۱۰)۵۶۵۱

دین فطرت: (ج۔۱)۴۶۴

دیوان ابن فارض: (ج۔۶)۳۲۲۸

دیوان الروح والرواح وعنوان الروح والارواح: (ج۔۶) ۳۱۷۲

دیوان حافظ: (ج۔۱۰)۵۸۰۳، ۵۸۶۶

دیوان حدیقہ خٹک: (ن۔۱۰)۵۸۷۱

دیوان حضوری: (ج۔۱۰)۶۰۳۸

دیوان روشن: (ج۔۶)۳۴۹۰، ۳۴۹۳، ۳۷۰۱، ۳۷۰۳

دیوان شاکر (پشتو) خطی: (ج۔۱۰)۵۹۳۴

دیوان شاکر (فارسی۔عربی۔اردو): (ج۔۱۰)۵۹۳۳

دیوان شعر (فارسی): (ج۔۹)۵۰۵۳

دیوان شعر: (ج۔۶)۳۱۸۵، (ج۔۹)۵۰۳۵

دیوان شمس: (ج۔۱۰)۵۷۸۵

دیوان شیخ عبدالاحد: (ج۔۸)۴۶۱۳

دیوان عبدالرحمٰن بابا: (ج۔۶)۳۸۵۶

دیوان فارسی کا دیباچہ: (ج۔۴)۲۴۶۵

دیوان فارسی (شیخ خالد نقشبندی): (ج۔۱) ۱۱۲، (ج۔۱۰) ۶۳۷۹

دیوان مظہر (فارسی): (ج۔۴)۲۴۶۵، (ج۔۶)۳۳۵۵

دیوان ملا جان محمد کاکڑ (قلمی): (ج۔۶)۳۷۲۲

دیوان میرزا مظہر جان جاناں مع خریطۂ جواہر: (ج۔۱۰)

۶۱۳۲

دیوان واحدی: (ج۔۶)۳۵۲۲

دُرِ لاثانی (خلاصہ مکتوبات امام ربانی): (ج۔۱۰)۶۱۶۳

ڈ

ڈاڑھی کی اسلامی حیثیت: (ج۔۶)۳۸۴۶

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے خطوط ڈاکٹر محمد مسعود کے نام: (ج۔۶)۳۷۰۸

ڈاکٹر محمد اقبال و حضرت مجدد الف ثانی افکار و نظریات: (ج۔۱)۴۵۹، (ج۔۱۰)۶۲۴۳، ۶۳۰۸

ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی نثر نگاری: (ج۔۱)۱۰۷

ڈاکٹر محمود الحسن عارف: (ج۔۶)۳۴۱۲

ڈاکٹر مسعود احمد کی ادبی، دینی و علمی خدمات: (ج۔۱)۵۶، ۱۰۷

ڈاکٹر مسعود احمد کی نثر اُردو: (ج۔۱)۵۶

ذ

ذخیرہ الخوانین (شیخ فرید بھکری): (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۴)۲۴۳۲، (ج۔۹)۵۰۶۳، (ج۔۱۰)۵۷۰۷

الذخیرۃ الماحیۃ للآثام فی الصلاۃ علی خیر الانام: (ج۔۴) ۲۳۱۳، (ج۔۶)۳۱۷۲

ذخیرۃ الملوک: (ج۔۱۰)۵۸۲۶، ۵۸۳۳

ذریعۃ الوصول الیٰ جناب الرسول: (ج۔۶)۳۶۵۴

ذکر اقبال: (ج۔۵)۲۹۲۶، ۳۰۴۱

الذکر الشریف در اثبات مولا منیف (فارسی): (ج۔۱۰)۶۱۰۹

ذکر العارفین: (ج۔۷)۴۱۰۰، (ج۔۱۰)۵۹۹۴

ذکر اللہ: (ج۔۶)۳۵۴۹

ذکر الملوک: (ج۔۹)۵۰۳۶

ذکر جمیل: (ج۔۶)۳۵۹۶

ذکر حسین: (ج۔۶)۳۵۹۶

ذکر خیر حضرت قصوری: (ج۔۱۰)۶۰۳۸

ذکر مبارک: (ج۔۱۰)۵۸۱۳

ذکر مجدد: (ج۔۱)۴۵۹

ذو علل متناہیہ: (ج۔۵)۲۸۸۳

الذھبی: (ج۔۴)۲۳۳۰

ذیل الجواہر: (ج۔۳)۱۶۶۲

ذیل الرشحات: (ج۔۱) ۹۴، (ج۔۴) ۲۱۸۴، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

ذیل المشرع الروی فی مناقب باعلوی: (ج۔۶)۳۲۱۴

ذیل جامع صغیر: (ج۔۵)۲۸۸۳

ذیل سلک الدرر: (ج۔۶)۳۱۸۹

الذیل علی طبقات الفقہاء الشافعیہ لابن الصلاح: (ج۔۵) ۲۸۵۷

ر

رابطہ شیخ (پیر عبداللطیف نقشبندی): (ج۔۲)۱۲۴۷

راحت القلوب (سندھی): (ج۔۶)۳۵۲۷

راحت القلوب (فارسی): (ج۔۶)۳۴۲۱، ۳۵۲۷

راحۃ المخلصین (سندھی): (ج۔۶)۳۵۲۳

رامائن: (ج-۴) ۲۱۰۱، (ج-۱۰) ۵۰۴۶

راہ حق: (ج-۶) ۳۵۹۶

راہ سنت: (ج-۲) ۷۳۲

راہ عقیدت: (ج-۶) ۳۵۹۶

راہ ہدایت: (ج-۱) ۶۵

الربا: (ج-۲) ۷۳۶

رباط مظہریہ: (ج-۱۰) ۶۱۱۲

رباعیات خواجہ خورد: (ج-۹) ۵۳۳۵

ربا اور بینک کا سود: (ج-۲) ۷۳۶

ربا اور مضاربت: (ج-۲) ۷۳۶

ربا، انٹرسٹ، سود: (ج-۲) ۷۳۶

رحلۃ السالم: (ج-۶) ۳۱۹۸، ۳۷۶۱

رحمت عالم اور عالم بیداری میں معراج: (ج-۵) ۲۹۱۱

الرحمۃ الحابطہ فی ذکر اسم ذات و الرابطہ: (ج-۱) ۹۹، (ج-۴) ۲۵۰۹، (ج-۵) ۲۶۷۷

رحمۃ للعالمین: (ج-۱) ۲۱۹، (ج-۸) ۴۸۴۰

رحمۃ للعالمین کی دعائیں: (ج-۶) ۳۶۸۳، ۳۹۳۰

رد اعتراضات: (ج-۴) ۲۴۹۰

الرد المتین علی منتقص العارف محی الدین: (ج-۴) ۱۹۴۰

رد المحتار: (ج-۷) ۴۳۵۲، (ج-۸) ۴۶۳۳، ۴۶۴۵-۴۶۴۶

رد المحتار علی الدر المختار: (ج-۲) ۷۰۸، ۷۳۱، ۷۳۵، ۷۳۷، ۱۱۵۸

رد روافض (قاضی ثناء اللہ پانی پتی): (ج-۹) ۵۲۵۲

رد روافض (مجدد الف ثانی): (ج-۱) ۴۲۷، (ج-۳) ۱۲۹۵، ۱۳۹۶، ۱۴۹۱، ۱۵۷۳، ۱۵۹۲، ۱۸۷۳، (ج-۴) ۱۹۱۴، ۱۹۴۱، ۱۹۷۲، ۲۰۲۲، ۲۰۳۳، (ج-۵) ۲۵۵۲، ۲۵۷۰، ۲۵۸۲-۲۵۸۳، ۲۵۸۹، ۲۵۹۲، ۲۵۹۹-۲۶۰۰، ۲۶۲۰، ۲۶۲۴، ۲۶۳۳، ۲۸۰۹، ۲۹۱۷، (ج-۶) ۳۱۴۲، ۳۴۴۳، (ج-۷) ۴۰۰۹، ۴۴۲۹، (ج-۸) ۴۵۰۰، ۴۵۱۲-۴۵۱۳، ۴۵۷۸، ۴۶۱۷، (ج-۹) ۵۰۱۲، ۵۰۲۶، ۵۱۵۰، ۵۱۸۸، ۵۲۲۸، ۵۲۴۹-۵۲۵۰، ۵۳۲۶، ۵۳۷۸، ۵۳۸۲، ۵۳۸۶-۵۳۸۷، ۵۴۱۲-۵۴۱۴، ۵۱۵۰، ۵۳۸۳، ۵۳۸۷، ۵۳۹۱، ۵۴۱۵، ۵۴۹۹، ۵۵۱۰، ۵۵۲۲، (ج-۱۰) ۵۶۵۵، ۵۶۶۸، ۵۶۷۰، ۵۷۶۲، ۶۱۱۰، ۶۱۶۲، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴، ۶۱۹۰

ردشبہات پلید نابکار (فارسی): (ج-۱) ۸۶، (ج-۵) ۲۸۱۱، (ج-۶) ۳۴۴۴

رد مخالفین حضرت مجدد (فارسی): (ج-۱) ۸۵-۸۶، (ج-۴) ۲۴۹۱، (ج-۵) ۲۸۰۲، ۲۸۰۸

رزم نامہ (مترجم مقدمہ مہابھارت): (ج-۱۰) ۵۷۰۱

الرسالتین: (ج-۶) ۳۴۴۳

رسالہ ابحاث: (ج-۴) ۲۴۴۳، ۲۴۴۵

رسالہ اثبات الواجب: (ج-۵) ۲۵۹۲

رسالہ احقاق: (ج-۱) ۸۶، (ج-۵) ۲۸۱۰، (ج-۹) ۵۳۴۹

رسالہ احوال بزرگان: (ج-۹) ۵۲۲۱

رسالہ اذان: (ج-۲) ۷۳۳

رسالہ اذکار: (ج-۴) ۲۴۹۰، (ج-۶) ۳۳۵۸

رسالہ استقلال (لاہور): (ج-۴) ۲۵۱۲

رسالہ اسرار الفقراء: (ج۔۸) ۴۹۷۴، ۴۹۸۱
رسالہ اسرار طریقت: (ج۔۱۰) ۵۸۷۳_۵۸۷۴
رسالہ اعتراضات بر حضرت مجدد: (ج۔۵) ۲۷۹۵
رسالہ اعتراضات شیخ عبد الحق: (ج۔۵) ۲۸۱۱
رسالہ القشیریہ: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۴۳، ۶۴۰، ۷۳۷، ۷۸۹، ۸۰۳، (ج۔۳) ۱۵۶۷، (ج۔۵) ۲۶۷۴، (ج۔۷) ۴۳۲۷، ۴۳۴۸، ۴۴۴۲
رسالہ امام اجل تورپشتی: (ج۔۳) ۱۷۶۰
رسالہ اُنسیہ (یعقوب چرخی): (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۷۰، ۶۴۰، (ج۔۱۰) ۶۱۰۱
رسالہ انفاس نفسیہ (خواجہ عبید اللہ احرار): (ج۔۱۰) ۶۱۵۴، ۶۱۶۱
رسالہ بسلسلہ حدیث: (ج۔۹) ۵۱۵۰
رسالہ بلاغت: (ج۔۶) ۳۳۶۱
رسالہ بھاویہ: (ج۔۷) ۴۰۳۳
رسالہ تاجیہ: (ج۔۶) ۳۴۴۵
رسالہ تحفہ حنیفہ: (ج۔۱۰) ۵۸۰۶
رسالہ تحقیق قیومیت: (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۹) ۵۵۰۷
رسالہ تصحیح الاشارۃ تبصرتج البشارہ: (ج۔۱۰) ۶۳۷۸، ۶۴۱۱
رسالہ تصوف طریقہ نقشبندیہ (شاہ غلام علی): (ج۔۶) ۳۴۴۳
رسالہ تعین و لاتعین: (ج۔۴) ۲۰۳۳، (ج۔۵) ۲۵۷۰، ۲۹۱۷، (ج۔۸) ۴۵۷۹، (ج۔۹) ۵۵۰۷
رسالہ تہلیلیہ: (ج۔۱) ۴۲۷، ۴۳۲، ۴۶۲، (ج۔۲) ۵۰۸، ۷۴۷، (ج۔۳) ۱۲۹۵، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۲۲۷۱، (ج۔۵)
۲۵۸۲_۲۵۸۳، ۲۵۸۷، ۲۵۹۲، ۲۵۹۸_۲۶۰۰، ۲۶۰۶، ۲۶۲۶، ۲۹۱۷، (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۴۳، ۳۶۰۲، ۳۶۸۶، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۵۷۷، (ج۔۹) ۵۵۰۳، ۵۰۲۶، ۵۰۲۹، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۱۶۷، ۵۱۷۰، ۵۱۸۸، ۵۲۴۹_۵۲۵۰، ۵۳۸۷، ۵۴۹۰، ۵۵۰۲_۵۵۰۳، ۵۵۲۲، (ج۔۱۰) ۵۶۶۲، ۵۶۶۷، ۵۶۷۰، ۶۱۱۷، ۶۱۱۹، ۶۱۶۲، ۶۱۶۴، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴، ۶۱۸۸، ۶۲۳۳
رسالہ جذب و سلوک: (ج۔۴) ۲۰۳۳، (ج۔۵) ۲۵۷۰، ۲۵۹۲، ۲۹۱۷، (ج۔۸) ۴۵۷۹
رسالہ چہار چمن: (ج۔۶) ۳۴۴۳
رسالہ چہل حدیث: (ج۔۲) ۷۵۲
رسالہ حاشیہ میر زاہد ملا جلال: (ج۔۶) ۳۳۶۱
رسالہ حالات خواجگانِ نقشبند: (ج۔۵) ۲۵۹۲، (ج۔۸) ۴۵۷۹
رسالہ حضرات نقشبندیہ (تلخیص): (ج۔۱۰) ۵۸۳۳
رسالہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی: (ج۔۹) ۵۳۵۷
رسالہ حضرت مجدد دراسم ذات: (ج۔۹) ۵۵۲۲
رسالہ حقیقت مجددیہ: (خ۔۹) ۵۵۵۸
رسالہ خلت: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۸۰۹،
رسالہ خواجہ عبید اللہ احرار: (ج۔۱۰) ۶۱۴۰
رسالہ خواجہ عزیزاں (خوجہ علی رامینی): (ج۔۱۰) ۶۱۴۴
رسالہ خواجہ علی متقی: (ج۔۱) ۱۱۰، (ج۔۱۰) ۶۴۱۱
رسالہ دراعتراضات (فارسی): (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۸۱۱
رسالہ در بیان طریقت حضرت خواجگان: (ج۔۸) ۴۵۸۰،
رسالہ در بیان مسئلہ وحدۃ الوجود: (ج۔۴) ۲۰۳۳، (ج۔۵)

۲۵۷۰، ۲۹۱۷، (ج۔۸) ۴۵۷۹، ۴۹۷۴۔ ۴۹۷۵، (ج۔۹) ۵۵۰۷
رسالہ در تحقیق وحدت الوجود والشہود: (ج۔۶) ۳۶۰۵
رسالہ در جواب شبہات بر کلام امام ربانی: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۸۱۰
رسالہ در جواب مخالفین حضرت، مجدد: (ج۔۵) ۲۸۰۰۔ ۲۸۰۱
رسالہ در حرمت دخان: (ج۔۶) ۳۵۲۲
رسالہ در دفع اعتراضات در کلام حضرت مجدد (شاہ غلام علی): (ج۔۴) ۲۴۵۶، (ج۔۸) ۴۶۰۳
رسالہ در دفع اعتراضات (شاہ عبد العزیز): (ج۔۹) ۵۲۶۶، ۵۳۵۱
رسالہ در ردِ حضرت مجدد: (ج۔۵) ۲۸۱۱
رسالہ در ردِ معترضین حضرت مجدد: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۸۰۳
رسالہ در سلوک نقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۶۰۵
رسالہ در طریقہ خواجگان: (ج۔۹) ۵۲۳۵
رسالہ در عدالت امیر معاویۃ: (ج۔۶) ۳۵۲۲
رسالہ در علم توقیت: (ج۔۶) ۳۳۷۷
رسالہ در علم حدیث: (ج۔۴) ۲۰۳۳، (ج۔۵) ۲۵۷۰
رسالہ در قواعد تجوید: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۴،
رسالہ در کسب وتوکل: (ج۔۶) ۳۵۲۲
رسالہ در مسئلہ وحدت (شیخ عبد الحق محدث دہلوی): (ج۔۶) ۳۳۵۲
رسالہ در مسئلہ سماع: (ج۔۶) ۳۳۵۲
رسالہ در منکران حضرت مجدد: (ج۔۱) ۸۶
رسالہ دیگر در رد مخالفین حضرت مجدد (فارسی): (ج۔۵) ۲۸۱۳، ۲۸۱۸
رسالہ ذبح علی القبور: (ج۔۱۰) ۵۸۸۳
رسالہ ردِ بدعات: (ج۔۲) ۷۳۲
رسالہ ردِ عقائد نجدیہ: (ج۔۶) ۳۶۲۲
رسالہ ردِ منکران حضرت مجدد (خواجہ صبغۃ اللہ بن خواجہ محمد معصوم): (ج۔۱) ۸۵، (ج۔۵) ۲۸۰۲
رسالہ ردِ منکران حضرت مجدد (شیخ محمد مراد تنگ کشمیر بن ملا مفتی محمد طاہر): (ج۔۵) ۲۸۰۶
رسالہ رفع التردد: (ج۔۸) ۴۶۴۲، ۴۶۴۴۔ ۴۶۴۷
رسالہ سروش: (ج۔۶) ۳۷۰۳
رسالہ سروش (فارسی): (ج۔۶) ۳۴۴۸
رسالہ سلوک ومشائخ طریقِ اربعہ (میر نعمان): (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۱۰) ۶۱۲۳۔ ۶۱۲۴
رسالہ شرح الشرح بعض رباعیات حضرت خواجہ: (ج۔۹) ۵۲۴۹
رسالہ صاحبیہ: (ج۔۴) ۲۵۱۵
رسالہ صحیفہ: (ج۔۶) ۳۴۴۸
رسالہ طریق نقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۴۴۳
رسالہ عالیہ از خواجہ محمد پارسا: (ج۔۶) ۳۴۴۳
رسالہ عرفان: (ج۔۱) ۲۵۳
رسالہ علم حدیث: (ج۔۵) ۲۵۹۲، ۲۹۱۷، (ج۔۸) ۴۵۷۹، (ج۔۹) ۵۰۲۷
رسالہ فقہ وحدیث: (ج۔۹) ۵۵۵۸

رسالہ فی اثبات رفع سبابہ: (ج۔۵)۲۸۰۴

رسالہ فی الادب: (ج۔۵)۲۶۸۰

رسالہ فی التقلید: (ج۔۶)۳۱۵۹

رسالہ فی باب صحۃ الجمعۃ فی القریٰ: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۴

رسالہ فی بشارۃ لاھل الاشارہ: (ج۔۱)۸۶، (ج۔۵)۲۸۱۵

رسالہ فی بیان آداب الطریقۃ: (ج۔۶)۳۲۲۶

رسالہ فی تائید حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۱)۸۶، (ج۔۵) ۲۸۰۴

رسالہ فی رفع المطاعن عن الامام الربانی و اولادۃ: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵)۲۸۱۳

رسالہ فی فضل مکہ: (ج۔۵)۲۶۹۸

رسالہ فی منع رفع سبابہ: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۷۹۸، ۲۸۰۴، ۲۸۰۶، ۲۸۱۷

رسالہ قدسیہ: (ج۔۲) ۵۵۰، ۶۴۲، ۹۰۸، ۹۵۴، ۱۰۳۲، ۱۱۹۲، ۱۲۴۲، ۱۲۴۸، ۱۲۵۶، (ج۔۱۰)۶۱۰۱، ۶۱۳۰، ۶۱۳۶

رسالہ قندیہ بکوشش ایرج افشار: (ج۔۱)۲۵۲

رسالہ متعلق بہ اکتسابات روحانی میاں عبدالحکیم: (ج۔۶) ۳۷۱۷

رسالہ محبوبیہ (خواجہ محمد پارسا): (ج۔۱۰)۶۱۴۰، ۶۱۴۸

رسالہ مراقبات: (ج۔۴)۲۴۹۰، (ج۔۶)۳۳۵۸

رسالہ مستمرہ: (ج۔۱)۱۱۰، (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۱۱

رسالہ مشغولیہ: (ج۔۴)۲۴۹۱

رسالہ معرفۃ النفس و معرفۃ الرب: (ج۔۸)۴۵۸۰،

رسالہ مقصود الصالحین: (ج۔۴)۲۰۳۳، (ج۔۵)۲۵۷۰، ۲۹۱۷، (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۸) ۴۵۷۹، (ج۔۹) ۵۵۰۷

رسالہ مولانا ابوالکلام: (ج۔۱)۱۱۰

رسالہ مولانا ابوالمکارم: (ج۔۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۱۱

رسالہ مولوی غلام یحییٰ: (ج۔۲)۱۲۲۸

رسالہ میرزا محمد بیگ بدخشی: (ج۔۸)۴۶۵۰،

رسالہ ناتمام در سلوک: (ج۔۱)۳۲۰

رسالہ نصائح وغیرہ: (ج۔۸)۴۵۸۰

رسالہ نقشبندیہ: (ج۔۱)۲۵۲

رسالہ نور وحدت: (ج۔۱۰)۶۱۵۴

رسالہ نور (نور بخش توکلی): (ج۔۶) ۳۲۷۲، (ج۔۱۰) ۵۹۶۶

رسالہ والدیہ: (ج۔۱۰)۵۷۸۷

رسالہ یک روزی: (ج۔۸)۴۹۴۸

رسالۂ ابدالیہ: (ج۔۷)۴۱۶۲،

رسالۂ الخیر الباقی: (ج۔۹)۵۴۱۷

رسالۂ تشہد: (ج۔۹)۵۵۲۶

رسالۂ رد شیعت: (ج۔۹)۵۴۸۹

رسالۂ سل الحسام الہندی: (ج۔۹)۵۲۶۷

رسالۂ قدسیہ: (ج۔۸)۴۸۵۴، ۴۸۶۲

رسالۂ معارف لدنیہ: (ج۔۹)۵۲۴۹

رسالۂ معراجیہ: (ج۔۹)۵۳۴۸، ۵۳۵۱

رسالۂ مقالات یوم مجدد: (ج۔۹)۵۴۱۵

الرسالہ (عربی): (ج۔۶)۳۳۹۲

الرسالۃ الجلیلہ (نوربخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۷
رسالۃ الفوائد العجیبہ: (ج۔۵) ۲۶۹۷
الرسالۃ الھندیۃ فی الطریقۃ النقشبندیۃ: (ج۔۶) ۳۲۲۷
رسالۃ تتعلق ببیع العدۃ والامانۃ والاقالۃ: (ج۔۶) ۳۱۹۸
رسالۃ عجالۃ مشتملہ علی المعاوف العالیہ: (ج۔۵) ۲۶۷۴
رسالۃ فی ادعیۃ الحج: (ج۔۶) ۳۱۹۸
رسالۃ فی الابداع الانسان: (ج۔۶) ۳۱۹۸
رسالۃ فی الدلیل والدال: (ج۔۶) ۳۱۹۸
رسالۃ فی الرد علی محمود الاوسی: (ج۔۵) ۲۶۸۸
رسالۃ فی الطریقت النقشبندیہ (عربی ترجمہ): (ج۔۵) ۲۷۶۵
رسالۃ فی القدر: (ج۔۶) ۳۱۹۸
رسالۃ فی المفاخرۃ بین الماء والھواء: (ج۔۶) ۳۲۳۵
الرسالۃ فی تحقیق النبوۃ: (ج۔۱۰) ۶۱۹۱
رسالۃ فی تحقیق معنی الکلمۃ الطیبۃ: (ج۔۹) ۵۰۲۷، ۵۰۵۵
رسالۃ فی ذکر افضل کیفیات الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: (ج۔۶) ۳۶۵۴
رسالۃ فی فن العروض: (ج۔۶) ۳۱۵۹
الرسالۃ فے تحقیق النبوۃ: (ج۔۵) ۲۵۹۰
رسائل: (ج۔۵) ۲۶۸۴
الرسائل تہلیلیہ: (ج۔۹) ۵۰۴۴، ۵۰۴۶، ۵۱۷۷
رسائل حکیمیہ (پیر عبد الحکیم): (ج۔۶) ۳۷۱۶، (ج۔۱۰) ۵۹۵۱
رسائل رضویہ: (ج۔۲) ۷۳۷، (ج۔۵) ۲۸۹۶، ۲۹۱۰
رسائل سبعہ سیارہ: (ج۔۴) ۱۹۴۱، (ج۔۵) ۲۸۱۶
رسائل فی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۱۶۶
رسائل مجدد الف ثانی: (ج۔۵) ۲۶۲۶۔۲۶۲۸، (ج۔۹) ۵۰۷۲
رسائل مجددیہ: (ج۔۲) ۷۶۸۔۷۶۹، (ج۔۵) ۲۶۲۸، (ج۔۱۰) ۶۱۶۴، ۶۲۳۲
رسائل مختصرہ نماز حقیقی وصوری اور توحید کے بیان: (ج۔۱) ۳۲۰
رسائل مسائل ذبائح: (ج۔۱۰) ۵۸۷۸
رسائل مشاہیر نقشبندیہ: (ج۔۱۰) ۶۱۰۱
رسائل نقشبندیہ: (ج۔ ۔) ۴۰۶۱۔۴۰۶۲
رسائل نور: (ج۔۹) ۵۲۰۴
رسائلہ شریفہ: (ج۔۱۰) ۶۱۰۱
رسم المفتی: (ج۔۸) ۴۶۴۶۔۴۶۴۷
رش الانوار حاشیہ الدر المختار: (ج۔۶) ۳۵۲۱
رشحات: (ج۔۴) ۲۳۴۹، (ج۔۶) ۳۶۲۵، (ج۔۷) ۴۰۳۵، (ج۔۹) ۵۴۳۲
رشحات عین الحیات ذکر الصادقین (محمد مفتی کشمیری): (ج۔۱) ۲۵۳
رشحات عین الحیات (ملا علی بن حسین کاشفی): (ج۔۱) ۲۵۲، (ج۔۵) ۲۷۴۰، (ج۔۶) ۳۲۹۸، ۳۴۴۴، (ج۔۹) ۵۲۶۰، ۵۳۸۱، (ج۔۱۰) ۶۳۷۹، ۶۴۱۵
رشحات عین الحیاۃ (شیخ محمد مراد منزلوی قازانی): (ج۔۵) ۲۶۹۳
رشحات عین الحیاۃ کا تکملہ: (ج۔۵) ۲۷۰۳

رشحہ سریہ من نفحہ فخریہ: (ج۔۶)۳۲۱۴

رشف السلاف من شراب الاسلاف: (ج۔۶)۳۲۱۴

رضا الدراری فی شرح صحیح البخاری: (ج۔۶)۳۱۷۹

رفع الاشکال فی جواب السوال: (ج۔۶)۳۲۱۴

رفع الذکر ووضع الوزر فی فضل الذکر: (ج۔۶)۳۱۹۸

رفیق الطلاب: (ج۔۱۰)۶۱۰۰

رقعات ابوالفضل: (ج۔۵)۲۷۹۰

رقعات مرشد: (ج۔۳)۱۸۷۲

رکن دین کتاب الحج: (ج۔۶)۳۳۷۰، ۳۴۶۴، ۳۶۲۸

رکن دین کتاب الزکوٰۃ: (ج۔۶)۳۳۷۰

رکن دین کتاب الصلوٰۃ: (ج۔۶) ۳۵۴۳، ۳۶۲۳۔ ۳۶۲۴، ۳۶۲۸، ۳۶۸۷، (ج۔۹)۴۹۹۸

رکن دین کتاب الصوم: (ج۔۶)۳۳۷۰

رموز الاحادیث: (ج۔۶)۳۲۵۹

رموز العاشقین (شیخ ظہور الدین): (ج۔۳)۱۳۸۹

رموز بے خودی: (ج۔۵)۲۹۲۵

روائح: (ج۔۱) ۸۴، (ج۔۵) ۲۷۴۳، (ج۔۸) ۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۵۴۳

روایات اصول: (ج۔۳)۱۷۰۸

روایت، میگزین (گورنمنٹ کالج نازیم آباد کراچی): (ج۔۱۰)۶۱۲۷

روح البیان: (ج۔۲)۶۶۱، ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴، ۱۱۸۱، ۱۱۹۱

روح الصلوٰۃ: (ج۔۶)۳۶۲۴

روحانی رابطہ: (ج۔۱۰)۵۸۸۸۔ ۵۸۹۲

رودِ کوثر (شیخ اکرام): (ج۔۱) ۳۱۳، ۳۲۷، ۳۵۲، ۴۳۱، (ج۔۲) ۵۰۳، ۸۰۱ ۔ ۸۰۲، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۸۶، ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۳، ۱۴۰۶، ۱۴۵۳، ۱۴۵۹، ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۱۹۷۲، ۲۱۶۹۔ ۲۱۷۰، ۲۱۹۲۔ ۲۱۹۳، ۲۴۳۲، ۲۴۵۵۔ ۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۵۷۷، ۲۵۸۰، ۲۶۲۴۔ ۲۶۲۵، (ج۔۷) ۴۴۳۱، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۳۹، ۵۰۵۱، ۵۱۵۳۔ ۵۱۵۸، ۵۱۶۱۔ ۵۱۶۳، ۵۲۵۲، ۵۲۹۳، ۵۲۹۶، ۵۳۲۱، ۵۳۹۱، ۵۳۹۶، ۵۴۰۴، ۵۴۱۳، ۵۴۱۶، ۵۴۱۹، ۵۵۱۴، ۵۵۱۷، ۵۵۲۲۔ ۵۵۲۳، ۵۵۲۸، ۵۵۶۰۔ ۵۵۶۱، (ج۔۱۰) ۵۶۴۹۔ ۵۶۵۰، ۵۶۷۴، ۵۷۷۳، ۵۸۳۳، ۶۱۰۶، ۶۱۱۵

روزنامچہ، سلطان الطاف علی ۱۹۷۸ء: (ج۔۱۰)۵۹۱۹

روزنامہ اصلاح: (ج۔۶)۳۵۳۶

روزنامہ البلاد (جدہ، سعودی عرب): (ج۔۱)۱۹۱

روزنامہ الحنیف (شکارپور): (ج۔۶)۳۴۹۳، ۳۶۱۰

روزنامہ الفقیہ (امرتسر): (ج۔۶) ۳۶۰۰، ۳۷۸۶، ۳۷۹۸، (ج۔۱۰)۵۹۶۴

روزنامہ ایکسپریس، سنڈے میگزین (کراچی): (ج۔۱۰) ۵۶۸۷

روزنامہ پاکستان ٹائمز (راولپنڈی): (ج۔۴)۲۲۰۰

روزنامہ تسنیم: (ج۔۴)۲۵۱۳

روزنامہ جسارت (کراچی): (ج۔۶)۳۷۰۵

روزنامہ جنگ کراچی: (ج۔۴) ۲۵۱۳، (ج۔۵) ۲۹۰۹، (ج۔۶) ۳۷۰۳، (ج۔۱۰) ۶۰۷۸

روزنامہ جنگ، مڈویک میگزین (کراچی): (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

روزنامہ سچ (لکھنؤ): (ج_۶) ۳۴۸۹
روزنامہ کوہستان (لاہور): (ج_۵) ۲۸۲۴
روزنامہ مسلمان: (ج_۶) ۳۴۹۳
روزنامہ نوائے وقت (لاہور): (ج_۶) ۳۸۰۲
روزنامہ وکیل (امرتسر): (ج_۵) ۲۹۴۳، ۳۰۲۶
روزنامچہ (ڈاکٹر سلطان الطاف علی) 17 اپریل 2002ء: (ج_۱۰) ۵۹۵۹
روشن دل: (ج_۶) ۳۷۹۹
الروض الرائض فی عدم صحۃ نکاح اہل السنۃ للروافض: (ج_۶) ۳۱۸۵، ۳۲۳۹
روضات النواظر: (ج_۹) ۵۵۴۴
روضۂ کوثر: (ج_۹) ۵۰۴۸
روضۃ الاحباب: (ج_۴) ۲۲۳۵، ۲۳۱۳
روضۃ الاقطاب: (ج_۶) ۳۳۹۴
روضۃ الاولیاء: (ج_۵) ۲۶۷۹
روضۃ السلام: (ج_۶) ۳۸۳۳_۳۸۳۴، ۳۸۶۳
روضۃ الصفا فی اسماء المصطفیٰ: (ج_۴) ۲۳۸۸، (ج_۶) ۳۶۵۴
روضۃ الطالبین: (ج_۲) ۶۲۳، ۶۶۰، ۷۲۹، ۷۳۳
روضۃ العقلاء (امام ابن حبان): (ج_۲) ۵۷۲، ۶۴۷
روضۃ العلماء: (ج_۹) ۵۱۴۷
روضۃ القیومیہ: (ج_۱) ۶۰، ۸۵، ۸۷، ۱۱۲، ۳۳۳، ۴۴۱، (ج_۲) ۶۷۰، ۱۰۹۹_۱۱۰۰، ۱۱۲۹، ۱۱۴۸، ۱۱۷۰، (ج_۳) ۱۲۹۶، ۱۲۹۸، ۱۳۶۶، ۱۳۷۲، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰، ۱۴۰۳، ۱۵۴۸، (ج_۴) ۲۱۶۳، ۲۱۷۰، ۲۱۹۱_۲۱۹۲، ۲۲۰۰، ۲۴۵۶، (ج_۵) ۲۵۷۶، ۲۶۳۹_۲۶۴۰، ۲۶۴۸_۲۶۵۰، ۲۶۶۸_۲۶۶۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۵، ۲۷۹۸، ۲۸۰۰_۲۸۰۳، ۲۸۱۶_۲۸۱۷، (ج_۶) ۳۴۴۶_۳۴۴۷، ۳۹۳۲، (ج_۷) ۴۱۸۲، ۴۲۰۲، ۴۲۱۷، ۴۲۲۰، (ج_۸) ۴۵۲۹، ۴۵۳۹، ۴۵۴۵، ۴۶۶۱، ۴۷۲۴، ۴۹۴۴، (ج_۹) ۵۰۳۹، ۵۱۵۴، ۵۱۵۶، ۵۱۹۶_۵۱۹۷، ۵۳۶۵، ۵۴۸۲_۵۴۸۳، ۵۵۱۶_۵۵۱۷، ۵۵۲۰، ۵۵۵۴_۵۵۵۵، ۵۵۵۷، ۵۵۵۹_۵۵۶۲، ۵۵۶۴_۵۵۶۵، (ج_۱۰) ۵۷۶۲_۵۷۶۳، ۵۷۶۸، ۵۷۷۳، ۵۸۸۵_۵۸۹۱، ۵۸۹۳، ۵۹۱۶، ۵۹۷۳، ۶۲۴۳، ۶۲۹۵_۶۲۹۶
روضۃ الناظر فی مناقب الشیخ عبدالقادر: (ج_۹) ۵۴۵۴
روضۃ النواظر: (ج_۱) ۸۴، (ج_۵) ۲۷۴۳
رونق الصفا فی بعض مناقب والد المصطفیٰ: (ج_۵) ۲۶۸۸
روئیداد مجاہدین ہند (خواص خان): (ج_۱۰) ۵۸۹۵
ریاض التاریخ: (ج_۳) ۱۳۶۷
ریاض الصالحین: (ج_۱) ۱۹۵
ریاض المرتاض: (ج_۴) ۲۲۲۳، (ج_۵) ۲۵۷۸، (ج_۱۰) ۵۶۳۹
ریاض المشتاقین فی مناقب مولانا خالد ضیاء الدین: (ج_۴) ۲۵۰۹، (ج_۶) ۳۲۸۸
الریاض النضرۃ: (ج_۱) ۲۲۰

ز

زاد الامین لاہل الیقین: (ج_۱۰) ۵۹۴۴
زاد السفینہ فی اسامی المدینۃ: (ج_۶) ۳۶۵۴

زادالمتقین: (ج۔۹)۵۰۳۵

زادالمعاد: (ج۔۲)۷۳۳

زاہدی: (ج۔۲) ۷۰۵، ۷۰۸، (ج۔۳) ۱۶۰۵، (ج۔۸) ۴۶۴۱

زبدۃ الآثار بہجۃ الاسرار: (ج۔۶)۳۳۹۴

زبدۃ الاخبار: (ج۔۶)۳۴۴۵

زبدۃ البخاری: (ج۔۶)۳۲۶۰۔۳۲۶۱

زبدۃ التواریخ: (ج۔۵)۲۷۷۸

زبدۃ الرسائل الفاروقیہ وعمدۃ المسائل الصوفیۃ: (ج۔۵) ۲۶۷۵۔۲۶۷۶

الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجود التحیہ (احمد رضا خان بریلوی): (ج۔۲)۱۱۵، (ج۔۳)۱۶۵۸

زبدۃ المقامات: (ج۔۱) ۸۵، ۱۱۰، ۲۹۷، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۷۴، ۳۸۴۔۳۸۵، ۴۲۹، ۴۳۱۔۴۳۴، ۴۴۰، ۴۵۳۔۴۵۴، ۴۶۲، (ج۔۲)۷۳۱، ۷۳۳، ۷۶۸، ۷۷۱، ۸۳۳، ۹۹۸، ۱۱۲۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۲، ۱۱۴۴، ۱۱۴۷، ۱۱۵۱، (ج۔۳)۱۲۹۷، ۱۳۶۴۔۱۳۶۶، ۱۳۷۲، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷، ۱۴۰۲، ۱۴۵۰۔۱۴۵۲، ۱۴۵۹، ۱۵۳۱، ۱۵۳۹۔۱۵۴۰، ۱۵۴۴، ۱۵۴۸، ۱۶۶۱، ۱۷۰۱، ۱۷۲۲، ۱۸۷۰، (ج۔۴) ۱۹۴۰، ۱۹۴۲۔۱۹۴۳، ۲۰۵۴، ۲۱۶۹، ۲۲۴۰۔۲۲۴۱، ۲۳۶۲۔۲۳۶۴، ۲۳۶۷، ۲۳۶۹، ۲۳۷۶، ۲۳۸۶، ۲۳۹۳، ۲۳۹۵۔۲۳۹۶، ۲۴۲۵، ۲۴۳۳۔۲۴۳۷، ۲۴۴۱، ۲۴۵۳۔۲۴۵۵، ۲۵۲۶، (ج۔۵)۲۵۳۷، ۲۵۶۱، ۲۵۷۴، ۲۵۷۸، ۲۵۸۱، ۲۵۹۸، ۲۶۱۱۔۲۶۱۲، ۲۶۲۲۔۲۶۲۵، ۲۶۴۸۔۲۶۴۹، ۲۶۵۹، ۲۶۲۲، ۲۷۳۵۔۲۷۴۳، ۲۷۴۶۔۲۷۵۱، ۲۷۵۳۔۲۷۵۵، ۲۷۵۷، ۲۷۶۵۔۲۷۶۶، ۲۷۷۰، ۲۷۹۰، ۲۸۱۶، ۲۸۳۰، (ج۔۶) ۳۱۴۳، ۳۳۹۳۔۳۳۹۴، ۳۴۴۶، ۳۶۸۶، (ج۔۷) ۴۰۰۹، ۴۲۱۸، ۴۲۲۰، ۴۲۳۱۔۴۲۳۲، (ج۔۸)۴۵۰۱، ۴۵۱۱، ۴۵۱۹، ۴۵۲۱۔۴۵۲۲، ۴۵۶۷، ۴۸۵۴، ۴۸۶۰۔۴۸۶۱، ۴۸۶۴، ۴۹۰۹۔۴۹۱۰، ۴۹۳۷، ۴۹۴۴، ۴۹۴۶۔۴۹۴۷، ۴۹۵۴۔۴۹۵۵، (ج۔۹) ۵۰۱۳، ۵۰۴۰، ۵۰۵۱، ۵۰۵۸، ۵۰۶۳، ۵۰۷۰، ۵۱۱۹، ۵۱۵۴، ۵۱۷۶، ۵۲۲۶۔۵۲۲۸، ۵۲۳۲۔۵۲۳۳، ۵۲۳۹، ۵۲۴۴، ۵۲۴۶، ۵۲۴۹۔۵۲۵۰، ۵۲۹۲، ۵۳۱۰، ۵۳۱۲، ۵۳۳۵، ۵۳۳۷، ۵۴۱۳، ۵۴۱۵، ۵۴۲۹، ۵۴۷۲، ۵۵۱۴۔۵۵۱۵، ۵۵۱۷، ۵۵۱۹۔۵۵۲۲، ۵۵۴۴۔۵۵۴۵، ۵۵۵۴، ۵۵۵۷، ۵۵۵۹۔۵۵۶۰، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۷۴، ۵۶۹۴، ۵۷۲۳، ۵۷۷۲۔۵۷۷۳، ۵۸۸۵، ۵۹۲۴۔۵۹۲۵، ۵۹۷۳، ۶۱۲۴، ۶۱۳۰، ۶۲۴۲، ۶۲۴۷، ۶۲۵۲، ۶۲۵۴۔۶۲۵۵، ۶۲۷۳

زبدۃ الآثار منتخب بہجۃ الاسرار: (ج۔۹)۵۰۳۵، ۵۳۳۴

زبور: (ج۔۱۰)۵۷۸۱

زبورِ عجم: (ج۔۱)۲۵۵، (ج۔۵)۳۰۱۵

زجاجۃ المصابیح: (ج۔۱)۵۳

زرگل: (ج۔۴)۲۵۱۳

زرقانی شرح المواہب: (ج۔۱)۲۱۹۔۲۲۰، (ج۔۲)۶۶۰

الزلال الانقی من بحر سبقۃ الاتقی (للشیخ احمد رضا خاں): (ج۔۱)۵۵، (ج۔۵)۲۸۹۶، ۲۸۹۹، ۲۹۱۰

زندہ رود: (ج۔۵)۳۰۱۱، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴

زوائد ابن ماجہ: (ج۔۲)۵۵۶

زوائد الزبیدی: (ج۔۶)۳۲۶۱

الزہد (امام احمد بن حنبل): (ج۔۲)۵۱۴

الزہد الکبیر (امام بیہقی): (ج۔۷)۴۳۰۹، ۴۳۲۱

زیادات: (ج۔۳)۱۶۰۴

الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن: (ج۔۶)۳۱۹۸

زیلعی: (ج۔۸)۴۶۴۲، ۴۶۴۴

زینت الحیاء: (ج۔۴)۲۲۴۵

زینت شرح: (ج۔۴)۲۰۵۴

س

ساقی نامہ: (ج۔۱)۳۲۰، (ج۔۶)۳۳۳۰

سالنامہ یادگار مجدد الف ثانی (کراچی): (ج۔۴)۲۲۲۴

سبحۃ المرجان فی آثارِ ہندوستان: (ج۔۳)۱۲۹۸، ۱۳۶۸،
(ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۵۷۸، ۲۶۲۳، ۲۶۷۴،
۲۶۷۹، ۲۷۰۰، (ج۔۹)۵۰۳۹

سبط المقال فی حل الاشکال: (ج۔۴)۲۵۲۳

سبع سنابل: (ج۔۵)۲۸۷۷

سبع سیارہ: (ج۔۴)۲۴۹۰، (ج۔۵)۲۸۱۳، ۲۸۱۸

السبعۃ البحر فی اللغۃ: (ج۔۶)۳۱۸۰

سبل الہدیٰ والرشاد: (ج۔۱)۲۱۹، ۲۲۱

سبیل الرشاد: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۲) ۱۱۸۰، (ج۔۵)
۲۷۹۸، ۲۸۰۵۔۲۸۰۶، (ج۔۱۰)۹۱۷۷، ۶۱۳۰

السبیل الواسطین: (ج۔۶)۳۵۲۳

سرِّ اسرار خودی: (ج۔۵)۲۹۷۴

سرِّ الاسرار: (ج۔۵)۲۶۹۸، (ج۔۶)۳۸۹۶، ۳۸۹۸

سر الامکان (غیر مطبوعہ): (ج۔۱۰)۵۹۵۷

السر الاسریٰ فی معنی سبحان الذی اسریٰ: (ج۔۶)۳۱۹۸

سر دلبران: (ج۔۷)۴۱۶۳۔۴۱۶۵

سرگزشت: (ج۔۵)۲۹۲۶

سراج العارفین: (ج۔۱۰)۵۸۴۷، ۵۸۴۹

سراج العاشقین: (ج۔۶)۳۴۳۳

سراج القلوب: (ج۔۶)۳۲۸۱

سراج الہدیہ: (ج۔۸)۴۶۴۷

سراج منیر: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۶)۳۶۸۶

سرمایہ عمر: (ج۔۴) ۲۵۱۵، (ج۔۹) ۵۱۵۴، ۵۱۵۸،
۵۱۶۱۔۵۱۶۲

سرمایہ ملت: (ج۔۲)۱۲۴۷

سرو آزاد: (ج۔۶)۳۳۵۶

سرور المحزون (سندھی ترجمہ): (ج۔۶)۳۴۴۵

سرہند شریف: (ج۔۳)۱۸۷۳

السعادۃ الابدیۃ فیما جاء بہ النقشبندیہ: (ج۔۵) ۲۶۸۴،
(ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۶

السعایہ شرح، شرح الوقایہ: (ج۔۲)۷۳۳

سعدیہ شرح کیدانی: (ج۔۸)۴۶۳۹

سعید البیان فی مولا سید الانس و الجان ﷺ: (ج۔۶)
۳۷۵۹، (ج۔۱۰)۵۹۵۶، ۶۱۰۹

سفر السعادۃ: (ج۔۴)۱۹۸۳

سفر حجاز (محمد عبداللہ حکیم): (ج۔۶)۳۷۴۸

سفر حجاز درخانی (محمد عبداللہ درخانی): (ج۔۶)۳۷۳۹

سفر سعادت: (ج۔۷)۴۳۹۳

سفرنامہ ایران: (ج_۶)۳۴۲۶
سفرنامہ بلاد اسلامیہ: (ج_۶)۳۴۲۶
سفرنامہ عربستان: (ج_۶)۳۴۲۰، ۳۶۰۳
سفرنامہ کلکتہ: (ج_۶)۳۴۴۱
سفرنامہ ہند: (ج_۴)۲۵۱۵
سفرنامے: (ج_۱۰)۵۹۵۶
سفرنامہ ابن بطوطہ: (ج_۹)۵۳۷۷
سفینہ خوش گو: (ج_۶)۳۳۵۶
سفینہ نوح: (ج_۶)۳۵۹۷
سفینۃ الاولیاء: (ج_۱) ۱۹۷، (ج_۳) ۱۳۹۲، (ج_۵) ۲۷۹۲، (ج_۹)۵۳۲۷_۵۳۲۸، ۵۴۵۴، ۵۵۵۷
سکینۃ الاولیاء: (ج_۱)۱۹۷، (ج_۴)۲۱۹۱
سل الحسام الہندی لنصرۃ مولانا خالد النقشبندی: (ج_۱) ۸۸، (ج_۴)۲۵۰۹، (ج_۱۰)۵۶۲۸، ۶۳۷۸، ۶۳۹۰
سلاسل اربعہ: (ج_۸)۴۸۲۴، ۴۸۵۲
سلاسل اولیاء: (ج_۸)۴۸۴۸،
سلاسل ستہ: (ج_۱) ۹۷، (ج_۷) ۴۰۰۲، (ج_۸) ۴۸۴۴_۴۸۴۵، ۴۸۵۱
سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات: (ج_۴)۲۰۸۸، (ج_۹) ۵۱۲۰
سلامۃ اللہ لاہل السنۃ من سبیل الرضا رد الفتنۃ: (ج_۵) ۲۵۸۰
سلامۃ اللہ لاہل السنۃ من سبیل العناد فی الفتنۃ: (ج_۵) ۲۵۷۳
سلسلۂ نقشبندیہ کی علمی خدمات (ڈاکٹر آفتاب احمد خان): (ج_۱۰)۶۱۰۱
سلسلہ تہلیلیہ: (ج_۹)۵۵۰۱
سلسلہ حضرت چشموی (عبدالحمید): (ج_۶)۳۷۵۴
سلسلہ قبلہ چشموی (محمد عبداللہ درخانی): (ج_۶)۳۷۳۹
سلسلہ نقشبندیہ کی فقہی خدمات: (ج_۱)۱۱۴
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی دینی خدمات: (ج_۱)۱۱۴
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نامور صوفیہ کی دینی اور فلاحی خدمات: (ج_۱)۱۱۴
سلسلۂ خیریہ: (ج_۶)۳۹۱۱
سلسلۂ قادریہ میں علامہ اقبال کی بیعت: (ج_۵)۲۹۴۴
سلسلۃ الذہب المتصلۃ بخیر العجم والعرب: (ج_۶)۳۲۱۵
سلسلۃ الذہب فی سلوک وآلاداب: (ج_۶)۳۱۶۶
سلسلۃ الصادقین: (ج_۱)۳۱۴، (ج_۷)۴۱۰۳،
سلک الدرر: (ج_۴)۲۴۴۹، (ج_۵)۲۶۸۱، ۲۷۰۱، (ج_۶) ۳۱۶۲، ۳۱۶۵، ۳۱۶۷_۳۱۶۸، ۳۱۷۳_۳۱۷۵، ۳۱۸۰_۳۱۸۲، ۳۱۸۴_۳۱۹۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۳، ۳۲۰۹_۳۲۱۰، ۳۲۱۷_۳۲۱۸، ۳۲۲۶_۳۲۲۷، ۳۲۲۹_۳۲۳۴، ۳۲۳۹، ۳۲۴۱
سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر: (ج_۱۰)۶۳۷۸، ۶۴۰۲
السلک المعظم علی الدرر المنظم: (ج_۵)۲۶۹۵
سلوک مجددیہ (سید عبداللہ محدث دکن): (ج_۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۲۶
سلوک راقیہ نقشبندیہ: (ج_۴)۲۴۹۱، (ج_۶)۳۳۵۸
سلوک طریقہ (مرزا مظہر جان جاناں): (ج_۴)۲۴۶۵

سلوک مجددی کی خصوصیات: (ج۔۱) ۱۱۴

سلوک مجددیہ: (ج۔۱) ۵۳

سمط العلی الحضرۃ العلیا: (ج۔۵) ۲۸۵۵۔۲۸۵۶، ۲۸۵۸

سنت مبارکہ: (ج۔۲) ۱۲۴۷

سند الشیخ محمد بن احمد عقیلۃ المکی بالطریقۃ القادریہ: (ج۔۶) ۳۱۹۹

سند المنینی (مخطوطہ): (ج۔۶) ۳۱۷۹

سندھ کے اکابرین قادریہ کی علمی و دینی خدمات (مقالہ برائے پی ایچ ڈی): (ج۔۵) ۲۷۰۱، (ج۔۹) ۵۵۷۸

سندھ کے صوفیائے نقشبند: (ج۔۱) ۱۱۲، (ج۔۶) ۳۳۷۱، ۳۶۷۰، ۳۶۸۲۔۳۶۸۳، ۳۹۳۰، (ج۔۹) ۵۵۷۷۔۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۶۳۷۸، ۶۴۰۷۔، ۶۴۰۸

سندھ کے نقشبندی اولیاء: (ج۔۱۰) ۶۱۲۷

سندھ گزیٹیر: (ج۔۶) ۳۴۴۵

سندھی ابیات: (ج۔۶) ۳۵۹۱

سنن اقوال نبویہ من الاحادیث النبویہ البخاریہ: (ج۔۶) ۳۲۶۰

السنن الکبریٰ للبیہقی: (ج۔۸) ۴۷۸۶

سنن کبریٰ (علامہ عراقی): (ج۔۷) ۴۳۱۷

سنوات الاتقیاء: (ج۔۴) ۲۴۳۶، (ج۔۵) ۲۷۴۳، (ج۔۹) ۵۵۴۳

سنی عہد معصومیہ: (ج۔۱۰) ۶۱۲۶

سواطع الالہام (تفسیر بے نقط): (ج۔۱) ۴۱۴۔۴۱۵، ۴۴۴، ۴۴۷، (ج۔۳) ۱۴۰۱، (ج۔۴) ۲۰۱۵، ۲۱۱۹، (ج۔۵) ۲۵۶۱، ۲۷۴۰، ۲۷۵۰، ۲۹۱۸، (ج۔۸) ۴۵۱۴، ۴۹۳۰، ۴۹۳۶، (ج۔۹) ۵۰۲۳، ۵۱۲۱، ۵۱۷۶، ۵۱۸۸، ۵۲۹۶، ۵۴۷۲، (ج۔۱۰) ۵۶۴۱، ۵۶۵۳، ۵۶۷۸، ۵۷۰۲، ۵۷۹۳، ۶۱۰۶

سوانح الحیات سلطان الاولیاء: (ج۔۱۰) ۵۸۹۵

سوانح امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج۔۳) ۱۲۹۸

سوانح بے بہائے امام اعظم: (ج۔۲) ۷۲۸، (ج۔۳) ۱۸۷۳

سوانح حضرت بابا فرید الدین مسعود: (ج۔۴) ۲۱۶۶

سوانح حیات: (ج۔۶) ۳۴۴۷

سوانح حیات حضرت حاجی بہادر کوہاٹی: (ج۔۱۰) ۵۸۸۸

سوانح حیات حضرت سید امیر صاحب: (ج۔۱۰) ۵۸۹۲

سوانح حیات حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی: (ج۔۶) ۳۳۹۶

سوانح حیات سید عارف شاہ بلال: (ج۔۶) ۳۷۶۱

سوانح شیخ طاہر بندگی: (ج۔۱۰) ۵۳۵۶

سوانح عمری حضرت امیر کلال: (ج۔۴) ۲۰۵۸

سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی (ابوالفضل محمد احسانُ اللہ): (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۴۹، ۵۱۵۵۔۵۱۵۶، (ج۔۱۰) ۵۶۳۷، ۶۲۴۳، ۶۲۸۹، ۶۲۹۷

سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی (عبد الاحد): (ج۔۹) ۵۰۴۰

سوانح مولانا خالد نقشبندی: (ج۔۱۰) ۶۳۷۸

سود کی متبادل اساس: (ج۔۲) ۷۳۶

سود (سید قطب شہید): (ج۔۲) ۷۳۶

سود (للمودودی): (ج۔۲) ۷۳۶

سولہویں اور سترہویں صدی میں شمالی ہند میں احیائے

اسلام کی تحریکات: (ج_۹) ۵۳۸۴

سولہویں اور سترہویں صدی میں شمالی ہند میں مسلمانوں کی نشات ثانیہ کی تحریکیں: (ج_۹) ۵۳۷۴

سہ صدی مکتوبات: (ج_۲) ۵۳۶، ۵۳۸، ۵۵۱، ۵۷۰، ۵۷۸، ۵۸۳_۵۸۴، ۵۹۷، ۵۹۹، ۶۰۲_۶۰۳، ۶۱۹_۶۲۰، ۶۳۱، ۶۳۹، ۶۴۲، ۶۴۶_۶۴۷، ۶۴۹، ۶۵۳_۶۵۵، ۶۵۸_۶۵۹، ۶۶۲، (ج_۵) ۳۰۱۷

سہ ماہی البحوث الاسلامیہ، مجلۃ (ریاض): (ج_۵) ۲۷۰۴

سہ ماہی العلم (کرچی): (ج_۱۰) ۶۱۱۰

سہ ماہی رسالہ اردو (کراچی): (ج_۱۰) ۶۱۲۶

سہ ماہی فکر و نظر (اسلام آباد): (ج_۸) ۴۸۱۱، ۴۸۳۴

سہ ماہی گنج کرم: (ج_۶) ۳۷۰۶

سہ ماہی مسلم میگزین (امریکہ): (ج_۶) ۳۲۵۲

سہ ماہی مسلم ورلڈ (امریکہ): (ج_۵) ۲۸۳۵

سہ ماہی، اقبال ریویو (کراچی، لاہور): (ج_۵) ۲۸۳۴، ۲۸۴۲_۲۸۴۳، ۲۹۴۳، ۲۹۴۵

السهم الصائب لمن سمی الصالح بالمبتدع الکاذب: (ج_۴) ۲۵۰۹

سی حرفی: (ج_۵) ۲۷۳۲

سیالکوٹ سے خیبر تک: (ج_۶) ۳۸۲۴

سید السادات (خواجہ نور محمد بدایونی): (ج_۱۰) ۵۸۹۳

سید المرسلین: (ج_۶) ۳۷۸۹

سیدی ابوالبرکات: (ج_۱۰) ۵۸۱۱

سیر احمدی: (ج_۱) ۸۴_۸۵، (ج_۵) ۲۷۴۰، ۲۷۴۲، (ج_۸) ۴۹۱۰، (ج_۹) ۵۵۴۳

سیر اعلام النبلاء: (ج_۵) ۲۸۵۶_۲۸۵۷،

سیر الجلیل (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی): (ج_۶) ۳۳۶۱

سیر العارفین: (ج_۴) ۲۵۱۴

السیر المطلوب: (ج_۶) ۳۵۲۲

سیر تصوف (درویش محمد یعقوب): (ج_۶) ۳۷۸۹

سیر علوی (درویش محمد یعقوب): (ج_۶) ۳۷۸۹

سیر وتراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة: (ج_۵) ۲۷۰۳_۲۷۰۴

سیر الصحابہ: (ج_۹) ۵۱۹۶

سیرت الاولیاء: (ج_۸) ۴۶۶۵

سیرت النعمان: (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۵) ۳۰۷۲

سیرت امام ربانی (محمد داؤد پسروری): (ج_۳) ۱۷۲۳، (ج_۴) ۲۴۵۴_۲۴۵۶، (ج_۵) ۳۰۳۹_۳۰۴۰، ۳۰۴۵، (ج_۸) ۴۹۳۸، (ج_۹) ۵۰۲۸، (ج_۱۰) ۵۹۲۶

سیرت امام محمدی (شاہ میاں عبدالرحمٰن): (ج_۹) ۵۴۳۴

سیرت امیر ملت: (ج_۶) ۳۸۰۰، (ج_۱۰) ۵۸۱۱

سیرت باقی: (ج_۱) ۳۰۹

سیرت جلی: (ج_۹) ۵۲۵۱

سیرت خلفاء اسلام: (ج_۶) ۳۸۴۶

سیرت رسول عربی ﷺ (نور بخش توکلی): (ج_۱۰) ۵۹۶۴، ۵۹۶۶، ۵۹۶۸

سیرت سید احمد شہید (ابوالحسن ندوی): (ج_۹) ۵۱۶۱

سیرت طالب کنجاہی: (ج_۶) ۳۷۹۷، ۳۷۹۹

سیرت غوث اعظم (اقبال احمد فاروقی): (ج۔۱۰)۵۹۶۸

سیرت غوث اعظم (عبد الرحیم خان قادری): (ج۔۸) ۴۸۶۳_۴۸۶۴

سیرت غوث اعظم (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۶

سیرت فاطمہ: (ج۔۶)۳۷۸۹

سیرت مجدد الف ثانی: (ج۔۱) ۴۱، ۶۴، ۴۴۰، (ج۔۲) ۷۷۱، (ج۔۳)۱۳۶۴_۱۳۶۵، ۱۳۶۷_۱۳۶۸، ۱۳۷۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱_ ۱۴۰۶، ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۷۳۲، ۲۹۱۰_ ۲۹۱۲، ۳۰۱۱، ۳۰۴۰، ۳۰۹۳، (ج۔۶) ۳۳۹۳، ۳۶۴۰، (ج۔۷) ۴۲۲۰، (ج۔۸) ۴۵۹۹، ۴۶۰۳، ۴۶۱۶_ ۴۶۱۷، ۴۷۲۴، ۴۸۶۱، ۴۹۰۸، ۴۹۳۶، ۴۹۳۷، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۷۰، ۵۵۷۷، (ج۔۱۰)۵۶۹۴، ۵۷۶۳، ۵۹۰۸، ۶۲۴۴، ۶۳۱۳

سیرت نبویہ: (ج۔۶)۳۷۰۶

سیرت نقشبند: (ج۔۱)۲۵۳

سیرت و کارنامہ ہائے جہادی حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۶)۳۳۲۴

سیر صغیر: (ج۔۳)۱۶۰۴

سیر کبیر: (ج۔۳)۱۶۰۴

سیرۃ النبی: (ج۔۹)۵۱۶۱

سیرۃ مصطفےٰ: (ج۔۹)۵۱۶۱

سیف الامارۃ علی مانع نصب الستارہ: (ج۔۶)۳۱۵۹

السیف الجلی علیٰ ساب النبی: (ج۔۶)۳۶۵۴

السیف المسلول: (ج۔۵)۲۸۱۰

سیف الملوک: (ج۔۶)۳۷۸۳

السیوف المدادفی اعناق اہل الزندقۃ والالحاد: (ج۔۶)۳۱۷۲

ش

شارح تمہیدات: (ج۔۲)۵۸۴

شام کربلا: (ج۔۶)۳۵۹۶، ۳۷۶۰

شامی: (ج۔۲)۸۴۲، (ج۔۸)۴۶۳۳، ۴۶۴۲، ۴۶۴۴_ ۴۶۴۵، ۴۶۴۷_ ۴۸، ۴۰

شان اولیاء پاکستان: (ج۔۱)۴۳

شان مصطفیٰ: (ج۔۷)۴۲۷۸

شاہ اسماعیل کے مجموعہ مکاتیب: (ج۔۶)۳۸۹۰

شاہ عبداللہ کی سیاسی زندگی: (ج۔۲)۷۷۱

شاہ محمد غوث گوالیاری: (ج۔۱) ۳۱۰، (ج۔۹) ۵۳۱۹، ۵۳۲۲

شاہ ولی اللہ اوران کی سیاسی تحریک: (ج۔۴)۲۱۹۳

شاہ ولی اللہ اوران کا خاندان: (ج۔۱۰)۵۷۶۲

شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات: (ج۔۴)۲۰۵۹

شاہ ہمدان، حیات اور کارنامے: (ج۔۱) ۲۵۲_ ۲۵۳، ۴۶۱، (ج۔۶)۳۸۲۴

شاہنامہ احمدی منظوم: (ج۔۱۰)۵۸۷۸

شبلی نامہ (ڈاکٹر شیخ محمد اکرام): (ج۔۴)۲۴۵۵

شجرہ طیبہ: (ج۔۸)۴۸۶۴

شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ: (ج۔۶)۳۳۷۷

شجرۂ عالیہ سلسلہ نقشبندیہ و رابطہ بہ سلاسل دیگر: (ج۔۸) ۴۸۵۴، ۴۸۶۲،

شجرۃ خلافۃ النقشبندیہ: (ج۔۶)۳۲۲۷

شخصیات سرحد: (ج۔۱۰)۵۸۹۰، ۵۸۹۵

شخصیات کا انسائیکلوپیڈیا: (ج۔۶)۳۱۴۶

شد الازار فی خط الاوزار عن زوار المزار: (ج۔۵) ۲۸۵۴۔۲۸۵۵، ۲۸۵۷۔۲۸۵۸

شذرات الذہب: (ج۔۹)۵۱۵۶، ۵۲۷۳

الشذرات الذہبیۃ من المکتوبات المجددیہ: (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۲۳

الشرائع والاحکام: (ج۔۶)۱۳۸۳۱

شرح بلوغ المرام: (ج۔۶)۳۶۲۲

شرح (علامہ تفتازانی): (ج۔۸)۴۶۳۹

شرح ابیات مشکل مثنوی: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

شرح اربعین (شیخ محمد حیات بن ابراہیم): (ج۔۶)۳۴۱۶

شرح ارمغان حجاز: (ج۔۵)۳۰۰۸، ۳۰۱۴

شرح اسرار خودی: (ج۔۵)۳۰۴۱

شرح اسماء الحسنٰی: (ج۔۶)۳۵۷۰

شرح البردۃ: (ج۔۵)۲۶۹۸، (ج۔۶)۳۱۵۹

شرح التعرف لمذہب التصوف: (ج۔۷)۴۴۶۶۔۴۴۶۷

شرح الحجب والاستار: (ج۔۲)۵۸۸، ۶۱۹، ۶۵۱، ۶۸۵، ۶۶۲

شرح الحکم: (ج۔۵)۲۶۹۸

شرح السنۃ (امام بغوی): (ج۔۲)۵۲۹، ۵۳۳، ۵۴۳، ۵۶۲، ۵۶۹، ۵۷۲، ۶۰۶، ۶۱۷، ۶۳۸۔۶۳۹، ۶۴۴، ۶۴۶۔۶۴۷، ۶۵۶، ۶۵۸، (ج۔۷)۴۲۸۹، ۴۲۹۱، ۴۳۱۹، ۴۳۳۱، ۴۳۳۸، ۴۳۵۶، ۴۳۸۶، (ج۔۸) ۴۷۰۸، ۴۷۸۶۔۴۶۸۷، (ج۔۹)۵۱۷۸

شرح الشمائل: (ج۔۲)۵۱۳

شرح الصدر بشرح ارجوزۃ استنزال النصر: (ج۔۶)۳۱۷۹

شرح الصدور: (ج۔۷)۴۳۲۸،

شرح الصدور وتنویر القلوب فی الاعمال مکفرۃ للمتاخیرۃ و المتقدم من الذنوب: (ج۔۴)۲۲۳۷، (ج۔۶)۳۱۵۹

شرح العقائد (علامہ تفتازانی): (ج۔۳)۱۷۶۰

شرح العیدروسی: (ج۔۶)۳۲۱۵

شرح الفقہ الاکبر: (ج۔۲)۷۳۱، ۱۱۳۴، ۱۱۵۷، ۱۱۷۸

شرح الفیض القدیر: (ج۔۷)۴۳۲۶، ۴۳۲۹، ۴۳۳۹، ۴۳۴۵، ۴۳۵۸، ۴۳۶۲، ۴۳۷۱

شرح الکامل للنووی: (ج۔۵)۳۰۱۴

شرح المرح: (ج۔۸)۴۶۴۷

شرح المقدمۃ الجزریۃ: (ج۔۵)۲۶۹۷

شرح المواقف: (ج۔۹)۵۰۵۵، ۵۱۷۵

شرح المواہب: (ج۔۲)۵۸۹، ۵۹۱

شرح النقایہ: (ج۔۲)۷۰۸

شرح الیاس: (ج۔۸)۴۶۳۳، (ج۔۱۰)۵۹۹۷

شرح بال جبریل: (ج۔۵)۳۰۲۰، ۳۰۲۷، ۳۰۴۳، ۳۰۴۵

شرح بخاری بعنوان شرح غوثیہ: (ج۔۱۰)۵۸۷۴

شرح بخاری: (ج۔۵)۲۸۹۱، (ج۔۶)۳۶۲۲، (ج۔۹) ۵۵۵۷

شرح بعض رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ: (ج۔۵) ۲۵۸۲۔۲۵۸۳، (ج۔۱۰)۶۱۸۲، ۶۱۸۴

شرح بعض رباعیات (مخطوطہ): (ج۔۱۰)۶۱۶۲

شرح بوستان: (ج-۱۰)۵۸۶۶
شرح بیتی ابن العربی (شیخ محی الدین ابن عربی): (ج-۶) ۳۲۱۵
شرح تاج العروس: (ج-۲)۱۱۳۳
شرح ترمذی: (ج-۵)۲۸۰۴
شرح تصریف (علامہ تفتازانی): (ج-۵)۲۶۹۸
شرح تکملۃ الورد المحمدی: (ج-۶)۳۴۳۷
شرح تنویر الابصار: (ج-۶)۳۱۶۱
شرح جامی: (ج-۶)۳۳۵۸
شرح حاشیہ وقایہ (فتح محمد ڈیروی): (ج-۱۰)۵۸۸۳
شرح حسامی: (ج-۸)۴۶۳۸
شرح حکم شیخ عطاالٰہی سکندری: (ج-۶)۳۴۲۰، ۳۶۰۳
شرح حکمت العین: (ج-۱)۴۵۰، (ج-۹)۵۵۲۵
شرح حلیۃ النور: (ج-۶)۳۴۴۳
شرح دیوان حافظ (سید عبداللہ کوھاٹی): (ج-۱۰)۵۸۶۶
شرح رباعیات: (ج-۲)۵۰۸، (ج-۴)۲۴۲۲، (ج-۵) ۲۵۹۲، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۲۴، ۲۶۳۳، (ج-۶)۳۴۴۳
شرح رباعیات ابوسعید ابوالخیر: (ج-۶)۳۴۴۳
شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ: (ج-۱) ۳۰۸، (ج-۳) ۱۴۱۹، (ج-۴) ۱۹۴۱، ۲۰۳۳، (ج-۵) ۲۵۷۰، ۲۶۰۴، ۲۵۸۸، ۲۹۱۷، (ج-۷) ۴۱۱۸-۴۱۱۹، ۴۱۲۱، (ج-۸) ۴۵۷۹، (ج-۹) ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۱۵۰، ۵۵۲۳، (ج-۱۰)۶۱۵۴، ۶۱۵۷، ۶۱۸۹
شرح رباعیات (سلسلۃ الاحرار): (ج-۱)۳۰۰، ۳۲۰
شرح رسالہ رد الروافض: (ج-۴)۲۲۲۳
شرح رسم المفتی: (ج-۸)۴۶۴۶
شرح زرقانی: (ج-۲)۶۵۲
شرح سفر السعادات: (ج-۶)۳۱۵۳، (ج-۸)۴۶۴۶
شرح شفاء: (ج-۲)۵۱۸، ۶۵۴
شرح شمائل ترمذی: (ج-۳)۱۶۵۹
شرح شمسی: (ج-۴)۲۵۰۶
شرح صحیح مسلم: (ج-۲) ۷۳۵، ۷۳۷، (ج-۳) ۱۶۶۲، (ج-۸)۴۶۲۱
شرح طریقہ محمدیہ: (ج-۸)۴۶۲۷
شرح عقائد: (ج-۱)۴۴۸
شرح علیٰ العوامل النحویۃ: (ج-۶)۳۲۱۵
شرح علیٰ بیت من تائیۃ ابن الفارض: (ج-۶)۳۱۷۲
شرح علیٰ حزب الامام الشعرانی: (ج-۶)۳۱۷۲
شرح علیٰ رباعیات خواجہ باقی باللہ: (ج-۹)۵۰۵۵
شرح علیٰ صلاۃ (الشیخ العارف محی الدین اکبر): (ج-۶) ۳۱۷۲
شرح علیٰ صلوٰات (شیخ سید علی بن محمد مرادی): (ج-۶) ۳۱۸۵
شرح علیٰ قصیدۃ بالحزمۃ: (ج-۶)۳۲۱۵
شرح فتح الباری: (ج-۹)۵۳۱۷
شرح فتح الفضل: (ج-۶)۳۴۴۲
شرح فصوص الحکم: (ج-۱۰)۵۸۷۴
شرح فقہ اکبر: (ج-۷)۴۴۵۴
شرح قصیدہ العمری فی مدح الامام ابی حنیفہ: (ج-۲)۷۲۷

شرح قصیدہ امالی: (ج۔۷) ۴۴۰۸،

شرح قصیدہ بانت سعاد: (ج۔۶) ۳۴۳۶، ۳۵۵۹

شرح قصیدہ بردہ شریف: (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۱۰) ۵۸۷۱

شرح قصیدہ خمریہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

شرح قصیدہ غوثیہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

شرح گلستان: (ج۔۱۰) ۵۸۶۶

شرح لطائف الشیخ عبدالرحمٰن العیدروس: (ج۔۶) ۳۲۱۶

شرح مأۃ عامل: (ج۔۶) ۳۶۷۳

شرح مثنوی مولانا روم (سید عبداللہ کوھاٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۶

شرح مشکوٰۃ شریف: (ج۔۲) ۷۳۳، ۸۲۰، ۱۱۳۳، (ج۔۴) ۱۹۸۴، (ج۔۶) ۳۱۵۳، (ج۔۹) ۵۰۶۱

شرح مشکوٰۃ (حاجی بہادر کوہاٹی): (ج۔۱۰) ۵۸۶۶، ۵۸۸۸

شرح مطالع: (ج۔۱) ۴۴۸

شرح معانی الآثار امام طحاوی: (ج۔۵) ۲۸۸۳

شرح مکتوبات قدسی آیات امام ربانی: (ج۔۱۰) ۶۲۲۶

شرح مکتوبات: (ج۔۵) ۲۵۳۷، ۲۶۶۸، ۲۷۱۵، ۲۷۲۲، (ج۔۶) ۳۱۴۳

شرح ملتقی الابحر: (ج۔۶) ۳۱۶۱

شرح مواقف: (ج۔۱) ۴۴۶۔۴۴۸، ۴۵۴، (ج۔۳) ۱۵۷۶، ۱۵۷۸، (ج۔۴) ۲۳۶۱، (ج۔۶) ۳۳۶۱، (ج۔۸) ۴۶۰۴

شرح مواہب: (ج۔۷) ۴۴۰۸

شرح مینہ: (ج۔۲) ۷۱۰،

شرح نتیجۃ البشارہ بمعرفۃ الاستعارۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

شرح نخبۃ الفکر: (ج۔۶) ۳۴۱۶

شرح وقایہ: (ج۔۱) ۴۴۶، ۴۵۴، (ج۔۳) ۱۶۰۴، ۱۷۰۴، (ج۔۴) ۲۳۶۴، ۲۴۹۸، (ج۔۶) ۳۳۶۲، (ج۔۸) ۴۶۴۳، (ج۔۹) ۵۵۲۵

شرح ہدایہ: (ج۔۴) ۲۲۳۶

شرح تیسیر الوصول (شیخ محمد عابد سندھی مدنی): (ج۔۶) ۳۶۲۲

شرح ایپاسند: (ج۔۶) ۳۵۰۴

شرعۃ الاسلام: (ج۔۲) ۷۲۵

شروط الصلاۃ: (ج۔۶) ۳۷۱۳

شریعت و طریقت افکار اقبال کی روشنی میں: (ج۔۵) ۲۵۷۶، ۲۹۴۳

شعب الایمان: (ج۔۲) ۵۱۸، ۵۲۴، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۷۔۵۴۰، ۵۴۲۔۵۴۳، ۵۶۱۔۵۶۲، ۵۷۹، ۵۹۷، ۶۰۵، ۶۲۳۔۶۲۴، ۶۲۶، ۶۳۵، ۶۳۸۔۶۴۰، ۶۴۴، ۶۴۸، ۶۵۳، ۶۵۶، ۶۶۰۔۶۶۱، (ج۔۳) ۱۲۹۴، (ج۔۵) ۳۰۰۸، ۳۰۱۲، (ج۔۷) ۴۲۸۳۔۴۲۸۴، ۴۲۸۹، ۴۲۹۱، ۴۳۰۰، ۴۳۰۲، ۴۳۱۳، ۴۳۱۷، ۴۳۱۹۔۴۳۲۰، ۴۳۲۲، ۴۳۴۰۔۴۳۴۱، ۴۳۴۲، ۴۳۴۷، ۴۳۵۲، ۴۳۶۲، ۴۳۹۲، ۴۴۰۳، (ج۔۸) ۴۷۸۷

شعرأالہند: (ج۔۲) ۱۲۶۲

شفاءالامرض: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۴۴، ۳۵۹۹

شفاءالسقام: (ج۔۲) ۶۰۴۔۶۰۵، ۶۵۵۔۶۵۶

شفاء الصدور: (ج۔۲) ۵۹۲، (ج۔۵) ۲۸۸۶، (ج۔۹)

۵۲۰۴
شفاء العلیل: (ج۔۴) ۲۲۲۲، (ج۔۵) ۳۰۹۴
الشفاء القاضی عیاض: (ج۔۲) ۱۲۰۹، (ج۔۷) ۴۳۹۳، (ج۔۸) ۴۷۸۶
شفاء الوالہ فی صور الحبیب مزارہ ونعالہ: (ج۔۱) ۱۱۵
شقائق النعمان فی مناقب النعمان: (ج۔۲) ۷۲۷
شگوفۂ نو: (ج۔۱) ۴۶۱
شمائل النبی: (ج۔۴) ۲۳۹۸، (ج۔۵) ۲۶۶۳، (ج۔۶) ۳۸۹۸
شمس المعارف الکبری ولطائف العوارف (لامام احمد بن علی البونی): (ج۔۱۰) ۵۹۷۲
شمسیہ: (ج۔۶) ۳۶۶۱
شمشیر برہنہ: (ج۔۵) ۲۶۴۲
شمیم رسالت: (ج۔۱۰) ۵۸۰۳
شواہد التجدید: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۷۹۸، ۲۸۰۵، ۲۸۰۸، (ج۔۸) ۴۶۱۳، (ج۔۹) ۵۰۵۳
شوق نامہ: (ج۔۶) ۳۴۸۲، ۳۷۰۱
الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب: (ج۔۵) ۲۵۷۳، ۲۵۸۰
شہاب الدین: (ج۔۵) ۲۸۹۶
شہباز قدس: (ج۔۱۰) ۵۹۰۲
شہادت نامہ: (ج۔۱) ۵۳
شیخ احمد السرهندی حیاته و آثاره: (ج۔۱) ۱۰۳
شیخ احمد سرہندی: (ج۔۲) ۸۵۴، (ج۔۵) ۲۵۸۱، ۲۷۹۰۔ ۲۷۹۲، (ج۔۹) ۵۳۷۳
شیخ احمد سرہندی اور آئندہ نسلوں کے بارے میں ان کا نظریہ: (ج۔۹) ۵۳۸۴
شیخ احمد فاروقی سرہندی: (ج۔۱) ۴۶۴
شیخ الاسلام سیدنا عبدالقادر الگیلانی و اولادہٗ: (ج۔۵) ۲۶۸۰
شیخ سرہند (جمیل اطہر سرہندی): (ج۔۱) ۴۶۰، (ج۔۳) ۱۲۸۵، (ج۔۶) ۳۱۴۴۔ ۳۱۴۵، (ج۔۹) ۵۰۵۰، (ج۔۱۰) ۶۲۴۵
شیخ عمر ضیاء الدین کے مکتوبات: (ج۔۶) ۳۲۸۷
شیخ کے سندھی اشعار (عربی شرح): (ج۔۶) ۳۴۳۹
شیخ محمد طاہر بندگی احوال و آثار: (ج۔۱۰) ۶۳۷۶
الشیخ معروف النودھی (شیخ محمد خان): (ج۔۴) ۲۵۰۵
شیر ربانی کا پیغام: (ج۔۶) ۳۹۳۳
شیراز نامہ: (ج۔۵) ۲۸۵۵، ۲۸۵۸
شیرازہ: (ج۔۱) ۴۶۱
شیون اسلام: (ج۔۱۰) ۵۸۶۰
شیخ ابی محمد عبداللہ بن قاسم شہرزوری کا قصیدہ: (ج۔۵) ۲۶۷۸
شیخ یحیٰ منیری کے اعتراضات کے جواب میں ایک رسالہ: (ج۔۶) ۳۵۰۲

ص

صاوی تنویر الایمان: (ج۔۸) ۴۶۴۴
صبح نور: (ج۔۱۰) ۵۸۰۳
صحاح ستہ: (ج۔۳) ۱۵۸۱، ۱۵۸۸، (ج۔۴) ۱۹۵۱،

(ج_۵) ۲۶۸۵، ۲۸۸۴، (ج_۶) ۳۶۲۲، ۳۸۸۹،
۳۹۱۷، ۳۹۱۹_۳۹۲۰، ۳۹۹۱، (ج_۹) ۵۱۸۷، ۵۲۵۶

الصحاح: (ج_۱) ۱۷۳، ۱۹۳

صحائف انبیاء علیہم السلام: (ج_۸) ۴۸۱۸، ۴۸۲۱،

صحیح ابن ابی عاصم: (ج_۲) ۵۷۶

صحیحین: (ج_۲) ۵۴۶، ۵۶۳، (ج_۹) ۵۳۵۱

صدارتی خطبۂ ہسٹری کانفرنس: (ج_۵) ۲۷۹۴

صراط مستقیم: (ج_۱) ۶۴_۶۵، ۱۰۲، (ج_۲) ۷۲۸، ۷۳۲،
۸۴۹، ۸۵۴، (ج_۳) ۱۷۲۲، (ج_۵) ۲۹۱۱، (ج_۸)
۴۹۴۸، (ج_۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۱۸

صفورازالۃ الخفاء: (ج_۶) ۳۳۶۰

صفوۃ المدیح (ڈاکٹر حسین مجیب مصری): (ج_۱) ۱۰۷

صفۃ الصفوۃ: (ج_۱) ۲۱۹، (ج_۷) ۴۰۱۹، ۴۰۲۲، ۴۰۳۱_
۴۰۳۲

صفۃ صلاۃ النبی (محمد ناصر الدین البانی): (ج_۲) ۷۳۳

صقال الضمائر: (ج_۶) ۳۴۳۷، ۳۷۵۰

صلاۃ الصفاء فی نور المصطفے: (ج_۲) ۵۹۱

الصلاۃ الھامعۃ فی فضائل الخلفاء الاربعۃ: (ج_۶) ۳۱۷۱

صلاۃ مشیشیہ: (ج_۶) ۳۲۱۱

صلح الاخوان من اہل الایمان: (ج_۵) ۲۶۸۸

صلح الفریقین فی منع تکفیر موحدین: (ج_۵) ۲۸۰۶

صلوٰۃ الصفاء فی نور المصطفیٰ: (ج_۲) ۶۵۲

الصلوٰۃ علیٰ خیر البشر: (ج_۲) ۵۹۴

صنادید سندھ: (ج_۴) ۲۰۵۸، (ج_۶) ۳۴۴۵، (ج_۱۰)
۶۱۲۷

الصواعق المحرقۃ: (ج_۲) ۵۲۷، ۵۸۲، ۶۴۸، (ج_۷)
۴۳۶۲، (ج_۱۰) ۵۹۳۳.

صواعق الٰہیہ: (ج_۲) ۷۳۲

صوبہ سندھ کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ: (ج_۱) ۹۷

صوبہ سندھ کے مشائخ نقشبندیہ (مقالہ ڈاکٹریٹ):
(ج_۸) ۴۹۰۶

صوفزم: (ج_۱۰) ۵۸۵۹

صوفی کی لغوی حقیقت: (ج_۱) ۴۵۹

صولت افغانی: (ج_۶) ۳۳۳۹

ض

ضرب کلیم: (ج_۵) ۲۹۸۲، ۳۰۰۷، ۳۰۰۹، ۳۰۱۴_
۳۰۱۵

الضعفاء الکبیر: (ج_۲) ۵۵۷، ۶۱۳، ۶۴۳، ۶۵۷

ضعیف اور موضوع روایات: (ج_۲) ۱۲۴۷

ضوٴ الدراری شرح صحیح البخاری: (ج_۵) ۲۶۷۹

ضیاء القرآن: (ج_۱) ۵۹، (ج_۲) ۱۲۱۶_۱۲۱۷، (ج_۷)
۴۲۷۸، (ج_۸) ۴۶۱۸، (ج_۹) ۵۳۳۴

ضیاء المقدمات فی توضیح المکتوبات: (ج_۵) ۲۶۴۶

ضیاء النبی: (ج_۷) ۴۰۱۲

ط

الطاری الداری: (ج_۶) ۳۶۸۴

طب القلوب: (ج_۶): ۳۲۸

طبرانی: (ج۔۲) ۵۴۲، ۵۷۰۔۵۷۱، ۸۰۶۔۸۰۷، ۱۱۶۳، (ج۔۳) ۱۵۸۶، ۱۷۰۱، (ج۔۴) ۲۲۹۵۔۲۲۹۶، ۲۳۰۳، ۲۳۲۲، ۲۳۲۹، (ج۔۷) ۴۰۱۹، ۴۳۲۶، ۴۳۳۵، (ج۔۹) ۵۲۶۱، ۵۳۰۸

طبری: (ج۔۲) ۸۰۲

طبقات ابن سعد: (ج۔۱) ۲۱۹۔۲۲۰، (ج۔۵) ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۷۵۹، (ج۔۷) ۴۰۳۲، (ج۔۹) ۵۱۴۷، ۵۳۱۲، ۵۱۹۶

طبقات اکبری: (ج۔۴) ۱۹۸۷، (ج۔۵) ۲۵۶۳، ۲۵۷۴، ۲۵۸۱، (ج۔۹) ۵۰۴۰، ۵۱۵۵، ۵۳۱۲، (ج۔۱۰) ۵۷۰۷

طبقات الاولیاء: (ج۔۱) ۱۹۶

طبقات الحنفیہ: (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۶) ۳۴۱۵

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ: (ج۔۵) ۲۸۵۴۔۲۸۵۷

الطبقات الکبریٰ: (ج۔۱) ۱۹۶، (ج۔۲) ۵۹۸، ۶۵۴، (ج۔۴) ۲۵۱۴

طبقات ذہبی: (ج۔۹) ۵۴۵۴

طبقات شاہجہانی: (ج۔۴) ۲۴۵۵، (ج۔۵) ۲۷۴۷، ۲۷۵۳

طبقات صوفیہ (امالی پیر شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری): (ج۔۹) ۵۲۶۰

طحاوی شریف: (ج۔۷) ۴۰۵۱

طرایق الحقایق: (ج۔۱) ۲۵۳

طریق الارشاد فی تکمیل المومنین و الاولاد: (ج۔۶) ۳۴۳۶، ۳۵۵۹

طریق السداد فی وجوب الاعتداد: (ج۔۶) ۳۵۲۲

طریق النجات مع رسالہ التنویر فی اثبات التقدیر: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۱، ۳۶۶۶

طریق بیعت واذکار: (ج۔۴) ۲۴۹۰

طریقہ خواجگان: (ج۔۹) ۵۲۳۶

طریقہ شریفہ شاہ نقشبند: (ج۔۴) ۲۴۹۰

الطریقۃ النقشبندیۃ و اعلامھا: (ج۔۵) ۲۷۰۲۔۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۱۶۰، ۳۱۶۷، ۳۱۷۵، ۳۱۸۵، ۳۱۸۹۔۳۱۹۰، ۳۲۰۳، ۳۲۱۷۔۳۲۱۸، ۳۲۳۸، (ج۔۱۰) ۶۴۰۳، ۶۴۰۵

طلوع اسلام: (ج۔۵) ۳۰۳۰

طوالع الانوار علی الدر المختار: (ج۔۶) ۳۶۲۲

طومار سلاسل: (ج۔۶) ۳۴۷۵

طیب الوردہ شرح قصدیہ بردہ: (ج۔۱۰) ۵۸۰۳

طیبۃ ذکریات الاحبۃ: (ج۔۶) ۳۲۰۳، ۳۲۱۸

ظ

ظواہر: (ج۔۴) ۲۴۵۵

ظواہر السرائر: (ج۔۶) ۳۸۶۱، (ج۔۱۰) ۵۸۸۶۔۵۸۹۰

ظہر احتیاطی (رسالہ): (ج۔۱۰) ۵۹۳۴

ظہریہ: (ج۔۲) ۷۰۸

ظہور الکمال فی الابدال: (ج۔۲) ۱۱۸۰

ظہور پاکستان: (ج۔۴) ۲۰۸۳، ۲۱۶۶

ظہیری: (ج۔۸) ۴۶۳۷

ع

عارف نامہ (خواجہ محمد عارف ریوگری): (ج۔۱) ۱۹۶، (ج۔۱۰) ۶۱۰۸

عالم المعرفۃ: (ج۔۵) ۲۷۰۳

عالم گیر نامہ: (ج۔۵) ۲۷۸۳_۲۷۸۵، ۲۷۹۳

العام الاسلام فی فجر العصر الحدیث: (ج۔۹) ۵۰۴۳

عبد الستار خان نیازی، مولانا: (ج۔۱) ۵۷

عبد القدوس حنفی کے فارسی مکتوبات: (ج۔۹) ۵۱۷۸

عبد اللہ خویشگی قصوری: (ج۔۸) ۴۶۰۰،

عبرت نامہ: (ج۔۶) ۳۸۹۸

عبقات (اسمٰعیل دہلوی): (ج۔۹) ۵۲۶۹، ۵۲۸۸

عتابیہ: (ج۔۸) ۴۶۳۷

عجائب القرآن: (ج۔۶) ۳۶۳۹

عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار: (ج۔۶) ۳۲۰۲_۳۲۰۳، ۳۲۱۷_۳۲۱۸

عرائس البیان فی حقیقۃ القرآن: (ج۔۹) ۵۵۴۴

عرب و ہند کے تعلقات: (ج۔۴) ۲۰۵۷،

عربی زبان وادب میں مولانا احمد رضا کا حصہ: (ج۔۱) ۵۵

عربی میں کتب سیرت: (ج۔۲) ۱۲۴۷

عرس اور میلے: (ج۔۵) ۲۶۲۳

عرض و تحلیل: (ج۔۵) ۲۶۹۸

عرف البشام فیمن ولی فتوی دمشق الشام: (ج۔۶) ۳۱۸۹

العرف الشذی برحاشیہ جامع ترمذی: (ج۔۲) ۵۹۰، ۶۵۲

العرف العاطر فی معرفۃ الخواطر: (ج۔۶) ۳۲۱۵

العرف الناری فی حضرت الشیخ احمد السرہندی (رسالہ): (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۴) ۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۸۰۳

العرف الوردی فی دلائل المھدی: (ج۔۶) ۳۲۱۵

عروس الاعیاد (عربی): (ج۔۶) ۳۳۹۲

عروس الافراح فی شرح معنی حدیث الارواح: (ج۔۶) ۳۱۹۹

العروض (شیخ عبد الرحمٰن عیدروس): (ج۔۶) ۳۲۱۵

العروۃ لاھل الخِلوۃ والجَلوۃ: (ج۔۲) ۵۸۳، ۵۸۸_۵۸۹، ۶۰۲، ۶۵۱، ۶۵۴، ۶۵۶

عزم نو: (ج۔۱۰) ۶۰۸۷

عزیز اباطہ کے منظوم ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ: (ج۔۶) ۳۳۹۲

عزیز الاقتباس: (ج۔۶) ۳۳۶۱

عصاصی حاشیہ شرح وقایہ: (ج۔۳) ۱۷۶۱

العصب الھندی لاستیصال کفریات احمد السرہندی: (ج۔۴) ۲۴۵۲

عصمت الانبیاء: (ج۔۴) ۲۳۹۸

عضدی: (ج۔۱) ۴۱۴، ۴۵۰، ۴۵۲، (ج۔۴) ۲۲۸۰، (ج۔۵) ۲۷۵۸، (ج۔۹) ۵۵۲۵، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۷۶۷، ۵۶۷۳، ۵۶۷۶

العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ: (ج۔۵) ۲۸۷۹، ۲۹۱۹، (ج۔۶) ۳۳۹۳

عطیۃ الوھاب الفاصلہ بین الخطاء الصواب: (ج۔۱) ۸۶، ۹۴، ۹۹، (ج۔۴) ۲۴۵۱، (ج۔۵) ۲۶۷۸، ۲۶۹۹، ۲۸۰۳، ۳۰۸۰، (ج۔۸) ۴۵۹۸، (ج۔۹) ۵۳۴۱

عظمت رفتہ (ہزارہ کے علماء ومشائخ کا تذکرہ): (ج۔۱۰)
۵۸۹۲

العقائد الصحیحہ فی بیان اھل السنۃ والجماعۃ: (ج۔۶) ۳۴۲۰،
۳۶۰۲، ۳۶۶۶

عقائد اہل سنت و جماعت (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)
۵۹۶۶

عقائد مجددیہ: (ج۔۵) ۲۸۵۴

عقائد نسفی: (ج۔۳) ۱۵۸۶

عقد الجواہر فی سلاسل الاکابر: (ج۔۶) ۳۱۹۲، ۳۱۹۹

عقد الجواہر فی فضل آل بیت النبی الطاہر: (ج۔۶) ۳۲۱۵

العقد المنظم: (ج۔۶) ۳۱۷۹

عقل بیدار (سلطان باہو): (ج۔۹) ۵۰۶۶، ۵۰۷۰

العقود الجوھریۃ بالجیو والمشرقیہ: (ج۔۵) ۲۸۰۴

عقود الآلی فی الاسانید العوالی: (ج۔۶) ۳۲۱۱، ۳۲۱۷۔
۳۲۱۸

عقیدۂ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۳) ۱۲۸۶،
(ج۔۴) ۱۹۱۶۔ ۱۹۱۷، (ج۔۵) ۲۵۵۴، (ج۔۶) ۳۱۴۴۔
۳۱۴۶، (ج۔۱۰) ۶۲۴۴، ۶۳۲۲

العقیدۃ الطحاویہ: (ج۔۱) ۸۷، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸

علاج السالکین: (ج۔۱) ۵۳

علامہ اقبال اور تصوف: (ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۹۴۵

علامہ اقبال اور حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۵) ۲۵۷۵،
۲۹۴۳

علامہ عبدالحکیم اختر شاہجہان پوری: (ج۔۱) ۵۷، (ج۔۵)
۲۹۱۳

علاء الدین کی روحانی ہدایت کا خزانہ (شیخ امین): (ج۔۱) ۲۶۴

علق مضنون (امام غزالی): (ج۔۸) ۴۶۱۷،

العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ (امام ابن جوزی):
(ج۔۲) ۶۰۶، ۶۵۶، (ج۔۷) ۴۳۰۶، ۴۳۲۰

العلم الغیب: (ج۔۶) ۳۳۹۲

علم تصوف: (ج۔۶) ۳۹۱۹

علم سیر: (ج۔۶) ۳۹۱۹

علم ظاہر وعلم باطن: (ج۔۵) ۳۰۲۶

علم غیب: (ج۔۶) ۳۶۴۰

علم وسنت: (ج۔۶) ۳۲۷۱

علماء ان پالیٹکس: (ج۔۴) ۲۴۵۴

علماء دمشق و اعیانھا: (ج۔۶) ۳۲۰۱، ۳۲۱۷۔ ۳۲۱۸،
۳۲۳۲، ۳۲۳۴۔ ۳۲۳۵، ۳۲۳۷۔ ۳۲۴۰

علماء عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام: (ج۔۵)
۲۷۰۳۔ ۲۷۰۴

علماء ہند کی شاندار ماضی: (ج۔۲) ۷۶۸، ۸۰۱، (ج۔۳)
۱۲۹۸، ۱۳۷۱، (ج۔۴) ۲۰۳۴، (ج۔۵) ۲۶۲۳، ۲۷۶۵۔
۲۷۶۶، (ج۔۸) ۴۹۴۸، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۴۱، ۵۱۵۴،
۵۱۵۸۔ ۵۱۶۰، ۵۱۶۳، ۵۵۶۰، ۵۵۶۴، (ج۔۱۰)
۵۷۷۳

علوم الہامیہ: (ج۔۵) ۲۶۰۵

علوم الہیۃ و معارف الہامیۃ فی مسئلہ التوحید الوجودی:
(ج۔۵) ۲۶۷۴

علوم وفنون ہندوستان میں: (ج۔۹) ۵۱۶۰

عمدۃ الاسلام: (ج۔۲) ۶۶۴، (ج۔۳) ۱۷۵۹۔ ۱۷۶۰،

۱۷۷۳، (ج۔۹)۵۲۹۹

عمدۃ القاری: (ج۔۲)۷۳۷، (ج۔۸)۴۶۳۶

عمدۃ المفتی: (ج۔۸)۴۶۴۷

عمدۃ القامات: (ج۔۱) ۴۳۱، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۳۸۴، ۱۷۲۲، (ج۔۴)۱۹۴۱، (ج۔۵)۲۵۷۴، ۲۶۴۲، ۲۶۵۰، ۲۶۶۸، ۲۸۱۷، (ج۔۶) ۳۳۱۵، ۳۳۱۸۔ ۳۳۱۹، ۳۴۴۴، ۳۴۴۶، ۳۷۰۲، (ج۔۷) ۴۴۲۲۔ ۴۴۲۳، (ج۔۹) ۵۰۴۰، (ج۔۱۰) ۵۸۹۰۔ ۵۸۹۱، ۵۸۹۳، ۶۲۴۴، ۶۲۸۸

عمل الیوم واللیلۃ (ابن سنی): (ج۔۲) ۵۳۰، ۵۳۳۔ ۵۳۴، ۵۵۳، ۶۳۸۔ ۶۳۹، ۶۴۲، (ج۔۳) ۱۷۹۹، (ج۔۵) ۲۸۸۳، (ج۔۷) ۴۲۸۴، ۴۲۸۹، ۴۳۱۸۔ ۴۳۱۹، ۴۳۳۳، ۴۳۷۷، ۴۳۸۶، ۴۳۹۸، ۴۴۰۲، ۴۴۱۱

عمل صالح: (ج۔۱۰)۵۷۷۲

عنایہ: (ج۔۲)۷۰۸

عنقاء مغرب: (ج۔۶)۳۱۷۰

عنوان السعادۃ فیما اخص بہ نبینا من الکرامات والفضائل قبل الولادۃ: (ج۔۶)۳۱۹۹

عوارف المعارف: (ج۔۱) ۱۹۳، ۱۹۶، ۴۴۳، ۴۴۶، (ج۔۲)۵۷۰، ۵۸۵، ۶۱۶، ۶۳۴، ۶۴۶، ۶۵۰، ۶۵۸، ۷۲۶، ۷۵۱، ۸۸۷، ۹۰۷، ۱۰۲۰، (ج۔۴) ۲۲۳۷، (ج۔۵)۲۷۳۹، ۲۸۹۳، (ج۔۷)۴۳۱۰، ۴۳۲۱، ۴۴۱۳، ۴۴۴۶، (ج۔۸) ۴۹۴۴، ۴۹۵۱، (ج۔۹) ۵۲۲۷، ۵۲۵۰، ۵۲۷۶، ۵۳۱۵، ۵۳۷۷، ۵۴۵۴، ۵۴۵۶

عہد مغلیہ مع دستاویزات: (ج۔۲)۷۶۸، (ج۔۴)۱۹۹۹، ۲۰۳۴۔ ۲۰۳۶

عید میلاد النبی ﷺ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۶

عیدوں کی عید: (ج۔۶)۳۶۴۰

عینی الہدایہ: (ج۔۸)۴۶۴۶

عینی (شرح بخاری): (ج۔۲)۸۵۳

غ

غالب اور عصر حاضر: (ج۔۴)۲۵۱۴

غالب نامہ (ڈاکٹر شیخ محمد اکرام): (ج۔۵)۲۴۵۵

غایت قصوی: (ج۔۵)۲۷۱۲

غایۃ التحقیق (علامہ سندھی): (ج۔۵)۲۸۸۴

غایۃ الصراحۃ فی تحریم النیاحۃ: (ج۔۶)۳۵۲۳

غایۃ العمال: (ج۔۶)۲۳۱۲

غبار خاطر (ابوالکلام آزاد): (ج۔۹)۵۱۵۹

غرائب الاغتراب ونزہۃ الالباب: (ج۔۷)۴۲۶۱

غریب الابناء فی مناظرۃ الارض والسماء: (ج۔۵)۲۶۸۳

غزوات النبی ﷺ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۶

غزۃ الغرفی حلیۃ المختار اشرف البشر: (ج۔۶)۳۱۷۲

غناء الہزار فی محاورۃ اللیل والنہار: (ج۔۵)۲۶۸۲

غنیۃ الطالبین: (ج۔۲) ۸۳۴، (ج۔۵) ۲۶۹۸، ۲۹۱۱، (ج۔۸)۴۸۲۴، ۴۸۳۰، (ج۔۹)۵۰۸۱

غوث اعظم جیلانی کا لقب: (ج۔۲)۱۰۹۷

غیاث اللغات: (ج۔..)۴۱۶۴

غیر سودی بینکاری (ایس۔ اے۔ ارشاد): (ج۔۲)۷۳۶

غیر سودی بینکاری (ڈاکٹر محمد نجات اللہ): (ج۔۲)۷۳۶

ف

فاتح الرعانی شرح سامع الدعا (خطی): (ج۔۱۰) ۵۹۳۴

فارسی ادبیات میں مولانا احمد رضا کا حصہ: (ج۔۱) ۵۵

فارسی دیوان: (ج۔۴) ۲۴۳۵

فارسی کنز: (ج۔۹) ۵۲۹۹

فاضل بریلوی اور امور بدعات: (ج۔۱) ۵۵، ۱۰۷، (ج۔۵) ۲۹۱۱

فاضل بریلوی اور ترک موالات: (ج۔۵) ۲۵۷۴، ۲۵۸۰، ۲۹۱۲

فتاوٰی ابن تیمیہ: (ج۔۲) ۷۳۳

فتاوٰی الخانیہ: (ج۔۷) ۴۳۵۳

فتاوٰی برہنہ: (ج۔۸) ۴۶۴۵،

فتاوٰی تاتارخانیہ: (ج۔۱) ۴۳۱، (ج۔۳) ۱۷۶۱

فتاوٰی تاجیہ: (ج۔۶) ۳۱۶۱

فتاوٰی حدیثیہ (ابن حجر مکی): (ج۔۲) ۵۷۲، ۵۸۲، ۵۸۴، ۵۸۹، ۶۱۰، ۶۱۲، ۶۱۸، ۶۲۱، ۶۳۳، ۶۴۶، ۶۴۸۔۶۴۹، ۶۵۲، ۶۵۵، ۶۵۷۔ ۶۵۹، ۷۳۱، (ج۔۸) ۴۹۴۲، ۴۹۴۷۔۴۹۴۸

فتاوٰی خلاصہ: (ج۔۳) ۱۶۰۵

فتاوٰی خواجہ عبد الرحمٰن مجددی: (ج۔۶) ۳۵۰۳

فتاوٰی خیریہ: (ج۔۶) ۳۳۶۵، ۳۷۵۶۔۳۷۵۷

فتاوٰی دار العلوم: (ج۔۲) ۷۳۵

فتاوٰی رشیدیہ: (ج۔۵) ۲۹۰۷، ۲۹۱۴

فتاوٰی رضویہ : (ج۔۱) ۱۰۷، (ج۔۲) ۷۳۴۔ ۷۳۵، ۱۱۳۲، ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۹، ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷، (ج۔۳) ۱۶۵۷، (ج۔۵) ۲۸۹۶، ۹۰۰۔ ۲۹۱۰، ۲۹۰۳۔۲۹۰۴، ۲۹۰۷، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۴، ۲۸۸۹، ۲۸۹۷، (ج۔۶) ۳۳۹۲، (ج۔۹) ۵۲۰۵

فتاوٰی رضویہ اور فتاوٰی رشیدیہ۔۔ تقابلی جائزہ: (ج۔۱۰) ۵۶۹۶

فتاوٰی رضویہ کا موضوعاتی جائزہ: (ج۔۵) ۳۱۱۰

فتاوٰی سراجیہ: (ج۔۲) ۷۰۴، ۷۰۸، (ج۔۳) ۱۶۰۵، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱، (ج۔۸) ۴۶۴۴، ۴۶۴۶، ۴۶۴۷، (ج۔۹) ۵۱۸۲

فتاوٰی شافعیہ: (ج۔۳) ۱۷۰۶، ۱۷۶۱

فتاوٰی صبغت اللہ: (ج۔۲) ۶۰۲

فتاوٰی عالمگیری: (ج۔۲) ۶۸۷، ۷۳۱، (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۰۷۰، ۲۱۷۶، ۲۱۸۳، ۲۲۰۷، (ج۔۵) ۲۵۶۹، (ج۔۶) ۳۶۹۷، (ج۔۸) ۴۶۰۳، ۴۶۳۷، ۴۶۳۹۔ ۴۶۴۰، ۴۶۴۲، ۴۶۴۴۔ ۴۶۴۷، (ج۔۹) ۵۳۶۸، (ج۔۱۰) ۵۶۶۶

فتاوٰی عزیزی: (ج۔۹) ۵۲۵۲

فتاوٰی عمریہ بطریقۃ العالیہ: (ج۔۶) ۳۲۶۰۔۳۲۶۱

فتاوٰی غرائب: (ج۔۲) ۷۰۴، ۷۰۸، (ج۔۳) ۱۶۰۵، ۱۶۱۳، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱

فتاوٰی غوثیہ: (ج۔۸) ۴۶۳۳،

فتاوٰی غیاثیہ: (ج۔۲) ۷۰۵، (ج۔۳) ۱۶۰۵، ۱۷۰۵، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱، (ج۔۸) ۴۶۴۰

فتاوٰی قاضی خان: (ج۔۸) ۴۶۳۳

فتاوٰی کبریٰ: (ج۔۲) ۷۰۸، (ج۔۳) ۱۶۰۵، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱

فتاوی مالابدمنہ:(ج_۸)۴۶۴۵_۴۶۴۶

فتاوی مجددیہ نعیمیہ:(ج_۶)۳۶۶۹، ۳۷۰۷

فتاوی مسعودی: (ج_۱) ۴۶۴، (ج_۵) ۲۹۱۲، (ج_۶) ۳۵۴۶، ۳۶۳۵

فتاوی مظہریہ: (ج_۱) ۴۶۴، (ج_۵) ۲۹۰۴، (ج_۶) ۳۳۷۷، ۳۶۳۵

فتاوی ولوالجی:۱۶۰۵

فتح الباری: (ج_۲)۵۲۲، ۷۳۱، ۷۳۳_۷۳۴، (ج_۶) ۳۶۲۲، (ج_۸)۴۷۸۶_۴۷۸۷

فتح البیان:(ج_۲)۷۳۵

فتح الرحمٰن :(ج_۱۰)۵۸۰۰

فتح الرحمٰن بشرح صلاۃ ابی الفتیان:(ج_۶)۳۲۱۵

الفتح السماوی بتخریج احادیث تفسیر القاضی البیضاوی: (ج_۲)۶۴۴

الفتح الطری الجنی فی بعض مآثر شیخنا الشیخ عبدالغنی: (ج_۶) ۳۱۷۲

فتح العجیل فی مدارج التکمیل:(ج_۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

فتح العلیم فی الفرق بین الموجب واسلوب الحکیم: (ج_۶) ۳۲۱۵

فتح الفضل:(ج_۶)۳۴۳۹، ۳۵۰۴، ۳۵۹۰

فتح القدیر :(ج_۹)۵۴۱۹

فتح القدیر بشرح حزب الشاذی الکبیر: (ج_۲) ۷۰۸، ۷۳۳، (ج_۳)۱۶۱۱، (ج_۶) ۳۱۷۲، (ج_۸) ۴۶۴۲، ۴۶۴۴

فتح القریب:(ج_۶)۳۱۷۹

فتح القوی فی ذکر اسانید:(ج_۶)۳۲۰۳، ۳۲۱۸

فتح القوی فی نسب آباء النبی:(ج_۶)۳۶۵۴

الفتح المبین علی قصیدۃ العیدروس فخر الدین: (ج_۶)۳۲۱۳، ۳۲۱۵

الفتح المبین فی الرد علی تریاق المحبین :(ج_۵)۲۶۸۰

فتح المبین لشرح الاربعین:(ج_۲)۵۴۳، ۶۴۱

فتح الملہم :(ج_۲)۷۳۵

فتح المنان شرح قصیدۃ وسیلۃ الفوز والامان فی مدح صاحب الزمان:(ج_۶)۳۱۷۹

الفتح الوہبی شرح تاریخ العتبی (شیخ احمد منینی): (ج_۶) ۳۱۷۹

الفتنۃ الکبریٰ:(ج_۱۰)۵۷۸۰

فتوح الغیب: (ج_۱) ۸۴، (ج_۳) ۱۵۶۷، (ج_۵) ۲۷۴۳، (ج_۶) ۳۱۵۳، (ج_۷) ۴۰۴۶، (ج_۹) ۵۰۳۶، ۵۳۳۴، ۵۳۳۸، ۵۵۴۴

الفتوحات السعیہ :(ج_۵)۲۸۶۰

فتوحات الغیبیہ فی شرح عقائد الصوفیہ:(ج_۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

فتوحات فیروزشاہ:(ج_۴)۲۰۵۱، ۲۰۶۴

فتوحات مکیہ: (ج_۱) ۱۹۵، (ج_۲) ۵۳۶، ۵۵۰، ۵۷۰، ۵۸۳، ۵۹۲، ۶۰۵، ۶۱۹، ۶۲۸، ۶۳۹، ۶۴۲، ۶۴۶، ۶۴۹، ۶۵۲، ۶۵۶، ۶۵۹، ۶۶۱، ۹۲۱، (ج_۳) ۱۵۵۶، (ج_۵) ۲۶۸۳، ۲۶۹۷، ۲۹۳۱، (ج_۶) ۳۱۶۸، ۳۱۷۰، ۳۱۷۳، ۳۱۸۷، ۳۲۸۶، ۳۷۰۶، (ج_۷) ۴۱۰۹، ۴۱۱۴، (ج_۸) ۴۹۶۱، (ج_۹) ۵۱۵۶، ۵۲۵۰، ۵۲۷۱، ۵۲۷۳، (ج_۱۰) ۵۷۹۱

فتویٰ توکلی: (ج۔۱۰)۵۹۶۸

فتوی درخانی: (ج۔۶)۳۷۴۰

فرائض الاسلام: (ج۔۶)۳۴۲۱، ۳۶۶۶

الفرج بعد الشدت: (ج۔۵)۲۸۸۳

فرحت الناظرین: (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۵۱۴، (ج۔۹) ۵۵۳۰، ۵۵۶۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۸، ۵۷۷۱، ۵۷۷۳

فردوس الاخبار: (ج۔۲)۵۱۳، ۵۱۶، ۵۳۷، ۵۵۱، ۵۵۷، ۵۶۰، ۵۶۷، ۵۷۱۔۵۷۳، ۵۷۸، ۵۸۶، ۶۰۳، ۶۱۱، ۶۳۳، ۶۳۵، ۶۳۹، ۶۴۲، ۶۴۴۔۶۴۶، ۶۴۸، ۶۵۰، ۶۵۵، ۶۵۷، (ج۔۷)۴۲۸۳، ۴۳۱۷

فردوس العارفین: (ج۔۶) ۳۴۵۳، ۳۴۵۵۔۳۴۵۶، ۳۴۶۰، ۳۴۷۰، ۳۵۰۳۔۳۵۰۴، ۳۵۹۰، ۳۶۹۷۔۳۷۰۰، ۳۷۰۲، ۳۷۰۵

فرع استارة عن جواب الرسالۃ: (ج۔۶)۳۲۱۴

الفرق المؤذن بالطرب فی الفرق بین العجم والعرب: (ج۔۶)۳۱۷۲

فرمودات حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۳۵

فسانۂ سلطنت مغلیہ: (ج۔۴) ۲۰۳۷، (ج۔۵) ۲۵۷۵، ۲۵۷۷، ۲۵۸۱، (ج۔۸)۴۹۰۹

فصل الخطاب (خواجہ محمد پارسا): (ج۔۶)۳۷۹۷، (ج۔۹) ۵۲۶۰

فصوص: (ج۔۱)۳۵۳

فصوص الحکم: (ج۔۱)۳۴۳، (ج۔۲)۱۱۰۰، ۱۱۱۹، (ج۔۴) ۲۰۰۳، (ج۔۵)۲۶۰۷، ۲۹۳۱، ۳۰۲۵، ۳۰۴۲، ۳۰۸۵، (ج۔۶)۳۱۵۵، ۳۱۷۰، ۳۲۸۶، ۳۳۰۲ (ج۔۷)۴۰۵۱، (ج۔۸)۴۹۴۴، ۴۹۶۰، (ج۔۹)۵۲۲۷، ۵۲۵۰، ۵۲۷۱، ۵۲۷۴، (ج۔۱۰)۵۷۹۱

فصول الشاشی: (ج۔۸)۴۶۳۷

فصول ستہ: (ج۔۲) ۸۲۹، (ج۔۳) ۱۶۵۲، (ج۔۵) ۳۰۶۶۔۳۰۶۷

فضائل ابی حنیفہ: (ج۔۲)۷۲۷

فضائل اعمال: (ج۔۶)۳۳۹۳

فضائل الانام من رسائل، حجۃ الاسلام: (ج۔۲)۶۴۱

فضائل ربیع: (ج۔۶)۳۵۲۳

فضائل نماز: (ج۔۱)۵۳

الفقرات الاحراریہ: (ج۔۵)۲۶۷۸

فقرِ محمدی: (ج۔۳)۱۸۶۷

فقہ اسلامی کی تاریخ تدوین: (ج۔۱۰)۵۹۵۶

فقہ القلوب ومعراج الغیوب: (ج۔۶)۳۱۹۹

الفقہ علی المذاهب الاربعۃ: (ج۔۲)۷۳۴

فقہ وتصوف: (ج۔۶)۳۳۷۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۰، ۵۷۶۳

فقہائے ہند: (ج۔۴)۲۰۵۷

فقیہ اسلام: (ج۔۱)۵۴

فکر اقبال: (ج۔۵)۲۹۴۵

فکر سعید: (ج۔۶)۳۰۶۴

الفلوک (ابن عربی): (ج۔۲)۶۲۸

فلسفۂ اسلام: (ج۔۵)۳۰۰۸، ۳۰۱۰، ۳۰۱۴۔۳۰۱۵

فلسفۂ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ: (ج۔۶)۳۷۹۲

فلسفیانِ اسلام: (ج۔۵)۲۵۷۶

فناہ وبقا: (ج۔۲)۱۱۷۹

الفوائد الجلیلہ فی نظم الرسالۃ الوضعیہ: (ج_۵)۲۶۸۸

فوائد الجلیلۃ: (ج_۶)۳۲۰۰

الفوائد الجلیلۃ فی مسلسلات ابن عقیلہ: (ج_۶)۳۱۹۴، ۳۱۹۹، ۳۲۰۲، ۳۲۱۹، (ج_۱۰)۶۳۷۸، ۶۳۸۲

الفوائد السعیہ فی الفوائد النحویہ: (ج_۶)۳۱۸۰

فوائد الفرائد، منظومۃ فی العقائد: (ج_۶)۳۱۷۱

فوائد الفواد: (ج_۲)۹۸۷، (ج_۴)۲۰۵۸، (ج_۱۰)۵۸۳۳_۵۸۳۴

فوائد النیل بفضائل الخیل: (ج_۶)۳۱۵۹

فوائد شریعت: (ج_۸)۴۶۴۳

فوائد ضابطہ در اثبات رابطہ: (ج_۱۰)۶۱۰۹

فوائد عثمانی: (ج_۱۰)۵۹۴۲

فوائد فقیر اللہ: (ج_۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

فہارس تحلیلی ہشتگانہ مکتوبات احمد سرہندی: (ج_۱)۱۸۰، (ج_۲)۷۶۹، (ج_۵)۲۶۲۹، (ج_۸)۴۹۱۰، (ج_۱۰)۶۱۶۳، ۶۲۲۶

فہرس الفہارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات: (ج_۵)۲۶۸۵، ۲۶۹۳، ۲۷۰۰_۲۷۰۳، (ج_۶)۳۱۷۳، ۳۱۷۹_۳۱۸۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۳، ۳۲۱۰، ۳۲۱۷، ۳۲۱۹، ۳۲۳۲

فہرس الکتب العربیۃ الموجودۃ بالدارر: (ج_۵)۲۷۰۰، (ج_۶)۳۲۱۹

فہرس المخطوطات العربیۃ فی مکتبۃ الاوقاف العامۃ فی بغداد: (ج_۵)۲۷۰۰

فہرس مخطوطات الحدیث الشریف وعلومہ فی مکتبۃ الملک عبدالعزیز بالمدینۃ المنورہ: (ج_۵)۲۷۰۰، (ج_۶)۳۲۰۱، ۳۲۱۹

فہرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصۃ فی الیمن: (ج_۶)۳۲۱۷، ۳۲۱۹

فہرس مخطوطات دار الکتب الظاہریۃ، قسم التصوف: (ج_۵)۲۷۰۰، ۲۷۰۳_۲۷۰۴، (ج_۶)۳۲۰۱، ۳۲۱۷، ۳۲۱۹

فہرس مخطوطات مکتبۃ مکۃ المکرمۃ: (ج_۵)۲۷۰۰، (ج_۶)۳۱۶۷، ۳۱۷۳، ۳۱۹۰، ۳۲۰۲، ۳۲۱۹

الفہرست: (ج_۵)۳۰۲۵

الفہرست (ابن ندیم): (ج_۹)۵۱۹۶

فہرست المخطوطات العربیۃ المصورۃ الموجودۃ بمکتبۃ المخطوطات لجامعۃ الکویت: (ج_۵)۲۷۰۰

فہرست المخطوطات دار الکتب المصریۃ: (ج_۵)۲۷۰۰، (ج_۶)۳۱۷۳، ۳۱۷۵، ۳۱۸۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۲، ۳۲۱۹، ۳۲۲۷، ۳۲۳۲

فہرست مخطوطات ورسائل سبعہ: (ج_۱۰)۶۱۶۲

فہرست مشروح بعض کتب نفیسہ قلمیہ: (ج_۵)۲۶۵۱

فہرس التوالیف: (ج_۱۰)۵۷۰۷

فہرس المکتبۃ الازہریۃ: (ج_۶)۳۲۱۷، ۳۲۱۹، ۳۲۲۷

فہرس کتب الضعفاء الکبیر: (ج_۲)۶۴۴

فہرست تمہیدات: (ج_۲)۶۵۰

فی ظلال القرآن: (ج_۲)۱۲۱۷، ۱۱۶۴

فیروز اللغات: (ج_۱)۱۹۳، (ج_۷)۴۰۴۴

فیض الباری: (ج_۲)۷۳۳

فیض البرکات من جن المکتوبات: (ج_۵)۲۶۲۰،

(ج۔۹)۵۲۵۴

فیض القدوس فی مناقب شیخ بن عبداللہ العیدروس: (ج۔۶) ۳۲۱۴

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: (ج۔۲) ۷۲۹، (ج۔۷) ۴۳۲۱، ۴۳۲۷، ۴۳۴۷، ۴۳۴۹، ۴۳۷۴

فیض الکریم: (ج۔۵)۲۷۳۱، (ج۔۱۰)۵۹۴۰

فیض المنان فی معنیٰ لیس فی الامکان ابدع مما کان: (ج۔۶)۳۲۰۰

الفیض الوارد علی روضہ مرثیہ مولانا خالد: (ج۔۴) ۲۵۰۹، (ج۔۶)۳۷۹۸

فیض باری: (ج۔۹)۵۵۵۷

فیضان امام ربانی: (ج۔۲)۱۲۴۶

فیوضات حسنیہ: (ج۔۱۰)۵۹۰۲، ۵۹۰۷_۵۹۰۸

فیوض الحرمین: (ج۔۵)۳۰۹۴، ۳۰۹۳، (ج۔۶)۳۳۶۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۲

فیوض محمدی وسلوک مسعودی: (ج۔۶)۳۳۶۸، ۳۳۹۶

الفیوضات الاحمدیۃ فی المراقبات الاحمدیہ (مخطوطہ): (ج۔۵)۲۶۷۴

الفیوضات الملکیہ لحب الدولۃ المکیہ: (ج۔۵)۲۵۷۳، ۲۵۷۹

فیوضات الہیہ: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

الفیوضات خالدیہ: (ج۔۴)۲۵۰۹

فیہ مافیہ: (ج۔۲)۵۸۲، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۳۱، ۶۴۸_۶۴۹، ۶۵۴، ۶۶۲، (ج۔۵)۳۰۱۷

ق

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حالات علمی خدمات: (ج۔۱)۱۱۱، (ج۔۱۰)۵۸۹۳

قاضی فتح اللہ شطاری (علیم الدین نقشبندی): (ج۔۶) ۳۸۲۴

قاموس: (ج۔۷)۴۳۹۳

القاموس الفرید: (ج۔۵)۲۹۷۹، ۳۰۱۲_۳۰۱۳، ۳۰۱۷،

القاموس المدرسی: (ج۔۵)۳۰۱۳

قاموس المشاہیر: (ج۔۵)۲۵۷۳، ۲۵۸۱

قائداعظم کا مسلک: (ج۔۱)۵۷

قبلۂ احرار وابرار: (ج۔۹)۵۰۵۷

قدح الرند وقدح الزند: (ج۔۴)۲۴۵۱، (ج۔۵)۲۸۰۳

قدسیات داؤدیہ: (ج۔۲)۵۱۹، ۵۳۸، ۵۸۰، ۶۲۰

قدسیہ: (ج۔۱) ۲۳۵، ۲۵۵، (ج۔۶) ۳۲۹۸، (ج۔۱۰) ۶۱۵۴

القدوری: (ج۔۸)۴۶۴۵

قدیم سندھ: (ج۔۶)۳۷۰۵، ۳۵۷۲

القرآن: (ج۔۱)۵۹، ۷۴، ۷۸، ۹۱، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۵۳_۱۵۴، ۱۶۰_۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۷۵_۱۸۱، ۱۸۶، ۱۸۹_۱۹۷، ۲۱۶، ۲۵۹_۲۶۱، ۲۶۸، ۳۰۲، ۳۱۹_۳۲۰، ۳۷۹، ۳۸۴، ۴۰۶، ۴۳۰، ۴۳۸، (ج۔۲)۶۴۶، ۶۵۵، ۷۲۴، ۷۳۰، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۶۸_۷۶۹، ۸۰۷_۸۰۸، ۸۱۰_۸۱۳، ۸۵۳_۸۵۴، ۸۶۸، ۸۸۵_۸۸۶، ۹۱۵_۹۱۶، ۹۲۶، ۹۳۰، ۹۳۹، ۹۴۸، ۹۵۰_۹۵۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۹_۱۰۱۱، ۱۰۱۷، ۱۰۵۰، ۱۰۵۴، ۱۰۵۶_۱۰۵۷،

۱۰۶۳_۱۰۶۴، ۱۰۶۹، ۱۰۷۳، ۱۰۸۳، ۱۰۸۸، ۱۰۹۰،
۱۱۰۱، ۱۱۱۲_۱۱۱۴، ۱۱۱۸، ۱۱۲۲_۱۱۲۳، ۱۱۲۷، ۱۱۲۹_۱۱۳۰،
۱۱۴۱، ۱۱۴۵، ۱۱۴۸، ۱۱۵۰_۱۱۵۱، ۱۱۵۸_۱۱۶۰، ۱۱۶۳،
۱۱۶۶، ۱۱۶۹_۱۱۷۱، ۱۱۷۹، ۱۱۸۱_۱۱۸۲، ۱۱۹۷_۱۲۰۰،
۱۲۰۳، ۱۲۱۳، ۱۲۱۶_۱۲۱۷، ۱۲۱۹، ۱۲۲۷، ۱۲۳۴_۱۲۳۵،
۱۲۵۹_۱۲۶۲، (ج_۳) ۱۳۰۱، ۱۳۰۳، ۱۳۶۹، ۱۴۱۴،
۱۴۱۸، ۱۴۳۰، ۱۴۵۰، ۱۴۶۳، ۱۴۶۶، ۱۴۷۴_۱۴۷۵،
۱۴۹۰_۱۴۹۱، ۱۴۹۳_۱۴۹۷، ۱۴۹۹، ۱۵۰۳_۱۵۰۶،
۱۵۲۶، ۱۵۳۱، ۱۵۳۳، ۱۵۳۷، ۱۵۴۶_۱۵۴۸، ۱۵۵۰،
۱۵۶۷، ۱۵۷۲، ۱۵۷۵_۱۵۸۲، ۱۵۸۶_۱۵۸۷، ۱۵۹۰،
۱۶۲۳، ۱۶۲۶، ۱۶۳۱_۱۶۳۳، ۱۶۴۰_۱۶۴۲، ۱۶۴۴_
۱۶۴۶، ۱۶۴۹، ۱۶۵۱، ۱۶۵۴، ۱۶۵۹_۱۶۶۲، ۱۶۶۷،
۱۶۷۱_۱۶۷۳، ۱۶۸۷، ۱۶۸۹_۱۶۹۰، ۱۶۹۳، ۱۶۹۵،
۱۷۰۱_۱۷۰۲، ۱۷۱۴، ۱۷۲۰_۱۷۲۱، ۱۷۲۳، ۱۷۲۶،
۱۷۳۰، ۱۷۳۹، ۱۷۴۳، ۱۷۴۵، ۱۷۴۷، ۱۷۵۱، ۱۷۵۶_
۱۷۵۷، ۱۷۶۴، ۱۷۷۰، ۱۷۷۹_۱۷۸۰، ۱۷۸۲_
۱۷۸۳، ۱۷۸۷_۱۷۹۰، ۱۷۹۳_۱۷۹۵، ۱۷۹۷_
۱۸۰۱، ۱۸۰۵، ۱۸۱۷، ۱۸۲۳، ۱۸۲۵، ۱۸۳۵، ۱۸۳۷،
۱۸۳۹، ۱۸۴۱، ۱۸۵۶، ۱۸۶۸، ۱۸۷۰، ۱۸۷۳، ۱۸۸۸،
(ج_۴) ۱۸۹۲، ۱۸۹۶، ۱۹۴۳_۱۹۴۶، ۱۹۵۱، ۱۹۵۵،
۱۹۵۸، ۱۹۶۰_۱۹۶۱، ۱۹۸۵؛ ۱۹۹۵، ۱۹۹۷، ۲۰۰۷،
۲۰۱۲، ۲۰۱۹، ۲۰۳۷، ۲۰۴۴، ۲۰۵۳، ۲۰۶۰_۲۰۶۲،
۲۰۶۵، ۲۱۱۶، ۲۱۲۲_۲۱۲۳، ۲۱۳۱، ۲۱۳۶، ۲۱۵۴، ۲۱۵۹،
۲۱۷۲، ۲۱۸۴، ۲۱۹۳، ۲۲۰۱، ۲۲۰۵، ۲۲۱۱، ۲۲۲۴، ۲۲۲۸،
۲۲۳۱، ۲۲۳۴، ۲۲۳۸، ۲۲۴۱، ۲۲۵۴، ۲۲۶۵_۲۲۶۶،
۲۲۷۰_۲۲۷۲، ۲۲۷۵، ۲۲۸۰، ۲۲۸۲، ۲۲۸۴، ۲۲۸۷،
۲۲۹۳، ۲۲۹۶، ۲۲۹۸_۲۲۹۹، ۲۳۰۱، ۲۳۰۵، ۲۳۰۷_
۲۳۰۹، ۲۳۱۵، ۲۳۱۸_۲۳۳۲، ۲۳۳۴_۲۳۳۵،
۲۳۳۹_۲۳۴۰، ۲۳۴۲، ۲۳۴۴، ۲۳۴۷_۲۳۴۸،
۲۳۵۱، ۲۳۶۱_۲۳۶۳، ۲۳۶۹_۲۳۷۱، ۲۳۷۴،
۲۳۸۴، ۲۳۹۴، ۲۴۰۱، ۲۴۰۴، ۲۴۱۴، ۲۴۱۸، ۲۴۲۰،
۲۴۲۷، ۲۴۴۱، ۲۴۵۰، ۲۴۵۸_۲۴۵۹، ۲۴۷۰، ۲۴۸۲،
۲۴۸۵، ۲۴۸۸، ۲۴۹۱، ۲۵۰۲، ۲۵۰۵، ۲۵۰۷، ۲۵۲۴،
۲۵۲۸، (ج_۵) ۲۵۳۹، ۲۵۵۳، ۲۵۵۶، ۲۵۶۱، ۲۵۹۰،
۲۵۹۷، ۲۵۹۹، ۲۶۱۷_۲۶۱۸، ۲۶۲۱، ۲۶۲۵، ۲۶۳۲،
۲۶۴۱، ۲۶۵۸، ۲۶۷۰، ۲۶۹۱_۲۶۹۲، ۲۶۹۴، ۲۷۰۴،
۲۷۰۶، ۲۷۰۹، ۲۷۱۲، ۲۷۱۶، ۲۷۱۹، ۲۷۲۳، ۲۷۳۲،
۲۷۳۴، ۲۷۵۳، ۲۷۵۵، ۲۷۵۷، ۲۷۶۰، ۲۷۶۲،
۲۷۶۵_۲۷۶۶، ۲۷۷۰_۲۷۷۲، ۲۷۹۴، ۲۸۲۴،
۲۸۲۶، ۲۸۳۷، ۲۸۴۴، ۲۸۶۵_۲۸۶۷، ۲۸۷۰،
۲۸۸۷، ۲۹۱۴_۲۹۱۵، ۲۹۱۸، ۲۹۲۲، ۲۹۳۱، ۲۹۳۴،
۲۹۵۴، ۲۹۵۶، ۲۹۶۳، ۲۹۷۲، ۲۹۷۷، ۲۹۸۰_
۲۹۸۱، ۲۹۸۵، ۲۹۸۹_۲۹۹۰، ۲۹۹۵، ۳۰۰۸، ۳۰۱۴_
۳۰۱۵، ۳۰۵۰_۳۰۵۱، ۳۰۵۶، ۳۰۷۲، ۳۰۷۶_
۳۰۷۷، ۳۰۷۹، ۳۰۸۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۷، ۳۰۹۹، ۳۱۰۱،
۳۱۰۸، (ج_۶) ۳۱۲۸، ۳۱۳۶، ۳۱۴۰، ۳۱۴۵، ۳۱۵۹،
۳۱۷۵_۳۱۷۶، ۳۱۸۰، ۳۱۸۲، ۳۱۸۶_۳۱۸۷،
۳۱۹۳، ۳۱۹۵، ۳۱۹۷، ۳۲۲۸، ۳۲۳۰، ۳۲۳۳،
۳۲۵۶، ۳۲۶۵، ۳۲۶۸_۳۲۷۰، ۳۲۹۸، ۳۳۲۵_
۳۳۲۶، ۳۳۳۰، ۳۳۳۴، ۳۳۴۲، ۳۳۴۷، ۳۳۴۹،
۳۳۵۸، ۳۳۶۱، ۳۳۶۳_۳۳۶۴، ۳۳۷۲، ۳۳۸۱_
۳۳۸۲، ۳۳۸۶_۳۳۸۷، ۳۳۸۹، ۳۳۹۷، ۳۴۱۱،
۳۴۳۴، ۳۴۳۸، ۳۴۴۵، ۳۴۴۸، ۳۴۵۳، ۳۴۵۷،
۳۴۶۷، ۳۴۶۹، ۳۴۸۰، ۳۵۲۵، ۳۵۳۱، ۳۵۳۳_
۳۵۳۴، ۳۵۴۴، ۳۵۴۶، ۳۵۷۶، ۳۵۸۶، ۳۵۸۹،
۳۵۹۲، ۳۵۹۸، ۳۶۲۷، ۳۶۳۵، ۳۶۳۹، ۳۶۴۵،
۳۶۴۸، ۳۶۵۰_۳۶۵۱، ۳۶۶۰، ۳۶۶۷، ۳۶۷۳،
۳۶۷۹، ۳۶۸۰_۳۶۸۱، ۳۶۸۳، ۳۶۹۷_۳۶۹۸،

۳۷۱۶، ۳۷۲۰، ۳۷۳۰، ۳۷۳۲_۳۷۳۳، ۳۷۴۵_
۳۷۴۷، ۳۷۸۰، ۳۷۸۳، ۳۸۰۰، ۳۸۰۶، ۳۸۰۹،
۳۸۱۳، ۳۸۱۹_۳۸۲۱، ۳۸۲۳، ۳۸۳۲، ۳۸۳۷،
۳۸۳۹، ۳۸۴۳_۳۸۴۴، ۳۸۴۸_۳۸۴۹، ۳۸۵۲،
۳۸۵۸_۳۸۶۰، ۳۸۶۳، ۳۸۶۵، ۳۸۷۱، ۳۸۷۳،
۳۸۷۶، ۳۸۷۸، ۳۸۹۰، ۳۸۹۴، ۳۹۱۲، ۳۹۱۶،
۳۹۱۹_۳۹۲۱، ۳۹۲۳، ۳۹۲۵، ۳۹۳۰، ۳۹۳۳،
۳۹۷۷، (ج_۷) ۳۹۹۰، ۳۹۹۹_۴۰۰۰، ۴۰۰۷،
۴۰۱۶، ۴۰۱۸_۴۰۱۹، ۴۰۲۱_۴۰۲۲، ۴۰۲۸_۴۰۲۹،
۴۰۳۶_۴۰۳۷، ۴۰۴۰، ۴۰۴۲، ۴۰۴۴_۴۰۴۷، ۴۰۵۲_
۴۰۵۳، ۴۰۶۴_۴۰۶۵، ۴۰۶۹، ۴۰۸۴_۴۰۸۶، ۴۱۰۰،
۴۱۰۲، ۴۱۰۵_۴۱۰۸، ۴۱۱۰_۴۱۱۱، ۴۱۱۴_۴۱۱۶، ۴۱۲۵_
۴۱۲۸، ۴۱۳۶، ۴۱۳۹، ۴۱۴۰_۴۱۴۱، ۴۱۵۰_۴۱۵۲،
۴۱۵۴، ۴۱۵۶، ۴۱۶۳، ۴۱۶۶، ۴۱۶۸، ۴۱۷۲_
۴۱۷۳، ۴۱۷۶، ۴۱۸۳_۴۱۸۴، ۴۱۸۶، ۴۱۹۹، ۴۲۰۴،
۴۲۰۸_۴۲۱۰، ۴۲۱۲، ۴۲۳۴، ۴۲۳۷_۴۲۴۰، ۴۲۴۲_
۴۲۴۳، ۴۲۴۷، ۴۲۴۹_۴۲۵۰، ۴۲۵۲_۴۲۵۳،
۴۲۵۵_۴۲۵۸، ۴۲۶۰، ۴۲۶۳_۴۲۶۹، ۴۲۷۲_
۴۲۷۴، ۴۲۷۶_۴۲۷۸، ۴۳۰۱، ۴۳۱۳_۴۳۱۴،
۴۳۱۶، ۴۳۱۸، ۴۳۳۵، ۴۳۹۷، ۴۴۰۹، ۴۴۱۳،
۴۴۱۸، ۴۴۲۶، ۴۴۳۱، ۴۴۳۴، ۴۴۳۷، ۴۴۳۹_
۴۴۴۱، ۴۴۵۴، ۴۴۵۷، ۴۴۶۴، (ج_۸) ۴۴۸۱، ۴۴۸۴،
۴۴۸۶، ۴۴۹۵، ۴۵۰۲_۴۵۰۴، ۴۵۰۸، ۴۵۱۲، ۴۵۲۵،
۴۵۳۰_۴۵۳۱، ۴۵۳۴_۴۵۳۵، ۴۵۳۸، ۴۵۴۶،
۴۵۵۸، ۴۵۶۹_۴۵۷۱، ۴۵۸۱، ۴۵۸۴_۴۵۸۵،
۴۵۸۷، ۴۵۹۳_۴۵۹۶، ۴۶۰۰، ۴۶۰۲، ۴۶۰۵،
۴۶۰۷، ۴۶۱۱_۴۶۱۲، ۴۶۱۵، ۴۶۱۸، ۴۶۲۰، ۴۶۲۶_
۴۶۲۷، ۴۶۳۲، ۴۶۴۸، ۴۶۵۴، ۴۶۵۶، ۴۶۶۰،
۴۶۶۷، ۴۶۷۲، ۴۶۷۶، ۴۶۷۸، ۴۶۸۰، ۴۶۸۰،

۴۶۸۲_۴۶۸۵، ۴۶۸۹، ۴۶۹۷_۴۶۹۸، ۴۷۰۱_
۴۷۰۲، ۴۷۰۷، ۴۷۰۹، ۴۷۱۱، ۴۷۱۵_۴۷۱۶، ۴۷۱۸،
۴۷۲۳، ۴۷۳۳، ۴۷۴۰، ۴۷۴۲، ۴۷۴۵_۴۷۴۸،
۴۷۵۱، ۴۷۵۴، ۴۷۵۸_۴۷۵۹، ۴۷۶۳_۴۷۶۶،
۴۷۶۸_۴۷۷۰، ۴۷۸۳، ۴۷۸۸_۴۷۸۹، ۴۷۹۱،
۴۷۹۴، ۴۷۹۶_۴۷۹۷، ۴۷۹۹_۴۸۰۰، ۴۸۰۲،
۴۸۰۴، ۴۸۰۶، ۴۸۰۹_۴۸۱۰، ۴۸۱۲، ۴۸۱۵، ۴۸۱۷_
۴۷۲۰، ۴۸۲۳، ۴۸۲۶ _ ۴۸۲۸، ۴۸۳۱_۴۸۳۲،
۴۸۳۶، ۴۸۵۲، ۴۸۷۲، ۴۸۹۸، ۴۹۰۰ _ ۴۹۰۱،
۴۹۰۸، ۴۹۱۷، ۴۹۱۹_۴۹۲۰، ۴۹۲۲، ۴۹۲۶، ۴۹۲۸_
۴۹۳۰، ۴۹۳۳، ۴۹۳۵_۴۹۳۶، ۴۹۴۱، ۴۹۴۳،
۴۹۴۶، ۴۹۵۰، ۴۹۵۴، ۴۹۵۶، ۴۹۶۰_۴۹۶۲،
۴۹۶۶، ۴۹۷۱_۴۹۷۲، ۴۹۷۴، ۴۹۷۷، ۴۹۸۰،
۴۹۸۵، (ج_۹) ۴۹۹۸، ۵۰۱۵، ۵۰۱۸، ۵۰۳۷،
۵۰۴۱، ۵۰۴۹، ۵۰۷۴، ۵۰۷۶، ۵۰۸۰، ۵۰۹۰،
۵۰۹۵، ۵۰۹۸، ۵۱۱۱، ۵۱۲۰، ۵۱۳۰، ۵۱۳۳، ۵۱۵۰،
۵۱۶۴، ۵۱۶۶، ۵۱۷۴_۵۱۷۵، ۵۱۷۷_۵۱۷۹،
۵۱۸۵، ۵۱۹۱_۵۱۹۲، ۵۱۹۵_۵۱۹۶، ۵۱۹۸_۵۱۹۹،
۵۲۰۴، ۵۲۰۶_۵۲۰۹، ۵۲۱۷، ۵۲۲۴_۵۲۲۵،
۵۲۲۷_۵۲۳۰، ۵۲۳۴_۵۲۳۵، ۵۲۴۴_۵۲۴۵،
۵۲۴۸_۵۲۴۹، ۵۲۵۱، ۵۲۵۳، ۵۲۵۶، ۵۲۵۸_
۵۲۶۱، ۵۲۶۳_۵۲۶۴، ۵۲۶۷، ۵۲۶۹، ۵۲۷۳،
۵۲۸۳_۵۲۸۴، ۵۲۸۷_۵۲۹۱، ۵۲۹۶_۵۲۹۸،
۵۳۰۰_۵۳۰۱، ۵۳۰۴، ۵۳۰۶، ۵۳۰۹_۵۳۱۰،
۵۳۱۲_۵۳۱۳، ۵۳۱۶، ۵۳۱۸_۵۳۲۰، ۵۳۲۲،
۵۳۲۴، ۵۳۳۲_۵۳۳۴، ۵۳۳۶، ۵۳۴۸_۵۳۴۹،
۵۳۶۲_۵۳۶۳، ۵۳۶۵_۵۳۶۶، ۵۳۶۸، ۵۳۷۲،
۵۳۹۰، ۵۳۹۳، ۵۳۹۵، ۵۳۹۷، ۵۴۰۵_۵۴۰۶،
۵۴۱۰، ۵۴۱۳، ۵۴۱۵، ۵۴۱۸، ۵۴۲۰_۵۴۲۱، ۵۴۲۴،

۵۴۲۹، ۵۴۳۶، ۵۴۳۸، ۵۴۴۰، ۵۴۴۳، ۵۴۵۱، ۵۴۵۴، ۵۴۵۹_۵۴۶۰، ۵۴۶۶، ۵۴۷۱، ۵۴۸۵، ۵۴۹۲، ۵۴۹۵_۵۴۹۶، ۵۵۰۴، ۵۵۱۲، ۵۵۱۹، ۵۵۲۸، ۵۵۵۸، ۵۵۶۷، (ج_۱۰) ۵۷۸۱، ۵۷۹۱، ۵۷۹۳، ۵۸۰۰، ۵۸۱۵، ۵۸۱۷، ۵۸۱۹، ۵۸۲۴، ۵۸۲۹، ۵۸۳۳_۵۸۳۴، ۵۹۰۳، ۵۹۰۵، ۵۹۰۷

قرآن، سائنس اور امام احمد رضا: (ج_۵) ۲۸۹۶، ۳۱۱۰

قرآنی محاورات واستعارات: (ج_۶) ۳۶۸۶_۳۶۸۷

قرطبی: (ج_۱) ۵۹

قرۃ العین فی بیان ورد الخمیس والاثنین: (ج_۵) ۲۵۷۸، ۲۵۸۰، (ج_۶) ۳۲۰۰

قرۃ العیون فی سیرۃ الامین المامون: (ج_۵) ۲۵۷۸، ۲۵۸۰، (ج_۶) ۳۶۶۶

قسم التصوف: (ج_۶) ۳۲۰۲، ۳۲۱۷

قصائد وخطب: (ج_۶) ۳۱۵۹

قصۃ المشائخ (قلمی): (ج_۱۰) ۵۸۹۰، ۵۹۳۰

قصص القرآن: (ج_۸) ۴۸۴۰،

قصص انبیاء: (ج_۶) ۳۲۶۰

قصیدہ امالی: (ج_۶) ۳۸۹۸

قصیدہ تائیہ شریف (غوث اعظم): (ج_۲) ۱۱۰۵

قصیدہ بردہ شریف: (ج_۶) ۴۲۲۸، (ج_۸) ۴۵۱۲، ۴۹۴۶، (ج_۱۰) ۵۶۴۰، ۵۶۷۳، ۵۹۶۷

قصیدہ چہل کاف: (ج_۶) ۳۶۰۳

قصیدہ مبروزہ: (ج_۶) ۳۴۳۶، ۳۵۵۹

قصیدہ منفرجہ: (ج_۶) ۳۱۶۲

قصیدہ ھمزیہ: (ج_۶) ۳۱۹۶

قصیدۃ ابن بنت میلق: (ج_۵) ۲۶۷۸

قطب الارشاد: (ج_۶) ۳۴۳۶، ۳۵۵۹، ۳۶۵۳

قطبی اور میر قطبی: (ج_۶) ۳۶۶۱

قطرات ترجمہ لمعات: (ج_۵) ۳۰۹۳

قطف الزھر من روض المقولات الحشر: (ج_۶) ۳۲۱۵

قلائد الجواہر (زبیر افضل عثمانی): (ج_۱) ۳۸۵، (ج_۲) ۱۱۰۶_۱۱۰۷

قنیۃ المنیہ علی مذہب ابی حنیفہ: (ج_۲) ۷۲۲، ۷۳۷، ۱۷۶۲، (ج_۸) ۴۶۲۵

قوت القلوب: (ج_۲) ۵۱۳، ۵۳۸، ۵۷۰، ۶۳۳، ۶۴۰، ۶۴۶، ۷۸۹، (ج_۷) ۴۳۱۰_۴۳۱۱، ۴۳۲۲

القول الاشبہ فی حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ: (ج_۶) ۳۲۱۵

القول البدیع: (ج_۷) ۴۳۵۱

القول البین الرجیح، عند فقد العصبات تزویج اولی الارحام صحیح: (ج_۶) ۳۱۸۵

القول الجلی فی تذکیر البغی: (ج_۵) ۳۰۹۳، (ج_۶) ۳۳۹۵، ۳۵۲۲

القول الجلی فی ذکر آثار الولی: (ج_۱) ۵۳، (ج_۶) ۳۳۵۹، (ج_۸) ۴۹۰۸، (ج_۱۰) ۵۷۶۲، ۵۷۶۳

القول الجلی کی بازیافت: (ج_۵) ۳۰۹۳

القول السدید فی متصل الاسانید: (ج_۳) ۱۶۷۴، (ج_۶) ۳۱۸۰

القول السنی فی الذب عن الشیخ عبد الغنی: (ج_۵) ۲۶۸۵

القول الصواب بردمامی تحریر الخطاب: (ج۔۴)۲۵۰۹
القول الفیصل فی جواز الشہاب من الحربی القاتل: (ج۔۶)۳۶۱۰
القول المرغوب: (ج۔۶)۳۱۸۰
القول الموجز فی حل الملغز: (ج۔۶)۳۱۸۰
القول النفیس فی الجواب عن اسئلۃ ابلیس: (ج۔۶)۳۲۰۰
قول جمیل فی بیان سوٴ السبل: (ج۔۶)۳۳۹۵
قول حق: (ج۔۶)۳۱۴۵
قیامت نامہ (بحر العلوم لکھنوی): (ج۔۲)۱۰۹۹
قیومیت رسالہ (ابوالحسن زید فاروقی): (ج۔۱۰)۶۱۲۴

ک

کادن دی الو: (ج۔۶)۳۲۷۱
کارنامۂ جہانگیری: (ج۔۴)۱۹۷۵
کاس الرانخین: (ج۔۴)۲۴۱۸
کاسر المخالفین: (ج۔۴)۲۴۹۲
کافیہ: (ج۔۱)۱۶۴، (ج۔۶)۳۳۶۴، (ج۔۹)۵۱۷۸
کامل ابن عدی: (ج۔۲)۹۲۶، ۱۱۲۹، (ج۔۷)۴۳۳۹، ۴۳۵۰، ۴۳۶۲، ۴۳۷۸، ۴۳۸۳
الکامل فی التاریخ: (ج۔۱)۲۱۹۔۲۲۰، (ج۔۲)۸۰۲
الکامل فی ضعفاء الرجال: (ج۔۲)۶۱۳، ۶۵۷
کبیری: (ج۔۲)۷۳۴
کتاب اصفی الموارد من سلسال احوال امام خالد: (ج۔۱۰) ۶۳۹۷
کتاب الاذکار: (ج۔۱)۳۲۷۲
کتاب الاسماٴ والصفات: (ج۔۵)۲۸۸۳
کتاب الامثال فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم: (ج۔۲)۵۷۶، ۶۱۴، ۶۴۷، ۶۵۸
کتاب الاہار فی ثبوت الآثار: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹
کتاب الأدب والزہد: (ج۔۲)۶۳۴
کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث: (ج۔۲)۷۳۲
کتاب البرزخ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰)۵۹۶۶
کتاب البہجۃ السنیۃ فی آداب الطریقۃ العلیہ الخالدیہ نقشبندیہ: (ج۔۱۰)۶۳۷۹، ۶۴۱۴
کتاب التراویح: (ج۔۱۰)۵۸۰۶
کتاب الترغیب: (ج۔۵)۲۸۸۳
کتاب التعلیم: (ج۔۶)۳۴۱۵
کتاب التفکر: (ج۔۲)۶۳۳
کتاب الثقات: (ج۔۲)۵۴۶، ۵۴۹، ۶۲۳، ۶۴۲، ۶۶۰،
کتاب الجمع بین الشریعہ والحقیقہ: (ج۔۱)۱۹۲
کتاب الحج (امام محمد): (ج۔۵)۲۸۸۳
کتاب الخراج (امام ابو یوسف): (ج۔۵)۲۸۸۳
کتاب الدعوات: (ج۔۳)۱۱۳۳، (ج۔۸)۴۸۳۳،
کتاب الزکوٰۃ: (ج۔۶)۳۶۲۸
کتاب الزہد: (ج۔۱)۱۹۰، (ج۔۲)۵۱۶، ۶۳۳۔۶۳۴، ۶۴۳، ۶۴۶، ۶۶۲
کتاب السلوک لمعرفۃ دول الملوک: (ج۔۵) ۲۸۵۶۔۲۸۵۷

کتاب السنۃ: (ج_۲) ۵۵۱، ۵۹۶، ۶۴۲، ۶۴۷، ۶۵۳
کتاب الشفا فی تعریف حقوق مصطفیٰ (قاضی عیاض): (ج_۲) ۵۹۸، ۶۲۵، ۶۵۴، ۶۶۱، (ج_۵) ۲۸۸۶
کتاب الصدق: (ج_۷) ۴۴۴۲
کتاب الصیام: (ج_۶) ۳۶۲۸
کتاب العظمۃ: (ج_۲) ۵۱۴، ۶۳۳
کتاب العقل (داؤد بن المحبر): (ج_۲) ۵۸۷
کتاب العلم: (ج_۲) ۶۳۵، ۱۱۲۹
کتاب الفردوس: (ج_۲) ۵۳۶
کتاب المحبت: (ج_۱) ۵۳
کتاب المسلسلات عند المحدثین: (ج_۶) ۳۲۰۲، ۳۲۱۹
کتاب الموضوعات: (ج_۲) ۵۹۳، ۵۹۵، ۶۱۵، ۶۵۸، (ج_۷) ۴۳۰۲، ۴۳۲۰
کتاب الآثار (امام محمد): (ج_۵) ۲۸۸۳
کتاب الآثار (ابن حجر عسقلانی): (ج_۳) ۱۶۶۲
کتاب انساب الانجاب: (ج_۱۰) ۶۳۶۱
کثیب الانوار فی ذکر اللہ العزیز الجبار: (ج_۶) ۳۲۰۰
کرامات اولیاء: (ج_۱) ۸۴، (ج_۵) ۲۷۴۳، (ج_۹) ۵۵۴۳
کرامات اہل حدیث: (ج_۶) ۳۳۲۴
کرامات صحابہ: (ج_۳) ۱۸۶۸
کرامات مجدد الف ثانی: (ج_۲) ۱۳۶۷، ۱۳۶۹
کرامات وارشادات مجدد الف ثانی: (ج_۵) ۲۸۳۰
کردستان میں سلسلہ خالدیہ مجددیہ: (ج_۶) ۳۲۶۷
کریما: (ج_۶) ۳۷۳۸
کشاف اصطلاحات الفنون: (ج_۸) ۴۸۳۴
الکشاف: (ج_۲) ۷۵۱
کشف الاستار عن زوائد البزار: (ج_۲) ۶۳۵، (ج_۷) ۴۳۲۲
کشف الاسرار: (ج_۲) ۷۳۰
کشف الاشکال فی مسالۃ الافعال: (ج_۶) ۳۲۰۰
کشف البدایات والنہایات: (ج_۲) ۲۷۶۲
کشف الحقائق: (ج_۲) ۵۸۹، ۶۵۱
کشف الحوبۃ فی معنی الاوبۃ: (ج_۶) ۳۲۰۰
کشف الخفاء: (ج_۲) ۶۰۱، ۶۰۹، ۶۲۷، ۶۵۴، ۶۵۷، ۶۵۹، ۶۶۱، (ج_۷) ۴۳۰۷، ۴۳۲۱،
کشف الستار عن زوائد البزار: (ج_۲) ۶۴۳
کشف الظنون: (ج_۵) ۲۸۴۷، ۲۸۵۰، ۲۸۵۵_۲۸۵۷، (ج_۹) ۵۱۹۶
کشف الغطاء حسن اذہان الافسہا: (ج_۱) ۸۶، (ج_۴) ۲۴۵۴، (ج_۶) ۳۴۴۴
کشف الغطاء عن اذہان اغبیاء: (ج_۴) ۲۴۳۹، (ج_۵) ۲۷۹۹، (ج_۹) ۵۳۴۰
کشف الغطاء عن وجوہ الخطاء: (ج_۵) ۲۶۹۹، ۳۰۸۰، (ج_۸) ۴۵۹۸، ۴۶۱۳
کشف الغمہ: (ج_۴) ۲۳۹۸
کشف الغین فی شرح رباعیتین: (ج_۵) ۲۶۰۵، (ج_۱۰) ۶۱۵۴، ۶۱۵۹
کشف الکامن فی علم الباطن: (ج_۶) ۳۴۴۲، ۳۵۲۱،

کشف المبہم: (ج۔۸) ۴۶۲۷

کشف المحجوب: (ج۔۱) ۳۳۷، (ج۔۲) ۵۲۰، ۵۸۳، ۶۳۵، ۶۴۹، ۷۳۷، ۹۸۷، ۱۲۱۶، (ج۔۳) ۱۵۶۷، (ج۔۵) ۲۶۴۳، ۲۶۵۰، ۳۰۵۳، ۳۰۷۲، (ج۔۷) ۴۳۵۲، ۴۴۳۸، (ج۔۹) ۵۴۵۹، (ج۔۱۰) ۵۸۰۳، ۵۸۴۳، ۶۱۱۹

کشف المعارف: (ج۔۵) ۲۶۳۰

کشف لآثار الشریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ: (ج۔۲) ۷۲۷

کفایہ: (ج۔۸) ۴۶۴۶

کفایۃ الغلام: (ج۔۲) ۷۰۸، (ج۔۵) ۲۶۹۷

الکلام المنجی بہ رد ایرادات البرزنجی: (ج۔۲) ۸۶، (ج۔۴) ۲۴۵۴، ۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۶۵۲، ۲۶۹۹، ۲۸۱۴، ۲۸۱۸، (ج۔۹) ۵۳۲۹، ۵۳۴۰، ۵۴۹۷

کلام: (ج۔۴) ۲۵۰۶

کلمات الحق: (ج۔۲) ۱۲۲۹

کلمات الصادقین: (ج۔۱) ۳۱۲۔۳۱۴، (ج۔۷) ۴۱۶۳، ۴۱۶۵، (ج۔۱۰) ۵۷۶۰

کلمات طیبات (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی): (ج۔۱) ۱۱۲، ۳۸۵، (ج۔۳) ۱۳۹۷، (ج۔۴) ۲۴۵۴، ۲۴۷۵، (ج۔۵) ۲۵۷۲، ۲۸۳۱، ۲۸۴۲، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۷۴، ۵۷۸۹

کلمۂ حق: (ج۔۲) ۱۲۴۶

کلیات ابراہیم: (ج۔۶) ۳۳۲۴

کلیات ادیب: (ج۔۶) ۳۴۴۸

کلیات اقبال (اردو): (ج۔۲) ۱۲۶۳، (ج۔۳) ۱۴۰۶، (ج۔۵) ۲۵۷۹، ۳۰۰۸۔۳۰۱۲، ۳۰۱۴۔۳۰۱۵، ۳۰۴۳، ۳۰۴۵، (ج۔۹) ۵۵۷۸

کلیت اقبال (فارسی): (ج۔۵) ۲۵۷۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۹۔۳۰۱۰، ۳۰۱۳۔۳۰۱۸، ۳۰۴۵

کلیات خواجہ باقی باللہ: (ج۔۱) ۳۰۷، ۳۱۰، ۳۵۲، ۳۸۵، (ج۔۳) ۱۴۵۹، (ج۔۶) ۳۳۴۵، ۳۳۹۳، (ج۔۸) ۴۹۴۷، (ج۔۹) ۵۱۹۷، (ج۔۱۰) ۵۶۳۶، ۵۶۷۴، ۶۱۵۴

کلیات دیوان صحیح سالم پشاوری: (ج۔۸) ۴۸۴۱، ۴۸۴۷، ۴۸۵۲، ۴۸۶۲،

الکمال فی احوال الابدال: (ج۔۲) ۱۱۸۰

کمالات عثمانیہ: (ج۔۶) ۳۹۲۰

کمالات فضیلت (از ڈاکٹر محمد افضل جالندھری): (ج۔۱۰) ۶۰۴۶، ۶۰۵۶

کمالات مظہری: (ج۔۴) ۲۴۹۱

کنز الاخیار: (ج۔۶) ۳۷۴۰

کنز الایمان اور دیگر معروف اردو قرآنی تراجم کا تقابلی جائزہ: (ج۔۱) ۵۴، (ج۔۵) ۳۱۱۰

کنز الایمان فی ترجمہ القرآن: (ج۔۵) ۲۸۷۹، ۲۹۱۰، ۲۹۹۰، (ج۔۷) ۴۲۷۷،

کنز الحقائق: (ج۔۱) ۴۱۲، ۴۲۸، (ج۔۵) ۲۵۹۹، (ج۔۸) ۴۵۸۰، ۴۶۴۵، (ج۔۹) ۵۱۷۸، (ج۔۱۰) ۵۶۳۵

کنز الدقائق: (ج۔۲) ۷۰۸، (ج۔۸) ۴۹۴۷،

کنز الصلاۃ فی کیفیۃ الصلاۃ: (ج۔۶) ۳۲۰۰

کنز العمال: (ج۔۱) ۲۱۴، ۲۲۰، (ج۔۲) ۵۸۰، ۶۴۷،

۷۰۸، ۱۱۲۹، (ج۔۳) ۱۵۰۵، ۱۵۵۱، (ج۔۴) ۱۹۸۳، (ج۔۷) ۴۳۰۵، ۴۳۲۰، ۴۳۲۷، ۴۳۳۰، ۴۳۴۶۔۴۳۴۷، ۴۳۸۵۔۴۳۸۶، (ج۔۹) ۵۳۱۲

کنز القدیم فی آثار الکریم: (ج۔۵) ۲۷۲۵، ۲۷۲۷، ۲۷۳۱، (ج۔۱۰) ۵۹۴۰

کنز الہدایات (مفتی محمد باقر بن شرف الدین): (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۵) ۲۶۶۳۔۲۶۶۵، ۲۷۶۲۔۲۷۶۴، ۲۷۶۶، (ج۔۸) ۴۹۷۴، ۴۹۸۴۔۴۹۸۵، (ج۔۹) ۵۰۳۹، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۹

کنز فارسی: (ج۔۲) ۶۶۴، (ج۔۳) ۱۷۵۹، ۱۷۷۳

کنوز الحقائق: (ج۔۲) ۵۱۳، ۵۳۷، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۸۴، ۶۳۳، ۶۳۹، ۶۴۷، ۶۴۹، (ج۔۹) ۵۲۲۶

الکنیٰ: (ج۔۲) ۵۸۰۔۵۸۱

کواکب الدریہ: (ج۔۱) ۸۷، (ج۔۵) ۲۸۰۲، (ج۔۹) ۵۵۵۴

الکواکب السائرۃ: (ج۔۶) ۳۱۶۸

الکوکبۃ الشھابیہ فی کفریات ابی الوھابیہ: (ج۔۵) ۲۵۷۳، ۲۵۷۹

کیا قائداعظم شیعہ تھے: (ج۔۵) ۲۹۱۰

کیا مذہب ممکن ہے: (ج۔۵) ۳۰۳۳

کیگوھرنامہ: (ج۔۱۰) ۵۹۲۷، ۵۹۴۵

کیمیائے سعادت: (ج۔۹) ۵۵۱۴

گ

گزیٹیئر آف بلوچستان، کوئٹہ ۱۹۰۶ء: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

گزیدہ از مکتوبات میاں فقیر اللہ جلال آبادی (عبد اللہ سمندر غوریالی): ۹ (ج۔۱۰) ۵۹۵

گفتار اقبال: (ج۔۵) ۳۰۴۳

گفتار و کردار قائداعظم: (ج۔۹) ۵۵۷۸

گلدستہ (ترجمہ گلستان): (ج۔۱۰) ۵۸۷۱

گلدستۂ حکیم: (ج۔۶) ۳۷۴۸، ۳۷۵۴، (ج۔۱۰) ۵۹۵۴

گلزار ابرار: (ج۔۹) ۵۳۲۰، (ج۔۱۰) ۶۱۱۶

گلزار اولیاء: (ج۔۱) ۵۳

گلزار طریقت: (ج۔۶) ۳۸۰۰

گلزار معانی: (ج۔۵) ۳۰۰۷، ۳۰۴۵

گلزار ولایت: (ج۔۱) ۴۳

گلستان: (ج۔۲) ۶۶۴، (ج۔۳) ۱۷۶۱، ۱۸۷۳، (ج۔۶) ۳۷۱۳

گلستان سخن: (ج۔۱) ۴۶۱

گلشن زار: (ج۔۶) ۳۲۸۸

گلشن سادات رواتڑا شریف: (ج۔۱) ۴۳

گلشن وحدت: (ج۔۲) ۱۷۷، (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۵) ۲۶۶۱، (ج۔۱۰) ۶۱۲۲، ۶۳۵۶، ۶۳۷۳

گنج عرفان: (ج۔۱) ۴۶۱

گنجینۂ انوار رحمانی اردو، ترجمہ مکتوبات امام ربانی: (ج۔۵) ۲۶۴۶، ۲۷۲۵، (ج۔۸) ۴۵۷۷

گویا دبستان کھل گیا: (ج۔۶) ۳۷۰۸

ل

اللآلی المصنوعۃ: (ج۔۲) ۵۱۵، ۶۳۴، ۶۵۳

اللآلی المنوعۃ: (ج۔۷) ۴۳۰۳

اللآلی المنثورہ فی الاحادیث المشہورہ: (ج۔۲) ۵۷۰، ۵۸۲، ۵۸۶، ۶۰۰، ۶۰۸، ۶۱۸، ۶۴۶، ۶۴۸، ۶۵۰، ۶۵۴، ۶۵۶_۶۵۸

اللآلی الموضوعہ: (ج۔۷) ۴۲۸۵، ۴۳۱۸، ۴۳۲۰

لباب القدروی: (ج۔۸) ۴۶۴۵_۴۶۴۶

لباب المعارف العلمیہ: (ج۔۸) ۴۹۴۷

لبس الصوف: (ج۔۱) ۱۹۳

لسان الزمان فی اخبار سید العربان: (ج۔۶) ۳۲۰۱

لسان العرب: (ج۔۱) ۱۷۴، ۱۹۳، (ج۔۲) ۱۱۳۳

لسان المیزان: (ج۔۴) ۱۹۴۰، (ج۔۹) ۵۲۷۰

لطائف الجود فی مسالۃ وحدۃ الوجود: (ج۔۶) ۳۲۱۵

لطائف الحق: (ج۔۶) ۳۳۵۲، ۳۳۹۵

اللطائف الروحانیۃ فی شرح الابیات الالھامیۃ: (ج۔۶) ۳۱۷۵

لطائف المدینہ: (ج۔۵) ۲۶۶۸، (ج۔۸) ۴۶۱۳، (ج۔۹) ۵۰۶۳، ۵۵۲۵، (ج۔۱۰) ۵۶۱۳، ۵۷۵۸، ۵۷۶۱، ۵۷۶۳

لطائف قدوسی: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴

لطف اللطیف فی اعطاء الرغیب: (ج۔۶) ۳۵۲۲

لطیفۃ التحقیق: (ج۔۶) ۳۵۷۵، ۳۷۰۵

لغات القرآن: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۶۰۴

لغات کشوری: (ج۔۲) ۱۰۳۰

لغت نامہ دھخدا ''توران پشت'': (ج۔۵) ۲۸۵۴، ۲۸۵۸

لکشاف عن مخطوطات خزائن الاوقاف: (ج۔۵) ۲۶۵۱

لماذا تاخر المسلمون: (ج۔۵) ۲۹۴۳

اللمحات فی صلوٰۃ ابن مشیش: (ج۔۶) ۳۱۷۲

لمحے: (ج۔۴) ۲۵۱۳

اللمع فی التصوف (ابوالنصر سراج): (ج۔۱) ۳۳۷، (ج۔۲) ۵۱۶، ۶۳۴، ۷۸۹

لمعات التنقیح: (ج۔۴) ۱۹۸۳، (ج۔۹) ۵۰۳۵

لمعات الصوفیہ: (ج۔۱۰) ۵۵۹۰

لمعات امام ربانی: (ج۔۱۰) ۶۲۴۵، ۶۳۳۹

لمعات کمالات قادریہ: (ج۔۶) ۳۸۰۰

لواح خانقاہ مظہریہ (موسوم بہ مکتوبات مدرسہ دیر): (ج۔۹) ۵۰۱۰، (ج۔۱۰) ۶۱۲۵

لواری جالال: (ج۔۶) ۳۷۰۲، ۳۷۰۵

لواقع الانوار الاقدسیہ فی بیان العھود المحمدیہ: (ج۔۲) ۵۳۲، ۶۳۸

لوامع الاسرار شرح مطویات الاسرار: (ج۔۱) ۱۰۱، (ج۔۱۰) ۵۶۲۹، ۶۱۶۲، ۶۱۶۸

لوائح (مولانا جامی): (ج۔۱) ۳۳۷

لوعۃ الضمائر فی رثاء عبدالقادر: (ج۔۵) ۲۶۸۲

لیلاوتی: (ج۔۱۰) ۵۶۴۶

م

مآثر الامراء: (ج۔۳) ۱۷۲۳، (ج۔۴) ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱_۱۹۹۲، ۲۰۳۴، ۲۴۳۶، ۲۵۱۴، (ج۔۹) ۵۱۱۹، ۵۱۵۵، ۵۳۸۱، (ج۔۱۰) ۵۹۲۶

مآثر الکرام فی تاریخ بلگرام: (ج۔۴) ۱۹۸۴، (ج۔۵) ۲۶۷۹، (ج۔۶) ۳۴۰۷۔ ۳۴۰۸، (ج۔۹) ۵۰۳۵، ۵۱۵۴، ۵۱۵۹۔ ۵۱۶۰

مآثر جہانگیری: (ج۔۹) ۵۰۶۳

مآثر رحیمی: (ج۔۴) ۱۹۷۴

مآثر عالمگیری: (ج۔۳) ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۲۱۹۲، (ج۔۵) ۲۵۷۸، ۲۸۱۶، (ج۔۶) ۳۳۹۴، (ج۔۹) ۵۵۵۲، ۵۵۶۴

مآل الکمال: (ج۔۶) ۳۳۹۴

ماذا قال الائمۃ فی ابن تیمیہ: (ج۔۱) ۴۵۸

مارکسزم (ایک مطالعہ): (ج۔۵) ۲۷۸۹

مارکسی تاریخ نویسی کی تبلیغ: (ج۔۵) ۲۷۹۴

مالابدّ منہ: (ج۔۱) ۳۱۵

ماہنامہ نقوش (لاہور): (ج۔۵) ۲۷۶۲

ماہنامہ آستانہ (کراچی): (ج۔۲) ۱۲۴۱، (ج۔۹) ۵۵۷۸

ماہنامہ آئینہ (لاہور): (ج۔۵) ۲۹۴۴

ماہنامہ اردو ڈائجسٹ (لاہور): (ج۔۵) ۳۰۲۶

ماہنامہ اعلیٰ حضرت (بریلی): (ج۔۵) ۲۹۰۵

ماہنامہ البعث ڈائجسٹ (لاہور): (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۶

ماہنامہ الخیر (پشاور): (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۱

ماہنامہ الرحیم (حیدرآباد سندھ): (ج۔۵) ۲۸۰۵، (ج۔۶) ۳۳۵۹، ۳۴۴۸، ۳۷۰۱

ماہنامہ العرفان (برمنگھم): (ج۔۶) ۳۸۰۹

ماہنامہ الفرقان، مجدد الف ثانی نمبر (بریلی): (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۴) ۲۰۳۴۔ ۲۰۳۶، ۲۰۵۸، (ج۔۵) ۲۸۱۷۔ ۲۸۱۸، (ج۔۹) ۵۰۲۸

ماہنامہ القول السدید (لاہور): (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۴

ماہنامہ المظہر (کراچی): (ج۔۵) ۲۶۳۰، (ج۔۱۰) ۶۴۳۰

ماہنامہ المقصود (کراچی): (ج۔۱۰) ۶۴۳۲

ماہنامہ المنہل (جدہ): (ج۔۵) ۲۷۰۲

ماہنامہ النار (قاہرہ): (ج۔۵) ۲۹۴۴

ماہنامہ انوار الصوفیہ: (ج۔۶) ۳۲۶۷، (ج۔۱۰) ۵۵۹۰

ماہنامہ انوار لاثانی (لاہور): (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۳۳

ماہنامہ برہان، دہلی: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴

ماہنامہ تبیان (دادوالی، گوجرانوالا): (ج۔۶) ۳۷۸۸

ماہنامہ ترجمان اہلسنت (کراچی): (ج۔۶) ۳۷۰۷، (ج۔۱۰) ۵۸۹۵

ماہنامہ تعمیر انسانیت (لاہور): (ج۔۴) ۲۵۱۳

ماہنامہ جہانِ رضا (لاہور): (ج۔۵) ۲۶۲۸، ۲۹۶۰، (ج۔۶) ۳۷۶۲، ۳۷۷۹، ۳۹۳۲، (ج۔۱۰) ۶۰۴۱

ماہنامہ حضرت قاضی سلطان محمد (لاہور): (ج۔۵) ۲۹۱۰

ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام (گوجرانوالہ): (ج۔۱۰) ۶۰۰۳، ۶۰۰۷، ۶۰۱۵، ۶۴۲۸، ۶۴۳۱

ماہنامہ سلسبیل (تذکرۃ اولیاء جدید نمبر) (لاہور): (ج۔۶) ۳۷۷۴، ۳۸۰۰

ماہنامہ سنی دنیا (بریلی): (ج۔۵) ۲۹۰۵، (ج۔۶) ۳۶۴۲

ماہنامہ سوئے حجاز (لاہور): (ج-۶)؛ ۳۹۱۰

ماہنامہ سیدھا راستہ (لاہور): (ج-۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۲

ماہنامہ ضیائے حرم (لاہور): (ج-۵) ۲۷۰۱، ۲۹۴۴

ماہنامہ عرفات (لاہور): (ج-۱۰) ۵۸۶۱

ماہنامہ فکر و نظر (اسلام آباد): (ج-۲) ۷۲۸، ۹۸۰، (ج-۵) ۲۸۴۳، (ج-۶) ۳۷۸۳

ماہنامہ فیض (شیرگڑھ): (ج-۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۳۴

ماہنامہ فیضان سدرہ (لاہور): (ج-۷) ۴۰۶۲

ماہنامہ قومی ڈائجسٹ (لاہور): (ج-۴) ۲۲۰۲، (ج-۹) ۵۵۷۷

ماہنامہ قومی زبان: (ج-۶) ۳۴۴۷

ماہنامہ کنز الایمان (لاہور): (ج-۷) ۴۲۷۸

ماہنامہ مجلّہ الحقیقہ (شکر گڑھ): (ج-۱۰) ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۶، ۶۴۲۸، ۶۴۳۵

ماہنامہ مجلّہ المظہر (کراچی): (ج-۷) ۴۰۶۳، (ج-۱۰) ۶۴۲۸

ماہنامہ مجلّہ المقصود (کراچی): (ج-۱۰) ۶۴۲۸

ماہنامہ مجلّہ رکن الاسلام (حیدر آباد سندھ): (ج-۱۰) ۶۰۷۴، ۶۴۲۸، ۶۴۳۸

ماہنامہ مجلّہ فیضان کرم (کراچی): (ج-۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۳۹

ماہنامہ معارف (اعظم گڑھ): (ج-۹) ۵۳۷۴، ۵۳۷۶، ۵۳۸۲، (ج-۱۰) ۵۳۷۸، ۵۶۵۹

ماہنامہ معارف رضا (کراچی): (ج-۵) ۲۷۰۳، (ج-۱۰) ۵۸۱۱

ماہنامہ مقدمہ (کراچی): (ج-۶) ۳۷۰۸،

ماہنامہ منار الہدیٰ (بیروت): (ج-۵) ۲۶۹۹

ماہنامہ نقوش (لاہور): (ج-۵) ۲۷۶۲

ماہنامہ نوائے اساتذہ (لاہور): (ج-۷) ۴۲۷۸

ماہنامہ نوائے اسلام (پاک پتن شریف): (ج-۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۳

ماہنامہ نور الاسلام (شرقپور شریف): (ج-۱۰) ۶۴۲۸-۶۴۲۹، ۶۴۴۰

ماہنامہ نور اسلام، اولیائے نقشبند نمبر (شرقپور شریف): (ج-۵) ۲۸۱۷، (ج-۶) ۳۸۰۰

ماہنامہ نور اسلام، مجدد الف ثانی نمبر (شرقپور شریف): (ج-۱) ۴۲، (ج-۳) ۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰-۱۳۷۱، ۱۵۲۱، ۱۵۴۸، ۱۵۵۸، (ج-۴) ۱۹۱۶، (ج-۵) ۲۵۵۵، ۲۸۱۷، ۳۰۱۱، (ج-۶) ۳۸۰۰

ماہنامہ نور العرفان (لاہور): (ج-۱۰) ۶۴۲۸

ماہنامہ نئی زندگی: (ج-۶) ۳۷۰۵

ماھو التصوف؟ ماھی طریقۃ النقشبندیہ؟: (ج-۱) ۱۰۳

مبداء و معاد: (ج-۱) ۹۹-۱۰۰، ۲۷۰، ۴۱۷، ۴۲۸، ۴۴۰، (ج-۲) ۵۰۹، ۷۵۰، ۶۶۶، ۶۹۸، ۷۱۲، ۷۱۴، ۷۲۸-۷۲۹، (ج-۳) ۱۲۹۵، ۱۳۶۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۲-۱۳۸۴، ۱۴۱۹، ۱۵۲۴، ۱۵۴۱، ۱۵۹۷، ۱۶۰۲، ۱۸۳۵، (ج-۴) ۱۹۴۱-۱۹۴۲، ۲۰۳۳، ۲۲۷۱، ۲۳۸۴، ۲۴۱۵-۲۴۱۶، ۲۴۱۹، ۲۴۳۴، ۲۴۳۶، (ج-۵) ۲۵۷۰، ۲۵۷۹، ۲۵۸۲-۲۵۸۴، ۲۵۹۲، ۲۶۰۷-۲۶۰۹، ۲۶۲۵، ۲۶۲۷-۲۶۲۸، ۲۶۳۳، ۲۶۴۷، ۲۶۶۴، ۲۶۷۸، ۲۷۶۱، ۲۷۶۳، ۲۸۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۶۱، ۳۰۰۳، ۳۰۰۹، ۳۰۱۷-

۳۰۱۸، ۳۰۷۳، (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۷) ۴۰۷۳، ۴۰۸۴، ۴۱۷۱، ۴۱۹۸، ۴۲۰۳، ۴۲۰۶، ۴۲۱۱_۴۲۱۲، ۴۲۱۴، ۴۲۱۶، ۴۲۲۰، ۴۲۳۱_۴۲۳۲، ۴۴۲۳، (ج۔۸) ۴۵۱۴، ۴۵۱۹، ۴۵۳۴_۴۵۳۶، ۴۵۳۸_۴۵۴۰، ۴۵۴۶، ۴۵۷۹، ۴۵۸۷_۴۵۸۸، ۴۶۱۶، ۴۷۱۴، (ج۔۹) ۵۰۲۶، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۰۵۵، ۵۱۵۰، ۵۲۲۷، ۵۲۴۸، ۵۳۴۶، ۵۴۹۰، ۵۵۰۳_۵۵۰۴، ۵۵۱۹، ۵۵۲۲، (ج۔۱۰) ۵۶۷۱، ۵۶۷۹، ۵۹۷۳، ۶۱۶۲، ۶۱۶۴، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴_۶۱۸۵، ۶۲۳۸_۶۲۴۰

مبسوط: (ج۔۲) ۷۰۴، (ج۔۳) ۱۶۰۴_۱۶۰۶، ۱۷۰۸، (ج۔۸) ۴۶۴۷

المبسوط: (ج۔۶) ۳۹۲۱

مبلغ الرجال: (ج۔۱) ۳۲۳، (ج۔۹) ۵۲۹۵

المبین ختم النبیین (امام احمد رضا محدث بریلوی): (ج۔۳) ۱۵۶۳

متاع اخلاق: (ج۔۲) ۱۲۴۷

متاع فقیر: (ج۔۶) ۳۸۵۶

متشابہ القرآن: (ج۔۵) ۲۶۹۸

متفرق اور مختصر نثری تحریریں: (ج۔۴) ۲۴۶۵

المتممۃ المسئلۃ المہمۃ: (ج۔۴) ۲۴۵۲

متن عقائد ترجمہ: (ج۔۶) ۳۲۶۱

متن لطیف فی اسم الجنس والعلم: (ج۔۴) ۲۳۱۶

مثنوی اسرار خودی: (ج۔۵) ۲۹۲۵، ۲۹۳۱، ۲۹۷۳،

مثنوی بوزن خسرو شیریں: (ج۔۴) ۲۳۸۴

مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام شرق: (ج۔۵) ۲۹۲۹، ۲۹۴۴، ۲۹۴۶، ۳۰۱۳، ۳۰۲۰، ۳۰۳۸_۳۰۳۹

مثنوی چار چمن: (ج۔۸) ۴۶۱۳

مثنوی صمدانی: (ج۔۴) ۱۹۱۸، ۱۹۲۰، (ج۔۷) ۴۴۵۲،

مثنوی قبل از زمانِ درویشی: (ج۔۱) ۲۹۴

مثنوی گل نامہ (فارسی): (ج۔۶) ۳۴۳۹

مثنوی معدن الانوار: (ج۔۵) ۲۸۱۱

مثنوی معنوی کی تفسیر: (ج۔۶) ۳۲۸۸

مثنوی مولانا روم: (ج۔۲) ۶۰۰، ۶۰۲، ۶۵۴_۶۵۵، (ج۔۳) ۱۲۹۶، ۱۴۰۰، ۱۵۶۵، (ج۔۴) ۲۳۸۴، (ج۔۵) ۲۷۳۹، ۳۰۱۴، (ج۔۶) ۳۳۰۲، ۳۷۶۷، ۳۷۸۸، ۳۸۵۲، (ج۔۹) ۵۱۵۲، (ج۔۱۰) ۵۷۸۴، ۵۸۶۶، ۶۰۱۴، ۶۰۴۰، ۶۰۶۸

مجالس الابرار: (ج۔۲) ۵۱۲، ۶۳۳

مجالس المومنین: (ج۔۸) ۴۵۱۳

المجد والقالد فی مناقب الشیخ خالد: (ج۔۴) ۲۵۰۵، (ج۔۴) ۲۵۰۹

مجدد اعظم (محمد حلیم): (ج۔۱) ۳۵۲، (ج۔۵) ۳۰۴۰، (ج۔۹) ۵۰۲۸

مجدد الف ثانی (ڈاکٹر محمد مسعود): (ج۔۴) ۱۹۴۱، (ج۔۵) ۲۶۲۲، ۳۰۰۹، (ج۔۸) ۴۸۶۳، (ج۔۹) ۵۱۹۷

مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی: (ج۔۶) ۳۳۹۳

مجدد الف ثانی امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ: (ج۔۱۰) ۶۳۳۰

مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی: (ج۔۵) ۲۵۵۴، ۲۸۹۷، (ج۔۱۰) ۶۳۲۹

مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال: (جـ۱)۳۶۴، (جـ۱۰) ۶۳۱۷
مجدد الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ: (جـ۱)۴۳۳
مجدد الف ثانی کا نظریۂ توحید: (جـ۴)۲۱۶۷_۲۱۷۰
مجدد الف ثانی کردار و افکار (پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی): (جـ۹)۵۰۶۴، (جـ۱۰)۶۲۴۵
مجدد الف ثانی کے حالات زندگی: (جـ۸)۴۸۶۱، ۴۸۶۴
مجدد کا نظریہ: (جـ۵)۲۷۵۹
مجدد ماَۃ حاضرۃ (جاوید اقبال مظہری): (جـ۱)۵۶
مجدد عصر (محمد عبد الستار طاہر): (جـ۱)۵۶
مجدد نامہ: (جـ۳) ۱۲۹۹، (جـ۴) ۱۹۱۴، (جـ۵) ۲۵۵۲، (جـ۶) ۳۱۴۲، (جـ۷) ۴۰۰۸، (جـ۸) ۴۵۰۰، (جـ۹) ۵۰۱۲
مجدد ہزارہ دوم: (جـ۱)۶۴_۶۵، ۳۶۴، (جـ۲)۸۵۴، (جـ۳) ۱۷۲۱_۱۷۲۲، (جـ۵) ۲۹۱۶، ۲۹۱۸، ۳۰۲۰، ۳۰۴۲_۳۰۴۳، ۳۰۴۵، (جـ۱۰)۶۲۴۴، ۶۳۱۵
مجددون فی الاسلام من القرن لاول الی القرن الرابع عشر: (جـ۹)۵۰۴۰
مجلس اقبال: (جـ۲)۱۲۴۷
مجلس تحقیقات: (جـ۹)۵۱۵۳
مجلس نشریات اسلام: (جـ۹)۵۱۶۱
مجلّہ ارمغان (سندھ یونیورسٹی جامشورو): (جـ۶)۳۴۴۵
مجلّہ الصداق (حیدرآباد): (جـ۱۰)۶۰۷۱
مجلّہ دانش (اسلام آباد): (جـ۱)۴۶۱
مجلّہ شیرازہ (تہران): (جـ۱)۴۶۱
مجلّہ محمد شفیع اکاڑوی (کراچی): (جـ۶)۳۷۰۶
مجلّہ، مہک (گورنمنٹ کالج، گوجرانوالہ): (جـ۶)۳۸۰۰
مجمع الاسرار: (جـ۱۰)۵۸۷۶، ۵۸۹۲
مجمع الاصفیاء و مجمع الاولیاء: (جـ۱)۱۱۰
مجمع الالبحار (صاحبزادہ محمد عبد الرسول، قصور): (جـ۶) ۳۸۰۰
مجمع الانہر: (جـ۲)۱۱۵۷، ۱۱۷۰، ۱۱۷۶
مجمع الاولیاء: (جـ۱۰)۶۲۴۲
مجمع الاولیاء: (جـ۱)۸۴، (جـ۳)۱۳۸۷، ۱۴۰۲، (جـ۴)۲۰۵۴، (جـ۵)۲۵۶۰، ۲۵۷۷، ۲۷۴۳، ۲۸۲۳، ۲۸۴۲، (جـ۸) ۴۵۷۲، ۴۹۱۰، (جـ۹) ۵۳۶۷، ۵۵۴۳، ۵۵۴۵، (جـ۱۰)۵۶۹۴
مجمع البحرین (صوفی پائندہ محمد): (جـ۱) ۴۶۲، (جـ۲) ۸۰۳، (جـ۴) ۲۴۳۵، (جـ۶) ۳۶۸۶، (جـ۹) ۵۳۲۱، (جـ۱۰)۵۸۲۹، ۶۱۲۰
مجمع الزوائد: (جـ۲) ۵۱۷_۵۱۸، ۵۵۱، ۵۶۲، ۵۷۹، ۶۳۵، ۶۴۲_۶۴۴، ۶۴۸، ۷۰۸، (جـ۷) ۴۳۰۸، ۴۳۲۰_۴۳۲۱، (جـ۸)۴۷۸۷
المجمل المعدد لتالیفاتِ المجدد: (جـ۵)۲۹۰۶
مجمل فصیحی: (جـ۵)۲۸۴۷_۲۸۴۹، ۲۸۵۵، ۲۸۵۸
مجموعہ اردو اشعار: (جـ۴)۲۴۵۶، (جـ۶)۳۳۵۶
المجموعۃ السنیۃ (رسالہ ردِ روافض): (جـ۱۰)۶۲۳۱
المجموعۃ السنیۃ۔ ابو الحسن زیدی فاروقی: (جـ۱) ۳۸۵، (جـ۱۰)۶۱۶۴
مجموعہ تصوف: (جـ۸)۴۵۸۰

مجموعہ حالات ومقامات امام ربانی مجدد الف ثانی: (ج_۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۲

مجموعہ خانی: (ج_۲) ۶۶۴، (ج_۳) ۱۷۵۹_۱۷۶۰، ۱۷۷۳، (ج_۵) ۲۷۱۵، (ج_۸) ۴۶۴۴_۴۶۴۵، (ج_۹) ۵۲۹۹

مجموعہ رسالہ خواجہ علی متقی: (ج_۱۰) ۶۳۷۸

مجموعہ رسائل: (ج_۶) ۳۴۴۳، ۳۷۱۶، (ج_۱۰) ۵۹۵۱

مجموعہ سلطانی: (ج_۸) ۴۶۴۵،

مجموعہ فتاوی عزیزی: (ج_۹) ۵۳۰۹

مجموعہ فتاوی (فتح محمد ڈیروی): (ج_۱۰) ۵۸۸۳

مجموعہ فوائد عثمانی: (ج_۶) ۳۸۸۶، ۳۹۱۱

مجموعہ کلام دیوان حافظ (حافظ فتح محمد قادری): (ج_۱۰) ۶۰۶۸

مجموعہ کلمات طیبہ: (ج_۵) ۲۹۱۱

مجموعہ گلزار حافظ عبدالکریم: (ج_۵) ۲۷۳۱، (ج_۱۰) ۵۹۴۰

مجموعہ مفتاح اللطائف: (ج_۶) ۳۴۴۴

مجموعہ مکاتیب والرسائل الی ارباب الکمال والفضائل (شیخ عبد الحق محدث دہلوی): (ج_۵) ۲۵۷۴، (ج_۷) ۴۲۳۲

مجموعہ مکاتیب (خواجہ محمد معصوم): (ج_۵) ۲۶۶۰

مجموعہ منظوماتِ جامی: (ج_۶) ۳۴۴۳

مجموعہ وسیلۃ السعادت: (ج_۹) ۵۵۳۳

مجموعہ وصایا اربعہ: (ج_۵) ۲۶۵۰

مجموعۃ الطریقۃ المحمدیہ وخزانۃ الفقہ واربعین فی اصول الدین (محمد حسن جان مجددی): (ج_۶) ۳۴۴۴

مجموعۃ رسائل: (ج_۹) ۵۰۵۴، ۵۰۵۶، ۵۳۴۷

محاضرات تاریخ اسلام الامم الاسلامیہ: (ج_۷) ۴۰۳۲

المحبوبیۃ المحمودیہ: (ج_۶) ۳۴۳۲

محدث بریلوی: (ج_۱) ۱۰۷، ۴۶۴، (ج_۹) ۵۰۷۰

محدث دہلوی: (ج_۱۰) ۵۶۹۶

محدثات الامور عربی: (ج_۴) ۲۳۹۳

محسنِ اہلسنت: (ج_۱) ۵۷

محضر نامہ: (ج_۴) ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۵۱، ۲۰۶۵، ۲۴۰۱، (ج_۵) ۲۵۶۳، ۲۵۹۴

محفل الاصفیاء ومجمع الاولیاء: (ج_۵) ۲۸۳۰

محفل اولیاء: (ج_۸) ۴۸۶۲،

محمد الحامد، الشیخ: (ج_۱۰) ۵۶۹۵

محمد بن قاسم سے محمد علی جناح تک: (ج_۴) ۲۱۶۶

محمود الاوراد (پنجابی): (ج_۱۰) ۵۹۵۱

محمود نامہ: (ج_۶) ۳۷۵۴

محیط: (ج_۲) ۷۲۵

محیط قاعدی والکرمانی: (ج_۸) ۴۶۴۷

المحیط: (ج_۳) ۱۵۸۷، (ج_۴) ۲۳۱۴

المخ السنیۃ فی الوحیۃ المتبولیۃ: (ج_۵) ۲۶۹۷

مخ المعانی (احمد فردولی البہاری): (ج_۲) ۶۰۲، ۶۲۱، ۶۵۵، ۶۵۹

مخالفین مجدد: (ج_۶) ۳۳۵۸

مختصر المرادین فی ترجمۃ الخلفا والسلاطین: (ج_۶) ۳۱۷۵

مختصر المعانی:(ج۔۸)۴۶۴۵

مختصر المنتہی:(ج۔۴)۲۵۰۶

مختصر الوقایہ:(ج۔۸)۴۶۴۵،

مختصر تاریخ دمشق:(ج۔۱)۲۱۹۔۲۲۰

مختصر ثبت ابن عقیلۃ (مخطوط):(ج۔۶)۳۲۰۰

مختصر سوانح حضرات نقشبندیہ مجددیہ:(ج۔۶)۳۷۵۴

مختصر مسلسلات ابن عقیلۃ:(ج۔۶)۳۲۰۰

المختصر من کتاب نشر النور و الزہر فی تراجم افاضل مکۃ: (ج۔۵)۲۷۰۳،(ج۔۶)۳۲۱۹

مختصر نشر النور:(ج۔۵)۲۷۰۵،(ج۔۶)۳۲۰۲،۳۲۱۷

مخزن اخلاق:(ج۔۸)۴۹۴۵،

مخزن الاسلام:(ج۔۸)۴۶۴۳

مخزن العلوم:(ج۔۶)۳۴۲۱

مخطوطات امام ربانی:(ج۔۱۰)۶۱۶۲

مخطوطات مکتبۃ مکۃ المکرمۃ:(ج۔۶)۳۲۱۷

مخطوطہ نمبر ۶۴۵ (انڈیا آفس لائبریری، لندن): (ج۔۴) ۲۰۵۹

مخمس کریما:(ج۔۵)۲۸۱۱

مدارج النبوۃ: (ج۔۲) ۵۷۵، ۵۸۵، ۵۸۷۔۵۸۸، ۵۹۱، ۵۹۹۔۶۰۰، ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۱۰، ۶۱۵، ۶۲۱، ۶۴۷، ۶۵۰۔۶۵۱، ۶۵۴۔۶۵۹، ۷۳۳، ۸۵۳، (ج۔۴) ۲۴۳۴، (ج۔۵) ۳۰۱۶۔۳۰۱۷، (ج۔۶) ۳۱۵۳، ۳۳۵۲، (ج۔۷) ۴۳۱۲، ۴۳۲۲، ۴۳۵۹، ۴۳۸۸، ۴۴۱۲، (ج۔۸)۴۶۱۷، (ج۔۹)۵۰۳۶، ۵۳۶۰

مداریہ (ڈاکٹر معین الدین):(ج۔۴)۲۰۵۹

المدام الکبر فی بعض اقسام الذکر:(ج۔۶)۳۱۷۲

المدخل مرسلا:(ج۔۹)۵۳۰۸

مدیر القرآن:(ج۔۹)۵۲۹۳

مذہب واخلاقیات کی دائرۃ المعارف:(ج۔۸)۴۸۷۶،

مراتب ذکران کے نتائج:(ج۔۶)۳۴۹۶

مراتب ستہ (مولانا جامی):(ج۔۲)۱۲۲۷

مرآۃ الاولیاء:(ج۔۱)۲۰۳،(ج۔۷)۴۰۳۶، (ج۔۱۰) ۵۸۸۸، ۵۸۹۰

مراۃ الحلیلہ:(ج۔۶)۳۵۲۲

مراۃ الزمان فی تاریخ الاعیان:(ج۔۵)۲۸۵۶۔۲۸۵۷

مراۃ الشموس بذکر سلسلۃ القطب العیدروس:(ج۔۶)۳۲۱۶

مراۃ قانون اساسی:(ت۔۶)۳۲۶۱

مرآت جہاں نما:(ج۔۹)۵۵۵۷

مرآۃ الجنان:(ج۔۱)۴۲۳

مرآۃ العالم: (ج۔۱) ۴۲۳، (ج۔۵) ۲۷۸۳۔۲۷۸۴، ۲۷۹۳،(ج۔۹)۵۵۵۷

مرآۃ المحققین (سید نور الحسن شاہ بخاری، کیلیانوالہ): (ج۔۳)۱۸۷۳،(ج۔۶)۳۷۸۷

مرج البحرین: (ج۔۱) ۱۳۵، (ج۔۴) ۲۴۱۱، ۲۴۳۴، (ج۔۶)۳۳۵۲

مردانِ حق:(ج۔۵)۲۹۱۰

مرزا احمد غلام یحییٰ:(ج۔۶)۳۶۸۳،۳۹۳۱

مرزا مظہر جانِ جاناں:(ج۔۴)۲۴۷۴۔۲۴۷۵،(ج۔۵) ۲۹۱۱

مرصاد العباد: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۵۰، ۵۸۸۔۵۸۹، ۶۰۰،
۶۰۲، ۶۱۹، ۶۴۰، ۶۴۲، ۶۵۱، ۶۵۴، ۶۵۸۔ ۶۵۹،
(ج۔۵) ۳۰۱۶، (ج۔۷) ۴۳۱۲، ۴۳۲۲

مرغوب الاحباب: (ج۔۶) ۳۴۵۵، ۳۴۷۶، ۳۵۹۰،
۳۶۹۸۔۳۷۰۲، ۳۷۰۵

مرقات شرح مشکوٰۃ: (ملا علی قاری): (ج۔۲) ۵۸۹، ۶۵۱،
۷۳۴، ۸۲۰، ۱۱۲۹، ۱۱۳۳، (ج۔۸) ۴۷۸۷، (ج۔۹)
۵۲۲۲، ۵۳۰۸، (ج۔۱۰) ۵۶۳۴، ۵۶۷۴

مرقعۃ الصوفیۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

مرقعۃ الفقھاء: (ج۔۶) ۳۲۱۶

مروج النساء الخروج النساء: (ج۔۱) ۱۱۵

مرور الصدور: (ج۔۱۰) ۵۸۳۴

مزیل الخفاء فی شرح تحفۃ الشاھدی: (ج۔۶) ۳۱۷۵

مسالک السالکین: (ج۔۶) ۳۳۹۵

مسائل اقبال: (ج۔۵) ۳۰۱۱

مسائل تصوف: (ج۔۵) ۲۶۴۸

مسائل ذبائح رسائل: (ج۔۱۰) ۵۸۷۸

مسائل فقہیہ: (ج۔۶) ۳۵۰۲

مستدرک حاکم: (ج۔۲) ۵۱۷، ۵۲۷، ۵۴۰، ۵۴۲، ۵۵۳،
۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۸، ۵۸۰۔۵۸۱، ۶۰۳۔۶۰۴،
۶۱۲، ۶۱۵، ۶۲۳، ۶۳۵، ۶۴۰، ۶۴۳۔ ۶۴۴، ۶۴۷،
۶۵۵، ۶۵۷۔ ۶۵۸، ۶۶۰، ۷۱۲، ۸۰۶۔ ۸۰۷، ۷۱۲،
۱۱۲۹، (ج۔۳) ۱۵۸۶، (ج۔۷) ۴۳۳۷، ۴۳۴۴،
۴۳۶۰، ۴۴۱۰، (ج۔۹) ۵۳۰۸

مستدرک علی صحیحین: (ج۔۲) ۷۳۲

المستند المعتمد بناء نجات الابد (فضل رسول بدایونی):
(ج۔۵) ۳۰۱۴۔۳۰۱۵

مسعود ملت اور امام احمد رضا: (ج۔۱) ۵۶

مسعود ملت اور رضویات: (ج۔۱) ۵۶، ۱۰۶، (ج۔۵)
۲۹۱۳، (ج۔۶) ۳۷۰۶

مسعود ملت کے آثار علمیہ: (ج۔۱) ۵۶، ۱۰۷

المسلسل باجابۃ الدعاء فی الملتزم: (ج۔۵) ۲۶۸۵

مسلسلات: (ج۔۶) ۳۷۶۰

مسلک الدرر: (ج۔۶) ۳۱۶۱

مسلک امام ربانی: (ج۔۲) ۸۲۵، (ج۔۳) ۱۵۶۶، (ج۔۱۰)
۶۲۴۵، ۶۳۳۶

مسلک مجدد: (ج۔۳) ۱۸۷۳

مسلم ثقافت ہندوستان میں: (ج۔۶) ۳۱۴۴

مسلم شریف: (ج۔۱) ۱۰۹، ۱۹۴، (ج۔۲) ۵۲۰، ۵۴۷،
۵۶۳، ۵۶۵۔ ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۴۔ ۵۷۵، ۵۷۷،
۵۹۱، ۵۹۵، ۶۰۵، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۶، ۶۲۳، ۶۲۵، ۶۴۱،
۶۴۴۔ ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۵۲۔ ۶۵۳، ۶۵۶۔ ۶۵۸، ۶۶۰،
۶۸۹، ۶۹۳، ۷۰۸، ۸۱۳، ۸۲۰، ۸۲۸، ۸۴۱، ۸۵۳،
۸۷۵، ۸۷۹، ۸۸۶ ۹۱۸، ۹۲۶، ۹۳۰، ۱۱۳۰، ۱۱۶۹،
(ج۔۳) ۱۵۰۵، ۱۵۰۸، ۱۵۷۸، ۱۵۸۰، ۱۵۸۹، ۱۶۵۱،
۱۷۹۹۔۱۸۰۰، (ج۔۴) ۲۲۸۸، ۲۳۰۲، ۲۳۰۶، (ج۔۵)
۲۶۱۳، ۲۶۶۲، ۲۶۹۴، ۲۷۱۲، ۲۸۸۳، ۳۰۱۴۔ ۳۰۱۵،
(ج۔۶) ۳۲۲۸، ۳۵۱۶، (ج۔۷) ۴۲۴۴، ۴۲۸۱،
۴۲۸۷۔ ۴۲۸۸، ۴۲۹۲۔ ۴۲۹۶، ۴۲۹۹، ۴۳۰۴،
۴۳۱۷، ۴۳۱۸، ۴۳۲۰، ۴۳۲۷، ۴۳۳۰، ۴۳۳۲۔
۴۳۳۴، ۴۳۳۶۔ ۴۳۳۷، ۴۳۳۹، ۴۳۴۱۔ ۴۳۴۴،

۴۳۴۸_ ۴۳۴۹، ۴۳۵۴_ ۴۳۵۵، ۴۳۵۷_ ۴۳۵۸، ۴۳۶۰، ۴۳۶۳_ ۴۳۶۵، ۴۳۶۷_ ۴۳۶۸، ۴۳۷۰_ ۴۳۷۲، ۴۳۷۵، ۴۳۷۷، ۴۳۸۱_ ۴۳۸۲، ۴۳۸۴، ۴۳۹۰، ۴۳۹۳_ ۴۳۹۴، ۴۳۹۷، ۴۳۹۹_ ۴۴۰۰، ۴۴۰۲_ ۴۴۰۴، ۴۴۰۶، ۴۴۱۱_ ۴۴۱۲، (ج_۸) ۴۵۶۹، ۴۶۳۵، ۴۶۸۵، ۴۷۰۱، ۴۷۰۷_ ۴۷۰۸، ۴۷۷۱، ۴۷۸۵_ ۴۷۸۶، (ج_۹) ۵۱۷۸، ۵۲۲۲، ۵۲۵۳، ۵۲۶۱، ۵۲۶۳، ۵۲۶۵، ۵۲۶۷، ۵۳۱۰، ۵۳۴۵، ۵۳۹۴، ۵۴۱۶

مسلم فلسفہ: (ج_۵) ۳۰۰۷

مسلمان خاتون: (ج_۶) ۳۵۹۷

مسلمان مجددوں کی تحریکیں: (ج_۵) ۲۸۱۸

مسلمانوں کا عروج وزوال: (ج_۹) ۵۱۶۲_ ۵۱۶۳

مسلی الواجد (مخطوطہ، مولانا خالد نقشبندی بغدادی): (ج_۵) ۲۶۸۸

مسند ابن مسعود: (ج_۲) ۶۴۳

مسند ابی حنیفہ: (ج_۶) ۳۶۲۲

مسند ابی یعلی موصلی: (ج_۲) ۵۵۳، ۵۶۶، ۶۱۴، ۶۱۷، ۶۲۳، ۶۲۵_ ۶۲۶، ۶۴۳، ۶۵۷_ ۶۵۸، ۶۶۰_ ۶۶۱، ۱۱۶۹، (ج_۷) ۴۲۸۱، ۴۳۱۷

مسند الانصار: (ج_۸) ۴۸۳۲

مسند الحمیدی: (ج_۸) ۴۷۸۶

مسند الشہاب: (ج_۲) ۵۱۸، ۵۲۲، ۶۱۲، ۶۳۵، ۶۵۷

المسند الفردوس بماثور الخطاب: (ج_۲) ۵۱۳، ۵۲۰، ۵۷۱، ۶۳۹، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۵۵، (ج_۷) ۴۳۴۰، ۴۳۶۸، ۴۳۸۷، ۴۳۹۶

مسند امام احمد بن حنبل: (ج_۱) ۱۹۴، (ج_۲) ۵۲۰، ۵۲۲_ ۵۲۳، ۵۲۸، ۵۳۰، ۵۴۳_ ۵۴۴، ۵۶۱، ۵۶۶، ۵۷۱_ ۵۷۲، ۵۸۱، ۵۹۵، ۶۰۵، ۶۱۹، ۶۲۳، ۶۲۶، ۶۳۴، ۶۳۸، ۶۴۱، ۶۴۴_ ۶۴۶، ۶۴۸، ۶۵۳، ۶۵۶، ۶۵۹_ ۶۶۱، ۷۰۸، ۷۱۲، ۸۰۷، ۸۵۴، ۸۸۶، ۱۱۳۰، ۱۱۶۹، ۱۱۹۱، (ج_۳) ۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۸۰۰، (ج_۴) ۲۲۹۶، ۲۳۳۰، ۲۲۹۵، (ج_۵) ۲۸۸۳_ ۲۸۸۴، (ج_۶) ۳۴۱۶، (ج_۷) ۴۲۸۷، ۴۲۹۷، ۴۲۹۹، ۴۳۰۳، ۴۳۱۳، ۴۳۱۸، ۴۳۲۰، ۴۳۲۲، ۴۳۲۶، ۴۳۲۸، ۴۳۳۰_ ۴۳۳۱، ۴۳۳۳_ ۴۳۳۴، ۴۳۳۸، ۴۳۴۰، ۴۳۴۳، ۴۳۴۵_ ۴۳۴۶، ۴۳۵۰، ۴۳۵۳_ ۴۳۵۷، ۴۳۶۰_ ۴۳۶۱، ۴۳۶۷، ۴۳۷۵، ۴۳۷۸_ ۴۳۷۹، ۴۳۹۳، ۴۴۰۰، ۴۴۰۳، (ج_۸) ۴۷۸۵_ ۴۷۸۶، ۴۷۸۹، ۴۸۱۳، ۴۸۳۲، ۴۹۴۵، (ج_۹) ۵۱۷۸، ۵۲۴۶

مسند امام اعظم: (ج_۵) ۲۸۸۳

مسند امام شافعی: (ج_۵) ۲۸۸۳

مسند بزاز: (ج_۲) ۵۵۷، ۷۱۲، ۱۱۲۹، (ج_۷) ۴۳۵۶

مسند حسن بن سفیان: (ج_۲) ۱۱۲۹

مسند حمیدی: (ج_۷) ۴۳۲۰، ۴۳۳۷، ۴۳۴۸، ۴۳۶۴، ۴۳۷۰

مسند دارمی: (ج_۸) ۴۷۸۹،

مسند مستدرک: (ج_۲) ۱۱۶۹

مسودۂ آئین خلافتِ پاکستان: (ج_۶) ۳۷۹۲

مسئلۃ الاشارۃ بالسبابہ فی التشہد فی الصلاۃ: (ج_۱) ۱۱۱، (ج_۱۰) ۶۳۷۹، ۶۴۱۳

مسئلہ بیس تراویح: (ج_۶) ۳۵۹۷

مسئلہ سود (کریم بخش): (ج۔۲)۷۳۶

مسئلہ سود (مشتاق احمد): (ج۔۲)۷۳۶

مسئلہ سود (مفتی محمد شفیع): (ج۔۲)۷۳۶

مسئلہ سیاہ خضاب: (ج۔۶)۳۵۹۷

مسئلہ ضبطِ ولادت: (ج۔۱)۴۵۸

مسئلہ طلاق ثلاثہ: (ج۔۶)۳۵۹۷

مشارق الانوار: (ج۔۲)۸۰۲، (ج۔۴)۱۹۸۳

مشارق انوار القلوب: (ج۔۲)۵۵۲، ۵۸۴، ۶۴۲، ۶۴۹

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ: (ج۔۱۰)۵۹۰۸، ۶۳۷۸، ۶۴۰۶

مشاہیر علماء سرحد: (ج۔۱۰)۵۸۹۳_۵۸۹۵

مشاہیر نقشبندیہ: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۶)۳۶۸۶

مشائخ طرقِ اربعہ: (ج۔۱)۳۱۰

مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کی دینی اور ملی خدمات (مقالہ ڈاکٹریٹ): (ج۔۱)۴۲، ۱۱۴

مشایعۃ حزب الرحمٰن: (ج۔۵)۲۶۹۳

مشعلِ راہ: (ج۔۲)۱۲۴۶

مشکات باب الاعتصام: (ج۔۹) ۵۲۴۶، ۵۳۵۱، ۵۳۹۴، ۵۴۰۹،

مشکوٰۃ شریف: (ج۔۱) ۷۱، ۱۰۹، ۴۴۶، ۴۴۹، ۴۵۲، (ج۔۲)۵۱۹، ۵۲۸_۵۲۹، ۵۳۶، ۵۴۵، ۵۴۹، ۵۶۹، ۵۷۴، ۶۰۸، ۶۱۲، ۶۲۹، ۶۳۴_۶۳۵، ۶۴۱، ۶۴۵، ۶۴۷، ۶۵۶_۶۵۷، ۶۲۲، ۷۶۹_۷۷۰، ۸۰۵، ۸۱۳، ۸۲۷_۸۲۸، ۹۰۷، ۹۳۰، ۱۱۲۹، ۱۱۹۱، ۱۲۴۶، ۱۲۶۲، (ج۔۳)۱۴۱۶، ۱۵۷۷، ۱۶۶۲، (ج۔۴)۱۹۸۳_۱۹۸۴، ۲۲۰۹، ۲۲۸۰، (ج۔۵)۲۶۶۲، ۲۷۱۳، ۲۷۳۹، ۲۸۸۳، (ج۔۶) ۳۳۴۷، ۳۸۰۹، ۳۹۱۹_۳۹۲۰، (ج۔۷) ۴۰۴۵، ۴۰۵۱، ۴۲۸۳، ۴۲۸۸_۴۲۸۹، ۴۲۹۴، ۴۲۹۹، ۴۳۰۸، ۴۳۱۷_۴۳۱۹، ۴۳۲۱، ۴۳۳۸، ۴۳۴۳، ۴۳۷۸_۴۳۷۹، ۴۳۸۶، ۴۳۹۰، (ج۔۸) ۴۵۱۲، ۴۵۸۹، ۴۶۰۱، ۴۶۳۴_۴۶۳۶، ۴۷۲۰_۴۷۲۱، ۴۷۸۶، ۴۷۸۷، ۴۸۰۸، ۴۹۴۵_۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۰۳۵، ۵۱۹۹_۵۱۰۰، ۵۲۲۲، ۵۲۴۷، ۵۲۶۵_۵۲۶۶، ۵۲۶۸، ۵۲۷۲، ۵۳۰۸، ۵۳۲۰، ۵۵۲۶، (ج۔۱۰) ۵۶۴۰، ۵۷۶۰، ۵۷۶۷، ۵۶۷۳، ۵۸۱۶، ۵۹۹۲

مشیدات دمشق ذوات الاضرحۃ وعناصرھا الجمالیۃ: (ج۔۱۰)۶۴۱۲، ۶۳۷۹

مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن: (ج۔۶)۳۲۱۷، ۳۲۱۹

مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ: (ج۔۲)۶۴۳

مصباح السالکین فی احوال رکن الملۃ والدین: (ج۔۶) ۳۳۷۰، ۳۶۲۸

مصباح الہدایہ: (ج۔۲) ۵۳۸، ۵۸۴، ۵۸۸، ۶۴۰، ۶۴۹، ۶۵۱، (ج۔۵) ۳۰۱۷، (ج۔۷) ۴۳۱۰_۴۳۱۱، ۴۳۲۱

مصر عجائب الآثار المعروف بہ تاریخ جبرتی: (ج۔۶)۳۲۱۱

المصطفٰی: (ج۔۶)۳۴۹۶

مصطلح: (ج۔۶)۳۲۳۲

مصنف ابن ابی شیبہ: (ج۔۲) ۵۱۶، ۶۲۸، ۶۳۲، ۶۳۴، ۶۶۱_۶۶۲، (ج۔۷)۴۳۰۱، ۴۳۷۳،

مصنف امام عبدالرزاق: (ج۔۲)۵۷۲، ۶۴۷، (ج۔۷) ۴۰۵۱، ۴۴۰۸، ۴۴۱۲

المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع: (ج۔۲) ۵۱۳، ۵۸۵، ۶۰۲، ۶۰۸، ۶۳۳، ۶۵۰، ۶۵۴، ۶۵۶

مضمرات: (ج۔۲) ۷۰۵، ۷۰۸، ۹۰۱، (ج۔۳) ۱۶۰۵، ۱۷۰۹، ۱۷۶۱

مضمرات فتاوی کبریٰ: (ج۔۸) ۴۶۴۵،

مطابقۃ الاختراعات العصریہ لما اخبر بہ سید البریۃ: (ج۔۹) ۵۲۶۵

المطالب العالیہ: (ج۔۲) ۶۲۲، ۶۶۰، (ج۔۹) ۵۱۷۵

المطالب المنیفہ فی الذب عن الامام ابی حنیفہ: (ج۔۲) ۷۲۷

مطالب المومنین: (ج۔۴) ۲۳۱۳

مطالب عالیہ: (ج۔۳) ۱۵۰۰

مطالع السعود: (ج۔۶) ۳۲۰۲، ۳۲۱۹

مطالع المسرات بجلاء دلائل الخیرات: (ج۔۲) ۶۵۲، ۶۵۷

مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات: (ج۔۲) ۵۹۰۔۵۹۱، ۶۱۱

مطالع النیرین فی اثبات النجاۃ والدرجات لوالد سید الکونین: (ج۔۶) ۳۱۸۰

مطالع دار البلاد جدہ: (ج۔۵) ۲۷۰۲

مطالعہ ادیان: (ج۔۲) ۱۲۴۵

المطلب التام السوی علی حرب الامام النووی: (ج۔۶) ۳۱۷۲

مطلب الناسک فی علم المناسک: (ج۔۵) ۲۸۵۲

مطمع الواجد فی ترجمۃ الوالد الماجد: (ج۔۶) ۳۱۸۹

مطول: (ج۔۱) ۴۴۸، (ج۔۴) ۲۵۰۶، (ج۔۸) ۴۶۱۵

مظہر الاخلاق: (ج۔۶) ۳۳۷۷

مظہر العقائد: (ج۔۶) ۳۳۷۷

معارج الارتقاء الی سماء الانشاء: (ج۔۵) ۲۶۸۲

معارج النبوۃ: (ج۔۶) ۳۷۳۹، ۳۹۳۲

معارج الولایت فی مدارج الہدایت: (ج۔۴) ۲۰۴۹، ۲۴۴۲، ۲۴۵۰، ۲۴۵۴۔۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۶۵۱۔۲۶۵۲، ۲۸۰۱، (ج۔۹) ۵۳۳۱۔۵۳۳۲، ۵۳۶۳، ۵۳۷۱، ۵۴۲۸، ۵۵۲۲

معارف السنن: (ج۔۲) ۷۳۴

معارف جدیدہ: (ج۔۳) ۱۳۹۵، (ج۔۹) ۵۱۲۸

معارف رزاقیہ: (ج۔۶) ۳۷۹۹

معارف لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: (ج۔۱) ۴۲۸، (ج۔۱۰) ۶۱۲۰

معارف لدنیہ: (ج۔۲) ۵۰۹، ۶۶۹، ۷۲۹، ۷۶۹، (ج۔۳) ۱۲۹۵، ۱۴۱۹، ۱۵۲۲، ۱۵۳۲، ۱۵۳۵، ۱۵۳۷، ۱۵۴۵، ۱۵۴۹، ۱۵۶۴، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۲۰۳۳، ۲۲۷۱، ۲۳۱۷، (ج۔۵) ۲۵۷۰، ۲۵۷۹، ۲۵۸۲۔۲۵۸۳، ۲۵۹۲، ۲۶۰۰، ۲۶۰۵۔۲۶۰۶، ۲۶۲۵۔۲۶۲۷، ۲۶۳۳، ۲۸۴۱، ۲۷۱۰، ۲۹۱۷، (ج۔۶) ۳۴۴۳، (ج۔۷) ۴۱۹۶، ۴۱۹۸، (ج۔۸) ۴۵۷۸، (ج۔۹) ۵۰۲۶، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۰۵۵، ۵۱۵۰، ۵۴۹۰، ۵۵۰۳، ۵۵۲۲، (ج۔۱۰) ۵۶۷۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۴، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴، ۶۱۸۶، ۶۲۳۴۔۶۲۳۵

معارف مکتوبات امام ربانی: (ج۔۱) ۱۰۰، (ج۔۵) ۲۶۳۰، (ج۔۱۰) ۶۱۶۳

المعارف: (ج۔۸) ۴۸۱۲

معاشرتی وعلمی تاریخ: (ج۔۴) ۲۴۳۲، (ج۔۵) ۲۵۷۷

معالم التنزیل: (ج۔۲) ۱۱۹۱، (ج۔۶) ۳۹۱۹

المعالی قصیدہ امالی: (ج۔۶) ۳۸۹۸

معاملات مخصوصہ حضرت مجدد: (ج۔۵) ۲۶۶۱

المعانی (احمد فردولی البھاری): (ج۔۲) ۶۳۱

معاون تواریخ: (ج۔۱) ۴۵۳

معتقد المنتقد (احمد رضا خان بریلوی): (ج۔۵) ۲۸۴۵، ۲۸۴۹ـ۲۸۵۰، ۲۸۵۳، ۲۸۵۵ـ۲۸۵۸، ۲۹۲۰، ۳۰۱۴

معجزات النبی ﷺ (نور بخش توکلی): (ج۔۱۰) ۵۹۶۶

معجزات شریفہ: (ج۔۶) ۳۷۴۰

معجزات نبویہ: (ج۔۶) ۳۲۶۱

معجم الانساب والاسرات الحاکمۃ: (ج۔۵) ۲۸۵۷

المعجم الاوسط: (ج۔۷) ۴۳۰۹

معجم الشعرأ من العصر الجاہلی حتیٰ ۲۰۰۲ء: (ج۔۶) ۳۲۱۷، ۳۲۱۹

المعجم الصغیر: (ج۔۲) ۵۹۴، ۶۵۳

المعجم الکبیر: (ج۔۲) ۵۲۸، ۵۴۱ـ۵۴۲، ۵۵۱، ۵۵۶، ۵۶۹، ۵۷۹، ۶۴۱ـ۶۴۳، ۶۴۶، ۶۴۸، (ج۔۷) ۴۳۰۷، ۴۳۱۳، ۴۳۲۱ـ۴۳۲۲، (ج۔۸) ۴۷۸۶

معجم المصنفین: (ج۔۳) ۱۶۶۲

معجم المطبوعات العربیہ شبہ القارۃ الھندیۃ الباکستانیۃ: (ج۔۵) ۲۷۰۰ـ۲۷۰۴، ۲۸۱۷

المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی: (ج۔۹) ۵۱۹۶

المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم: (ج۔۹) ۵۱۹۶

معجم المولفین: (ج۔۵) ۲۶۲۲ـ۲۶۲۳، ۲۸۱۷

معجم ماالف عن مکۃ: (ج۔۶) ۳۱۷۳، ۳۱۹۰

معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف: (ج۔۵) ۲۷۰۰، ۲۷۰۲ـ۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۱۶۰، ۳۱۶۷، ۳۱۷۳، ۳۱۷۵، ۳۱۸۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۲، ۳۲۱۷، ۳۲۱۹،

معدن الجواہر: (ج۔۹) ۵۵۴۸، ۵۵۵۰ـ۵۵۵۱، ۵۱۵۱

معدن المعانی: (ج۔۱۰) ۵۸۳۳

معدن کرم: (ج۔۶) ۳۸۰۰

معراج الداریہ: (ج۔۲) ۷۰۸، (ج۔۸) ۴۶۴۶ـ۴۶۴۷

معراج نامہ: (ج۔۱) ۵۳

معمولات مظہریہ: (ج۔۲) ۱۲۲۹، (ج۔۴) ۲۴۷۵

معیار الکشوف: (ج۔۴) ۲۸۱۱

معین المنطق: (ج۔۶) ۳۶۶۱، ۳۷۰۷

مغتنم (تالیف، ملا حبیب اللہ قندھاری): (ج۔۶) ۳۴۹۷

مغل رول ان انڈیا (انگریزی): (ج۔۷) ۴۱۸۰، (ج۔۹) ۵۴۱۶

مغل ہندوستان کا طریق زراعت: (ج۔۵) ۲۷۹۳

المغنی برحاشیہ احیاء علوم الدین: (ج۔۲) ۶۴۱

المغنی فی ابواب العدل والتوحید: (ج۔۸) ۴۸۳۴

مفاتیح الجنان: (ج۔۸) ۴۶۴۱

مفاتیح العلوم (خوارزمی): (ج۔۹) ۵۱۹۶

المفاصلہ بین الانسان والکعبہ: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۵) ۲۷۹۹

مفتاح التواریخ: (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۶) ۳۳۹۴

مفتاح السعادۃ: (ج۔۵) ۲۸۵۶ـ۲۸۵۷، (ج۔۹) ۵۱۹۶

مفتاح الفتوح: (ج۔۹) ۵۰۳۶

مفتاح القلوب فی بیان اسلوک: (ج۔۸) ۴۶۴۱

مفتاح المعیۃ فی بیان طریق النقشبندیۃ (شیخ نابلسی): (ج۔۶) ۳۲۲۶

مفتاح کنوز السنۃ: (ج۔۹) ۵۱۹۶

مفتی اعظم اور ان کے خلفاء: (ج۔۵) ۲۹۱۲

مفتی اعظم شاہ محمد مظہر نقشبندی مجددی: (ج۔۸) ۴۸۶۳

مفردات القرآنیہ: (ج۔۲) ۱۱۹۰، (ج۔۵) ۲۶۶۷

المقاصد الحسنہ: (ج۔۲) ۵۳۶، ۵۸۳، ۵۸۶، ۶۰۱، ۶۰۸، ۶۱۹، ۶۳۹، ۶۴۹۔۶۵۰، ۶۵۴، ۶۵۷، ۶۵۸، (ج۔۵) ۳۰۱۷

مقاصد السالکین (خواجہ عبد الخالق غجدوانی): (ج۔۹) ۵۰۱۸، (ج۔۱۰) ۶۱۴۰۔۶۱۴۱

مقاصد الفقہ: (ج۔۶) ۳۸۹۹

مقال العرفا با عزاز شرح و علماء: (ج۔۱) ۱۱۵، ۱۸۵، (ج۔۳) ۱۵۶۴

مقالات اختر: (ج۔۳) ۱۸۷۲

مقالات اقبال: (ج۔۵) ۲۹۴۵، ۳۰۱۱۔۳۰۱۲، ۳۰۲۰، ۳۰۲۵، ۳۰۴۲

مقالات الشعرأ: (ج۔۶) ۳۴۴۶

مقالات اوکاڑوی: (ج۔۶) ۳۵۹۷

مقالات تصوف: (ج۔۶) ۳۷۰۵

مقالات توکلی: (ج۔۱۰) ۵۹۶۸

مقالاتِ صدیقی: (ج۔۲) ۱۲۴۵

المقالۃ الوضیہ فی النصیحۃ والوصیہ: (ج۔۵) ۲۶۴۲

مقام ابی حنیفہ: (ج۔۲) ۷۲۸

مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کی روشنی میں: (ج۔۶) ۳۷۹۲

مقام شیخ فخر الدین عراقی در تصوف اسلامی: (ج۔۳) ۱۸۷۲

المقامات العشر لطلبۃ العصر: (ج۔۵) ۲۶۸۲

مقامات آدمیہ: (ج۔۸) ۴۵۰۰، (ج۔۹) ۵۰۱۲

مقامات احسانی: (ج۔۵) ۲۶۴۹

مقامات احمدیہ و مقامات سعیدیہ (محمد مظہر): (ج۔۶) ۳۳۵۳

مقامات احمدیہ (محمد امین نقشبندی): (ج۔۳) ۱۲۹۷، (ج۔۵) ۲۵۷۸، (ج۔۹) ۵۰۴۱، ۵۱۵۴، ۵۵۶۰، (ج۔۱۰) ۵۶۳۲

مقامات اخیار: (ج۔۹) ۵۲۲۵

مقامات ارشادیہ: (ج۔۶) ۳۳۲۴

مقامات التوحید: (ج۔۶) ۳۷۱۶

مقامات العارفین: (ج۔۱) ۲۷۹

مقامات امام ربانی: (ج۔۴) ۲۴۳۳، (ج۔۹) ۵۱۵۴

مقامات تصوف (پیر عبد الحکیم): (ج۔۶) ۳۷۱۶، (ج۔۱۰) ۵۹۵۱

مقامات خیر: (ج۔۱) ۴۵۸، (ج۔۶) ۳۳۶۲۔۳۳۶۳، ۳۳۶۷، ۳۳۹۴۔۳۳۹۶، ۳۷۵۷۔۳۷۵۸، ۳۷۶۱، (ج۔۸) ۴۹۴۷، (ج۔۹) ۵۲۲۵، ۵۲۶۷، ۵۵۶۱۔۵۵۶۲، (ج۔۱۰) ۵۹۵۹

مقامات سبع: (ج۔۵) ۲۶۸۴

مقامات سراجیہ (خواجہ محمد اسماعیل سراجی نقشبندی):

(ج-۶)۳۹۲۱، (ج-۱۰)۵۹۰۲

مقامات سعیدیہ: (ج-۲)۸۲۳، (ج-۴)۲۲۵۳، (ج-۵) ۲۶۹۵

مقامات شیخ احمد جام: (ج-۸)۴۵۲۴،

مقامات شیخ الاسلام: (ج-۳)۱۳۸۹

مقامات غوث الثقلین: (ج-۵)۲۷۴۳، (ج-۹)۵۵۴۴

مقامات فضیلتہ (از سید زوار حسین شاہ مجددی): (ج-۱۰) ۶۰۵۶

مقامات مجدد الف ثانی: (ج-۲) ۱۱۱۶، (ج-۴) ۲۴۹۰، (ج-۶)۳۳۵۸

مقامات محمود: (ج-۵)۲۸۶۸، (ج-۸)۴۸۵۲،

مقامات مظہری: (ج-۲) ۷۲۹، ۷۳۴، (ج-۴) ۲۴۶۵، ۲۴۷۴-۲۴۷۵، ۲۴۹۰، ۲۴۹۲، (ج-۵)۲۶۵۰، ۲۸۱۶، ۳۰۸۳، ۳۱۰۹، (ج-۶) ۳۳۵۳، ۳۳۵۸، ۳۳۹۴، (ج-۸) ۴۶۰۳، (ج-۹) ۵۲۲۲، ۵۳۶۰، (ج-۱۰) ۵۸۳۳-۵۸۳۵، ۵۸۹۳-۵۸۹۴، ۶۰۳۶، ۶۳۷۸، ۶۳۸۰

مقامات معصومیہ: (ج-۱) ۸۷، (ج-۴) ۱۹۴۱، (ج-۵) ۲۶۵۹، ۲۶۶۲، ۲۶۶۵-۲۶۶۹، ۳۱۰۹، (ج-۷) ۴۲۳۲، (ج-۹) ۵۰۶۰-۵۰۶۱، ۵۰۶۳، ۵۴۸۶، ۵۵۱۷، ۵۵۳۵، ۵۵۴۸-۵۵۴۹، ۵۵۵۷، ۵۵۶۱-۵۵۶۲، ۵۵۶۴، (ج-۱۰) ۵۶۱۳، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۳، ۵۸۸۵-۵۸۸۷، ۵۸۹۵، ۵۹۴۶، ۶۳۵۶، ۶۳۶۲-۶۳۶۵

مقامات نقشبندی: (ج-۱)۸۷

المقامۃ اللغویہ والمقالۃ الادبیۃ: (ج-۵)۲۶۸۲

مقامۃ فی المفاخرۃ بین الغربۃ والاقامۃ: (ج-۵)۲۶۸۲

مقتل کذب وکید: (ج-۵)۲۵۷۳، ۲۵۸۱

مقدمہ ابن خلدون: (ج-۹)۵۳۷۷

المقدمہ التی کتبا لکتابہ: (ج-۹)۵۰۴۰

مقدمہ تجلیات امام ربانی: (ج-۱۰)۶۲۴۴

مقدمہ تفسیر القرآن (نور بخش توکلی): (ج-۱۰)۵۹۶۶

مقدمہ دیوانِ روشن: (ج-۶)۳۷۰۱

مقدمہ شرح مکتوبات قدسی آیات: (ج-۱۰)۶۱۶۳

مقدمہ شرح مکتوبات امام ربانی: (ج-۵)۲۵۲۶، (ج-۸) ۴۵۰۱

مقدمہ طبقات صوفیہ امالی: (ج-۵)۲۶۵۰

مقدمہ عمدۃ المقامات: (ج-۶)۳۶۶۶

مقدمہ عین العلم: (ج-۲)۹۳۰

المقدمۃ السنیہ فی انتصار الفرقۃ السنیہ: (ج-۱)۸۶، ۳۸۵، (ج-۵)۲۸۰۹، (ج-۱۰)۵۷۶۲

مقدمۃ الصلوٰۃ: (ج-۶)۳۴۱۶

مقصدِ تصوف یعنی ارشاد السالکین: (ج-۶) ۳۷۴۳، ۳۷۵۴

مقصدِ نماز یعنی ارشاد المصلین: (ج-۶)۳۷۴۵

مقصود المومنین: (ج-۲)۵۲۰، ۵۳۹، ۶۳۵، ۶۴۰

مقطعات: (ج-۵)۳۰۲۵

مقولات تصوف: (ج-۶)۳۵۹۰

مکاتبات قطب زمن: (ج-۹)۵۵۳۳

المکاشفات العینیہ: (ج-۹)۵۰۵۵

مکاتیب اقبال: (ج۔۵) ۳۰۴۴
مکاتیب الشیخ احمد نقشبندی: (ج۔۵) ۲۶۴۴، ۲۶۷۵
مکاتیب سید سلیمان ندوی بنام مسعود عالم ندوی: (ج۔۵) ۲۶۴۹
مکاتیب شاہ غلام علی دہلوی: (ج۔۲) ۱۱۲۹
مکاتیب شیخ محمد نقشبند: (ج۔۹) ۵۵۵۱، ۵۵۶۴
مکاتیب قاضی احمد (قلمی): (ج۔۶) ۳۷۰۱
مکاتیب کے مجموعے: (ج۔۴) ۴۲۶۵، (ج۔۶) ۳۳۵۶
مکاتیب مجلد ملت: (ج۔۶) ۳۷۹۹
مکاتیب مرزا مظہر جان جاناں: (ج۔۲) ۱۲۳۲
مکاتیب مظہری: (ج۔۱) ۱۹۷، ۴۶۴، (ج۔۵) ۲۹۱۲، (ج۔۶) ۳۳۷۷، ۳۳۸۵،
مکاتیب مولانا احمد برکی: (ج۔۹) ۵۱۲۷
المکاتیب والرسائل: (ج۔۹) ۵۳۴۳
مکاشف الاسرار: (ج۔۵) ۲۶۱۲، ۲۸۱۴
مکاشفات غیبیہ: (ج۔۱) ۴۲۹، ۴۰۲، (ج۔۲) ۷۵۲، (ج۔۳) ۱۲۹۵، ۱۸۳۵، (ج۔۴) ۱۹۴۱، ۲۰۳۳، ۲۴۳۵، (ج۔۵) ۲۵۷۰، ۲۵۸۲۔۲۵۸۳، ۲۵۸۶، ۲۵۹۲، ۲۶۱۱۔ ۲۶۱۲، ۲۶۲۵، ۲۶۳۳، ۲۶۴۱، ۲۶۵۰، ۲۷۱۰، ۲۷۳۶، ۲۹۱۷، (ج۔۶) ۳۴۴۳، ۳۶۸۶، (ج۔۸) ۴۵۷۸، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱، ۴۸۶۳، (ج۔۹) ۵۰۲۶، ۵۰۳۲، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۱۵۰، ۵۲۴۹، ۵۳۴۶، ۵۵۰۵، ۵۵۲۲۔۵۵۲۳، (ج۔۱۰) ۵۶۷۱، ۵۷۵۸، ۶۱۱۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۴، ۶۱۸۲، ۶۱۸۴، ۶۱۸۷، ۶۲۳۷
مکاشفۃ الاسرار: (ج۔۴) ۲۴۵۶
مکتبہ ظاہریہ کے مخطوطات: (ج۔۶) ۳۲۲۷
المکتبۃ المیریۃ الکائنۃ: (ج۔۵) ۲۶۲۰
مکتوب ملک صاحب جان شیرانی: (ج۔۱۰) ۵۹۵۹
مکتوبات شیخ سیف الدین: (ج۔۹) ۵۵۶۲
مکتوبات احمد بن یحییٰ منیری: (ج۔۹) ۵۵۲۰
مکتوبات اقبال: (ج۔۵) ۲۹۱۰، ۲۹۴۴، ۳۰۰۷۔۳۰۰۸، ۳۰۲۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۴
مکتوبات الحرمین: (ج۔۶) ۳۴۴۴
المکتوبات الربانیہ: (ج۔۵) ۲۶۳۰، (ج۔۸) ۴۹۱۰، (ج۔۹) ۵۰۷۰
المکتوبات الربانیہ، الامام الربانی احمد بن عبد الاحد: (ج۔۱۰) ۶۱۶۳، ۶۲۰۶۔ ۶۲۰۸
مکتوبات الشیخ احمد الفاروقی النقشبندی: (ج۔۵) ۲۶۷۴
مکتوبات امام احمد رضا بریلوی: (ج۔۱) ۵۵، ۱۴۷، (ج۔۲) ۶۹۲، (ج۔۴) ۲۲۸۹، (ج۔۵) ۲۸۹۵۔ ۲۸۹۶، ۲۹۱۱، (ج۔۹) ۵۲۰۴، (ج۔۱۰) ۵۶۹۶
مکتوبات امام ربانی بحیثیت ماٰخذ ایمانیات: (ج۔۲) ۱۰۱۴، (ج۔۴) ۱۹۱۵، ۲۲۲۴
مکتوبات امام ربانی کی اہمیت (ج۔۴) ۲۰۵۹
مکتوبات امام ربانی کی تاریخی تعیین: (ج۔۱) ۱۱۳، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۳۰۶
مکتوبات امام ربانی کی دینی و معاشرتی اہمیت: (ج۔۱) ۱۱۳، ۴۶۰، (ج۔۳) ۱۷۲۲، (ج۔۸) ۴۵۷۷، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۳۰۳
مکتوبات امام ربانی (مجدد الف ثانی): (ج۔۱) ۶۱، ۷۶،

۱۰۷، ۱۰۹_۱۱۰، ۲۰۵، ۲۵۲_۲۵۳، ۲۸۵، ۲۸۸، ۴۲۹_
۴۳۰، ۴۴۰، ۴۴۶، (ج_۲) ۵۱۱_۵۱۲، ۵۱۶، ۵۱۹_۵۲۰،
۵۲۵_۵۲۸، ۵۳۰_۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۶، ۵۳۸_۵۳۹،
۵۴۲، ۵۴۴، ۵۴۶، ۵۵۰، ۵۵۳، ۵۵۶_۵۵۷، ۵۶۰،
۵۶۳، ۵۶۵_۵۶۹، ۵۷۲، ۵۷۵_۵۷۶، ۵۷۸،
۵۸۰_۵۸۲، ۵۸۴_۵۸۵، ۵۸۷_۵۸۸، ۵۹۱_۵۹۲،
۵۹۵_۵۹۷، ۵۹۹_۶۰۱، ۶۰۴، ۶۰۶، ۶۰۸_۶۱۲،
۶۱۵_۶۱۶، ۶۱۸، ۶۲۰_۶۲۱، ۶۲۳، ۶۲۶، ۶۲۸، ۶۳۱_
۶۳۲، ۶۴۱، ۶۵۷، ۶۶۴، ۶۶۶، ۶۶۹، ۶۹۳، ۷۱۵،
۷۲۶_۷۳۵، ۷۳۷، ۷۵۴، ۷۵۶، ۷۶۰، ۷۶۳،
۷۶۸_۷۷۱، ۷۷۷، ۷۸۰_۷۸۱، ۷۸۴، ۷۹۲، ۸۰۱_
۸۰۷، ۸۰۹، ۸۱۱_۸۱۲، ۸۱۴_۸۱۶، ۸۱۸، ۸۲۲، ۸۲۵،
۸۳۴، ۸۵۵_۸۶۸، ۸۷۰_۸۷۲، ۸۸۵_۸۸۶،
۹۱۹_۹۲۰، ۹۲۸_۹۳۳، ۹۵۵، ۹۸۱، ۹۸۹، ۹۹۸، ۱۰۱۴،
۱۰۱۷، ۱۰۲۴، ۱۰۳۰_۱۰۳۲، ۱۰۳۵، ۱۰۴۴، ۱۰۸۸،
۱۰۹۲_۱۰۹۴، ۱۰۹۷_۱۰۹۸، ۱۱۰۰، ۱۱۰۲_۱۱۰۵، ۱۱۱۵،
۱۱۲۱، ۱۱۲۶، ۱۱۲۹_۱۱۳۰، ۱۱۴۱، ۱۱۶۶_۱۱۶۷، ۱۱۸۵،
۱۱۸۸، ۱۱۹۰، ۱۱۹۷، ۱۲۱۵_۱۲۱۶، ۱۲۱۸_۱۲۲۳، ۱۲۳۶،
(ج_۳) ۱۲۷۳، ۱۲۸۱، ۱۲۸۴، ۱۲۹۵_۱۲۹۷، ۱۳۶۴،
۱۳۷۰، ۱۳۷۲، ۱۳۷۸_۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۳_۱۳۸۴،
۱۳۹۲_۱۳۹۳، ۱۴۰۰_۱۴۰۱، ۱۴۰۴_۱۴۰۶، ۱۴۱۶_
۱۴۲۱، ۱۴۲۳_۱۴۲۵، ۱۴۲۷_۱۴۲۹، ۱۴۳۱_۱۴۳۵،
۱۴۳۷_۱۴۳۹، ۱۴۴۲، ۱۴۴۸، ۱۴۵۱، ۱۴۵۸_۱۴۵۹،
۱۵۱۳_۱۵۲۵، ۱۵۲۷، ۱۵۲۹_۱۵۴۱، ۱۵۴۳_۱۵۴۷،
۱۵۴۹_۱۵۵۰، ۱۵۵۳_۱۵۵۶، ۱۵۶۴_۱۵۶۶، ۱۵۶۸،
۱۵۹۲_۱۵۹۵، ۱۵۹۷، ۱۶۰۰، ۱۶۰۴_۱۶۰۵، ۱۶۱۲_
۱۶۱۳، ۱۶۱۵، ۱۶۱۷، ۱۶۱۹، ۱۶۲۴، ۱۶۳۲، ۱۶۵۷_۱۶۶۳،
۱۶۷۴_۱۶۸۶، ۱۶۸۸، ۱۶۹۰_۱۶۹۲، ۱۶۹۵_۱۶۹۹،
۱۷۰۱_۱۷۰۴، ۱۷۰۸_۱۷۰۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۲، ۱۷۲۷،
۱۷۵۵، ۱۷۶۵_۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۴، ۱۷۷۶، ۱۷۸۵_
۱۷۸۶، ۱۸۰۹، ۱۸۲۸_۱۸۳۴، ۱۸۳۷، ۱۸۶۹_۱۸۷۰،
(ج_۴) ۱۹۱۴، ۱۹۲۸، ۱۹۳۳، ۱۹۳۵، ۱۹۳۸_
۱۹۳۹، ۱۹۴۱، ۱۹۴۴، ۱۹۵۱، ۱۹۵۵، ۱۹۵۷، ۱۹۶۰،
۱۹۶۷، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷، ۱۹۸۱_۱۹۸۲، ۱۹۸۵_۱۹۸۶،
۲۰۱۶، ۲۰۳۳، ۲۰۳۶_۲۰۳۸، ۲۰۴۲، ۲۰۶۸_۲۰۷۰،
۲۱۱۱، ۲۱۲۰، ۲۱۲۹، ۲۱۳۱، ۲۱۳۹، ۲۱۴۹، ۲۱۵۸، ۲۱۶۸_
۲۱۷۰، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰_۲۲۱۲، ۲۲۱۷، ۲۲۱۹_۲۲۲۰،
۲۲۲۹، ۲۲۳۶، ۲۲۷۱، ۲۲۷۳، ۲۲۸۱، ۲۲۸۶، ۲۲۸۹،
۲۳۱۶، ۲۳۲۴، ۲۳۲۷، ۲۳۶۱، ۲۳۶۷، ۲۳۸۴_
۲۳۸۵، ۲۳۸۹، ۲۳۹۶، ۲۴۰۶_۲۴۰۷، ۲۴۰۹_۲۴۱۵،
۲۴۱۷، ۲۴۱۸_۲۴۲۰_۲۴۳۹، ۲۴۴۲، ۲۴۴۴، ۲۴۴۷_
۲۴۴۸، ۲۴۵۱، ۲۴۵۳_۲۴۵۵، ۲۴۹۱، ۲۴۹۸، ۲۵۲۵_
۲۵۲۶، (ج_۵) ۲۵۳۶_۲۵۳۷، ۲۵۴۳، ۲۵۵۲،
۲۵۵۶_۲۵۶۷، ۲۵۷۱، ۲۵۷۴_۲۵۷۶، ۲۵۷۸،
۲۵۸۷، ۲۵۹۲_۲۵۹۳، ۲۶۰۰، ۲۶۰۲_۲۶۰۳، ۲۶۰۶،
۲۶۱۱، ۲۶۱۳_۲۶۲۱، ۲۶۲۸_۲۶۳۲، ۲۶۳۴_۲۶۳۶،
۲۶۳۹_۲۶۴۰، ۲۶۴۳_۲۶۴۹، ۲۶۵۲_۲۶۷۰ ،
۲۶۷۲_۲۶۷۹، ۲۶۹۴، ۲۶۹۸، ۲۷۰۱، ۲۷۱۰، ۲۷۱۴،
۲۷۱۶، ۲۷۱۹_۲۷۲۵، ۲۷۲۷، ۲۷۳۰_۲۷۳۲، ۲۷۳۵_
۲۷۳۶، ۲۷۳۹، ۲۷۴۲، ۲۷۴۷، ۲۷۵۱، ۲۷۵۵، ۲۷۶۱،
۲۷۶۳، ۲۷۷۲_۲۷۸۰، ۲۷۸۲، ۲۷۸۹، ۲۷۹۱_۲۷۹۲،
۲۷۹۸، ۲۸۰۱، ۲۸۰۳_۲۸۰۵، ۲۸۱۳، ۲۸۱۶_۲۸۱۷،
۲۸۲۰_۲۸۲۴، ۲۸۳۳، ۲۸۵۷_۲۸۵۸، ۲۸۶۵_
۲۸۶۷، ۲۸۷۵، ۲۸۷۹، ۲۸۸۴، ۲۸۸۶_۲۸۸۷،
۲۸۹۰_۲۸۹۲، ۲۸۹۴_۲۸۹۵، ۲۹۰۰_۲۹۰۱، ۲۹۰۸،
۲۹۱۱_۲۹۱۲، ۲۹۱۸، ۲۹۲۲_۲۹۲۳، ۲۹۲۷، ۲۹۳۱_
۲۹۳۳، ۲۹۴۱_۲۹۴۳، ۲۹۴۵_۲۹۴۶، ۲۹۵۰،
۲۹۷۳_۲۹۷۵، ۲۹۷۷، ۲۹۸۳، ۳۰۰۷_۳۰۱۳ ،

۳۰۱۵ـ۳۰۱۸، ۳۰۲۱، ۳۰۲۵ـ۳۰۲۶، ۳۰۲۹، ۳۰۴۱ـ
۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۵۷، ۳۰۶۸، ۳۰۷۲ـ۳۰۷۳،
۳۰۷۵، ۳۰۷۷، ۳۰۸۱ـ۳۰۸۲، ۳۰۹۵، ۳۱۰۲، (جـ۶)
۳۱۴۰، ۳۱۴۲ـ۳۱۴۳، ۳۱۵۳، ۳۱۵۵، ۳۱۶۶، ۳۲۲۶،
۳۳۴۳، ۳۳۵۱، ۳۳۵۴، ۳۳۵۶، ۳۳۹۵، ۳۴۱۲،
۳۴۳۶ـ۳۴۳۷، ۳۴۴۵، ۳۵۹۹، ۳۶۲۵، ۳۶۴۳،
۳۶۷۴، ۳۶۸۵، ۳۷۸۲، ۳۸۴۸، ۳۸۷۵، ۳۹۱۹،
(جـ۷) ۴۰۰۵، ۴۰۰۸ـ۴۰۰۹، ۴۰۱۱، ۴۰۱۴، ۴۰۳۶،
۴۰۶۲، ۴۰۶۵، ۴۰۷۷، ۴۰۸۳ـ۴۰۸۴، ۴۱۴۹ـ۴۱۵۰،
۴۱۶۲ـ۴۱۶۳، ۴۱۶۹ـ۴۱۷۰، ۴۱۷۳، ۴۱۷۷ـ
۴۱۷۸، ۴۱۸۰، ۴۱۸۲ـ۴۱۹۸، ۴۲۰۲ـ۴۲۰۵، ۴۲۰۹ـ
۴۲۲۰، ۴۲۳۰ـ۴۲۳۲، ۴۲۴۹ـ۴۲۵۰، ۴۲۷۷ـ
۴۲۷۸، ۴۲۸۰ـ۴۲۸۱، ۴۲۸۳، ۴۲۸۷ـ۴۲۸۸،
۴۲۹۲ـ۴۲۹۷، ۴۲۹۹ـ۴۳۰۰، ۴۳۰۳، ۴۳۰۵،
۴۳۰۷ـ۴۳۰۸، ۴۳۱۰، ۴۳۱۲ـ۴۳۱۳، ۴۳۲۲ـ
۴۳۴۵، ۴۳۴۷ـ۴۳۸۵، ۴۳۸۷ـ۴۴۱۵، ۴۴۲۳،
۴۴۳۱، ۴۴۳۴، ۴۴۳۶، ۴۴۳۹، ۴۴۴۶، ۴۴۴۸ـ
۴۴۴۹، ۴۴۵۱، ۴۴۵۵ـ۴۴۵۷، ۴۴۶۱ـ۴۴۶۳،
۴۴۶۶، ۴۴۷۱ـ۴۴۷۳، ۴۴۷۸، ۴۴۷۹، (جـ۸)
۴۴۸۸ـ۴۴۸۹، ۴۵۰۰ـ۴۵۰۲، ۴۵۰۴، ۴۵۱۷،
۴۵۱۹ـ۴۵۲۰، ۴۵۲۴، ۴۵۲۷، ۴۵۲۹، ۴۵۳۱ـ۴۵۳۴،
۴۵۳۷، ۴۵۳۹، ۴۵۴۱، ۴۵۴۴، ۴۵۴۶ـ۴۵۴۸،
۴۵۵۰ـ۴۵۵۱، ۴۵۵۳، ۴۵۵۸ـ۴۵۵۹، ۴۵۶۰،
۴۵۶۳ـ۴۵۶۷، ۴۵۷۵ـ۴۵۷۷، ۴۵۸۰ـ۴۵۸۳،
۴۵۸۵، ۴۵۹۴، ۴۵۹۶، ۴۵۹۸، ۴۶۰۱، ۴۶۰۳،
۴۶۰۷، ۴۶۰۹، ۴۶۲۲، ۴۶۲۵، ۴۶۳۳، ۴۶۳۵،
۴۶۳۸، ۴۶۴۲، ۴۶۴۴، ۴۶۴۶ـ۴۶۴۷، ۴۶۵۱،
۴۶۴۵، ۴۶۵۵، ۴۶۵۸ـ۴۶۵۹، ۴۶۶۱ـ۴۶۷۲،
۴۶۷۴ـ۴۶۷۷، ۴۶۷۹، ۴۶۸۱ـ۴۶۸۳، ۴۶۸۴،
۴۶۸۶، ۴۶۸۸ـ۴۶۸۹، ۴۶۹۲، ۴۶۹۴ـ۴۷۱۷،
۴۷۲۱، ۴۷۲۳ـ۴۷۲۸، ۴۷۳۰ـ۴۷۳۱، ۴۷۳۳،
۴۷۳۷، ۴۷۳۹، ۴۷۴۱ـ۴۷۴۴، ۴۷۴۶ـ۴۷۴۷،
۴۷۴۹، ۴۷۵۱، ۴۷۵۳ـ۴۷۵۷، ۴۷۶۱ـ۴۷۶۳،
۴۷۷۰، ۴۷۹۱ـ۴۷۹۲، ۴۸۰۳ـ۴۸۰۴، ۴۸۰۸ـ
۴۸۰۹، ۴۸۱۲ـ۴۸۱۴ ۴۸۳۲ـ۴۸۳۳، ۴۸۴۴، ۴۸۶۱،
۴۸۹۱، ۴۹۰۱، ۴۹۰۳ـ۴۹۰۵، ۴۹۰۷ـ۴۹۰۹، ۴۹۱۳ـ
۴۹۱۶، ۴۹۱۸ـ۴۹۱۹، ۴۹۲۱ـ۴۹۲۲، ۴۹۲۶، ۴۹۳۳،
۴۹۳۵، ۴۹۳۸، ۴۹۵۳ـ۴۹۵۵، ۴۹۷۰ـ۴۹۷۱،
۵۰۰۷، ۵۰۱۰ـ۵۰۱۱، ۵۰۱۳ـ۵۰۱۴، ۵۰۱۶، ۵۰۲۴،
۵۰۲۶، ۵۰۳۲، ۵۰۳۴، ۵۰۳۸، ۵۰۴۶، ۵۰۶۳،
۵۰۶۵ـ۵۰۶۷، ۵۰۶۹، ۵۰۷۳، ۵۰۷۷ـ۵۰۷۹،
۵۰۸۱ـ۵۰۸۵، ۵۰۸۷، ۵۰۸۹ـ۵۰۹۰، ۵۰۹۲،
۵۰۹۵ـ۵۰۹۶، ۵۱۰۱، ۵۱۱۱ـ۵۱۱۲، ۵۱۱۴ـ۵۱۱۵،
۵۱۱۸ـ۵۱۱۹، ۵۱۲۲، ۵۱۲۷، ۵۱۳۱، ۵۱۳۴، ۵۱۳۷ـ
۵۱۳۸، ۵۱۴۰، ۵۱۴۸ـ۵۱۵۲، ۵۱۵۴، ۵۱۵۷، ۵۱۶۰ـ
۵۱۶۲، ۵۱۶۸، ۵۱۷۹ـ۵۱۸۳، ۵۱۸۹، ۵۱۹۱، ۵۱۹۷ـ
۵۱۹۸، ۵۲۰۱ـ۵۲۰۳، ۵۲۱۳ـ۵۲۱۵، ۵۲۲۲، ۵۲۲۸،
۵۲۴۰، ۵۲۴۲ـ۵۱۴۴، ۵۲۴۹، ۵۲۵۳ـ۵۲۵۴،
۵۲۵۹ـ۵۲۶۰، ۵۲۶۸، ۵۲۷۲، ۵۲۷۴ـ۵۲۷۷،
۵۲۷۹، ۵۲۸۱، ۵۲۸۳ـ۵۲۸۴، ۵۲۸۸، ۵۲۹۰، ۵۲۹۴،
۵۲۹۸ـ۵۳۰۵، ۵۳۰۹ـ۵۳۱۱، ۵۳۱۳ـ۵۳۱۶،
۵۳۲۲ـ۵۳۲۴، ۵۳۲۶ـ۵۳۲۹، ۵۳۳۲، ۵۳۳۴ـ
۵۳۳۵، ۵۳۳۷ـ۵۳۳۸، ۵۳۴۱ـ۵۳۴۲، ۵۳۴۵ـ
۵۳۴۷، ۵۳۵۲ـ۵۳۵۷، ۵۳۶۱، ۵۳۶۴ـ۵۳۶۶،
۵۳۷۱، ۵۳۸۵، ۵۳۸۸، ۵۳۹۰ـ۵۳۹۲، ۵۳۹۷ـ
۵۴۰۲، ۵۴۰۴، ۵۴۱۰، ۵۴۱۳، ۵۴۱۵ـ۵۴۱۶، ۵۴۱۸ـ
۵۴۲۰، ۵۴۲۲ـ۵۴۲۴، ۵۴۲۷، ۵۴۲۹ـ۵۴۳۱،
۵۴۵۱ـ۵۴۵۲، ۵۴۵۴ـ۵۴۵۵، ۵۴۶۴، ۵۴۷۷ـ

۵۴۸۱، ۵۴۸۴، ۵۴۸۹، ۵۴۹۱_ ۵۴۹۴، ۵۴۹۶_ ۵۴۹۹، ۵۵۰۵، ۵۵۰۷، ۵۵۱۶_ ۵۵۲۱، ۵۵۲۶_ ۵۵۲۸، ۵۵۶۹، ۵۵۸۲، (ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۳۱، ۵۶۵۶، ۵۶۶۸_ ۵۶۶۹، ۵۶۷۴، ۵۶۹۱_ ۵۶۹۲، ۵۶۹۴، ۵۷۰۵_ ۵۷۰۷، ۵۷۰۹_ ۵۷۱۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۳، ۵۷۶۰، ۵۷۶۶، ۵۷۶۸، ۵۷۷۰_ ۵۷۷۲، ۵۷۹۱، ۵۷۹۵، ۵۸۳۹، ۵۸۸۵، ۵۹۲۵، ۶۱۲۵، ۶۱۶۲_ ۶۱۶۴، ۶۱۷۰، ۶۱۹۳، ۶۱۹۵، ۶۱۹۸_ ۶۲۰۱، ۶۲۱۲_ ۶۲۱۸، ۶۲۲۷

مکتوبات پیر محمد راشد: (ج_۶) ۳۴۳۲، ۳۴۴۲، ۳۵۷۰،

مکتوبات تحفہ زوّاریہ: (ج_۱۰) ۶۱۰۹

مکتوبات حاجی دوست محمد قندھاری: (ج_۱۰) ۵۸۴۹_ ۵۸۵۰

مکتوبات خواجہ باقی باللہ: (ج_۶) ۳۳۳۹، ۳۴۴۴، (ج_۷) ۴۱۲۲_ ۴۱۲۳، ۴۱۴۸، (ج_۹) ۵۲۳۳_ ۵۲۳۵، ۵۲۴۸

مکتوبات خواجہ سیف الدین: (ج_۵) ۲۶۶۳، ۲۷۶۳، (ج_۹) ۵۵۳۷، ۵۵۴۰، (ج_۱۰) ۶۱۲۲، ۶۳۵۶، ۶۳۷۴

مکتوبات خواجہ محمد حسن مجددی: (ج_۶) ۳۴۴۳

مکتوبات خواجہ محمد سعید: (ج_۸) ۴۶۱۰، (ج_۱۰) ۵۷۷۳

مکتوبات خواجہ محمد نقشبند ثانی: (ج_۳) ۱۷۲۳

مکتوبات خواجہ محمد ہاشم کشمی بنام حضرت مجدد الف ثانی: (ج_۹) ۵۵۸۲، (ج_۱۰) ۵۵۹۳

مکتوبات خواجہ معین الدین چشتی: (ج_۷) ۴۰۴۰، ۴۰۵۱

مکتوبات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب: (ج_۶) ۳۶۸۴

مکتوبات ڈاکٹر محمد مسعود: (ج_۶) ۳۷۰۶

مکتوبات زوّاریہ: (ج_۱۰) ۶۱۰۰

مکتوبات سعیدیہ: (ج_۵) ۲۵۸۷، (ج_۹) ۵۵۵۹

مکتوبات سیفیہ: (ج_۳) ۱۷۲۳، (ج_۴) ۲۲۹۰، ۲۳۱۲، ۲۳۱۵_ ۲۳۱۷، ۲۳۱۹_ ۲۳۲۱، ۲۳۲۳، ۲۳۲۵، ۲۳۲۷_ ۲۳۲۸، ۲۳۳۰_ ۲۳۳۱، ۲۳۳۳_ ۲۳۳۶، ۲۳۳۸_ ۲۳۳۹، ۲۳۴۳_ ۲۳۴۶، ۲۳۴۸_ ۲۳۵۱، (ج_۵) ۲۵۵۳، ۲۶۶۱، (ج_۶) ۳۱۴۲، ۳۴۴۷، (ج_۷) ۴۰۰۹، (ج_۸) ۴۵۰۰، (ج_۹) ۵۰۱۲

مکتوبات شاہ فقیر اللہ علوی نقشبندی مجددی شکارپوری: (ج_۱) ۱۱۱، (ج_۵) ۲۶۵۰، ۲۸۱۷، (ج_۶) ۳۴۳۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۹، ۳۶۰۳، (ج_۱۰) ۶۳۷۸_ ۶۳۸۹

مکتوبات شریف خواجہ سیف الدین: (ج_۱) ۱۱۲، (ج_۳) ۱۸۸۷

مکتوبات شریف قاضی احمد دمائی: (ج_۱) ۵۶

مکتوبات شریف (خواجہ شیخ محمد عثمان دامانی): (ج_۱۰) ۵۹۴۳

مکتوبات شریف (سید زوار حسین شاہ): (ج_۲) ۹۳۲

مکتوبات شیخ تاج: (ج_۷) ۴۱۴۰

مکتوبات شیخ عبدالقدوس گنگوہی: (ج_۱۰) ۵۸۳۴

مکتوبات شیخ محدث دہلوی: (ج_۸) ۴۷۹۱،

مکتوبات شیخ یحییٰ منیری: (ج_۱۰) ۵۸۳۳

مکتوبات عالیہ (مولوی جعفر علی فریدی): (ج_۱۰) ۵۹۵۹

مکتوبات قدسی آیات (امام ربانی): (ج_۱۰) ۶۱۷۲

مکتوبات مجدد الف ثانی _ تخریج احادیث (غیر مطبوعہ):

(ج۔۱)۱۱۱، ۱۱۳، ۴۵۹، (ج۔۱۰)۶۲۴۳، ۶۳۰۴
مکتوبات محمد نقشبند ثانی: (ج۔۴)۲۲۸۵
مکتوبات مرزا مظہر: (ج۔۸)۴۵۹۹،
مکتوبات مسعود صاحب دائم پشاوری: (ج۔۶)۳۵۶۰
مکتوبات مسعودی (غم نامے): (ج۔۱)۵۶
مکتوبات معدن فتوحات (حضرت مجدد الف ثانی) :
(ج۔۱۰)۶۱۹۷
مکتوبات معصومیہ ا: (ج۔۱) ۸۷، ۹۰، ۴۳۱، (ج۔۲)
۵۵۳، ۶۴۰، ۶۴۲، ۸۶۱، (ج۔۳)۱۶۶۰، ۱۷۲۲، ۱۸۷۰،
۱۸۸۷، (ج۔۴) ۱۸۹۹، ۲۱۹۹، ۲۲۸۱۔۲۲۸۲، ۲۲۸۵،
۲۲۸۷۔۲۲۸۸، ۲۲۹۵، ۲۳۰۱۔۲۳۰۲، ۲۳۰۸، ۲۳۱۱،
۲۴۳۵، (ج۔۵) ۲۵۵۳، ۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۶۲۳،
۲۶۴۹۔ ۲۶۵۰، ۲۶۶۰، ۲۶۶۲، ۲۶۶۷، ۲۶۷۰،
۲۷۶۳، ۲۷۸۲، ۲۷۹۳، (ج۔۶) ۳۱۴۲، ۳۴۲۷،
۳۴۴۴، ۳۶۹۸۔ ۳۶۹۹، ۳۹۱۹، (ج۔۷) ۴۰۰۹،
۴۳۰۸، ۴۳۲۱، (ج۔۸) ۴۵۰۰، ۴۵۳۷۔ ۴۵۳۸،
۴۵۷۲، ۴۶۱۲، (ج۔۹) ۵۰۱۲، ۵۰۶۳، ۵۵۳۱۔
۵۵۳۲، ۵۵۶۱۔۵۵۶۲، (ج۔۱۰) ۵۸۶۵، ۵۸۸۵۔
۵۸۸۷، ۵۹۲۷، ۶۱۲۶، ۶۳۵۶، ۶۳۵۹۔۶۳۶۱
مکتوبات مقبول علماء وفضلاء ومشائخ: (ج۔۳)۱۳۹۸
مکتوبات منظوم بنام سید صبغت اللہ (فارسی): (ج۔۶)
۳۴۴۲
مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: (ج۔۸)۴۷۹۱
مکتوبات ومعمولات امام ربانی: (ج۔۳)۱۲۷۴
المکنونات النفسیہ: (ج۔۸)۴۹۱۰،
ملاحسن: (ج۔۶)۳۶۸۳، ۳۹۳۱

ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ: (ج۔۵)۲۷۰۲
ملتقط: (ج۔۳)۱۷۶۱
ملتقی البحار فی شرح المنظومۃ: (ج۔۵)۲۸۴۸
ملتمس الاحیاء: (ج۔۵´۲۸۵۵، ۲۸۵۸
ملحق ملخص السیر (مرتبہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر): (ج۔۵)۲۸۱۶
ملخصات مکتوبات امام ربانی: (ج۔۵)۲۷۲۵
ملفوظات : (ج۔۴) ۲۴۶۵، (ج۔۵) ۲۸۶۶، ۲۹۱۱،
۲۹۴۳، ۳۰۲۰، ۳۰۴۳، (ج۔۶) ۳۳۵۶، ۳۴۳۶،
۳۵۵۹، ۳۵۹۰
ملفوظات احمد رضا قادری: (ج۔۲)۷۳۱
ملفوظات اقبال: (ج۔ن)۲۹۱۰، ۳۰۲۶۔۳۰۲۷، ۳۰۴۲،
۳۰۴۵
ملفوظات اکابر نقشبندیہ: (ج۔۱۰)۶۱۰۲
ملفوظات پیر محمد راشد: (ج۔۶)۳۴۴۲
ملفوظات تیموری: (ج۔۲)۲۰۵۱
ملفوظات چہل روزہ: (ج۔۴)۲۴۸۷
ملفوظات حضرت خواجہ: (ج۔۱)۳۰۰
ملفوظات حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۱)۶۵
ملفوظات حضرت مرزا جانِ جاناں: (ج۔۸) ۴۵۹۸،
۴۶۰۲
ملفوظات خواجہ باقی باللہ: (ج۔۹)۵۴۲۹
ملفوظات سعیدیہ (قلمی): (ج۔۱۰)۶۰۵۷، ۶۰۶۹
ملفوظات شاہ عبدالعزیز: (ج۔۶)۳۳۶۱
ملفوظات شریفہ۔ شاہ غلام علی دہلوی: (ج۔۱) ۳۱۳،

(ج۔۴)۲۴۹۲، (ج۔۵)۲۸۱۸، (ج۔۶)۳۳۹۴

ملفوظات صوفیہ: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۶)۳۶۸۶

ملفوظات طیبہ: (ج۔۴)۲۴۹۱، (ج۔۶)۳۳۵۸

ملفوظات غفاریہ: (ج۔۱۰)۶۰۶۸

ملفوظات فصلیہ (قلمی): (ج۔۱۰)۶۰۵۷

ملفوظات نقشبندیہ: (ج۔۹)۵۰۸۸

ملفوظات وعملیات: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

ملفوظاتی ادب کی تاریخی حیثیت (پروفیسر محمد اسلم): (ج۔۴) ۲۵۱۵

المنار المنیف للامام ابن قیم: (ج۔۷)۴۳۷۲

منازل السالکین: (ج۔۴)۲۲۴۵

منازل السائرین: (ج۔۴)۲۲۴۵

منازل شیوخ: (ج۔۱)۸۴، (ج۔۵)۲۷۴۳

مناقب آدمیہ: (ج۔۳) ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹، ۱۳۷۲، (ج۔۴)۲۲۷۵، ۲۲۷۹، ۲۴۵۴، (ج۔۵)۲۸۳۰

مناقب احمدیہ ومعصومیہ: (ج۔۴)۱۹۴۱، ۲۴۵۳، (ج۔۵) ۲۶۴۸، ۲۸۳۰، ۲۸۵۴، (ج۔۱۰)۵۷۵۸، ۵۹۴۲

مناقب الامام ابی حنیفہ وصاحبیہ (احمد ذہبی): (ج۔۲)۷۲۸

مناقب الامام ابی حنیفہ (حافظ الدین الخوارزمی): (ج۔۲) ۷۲۷

مناقب الامام ابی حنیفہ (خطیب خوارزم الموفق بن احمد): (ج۔۲)۷۲۷

مناقب الامام ابی حنیفہ (محمد بن ابن نیشاپوری): (ج۔۲) ۷۲۷

مناقب الامام ابی حنیفہ (مستقیم زادہ): (ج۔۲)۷۲۷

مناقب الامام ابی حنیفہ (محمد بن ابراہیم الکشنی): (ج۔۲) ۷۲۷

مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ وصاحبیہ (ابن الضیاء المکی): (ج۔۲)۷۲۷

مناقب الامام اعظم (علی بن عبدالعزیز الرغیانی): (ج۔۲) ۷۲۷

مناقب الامام اعظم (ملا علی قاری): (ج۔۲)۷۲۸

مناقب الاولیاء: (ج۔۵)۲۷۲۰، (ج۔۶)۳۹۰۷

مناقب الحضرت (مخطوطہ): (ج۔۱) ۱۹۷، (ج۔۵) ۲۷۵۱، (ج۔۱۰) ۵۸۷۰، ۵۸۸۶۔ ۵۸۹۰، ۶۲۴۲، ۶۲۸۷

مناقب العارفین: (ج۔۴) ۲۴۱۲، ۲۴۳۳، (ج۔۹) ۵۳۲۸۔۵۳۲۹

مناقب الفرید: (ج۔۳)۱۸۷۲

مناقب المحبوبین: (ج۔۱۰)۵۸۹۴

مناقب المذاہب الاربعۃ: (ج۔۵)۲۶۸۸

مناقب پیر زین الدین (منثور): (ج۔۱۰)۵۸۸۹

مناقب پیر زین الدین (منظوم): (ج۔۱۰) ۵۸۸۹۔ ۵۸۹۰

مناقب للموفق: (ج۔۳)۱۶۶۲، (ج۔۵)۳۰۷۲

مناقب محمودیہ: (ج۔۸)۴۸۵۰،

مناقب مولوی دادین: (ج۔۱۰)۵۸۷۶

المناقب (محمد معروف بہ ابن البزاز الکردی): (ج۔۲) ۷۲۸

مناہج السیر فی مدارج الخیر: (ج۔۱)۴۵۸، (ج۔۴)۲۵۱۲،

(ج۔۶)۳۳۶۴

مدبہ المعیہ بوصول الحبیب الی العرش والرویہ: (ج۔۵)۲۹۱۱

منتخب الاصول: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۵۵۹

منتخب التواریخ: (ج۔۱)۳۰۹، ۴۲۹، (ج۔۲)۸۰۱، ۱۲۶۴، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۴۱۶، ۱۴۴۵۔۱۴۴۷، ۱۴۵۸۔۱۴۵۹، ۱۵۰۹، ۱۵۱۱۔۱۵۱۲، ۱۷۲۲، ۱۷۵۳۔۱۷۵۴، (ج۔۴) ۲۰۳۴۔۲۰۳۶، ۲۱۶۷۔۲۱۶۸، ۲۴۳۱۔۲۴۳۲، (ج۔۵) ۲۵۶۲، ۲۵۷۴، ۲۶۲۳۔۲۶۲۴، ۲۷۴۹، (ج۔۶) ۳۲۳۸۔۳۲۴۰، (ج۔۷) ۳۴۳۲، (ج۔۸) ۴۹۳۶۔۴۹۳۸، (ج۔۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، ۵۱۴۷، ۵۱۵۳۔۵۱۵۵، ۵۱۵۷، ۵۱۶۰۔۵۱۶۱، ۵۲۹۳، (ج۔۱۰) ۵۶۲۵، ۵۶۳۲، ۵۶۵۰، ۵۷۰۷، ۵۸۳۴، ۵۹۲۹

منتخب العقائد: (ج۔۵)۲۸۵۷۔۲۸۵۸

منتخب اللباب: (ج۔۳) ۱۷۲۲، (ج۔۴) ۱۹۸۳، ۲۱۹۲، (ج۔۵)۲۵۶۳، ۲۵۸۰، (ج۔۹)۵۱۵۴

المنتخبات من المکتوبات امام ربانی: (ج۔۱) ۱۰۹، (ج۔۳) ۱۸۷۳، (ج۔۵) ۳۰۹۷، ۳۱۰۰، ۳۱۰۴۔۳۱۰۵، (ج۔۱۰)۶۲۲۱

المنتخبات من رسائل السید عبدالحکیم الاروی: (ج۔۵)۲۶۲۷

منتقی ابن الجاروز: (ج۔۵)۲۸۸۳

منتقی ابن تیمیہ: (ج۔۵)۲۸۸۳

منتھی الایجاز لکشف الاعجاز: (ج۔۵)۲۷۶۲۔۲۷۶۳

المنجد فی اللغۃ و الاعلام: (ج۔۱) ۱۷۳، (ج۔۲) ۱۰۳۰، (ج۔۵)۲۹۷۹، ۲۹۸۸، ۳۰۰۱۔۳۰۰۳، ۳۰۱۲، ۳۰۱۴، ۳۰۱۷۔۳۰۱۸، (ج۔۸)۴۸۷۳، ۴۸۹۷

المنجلی فی تسطور الولی: (ج۔۲)۱۱۹۱

المنحۃ الوھبیۃ فی الرد علی اوھابیہ: (ج۔۵)۲۶۸۸

منزل بہ منزل: (ج۔۱)۵۶، ۱۰۶، (ج۔۶)۳۷۰۶

المنسک المنقسط فی شرح المنسک المتوسط: (ج۔۵)۲۸۸۴

منسک صغیر: (ج۔۵)۲۸۸۴

منسک کبیر: (ج۔۵)۲۸۸۴

منسک متوسط: (ج۔۵)۲۸۸۴، (ج۔۶)۳۴۱۵

منشورات اقبال: (ج۔۵)۳۰۱۰، ۳۰۱۸

منصب امامت: (ج۔۸)۴۹۴۸،

المنطق الفھوانی والمشھد الروحانی فی المعاد الانسانی: (ج۔۶)۳۲۰۰

منظر اولوالالباب: (ج۔۹)۵۵۵۱

منظوم شجرہ: (ج۔۶)۳۷۳۹

منظومہ: (ج۔۸)۴۶۴۱،

المنقذ من الضلال (امام غزالی): (ج۔۳)۱۴۷۷، ۱۷۳۰، (ج۔۴)۱۹۷۲، (ج۔۵)۲۵۹۴، ۲۷۷۱، (ج۔۸)۴۵۱۳، (ج۔۹)۵۱۷۵، ۵۲۲۷

منہاج الاصول: (ج۔۵)۲۷۱۲

منہاج الدین: (ج۔۴)۲۳۹۸

منہج الالباء فی السلام علی الانبیاء: (ج۔۱)۴۵۸

المنہج العذب فی الکلام علی الروح والقلب: (ج۔۶)۳۲۱۶

المنہل العذب فی ذکر القلب: (ج۔۵)۲۷۶۵

منیۃ المصلی: (ج۔۳)۱۸۷۳، (ج۔۱۰)۵۸۸۱

منیۃ المفتی: (ج۔۸)۴۶۴۷،

موارد الظمان للہیثمی: (ج-۸)۴۷۸۶-۴۷۸۷

مواعظ حسنہ: (ج-۱)۵۳

مواعظ خطبات: (ج-۶)۳۶۲۸

مواعظ فتحیہ: (ج-۶)۳۷۹۲

مواعظ مظہری: (ج-۶)۳۳۷۷

المواعظ: (ج-۵)۲۶۸۰

مواقف: (ج-۳)۱۵۸۶

مواقف العقل والعلم: (ج-۹)۵۰۴۰

المواہب لالشریفۃ فی مناقب الامام ابی حنیفہ: (ج-۲) ۷۲۷

مواہب اللدنیہ: (ج-۷)۴۴۰۸

مواھب ارواح القدس لکشف حکم العرس: (ج-۱)۱۱۵

مواھب الباری ترجمہ بخاری: (ج-۶)۳۲۶۱

المواھب الجزیلۃ فی مرویات الفقیر محمد بن احمد بن عقلیہ: (ج-۶)۳۲۰۰

مواھب الرحمان فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان: (ج-۲)۷۲۷

مواھب القیوم فی تائید احمد و معصوم: (ج-۱)۸۶، (ج-۵) ۲۸۰۷

المواھب اللدنیہ: (ج-۱)۲۱۹-۲۲۰، (ج-۲)۵۸۹، ۶۱۰، ۶۲۲، ۶۵۲، ۶۵۷، ۶۶۰، (ج-۶)۳۲۳۱

مواھب المجیب فیما یختص بالحبیب: (ج-۶) ۳۱۷۹، ۳۱۸۰

مواھب لدنیہ: (ج-۲)۵۹۱-۵۹۲

موج خیال: (ج-۱)۴۶۴

الموضوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع: (ج-۵)۳۰۱۶

الموضوعات الکبریٰ: (ج-۲) ۵۱۴، ۶۵۳، (ج-۷) ۴۳۱۸، ۴۳۲۶-۴۳۲۷، ۴۳۳۴-۴۳۳۵، ۴۳۴۱، ۴۳۴۸، ۴۳۵۰، ۴۳۵۳، ۴۳۵۸-۴۳۶۰، ۴۳۶۴، ۴۳۶۶، ۴۳۷۴، ۴۳۸۶، ۴۳۹۵-۴۳۹۶، ۴۳۹۹، ۴۴۰۸، ۴۴۱۰-۴۴۱۱، ۴۴۱۴،

الموضوعات کبیر: (ج-۹)۵۳۵۵

الموضوعات (ملا علی قاریؒ): (ج-۲)۶۲۱، ۹۲۶

موطا امام مالک: (ج-۲)۷۰۸، (ج-۵)۲۸۸۳، (ج-۶) ۳۱۷۰، (ج-۷) ۴۳۰۰، ۴۳۱۹، ۴۳۵۳، (ج-۸) ۴۶۳۵، ۴۶۴۳، ۴۷۸۵

موطا امام محمد: (ج-۵)۲۸۸۳، (ج-۸)۴۶۳۵

موقف العقل والعلم والعالم: (ج-۳)۱۲۹۸

مولانا احمد رضا بریلوی کی خدمت علوم حدیث کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ: (ج-۱) ۵۶

مولانا احمد رضا بریلوی کی فقہی خدمات: (ج-۱)۵۴

مولانا احمد رضا خان بریلوی کی نعتیہ شاعری: (ج-۱)۵۴

مولانا احمد رضا خان کے حالات و افکار اور اصلاحی کارنامے: (ج-۵)۲۰۱۴

مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری کا تاریخی اور ادبی جائزہ: (ج-۱)۵۵

مولانا الشیخ خالد النقشبندی: (ج-۸)۴۹۷۴، ۴۹۸۷

مولانا جامی کی شاعری: (ج-۱)۴۶۱

مولانا خالد کے مکتوبات: (ج-۶)۳۲۸۶

مولانا خالد نقشبندی و پیران طریقتِ او: (ج-۱) ۱۱۱،

(ج_۴)۲۵۰۹_۲۵۱۰، (ج_۱۰)۶۳۴۸۔
مولانا شیخ خالد النقشبندی:(ج_۱۰)۶۳۷۸
مولانا عبدالستار نیازی ، حیات، خدمات ، تعلیمات: (ج_۶)۳۷۹۹
مولانا محمد الیاس اور تحریک ایمان:(ج_۹)۵۴۱۱
مولود برزنجی (نور بخش توکلی):(ج_۱۰)۵۹۶۷
مولود شریف نبوی:(ج_۶)۳۲۰۱،۳۲۶۰
مولود محمود:(ج_۶)۳۶۲۴
مولود نامہ (جعفر برزنجی):(ج_۵)۲۶۹۷
مولود، معراج، معجزات:(ج_۶)۳۲۶۰
مونس الاطباء:(ج_۱۰)۵۸۰۳
مونس المخلصین:(ج_۵)۲۸۱۷،(ج_۶)۳۴۲۱،۳۴۴۳، ۳۴۹۷، ۳۴۹۹، ۳۵۲۵، ۳۵۲۷، ۳۶۰۰، ۳۶۰۵، ۳۶۰۷_ ۳۶۰۸، ۳۶۱۰، ۳۷۰۱_ ۳۷۰۲، ۳۷۰۶_ ۳۷۰۷
مہا بھارت : (ج_۴) ۲۱۰۱(ج_۹) ۵۵۱۴، (ج_۱۰) ۵۶۴۶،۵۶۵۱،۵۷۰۱
مہر صفا:(ج_۸)۴۸۴۴،۴۸۵۱،
المہیمن القدوس فی مناقب سیدنا عبدالرحمٰن بن مصطفیٰ العیدروس:(ج_۶)۳۲۱۲
میاں سعد اللہ نسیم:(ج_۱۰)۵۸۸۹
میر سید السند:(ج_۸)۴۶۴۳،
میزان الاعتدال: (ج_۲) ۵۱۶، ۵۹۳، ۶۵۲، (ج_۷) ۴۳۰۳، ۴۳۲۰، (ج_۹) ۵۱۵۶
میزان الکبریٰ:(ج_۸)۴۶۳۰_۴۶۳۱،
میزان الکلام:(ج_۶)۳۳۶۱
میزان شعرانی:(ج_۸)۴۶۲۹،
المیسر شرح مصابیح السنۃ:(ج_۵)۲۸۵۲
میگزین، اورینٹل کالج (لاہور):(ج_۵)۲۶۶۵،۲۷۶۶
میلاد شفیع:(ج_۶)۳۳۹۷
میلاد نامہ (بحر العلوم لکھنوی):(ج_۲)۱۰۹۹
مینائے مصطفائی:(ج_۶)۳۴۹۶
مؤسسۃ الفرقان للتراث الاسلامی لندن:(ج_۵)۲۷۰۳
مؤید الفضلاء:(ج_۶)۳۴۴۵

ن

نادر الفوائد:(ج_۶)۳۴۴۳
الناشرہ الناجرہ للفرقۃ الفاجرۃ:(ج_۴)۲۴۵۲،۲۴۵۶
الناظورۃ (شہاب الدین مرجانی):(ج_۵)۲۶۹۲
نافع المسلمین:(ج_۶)۳۸۳۱
نالۂ عندلیب:(ج_۹)۵۵۲۳
نبذۃ فی الحکم:(ج_۶)۳۱۷۲
نبذۃ لطیفۃ فی ترجمۃ شیخ الاسلام داؤد البغدادی: (ج_۵) ۲۶۸۹
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک: (ج_۶) ۳۹۳۱
نتائج الحرمین: (ج_۵) ۲۶۶۳، ۲۷۹۹، (ج_۶) ۳۸۳۷_ ۳۸۳۹، ۳۹۰۰_ ۳۹۰۳، ۳۹۰۶_ ۳۹۰۷، (ج_۱۰)۵۷۵۸،۵۷۶۳،۵۸۶۵،۵۸۸۷
نتیجۃ العلوم ونصیحۃ علماء الرسوم:(ج_۱)۸۷،(ج_۵)۲۶۹۹،

(ج۔۶)۳۲۲۶، (ج۔۱۰)۵۶۲۹

نثر الدرر فی تذییل نظم الدرر: (ج۔۵)۲۷۰۳

نثر القلم فی تاریخ مکتبۃ الحرم: (ج۔۵)۲۷۰۳

نثر اللآلی الجوہریۃ علی المنظومۃ الدہریۃ: (ج۔۶)۳۲۱۶

نثر المآثر فی من ادرکتہ من الاکابر: (ج۔۵)۲۷۰۳

النجاء البری عن وسواس المفتری: (ج۔۹)۵۲۰۵

نجم العلم شرح عین العلم: (ج۔۶)۳۶۷۰

نجم الہدیٰ: (ج۔۱)۸۷

النجوم الزاہرۃ فی ملوک والقاہرہ: (ج۔۵)۲۸۵۶۔۲۸۵۷

نجوم الہدایت: (ج۔۶)۳۵۹۷

نخبۃ الفکر: (ج۔۶)۳۴۱۶

نذر حبیب (حبیب احمد نقشبندی): (ج۔۱۰)۶۰۷۳

نزہۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر: (ج۔۴)۲۱۹۱، ۲۴۴۴، (ج۔۵) ۲۶۲۲۔ ۲۶۲۳، ۲۷۰۱۔ ۲۷۰۳، ۲۷۶۲، ۲۷۶۵۔۲۷۶۶، ۲۸۱۸، ۲۹۱۹، (ج۔۶)۳۱۶۰، ۳۱۶۷، ۳۱۹۰، ۳۲۲۷، ۳۶۹۹، (ج۔۸) ۴۶۶۱، ۴۶۶۵، ۴۹۳۶، ۴۹۴۶، (ج۔۹) ۵۰۵۶، ۵۰۶۳، ۵۱۵۳۔ ۵۱۵۶، ۵۱۵۹۔ ۵۱۶۰، ۵۳۳۴، ۵۵۶۴۔ ۵۵۶۵، (ج۔۱۰)۵۶۲۸، ۵۷۶۱۔۵۷۶۲

نزہۃ الفکر، فیما مضٰی من الحوادث والعبر فی تراجم رجال القرن الثانی عشر والثالث عشر: (ج۔۵)۲۷۰۲

نزہۃ المجالس: (ج۔۲) ۵۱۲، ۶۲۱۔ ۶۲۲، ۶۳۳، ۶۵۹۔ ۶۶۰، (ج۔۶)۳۷۳۹

نزہۃ المناظر: (ج۔۵)۲۷۵۹

نزہۃ النظر: (ج۔۲)۶۰۲، ۶۰۸، ۶۵۵۔۶۵۶

نسائی: (ج۔۱)۱۹۴، (ج۔۲)۵۶۳۔۵۶۴، ۶۴۴، ۷۰۸، ۸۵۳، ۸۸۶، (ج۔۳)۱۵۰۵، ۱۷۹۹، (ج۔۵)۲۸۸۳، (ج۔۷)۴۰۴۵، ۴۲۸۱، ۴۲۸۷، ۴۲۹۲، ۴۳۱۱، ۴۳۱۷، ۴۳۱۹، ۴۳۲۲، ۴۳۲۴، ۴۳۴۲، ۴۳۶۴، ۴۳۶۹، ۴۳۷۶، ۴۴۰۳، ۴۴۰۵، (ج۔۸) ۴۶۳۵، ۴۷۸۹، ۴۹۴۵

نسخہ اشارات: (ج۔۶)۳۴۴۳

نسخۃ الوجود فی الاخبار عن حال الموجود: (ج۔۶)۳۲۰۱

النسمات السحریۃ فی مدح خیر البریۃ: (ج۔۶)۳۱۸۰

نسمات: (ج۔۷)۴۰۵۶، ۴۰۵۸، ۴۰۶۱۔۴۰۶۲

نسماۃ القدس من حدائق الانس: (ج۔۱) ۸۵، ۳۰۹، ۳۱۲، (ج۔۵)۲۸۳۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۳

نسیم چمن: (ج۔۶)۳۴۹۳

نشان منزل: (ج۔۲)۱۲۴۷

نشر المحاسن الغالیہ: (ج۔۳)۱۸۶۸

النشر الناجرہ (برزنجی): (ج۔۵)۲۸۰۳

نشر النور: (ج۔۶)۳۱۹۷، ۳۲۰۱

نشریات اسلام: (ج۔۹)۵۱۵۱

نشوۃ الشمول فی الذہاب الیٰ استانبول: (ج۔۷)۴۲۶۱

نشوۃ المدام فی العود الیٰ دار السلام: (ج۔۷)۴۲۶۱

نص السارب فی قطع الشارب: (ج۔۶)۳۵۲۲ .

النصائح الدینیۃ: (ج۔۶)۳۱۹۱

نصرۃ العاشقین: (ج۔۶)۳۷۸۹

نصوص الدقائق: (ج۔۵)۲۸۰۲

النصوص (صدر الدین قونوی): (ج۔۹)۵۱۷۸

نصیحت نامہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۱

النصیحۃ الجلیۃ فی معرفۃ آداب کسوۃ الخلوتیۃ: (ج۔۶) ۳۱۷۲

نظام مصطفٰی اور ہماری زندگی: (ج۔۶) ۳۹۳۳

نظریہ انتظارِ مہدی (اختر کاشمیری): (ج۔۳) ۱۵۰۹، ۱۵۶۳

نظریہ پاکستان اور ہم: (ج۔۶) ۳۷۹۲

نظریہ توحید: (ج۔۲) ۸۰۲

نظریہ مخدومیت: (ج۔۵) ۲۶۴۹

نظم الدرر فی اختصار نشر النور و الزہر فی تراجم افضل مکۃ: (ج۔۵) ۲۷۰۳۔۲۷۰۴، (ج۔۶) ۳۱۶۰، ۳۱۹۰، ۳۲۰۲، ۳۲۱۹، ۳۸۴۴۔۳۸۴۶، ۳۹۰۸۔۳۹۰۶

نظم المقامات الاحمدیہ فی سلسلۃ الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۵) ۲۷۵۶

نغمۂ حبیب: (ج۔۶) ۳۵۹۷

نفائس العارفین: (ج۔۵) ۳۰۹۴

نفائس السانحات فی تذییل الباقیات الصالحات: (ج۔۱) ۵۵، ۱۴۷، (ج۔۴) ۲۲۲۳، (ج۔۵) ۲۶۹۳، ۲۷۰۱، ۳۰۹۳، (ج۔۶) ۳۳۵۹، (ج۔۱۰) ۵۶۹۵

نفائس الفصول المقتطفۃ من ثمرات نہل الوصول: (ج۔۶) ۳۲۱۶

نفحات الانس (عبدالرحمٰن جامی): (ج۔۱) ۲۵۲۔۲۵۳، ۲۸۸، (ج۔۲) ۱۰۸۸، ۱۱۰۰، (ج۔۴) ۲۳۲۷، ۲۳۳۴، (ج۔۶) ۳۱۵۵، (ج۔۷) ۴۰۳۶، ۴۰۶۲، (ج۔۹) ۵۲۶۰، ۵۴۲۹، ۵۴۵۷، ۵۴۵۹

نفحات الرضا و القبول فضائل المدینۃ و زیارۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: (ج۔۵) ۲۶۹۸

النفحات الصمدیۃ والفتوحات القدسیۃ: (ج۔۶) ۳۲۰۱

النفحات المدنیۃ فی الافکار القلبیہ و الروحیۃ السنیۃ فی الطریقۃ عیدروسیۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

نفحۃ الانسیۃ فی بعض الاحادیث الدسیۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

نفحۃ البشارہ فی معرفۃ الاستعارۃ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

النفحۃ العلیہ فی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

النفحۃ العیدروسیۃ فی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۲۱۶

النفحۃ القدسیۃ بواسطۃ البضعۃ العیدروسیۃ: (ج۔۶) ۳۲۰۷

النفحۃ اللمعیۃ فی الطریقۃ النقشبندیہ: (ج۔۶) ۳۲۰۳

نفحۃ الہدایۃ فی التعلیق: (ج۔۶) ۳۲۱۷

النفس الیمانی: (ج۔۶) ۳۲۱۰

نفع قوت المغتذی برحاشیہ جامع ترمذی: (ج۔۲) ۵۸۹، ۶۵۲

النفقہ فی بیان فرق بین الصوفی والفقیہ: (ج۔۶) ۳۲۰۳

نفی الفی عمن استنار بنورہ کل شی: (ج۔۵) ۲۸۸۶، ۲۸۹۶

نقد النصوص: (ج۔۲) ۱۲۳۱

نقد عمر: (ج۔۱۰) (ج۔۱۰) ۵۸۹۱

نقشبندی سینٹس آف سندھ (انگریزی): (ج۔۶) ۳۷۰۳

نقشبندیہ کتابیات: (ج۔۱) ۴۶

النقشبندیۃ (عبد الرحمٰن بن محمد سعید دمشقی): (ج۔۵) ۲۶۹۸

نکات الاسرار: (ج۔۶) ۳۸۳۷

نکات الحق: (ج۔۶) ۳۳۹۵

النکت الطریفة فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبة علی ابی حنیفہ (زاہد الکوثری): (ج۔۲)۷۲۷

نکہات (مفتی ڈاکٹر محمد مکرم احمد) (عربی): (ج۔۶)۳۳۹۲

نماز حنفی مدلل: (ج۔۱۰)۵۸۰۶

نماز مترجم: (ج۔۶)۳۵۹۷

نوادر الاصول: (ج۔۲) ۵۵۷، ۵۶۰، ۶۴۴، ۸۵۸، (ج۔۷)۴۳۸۶،

نوائے بلبل (انگریزی): (ج۔۴)۲۵۱۲

نور الابصار: (ج۔۱)۲۲۱

نور الانوار: (ج۔۲)۷۳۱

نور الافکار (سید عبد اللہ کوہاٹی): (ج۔۱۰)۵۸۶۶

نور الهدایة والعرفان فی السر رابطة والتوجه وختم الخواجگان: (ج۔۴)۲۵۰۹

نور اعلیٰ نور: (ج۔۷)۴۰۰۷

نئی تاریخ چترال: (ج۔۶)۳۸۵۲_۳۸۵۵،۳۹۱۰

نئی نئی باتیں (ڈاکٹر محمد مسعود احمد): (ج۔۲)۸۵۴

نہایت الغریب: (ج۔۷)۴۳۶۱

نہایہ: (ج۔۲)۷۰۸،۱۱۶۹

النہایہ فی غریب الحدیث والاثر: (ج۔۲)۵۱۸،۶۳۵،۱۱۹۱

و

واقعات دار الحکومت: (ج۔۹)۵۱۵۶

واقعات مشتاق: (ج۔۱۰)۵۸۳۴

وادین رسالہ: (ج۔۱۰)۶۱۱۹

وثیقة الابرار: (ج۔۶)۳۵۵۹

وثیقة الاکابر: (ج۔۶)۳۴۳۶

وجہ الحل فی جهد المقل: (ج۔۵)۲۶۸۴

الوجیز فی اصول فقہ: (ج۔۲)۷۳۰

وحدتِ شہود: (ج۔۱)۳۱۳

وحدة الوجود اور فلسفہ خودی: (ج۔۵)۲۹۴۵

وحدة الوجود وشهود الحق فی کل وجود: (ج۔۲)۱۱۸۴

وحدة الوجود (شاہ ابوالحسن زید فاروقی): (ج۔۲) ۱۲۳۷، (ج۔۴)۱۹۴۵

الورد الاسنیٰ فی التوسل باسماء الحسنیٰ: (ج۔۶) ۳۱۷۲، ۳۲۲۷،۳۲۳۱

ورد السحر: (ج۔۶)۳۱۷۲

ورد المحمدیہ: (ج۔۶)۳۴۴۲،۳۵۹۰

الورد المنهول الاصفیٰ فی مولد الرسول المصطفیٰ (مخطوطہ): (ج۔۶)۳۱۷۳

الورد النقشبندی: (ج۔۵)۲۸۶۰_۲۸۶۱

الوسیط: (ج۔۴)۱۹۴۰

وسیلہ نجات: (ج۔۶)۳۳۶۱

وسیلة الایمان: (ج۔۱۰)۵۸۹۱

وسیلة السعادت درة التاج: (ج۔۴) ۲۲۸۱، (ج۔۵) ۲۷۸۲

وسیلة الغریب الی جناب الحبیب: (ج۔۶)۳۶۵۴

وسیلة القبول الی الله والرسول ﷺ: (ج۔۱)۴۶۲، (ج۔۴) ۲۱۹۲، ۲۱۹۹، ۲۲۸۵، ۲۴۵۶، (ج۔۵)۲۶۶۱، ۲۶۶۶، ۲۷۸۲،۲۸۰۰، (ج۔۱۰)۶۱۰۸

وصال احمدی: (ج۔۱) ۴۳۴، (ج۔۴) ۲۲۲۷، ۲۲۳۹، ۲۲۵۴، ۲۴۳۶، (ج۔۵) ۲۵۷۷، ۲۵۸۰، ۳۰۴۰، (ج۔۷) ۴۱۷۶، ۴۲۲۰، ۴۲۳۱۔۴۲۳۲، (ج۔۹) ۵۵۴۴، (ج۔۱۰) ۵۶۹۴، ۶۱۲۳، ۶۲۴۲، ۶۲۷۵

وصال حضرت مجدد الف ثانی: (ج۔۱۰) ۶۳۴۵

وصیت نامہ: (ج۔۴) ۲۴۶۵

الوصیۃ الجبیۃ للسالکین فی طریق الخلوتیۃ: (ج۔۶) ۳۱۷۳

وظائف اورادعیہ ماثورہ: (ج۔۶) ۳۶۲۸

وظائف معصومی: (ج۔۶) ۳۴۴۴

الوفاء باحوال المصطفیٰ: (ج۔۲) ۵۹۷، ۶۵۳

وفیات مشاہیر: (ج۔۶) ۳۷۹۹

وقائع نعمت خان: (ج۔۵) ۲۷۹۳

وقایہ: (ج۔۴) ۲۴۹۸

الولوالجیۃ: (ج۔۸) ۴۶۴۷

ولوالجی: (ج۔۲) ۷۰۵، (ج۔۳) ۱۷۰۹، ۱۷۶۱، (ج۔۸) ۴۶۴۵

ولی نعمت: (ج۔۱) ۵۶

نھر فائق وابن امیر حاج ثم رسالہ رفع التردد: (ج۔۸) ۴۶۴۶

وید (بید): (ج۔۱۰) ۵۸۳۰

الہادالکاف فی حکم الضعاف: (ج۔۵) ۲۵۷۹، ۲۵۷۳

ہدایت الانسان الی السبیل العرفان: (ج۔۶) ۳۷۸۲، (ج۔۱۰) ۵۹۴۰

ہدایت الحج: (ج۔۶) ۳۵۲۷

ہدایت الطالبین: (ج۔۲) ۱۱۴۵، ۱۱۵۰، (ج۔۳) ۱۷۱۳۔۱۷۱۵، ۱۸۰۰، (ج۔۴) ۲۴۳۳، (ج۔۶) ۳۴۴۴، (ج۔۸) ۴۸۴۴، (ج۔۱۰) ۵۸۸۴، ۶۱۰۰، ۶۱۰۲، ۶۲۴۲، ۶۲۷۲

ہدایت نامہ (حضرت مجدد الف ثانی): (ج۔۶) ۳۴۴۳

ہدایہ: (ج۔۱) ۴۴۶، ۴۵۲، (ج۔۲) ۶۶۳، ۷۴۱، ۹۰۷، (ج۔۳) ۱۶۱۱، (ج۔۴) ۲۲۸۰، (ج۔۶) ۳۱۸۳، ۳۹۱۹، (ج۔۸) ۴۶۴۲، ۴۶۱۵، ۴۹۴۰، ۴۹۴۷، (ج۔۹) ۵۱۹۳، (ج۔۱۰) ۵۷۶۷

ہدایۃ الاحباب فیما للخلوۃ من الشروط والآداب: (ج۔۶) ۳۱۷۳

ہدایۃ الخلاق الی الصوفیۃ فی سائر الافاق: (ج۔۶) ۳۲۰۱

ہدیہ احمدیہ: (ج۔۳) ۱۲۹۸، (ج۔۵) ۲۵۸۱، (ج۔۶) ۳۴۴۴، (ج۔۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، (ج۔۱۰) ۵۸۷۷، ۵۸۹۰۔۵۸۹۳، ۵۸۹۵، ۶۲۴۳، ۶۲۹۴

ہدیہ مجددیہ: (ج۔۱) ۸۶، (ج۔۴) ۲۴۵۶، (ج۔۵) ۲۵۷۴، ۲۸۱۴، ۲۸۱۷، ۲۹۱۱، (ج۔۹) ۵۳۲۸۔۵۳۲۹، ۵۳۴۰، ۵۳۴۴، ۵۳۵۳، ۵۳۵۷، ۵۳۸۳

ہدیہ یوسف: (ج۔۱۰) ۵۹۶۷

ہدیۃ الشیعین (غلام دستگیر قصوری): (ج۔۱۰) ۶۰۴۰

ہدیۃ العارفین: (ج۔۵) ۲۷۶۶

ہسٹری آف اورنگ زیب: (ج۔۹) ۵۱۶۲

ہفت روزہ اداکار: (ج۔۶) ۳۷۰۷

ہفت روزہ افق (کراچی): (ج۔۶) ۳۶۸۵، ۳۷۰۸

ہفت روزہ الاعتصام: (ن۔۵) ۲۶۲۷

ہفت روزہ شہاب (لاہور): (ج۔۴) ۲۵۱۳

ہفت روزہ کوثر (لاہور): (ج۔۴) ۲۵۱۳

ہفت روزہ لیل ونہار: (ج۔۶)۳۷۰۵

ہمایوں نامہ: (ج۔۴)۲۰۳۴

ہمعات: (ج۔۶)۳۳۶۰، (ج۔۷)۴۰۵۸، ۴۰۶۲

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر: (ج۔۹)۵۱۵۴، ۵۳۲۱

ہندوستان میں علم حدیث: (ج۔۴)۲۰۵۸

ہندوستان میں مشرقی علوم: (ج۔۹)۵۳۷۹

ہندوستانی سے پاکستانی: (ج۔۴)۲۵۱۲

ہندی ثقافت پر اسلام کا اثر: (ج۔۱۰)۵۸۵۹

ہواللہ: (ج۔۳)۱۶۶۳

ہٰذا ولدی: (ج۔۵)۲۷۰۰

ی

یادگار خطوط ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے نام: (ج۔۶)۳۶۸۴

یادگار مجدد الف ثانی (ابو السرور محمد سرور احمد کراچی): (ج۔۱۰)۶۲۴۵، ۶۳۴۲

یاد محبوب: (ج۔۶)۳۷۸۹

یاد مرداں: (ج۔۶)۳۲۸۶

یاقوت احمر: (ج۔۹)۵۵۶۴

الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی: (ج۔۱)۹۷، (ج۔۵)۲۶۸۵، ۲۸۱۷، (ج۔۹)۵۰۴۰، (ج۔۱۰)۵۷۶۲

ینابیع الحیوٰۃ الابدیہ: (ج۔۶)۳۴۳۶، ۳۴۴۳

یواقیت الحرمین: (ج۔۶) ۳۴۴۴، (ج۔۹) ۵۵۴۶، (ج۔۱۰)۵۷۵۹

الیواقیت المہریہ، غلام مہر علی: (ج۔۱۰)۵۹۶۷

الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر: (ج۔۱) ۱۹۶، (ج۔۲) ۵۸۸، ۵۹۳، ۶۵۱۔۶۵۲، ۷۳۱، (ج۔۳) ۱۵۶۶، (ج۔۷)۴۴۰۹

یوسف زلیخا (عبد القادر خان خٹک): (ج۔۱۰)۵۸۷۱

یوسف زئی پٹھان: (ج۔۶)۳۹۰۹

یوسف نامہ: (ج۔۱)۵۳

Asma' al-Kutub

Adabu'l Qur'an:(v-6) 3261
The Administration of the Mughal Emperor: (v-3) 1371, (v-4) 2170
Afghanistan Journal: (v-6) 3304
Akbar and Gesuits:(v-3) 1720
Akbar and Religion:(v-10) 5707
Akbar the Great Mughul:(v-9) 5042
Ala'al Din's Treasury of Spiritual Instruction: (v-1) 264
Altinoluk (Monthly):(v-6) 3271
Analytical Indexes:(v-7) 4466, 4475
And Muhammad is His Messenger:(v-8) 4888
Arabic English Dictionary:(v-1) 193
At- Tasdhilatu'l- Atira fi'l Qiraati'l- Ashara: (v-6) 3260
A Biographical Dictionary of Contemporary Afghanistan: (v-6) 3305.
A Bouquet from the Uthmani Rose Garden:(v-6) 3290
A Brief History of the Naqshbandi Order:(v-6) 3305
Bukhari: (v-2) 971
Bulletin of the School De oriental and African Studies:(v-5) 2793
Central Structure of The Mughul Empire: (v-4) 2159-2160
Chambers Twentieth Century Dictionary:(v-1) 192
Change and Continuity, A Sufi Order in Contemporary Lebnon: (v-6) 3253, 3255
A comparative study of working of a Branch of the Naqshbandi Sufi Order in Lebanon and the United Kingdom (Ph.D.Thesis): (v-6) 3253-3254
Computing Vision of Islam in the United States: (v-6) 3253
The Concise Dictionary:(v-1) 191
The Contribution of India to Arabic Literature:(v-9) 5042
The Contribution of Indo Pakistan to Arabic Literature: (v-5) 2817
Dara Shakuh - Life and Works:(v-2) 803
The Darrivishes or Oriental Spiritualism:(v-8) 4874, 4897
The Decline of the Mughal Empire and Shah Waliullah:(v-6) 4886
The Development of Metaphysics in Persia:(v-5) 2973, 3011
Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory: (v-1) 192
Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory:(v-1) 192
Devotional Islam & Politics in British India (Ahmed Raza Khan Barelwi and his Movement 1870- 1920): (v-1) 54, (v-5) 2909
Dhakhirat al- Muluk: (v-5) 2842
Empire and Islam: (v-4) 2200
The Encyclopaedia of Religion and Ethics: (v-1) 109, (v-5) 2841, 2895, (v-8) 4876, 4897
Encyclopedia of Islam, New Edition:(v-5) 2843
The Encyclopedia of Islam: (v-5) 2843, (v-8) 4883, 4898
The Encyclopedia of Islamic Doctrine:(v-6) 3247, 3251, 3255
Endless Bliss: (v-1) 100
English Dictionary:(v-1) 191
EPISTLES (Maktubat Sharif): (v-5) 2629
Es'ila and Awjiba fi Ilmi'l Hadith:(v-6) 3260
Fatawa- i- Omariyya bi- Tariqatil- Aliyye: (v-6) 3260 - 3261
First Islamic Movement In India - Shaykh Ahmed Sirhindi as a Mystic: (v-6) 113
Followers and Heirs of the Prophet (Shaykh Ahmed Sirhindi as Mystic): (v-1) 113, (v-4) 2198- 2199, (v-5) 2854, 2858
Formation of Religion secularization, Revival and cult: (v-6) 3247
The Fourth Way:(v-10) 5778
Freedom Movement of Pakistan: (v-6) 2767
From Azhar to Oak Park: (v-6) 3254
Al-futuhat al- haqaiq:(v-6) 3254
The Future Formation of Religion Secularization, Revival and Cult Formation: (v-6) 3247, 3254

Gaben des lichts geschichten aurden leben des propheteen:(v-6) 3246
Gabriel's Wing - A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad Iqbal:(v-8) 4886, 4898
Gaden des Lichts Geschichten aur dem leben des propheteen: (v-6) 3246
The Gazette, (Montreal):(v-6) 3255
German and English Dictionary:(v-6) 191
Geschichte der Arabic hen Litteratur:(v-10) 5042
Gesehicrte der Arabischen Litteratur Leide: (v-5) 2858
The Great Mughals:(v-6) 2092, 2125, 2167, 2169
Hazrat Mujaddid and His Critics:(v-3) 1403, (v-10) 6379, 6[illegible]25
The History of Aryan Rule in India from the Earliest Times to the death of Akbar:(v-9) 5042
History of India as told by its Historians: (v-5) 2793
History of Mankind:(v-8) 4877, 4898
History of Sufism in India: (v-4) 2199
A History of Sufism in India:(v-4) 2200
History of Syria:(v-5) 2856, 2858
History of the Rise of Muhammadan Power in India:(v-9) 5042, 5049
Hulya Yilmaz Qunden Bugune Gumushnevi Maktabi:(v-6) 3257
The Idea of Personality in Sufism:(v-5) 2828, 2842
Ilm ve Sanat (Monthly): (v-6) 3271
In Search of the Miraculous:(v-10) 5778
Index Islamicus:(v-6) 2858
India to the Death of Akbar:(v-6) 5042
The India:(v-10) 5834
The Indian Muslims: (v-1) 111, (v-5) 2791
The Influence of Shaykh Ahmad Sirhindi on Dr. Muhammad Iqbal:(v-1) 102, (v-10) 6379, 6423
Is Religion possible: (v-5) 2829, 3030, 3033
Islam (Monthly):(v-6) 3271
Islam after Malcoin X: (v-6) 3254
Islam in Indian Sub-Continent:(v-10) 6379, 6422
Islamic Da'wah in the West - Muslim Missionary Activity and the Dynomics of Conversion to Islam: (v-6) 3247, 3254
Islamic Studies:(v-7) 4062, (v-8) 4898
Islamic teaching Transmission of Islamic knowledge in Syria: (v-1) 93, 98
Jaliyat al- akdar wa'l sayf al- battar al- salat ala al- Mukhtar: (v-6) 3255
Journal of Islamic Research:(v-6) 3291
Kadin ve Aile (Monthly): (v-6) 3271
Karl Marx and Frdinck Evgbs Selected Works: (v-5) 2794
La Nation Arabe: (v-5) 2943
The Legacy of Islam:(v-1) 192
Letters and writings of Iqbal: (v-5) 3029, 3043
Literary History of the Arabs:(v-2) 802
Maktubal-i-Iman Rabbani:(v-2) 978,(v-10) 6305
Maqamat-i-Masumi: (v-2) 1260-1261
Maqamat-i-Masumi (Muhammad Iqbal Mujaddidi): (v-10) 6366
Maqamat-i-Masumi (Safr Ahmad Masumi): (v-10) 6367
Marx and Engles on Religion Foreign Languages:(v-5) 2790
Matn- i- Aqaid Tarjama: (v-6) 3261
Maujzat-i-Nabawiyya:(v-6) 3261
Mawaqif al- aqle wa'l- ilm wa'l- alim: (v-5) 2842
Mawhiba- i al- Ba'ri' Tarjama- i Bukhari: (v-6) 3261
Medieval India:(v-9) 5042
Meeting with the Remarkable Men:(v-10) 5778
Mewlid, Mairaj wa Mujizat:(v-6) 3260
Mewlid-i-sharif: (v-6) 3260
Mir'at-i-Qanun-i-Es'Assistant:(v-6) 3261
Modern writings on Islam and Muslims in India: (v-5) 2791
Mohammadanism - An Historical Survey: (v-5) 2842
Mohammadanism: (v-1) 192, (v-5) 2829
Mohammadinism - An Historical Survey: (v-5) 2842, (v-8) 4877, 4898
Monthly, Al-furqan (Bareilly):(v-9) 5041
Mu'jizat- i Nabawiyya:(v-6) 3261
Mughal Rule in India: (v-6) 2204

Mughals in India:(v-8) 4878, 4898
Mujadid's Conception of Tawhid: (v-1) 113,(v-6) 801- 802, (v-6) 1298, (v-5) 2841 (v-9) 5042, (v-10) 5049, 6701
The Munajat o Ilahi-namah of Abdullah Ansari: (v-6) 304
Muntakhib-al-Tawarikh:(v-9) 5042
Muslim Culture in Russia and Central Asia from 18th to Early 20th Century:(v-6) 3305
The Muslim Magazine : (v-6) 3254
Muslim Nationalism in India and Pakistan:(v-4) 2223
Muslim Nationalism in India and Pakistan: (v-5) 2840, 2843
Muslim Nationalism in India and Pakistan:(v-4) 2223, (v-5) 2840, 2843
Muslim Revivalist Movements in Northern India in the 16th and the 17th Centuries :(v-10) 5659
Muslim Revivalist Movements In Northern India:(v-1) 111
Muslim Sharif: (v-2) 978
The Muslim World (Quartely): (v-4) 2223, (v-5) 2835, 2843
Muslim world (Quarterly): (v-5) 2835
Muslim:(v-2) 978
Mystic History an Politics at a south Asian Sufi Center: (v-4) 2199
Mystical Dimensions of Islam:(v-8) 4890, 4898
Mysticism History and Politics at a South Asian Sufi Centre:(v-4) 2199
Mysticism -The legacy of Islam:(v-1) 192·
Naqshbandi in western and Central Asia:(v-1) 103
Naqshbandi Influence on Mughal Rulers and Politics: (v-4) 2199, (v-5) 2791
The Naqshbandi Order in 17th Century Kurdistan: (v-6) 3291
Naqshbandi Order of Turkey: (v-1) 114
The Naqshbandi Reaction Reconsidered:(v-4) 2198
The Naqshbandi Sufi Way History and Guidebook of the saints of the Golden Chain:(v-6) 3254
Naqshbandia Bibliography:(v-10) 5595
The Naqshbandis:(v-6) 3254, (v-10) 6379, 6424
Narrative of a Residence in Koordistan:(v-6) 3290
A New Model of the Universe:(v-10) 5778
Notes on Afghan Sufi orders and Khanqahs: (v-6) 3296
Official Sunni and Shi'i Islam: (v-1) 98, (v-8) 4909
On the Research on Islam in the United States: (v-6) 3253
Our Decline and its Causes: (v-5) 2944
Our Freedom Fighters: (v-1) 111
Oxford Dictionary: (v-1) 192
Pain and Grace:(v-8) 4884, 4898
Persian Literature - A Bio- Bibliographical Survey:(v-5) 2829, 2842
Pilgrims of Love - The Anthropology of a Global Sufi Cult:(v-8) 4895, 4899
Pir and Murshid - An Aspect of Religious Leadership in West Pakistan:(v-4) 2200
The Political Role of Shaykh Ahmed Sirhindi and Shah Waliullah - Proceeding of Indian History Congress:(v-6) 2789
Politics of Islam in Syria:(v-6) 98, (v-6) 4909
The Preaching of Islam:(v-1) 109, (v-4) 2151, (v-5) 2827, 2841, (v-7) 4875, 4897, (v-8) 5042, 5049
Preaching of Islam: (v-3) 1298, (v-5) 2874, 2895
Problems of Marxist historical Analysis Science and Human Progress Popular Prakaohan: (v-5) 2794
Punjab Historical Journal:(v-6) 6127
Qasas- i- Anbiya: (v-6) 3260
Quarterly Sher-e-Rabbani Digest (Lahore):(v-10) 6428
The Real Achievement of the Human Life:(v-4) 2109
Real Achievement of the Human Life:(v-4) 2168, (v-6) 3145
Reconstruction of Religious Thought in Islam: (v-5) 2842, 2946, 3008- 3009, 3011,

Sources of Indian Tradition:(v-4) 2223
Speeches, Writings and Statements of Iqbal:(v-5) 3011
Spirit of Islam:(v-9) 5042
Stray Reflections:(v-5) 3008, 3013
Studi Orientali: (v-4) 2223
Studies in Islam (Quartely) New Delhi: (v-4) 2223, (v-5) 2837, 2843
Studies in Islamic Culture in the Indian Environment: (v-1) 111
Studies in Literature:(v-10) 6127
Studies in Northern Languages:(v-4) 2059
Sufi Heirs of Prophet:(v-4) 2224
Sufi Heirs of the Prophet - The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Meditating Sufi Shaykh:(v-4) 2201- 2202, 2241,(v-8) 4893, 4898, (v-6) 6379, 6421
Sufi Illuminations:(v-10) 6428
The Sufi Orders in Islam:(v-8) 4879, 4898
Sufism Its Saints & Shrines: (v-1) 111
Sunan-i-Aqwalin Nabawyya Minal-Ahadithil Zubdatul Bukkari:(v-6) 3260
Tarikh Ulama Dimoshq al-qam al-rabi: (v-6) 3255
Al-Tariqa al- naqshbandiyya wa- a lamuha: (v-6) 3254
Tertium Organum:(v-10) 5778
Transmission of Islamic Knowledge in Syria:(v-8) 4909
Two Nation Theory:(v-3) 1370, (v-4) 2084, 2166-2168, 2170
USUI RIKY's and Islamic System of Spirituality: (v-1) 104
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language:(v-8) 4897
Yad-i-Mardan: (v-6) 3289
Zawadu'z- Zebid'i: (v-6) 3261
Zubdatul Bukhari:(v-6) 3260- 3261
3013-3018, 3020, 3030, 3044
Reflection of Ibn -ul-Arbi in early Naqshbandi Tradition:(v-[illegible]) 3291
Religious and Political Ideas of Shaykh Ahmed Sirhindi:(v-5) 2830
The Religious Policy of Mughal Emperors: (v-6) 1368,(v-6)2097, 2167- 2168,2170
The Revivalist Movements:(v-10) 5778
Risala A'lmabda' wa'l- ma'ad:(v-4) 2222
Risala dar Radd-i- Rawafid: (v-4) 2222
Rivista Degli Studi Orientali: (v-4) 2223, (v-5) 2830, 2842
Saints and Martyrs, Muhammaden in India: (v-5) 2841, (v-8) 4876, 4897
Sair-i-Tasavvaf dar Afghanistan: (v-6) 3305
Scholars, Saints and Sufis Modern Afghanistan: (v-6) 3305
Selected letters of Shaykh Ahmed Sirhindi: (v-1) 100, (v-4) 2224
Shah Wali-Allah and Australia:(v-10) 5834
Shaikh Ahmad Sirhindi and his reforms:(v-1) 113
Sharh- i Maktubat:(v-2) 979
Shaykh Ahmad Sirhindi: (v-1) 113,(v-5) 2817,
Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Thoughts and a Study of His Image in the Eyes of Posterity:(v-1) 113,(v-4) 2198, (v-5) 2854, 2858, (v-8) 4880, 4898
Šhaykh Ahmed Sirhindi (London): (v-5) 2817, 2198
Shaykh Farid Bukhari's Relations with some of the Contemporary Ulama: (v-5) 2792
A Short History of India:(v-4) 2191- 2193
A Short History of Islam:(v-1) 111
Sirajal-Qulub No:(v-6) 3290
A Social History of Islamic India: (v-4) 2125
Some Aspects of Society and culture during Mughal Age: (v-4) 2096
Some Problems in Naqshbandi History:(v-8) 4874

۲۲ھ


واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

۲۱۰۶ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اشاریہء اماکن جہان امام ربانی

☆☆

محمد عاصم مسعودی، محمد سہیل، ثروت، صبا مسعودی، حنا مسعودی
سمیعہ شاہد، ربیعہ شاہد، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

آ

آزادکشمیر: (ج_۲)۴۸۳، (ج_۴)۱۸۹۱، ۲۵۳۱، (ج_۶) ۳۵۹۵، ۳۷۷۲، ۳۸۱۲، ۳۸۱۸ _ ۳۸۲۰، ۳۸۲۳، ۳۹۲۴ _ ۳۹۲۵، (ج_۷) ۳۹۸۷، (ج_۸) ۴۲۸۳، ۴۹۹۵، (ج_۱۰) ۵۵۸۷، ۵۷۶۳، ۵۸۸۶، ۵۹۳۷، ۶۲۴۲، ۶۲۴۴، ۶۲۸۷

آسام: (ج_۶)۳۷۵۷

آسٹریلیا: (ج_۶) ۳۲۷۱، (ج_۱۰) ۶۴۲۹، ۶۴۳۱ _ ۶۴۳۲، ۶۴۴۶

آکسفورڈ: (ج_۵)۲۵۷۹، ۳۰۳۸

آگرہ: (ج_۱) ۹۰، ۳۱۲، ۳۷۰، ۳۹۴، ۴۱۴ _ ۴۱۷، ۴۴۳ _ ۴۴۴، (ج_۲) ۷۰۵، ۷۶۷، (ج_۳) ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۸۴۴، ۱۸۶۲، ۱۸۷۰، (ج_۴) ۱۹۷۲، ۲۰۱۵، ۲۰۳۷، ۲۱۴۴، ۲۱۳۵، ۲۱۴۶، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۸۶ _ ۲۱۸۸، ۲۲۹۰، ۲۳۷۳، ۲۳۷۶ _ ۲۳۸۲، ۲۳۹۱ _ ۲۳۹۲، ۲۴۰۳، ۲۴۱۸، ۲۴۲۲، ۲۴۲۵، ۲۴۳۱، ۲۴۳۳ _ ۲۴۳۶، ۲۴۳۹، ۲۴۴۸، (ج_۵) ۲۵۶۱، ۲۵۷۵، ۲۵۷۷، ۲۵۸۱، (ج_۶) ۳۷۶۵، ۳۷۹۹، ۳۹۵۹، ۳۹۷۱، (ج_۷) ۴۱۷۲، (ج_۸) ۴۵۱۳ _ ۴۵۱۴، ۴۵۲۳، ۴۵۶۰ _ ۴۵۶۱، ۴۷۰۰، ۴۸۴۳، ۴۸۶۷، ۴۸۸۲، ۴۸۹۰ _ ۴۸۹۱، ۴۹۰۲، ۴۹۰۹، ۴۹۴۷، (ج_۹) ۵۰۲۲ _ ۵۰۲۴، ۵۰۲۹، ۵۰۴۳، ۵۰۴۵، ۵۰۹۵، ۵۱۲۱ _ ۵۱۲۲، ۵۱۲۵ _ ۵۱۲۶، ۵۱۴۲، ۵۱۸۸، ۵۲۲۷، ۵۲۲۹، ۵۳۲۶، ۵۳۶۸، ۵۳۹۱، ۵۳۹۹، ۵۴۷۱، ۵۴۷۳، ۵۴۸۳، ۵۵۱۸، ۵۵۲۰، (ج_۱۰) ۵۶۲۶، ۵۶۴۰ _ ۵۶۴۱، ۵۶۴۴، ۵۶۴۶، ۵۶۵۵، ۵۶۷۸، ۵۶۸۲، ۵۷۹۳ _ ۵۷۹۴، ۵۸۰۲، ۵۸۰۷، ۵۸۰۹، ۵۸۶۶، ۵۸۷۴، ۵۸۸۷، ۶۱۰۶ _ ۶۱۰۷

آلومہار شریف: (ج_۶) ۳۷۷۵، ۳۷۸۸، (ج_۷) ۴۴۱۷، (ج_۱۰)۵۹۱۰ _ ۵۹۱۱، ۵۹۳۷ _ ۵۹۳۸، ۶۰۰۱، ۶۰۰۴، ۶۰۰۶، ۶۰۰۸، ۶۰۱۰، ۶۰۱۳ _ ۶۰۱۵، ۶۴۳۱

آمری: (ج_۶)۳۶۷۱

آوان شریف: (ج_۸)۴۸۴۹

آئرلینڈ: (ج_۵)۲۶۷۵

آہدیاں: (ج_۷)۴۲۷۸

ا

ابابکر (موضع): (ج_۱۰)۵۸۸۶، ۵۹۳۰ _ ۵۹۳۱

اترپردیش: (ج_۱۰)۵۶۵۹

اترولی شریف: (ج_۱۰)۵۹۹۷، ۵۹۹۹ _ ۶۰۰۱

اٹاوہ: (ج_۷)۴۱۷۱، (ج_۱۰)۵۸۰۷

اٹک: (ج_۶) ۳۷۷۱، ۳۷۸۱، ۳۷۸۳، ۳۷۹۰ _ ۳۷۹۱، ۳۷۹۵، ۳۸۴۶، ۳۸۹۷، ۳۹۰۵ _ ۳۹۰۶، (ج_۸) ۴۹۷۵، ۴۹۸۱، (ج_۱۰) ۵۸۶۹، ۵۸۷۳ _ ۵۸۸۷، ۵۸۸۹ _ ۵۸۹۰، ۵۹۱۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۷ _ ۵۹۳۴، ۵۹۳۷ _ ۵۹۳۸، ۵۹۴۱، ۵۹۴۳ _ ۵۹۴۶، ۵۹۹۶، ۶۴۹۰

اٹک خورد: (ج۔۱۰)۵۹۲۸۔۵۹۲۹، ۵۹۳۳۔۵۹۳۴

اٹلی: (ج۔۵)۲۶۲۱، (ج۔۹)۵۲۵۵

اجمیر شریف: (ج۔۱)۳۱۵، ۳۸۷، ۳۸۹، (ج۔۳)۱۲۹۳، ۱۳۸۶، ۱۶۴۴، (ج۔۴) ۱۹۹۱، ۲۰۴۸، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۶۶، ۱۸۶۹، ۲۰۶۳۔۲۰۶۴، ۲۰۷۹، ۲۰۸۶، ۲۱۵۹۔ ۲۱۶۰، ۲۲۲۹، ۲۳۸۰، ۲۴۲۴، (ج۔۵)۲۷۲۹، (ج۔۶) ۳۳۷۰، ۳۶۲۴، ۳۶۶۰، ۳۷۹۴، ۳۸۴۹، ۳۸۶۰، ۳۸۸۳، ۳۹۲۳، (ج۔۸) ۴۵۵۵، ۴۵۵۷، ۴۵۶۷، (ج۔۹) ۵۳۶۴، ۵۵۲۷، (ج۔۱۰) ۵۶۴۲، ۵۶۴۴، ۵۸۲۳، ۵۸۶۶، ۵۸۷۵

اجنالہ (ضلع امرتسر): (ج۔۱۰)۵۹۷۷

اجین: (ج۔۳)۱۸۵۰، (ج۔۴)۲۰۴۰

اچھڑی: (ج۔۱۰)۵۸۸۱

اچینہ: (ج۔۶)۳۸۹۶

احمد آباد گجرات: (ج۔۲)۱۱۵۶، ۱۱۷۶، (ج۔۵)۲۶۱۳، ۲۶۴۶، ۲۷۴۴، (ج۔۶) ۳۶۲۹۔۳۶۳۰، (ج۔۸) ۴۵۷۶، (ج۔۱۰)۵۸۳۴، ۶۲۸۹

احمد پور شرقیہ: (ج۔۱۰)۶۰۵۵۔۶۰۵۶

احمد نگر: (ج۔۴)۱۹۷۳، ۲۱۸۴، ۲۴۰۱، ۲۴۰۶، (ج۔۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۴۵

اخوند احمد لنڈی: (ج۔۱۰)۵۸۶۹

اربابان: (ج۔۱۰)۵۸۷۴

اربل: (ج۔۴)۲۵۰۴

اردن: (ج۔۶)۳۶۴۱

ارغستان: (ج۔۶)۳۷۶۰

ارکستان: (ج۔۱۰)۵۸۸۸،

اڑیسہ: (ج۔۴)۲۱۸۷، (ج۔۱۰)۵۶۴۴

ازبکستان: (ج۔۲) ۷۲۸، (ج۔۵) ۲۸۵۹، (ج۔۶) ۳۳۱۴، (ج۔۸)۴۸۶۳، (ج۔۱۰)۵۷۹۶، ۶۴۳۶

اسپلنجی: (ج۔۱۰)۵۹۵۳

اسپنزنڈ: (ج۔۱۰)۵۹۵۳

استفرار: (ج۔۸)۴۸۶۶

استنبول: (ج۔۱) ۸۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۹، (ج۔۴) ۲۴۹۱، ۲۵۰۸، ۲۵۱۰، (ج۔۵)۲۶۲۷، ۲۶۶۵، ۲۶۷۰، ۲۶۷۳، ۲۶۷۶، ۲۶۷۷، ۲۶۸۳، ۲۶۸۴، ۲۶۸۶۔ ۲۶۸۸، ۲۶۹۶، ۲۶۹۹، ۲۷۰۱، ۲۷۳۸، ۲۷۶۵، ۲۸۵۵، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۶۴، ۲۸۶۶۔ ۲۸۶۷، ۳۰۰۹، ۳۰۳۹، (ج۔۶)۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۶، ۳۱۸۹، ۳۱۹۴، ۳۱۹۸۔ ۳۲۰۱، ۳۲۰۸۔۳۲۰۹، ۳۲۲۵، ۳۲۳۰، ۳۲۳۳، ۳۲۴۵، ۳۲۶۰۔ ۳۲۶۱، ۳۲۷۱، ۳۲۸۱، ۳۲۸۷، ۳۲۸۹، ۳۹۴۵، ۳۹۵۶، ۳۹۶۰، (ج۔۷) ۴۲۶۳، (ج۔۸) ۴۵۷۶، ۴۵۷۸، ۴۸۱۳، (ج۔۱۰)۵۸۹۰، ۶۱۶۳، ۶۲۲۱، ۶۲۴۴، ۶۳۲۷، ۶۳۷۸۔ ۶۳۷۹، ۶۳۸۷، ۶۴۱۴، ۶۴۱۶

اسرائیل: (ج۔۱۰)۶۰۹۳

اسغرار (موضع): (ج۔۴)۲۲۵۲، ۲۲۶۳

اسلام آباد: (ج۔۱)۵۶، ۱۱۴، ۳۱۴، ۴۶۱، (ج۔۲)۷۳۷، ۸۰۴، ۹۰۸، ۹۵۴، ۹۸۰، ۱۰۳۲، ۱۱۹۲، ۱۲۴۲، ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵، ۱۲۴۸، ۱۲۵۶، (ج۔۳) ۱۸۷۲، (ج۔۵) ۲۶۲۹، ۲۶۸۵، ۳۰۳۹، (ج۔۶) ۳۶۴۴، ۳۷۸۳، ۳۷۹۹، ۳۹۴۴، ۳۹۶۱، ۳۹۶۴، ۳۹۶۷، ۳۹۷۳، (ج۔۷) ۴۰۳۶، ۴۱۶۲، (ج۔۸)۴۸۱۱، ۴۸۳۴، ۴۸۵۴، (ج۔۱۰)

۵۸۸۸، ۵۸۹۰، ۵۸۹۲، ۵۹۲۴ _ ۵۹۲۷، ۵۹۳۴،
۵۹۳۹، ۵۹۴۱ _ ۵۹۴۶، ۵۹۵۹، ۶۰۹۳، ۶۱۶۳، ۶۲۲۲،
۶۳۰۸، ۶۳۴۱، ۶۳۹۰

اسیر گڑھ: (ج_۱۰) ۵۶۵۲

اشم گاؤں: (ج_۱) ۲۵۶

اصفہان: (ج_۱) ۸۸، (ج_۳) ۱۸۴۸، ۲۲۵۶، ۲۳۸۴،
(ج_۸) ۴۸۳۳، (ج_۹) ۵۱۲۷، ۵۵۱۹

اعظم گڑھ: (ج_۴) ۲۰۵۷، (ج_۵) ۲۷۲۵، ۳۱۰۹،
(ج_۶) ۳۶۴۰، (ج_۸) ۴۵۷۷، (ج_۹) ۵۱۵۳ _
۵۱۵۴، ۵۱۶۰، ۵۲۷۴

اعوان شریف: (ج_۵) ۲۹۲۵

اعوان کاری: (ج_۱۰) ۵۹۳۳

اعیان: (ج_۶) ۳۲۳۹ _ ۳۲۴۰

افریقہ: (ج_۶) ۳۵۷۳، ۳۶۴۲، ۳۷۵۷، (ج_۸)
۴۹۰۶، (ج_۱۰) ۶۴۲۹

افغانستان: (ج_۲) ۴۸۵، ۷۲۸، (ج_۴) ۱۹۴۶، ۲۰۵۶،
۲۰۷۹، ۲۰۸۶، ۲۴۸۷، ۲۲۱۳، ۲۲۲۲، (ج_۵) ۲۵۶۶،
۲۵۹۸، ۲۶۵۰، ۲۶۶۸، ۲۶۸۰ _ ۲۶۸۱، ۲۶۹۵،
۲۶۹۶، ۲۷۱۳، ۲۷۸۹، ۲۸۰۷ _ ۲۸۰۸، ۲۸۴۱، ۲۸۷۸،
۲۸۹۸، ۲۹۲۴، ۲۹۳۹، ۳۰۳۲، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۲۹۵ _
۳۳۰۰، ۳۳۰۲، ۳۳۰۸ _ ۳۳۰۹، ۳۳۱۱، ۳۳۱۳ _
۳۳۱۴، ۳۳۱۸ _ ۳۳۱۹، ۳۳۲۳ _ ۳۳۲۴، ۳۳۳۰،
۳۳۳۴ _ ۳۳۳۷، ۳۳۳۹، ۳۳۴۱ _ ۳۳۴۳، ۳۳۶۱،
۳۳۷۸، ۳۳۸۰، ۳۴۱۷ _ ۳۴۱۸، ۳۴۳۵، ۳۴۵۱،
۳۵۴۲، ۳۵۴۷ _ ۳۵۴۹، ۳۵۵۳ _ ۳۵۵۶، ۳۵۹۷،
۳۶۰۸ _ ۳۶۰۹، ۳۶۴۲، ۳۷۲۵، ۳۷۳۳، ۳۷۵۷ _
۳۷۶۰، ۳۷۶۴، ۳۷۷۲، ۳۷۷۵، ۳۷۸۱، ۳۷۹۳،
۳۷۹۵، ۳۸۰۷، ۳۸۰۹، ۳۸۱۲ _ ۳۸۱۴، ۳۸۱۶،
۳۸۲۳، ۳۸۲۷ _ ۳۸۲۸، ۳۸۳۲، ۳۸۴۱، ۳۸۴۵،
۳۸۴۹، ۳۸۵۱، ۳۸۸۰، ۳۹۰۶، ۳۹۱۴، ۳۹۲۰، ۳۹۲۲ _
۳۹۲۳، (ج_۷) ۴۰۱۰، ۴۱۸۸، ۴۲۰۰، (ج_۸) ۴۵۰۱،
۴۵۱۱، ۴۸۳۲، ۴۸۳۳، ۴۸۸۹، ۴۹۰۳، ۴۹۰۶، (ج_۹)
۵۰۱۳، ۵۰۱۶، ۵۰۲۱، ۵۰۳۳، ۵۰۴۷، ۵۰۵۷،
۵۳۸۱، ۵۳۸۷، ۵۴۷۰، ۵۵۱۰، ۵۵۳۷، (ج_۱۰)
۵۶۱۶، ۵۶۲۷، ۵۷۰۲، ۵۷۶۸، ۵۷۷۷، ۵۷۸۸،
۵۷۹۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۹، ۵۸۶۸، ۵۸۷۰، ۵۸۷۷،
۵۸۸۲، ۵۸۸۷ _ ۵۸۸۸، ۵۸۹۱، ۵۹۲۷، ۵۹۵۰،
۵۹۵۳ _ ۵۹۵۶، ۵۹۸۵، ۵۹۸۸

اقشیہ: (ج_۷) ۴۰۹۰

اکبر آباد: (ج_۱) ۹۰، ۳۷۰، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷،
۴۴۳، ۴۴۴، (ج_۲) ۵۰۷، (ج_۴) ۱۹۷۲، ۲۰۱۵،
۲۱۷۸، ۲۴۳۳ _ ۲۴۳۵، ۲۴۳۹، (ج_۹) ۵۰۲۳،
۵۱۲۱، ۵۱۸۸، ۵۴۷۳، ۵۵۳۶، (ج_۱۰) ۵۶۴۰ _
۵۶۴۱، ۵۶۷۸، ۵۶۸۴، ۵۸۷۸، ۵۹۱۵

اکبر پورہ (ضلع پشاور): (ج_۶) ۳۸۹۶، (ج_۱۰)
۵۸۶۵، ۵۸۷۴، ۵۸۷۶، ۵۸۸۶ _ ۵۸۸۷، ۵۹۳۳

اکوڑہ خٹک: (ج_۶) ۳۸۶۹

اگھار کوٹلی: (ج_۶) ۳۸۱۶، ۳۸۲۰ _ ۳۸۲۱، ۳۸۲۴

اگھمی: (ج_۶) ۳۵۷۴

البانیہ: (ج_۲) ۷۲۸

الجزائر: (ج_۵) ۲۶۸۱، ۲۶۸۳، (ج_۶) ۳۲۱۱،
(ج_۱۰) ۶۴۴۲

الحساء: (ج_۶) ۳۸۳۷ _ ۳۸۳۹

اللہ آباد کنڈیارو: (ج۔۱۰)۶۰۶۷۔۶۰۶۸

الورشریف: (ج۔۶)۳۳۷۰، ۳۵۷۴، ۳۶۱۴، ۳۶۲۳۔ ۳۶۲۵، ۳۶۲۸، ۳۶۳۲، ۳۶۴۶، ۳۶۷۳، ۳۶۷۸، (ج۔۸)۴۸۶۹، (ج۔۱۰)۵۸۰۱۔۵۸۰۲

الہ آباد: (ج۔۴) ۲۰۵۷، ۲۱۸۶، ۲۱۸۸، ۲۳۹۰، (ج۔۵) ۲۵۷۹، (ج۔۶) ۳۶۵۲، ۳۹۶۵، (ج۔۹) ۵۱۲۷، (ج۔۱۰)۵۶۴۵، ۵۹۵۸

امازوکھڑی: (ج۔۶)۳۸۷۱

امرتسر: (ج۔۱)۱۰۰، ۱۰۹، ۱۹۴، ۴۰۴، ۴۴۰، (ج۔۲)۷۷۱، ۹۵۵، (ج۔۳) ۱۲۹۷، ۱۳۷۱، ۱۵۹۷، ۱۶۱۵، ۱۶۶۰، ۱۷۲۲، (ج۔۴)۲۲۲۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۶، (ج۔۵)۲۵۷۴، ۲۵۷۹، ۲۶۱۱، ۲۶۲۸، ۲۶۴۴، ۲۶۴۶، ۲۶۴۹، ۲۶۶۴، ۲۶۶۵، ۲۶۹۲، ۲۷۲۵، ۲۷۶۳، ۲۹۲۳، ۳۰۲۶، ۲۹۳۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۵، (ج۔۶) ۳۴۴۱، ۳۶۰۰، ۳۶۰۲، ۳۹۴۱۔ ۳۹۴۲، ۳۷۷۱، ۳۷۸۶، (ج۔۷) ۴۲۳۲، ۴۴۷۳، (ج۔۸)۴۵۷۶۔ ۴۵۷۷، ۴۵۷۹، ۴۶۵۷، ۴۸۶۹، (ج۔۹) ۵۰۲۸، ۵۰۳۸، ۵۰۶۹، (ج۔۱۰) ۶۰۴۱، ۵۹۶۱، ۵۹۶۴، ۵۹۶۹۔ ۵۹۷۰، ۵۹۷۷۔ ۵۹۷۸، ۶۱۶۳، ۶۱۹۸

امروٹ: (ج۔۶)۳۴۳۲، ۳۵۶۲، ۳۵۷۰

امروہہ: (ج۔۴)۲۴۸۶، (ج۔۶)۳۸۷۲

امریکہ: (ج۔۵)۲۶۴۸، ۲۸۳۵، ۲۸۴۰، ۳۱۱۸، (ج۔۶) ۳۲۴۲۔ ۳۲۴۴، ۳۲۴۶، ۳۲۴۹۔ ۳۲۵۳، ۳۲۶۶۔ ۳۲۶۷، ۳۲۷۱، ۳۳۰۰، ۳۶۴۲، ۳۹۳۸، (ج۔۷) ۳۹۸۷، ۴۰۱۰، (ج۔۸) ۴۹۰۶، (ج۔۹) ۵۰۶۸، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶، ۵۶۳۰، ۵۶۹۶، ۵۷۸۵، ۶۰۹۳، ۶۳۰۷، ۶۴۲۹، ۶۴۳۱۔ ۶۴۳۲، ۶۴۳۵، ۶۴۴۲، ۶۴۴۴، ۶۴۴۶

امصار: (ج۔۴)۲۴۸۶

امکنگ: (ج۔۴)۲۲۵۲

امکنہ: (ج۔۱) ۳۰۰، ۳۱۳، (ج۔۴) ۲۲۶۰، ۲۲۶۳، (ج۔۸)۴۸۶۶

امکنی: (ج۔۴)۲۲۶۰

امیر شاہ: (ج۔۱۰)۵۹۰۳،

امیرا: (ج۔۱)۴۰۴

امینانی شریف: (ج۔۶)۳۶۹۶

اناطولیہ: (ج۔۹)۵۵۱۰

انب (ڈڈیال): (ج۔۶)۳۸۰۶

انبالہ: (ج۔۸)۴۸۶۹، (ج۔۱۰)۵۹۶۱۔۵۹۶۲، ۵۶۷۵

انجیرفغنو: (ج۔۱)۲۵۵، (ج۔۴)۲۲۴۷، ۲۲۶۰

اندلس: (ج۔۹)۵۲۷۰

انڈونیشیا: (ج۔۲) ۷۲۸، (ج۔۵) ۲۵۶۶، ۲۶۹۵۔ ۲۶۹۷، (ج۔۶) ۳۲۰۴۔ ۳۲۰۵، ۳۲۴۳، (ج۔۱۰) ۵۹۸۷

انڈیا: (ج۔۹) ۵۵۸۰، (ج۔۱۰) ۵۵۸۷، ۵۵۹۰، ۵۶۳۵، ۵۶۹۵، ۵۹۳۷، ۶۰۰۲، ۶۰۵۶، ۶۰۹۳، ۶۲۳۴، ۶۳۰۶، ۶۳۳۱، ۶۴۴۴

انقرہ: (ج۔۵)۲۸۳۳، (ج۔۸)۴۸۱۳

انگلستان: (ج۔۲) ۹۵۵، (ج۔۴) ۲۵۱۴، (ج۔۵) ۲۸۲۸۔ ۲۸۲۹، ۲۸۳۴، ۲۸۴۱، ۲۹۲۳، ۲۹۲۸، ۲۹۳۱، ۲۹۳۷، ۳۰۲۳، (ج۔۶) ۳۲۴۴، ۳۲۴۶، ۳۵۷۴، ۳۸۰۹۔ ۳۸۱۰، ۳۸۱۳۔ ۳۸۱۴، (ج۔۷)۴۰۱۴، (ج۔۸)

۴۸۳۳، (ج_۹) ۵۰۵۸، (ج_۱۰) ۵۶۳۰، (ج_۱۰)
۶۴۳۱، ۶۴۳۲، ۶۴۴۲

اوپی: (ج_۱۰) ۵۹۸۴

اوچ شریف: (ج_۴) ۲۰۸۷، (ج_۸) ۴۵۱۰، (ج_۹)
۵۰۱۰، (ج_۱۰) ۶۰۷۵

اودھ: (ج_۴) ۲۰۵۵

اودے پور: (ج_۶) ۳۳۹۲

اورنگ آباد: (ج_۴) ۲۱۸۴، ۲۲۸۶، (ج_۵) ۲۶۷۹،
(ج_۶) ۳۹۳۶، (ج_۸) ۴۸۷۶، ۴۹۰۲، ۴۹۰۹

اوکاڑہ: (ج_۶) ۳۵۹۱_۳۵۹۲، ۳۷۷۰، ۳۷۸۹،
۳۷۹۰، (ج_۱۰) ۶۴۳۹

ایبٹ آباد: (ج_۶) ۳۷۴۷، ۳۹۲۴، (ج_۱۰)
۵۸۷۸، ۵۸۹۲، ۵۹۳۷

ایڈرن: (ج_۶) ۳۲۶۱

ایران: (ج_۲) ۷۲۸، ۷۳۰، (ج_۴) ۲۰۰۲، ۲۰۴۸،
۲۰۵۶، ۲۰۸۵، ۲۱۴۶، ۲۵۱۴_۲۵۱۵، (ج_۵) ۲۶۹۵،
۲۶۴۸، ۲۶۸۱، ۲۸۴۶، ۳۱۰۹، (ج_۶) ۳۲۶۵،
۳۲۷۶، ۳۲۸۱، ۳۳۰۸، ۳۳۹۴، ۳۶۴۱، ۳۶۶۷،
۳۶۸۳، ۳۷۳۳، ۳۹۳۱، ۳۹۴۰، ۳۹۶۴، ۳۹۶۸،
۳۹۷۱، (ج_۷) ۴۴۲۹، (ج_۸) ۴۲۰۵، ۴۵۶۰_
۴۵۶۱، ۴۸۵۴، ۴۸۶۲، ۴۹۰۳، (ج_۹) ۵۱۶۹، ۵۳۸۱،
۵۴۱۲، ۵۴۱۴، ۵۵۳۱، (ج_۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۷۰،
۵۷۶۶، ۵۷۶۹، ۵۷۹۴، ۵۸۲۸، ۵۸۷۵، ۵۸۸۲،
۵۸۸۸، ۵۸۹۲، ۵۹۲۷، ۵۹۳۲، ۵۹۴۴، ۵۹۴۶،
۶۴۴۲

ایشیا: (ج_۵) ۲۸۷۸، (ج_۶) ۳۴۴۶، (ج_۸) ۴۹۰۶

ایلہ: (ج_۱) ۸۰

ایوبا (افغانستان): (ج_۶) ۳۳۰۲

ب

بابڑ: (ج_۱۰) ۵۸۸۲

بابوزئی: (ج_۶) ۳۸۳۱

باجوڑ: (ج_۶) ۳۸۶۶، ۳۸۹۵، (ج_۱۰) ۵۸۷۰،
۵۸۷۲، ۵۸۷۴، ۵۸۷۶، ۵۸۸۸

باڈلی شریف: (ج_۱۰) ۵۹۳۷

بارکھان: (ج_۵) ۲۸۸۲

بازار احمد خان: (ج_۶) ۳۸۹۹

بازار کلاں: (ج_۶) ۳۸۵۷

باغ: (ج_۶) ۳۸۰۵

باغ درہ: (ج_۶) ۳۸۶۹ (ج_۱۰) ۵۹۴۴

بالا پور: (ج_۶) ۳۴۱۱

بالاکوٹ: (ج_۱۰) ۵۸۸۴

بالا گھڑی: (ج_۶) ۳۸۷۱

بامتین: (ج_۸) ۴۸۶۶

باندہ پیر خان: (ج_۱۰) ۵۸۷۸

بانکی پور: (ج_۹) ۵۵۲۰

باؤلی شریف: (ج_۶) ۳۷۷۴، ۳۷۷۹، (ج_۱۰)
۵۹۳۹، ۶۰۰۱

بٹالہ: (ج_۶) ۳۳۵۶، (ج_۱۰) ۵۸۹۴

بھورو: (ج_۶) ۳۶۵۱

بجرتیال: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

بجنور: (ج۔۸) ۴۵۷۸، (ج۔۱۰) ۶۱۶۴، ۶۴۰۶

بچھراؤں: (ج۔۱۰) ۵۸۰۷

بحرام بدر: (ج۔۶) ۳۶۵۲

بخارا: (ج۔۱) ۷۸، ۸۸، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۸، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۲، ۲۹۹، ۳۶۶، ۳۷۲، ۳۷۹، ۴۲۴، ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، (ج۔۲) ۷۱۶، ۹۷۸، (ج۔۳) ۱۳۹۱، (ج۔۴) ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۶۰، ۲۲۵۲، ۲۲۵۹، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۴۸۶۔۲۴۸۷، (ج۔۵) ۲۶۶۶، ۲۶۹۲، ۲۶۹۵، ۲۹۲۴، ۳۰۹۰، (ج۔۶) ۳۳۴۹، ۳۵۴۴، ۳۷۶۳، ۳۷۶۵، ۳۷۷۶، ۳۸۳۳۔۳۸۳۴، ۳۸۷۵، ۳۸۷۷۔۳۸۷۸، ۳۹۰۴، ۳۹۳۴، (ج۔۷) ۴۰۵۵، ۴۰۶۱، ۴۰۶۷، ۴۰۸۶۔۴۰۸۷، ۴۰۸۹۔۴۰۹۰، ۴۰۹۴، ۴۰۹۷۔۴۰۹۸، ۴۱۸۸، ۴۲۰۰، (ج۔۸) ۴۵۱۳، ۴۵۲۲، ۴۸۶۳، ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۲۱۸، ۵۲۴۳، ۵۳۱۲، ۵۳۲۹۔۵۳۳۰، ۵۵۳۷، (ج۔۱۰) ۵۷۵۶، ۵۸۷۵، ۵۷۷۷، ۵۸۸۱، ۵۷۸۸، ۵۹۵۳، ۵۹۸۸، ۶۰۵۶، ۶۱۰۱

بدایوں: (ج۔۵) ۲۵۱۴، ۲۵۷۳، (ج۔۱۰) ۵۸۰۵، ۵۸۲۳

بدخشاں: (ج۔۱) ۸۸، ۳۱۷، (ج۔۲) ۵۰۹، ۵۱۱، (ج۔۳) ۱۳۶۵، ۱۴۴۱، ۱۴۵۰، (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۰۰۲، ۲۱۴۶، ۲۳۶۵، (ج۔۵) ۲۷۳۶، (ج۔۶) ۳۵۷۴، (ج۔۸) ۴۵۶۰، ۴۷۱۳، ۴۸۳۳، (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۱۲۶، ۵۲۳۰، ۵۲۴۳، ۵۳۱۲، ۵۵۳۱، (ج۔۱۰) ۵۷۲۳، ۵۷۶۹، ۵۸۸۷۔۵۸۸۸

بدر: (ج۔۷) ۴۲۳۹، ۴۴۰۱، (ج۔۹) ۵۲۵۳

بدین: (ج۔۶) ۳۴۴۱، ۳۶۸۹، ۳۷۰۰

بڈھیر: (ج۔۶) ۳۸۳۲

برصغیر پاک و ہند: (ج۔۵) ۲۵۵۹، ۲۵۶۹، ۲۵۷۲، ۲۵۷۶، ۲۶۴۳، ۲۶۴۴، ۲۶۷۳، ۲۷۲۳، ۲۷۵۸، ۲۷۶۱، ۲۷۹۶، ۲۸۱۹، ۲۸۲۸، ۲۸۳۸، ۲۸۵۹، ۲۸۸۱، ۲۹۴۹، ۲۵۳۳، ۲۵۵۹، ۲۵۷۲، ۲۵۷۶، ۲۶۸۵، ۲۷۲۳، ۲۷۵۸، ۲۷۶۱۔۲۷۶۲، ۲۸۱۹، ۲۸۸۱، ۲۹۴۹، ۲۹۶۴، (ج۔۶) ۳۳۴۳، ۳۴۱۵۔۳۴۱۶، ۳۴۴۵، ۳۴۷۷، (ج۔۷) ۳۹۹۰، ۴۰۰۹، (ج۔۸) ۴۵۰۰، ۴۵۰۶، ۴۷۳۷، ۴۸۱۱۔۴۸۱۳، ۴۸۳۲، ۴۸۴۹، ۴۸۷۶، ۴۸۸۴، ۴۸۹۴، ۴۹۰۲۔۴۹۰۳، ۴۹۲۳، ۴۹۲۹۔۴۹۳۰، ۴۹۳۲، (ج۔۹) ۵۰۱۲، ۵۰۵۷، ۵۰۶۶۔۵۰۶۷، ۵۵۷۱، ۵۵۸۱، (ج۔۱۰) ۵۶۱۵، ۵۶۲۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۹، ۵۶۶۳، ۵۶۶۴، ۵۶۶۶۔۵۶۶۷، ۵۶۹۰، ۵۶۹۹، ۵۷۵۵۔۵۷۵۷، ۵۷۷۷۔۵۷۷۸، ۵۷۸۰، ۵۷۸۳، ۵۷۸۸، ۵۷۹۰، ۵۷۹۲۔۵۷۹۳، ۵۷۹۵، ۵۷۹۹۔۵۸۰۰، ۵۹۰۳، ۵۹۴۹، ۵۹۷۴، ۵۹۷۷، ۶۰۱۰، ۶۰۳۳، ۶۰۴۳، ۶۰۷۵، ۶۱۲۷۔۶۱۲۸

برار: (ج۔۱۰) ۵۶۴۴

برازیل: (ج۔۲) ۷۲۸

برج کلاں: (ج۔۶) ۳۷۹۱۔۳۷۹۹

برطانیہ: (ج۔۲) ۱۱۹۵، (ج۔۴) ۲۵۱۲، (ج۔۵) ۲۶۸۰، ۳۰۱۲، (ج۔۶) ۳۲۷۱، ۳۶۴۲، ۳۸۲۰، (ج۔۷) ۳۹۸۷، (ج۔۱۰) ۶۰۹۳، ۶۴۳۳، ۶۴۴۴

برک (قندھار): (ج۔۸) ۴۸۶۶، (ج۔۹) ۵۵۱۹

برما: (ج۔۲)۷۲۸، (ج۔۹)۵۳۸۱، ۵۵۰۷

برنگھم: (ج۔۲) ۹۵۵، (ج۔۶) ۳۸۰۹، ۳۹۲۵، (ج۔۷)۴۰۱۴، (ج۔۱۰)۶۴۴۷

برونئی (ج۔۶)۲۴_۲

برہان پور (ج۔۱)۸۵، ۳۱۲. (ج۔۳)۱۸۴۵، ۱۸۷۰، (ج۔۴) ۲۳۶۷، ۲۳۶۹، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۴۲۱، ۲۴۳۳_۲۴۳۴، (ج۔۶)۳۴۱۷، (ج۔۸)۴۸۶۷، (ج۔۹)۵۵۱۹_۵۵۲۰، (ج۔۱۰)۵۷۲۳

بریڈفورڈ (ج۔۲) ۱۴۴۵، (ج۔۵) ۳۰۱۲، (ج۔۶) ۳۹۵۲

بریلی شریف: (ج۔۱) ۵۵، ۱۱۵، (ج۔۲)۱۱۶۹، (ج۔۳) ۱۲۹۸، ۱۶۶۰، (ج۔۴)۲۳۸۶، (ج۔۵)۲۵۷۳، ۲۵۷۷، ۲۵۸۱، ۲۸۷۹، ۲۸۸۴، ۲۸۹۱، ۲۹۰۵، ۲۹۱۲، ۲۹۱۸، (ج۔۶) ۳۵۹۴، ۳۶۴۲، (ج۔۹) ۵۵۸۰، ۵۰۹۱، (ج۔۱۰)۵۶۹۶، ۵۸۰۴_۵۸۰۵، ۶۰۳۳، ۶۰۷۲

برکی: (ج۔۱۰)۵۹۳۹

بڑودہ (ج۔۱۰)۵۸۰۷

بستی چراغ شاہ: (ج۔۶)۳۷۸۴_۳۷۸۵

بستی گلزار: (ج۔۶)۳۷۲۹

بسطام: (ج۔۲)۶۳۶، (ج۔۴)۲۲۵۸، ۲۲۴۴، (ج۔۶)۳۸۳۳، (ج۔۸)۴۸۶۵، (ج۔۹)۵۲۱۷

بشذو: (ج۔۱۰)۵۹۳۹

بصرہ: (ج۔۱)۲۴۸، (ج۔۲)۷۸۷، (ج۔۶) ۳۸۳۷_۳۸۳۹، ۳۸۸۴، ۳۹۱۷، (ج۔۷) ۴۲۶۱(ج۔۸)۴۶۱۶، (ج۔۱۰)۵۹۵۶، ۵۷۶۰

بغداد شریف: (ج۔۱)۸۸، ۹۲، ۲۲۰، ۲۴۸، ۲۶۱، ۳۸۷، ۳۸۹، (ج۔۲) ۱۱۰۷، (ج۔۳) ۱۳۱۷، ۱۳۵۴، ۱۳۶۵، ۱۴۰۹، ۱۶۶۲، ۱۶۹۲، ۱۷۷۴، (ج۔۴) ۱۹۸۳، ۲۱۹۶، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۹۵، ۲۵۰۷، (ج۔۵) ۲۶۴۴، ۲۶۵۰، ۲۶۷۵، ۲۶۷۹_۲۶۸۱، ۲۶۸۸_۲۶۸۹، ۲۷۰۰_۲۷۰۱، ۲۸۱۷، ۲۸۹۱، ۳۰۴۸، ۳۰۵۵، ۳۰۷۲، (ج۔۶) ۳۲۱۲، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۷۶_۳۲۸۱، ۳۵۰۵، ۳۵۹۴، ۳۷۶۰، ۳۸۴۳، ۳۸۸۴، ۳۸۹۳، ۳۹۱۷، ۳۹۴۰، ۳۹۴۷، ۳۹۵۶_۳۹۵۷، ۳۹۷۲، (ج۔۷) ۴۲۶۱_۴۲۶۲، (ج۔۸) ۴۵۷۶، ۴۶۱۶، ۴۹۰۶، (ج۔۹) ۵۱۸۷، ۵۲۷۱، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸، ۵۶۹۵، ۵۸۰۹، ۵۸۷۵، ۵۹۴۰، ۵۹۵۶، ۵۹۷۱، ۶۰۳۳، ۶۳۸۹، ۶۳۹۳

بفہ: (ج۔۱۰)۵۸۸۴_۵۸۸۵، ۶۰۳۰

بقاع: (ج۔۶)۳۲۲۸

بلنور شریف: (ج۔۱۰)۶۰۸۱

بلہار شریف (ج۔۶) ۳۷۸۲_۳۷۸۳، (ج۔۱۰) ۵۹۴۴، ۵۹۴۷

بلاو: (ج۔۸)۴۹۴۶

بلخ: (ج۔۱)۲۴۸، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۱۴، ۳۱۷، (ج۔۴) ۲۳۶۵، (ج۔۵) ۲۶۶۶، ۲۶۹۲، ۳۳۳۶، (ج۔۷) ۴۰۶۱، (ج۔۸) ۴۵۶۰، (ج۔۹) ۵۲۴۳، ۵۳۱۲، ۵۳۲۹_۵۳۳۰، (ج۔۱۰)۵۸۷۷

بلدہ معظمہ: (ج۔۹)۵۰۵۹، ۵۵۴۹

بلغار: (ج۔۵)۲۶۹۱، (ج۔۱۰)۵۸۷۲

بلغور: (ج۔۴)۲۲۶۲

بلقان: (ج۔۱)۲۶۳، (ج۔۲)۷۲۸، (ج۔۵)۲۶۷۶

بلگرام:(ج_۵)۲۶۷۹

بلوت:(ج_۱۰)۵۹۲۵،

بلوٹ شریف:(ج_۱۰)۵۹۰۳

بلوچستان : (ج_۵) ۲۶۲۸، ۲۸۸۳، ۳۱۱۹، (ج_۶) ۳۳۸۰، ۳۵۶۶، ۳۶۳۶، ۳۶۶۲، ۳۶۶۷، ۳۶۶۹، ۳۶۷۱، ۳۷۱۱_۳۷۱۲، ۳۷۱۵_۳۷۱۶، ۳۷۱۹، ۳۷۲۱، ۳۷۲۳، ۳۷۲۵_۳۷۲۶، ۳۷۳۰، ۳۷۳۳، ۳۷۳۹، ۳۷۴۶_۳۷۴۷، ۳۷۵۳_۳۷۵۵، ۳۷۵۷_۳۷۶۰، ۳۷۹۳، ۳۸۹۱، ۳۹۱۷، ۳۹۳۱، ۳۹۴۴، (ج_۷)۴۰۱۰، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۵۰۳، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۳۸۱، ۵۵۷۳، ۵۵۸۳، (ج_۱۰) ۵۵۹۴، ۵۶۱۶، ۵۶۲۹، ۵۶۴۴، ۵۹۴۹_۵۹۵۰، ۵۹۵۴_۵۹۵۵، ۵۹۵۷، ۵۹۵۹، ۶۰۵۹، ۶۰۶۲، ۶۰۶۷

بلہڑ وال:(ج_۱۰)۵۹۶۹

بمبئی:(ج_۱)۵۷، ۱۹۴، ۲۸۵، ۳۵۲، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۵۷، (ج_۲) ۶۴۷، ۷۳۰، (ج_۳) ۱۲۹۸، (ج_۴) ۲۰۴۵، (ج_۵) ۲۵۷۵، ۲۶۷۳، ۲۶۸۶، ۲۶۸۸، ۲۶۹۱، ۲۷۰۰، ۲۸۱۳، ۲۸۱۷_۲۸۱۸، ۲۸۹۶، ۲۹۱۲، (ج_۶) ۳۳۳۷، ۳۵۰۰، ۳۵۳۳، ۳۵۳۶، ۳۵۴۸، ۳۹۱۶_۳۹۱۷، ۳۹۴۳، ۳۹۴۸، ۳۹۵۳، ۳۹۶۵، (ج_۹) ۵۰۳۹، ۵۱۶۲، ۵۲۴۹، (ج_۱۰)۵۸۸۲

بنارس:(ج_۸)۴۸۶۳_۴۸۶۴، (ج_۱۰)۵۵۹۰، ۵۸۰۳

بندرویب:(ج_۶)۳۹۰۳

بندرویو:(ج_۴)۱۹۷۹

بنڈلی شریف:(ج_۶)۳۸۰۵، ۳۸۱۴_۳۸۱۵

بنگ:(ج_۶)۳۷۳۸

بنگال: (ج_۴)۲۰۵۴_۲۰۵۵، ۲۰۵۹، ۲۱۸۷_۲۱۸۸، ۲۱۹۱، ۲۳۷۷، (ج_۵) ۲۵۵۵، (ج_۶) ۳۷۵۷، ۳۸۵۱، (ج_۸) ۴۵۶۲، ۴۸۶۷، (ج_۹) ۵۱۲۷، ۵۲۲۷، ۵۳۸۱، (ج_۱۰)۵۶۴۴، ۵۶۴۵

بنگالہ:(ج_۴)۱۹۷۹، ۲۳۹۲

بنگلا دیش : (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۵) ۲۸۵۹، ۳۳۹۲، ۳۸۴۹، ۳۹۳۹، (ج_۸)۴۹۰۳، (ج_۱۰)۵۶۳۰

بنگلور:(ج_۹)۵۵۸۰_۵۵۸۱

بنور:(ج_۴)۲۳۷۰، (ج_۶)۳۸۳۷، ۳۸۷۱

بنوں : (ج_۶) ۳۷۲۲، ۳۷۹۵، ۳۸۶۶، ۳۸۹۹، (ج_۱۰)۵۹۵۲

بنیر:(ج_۶)۳۸۶۵

بوتاری:(ج_۱)۴۰۴

بورنیو:(ج_۱۰)۵۹۸۷

بوری:(ج_۶)۳۷۱۵_۳۷۱۸

بوسنیا: ۷۲۸، (ج_۵)۲۹۰۰

بوصبائی (ھند):(ج_۲)۶۴۷

بولاق (مصر):(ج_۲)۷۳۵

بہادرکلی:(ج_۶)۳۸۵۲_۳۸۵۳، ۳۸۵۵_۳۸۵۶

بہار: (ج_۴)۲۰۵۶، ۲۲۸۹، (ج_۸)۴۸۳۳، (ج_۹) ۵۰۹۵

بہاولپور:(ج_۸)۴۵۱۰، ۴۸۱۱، (ج_۱۰)۶۰۴۱، ۶۰۵۵_۶۰۵۶، ۶۰۸۶، ۶۳۰۴

بہاولنگر:(ج_۶)۳۷۹۰، ۳۹۳۲

بہرائچ:(ج_۴)۲۲۸۶، (ج_۶)۳۲۰۵، (ج_۸)۴۸۶۸

بھارت: (ج_۸) ۴۹۸۶، (ج_۹) ۴۹۹۵، ۵۰۰۹، ۵۰۱۲، (ج_۱۰) ۵۶۸۹، ۵۷۰۹، ۵۷۶۵، ۵۸۰۱، ۵۸۰۳_۵۸۰۵، ۵۸۰۷، ۵۸۱۰، ۵۸۲۱، ۵۹۶۱، ۵۹۷۴، ۵۹۷۷_۵۹۷۸، ۵۷۹۱، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰_۶۰۰۱، ۶۰۷۵، ۶۱۳۲، ۶۲۴۳

بھاگ ناڑی (ج_۶) ۳۵۰۰

بھاولپور (ج_۲) ۵۱۲، ۱۰۹۷، ۱۱۷۰، ۱۲۴۵، (ج_۴) ۲۰۴۸، (ج_۵) ۲۶۶۵، ۲۶۷۲، ۲۸۴۳، ۲۸۸۳، ۲۸۹۶، ۳۱۱۰، (ج_۶) ۳۵۵۳، ۳۷۶۸، ۳۷۸۳، ۳۷۸۶، ۳۷۹۳، ۳۷۹۵

جھنڈیر (ج_۵) ۲۷۲۷

بھٹی راجپوت (ج_۱۰) ۶۴۹۰

بھٹی کوٹ (ج_۵) ۲۶۶۸

بھچونڈی (ج_۶) ۳۴۳۲، ۳۵۶۲، ۳۵۷۰

بھیرہ (ج_۶) ۳۵۳۴

بھڑوچ (ج_۱۰) ۵۸۸۲

بھکر (ج_۶) ۳۷۹۱_۳۷۹۳، (ج_۱۰) ۵۸۹۷

بھٹی (صوبہ سرحد): (ج_۶) ۳۵۵۳

بھنبھور: (ج_۶) ۳۴۱۵، ۳۴۴۵

بھوانی پور: (ج_۱۰) ۵۸۰۹

بھوپال: (ج_۱) ۳۲۳، (ج_۲) ۵۰۱، (ج_۴) ۱۹۵۲، ۲۲۲۳، ۲۲۶۴، ۲۳۵۴، (ج_۵) ۲۵۷۸، ۲۸۴۱، (ج_۶) ۳۳۷۰، ۳۶۲۴، ۳۹۵۱، (ج_۹) ۵۱۵۴، (ج_۱۰) ۵۶۳۲، ۵۶۹۵

بھورشریف: (ج_۶) ۳۷۹۲

بھوئی گاڑ: (ج_۶) ۳۸۴۶، (ج_۸) ۴۹۷۵، ۴۹۸۱، (ج_۱۰) ۵۸۸۶_۵۸۸۷، ۵۸۸۹_۵۸۹۰، ۵۹۱۳، ۵۹۲۷، ۵۹۴۳_۵۹۴۶، ۶۴۹۰

بھیرہ شریف: (ج_۶) ۳۷۹۷

بیاس: (ج_۱) ۴۰۴

بیانہ: (ج_۴) ۲۰۶۳

بیت الغریب: (ج_۱۰) ۵۸۷۰

بیت اللحم: (ج_۶) ۳۷۶۰

بیت المقدس (ج_۱) ۲۰۹، ۴۳۷، (ج_۳) ۱۳۸۳، (ج_۴) ۲۵۱۰، (ج_۶) ۳۲۰۸_۳۲۰۹، ۳۵۲۶، ۳۷۶۰، (ج_۱۰) ۵۹۵۶

بیجاپور (ج_۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۴۵

بیربل: (ج_۶) ۳۷۶۸، ۳۷۷۳_۳۷۷۴، ۳۷۷۹، (ج_۱۰) ۶۰۳۳، ۶۰۳۷

بیدر: (ج_۱۰) ۵۶۴۴

بیروت: (ج_۲) ۶۳۳، ۶۹۹، ۷۳۰_۷۳۳، (ج_۵) ۲۶۳۰، ۲۶۷۷، ۲۶۸۱، ۲۶۹۳، ۲۶۹۹_۲۷۰۱، ۲۷۰۳، ۲۸۵۷، ۲۸۶۵_۲۸۶۷، ۳۰۰۸، ۳۰۱۲، (ج_۶) ۳۲۰۹، ۳۲۴۵، ۳۹۳۹_۳۹۴۰، ۳۹۴۳، ۳۹۴۷_۳۹۴۹، ۳۹۵۳، ۳۹۵۶_۳۹۵۷، ۳۹۶۲، ۳۹۶۵، ۳۹۷۰، ۳۹۷۲، (ج_۷) ۴۲۳۵_۴۲۳۸، ۴۲۴۰_۴۲۴۴، ۴۲۴۶_۴۲۵۷، ۴۳۲۲، ۴۳۲۶، ۴۳۲۹، ۴۳۳۳، ۴۳۳۶، ۴۳۳۸_۴۳۳۹، ۴۳۴۵، ۴۳۴۹، ۴۳۵۸، ۴۳۶۲، ۴۳۶۷، ۴۳۷۱، ۴۳۷۴_۴۳۷۶، ۴۳۷۹، ۴۳۹۳، (ج_۸) ۴۷۸۶_۴۷۸۷، ۴۸۹۷، ۴۹۰۷، ۴۹۱۰، (ج_۹) ۵۰۲۰، ۵۰۶۷،

۵۰۷۰، (ج۔۱۰) ۵۶۲۸، ۵۶۳۰، ۵۷۵۹، ۵۷۶۳، ۶۱۶۳، ۶۲۰۶۔۶۲۰۸، ۶۳۷۸۔۶۳۷۹، ۶۴۰۲

بیڑ وچانڈیہ: (ج۔۶) ۳۷۳۴

بیکانیر: (ج۔۶) ۳۷۰۴

بیلنہ: (ج۔۱) ۲۲۷

پ

پاچین: (ج۔۱۰) ۵۸۷۰، ۵۸۸۹، ۵۸۹۱

پاٹ: (ج۔۶) ۳۵۱۳

پاکپٹن: (ج۔۲) ۹۹۶، (ج۔۴) ۲۰۸۷، (ج۔۶) ۳۶۲۹، (ج۔۱۰) ۶۴۲۸، ۶۴۴۳

پاکستان: (ج۔۲) ۴۸۱۔۴۸۳، ۵۱۲، ۶۶۳، ۷۲۸، ۱۲۲۳، ۱۲۶۰۔۱۲۶۲، (ج۔۴) ۱۸۸۹۔۱۸۹۱، ۱۹۴۶، ۲۲۰۰، ۲۲۰۲، ۲۲۰۶، ۲۲۱۷، ۲۴۴۳، ۲۴۷۴، ۲۵۱۰، ۲۵۱۲۔۲۵۱۴، (ج۔۵) ۲۵۲۹۔۲۵۳۱، ۲۵۵۸، ۲۵۷۰، ۲۵۷۳۔۲۵۷۴، ۲۵۷۶۔۲۵۷۷، ۲۵۷۹۔۲۵۸۱، ۲۶۲۲۔۲۶۲۳، ۲۶۲۹، ۲۶۶۵، ۲۶۸۱، ۲۶۹۳، ۲۷۰۰، ۲۷۳۸، ۲۷۴۶، ۲۷۶۳، ۲۷۹۵، ۲۸۱۷، ۲۸۲۰، ۲۸۳۳۔۲۸۳۴، ۲۸۴۰، ۲۸۴۳، ۲۸۸۲، ۲۹۰۰، ۲۹۰۲، ۲۹۱۴، ۲۹۲۵، ۳۰۰۷۔۳۰۰۸، ۳۰۱۰۔۳۰۱۲، ۳۰۱۴، ۳۰۴۲۔۳۰۴۳۔۳۰۴۶، ۳۰۵۴، ۳۰۸۴، ۳۱۰۹۔۳۱۱۰، (ج۔۶) ۳۲۴۳، ۳۲۵۲، ۳۶۲۶، ۳۶۳۴۔۳۶۳۶، ۳۳۳۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۴، ۳۳۷۶، ۳۳۸۲، ۳۳۸۹، ۳۳۹۲، ۳۴۶۶، ۳۴۸۶، ۳۴۸۹، ۳۴۹۵، ۳۵۳۳، ۳۵۴۲، ۳۵۴۸، ۳۵۵۰۔۳۵۵۲، ۳۵۷۴، ۳۵۹۳۔۳۵۹۶، ۳۶۱۱۔۳۶۱۲، ۳۶۴۱، ۳۶۴۳، ۳۶۴۵، ۳۶۴۷۔۳۶۴۸، ۳۶۶۳۔۳۶۶۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۸۔۳۶۸۰، ۳۶۸۵۔۳۶۸۶، ۳۷۰۳، ۳۷۰۶۔۳۷۰۷، ۳۷۲۵، ۳۷۴۷، ۳۷۵۷، ۳۷۶۳۔۳۷۶۴، ۳۷۶۷، ۳۷۷۰، ۳۷۷۲، ۳۷۷۵، ۳۷۸۹۔۳۷۹۰، ۳۷۹۲، ۳۷۹۴، ۳۷۹۶، ۳۷۹۸، ۳۸۰۹۔۳۸۱۰، ۳۸۱۲۔۳۸۱۵، ۳۸۱۸۔۳۸۲۰، ۳۸۲۳، ۳۸۳۶، ۳۸۴۹، ۳۸۷۲، ۳۸۸۳، ۳۹۱۱، ۳۹۲۲۔۳۹۲۳، ۳۹۲۶، ۳۹۳۱، ۳۹۳۷۔۳۹۳۹، ۳۹۶۴، ۳۹۶۶، ۴۲۶، ۴۳۲۷، ۴۳۴۸، ۴۳۵۱، ۴۳۵۷، ۴۴۱۸، ۴۴۶۷، ۴۴۷۲، ۴۴۷۵، (ج۔۸) ۴۴۸۱۔۴۴۸۳، ۴۵۱۰، ۴۵۷۵، ۴۶۲۱، ۴۶۴۵، ۴۸۵۴، ۴۸۶۱۔۴۸۶۲، ۴۸۹۵، ۴۹۰۳، ۴۹۰۶۔۴۹۰۷، ۴۹۲۴، ۴۹۷۵، ۴۹۸۱، (ج۔۹) ۴۹۹۳۔۴۹۹۵، ۴۹۹۸، ۵۰۰۶، ۵۰۱۶، ۵۰۵۷، ۵۰۶۳، ۵۰۶۸، ۵۱۵۴، ۵۲۰۳، ۵۲۰۷، ۵۳۶۵، ۵۳۸۰۔۵۳۸۱، ۵۴۱۵، ۵۵۵۱، ۵۵۶۸، ۵۵۶۹۔۵۵۷۶، (ج۔۱۰) ۵۵۸۵۔۵۵۸۷، ۵۵۸۹، ۵۶۰۹۔۵۶۱۰، ۵۶۲۹۔۵۶۳۱، ۵۶۴۹، ۵۶۵۴۔۵۶۵۵، ۵۶۶۴، ۵۶۶۶، ۵۶۹۵، ۵۶۹۹، ۵۷۸۱، ۵۷۲۳، ۵۷۷۷، ۵۷۸۳، ۵۷۸۸، ۵۸۰۳، ۵۸۰۹، ۵۸۷۳، ۵۸۸۸۔۵۸۹۰، ۵۸۹۲، ۵۹۰۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۷، ۵۹۴۴۔۵۹۴۶، ۵۹۴۹، ۵۹۶۵، ۵۹۷۷، ۵۹۹۴، ۶۰۳۳۔۶۰۳۴، ۶۰۴۳، ۶۰۷۲، ۶۰۷۵، ۶۰۸۰، ۶۰۸۲، ۶۰۸۴، ۶۰۸۸، ۶۰۹۳، ۶۰۹۶، ۶۱۲۷۔۶۱۲۸، ۶۱۴۰، ۶۱۵۵، ۶۱۶۳، ۶۲۲۰، ۶۲۲۴۔۶۲۲۶، ۶۲۲۸، ۶۲۳۰، ۶۲۴۲، ۶۲۴۴، ۶۲۴۶، ۶۲۷۳۔۶۲۷۵، ۶۳۰۸، ۶۳۱۴۔۶۳۱۸، ۶۳۲۰، ۶۳۲۶۔۶۳۲۷، ۶۳۲۹۔۶۳۳۰، ۶۳۳۲۔۶۳۳۴، ۶۳۳۶، ۶۳۴۰۔۶۳۴۲، ۶۳۴۶، ۶۳۵۶، ۶۳۶۳، ۶۳۶۵۔۶۳۶۹، ۶۳۹۹، ۶۴۲۲۔۶۴۲۳، ۶۴۲۵، ۶۴۲۹، ۶۴۳۱۔۶۴۳۳، ۶۴۳۵، ۶۴۴۰، ۶۴۴۲، ۶۴۴۶

پانی پت: (ج_۳) ۲۰۵۶، ۲۱۸۹، (ج_۶) ۳۷۹۳، ۳۹۳۷، (ج_۸) ۴۸۶۸، ۴۹۸۶؛ (ج_۱۰) ۵۶۴۴، ۵۸۰۰، ۵۹۵۰، ۶۰۰۰

پی: (ج_۱۰) ۵۸۶۹

پتوکی: (ج_۶) ۳۷۸۵، ۳۷۹۴

پٹنہ: (ج_۳) ۲۳۷۵، (ج_۸) ۴۸۳۳، (ج_۹) ۵۰۲۴، ۵۰۹۵، ۵۱۱۹، ۵۱۲۷، ۵۱۵۷، ۵۵۱۸_۵۵۱۹؛ (ج_۱۰) ۵۶۴۵، ۵۶۹۵، ۵۸۰۵_۵۸۰۶

پٹیالہ (ج_۳) ۱۹۴۶، ۲۲۴۶، ۲۵۱۲، (ج_۵) ۲۶۷۳، ۲۷۹۴، ۲۸۹۲، (ج_۹) ۵۰۲۱، ۵۰۲۹، ۵۰۳۳

پچّی (ج_۶) ۳۸۳۰، ۳۹۰۶

پراں (ج_۶) ۳۴۷۶

پرتھر (ج_۶) ۳۵۰۸

پڑانگ چارسدہ: (ج_۶) ۳۸۵۴

پسرور: (ج_۵) ۲۶۷۲، ۲۷۲۷_۲۷۲۸، (ج_۶) ۳۷۸۸، ۳۸۰۱_۳۸۰۲، (ج_۷) ۴۴۷۳، (ج_۱۰) ۵۸۸۸، ۶۳۰۴

پشاور (ج_۱) ۳۷، ۳۹، ۴۵، ۵۵، ۱۱۱، ۱۱۲، (ج_۳) ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۶۳، ۲۳۸۶، ۲۵۱۰، (ج_۵) ۲۶۹۲، (ج_۶) ۳۳۰۹، ۳۳۳۵، ۳۳۱۸، ۳۳۳۹، ۳۴۴۶، ۳۴۹۹، ۳۵۵۵، ۳۵۵۹، ۳۷۱۳، ۳۷۹۷، ۳۸۷۲_۳۸۲۸، ۳۸۳۰، ۳۸۳۲_۳۸۳۷، ۳۸۴۰_۳۸۴۶، ۳۸۴۹، ۳۸۵۱_۳۸۵۴، ۳۸۵۷، ۳۸۶۷_۳۸۷۰، ۳۸۷۴_۳۸۷۶، ۳۸۸۸، ۳۸۹۰_۳۸۹۵، ۳۸۹۷، ۳۸۹۹، ۳۹۰۲، ۳۹۰۴، ۳۹۰۶، ۳۹۰۸_۳۹۱۰، ۳۹۱۶، ۳۸۵۶، (ج_۸) ۴۴۴۷، ۴۸۴۱، ۴۸۵۲، ۴۸۶۲، ۴۹۴۴، ۴۹۴۷، (ج_۱۰) ۵۷۲۳، ۵۸۲۰، ۵۸۶۳_۵۸۶۴، ۵۸۶۷_۵۸۶۸، ۵۸۷۰، ۵۸۷۲_۵۸۷۳، ۵۸۷۵_۵۸۷۷، ۵۸۷۹، ۵۸۸۱_۵۸۸۴، ۵۸۸۶، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹_۵۸۹۲، ۵۸۹۴، ۵۹۳۰_۵۹۳۱، ۵۹۳۳، ۵۹۳۷، ۵۹۴۴، ۵۹۴۶، ۵۹۵۹، ۵۹۷۴، ۵۹۹۶، ۵۰۵۶، ۶۱۰۴، ۶۱۰۸، ۶۳۲۸، ۶۳۴۱

پشین: (ج_۶) ۳۷۱۳، ۳۷۱۵_۳۷۱۷، ۳۷۲۱، ۳۷۲۳_۳۷۲۵، ۳۷۴۷، ۳۹۱۰، (ج_۱۰) ۵۹۵۰_۵۹۵۳

پکے چک: (ج_۶) ۳۷۸۹

پگاڑا شریف: (ج_۶) ۳۵۶۲

پکھلی ہزارہ: (ج_۶) ۳۹۰۹

پلوسی: (ج_۶) ۳۸۵۴

پنجاب: (ج_۲) ۱۲۴۶، (ج_۳) ۱۹۷۵_۱۹۷۶، ۲۰۵۵، ۲۰۶۳، ۲۰۸۶، ۲۲۱۳، ۲۲۷۶، ۲۳۸۷، (ج_۵) ۲۵۵۵، ۲۵۹۸، ۲۵۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۱۳، ۲۶۵۰_۲۶۵۱، ۲۶۶۶، ۲۶۷۳، ۲۷۰۰، ۲۷۳۸، ۲۷۴۶، ۲۷۵۷، ۲۷۸۹، ۲۷۹۴، ۲۸۷۶، ۲۸۸۲، ۲۸۹۹، ۲۹۱۸، ۲۹۳۹، ۳۰۱۵، ۳۰۳۶، ۳۱۱۹، (ج_۶) ۳۳۵۶، ۳۳۶۸، ۳۳۷۲، ۳۴۸۶_۳۴۸۷، ۳۴۹۹، ۳۵۷۲، ۳۵۷۴، ۳۵۹۱، ۳۶۰۰، ۳۶۰۹، ۳۶۲۹، ۳۶۳۵، ۳۶۷۱، ۳۶۸۳، ۳۷۲۶، ۳۷۳۳، ۳۷۵۳_۳۷۵۴، ۳۷۶۲، ۳۷۶۳، ۳۷۶۶_۳۷۷۵، ۳۷۷۷_۳۷۷۹، ۳۷۸۷، ۳۷۹۱_۳۷۹۳، ۳۷۹۸، ۳۸۹۷، ۳۷۱۱، ۳۸۱۹، ۳۸۲۲، ۳۸۶۷، ۳۸۸۸، ۳۹۰۵_۳۹۰۶، ۳۹۳۱، (ج_۷) ۴۰۱۰، ۴۴۶۷، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۸۴۹، ۴۹۰۶، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۰۲۱، ۵۰۹۴_

۵۰۹۵، ۵۰۹۹، ۵۱۲۱، ۵۲۰۷، ۲۱۵، ۵۵۷۰، (ج۔۱۰) ۵۶۱۶، ۵۶۴۳۔۵۶۴۴، ۵۶۷۲، ۵۷۷۷، ۵۷۹۶۔۵۷۹۷، ۵۸۰۳۔۵۸۰۵، ۵۸۲۳، ۵۸۶۴۔۵۸۶۵، ۵۸۶۸، ۵۸۷۴، ۵۸۷۸، ۵۸۸۷۔۵۸۸۸، ۵۹۲۴۔۵۹۲۷، ۵۹۳۵۔۵۹۳۷، ۵۹۳۹، ۵۹۴۱، ۵۹۵۱، ۵۹۵۷، ۵۹۶۱، ۵۹۷۱، ۵۹۸۳، ۵۹۸۵، ۵۹۹۸۔۵۹۹۹، ۶۰۱۸۔۶۰۲۰، ۶۰۳۳، ۶۰۳۵، ۶۰۳۷۔۶۰۳۸، ۶۰۴۱، ۶۰۵۹، ۶۰۶۲، ۶۰۶۴، ۶۰۷۵

پنڈ دادنخان: (ج۔۶) ۳۷۹۷

پنڈوڑا: (ج۔۱۰) ۵۹۳۸

پنڈی گھیپ: (ج۔۱۰) ۵۹۳۲۔۵۹۳۳

پنگرو: (ج۔۶) ۳۴۴۱

پٹیالہ: (ج۔۶) ۳۷۹۱، (ج۔۱۰) ۵۹۰۴

پوٹھوہار: (ج۔۹) ۵۵۸۳، (ج۔۱۰) ۵۵۹۴، ۵۸۷۲، ۵۸۸۷، ۵۸۹۰، ۵۹۱۳، ۵۹۲۵، ۵۹۲۷۔۵۹۲۸، ۵۹۳۲، ۵۹۳۴۔۵۹۳۵، ۵۹۳۷۔۵۹۴۲، ۵۹۴۵

پور بند: (ج۔۱) ۱۰۸

پونا: (ج۔۴) ۲۴۸۶

پونچھ: (ج۔۶) ۳۸۰۵، ۳۸۱۱

پہاڑپور شریف: (ج۔۶) ۳۷۹۳

پہکلی: (ج۔۱۰) ۵۸۸۲

پھالیہ: (ج۔۱۰) ۵۹۷۱

پھگواڑی: (ج۔۱۰) ۶۰۸۲

پھلت: (ج۔۸) ۴۹۴۸

پھلرون: (شیخوپورہ): (ج۔۴) ۲۵۱۳

پھور: (ج۔۱) ۴۰۴

پیر پیائی: (ج۔۶) ۳۹۱۰

پیرسباک: (ج۔۱۰) ۵۸۶۹۔۵۸۷۰، ۵۸۷۲، ۵۹۳۰

پیر قندھاری: (ج۔۶) ۳۷۹۳

پیر مندر ہالہ: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

پیرس: (ج۔۵) ۲۸۴۲

پیلی بھیت: (ج۔۱۰) ۵۸۰۵۔۵۸۰۶، ۵۸۰۹

پیلے گوجراں شریف: (ج۔۱۰) ۶۴۴۲

ت

تاجکستان: (ج۔۲) ۷۲۸، (ج۔۶) ۳۳۱۴، (ج۔۸) ۴۸۶۶، (ج۔۱۰) ۵۷۹۶

تاشقند: (ج۔۴) ۲۴۸۶، (ج۔۵) ۲۶۹۲، (ج۔۶) ۳۳۳۶، (ج۔۹) ۵۳۱۲، (ج۔۱۰) ۵۷۸۳، ۵۷۸۷

تاندلیانوالہ: (ج۔۶) ۳۷۹۳۔۳۷۹۴

تبریز: (ج۔۱) ۸۸، (ج۔۳) ۱۸۷۲

تبوک: (ج۔۷) ۴۰۲۲، ۴۰۲۴، (ج۔۹) ۵۳۵۰، ۵۳۶۹

تاپانی: (ج۔۶) ۳۸۰۵، ۳۸۱۴

ترابزان: (ج۔۶) ۳۲۶۱

تراڑکھل: (ج۔۶) ۳۸۱۲، ۳۸۲۳

ترکستان: (ج۔۲) ۵۱۰، ۸۴۷، (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۰۴۶، ۲۰۶۳، ۲۰۸۵، (ج۔۵) ۲۶۶۷، ۲۶۷۰، ۲۶۸۶، ۳۰۷۸، ۳۰۹۰، (ج۔۶) ۳۳۱۴، ۳۳۳۶، (ج۔۷) ۴۰۳۳، ۴۰۶۱، (ج۔۸) ۴۵۵۹، (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۱۲۶، ۵۱۴۷، ۵۴۷۰، (ج۔۱۰) ۵۷۶۹، ۵۷۷۷، ۵۸۶۳، ۵۸۷۵، ۵۹۳۲

ترکمانستان: (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۱۰) ۵۷۹۶

ترکی: (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۴) ۲۳۹۱_۲۳۹۲، ۲۵۱۴، (ج_۵) ۲۵۷۰، ۲۵۹۷، ۲۶۲۰_۲۶۲۱، ۲۶۲۷، ۲۶۴۵، ۲۶۶۵، ۲۶۶۷، ۲۶۷۰، ۲۶۷۴، ۲۶۷۶، ۲۶۸۷، ۲۶۸۹، ۲۶۹۴، ۲۶۹۵، ۲۶۹۹، ۲۷۳۸، ۲۷۶۱، ۲۷۸۹، ۲۸۱۶، ۲۸۴۳، ۲۸۸۷، ۲۸۵۸، ۲۹۲۴، ۳۰۰۹، ۳۰۳۹، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۲۰۸، ۳۲۲۹_۳۲۳۰، ۳۲۳۴، ۳۲۴۳_۳۲۴۵، ۳۲۵۷، ۳۲۶۰، ۳۲۶۵، ۳۲۷۰، ۳۲۷۲_۳۲۷۴، ۳۳۲۵، ۳۴۸۱، ۳۹۵۶، ۳۹۶۰، (ج_۷) ۴۰۱۰، ۴۰۶۱، ۴۱۸۸، ۴۲۰۰، ۴۲۶۳، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۵۷۶، ۴۵۷۸، ۴۸۷۴، ۴۹۰۳، ۴۹۰۶، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۰۱۶، ۵۰۶۸، ۵۲۵۲، ۵۳۸۱، ۵۳۸۷، ۵۵۳۷، (ج_۱۰) ۵۶۱۶، ۵۶۳۰، ۵۷۵۹، ۵۷۶۶، ۵۷۷۷_۵۷۷۸، ۵۸۸۲، ۵۸۹۰، ۶۱۶۳، ۶۲۲۱، ۶۲۴۴، ۶۳۲۷، ۶۳۷۸_۶۳۷۹، ۶۳۸۷، ۶۴۱۴_۶۴۱۶، ۶۴۴۲

ترمذ (ج_۱) ۲۳۸، ۲۵۴

تریم (ج_۶) ۳۲۰۴_۳۲۰۶

تستر آباد: (ج_۴) ۲۲۶۳

تل: (ج_۶) ۳۷۱۵

تلسی (دادو): (ج_۶) ۳۴۴۱

تلہ گنگ: (ج_۱۰) ۵۹۳۰، ۵۹۳۳، ۵۹۴۲

تلہر: (ج_۱۰) ۶۰۷۲

توجہانیاں: (ج_۴) ۲۲۵۰

توران: (ج_۱) ۸۸، ۲۳۸، ۳۲۷، (ج_۲) ۵۰۹، ۵۱۱، (ج_۳) ۱۳۶۵، ۱۴۴۱، (ج_۴) ۱۹۸۶، ۲۱۳۶، ۲۱۶۲، ۲۸۴۶، (ج_۸) ۴۵۶۰، (ج_۹) ۵۱۲۶، ۵۵۳۱، (ج_۱۰) ۵۶۷۰،

۵۷۶۹، ۵۸۲۸

تونسہ شریف: (ج_۶) ۳۶۲۳، (ج_۱۰) ۵۸۹۴، ۵۹۵۸

تہران: (ج_۴) ۲۵۱۰، (ج_۵) ۲۵۷۹، ۲۸۵۵_۲۸۵۸، ۳۱۰۹، (ج_۶) ۳۳۹۴، ۳۹۴۰، ۳۹۴۶_۳۹۴۹، ۳۹۵۳، ۳۹۶۰، ۳۹۷۰، (ج_۷) ۴۰۳۶، ۴۰۶۱، (ج_۹) ۵۱۶۱، (ج_۱۰) ۶۱۵۴، ۶۱۵۶، ۶۳۷۸، ۶۳۸۴

تبکال بالا: (ج_۶) ۳۸۴۹، ۳۸۷۰، (ج_۱۰) ۵۸۶۷_۵۸۶۸

تھانیسر: (ج_۱) ۳۷۰، ۴۰۷، ۴۱۴، ۴۱۷، ۴۴۴، (ج_۴) ۲۱۲۴، (ج_۷) ۴۱۷۲_۴۱۷۳، ۴۱۷۷، (ج_۸) ۴۵۱۴، ۴۸۴۳، (ج_۹) ۵۰۲۵، ۵۱۳۱، ۵۴۷۳، ۵۴۸۸، ۵۵۱۰، (ج_۱۰) ۵۶۷۸، ۶۰۰۲

تھائی لینڈ: (ج_۲) ۷۲۸

تھرپارکر: (ج_۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۳، ۳۴۶۱، ۳۴۸۹، ۳۵۰۴، ۳۶۹۱، (ج_۹) ۵۵۷۲، ۵۵۷۴

تھل (چوتیالی): (ج_۱۰) ۵۹۵۱

تھل (زیارت): (ج_۱۰) ۵۹۵۰

تیراہ: (ج_۶) ۳۳۳۵، ۳۵۵۳، ۳۸۶۰، ۳۸۸۰، ۳۸۸۲، (ج_۱۰) ۵۸۳۸، ۵۹۲۶، ۵۹۳۶، ۵۹۹۷_۶۰۰۰

تیراہی پایاں: (ج_۶) ۳۸۵۷

تیراھیاں: (ج_۱۰) ۵۹۳۱

تیزئی: (ج_۱۰) ۵۹۳۶_۵۹۳۸

تیزی شریف: (ج_۶) ۳۸۸۰_۳۸۸۲

ٹ

ٹکھر: (ج_۶) ۳۴۸۷، ۳۵۰۰_۳۵۰۱، ۳۵۱۰، ۳۵۲۴، ۳۵۹۸_۳۵۹۹، (ج_۸) ۴۸۶۹، ۴۸۷۰

ٹلٹی: (ج۔۶) ۳۴۷۷

ٹمن: (ج۔۱۰) ۵۹۳۰

ٹنڈو باگو: (ج۔۶) ۳۵۷۰

ٹنڈو سائیں داد: (ج۔۱) ۴۲۷، (ج۔۴) ۲۴۳۳، (ج۔۵) ۲۵۹۷_۲۵۹۸، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۱۱، ۲۶۱۳، ۲۶۲۰، ۲۶۵۰، ۲۷۳۸، ۲۸۰۸، ۲۸۱۵، (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳، ۳۴۴۳، ۳۴۶۵، ۳۴۹۳، ۳۵۰۱، ۳۵۰۳، ۳۵۱۱، ۳۵۲۸، ۳۵۳۰، ۳۵۳۹_۳۵۴۰، ۳۵۴۲، ۳۵۹۷، ۳۶۰۰، ۳۶۰۵، ۳۶۱۲، ۳۶۱۴، ۳۶۶۰، ۳۶۶۲، ۳۶۶۶، ۳۹۴۰، (ج۔۸) ۴۸۷۰؛ (ج۔۹) ۵۲۵۵، (ج۔۱۰) ۶۱۰۷، ۶۱۱۱، ۶۱۲۰، ۶۱۲۹، ۶۲۸۸، ۶۳۵۱

ٹنڈو قیصر: (ج۔۶) ۳۴۴۳

ٹنڈو محمد خان: (ج۔۶) ۳۴۲۰، ۳۴۲۳، ۳۴۴۲، ۳۴۸۷، ۳۵۰۱، ۳۶۳۶، ۳۶۶۰، ۳۶۹۹، ۳۷۰۱_۳۷۰۳، ۳۷۰۶_۳۷۰۷

ٹوبہ ٹیک سنگھ: (ج۔۶) ۳۷۹۴

ٹورنٹو: (ج۔۸) ۴۵۰۶

ٹونک: (ج۔۱۰) ۵۸۹۴، ۶۱۰۰

ٹولووالا: (ج۔۶) ۳۷۸۴

ٹہلا پور: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

ٹھٹھہ: (ج۔۳) ۱۸۶۱، (ج۔۴) ۱۹۷۳، ۲۰۴۵، ۲۰۵۸، ۲۴۴۳، (ج۔۵) ۲۹۰۷، (ج۔۶) ۳۴۱۵_۳۴۱۷، ۳۴۲۹، ۳۴۳۷، ۳۴۴۷_۳۴۴۸، ۳۴۵۲، ۳۴۵۶، ۳۴۵۹_۳۴۶۰، ۳۴۷۴، ۳۵۵۸، ۳۵۷۵، ۳۵۸۰، ۳۶۲۷، ۳۶۳۶، ۳۶۴۱_۳۶۴۲، ۳۶۵۱_۳۶۵۲، ۳۶۵۷، ۳۶۵۹، ۳۶۸۷، ۳۶۹۶، ۳۷۰۰، (ج۔۱۰) ۵۸۹۰، ۵۹۴۶، ۶۴۲۵

ٹیکسلا: (ج۔۱۰) ۵۹۱۳، ۵۹۲۳، ۵۹۳۲، ۵۹۴۱،

ج

جاپان: (ج۔۹) ۵۵۸۰

جاچکان: (ج۔۶) ۳۴۷۳، ۳۷۰۰

جالندھر: (ج۔۱) ۵۳، ۴۰۴، (ج۔۲) ۱۲۴۶، ۱۸۵۵، (ج۔۴) ۲۳۸۹، ۲۴۲۰، (ج۔۶) ۳۹۳۱، (ج۔۱۰) ۶۰۴۶_۶۰۴۸

جالہ بیلہ: (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

جام شورو: (ج۔۴) ۲۲۱۹، (ج۔۶) ۳۶۳۱، ۳۶۷۹، ۳۶۸۲، ۳۶۸۵

جائس: (ج۔۴) ۲۴۸۶

جبل پور: (ج۔۶) ۳۶۸۴، ۳۶۸۶

جتوئی: (ج۔۱۰) ۶۰۴۵، ۶۰۶۰

جدہ: (ج۔۱) ۱۹۱، (ج۔۵) ۲۶۹۲، ۲۶۹۶، ۲۷۰۳، (ج۔۶) ۳۲۰۶، ۳۲۱۸، ۳۶۲۰، ۳۷۶۶، ۳۹۲۴، ۳۹۴۳، ۳۹۵۲، ۳۹۵۵، ۳۹۵۸، ۳۹۶۶، (ج۔۱۰) ۵۷۵۶

جرمنی: (ج۔۵) ۲۶۸۱، ۲۹۲۳، (ج۔۶) ۳۲۱۵، ۳۲۴۶، ۳۲۷۱، ۳۲۷۳، ۳۳۱۱، (ج۔۸) ۴۹۰۶

جعفرکوٹ: (ج۔۱۰) ۵۹۷۵، ۵۹۷۷

جفانیال: (ج۔۴) ۲۲۶۲

جکارتا: (ج۔۶) ۳۲۰۵

جلال آباد: (ج۔۵) ۲۶۶۸، ۲۶۹۲، (ج۔۶) ۳۳۲۶، ۳۳۴۲، ۳۵۵۴، (ج۔۱۰) ۵۸۶۸_۵۸۸۷، ۵۸۹۱، ۵۹۵۱

جلال پور پیر والا: (ج۔۱۰) ۶۰۱۷، ۶۰۵۹_۶۰۶۰، ۶۰۶۸_۶۰۶۹

جلالی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

جلو موڑ: (ج_۶) ۳۷۸۶

جمل: (ج_۸) ۴۸۲۵

جموں وکشمیر: (ج_۶) ۳۷۹۳، (ج_۱۰) ۵۹۱۰، ۵۹۴۵

جندول: (ج_۶) ۳۸۹۵

جنڈ: (ج_۱۰) ۵۹۳۷_۵۹۳۸، ۵۹۴۳

جنڈیالہ شیر خان: (ج_۱۰) ۵۸۶۶،

جنگل خیل: (ج_۶) ۳۹۲۳_۳۹۲۴

جنوبی افریقہ: (ج_۶) ۳۵۹۴، (ج_۷) ۴۴۱۸

جنوبی ایشیا: (ج_۸) ۴۸۹۵_۴۸۹۶، (ج_۱۰) ۵۶۳۳، ۵۶۴۲

جنیوا: (ج_۱۰) ۵۷۹۹

جودھ پور: (ج_۶) ۳۵۶۶، ۳۷۰۴، (ج_۹) ۵۰۱۶

جوڑی: (ج_۱۰) ۵۹۳۹

جوسام: (ج_۸) ۴۵۱۰

جولنڈو: (ج_۶) ۳۵۳۲

جولوگرام: (ج_۶) ۳۷۸۳

جوناگڑھ: (ج_۴) ۱۹۷۹

جونپور: (ج_۱) ۴۱۲، (ج_۳) ۱۲۹۰، ۱۳۸۶، (ج_۴) ۲۳۸۰، ۲۴۳۰، (ج_۵) ۲۵۵۵، (ج_۹) ۵۰۲۲، ۵۰۲۴، ۵۲۲۷، ۵۵۱۸

جوئی سہن: (ج_۱۰) ۵۹۳۵

جہان خیل: (ج_۶) ۳۷۹۸

جہان خیلاں کوٹ عبدالخالق: (ج_۶) ۳۷۹۸

جہانگیر پورہ: (ج_۶) ۳۸۵۱

جہلم: (ج_۱) ۳۸، ۹۹، ۱۱۴، (ج_۲) ۷۷۱، (ج_۴) ۲۰۳۰، ۲۰۳۸، ۲۰۶۴، ۲۲۲۰، (ج_۵) ۲۵۷۳، ۲۶۳۶، ۲۷۲۴، ۲۷۲۵، ۲۸۸۲، (ج_۶) ۳۳۹۵، ۳۷۶۸، ۳۷۷۳، ۳۷۹۷، ۳۸۱۱، ۳۸۱۵، ۳۸۱۹، ۳۸۲۱، ۳۸۲۳، ۳۹۶۶_۳۹۶۷، (ج_۸) ۴۵۰۵، ۴۵۷۶، (ج_۹) ۵۴۸۲_۵۴۸۳، ۵۵۵۶، (ج_۱۰) ۵۶۳۱، ۵۹۲۷_۵۹۲۸، ۵۹۳۴_۵۹۳۵، ۶۰۱۳، ۶۲۴۴، ۶۲۴۶، ۶۲۸۹

جہانجل پکھلی: (ج_۱۰) ۵۸۸۹

جھنگ: (ج_۶) ۳۹۱۴، (ج_۱۰) ۵۸۹۹، ۵۹۰۳، ۵۹۴۵

جیسلمیر: (ج_۶) ۳۵۶۶

جیکب آباد: (ج_۶) ۳۷۳۵

جے پور: (ج_۶) ۳۳۸۶، ۳۵۷۴، ۳۷۹۳، (ج_۹) ۵۲۵۴، (ج_۱۰) ۶۱۰۵

چ

چارسدہ: (ج_۶) ۳۸۹۹، (ج_۱۰) ۵۸۷۰، ۵۸۷۴، ۵۸۸۷

چاہ بار: (ج_۶) ۳۶۶۷

چاہ گاڑا: (ج_۱۰) ۵۸۹۷

چترال: (ج_۶) ۳۸۵۲_۳۸۵۵، ۳۹۱۰

چچھ ہزارہ: (ج_۶) ۳۸۷۴

چشمہ اچوزئی: (ج_۶) ۳۷۲۶

چشمہ شریف: (ج_۶) ۳۷۲۷، ۳۷۳۳، ۳۷۳۹

چشمہ وکرانی: (ج_۶) ۳۷۳۴

چغانیان: (ج_۱) ۲۵۳

چک قاضیانہ: (ج_۱۰)۵۹۶۱

چک قریشیاں: (ج_۱۰)۵۹۳۹

چکدرہ: (ج_۱۰)۵۸۸۰

چکڑالہ: (ج_۶)۳۷۹۵، (ج_۱۰)۵۸۹۷

چکوال: (ج_۵)۲۷۰۳، (ج_۶)۳۷۹۷، ۳۸۱۵، ۳۹۵۴_۳۹۵۶، (ج_۱۰)۵۹۲۷، ۵۹۳۰، ۵۹۴۷، ۶۰۱۴

چمکنی: (ج_۶)۳۸۹۵_۳۸۹۶، ۳۸۹۸_۳۸۹۹

چمن: (ج_۶)۳۷۶۰

چنی گوٹھ: (ج_۱۰)۵۰۶۲

چوتیالی: (ج_۱۰)۵۹۵۰

چوٹیالی تھل: (ج_۶)۳۷۹۲

چودھوان: (ج_۶)۳۴۴۵، (ج_۱۰)۵۸۸۲، ۵۸۹۴

چورہ شریف: (ج_۶)۳۷۷۱، ۳۷۷۹، ۳۷۸۱، ۳۷۸۳، (ج_۱۰)۵۹۳۶، ۵۹۳۸، ۵۹۴۷، ۶۰۰۱، ۶۰۰۹_۶۰۱۰، ۶۰۹۰، ۶۰۹۳، ۶۴۳۱

چونترہ: (ج_۱۰)۵۹۴۱

چونڈہ دیوی: (ج_۱۰)۵۹۷۰

چوہا گجر: (ج_۱۰)۵۸۸۷

چوہان: (ج_۱۰)۵۹۵۳

چوہنگ: (ج_۶)۳۷۸۶

چہار باغ صفا: (ج_۶)۳۳۲۵_۳۳۲۶، ۳۳۳۰، ۳۳۳۴، ۳۳۴۲، ۳۵۴۳_۳۵۴۴، ۳۵۴۷

چھچھ: (ج_۱۰)۵۸۷۶، ۵۸۸۶

چھمب جوڑیاں: (ج_۶)۳۵۹۵

چیچنیا: (ج_۵)۲۹۰۰، (ج_۱۰)۵۹۵۰

چیچیاں: (ج_۶)۳۸۱۶، ۳۸۱۸، ۳۸۲۱

چیکوسلاویا: (ج_۹)۵۵۸۰

چین: (ج_۴)۲۴۸۶، (ج_۵)۲۶۸۶، ۲۶۹۳، (ج_۶)۳۲۴۳، ۳۲۷۰، (ج_۸)۴۹۰۳، (ج_۱۰)۵۷۷۷، ۵۹۸۸

ح

حاجی پور: (ج_۴)۱۹۸۰

حاجی شاہ: (ج_۱۰)۵۹۲۹

حافظ آباد: (ج_۵)۲۶۶۶

حبش: (ج_۴)۲۴۸۶، (ج_۸)۴۹۰۶

حبشہ: (ج_۱۰)۵۷۷۷

حبیب کوٹ: (ج_۱۰)۶۰۱۸

حجاز: (ج_۱)۷۱، ۸۸، ۹۲، ۲۶۴، ۳۷۰، ۳۷۲، ۴۶۴، (ج_۳)۱۳۷۲، ۱۸۶۲، (ج_۴)۱۹۴۲_۱۹۴۳، ۱۹۷۹، ۲۴۸۸، (ج_۵)۲۵۹۸، ۲۶۷۶، ۲۶۸۴_۲۶۸۵، ۲۶۸۸، ۲۶۹۳_۲۶۹۴، ۲۶۷۹، ۲۷۴۰، ۲۸۰۳_۲۸۰۴، ۲۸۰۹، ۲۸۳۳، ۲۹۱۱، ۲۹۹۴، ۳۰۱۰، ۳۰۱۴، (ج_۶)۳۲۰۲، ۳۲۰۶_۳۲۰۸، ۳۲۱۱، ۳۳۳۵، ۳۵۰۰، ۳۶۰۳، (ج_۷)۴۲۶۲، (ج_۹)۵۴۶۹، ۵۵۱۳، (ج_۱۰)۵۶۷۹، ۵۷۶۰، ۵۹۵۴، ۵۸۷۵، ۵۹۳۲، ۶۰۴۴_۶۰۴۵

حدیبیہ: (ج_۹)۵۳۳۵

حدیدہ (یمن): (ج_۶)۳۵۱۵، ۳۶۲۲

حرمین شریفین: (ج_۴)۱۹۵۱، ۲۴۵۱، (ج_۵)۲۵۷۳، ۲۶۶۷، ۲۶۷۶، ۲۶۸۹، ۲۶۹۲، ۲۶۹۹، ۲۷۹۹_۲۸۰۰، ۲۸۱۳، ۲۹۲۰، (ج_۶)۳۲۱۷، ۳۳۴۴، ۳۳۵۹، ۳۳۶۳، ۳۳۷۴، ۳۴۵۹،

۳۳۷۹، ۳۳۸۲، ۳۳۹۸، ۳۵۱۱، ۳۵۱۵، ۳۵۲۰، ۳۵۳۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۸، ۳۵۵۵، ۳۵۷۹_۳۵۸۰، ۳۵۹۷، ۳۶۰۳، ۳۶۰۸، (ج_۷) ۳۹۹۰، ۴۱۴۰، ۴۱۷۲، ۴۱۷۴، ۴۲۶۲، (ج_۸) ۴۵۱۲، ۴۵۹۹، ۴۶۱۲، ۴۷۱۴، (ج_۹) ۵۵۳۱، ۵۵۴۷، ۵۵۵۱، ۵۵۸۳، (ج_۱۰) ۵۵۸۰، ۵۵۹۳، ۵۶۲۷، ۵۷۵۵_۵۷۶۱، ۵۸۶۶، ۵۸۷۰، ۵۸۷۵، ۵۸۸۱_ ۵۸۸۲، ۵۸۹۴، ۵۹۲۵، ۵۹۴۰، ۵۹۹۱، ۶۰۹۱، ۶۳۷۱

حسن آباد: (ن_۶) ۳۷۹۵

حسن ابدال: (ج_۱۰) ۵۸۹۱، ۵۹۱۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۷، ۵۹۴۳_۵۹۴۵، ۶۴۹۰

حسین خان والا: (ن_۶) ۳۷۸۵

حصار: (ن_۴) ۲۴۸۶، (ن_۶) ۳۷۹۶، ۳۸۷۸

حصار شادماں: (ج_۹) ۵۳۱۲

حصارک: (ن_۶) ۳۵۵۴

حضرموت (یمن): (ن_۶) ۳۲۰۲، ۳۲۰۴

حضرو: (ن_۶) ۳۸۶۹، (ج_۱۰) ۵۹۳۰، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳_ ۵۹۳۷، ۵۹۴۴

حطار: (ج_۱۰) ۵۴۹۰

حمص: (ج_۶) ۳۲۲۷

- حوراماں: (ن_۶) ۳۲۷۹، ۳۲۸۱_۳۲۸۲، ۳۲۸۴، ۳۲۸۷_ ۳۲۸۹

حویلی لکھا: (ج_۱۰) ۶۴۴۳

حیدرآباد دکن: (ن_۶) ۳۸۴۰، ۳۹۵۰، ۳۹۵۵، (ج_۷) ۴۳۱۷، (ج_۸) ۴۸۳۳، ۴۸۵۰، (ج_۹) ۵۰۳۷، ۵۳۲۹، (ج_۱۰) ۵۸۸۱، ۵۸۹۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۷

حیدرآباد (سندھ): (ن_۱) ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۵۲_۵۴، ۶۲، ۹۰، ۱۱۲_۱۱۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۲۷۹، ۴۳۰، ۴۶۰، ۴۶۲، ۴۶۳، (ن_۲) ۵۰۴، (ن_۴) ۲۰۵۸، ۲۱۹۱، ۲۱۸۷، ۲۲۸۵، ۲۲۹۰، ۲۳۱۲، ۲۳۱۵_۲۳۱۷، ۲۳۱۹_۲۳۲۱، ۲۳۲۳_۲۳۲۵، ۲۳۲۷_ ۲۳۲۸، ۲۳۳۰_۲۳۳۱، ۲۳۳۳_۲۳۳۶، ۲۳۳۸_۲۳۳۹، ۲۳۴۲_۲۳۴۶، ۲۳۴۸_۲۳۵۱، ۲۳۵۵_۲۳۵۶، ۲۳۸۶. (ن_۵) ۲۵۷۵، ۲۵۷۸_۲۵۸۰، ۲۸۰۵، ۲۸۱۷_۲۸۱۸، ۲۸۵۷، ۲۹۰۷، ۲۹۱۴، ۲۶۲۰، ۲۶۵۰_۲۶۵۱، ۲۶۹۲، (ن_۶) ۳۳۵۹، ۳۳۷۰، ۳۳۹۶، ۳۴۱۰، ۳۴۱۸، ۳۴۴۲، ۳۴۴۷_ ۳۴۴۸، ۳۴۶۲، ۳۴۸۷، ۳۴۹۴_۳۴۹۶، ۳۵۱۶، ۳۵۳۰، ۳۵۳۴_۳۵۳۵، ۳۵۳۹، ۳۵۴۲، ۳۶۱۰، ۳۶۱۴، ۳۶۲۳، ۳۶۲۷، ۳۶۲۹_۳۶۳۱، ۳۶۳۵_۳۶۳۶، ۳۶۶۰، ۳۶۶۲، ۳۶۶۵، ۳۶۷۱، ۳۶۷۶، ۳۶۷۸_۳۶۷۹، ۳۶۸۲_۳۶۸۴، ۳۶۸۶، ۳۶۹۱، ۳۷۰۱_۳۷۰۲، ۳۷۰۶، ۳۷۰۸، ۳۷۷۲، ۳۷۸۱، ۳۸۴۰، ۳۸۴۷، ۳۹۳۰_۳۹۳۱، ۳۹۴۴، ۳۹۵۰، ۳۹۶۰، ۳۹۶۴، (ج_۸) ۴۵۰۵، ۴۸۶۹_۴۸۷۰، (ج_۹) ۵۰۵۶، ۵۱۱۸_۵۱۱۹، ۵۱۵۳، ۵۲۵۵، ۵۴۳۴، ۵۵۸۰، (ج_۱۰) ۶۰۷۱_۶۰۷۴، ۶۱۰۴، ۶۱۱۷، ۶۱۲۱، ۶۱۲۵، ۶۱۲۹، ۶۱۶۳، ۶۲۳۵، ۶۲۷۳، ۶۲۸۸، ۶۳۰۰، ۶۳۳۷_ ۶۳۳۸، ۶۳۵۱، ۶۳۷۳، ۶۳۷۸، ۶۴۰۷_۶۴۰۸، ۶۴۲۸، ۶۴۳۸

خ

خانوزئی: (ن_۶) ۳۷۱۲، ۳۷۱۴_۳۷۱۶، (ج_۱۰) ۵۹۵۰

خانہ کعبہ: (ن_۶) ۳۲۱۵، ۳۶۲۳، ۳۶۴۴، ۳۶۵۲_۳۶۵۳، ۳۶۶۸_۳۶۶۹، ۳۷۵۱، ۳۷۵۵، ۳۸۱۰، ۳۸۱۴، ۳۸۴۲، ۳۸۴۸، ۳۸۵۸_۳۸۵۹، ۳۸۷۲، ۳۸۸۴، ۳۸۸۶، ۳۹۰۱_ ۳۹۰۲، ۳۹۱۴

خانیوال: (ن_۶) ۳۷۹۰، (ج_۱۰) ۶۰۹۰

ختن: (ج۔۸) ۴۹۰۶

خدادادزئی: (ج۔۶) ۳۷۲۴

خدوخیل: (ج۔۶) ۳۸۹۵

خراسان: (ج۔۱) ۸۸، ۲۲۷، ۳۳۶، ۳۴۸، (ج۔۲) ۵۰۹، ۸۱۱،
(ج۔۳) ۱۳۶۵، (ج۔۴) ۱۹۸۶، ۲۲۶۰، (ج۔۶) ۳۴۹۹، ۳۶۰۲،
۳۸۶۷، ۳۹۰۶، ۳۹۱۵، (ج۔۸) ۴۵۱۳، ۴۵۶۰، ۴۷۹۸،
(ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۱۲۶، ۵۱۴۷، (ج۔۱۰) ۵۷۵۶،
۵۷۸۷، ۵۸۴۸، ۵۸۸۲، ۵۹۳۲، ۵۹۵۱، ۵۹۵۷

خرقان: (ج۔۱) ۴۶۶، ۴۶۷، (ج۔۲) ۸۱۱، (ج۔۴) ۲۲۴۵،
۲۲۵۸، (ج۔۸) ۴۷۹۷، ۴۸۶۵

خرکی: (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

خلدآباد: (ج۔۴) ۲۱۸۴، (ج۔۶) ۳۶۹۸

خوارزم: (ج۔۴) ۲۲۴۸، ۲۲۶۰، (ج۔۷) ۴۰۸۹_۴۰۹۰،
۴۰۹۳، ۴۰۹۷، (ج۔۸) ۴۸۶۶

خوردہ: (ج۔۱۰) ۵۶۴۵

خوشاب: (ج۔۶) ۳۹۱۴، (ج۔۱۰) ۵۹۴۳

خونی چک: (ج۔۱۰) ۵۹۳۷

خیاری شریف: (ج۔۶) ۳۶۹۶

خیبر: (ج۔۶) ۳۸۲۴، (ج۔۱۰) ۵۹۲۷

خیرپور: (ج۔۶) ۳۴۳۱، ۳۴۶۹، ۳۵۶۳، ۳۶۲۷، ۳۶۷۹،
۳۶۹۵، ۳۷۰۳، ۳۷۰۵، ۳۷۰۷، (ج۔۱۰) ۶۰۵۷،
۶۰۶۸

خیرپور (میرس): ۸۳۷

خیل مرزہ: (ج۔۸) ۴۸۶۶

و

داودوالی شریف: (ج۔۶) ۳۷۸۸

دادو: (ج۔۶) ۳۴۴۱_۳۴۴۲، ۳۵۷۰، ۳۶۹۰، ۳۶۹۶

دارکنان: (ج۔۶) ۳۹۵۲

داغستان: (ج۔۵) ۲۶۸۷، (ج۔۶) ۳۲۶۰_۳۲۶۱

دامان: (ج۔۶) ۳۹۱۴_۳۹۱۵

داورشریف (کوہاٹ): (ج۔۶) ۳۸۸۰

داؤدخیل: (ج۔۱۰) ۶۰۴۳

داؤدزئی: (ج۔۶) ۳۸۳۱، (ج۔۱۰) ۵۸۷۴

درخان: (ج۔۶) ۳۷۳۷

درانی بستی: (ج۔۶) ۳۷۲۷

درپیلی: (ج۔۶) ۳۴۸۶

درخان: (ج۔۱۰) ۵۹۵۳

درگئی: (ج۔۶) ۳۷۱۸

درہ بولان: (ج۔۶) ۳۹۱۵

درہ کوہ: (ج۔۹) ۵۲۲۶

درہ گومل: (ج۔۶) ۳۹۱۵

دزدورہ: (ج۔۱۰) ۵۸۴۹

دسوق: (ج۔۶) ۳۲۰۷

دکن: (ج۔۱) ۵۲، ۸۸، ۱۷۴، (ج۔۲) ۵۰۹، (ج۔۳) ۱۸۴۴،
۱۸۴۵، ۱۸۵۰، ۱۸۶۳، ۱۸۶۹، (ج۔۴) ۲۰۵۵، ۲۰۵۹، ۲۴۱۷،
۲۱۴۶، ۲۱۸۴، ۲۴۴۴، ۲۴۴۶، (ج۔۶) ۳۶۹۷_۳۶۹۸،
۳۷۷۲، ۳۷۸۱، (ج۔۸) ۴۵۴۸، ۴۵۵۴_۴۵۵۵،
۴۵۶۲، ۴۶۷۳_۴۶۷۴، (ج۔۹) ۵۰۲۴، ۵۰۹۳،

۵۰۹۵، ۵۱۳۲، ۵۵۲۹، (ج_۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۸۴، ۵۷۶۸، ۶۱۱۶، ۶۳۷۹

دمشق: (ج_۱) ۸۰، ۸۷، ۹۳، ۲۱۹_۲۲۰، ۴۵۸، ۱۹۴۰، (ج_۴) ۲۰۴۶، ۲۵۰۸، ۲۵۱۰، (ج_۵) ۲۶۷۴، ۲۶۷۵، ۲۶۸۱، ۲۶۸۲، ۲۶۹۳، ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۴، ۲۸۸۴، ۲۹۸۸، (ج_۶) ۳۱۷۵، ۳۱۷۷_۳۱۷۸، ۳۱۸۰_۳۱۸۳، ۳۱۸۶_۳۱۸۹، ۳۱۹۴_۳۱۹۶، ۳۱۹۸، ۳۲۰۰_۳۲۰۱، ۳۲۰۸_۳۲۱۱، ۳۲۲۷_۳۲۴۰، ۳۲۴۵، ۳۲۴۹، ۳۲۵۲، ۳۲۷۶_۳۲۷۹، ۳۵۹۵، ۳۷۶۰، ۳۹۲۷، ۳۹۴۰، ۳۹۵۲، ۳۹۵۵، ۳۹۶۵، ۳۹۷۰، (ج_۸) ۴۸۱۳، ۴۸۴۲، ۴۹۴۷، (ج_۹) ۵۲۷۰، ۵۲۹۶، (ج_۱۰) ۵۶۲۸_۵۶۲۹، ۵۶۹۵، ۶۳۷۸_۶۳۷۹، ۶۳۹۲، ۶۴۰۰، ۶۴۱۲، ۶۳۹۵، ۶۳۹۷

دمیاط: (ج_۶) ۳۲۰۷

دندہ شاہ بلاول: (ج_۱۰) ۵۹۴۲، ۶۰۴۳_۶۰۴۴

دوآبہ: (ج_۶) ۳۸۹۶، (ج_۱۰) ۵۸۷۰، ۵۸۸۷

دوراجی: (ج_۸) ۴۵۷۳

دوعن: (ج_۶) ۳۲۰۲

دہر: (ج_۱۰) ۵۸۸۰

دہلی: (ج_۱) ۳، ۳۴، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۸، ۵۵، ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۴۶، ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۵، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۲۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۲۲، ۳۴۳، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۸۵، ۳۹۶، ۴۰۳، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۲، ۴۳۸، ۴۶۳، ۴۶۶، ۴۷۲، (ج_۲) ۴۸۳، ۴۸۵، ۵۰۸، ۶۵۵، ۶۹۵، ۷۶۸، ۷۷۱، ۸۲۵، ۸۵۰، ۸۵۲، ۸۶۱، ۱۰۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۲۳، ۱۲۳۳، ۱۲۳۷، ۱۲۳۵ (ج_۳) ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۵، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۳۱۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۴۴۸، ۱۶۴۳، ۱۶۸۴۱۶۸۳، ۱۷۲۲، ۱۸۴۶، ۱۸۶۳، ۱۸۷۰، ۱۸۷۲، (ج_۴) ۱۸۹۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۵، ۱۹۵۱، ۱۹۸۲_۱۹۸۴، ۲۰۴۴، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۵_۲۰۵۶، ۲۰۵۹، ۲۰۶۳_۲۰۶۴، ۲۰۸۶_۲۰۸۸، ۲۱۸۰، ۲۱۸۴، ۲۱۸۶_۲۱۸۹، ۲۲۵۲_۲۲۵۳، ۲۲۶۴، ۲۲۹۰، ۲۳۵۷_۲۳۵۸، ۲۳۶۶، ۲۳۷۹، ۲۳۸۴، ۲۴۰۷، ۲۴۱۳، ۲۴۲۳، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۶، ۲۴۴۱، ۲۴۴۳، ۲۴۵۴، ۲۴۵۶، ۲۴۶۲_۲۴۶۳، ۲۴۷۴، ۲۴۷۶، ۲۴۷۸_۲۴۸۰، ۲۴۸۶، ۲۴۹۱_۲۴۹۲، ۲۵۰۳، ۲۵۰۶، (ج_۵) ۲۵۳۱، ۲۵۵۴، ۲۵۶۹، ۲۵۷۴، ۲۵۸۰_۲۵۸۱، ۲۵۹۷، ۲۶۰۵، ۲۶۱۱، ۲۶۲۰، ۲۶۲۷، ۲۶۲۸، ۲۶۳۰، ۲۶۴۸، ۲۶۵۰، ۲۶۷۱، ۲۶۸۴_۲۶۸۵، ۲۶۹۴_۲۶۹۶، ۲۶۹۹، ۲۷۲۵، ۲۷۲۷، ۲۷۶۲، ۲۷۸۹، ۲۷۹۳، ۲۸۱۰، ۲۸۱۴_۲۸۱۷، ۲۸۲۹، ۲۸۳۷، ۲۸۴۳، ۲۸۸۸، ۲۹۰۰، ۲۹۰۴، ۲۹۰۹_۲۹۱۰، ۲۹۱۵، ۲۹۲۳، ۲۹۲۵، ۳۰۳۰، ۳۰۹۰، ۳۱۰۹، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۲۷۶، ۳۳۰۸، ۳۳۳۷، ۳۳۴۴_۳۳۴۵، ۳۳۴۹_۳۳۵۲، ۳۳۵۵_۳۳۶۰، ۳۳۶۲_۳۳۶۴، ۳۳۶۷_۳۳۶۹، ۳۳۷۱_۳۳۷۲، ۳۳۷۶، ۳۳۷۸، ۳۳۸۱_۳۳۸۹، ۳۳۹۱_۳۳۹۲، ۳۳۹۴_۳۳۹۵، ۳۳۹۸_۳۴۰۵، ۳۴۵۲، ۳۴۶۲، ۳۴۷۳_۳۴۷۵، ۳۴۸۶، ۳۶۲۲_۳۶۲۴، ۳۶۳۴_۳۶۳۵، ۳۶۴۵_۳۶۴۷، ۳۶۴۹، ۳۶۷۳، ۳۶۷۶، ۳۶۷۹_۳۶۸۰، ۳۷۱۱، ۳۷۵۲، ۳۷۵۵_۳۷۵۸، ۳۷۶۰_۳۷۶۱، ۳۷۶۵_۳۷۶۶، ۳۷۷۶، ۳۷۹۳، ۳۸۱۶، ۳۸۲۲، ۳۸۵۱، ۳۸۵۷_۳۸۵۸، ۳۸۶۷، ۳۹۰۸، ۳۹۱۳_۳۹۱۷، ۳۹۲۰، ۳۹۳۵_۳۹۳۷، ۳۹۳۹، ۳۹۴۱_۳۹۴۲، ۳۹۴۴، ۳۹۴۷، ۳۹۵۰، ۳۹۵۳، ۳۹۶۲، ۳۹۶۸، ۳۹۷۰_۳۹۷۱، ۳۹۸۴، (ج_۷) ۳۹۸۷، ۴۰۱۰، ۴۰۱۲، ۴۱۰۳، ۴۱۴۰، ۴۱۵۷_۴۱۵۸، ۴۱۶۰، ۴۱۷۴_۴۱۷۶، ۴۲۲۱_۴۲۲۲، ۴۲۲۳، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۵۱۰، ۴۵۱۵، ۴۵۱۹_۴۵۲۰، ۴۵۲۲_۴۵۲۳، ۴۵۷۹، ۴۶۰۴، ۴۶۱۳، ۴۶۱۸، ۴۶۲۴، ۴۷۱۴، ۴۸۳۲، ۴۸۴۴، ۴۸۶۶_۴۸۷۰، ۴۹۰۲، ۴۹۰۶_۴۹۰۹، (ج_۹) ۴۹۹۵، ۵۰۱۳،

۵۰۲۲ـ۵۰۲۳، ۵۰۲۸، ۵۰۳۰، ۵۰۳۸، ۵۰۴۰ـ
۵۰۴۱، ۵۰۴۴، ۵۰۴۹، ۵۰۵۴، ۵۰۵۸، ۵۰۸۷، ۵۱۲۰،
۵۱۲۳ـ۵۱۲۵، ۵۱۴۷، ۵۱۵۳ـ۵۱۵۷، ۵۱۵۹، ۵۱۶۲،
۵۲۲۹، ۵ ۲۵۲، ۵۲۶۲، ۵۲۹۶، ۵۳۲۹، ۵۳۳۰،
۵۳۵۳، ۵۳۶۸، ۵۳۷۶، ۵۳۷۹، ۵۴۰۵، ۵۴۶۷،
۵۴۷۰، ۵۴۷۳ـ۵۴۷۶، ۵۵۱۰، ۵۵۱۵، ۵۵۱۸،
۵۵۲۲ـ۵۵۲۳، ۵۵۲۵، ۵۵۲۹، ۵۵۳۴ـ۵۵۳۶،
۵۵۸۱، (جـ۱۰) ۵۵۸۷، ۵۶۱۳، ۵۶۱۶، ۵۶۱۹،
۵۶۳۰، ۵۶۴۱ـ۵۶۴۴، ۵۶۴۶، ۵۶۵۴، ۵۶۷۹،
۵۶۸۱ـ۵۶۸۲، ۵۶۹۶، ۵۷۰۲، ۵۷۰۹، ۵۷۵۶ـ
۵۷۵۷، ۵۷۶۱ـ۵۷۶۳، ۵۷۶۵ـ۵۷۶۶، ۵۷۶۸،
۵۷۷۷، ۵۸۰۰، ۵۸۰۲، ۵۸۰۵، ۵۸۰۹، ۵۸۲۱،
۵۸۲۵ـ۵۸۲۶، ۵۸۲۸، ۵۸۳۴، ۵۸۶۷، ۵۸۷۸،
۵۸۸۰ـ۵۸۸۲، ۵۸۸۶ـ۵۸۸۷، ۵۸۹۳، ۵۹۲۷،
۵۹۳۵، ۵۹۵۴ـ۵۹۵۷، ۵۹۵۹، ۶۰۰۰، ۶۰۳۴،
۶۰۳۷، ۶۰۴۴، ۶۰۵۱، ۶۰۵۵ـ۶۰۵۶، ۶۱۰۳، ۶۱۰۷،
۶۱۲۳ـ۶۱۲۵، ۶۱۵۴، ۶۱۵۹ـ۶۱۶۰، ۶۱۶۲ـ۶۱۶۳،
۶۱۹۳، ۶۱۹۵، ۶۲۲۷، ۶۲۳۱، ۶۲۴۰، ۶۲۴۲ـ۶۲۴۳،
۶۲۵۴، ۶۲۹۲، ۶۲۹۷، ۶۳۰۱، ۶۳۲۷، ۶۳۷۸،
۶۳۹۹، ۶۴۱۱، ۶۴۱۸، ۶۴۹۰، ۶۴۹۳
ڈھوڑ: (جـ۱۰) ۵۹۳۷
دھام پور بجنور: (جـ۶) ۳۶۴۴
دھولر شریف: (جـ۶) ۳۷۹۴
دھیر کوٹ: (جـ۶) ۳۷۶۷
دیار: (جـ۴) ۲۴۸۶
دیبل: (جـ۴) ۲۰۶۲، ۲۰۴۶، ۲۰۴۵
دیپالپور: (جـ۶) ۳۷۹۰، ۳۷۹۹
دیر: (جـ۹) ۵۰۱۰، (جـ۱۰) ۶۱۲۵
دیروط: (جـ۶) ۳۲۰۷
دیگی: (جـ۶) ۳۹۱۰
دین پور: (جـ۶) ۳۵۶۲، (جـ۱۰) ۶۰۶۲
دینہ: (جـ۱۰) ۵۹۳۴، ۵۹۳۵
دیوبند: (جـ۳) ۱۶۷۴
دیہ بہادر: (جـ۶) ۳۸۵۱
دیہہ میاں گوجر: (جـ۱۰) ۵۸۷۴
دیھ دم: (جـ۶) ۳۴۷۸
ڈکی: (جـ۶) ۳۷۱۵ـ۳۷۱۶

ڈ

ڈابھیل: (جـ۸) ۴۵۷۸
ڈبلن: (جـ۵) ۲۶۷۵
ڈراڈر: (جـ۱۰) ۵۹۳۶، ۵۹۹۷
ڈگرسوہاگ: (جـ۶) ۳۷۹۵، (جـ۱۰) ۵۸۹۷
ڈنمارک: (جـ۶) ۳۲۷۱
ڈھاڈر: (جـ۶) ۳۷۳۸، (جـ۱۰) ۵۹۵۳
ڈھاکہ: (جـ۱) ۳۸، (جـ۴) ۲۰۵۹، ۲۴۸۶، (جـ۶) ۳۳۹۲،
۳۸۵۴، ۳۹۳۹، ۳۹۴۴
ڈھپی ملوڑی: (جـ۱۰) ۵۸۹۸
ڈھڈیال: (جـ۶) ۳۸۰۵
ڈھڈیاں: (جـ۱۰) ۵۹۴۱
ڈھوک مرید: (جـ۱۰) ۶۰۰۲

ڈیرہ اسمٰعیل خان: (ج-۶) ۳۴۴۵، ۳۷۸۲، ۳۷۹۱، ۳۷۹۳، ۳۷۹۵، ۳۷۹۹، ۳۸۸۵، ۳۸۸۷، ۳۹۱۱، ۳۹۱۴، ۳۹۱۸-۳۹۱۹، ۳۹۲۲، ۳۹۷۰، (ج-۸) ۴۸۴۴، (ج-۹) ۵۵۷۳، (ج-۱۰) ۵۸۸۲-۵۸۸۴، ۵۸۹۷، ۵۹۰۲-۵۹۰۳، ۵۹۰۷، ۵۹۲۵، ۵۹۳۶، ۵۹۴۲-۶۰۴۴، ۶۰۵۶، ۶۰۶۹، ۶۲۲۰، ۶۳۵۶، ۶۳۷۱

ڈیرہ جات: (ج-۱۰) ۶۰۳۸

ڈیرہ غازی خان: (ج-۴) ۲۰۸۶، (ج-۵) ۲۸۸۲، ۲۸۹۶، ۳۱۱۰، (ج-۱۰) ۶۰۵۰، ۶۰۵۶

ڈیرہ مراد جمالی: (ج-۶) ۳۷۴۷

ڈیرہ نواب: (ج-۱۰) ۶۰۵۹

ر

رابل: (ج-۴) ۲۰۵۰

راجستھان: (ج-۶) ۳۶۲۳، (ج-۹) ۵۰۱۶

راجوڑی: (ج-۴) ۱۹۴۰، (ج-۶) ۳۸۱۵

راجیکی: (ج-۱۰) ۵۸۹۱

رادھن: (ج-۱۰) ۶۰۶۲

راڑہ شم: (ج-۱۰) ۵۹۵۸

رام پور: (ج-۱) ۴۲۷، ۴۳۱، (ج-۲) ۷۸۴، (ج-۳) ۱۴۹۸، ۱۹۵۱، (ج-۴) ۲۲۲۱، ۲۳۸۶، (ج-۵) ۲۶۰۳، ۲۶۰۸، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۵۲، (ج-۶) ۳۳۴۱، ۳۳۶۳، ۳۴۴۰، ۳۷۹۴، ۳۸۴۸-۳۸۴۹، ۳۸۶۷، ۳۸۸۰، ۳۹۴۲، (ج-۸) ۴۸۶۹، (ج-۹) ۵۰۲۸، ۵۰۴۰، ۵۰۴۹، ۵۱۵۵، ۵۳۶۷، (ج-۱۰) ۵۶۷۰، ۵۸۰۵، ۵۸۰۷، ۵۸۸۴، ۵۹۵۵-۶۰۵۶، ۶۱۰۰، ۶۱۲۱، ۶۱۳۳، ۶۲۹۷

رامیتن: (ج-۱) ۲۵۶، (ج-۴) ۲۲۶۰، ۲۲۳۸، (ج-۱۰) ۶۱۰۱

راندیر: (ج-۱۰) ۵۸۰۵

رانیوال سیّداں: (ج-۶) ۳۷۹۵

راولپنڈی: (ج-۱) ۴۳، ۵۳، ۱۰۰، ۱۱۴، (ج-۴) ۲۵۱۳، (ج-۵) ۲۶۲۴، ۲۶۴۶، ۲۷۲۸، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، (ج-۶) ۳۳۸۹، ۳۶۴۴، ۳۷۷۵، ۳۷۷۹، ۳۷۸۲، ۳۷۸۶، ۳۷۸۸، ۳۷۹۹، ۳۸۰۷، ۳۸۱۱، ۳۸۱۴، ۳۸۲۲، ۳۸۴۴، (ج-۸) ۴۵۷۶، ۴۸۵۴، (ج-۱۰) ۵۸۰۶، ۵۹۱۳، ۵۹۲۳، ۵۹۲۵، ۵۹۲۷، ۵۹۳۲، ۵۹۳۷-۵۹۴۵، ۵۹۴۷، ۶۰۱۳، ۶۰۹۳، ۶۲۸۹

رباط: (ج-۶) ۳۲۰۱

رتر چھتر: (ج-۶) ۳۴۸۶، ۳۵۷۴، ۳۷۶۶

رتوی: (ج-۱۰) ۶۰۰۲

رحمت پور شریف: (ج-۱۰) ۶۰۶۲، ۶۰۶۸

رحیم یار خان: (ج-۶) ۳۹۲۲، (ج-۱۰) ۶۰۹۰، ۶۴۴۳

رخش (موضع): (ج-۴) ۲۲۶۳

رسول پور: (ج-۶) ۳۴۳۱

رکھنی: (ج-۱۰) ۵۹۵۸

رملہ: (ج-۱۰) ۶۰۰۲

رنتھمبور: (ج-۱) ۳۱۲

رندعلی: (ج-۶) ۳۷۵۹

رنگ پور: (ج-۱۰) ۵۹۰۳، ۵۹۳۹، ۶۰۴۹

روات: (ج-۱۰) ۵۹۴۱

روپڑ کلاں: (ج-۱۰) ۵۹۳۸، ۵۹۴۱، ۵۹۴۳، ۶۰۰۱

روس : (ج۔۵) ۲۶۸۶، ۲۶۰۳، (ج۔۶) ۳۲۱۷، ۳۵۵۳،
۳۷۵۷، ۳۷۶۲، ۳۷۶۴، ۳۷۸۱، ۳۹۶۹، (ج۔۶) ۳۲۱۵،
(ج۔۱۰) ۵۷۷۸، ۵۷۹۶

روکھڑی موڑ: (ج۔۶) ۳۷۹۲

روم : (ج۔۴) ۲۲۱۱، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، (ج۔۵) ۲۷۶۲،
۲۸۱۷، ۲۹۱۵، (ج۔۸) ۴۵۴۰، ۴۵۷۳، ۴۹۰۶، (ج۔۹)
۵۱۲۶، ۵۴۷۰، ۵۵۱۰، ۵۵۳۱، (ج۔۱۰) ۵۶۳۹،
۵۷۵۷، ۵۷۶۰، ۵۷۶۹_۵۷۷۰، ۵۸۷۲، ۵۹۸۸

روہڑی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

روہیل کھنڈ: (ج۔۱۰) ۶۰۰۱

رہابکی: (ج۔۱۰) ۵۹۴۶

رہتاس : (ج۔۹) ۵۲۲۷، (ج۔۱۰) ۵۸۶۵، ۵۸۷۲،
۵۸۸۷، ۵۹۳۴_۵۹۳۵

رہتک: (ج۔۶) ۳۷۹۰، ۳۷۹۶، ۳۸۱۶

ریاض: (ج۔۲) ۶۳۳، ۷۳۲_۷۳۳، (ج۔۵) ۲۶۹۸، ۲۷۰۰،
۲۷۰۴، (ج۔۶) ۳۱۹۸، ۳۲۰۰_۳۲۰۱، ۳۲۱۵، ۳۲۱۸_
۳۲۱۹، ۳۲۸۸، ۳۹۴۱، ۳۹۴۸، ۳۹۵۴، ۳۹۵۶، ۳۹۶۴،
۳۹۶۸

ریاسی: (ج۔۱۰) ۶۰۰۲

رینالہ خورد: (ج۔۶) ۳۷۹۰

ریورتون گاؤں: (ج۔۱) ۲۳۳، ۲۵۴

ریوگر: (ج۔۴) ۲۲۴۶_۲۲۴۷، ۲۲۶۰، (ج۔۸) ۴۸۶۶

ز

زابلستان: (ج۔۷) ۴۰۵۳

زاوہ: (ج۔۶) ۳۹۱۴

زبید (یمن): (ج۔۶) ۳۱۹۹، ۳۲۰۷، ۳۶۲۱

زکوڑی شریف : (ج۔۶) ۳۷۹۹، ۳۹۱۱، ۳۹۲۳، (ج۔۸)
۴۸۴۴_۴۸۴۵، ۴۸۵۱، (ج۔۱۰) ۵۸۸۳_۵۸۸۴

زندہ پیر: (ج۔۶) ۳۹۲۴

زور: (ج۔۴) ۲۵۰۴، (ج۔۸) ۴۸۶۸

زئی شریف: (ج۔۵) ۲۷۳۸، ۲۷۴۶

زیارت: (ج۔۶) ۳۷۱۹، ۳۷۳۴، (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

زینہ کدل: (ج۔۶) ۳۸۶۴

زیورتون: (ج۔۷) ۴۰۹۰

ژ

ژوب : (ج۔۶) ۳۷۱۱_۳۷۱۲، ۳۷۲۲_۳۷۲۳، (ج۔۱۰)
۵۹۵۱، ۵۹۵۲

س

سالک آباد: (ج۔۱۰) ۵۹۴۴

سامارو: (ج۔۶) ۳۴۲۱، ۳۴۲۴، ۳۴۶۱_۴۶۲

سامانہ: (ج۔۸) ۴۵۱۰

سامرہ: (ج۔۶) ۳۸۸۴

ساہیوال : (ج۔۱) ۴۰۴، (ج۔۳) ۱۸۷۲، (ج۔۶) ۳۵۷۴،
۳۸۱۴، ۳۸۱۹، (ج۔۱۰) ۶۴۴۳

سبز: (ج۔۹) ۵۳۱۴

سبنھا لکہ: (ج۔۹) ۵۵۲۵

سبی: (ج۔۶) ۳۷۲۷، (ج۔۱۰) ۵۹۵۸

سرانان: (ج۔۶) ۳۷۲۱، (ج۔۱۰) ۵۹۵۲

سرائے اکوڑہ خٹک: ۵۸۷۱

سرآب: (ن_۶)۳۷۱۰

سرحد: (ن_۵)۲۸۸۲، ۳۱۱۹، (ن_۶)۳۵۵۱، ۳۶۴۳، ۳۷۲۲، ۳۷۸۳، ۳۷۹۵، ۳۸۱۲، ۳۸۱۹، ۳۸۲۲، ۳۸۲۷_۳۸۲۹، ۳۸۴۱، ۳۸۴۷، ۳۸۴۹_۳۸۵۰، ۳۸۵۲، ۳۸۵۶، ۳۸۶۱، ۳۸۶۵_۳۸۶۶، ۳۸۷۲، ۳۸۷۵، ۳۸۸۸، ۳۸۹۱، ۳۹۰۵_۳۹۰۸، ۳۹۱۰_۳۹۱۲، ۳۹۲۳، ۳۹۲۷_۳۹۲۸، ۳۹۳۷، (ج_۷)۴۰۱۰، (ج_۸)۴۵۰۱، ۴۶۱۷، (ج_۹)۵۰۱۳، ۵۵۸۳، (ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۶۱۶، ۵۷۲۳، ۵۸۶۲_۵۸۶۳، ۵۸۶۶، ۵۸۸۰، ۵۸۹۰، ۵۹۰۳، ۵۹۲۶، ۵۹۳۰، ۵۹۳۳، ۵۹۳۶، ۵۹۳۸، ۵۹۵۲، ۵۹۵۴، ۵۹۵۷، ۶۰۶۷، ۶۱۶۳، ۶۴۱۳

سرخس (ج_۷)۴۰۶۴

سرگودھا (ن_۶) ۳۷۶۸، ۳۷۷۰، ۳۷۷۳، ۳۷۹۵_۳۷۹۶، ۳۷۹۸، (ج_۱۰)۵۹۴۶

سری رنگ پٹن: (ن_۴)۲۰۵۶

سروالہ: (ج_۱۰)۵۸۷۳، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰

سرہند شریف: (ن_۱)۳، ۱۲، ۲۰، ۳۴، ۳۷، ۶۱، ۶۵، ۷۸، ۸۵، ۹۶، ۱۰۵، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۵۰، ۱۹۹، ۲۶۸، ۳۰۱، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۸، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۷_۴۱۸، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۳۰، ۴۳۲، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۵۶، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۶، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، (ن_۲)۴۸۳، ۴۹۴، ۴۹۶، ۵۰۴، ۵۰۷، ۷۶۷_۷۶۸، ۹۲۸، ۹۹۰، ۹۹۶، ۱۱۱۹، ۱۲۵۰_۱۲۵۲، ۱۲۵۴، ۹۲۷، (ن_۳)۱۲۷۷، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۵، ۱۲۸۹_۱۲۹۳، ۱۳۱۷، ۱۳۲۷، ۱۳۶۶، ۱۳۷۲، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹_۱۳۹۱، ۱۳۹۳، ۱۴۰۳، ۱۴۲۲، ۱۴۵۱، ۱۶۴۳، ۱۷۶۴، ۱۸۳۸، ۱۸۴۲، ۱۸۴۴، ۱۸۴۶_۱۸۵۰، ۱۸۵۲_۱۸۵۳، ۱۸۵۸_۱۸۵۹، ۱۸۶۱، ۱۸۶۴، ۱۸۶۶، ۱۸۷۰، ۱۸۷۳، ۱۸۷۶_۱۸۷۹، ۱۸۸۱، (ن_۴)۱۸۹۱، ۱۹۱۳، ۱۹۲۷، ۱۹۴۰، ۱۹۴۲، ۱۹۴۶، ۱۹۵۲، ۱۹۸۶، ۲۰۲۲، ۲۰۳۱، ۲۱۵۴، ۲۱۸۰، ۲۱۸۵، ۲۱۹۶، ۲۲۰۲، ۲۲۲۴_۲۲۲۵، ۲۲۲۷، ۲۲۵۳_۲۲۵۴، ۲۲۶۴_۲۲۶۵، ۲۲۷۳، ۲۲۷۷_۲۲۷۸، ۲۲۸۰، ۲۲۸۴، ۲۳۵۲_۲۳۵۶، ۲۳۶۱، ۲۳۶۳_۲۳۶۴، ۲۳۶۷، ۲۳۷۲، ۲۳۷۶، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۹، ۲۳۹۱، ۲۳۹۳، ۲۴۱۰_۲۴۱۱، ۲۴۱۷، ۲۴۲۶، ۲۴۳۰، ۲۴۳۳، ۲۴۴۷، ۲۴۸۶، ۲۵۱۳، ۲۵۱۷_۲۵۱۹، ۲۵۲۱، (ن_۵)۲۵۳۱، ۲۵۴۲، ۲۵۵۲، ۲۵۶۰_۲۵۶۱، ۲۵۶۸، ۲۶۲۱، ۲۶۴۹، ۲۶۶۳، ۲۶۶۶_۲۶۶۷، ۲۶۷۳، ۲۷۱۲_۲۷۱۴، ۲۷۲۱، ۲۷۲۹_۲۷۳۰، ۲۷۳۶، ۲۷۴۳، ۲۷۷۸، ۲۷۸۳، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۶، ۲۸۲۸، ۲۸۷۱، ۲۸۷۸، ۲۸۹۲، ۲۹۱۸، ۲۹۲۳_۲۹۲۷، ۳۰۱۹، ۳۰۲۱_۳۰۲۲، ۳۰۲۷، ۳۰۳۸، ۳۰۴۰_۳۰۴۱، ۳۱۱۲_۳۱۱۶، ۳۱۱۸، (ن_۶)۳۲۳۸، ۳۳۳۰_۳۳۳۲، ۳۳۳۵، ۳۳۵۳، ۳۳۴۷_۳۳۴۹، ۳۳۵۲، ۳۳۶۸، ۳۳۷۰، ۳۳۷۲، ۳۳۷۴، ۳۳۹۰، ۳۳۹۹، ۳۵۲۶، ۳۵۳۹، ۳۵۷۵، ۳۶۱۲_۳۶۱۴، ۳۶۹۸، ۳۷۶۴، ۳۷۶۶، ۳۷۷۶، ۳۷۸۳، ۳۷۸۸، ۳۷۹۳، ۳۸۲۲، ۳۸۲۷_۳۸۲۸، ۳۸۴۷، ۳۸۴۱_۳۸۴۲، ۳۸۴۸، ۳۸۶۰، ۳۸۶۷، ۳۸۷۲_۳۸۷۴، ۳۸۸۳، ۳۸۸۸، ۳۸۹۹، ۳۹۱۴، ۳۹۳۵_۳۹۳۶، ۴۰۰۸، ۴۰۱۰، ۴۰۱۳، ۴۱۷۱_۴۱۷۲، ۴۱۷۵_۴۱۷۶، ۴۲۰۰، ۴۲۲۲، ۴۲۲۶، (ج_۸)۴۳۸۳، ۴۳۹۹، ۴۵۰۱، ۴۵۰۳، ۴۵۱۰_۴۵۱۱، ۴۵۱۶، ۴۵۱۸، ۴۵۲۰، ۴۵۲۲_۴۵۲۳، ۴۵۳۹_۴۵۴۰، ۴۵۵۲، ۴۵۵۴، ۴۵۵۷، ۴۵۵۹، ۴۵۶۱_۴۵۶۳، ۴۵۶۵، ۴۵۷۳، ۴۶۰۱، ۴۶۰۵_۴۶۰۷، ۴۶۰۹، ۴۶۱۳_۴۶۱۴، ۴۷۰۰، ۴۷۲۵_۴۷۲۶، ۴۷۶۲، ۴۸۳۸، ۴۸۴۳_۴۸۴۴،

۴۸۶۶_ ۴۸۶۸، ۴۸۷۶، ۴۸۸۳، ۴۸۹۷، ۴۹۰۲، ۴۹۰۸، ۴۹۳۸، (ج_۹) ۴۹۹۵، ۵۰۰۷_ ۵۰۰۸، ۵۰۱۱، ۵۰۱۳، ۵۰۲۱_ ۵۰۲۳، ۵۰۲۵، ۵۰۲۹، ۵۰۳۳، ۵۰۴۳_ ۵۰۴۴، ۵۰۴۷، ۵۰۵۳_ ۵۰۵۴، ۵۰۶۵، ۵۱۲۱_ ۵۱۲۳، ۵۱۲۵_ ۵۱۲۶، ۵۱۳۳، ۵۱۳۶، ۵۱۴۲، ۵۱۸۷، ۵۲۰۰، ۵۲۲۵_ ۵۲۲۶، ۵۲۲۹_ ۵۲۳۰، ۵۲۳۵، ۵۲۴۸، ۵۳۲۷، ۵۳۵۰، ۵۳۶۴، ۵۳۶۶_ ۵۳۶۷، ۵۳۷۰، ۵۳۹۶، ۵۴۲۲، ۵۴۷۱، ۵۴۷۳_ ۵۴۷۶، ۵۴۸۰، ۵۴۸۲، ۵۴۸۵_ ۵۴۸۶، ۵۴۸۸، ۵۴۹۸، ۵۵۱۴، ۵۵۱۸_ ۵۵۱۹، ۵۵۲۵، ۵۵۲۷، ۵۵۲۹_ ۵۵۳۱، ۵۵۳۴_ ۵۵۳۷، ۵۵۴۱، ۵۵۴۳، ۵۵۴۵، ۵۵۴۹_ ۵۵۵۴، ۵۵۵۶_ ۵۵۵۸، ۵۵۶۹، (ج_۱۰) ۵۵۸۷، ۵۶۰۷، ۵۶۰۹، ۵۶۱۶، ۵۶۱۹، ۵۶۳۵، ۵۶۳۹، ۵۶۴۱_ ۵۶۴۳، ۵۶۶۵، ۵۶۷۵، ۵۶۷۸، ۵۶۸۱_ ۵۶۸۵، ۵۶۸۹، ۵۶۹۰_ ۵۷۵۶_ ۵۷۵۷، ۵۷۶۷_ ۵۷۶۸، ۵۷۷۰_ ۵۷۷۱، ۵۷۷۷، ۵۷۹۰، ۵۷۹۳، ۵۸۶۴_ ۵۸۶۵، ۵۸۷۲، ۵۸۷۵_ ۵۸۷۶، ۵۸۷۹، ۵۸۸۴، ۵۸۸۶، ۵۸۹۵، ۵۹۱۵، ۵۹۲۴، ۵۹۲۸، ۵۹۳۵، ۵۹۵۴، ۶۰۰۲، ۶۰۰۶، ۶۱۰۸، ۶۲۵۴

سری لنکا : (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۴) ۲۰۴۶، ۲۰۶۲، (ج_۶) ۳۲۴۶ .

سری نگر : (ج_۱) ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۵۶، ۴۶۰، (ج_۴) ۲۱۹۹، (ج_۶)۳۹۵۱، (ج_۱۰)۵۸۷۸، ۵۸۹۲

سریاب:(ج_۶)۳۷۳۸

سعدآباد:(ج_۱۰)۵۹۵۵

سعودی عرب : (ج_۴) ۲۵۱۴، (ج_۵) ۲۶۹۷_ ۲۶۹۸، (ج_۶) ۳۲۵۳، ۳۳۱۶، ۳۴۸۹، ۳۶۴۲، ۳۷۸۱، ۳۸۲۰، (ج_۹) ۵۵۸۰، (ج_۱۰) ۶۴۳۱، ۶۴۳۳، ۶۴۴۲، ۶۴۴۴ .

سعیدآباد:(ج_۶)۳۶۹۶

سکرنڈ:(ج_۶)۳۴۴۱، ۳۴۷۷، ۳۶۳۶، ۳۶۹۶، ۳۷۹۰

سکندر :(ج_۷)۴۱۷۱

سکندرہ:(ج_۵)۲۵۶۴، (ج_۸)۴۹۰۹

سکندریہ:(ج_۶)۳۲۰۷

سکھر : (ج_۵) ۲۹۰۶، (ج_۶) ۳۴۸۸، ۳۴۹۵، ۳۵۷۰، ۳۶۹۵، ۳۷۳۸، (ج_۱۰)۵۹۵۵، ۶۰۴۵، ۶۰۵۶

سلطان :(ج_۱۰)۶۰۴۵، ۶۰۶۹

سلطان پور :(ج_۱۰)۵۸۷۳

سلطان پورحویلیاں ہزارہ:(ج_۱۰)۵۹۴۴

سلطان پور(ضلع جالندھر):(ج_۱)۲۳۹۷، (ج_۶)۳۹۰۰

سلمانیہ:(ج_۱۰)۵۸۸۲

سلیمان زئی:(ج_۶)۳۷۲۳، (ج_۱۰)۵۹۵۳

سلیمانیہ:(ج_۴)۲۵۰۸، ۲۵۱۰، (ج_۶)۳۹۱۷

سماں:۲۵۶، (ج_۴)۲۲۴۸، ۲۲۶۱، (ج_۸)۴۸۶۶

سماٹر:(ج_۶)۳۷۵۱

سمرقند:(ج_۱)۷۸، ۸۸، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۳۰۹، ۳۱۷، ۳۷۲، ۳۷۹، ۴۲۴، (ج_۳)۱۳۹۱، (ج_۴)۲۲۸۶، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۶۳، ۲۳۶۵، (ج_۵)۲۶۹۲، ۲۶۹۵، ۲۹۱۰، (ج_۶) ۳۳۱۴، ۳۵۴۴، ۳۷۶۳، ۳۸۹۱، ۳۹۰۴، (ج_۷) ۴۱۸۸، ۴۲۰۰، (ج_۸)۴۵۱۳، ۴۵۲۲، ۴۶۱۶، ۴۸۳۲، ۴۸۶۶، ۴۹۴۶، (ج_۹) ۵۳۱۲، ۵۵۱۴، ۵۵۱۷، ۵۵۳۷، (ج_۱۰)۵۷۸۸، ۵۸۶۳

سمندری: (ج_۱۰) ۶۳۴۲

سنام: (ج_۹) ۵۰۲۱_۵۰۲۲

سنانوان: (ج_۱۰) ۶۰۶۷

سنبھالکہ (ج_۸) ۴۶۱۳

سنبھل: (ن_۱) ۳۰۵، (ن_۳) ۲۳۸۶، (ج_۱۰) ۵۹۲۵

سنجاوی (ن_۶) ۳۷۶۰

سندھ (ن_۲) ۵۰۳، ۸۲۷، (ن_۳) ۲۰۳۵ _ ۲۰۳۸، ۲۰۶۲ _
۲۰۶۳، ۲۰۸۲ _ ۲۰۸۳، ۲۲۱۹، ۲۲۳۹، ۲۲۹۰، ۲۳۱۲، ۲۳۱۵ _
۲۳۱۷، ۲۳۱۹ _ ۲۳۲۱، ۲۳۲۳ _ ۲۳۲۵، ۲۳۲۷ _ ۲۳۲۸، ۲۳۳۰،
۲۳۳۱، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹،
۲۳۴۲ _ ۲۳۴۶، ۲۳۴۸ _ ۲۳۵۱، ۲۴۳۳، ۲۴۴۳، (ن_۵)
۲۵۳۶، ۲۵۹۸، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۲۰، ۲۶۹۲ _
۲۶۹۳، ۲۷۰۱، ۲۷۳۸، ۲۸۰۵، ۲۸۱۵، ۲۸۱۷ _ ۲۸۱۸، ۲۸۴۳،
۲۸۸۳، ۳۱۱۰، ۳۱۱۹، (ن_۶) ۳۳۵۹، ۳۳۷۰ _ ۳۳۷۱، ۳۳۹۶،
۳۴۱۵ _ ۳۴۱۸، ۳۴۲۰ _ ۳۴۲۱، ۳۴۲۳ _ ۳۴۲۵، ۳۴۳۰،
۳۴۳۵، ۳۴۴۰، ۳۴۴۵، ۳۴۴۷، ۳۴۴۹ _ ۳۴۵۳، ۳۴۵۵،
۳۴۶۱ _ ۳۴۶۳، ۳۴۶۷ _ ۳۴۶۹، ۳۴۷۱ _ ۳۴۷۳، ۳۴۷۷،
۳۴۸۵ _ ۳۴۸۷، ۳۴۸۹، ۳۴۹۵ _ ۳۴۹۶، ۳۵۰۱، ۳۵۱۱ _
۳۵۱۵، ۳۵۲۵، ۳۵۳۰، ۳۵۳۲ _ ۳۵۳۳، ۳۵۳۶، ۳۵۳۹،
۳۵۵۵ _ ۳۵۵۶، ۳۵۵۸، ۳۵۶۱ _ ۳۵۶۲، ۳۵۶۴، ۳۵۶۶،
۳۵۶۹، ۳۵۷۱ _ ۳۵۷۳، ۳۵۷۸ _ ۳۵۷۹، ۳۵۸۱، ۳۵۸۶،
۳۵۸۸، ۳۵۹۸، ۳۶۰۰، ۳۶۰۲، ۳۶۰۵، ۳۶۰۹ _ ۳۶۱۱،
۳۶۱۳ _ ۳۶۱۵، ۳۶۱۷، ۳۶۲۰، ۳۶۲۳، ۳۶۲۶، ۳۶۲۹،
۳۶۳۵، ۳۶۳۹، ۳۶۴۳، ۳۶۴۶، ۳۶۵۱ _ ۳۶۵۲، ۳۶۵۵،
۳۶۵۷، ۳۶۶۰، ۳۶۶۲ _ ۳۶۶۷، ۳۶۶۹ _ ۳۶۷۱، ۳۶۷۸ _
۳۶۷۹، ۳۶۸۲ _ ۳۶۸۶، ۳۶۹۷ _ ۳۷۰۰، ۳۷۰۳ _ ۳۷۰۸،
۳۷۳۳ _ ۳۷۳۵، ۳۷۳۸، ۳۷۹۰، ۳۷۹۳، ۳۸۱۳، ۳۸۲۲،
۳۸۴۰، ۳۸۶۸، ۳۹۰۶، ۳۹۱۵، ۳۹۳۰ _ ۳۹۳۱، ۳۹۵۰،
۳۹۶۰، (ج_۷) ۴۰۱۰، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۵۰۵، ۴۹۰۶،
(ج_۹) ۵۰۰۶، ۵۰۱۳، ۵۰۹۳، ۵۲۰۷، ۵۲۵۵،
۵۵۷۱ _ ۵۵۷۴، ۵۶۱۶، ۵۶۳۳ _ ۵۶۴۴، ۵۶۹۵،
۵۸۲۲، ۵۸۹۰، ۵۹۰۹، ۵۹۲۵، ۵۹۳۵، ۵۹۴۶،
۵۹۵۱، ۶۰۱۸، ۶۰۲۰، ۶۰۳۳، ۶۰۴۳، ۶۰۵۹، ۶۰۶۲ _
۶۰۶۴، ۶۰۶۷، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۱۱۱، ۶۱۲۷ _ ۶۱۲۹،
۶۱۶۳، ۶۲۲۶، ۶۲۳۵، ۶۲۷۳ _ ۶۲۷۵، ۶۲۸۸،
۶۳۱۷، ۶۳۲۶، ۶۳۲۹، ۶۳۳۳، ۶۳۳۶، ۶۳۴۱،
۶۳۵۱، ۶۳۵۶، ۶۳۷۸، ۶۴۲۲، ۶۴۲۴، ۶۴۲۸

سنگاپور: (ن_۶) ۳۲۰۴، ۳۲۵۱

سنورای: (ن_۱) ۴۰۴

سوات نیر (ج_۱۰) ۵۹۸۷

سوات: (ن_۶) ۳۳۲۵، ۳۸۰۳_۳۸۰۴، ۳۸۵۴، ۳۸۵۹،
۳۸۶۵_۳۸۶۶، ۳۸۹۰_۳۸۹۱، (ج_۸) ۴۶۱۷، ۴۸۵۰،
(ج_۱۰) ۵۸۸۴، ۶۴۱۳

سواگ شریف: (ج_۶) ۳۷۹۵، (ج_۹) ۵۵۸۳،
(ج_۱۰) ۵۵۹۳، ۵۸۹۷، ۵۹۰۲، ۵۹۵۸

سوالک: (ن_۳) ۲۰۳۸

سوالہ: (ج_۱۰) ۵۹۲۹

سوئزرلینڈ: (ن_۵) ۲۹۳۸

سوخار: (ن_۳) ۲۲۶۱، (ج_۷) ۴۰۹۴، ۴۰۹۹، (ج_۸)
۴۸۶۶

سوخاریہ: (ن_۳) ۲۲۴۹

سوڈان: (ن_۶) ۳۷۴۷

سورت: (ن_۶) ۳۲۰۵، ۳۵۵۳، ۳۶۵۲، (ج_۸) ۴۵۷۸،

(ج_۱۰)۵۶۴۷، ۵۷۵۶_۵۷۵۷، ۵۸۰۵، ۶۰۵۶

سومنات: (ج_۴)۲۰۴۷، ۲۰۶۳

سون سَیکسر: (ج_۶)۳۸۵۴، ۳۹۲۱، (ج_۱۰)۵۹۴۳

سوئیز (مصر): (ج_۶)۳۲۰۶

سوبان: (ج_۱۰)۵۹۲۵، ۵۹۴۱

سوباوو: (ج_۲)۱۲۴۴، (ج_۱۰)۶۰۰۳

سویڈن: (ج_۶)۳۲۷۱

سہارن پور: (ج_۲)۷۳۲، ۲۳۴۳، ۲۳۹۱، ۲۳۹۶، (ج_۵)۲۷۳۶، (ج_۶)۳۷۸۵، ۳۷۸۹، ۳۷۹۳، ۳۸۵۱، ۳۸۵۳، ۳۹۴۸، (ج_۸)۴۸۶۷، (ج_)۵۰۲۴، ۵۱۲۶، ۵۵۱۸، (ج_۱۰)۵۶۸۴، ۵۸۶۷، ۶۰۵۶

سہال: (ج_۱۰)۶۰۰۲

سہالن: (ج_۶)۳۷۱۵

سہرند: (ج_۷)۴۱۷۰

سہسوان: (ج_۶)۳۴۴۵

سہون: (ج_۶)۳۲۶۰، ۳۴۱۶، ۳۴۴۵، ۳۴۵۰_۳۴۵۱، ۳۴۷۸، ۳۵۱۳، ۳۵۱۵_۳۵۱۶، ۳۵۲۰، ۳۶۲۰، ۳۶۷۱، ۳۶۹۶_۳۶۹۷، (ج_۱۰)۵۹۲۵، ۶۱۲۸

سہوہ شریف: (ج_۶)۳۷۶۹

سھاگ شریف: (ج_۱۰)۵۹۵۷

سیاچین: (ج_۱)۱۸۷

سیالکوٹ: (ج_۲)۴۹۵، ۷۶۸، ۷۷۵، ۹۹۸، ۱۲۴۴، (ج_۴)۱۹۵۱، ۲۲۴۰_۲۲۴۱، ۲۲۵۴، ۲۲۶۴، ۲۲۶۹، (ج_۵)۲۵۶۰، ۲۵۷۶_۲۵۷۷، ۲۵۸۰، ۲۶۶۹، ۲۷۲۷_۲۷۲۸، ۲۷۵۸، ۲۸۷۱، ۲۸۹۱، ۲۸۹۶، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، (ج_۶)۳۳۹۳، ۳۵۷۴، ۳۵۹۵، ۳۶۰۱، ۳۶۲۷، ۳۷۰۷، ۳۷۸۰، ۳۷۸۸، ۳۸۰۰_۳۸۰۲، ۳۸۲۴، ۳۹۴۴، ۳۹۶۵، ۳۹۶۸_۳۹۶۹، ۳۹۷۱، (ج_۷)۴۰۶۱، ۴۲۲۰، ۴۲۳۲، ۴۳۵۱، ۴۴۷۳، (ج_۸)۴۵۱۲، ۴۸۴۳، ۴۸۶۹، ۴۸۹۰_۴۸۹۱، ۴۹۴۶، (ج_۹)۵۰۲۲، ۵۰۲۹، ۵۰۴۳، ۵۰۶۶، ۵۱۲۱، ۵۴۷۱، ۵۵۱۴، (ج_۱۰)۵۶۹۴، ۵۶۹۶، ۵۸۰۶_۵۸۰۷، ۵۸۰۹_۵۸۱۱، ۵۸۷۷، ۵۸۸۵، ۵۹۲۴، ۵۹۳۷_۵۹۴۰، ۵۹۸۵_۵۹۸۶، ۵۹۹۰، ۶۰۰۱، ۶۰۸۴، ۶۰۸۶_۶۰۸۹، ۶۱۰۱، ۶۲۴۲، ۶۲۴۴، ۶۲۷۳_۶۲۷۵، ۶۳۰۵، ۶۳۲۳_۶۳۳۵، ۶۳۵۶، ۶۳۷۰

سیٹھارجہ: (ج_۱۰)۶۰۵۷، ۶۰۶۸

سیداشریف: (ج_۱۰)۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳

سیداں والا: (ج_۶)۳۸۹۵

سیستان: (ج_۴)۲۰۵۰، ۲۰۴۵_۲۰۴۶، ۲۰۶۲، (ج_۶)۳۶۵۱، (ج_۷)۴۰۵۳

ش

شاپسین: (ج_۸)۴۶۲۷

شاپوکلی: (ج_۶)۳۶۶۶

شاچین: (ج_۱۰)۶۴۱۳

شادی خیل: (ج_۶)۳۸۷۹

شادیوال: (ج_۸)۴۵۵۷

شام: (ج_۲)۷۲۸، ۷۸۴، (ج_۴)۲۲۱۱، ۲۲۸۶، ۲۵۱۴، (ج_۵)۲۶۴۵، ۲۶۶۶_۲۶۶۷، ۲۶۷۴_۲۶۷۶، ۲۶۸۲_۲۶۸۳، ۲۶۸۵، ۲۶۸۸، ۲۶۹۶، ۲۷۶۲، ۲۸۲۷، ۲۸۵۶، (ج_۶)۳۲۰۸، ۳۲۲۵_۳۲۲۷، ۳۲۳۰، ۳۲۳۲_۳۲۴۰، ۳۲۴۵، ۳۲۴۹، ۳۲۵۱، ۳۲۶۴، ۳۵۲۶، ۳۶۰۳، ۳۷۵۷، ۳۷۶۰، ۳۹۳۷، (ج_۷)

۳۰۵۳، ۳۲۶۲، (ج_۸) ۳۵۶۰، ۳۵۷۳، ۳۹۰۳،
۳۹۰۶، (ج_۹)۵۱۳۶، ۵۲۶۲، ۵:۷۰، ۵۳۶۹، ۵۳۸۱،
۵۳۱۷، ۵۳۷۰، ۵۵۱۰، ۵۵۳۱، (ج_۱۰) ۵۶۲۶،
۵۶۲۸، ۵۶۳۹، ۵۶۳۵، ۵۷۵۷، ۵۷۵۹_۵۷۶۰،
۵۷۶۹، ۵۷۷۷، ۵۹۵۶، ۵۹۸۸، ۶۳۹۲، ۶۳۹۳_
۶۳۹۵، ۶۳۹۷

شاہ آباد (ج_۱۰)۵۸۷۶

شاہ باداول (ج_۱۰)۵۹۳۱

شاہ بندر: (ن_۶)۳۶۹۶

شاہ پور (ن_۶)۳۷۷۳

شاہ کوٹ (ن_۳)۲۰۳۸

شاہ منصور: (ج_۱۰)۵۸۲۸

شاہ والایت (ن_۶)۳۷۹۵

شاہ ولی قتال (ن_۶)۳۸۵۸_۳۸۵۹

شاہجہان آباد: (ن_۲)۷۶۸، (ن_۳)۲۱۸۱_۲۱۸۲، ۲۲۶۳،
(ج_۱۰)۵۸۷۳، ۵۸۸۷

شاہجہان پور: (ن_۲)۱۳۳۵

شاہدرہ: (ن_۶)۳۷۸۳، ۳۷۸۴

شرقپور شریف: (ن_۳) ۲۰۳۸، (ن_۵) ۲۸۱۵، ۲۸۱۷،
(ن_۶) ۳۵۷۳، ۳۵۹۱، ۳۵۹۳، ۳۷۶۷، ۳۷۷۰، ۳۷۷۵،
۳۷۷۹، ۳۷۸۷، ۳۸۰۰، ۳۹۵۵، ۳۹۶۳، ۳۹۷۳، (ج_۸)
۳۵۷۸_۳۵۷۹، (ج_۱۰) ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۳۳۳،
۶۳۲۷، ۶۳۳۳، ۶۳۳۰، ۶۳۲۵، ۶۳:۸_۶۳۲۹:

شکارپور: (ن_۶)۳۳۱۸، ۳۳۳۵_۳۳۳۶، ۳۳۳۱، ۳۳۳۷،
۳۵۰۰، ۳۵۵۳_۳۵۵۵، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۶۱۰_۳۶۱۱،
۳۶۹۵، ۳۷۰۳، ۳۷۳۳، ۳۷۳۸، (ج_۸) ۳۸۶۸،

(ج_۹)۵۰۰۶، (ج_۱۰)۵۹۵۱

شکاگو: (ج_۱)۳۸، ۶۲

شکرپورہ: (ج_۱۰)۵۸۷۳

شکرگڑھ: (ن_۱)۳۷، (ن_۲)۱۱۹۱، ۱۳۳۳، (ن_۶)۳۹۱۳،
۳۹۷۲، (ج_۱۰) ۶۰۸۲، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸،
۶۰۹۳، ۶۰۹۳، ۶۳۳۵، ۶۳۳۳

شمس آباد: (ن_۵)۲۸۸۲

شملہ (ن_۶)۳۶۳۵

شور: (ج_۱۰)۵۹۵۳

شورکوٹ: (ج_۱۰)۵۹۰۳

شہابدیوال: (ن_۶)۳۹۳۲

شہلال: (ج_۱۰)۵۹۳۰

شیخوپورہ: ۳۷، (ن_۲)۵۱۳، (ن_۳)۱۳۰۷، ۱۸۷۳، (ن_۵)
۲۵۵۸، (ن_۶)۳۷۰۱، ۳۷۶۷، ۳۷۸۵، (ج_۷) ۳۰۱۳،
۳۳۷۸، (ج_۸) ۳۵۷۸، (ج_۱۰) ۵۸۱۰، ۶۳۲۷،
۶۳۳۳، ۶۳۳۰، ۶۳۳۳، ۶۳۲۵، ۶۳۲۸، ۶۳۳۵

شیرگڑھ: (ج_۱۰)۶۳۲۸، ۶۳۳۳

شیراز: (ن_۱)۲۵۵، (ن_۵)۲۸۳۶_۲۸۳۷، ۲۸۵۸

شیراں والہ: (ن_۶)۳۷۸۶

ص

صاحب گنج: (ن_۶)۳۸۷۱

صالحیہ: (ج_۹)۵۲۷۰

صحرائے گوبی: (ن_۶)۳۷۶۲

صعید (مصر): (ن_۶)۳۲۰۷

صفین: (ج_۸)۴۸۲۵

صنعاء: (ج_۶)۳۶۲۱

صوابی: (ج_۶) ۳۸۴۳، (ج_۱۰) ۵۸۶۸، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۸۴، ۵۸۸۹، ۵۸۹۲

صیدالبنان: (ج_۶)۳۲۱۰

صیمور (ضلع قلابہ): (ج_۴)۲۰۴۶

ط

طالش: (ج_۵)۲۶۸۴

طالقان: (ج_۵) ۲۶۴۸، (ج_۹) ۵۱۲۶، (ج_۱۰) ۵۸۸۷

طائف: (ج_۵)۲۶۷۹، ۲۶۸۸، ۲۶۹۱، ۳۰۷۸، (ج_۶) ۳۲۰۶_۳۲۰۷، ۳۵۰۰

طبرستان: (ج_۴)۱۹۸۶

طرابلس: (ج_۵)۲۷۰۲، (ج_۶)۳۲۳۰، ۳۹۶۲

طرویسکی: (ج_۵)۲۶۹۲

طنطا: (ج_۶)۳۲۰۷، ۳۲۰۹

طورو: (ج_۱۰)۵۸۶۹، ۵۸۸۹

طوس: (ج_۱)۲۲۷، (ج_۴)۲۲۴۵، ۲۲۵۸، (ج_۸)۴۵۱۳، ۴۸۶۵_۴۸۶۶، (ج_۹)۵۵۱۶، (ج_۱۰)۵۶۹۵

طولی شریف: (ج_۱۰)۵۸۴۷

ع

عارفاں (قصبہ): (ج_۴)۲۲۴۹

عاشق آباد: (ج_۱۰)۶۰۰۲

عثمان کھٹر: (ج_۱۰) ۵۹۱۳، ۵۹۱۶، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵

عثمان گنج: (ج_۶)۳۷۷۵، ۳۷۸۶

عجم: (ج_۱)۵۳، ۹۲، (ج_۳)۱۲۶۹، ۱۳۴۴، ۱۷۲۹، (ج_۶) ۳۶۲۰

عراق: (ج_۲) ۷۲۸، (ج_۴) ۲۰۰۲، ۲۰۴۶، ۲۰۶۲، ۲۴۸۸، ۲۵۱۴، (ج_۵) ۲۶۴۵، ۲۶۷۵_۲۶۷۶، ۲۶۸۰، ۲۶۸۹، ۲۷۶۲، ۳۰۴۸، (ج_۶)۳۲۱۷، ۳۲۱۹، ۳۲۲۹، ۳۲۶۴، ۳۲۶۶، ۳۲۸۱، ۳۲۸۴، ۳۲۸۶، ۳۵۲۶، ۳۶۰۳، ۳۸۸۳_۳۸۸۴، (ج_۷) ۴۰۵۳، (ج_۸) ۴۸۷۴، (ج_۹) ۵۵۱۰، (ج_۱۰) ۵۶۴۵، ۵۷۷۷، ۵۸۲۸، ۵۸۸۲، ۵۹۵۰، ۵۹۸۸، ۶۴۴۲

عرب: (ج_۴)۱۹۵۱، (ج_۶)۳۲۰۴، ۳۲۱۲، ۳۶۲۰، ۳۷۲۰، ۳۷۳۳، ۳۷۴۷، ۳۷۵۱، ۳۷۵۶، ۳۸۴۷

عربستان: (ج_۴)۲۴۸۸، (ج_۶)۳۳۱۴، ۳۴۲۰، ۳۴۲۳، ۳۶۰۲، (ج_۱۰)۵۸۸۲

عظیم آباد: (ج_۴)۲۴۸۶، (ج_۱۰)۵۸۰۵

عکا: (ج_۶)۳۲۳۵

علی پور سیداں: (ج_۶)۳۷۷۱_۳۷۷۲، ۳۷۷۴، ۳۷۷۹_۳۷۸۰، ۳۸۰۰_۳۸۰۱، (ج_۸) ۴۸۶۹، (ج_۱۰) ۵۸۰۷، ۵۸۱۱، ۵۹۳۹، ۵۹۵۵، ۶۰۸۱_۶۰۸۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۴۳۳

علیگڑھ: ۳۱۵، ۳۶۱، (ج_۳)۱۲۹۷، (ج_۴)۲۰۵۸_۲۰۵۹، (ج_۵)۲۶۷۴، ۲۷۸۹، ۲۷۹۱، ۲۷۹۳، ۲۸۰۹، ۲۸۸۳، ۲۹۱۰، (ج_۶)۳۳۹۲، ۳۴۱۰، ۳۶۸۴_۳۶۸۵، ۳۷۸۱، ۳۹۴۷، (ج_۹)۵۰۰۹، ۵۰۲۱، ۵۰۴۸، ۵۰۵۱، ۵۰۵۳، ۵۰۵۶، ۵۰۶۲، ۵۰۷۳، ۵۰۸۹، ۵۱۲۱، ۵۱۶۱، ۵۱۶۷، ۵۳۷۴،

۵۴۳۵، ۵۵۲۳، ۵۵۸۰۔ ۵۸۱، (ج۔۱۰) ۵۹۶۱،
۵۹۹۹۔۶۰۰۰

عماد نگر: (ج۔۱۰)۵۹۲۸

عیدگاہ شریف: (ن۔۶)۳۶۴۹، ۳۷۷۵، ۳۷۷۹، ۳۷۸۲

عیسیٰ خیل: (ن۔۶)۳۷۹۱۔۳۷۹۲

غ

غازی پورنا ڑا (ن۔۵)۲۸۸۲

غازی پور (ن۔۴)۱۹۶۰

غجدوان (ن۔۴)۲۲۴۶۔۲۲۴۷، ۲۲۵۹، (ج۔۸)۴۸۶۶

غدیوت (ج۔۷)۴۰۹۰۔۴۰۹۱، ۴۰۹۶

غزنہ (ج۔۹)۵۴۷۱، (ج۔۱۰)۵۶۳۵

غزنی (ن۔۳)۱۳۶۵، (ن۔۴)۲۲۶۲، ۲۲۸۶، (ن۔۶)۳۳۳۶،
۳۶۹۷، ۳۸۰۷، ۳۸۱۲، ۳۸۳۳، ۳۸۴۱، ۳۸۴۷، ۳۹۱۶، ۳۹۲۳،
(ج۔۸)۴۵۰۹، (ج۔۹)۵۰۵۷، ۵۳۱۲

غزنین (ن۔۴)۲۰۴۶۔۲۰۴۷، ۲۰۶۳، ۲۰۷۴، ۲۰۴۸

غزہ (ن۔۶)۳۲۰۸، ۳۲۳۰

غندان (ن۔۶)۳۹۱۴

غوشکی: (ن۔۶)۳۷۱۸

غیو (ج۔۱۰)۵۹۵۳

ف

فارس: (ن۔۴)۱۹۵۱، ۲۲۴۴، ۲۲۴۸، (ن۔۵)۳۰۵۰

فارمد: (ن۔۴)۲۲۴۵، ۲۲۵۸

فاریاب: (ج۔۱۰)۵۸۸۸

فتح پور: (ن۔۶) ۳۶۳۳، ۳۶۳۵، ۳۶۴۵، ۳۶۴۷،
(ج۔۱۰)۵۸۷۲، ۵۹۰۸

فتح پور سیکری: (ن۔۴)۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۲۰۵۲، ۲۰۶۵،
۲۳۹۹، ۲۴۰۲، ۲۴۰۶، (ن۔۵) ۲۵۶۲، (ج۔۹) ۵۲۹۶،
(ج۔۱۰)۵۶۴۶

فتح جنگ (ج۔۱۰)۵۹۳۷، ۵۹۴۱، ۵۹۹۷

فتح گڑھ سیکری (ج۔۱۰)۵۷۹۴

فتح گڑھ (سیالکوٹ)۔ (ج۔۷) ۳۹۸۷، ۴۴۷۳،
(ج۔۸)۴۴۸۳، (ج۔۹)۴۹۹۵، (ج۔۱۰)۶۳۷۰

فرانس (ن۔۵)۲۶۸۱، ۲۸۴۲، (ن۔۶)۳۲۳۵، ۳۶۴۱

فراہ (ج۔۱۰)۵۸۴۷۔۵۸۴۹

فرخ: (ن۔۵)۳۰۲۲

فرید آباد: (ن۔۶)۳۸۹۵۔۳۸۹۶

فرید کوٹ: (ن۔۱)۴۰۳

فسطاط: (ن۔۵)۳۰۲۲

فقیر محمد سیداں: (ج۔۱۰)۵۹۵۷

فلپائن: (ن۔۶)۳۲۰۴

فلسطین: (ن۔۲) ۷۲۸، (ن۔۵)۲۶۷۶، ۳۲۰۸، ۳۲۳۵،
۳۳۳۶، ۳۵۹۴، (ج۔۱۰)۵۹۵۰، ۵۶۴۵

فورٹ سنڈیمن: (ج۔۱۰)۵۹۵۲

فوہ: (ن۔۶)۳۲۰۷

فیروز آباد: (ن۔۴)۱۹۸۳، ۲۴۴۳، (ن۔۵)۲۷۳۷، (ن۔۶)
۳۳۴۷، (ج۔۷)۴۱۳۶

فیروز پور: (ن۔۶)۳۷۸۹، (ج۔۱۰)۶۰۷۵، ۶۰۷۷

فیصل آباد: (ن۔۲) ۷۳۳، ۱۲۴۷، (ن۔۵)۲۷۰۱، (ن۔۶)

۳۴۹۵، ۳۶۵۰، ۳۷۹۳_۳۷۹۴، ۳۷۹۸، ۳۸۰۹، ۳۹۴۳، ۳۹۴۹، (ج_۸) ۴۸۶۹_۴۸۷۰، ۴۸۷۳، (ج_۱۰) ۵۸۹۴، ۵۹۰۲، ۵۹۱۸، ۵۹۲۵، ۵۹۴۷، ۵۹۶۵، ۶۰۵۶، ۶۴۴۲، ۶۴۴۳

فیض آباد: (ج_۶) ۳۷۴۷، ۹۳۔ ۲_ ۳۷۹۴، (ج_۱۰) ۵۹۲۵

ق

قادیان: (ج_۱۰) ۶۰۴۱

قازان: (ج_۱) ۸۸، ۲۴۸، (ج_۵) ۲۶۹۱_۲۶۹۲

قاشقار: (ج_۶) ۳۸۶۶

قاضی احمد: (ج_۶) ۳۴۷۷_۳۴۷۸، ۳۴۸۷

قاہرہ: (ج_۱) ۱۰۷، (ج_۲) ۷۳۲، (ج_۴) ۲۰۴۷، (ج_۵) ۲۶۷۴_۲۶۷۷، ۲۶۸۴، ۲۶۸۷، ۲۶۸۸، ۲۷۰۰، ۲۸۵۷، ۲۸۵۹، ۲۹۰۷، ۲۹۴۳، (ج_۶) ۳۲۰۱، ۳۲۰۵_۳۲۰۸، ۳۲۱۰_۳۲۱۳، ۳۲۱۶، ۳۲۳۱، ۳۵۵۹، ۳۹۴۵_۳۹۴۶، ۳۹۵۶، ۳۹۶۱_۳۹۶۲، (ج_۹) ۵۱۵۶

قبرص: (ج_۶) ۳۲۰۹، ۳۲۴۵_۳۲۴۶

قیچان: (ج_۸) ۴۵۵۹

قریشی: (ج_۱۰) ۶۰۵۶

قریہ گزر: (ج_۱۰) ۵۸۷۲

قزوین: (ج_۱) ۲۵۵

قسطنطنیہ: (ج_۱) ۲۴۸، (ج_۷) ۴۰۶۱

قصبہ چوہان: (ج_۶) ۳۹۱۹

قصر عارفاں: (ج_۱) ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، _۲۲۷، ۲۲۸، (ج_۴) ۲۲۶۲، (ج_۶) ۳۷۶۳، ۳۷۷۶. (ج_۷) ۴۰۵۴_۴۰۵۵، ۴۰۹۱، ۴۰۹۵، ۴۰۹۷، (ج_۸) ۴۸۶۶، (ج_۹) ۵۲۱۸

قصور: (ج_۱) ۴۰، (ج_۶) ۳۶۲۷، ۳۶۳۰، ۳۷۶۸، ۳۷۷۳، ۳۷۷۹، ۳۷۸۳_۳۷۸۵، ۳۷۹۴، ۳۷۹۸_۳۸۰۰، (ج_۸) ۴۸۶۸_۴۸۶۹، (ج_۱۰) ۶۰۳۳_۶۰۳۴، ۶۰۳۶_۶۰۳۸، ۶۰۴۰

قطبال: (ج_۱۰) ۵۹۴۵، ۵۹۴۷

قفقازات: (ج_۱) ۸۸، ۲۴۸

قلات: (ج_۶) ۳۵۰۰، ۳۷۲۵، ۳۷۳۸، ۳۹۱۷، (ج_۱۰) ۵۹۵۱، ۵۰۵۶

قلعہ سیّداں (افغانستان): (ج_۶) ۳۷۹۳

قلعہ عبداللہ: (ج_۶) ۳۷۱۴

قلعہ لال سنگھ: (ج_۶) ۳۷۸۵

قلندر آباد: (ج_۱۰) ۵۸۹۲

قمر شریف: (ج_۶) ۳۶۹۶

قندھار: (ج_۱) ۲۸۰، (ج_۳) ۱۸۴۸، (ج_۴) ۲۱۸۴، ۲۲۰۰، ۲۴۱۹، ۲۴۸۶، (ج_۵) ۲۵۵۵، ۲۶۴۶، ۲۸۹۸، (ج_۶) ۳۴۱۹_۳۴۲۰، ۳۴۲۲_۳۴۲۳، ۳۴۳۵، ۳۴۹۷، ۳۴۹۹_۳۵۰۰، ۳۵۳۶، ۳۵۵۵، ۳۵۵۸، ۳۵۹۷، ۳۶۰۸، ۳۶۱۵، ۳۷۰۴، ۳۷۱۳_۳۷۱۶، ۳۷۲۰، ۳۷۲۳_۳۷۲۶، ۳۷۳۰_۳۷۳۲، ۳۷۴۷، ۳۷۶۰، ۳۷۶۸، ۳۷۹۳، ۳۸۳۲، ۳۸۳۴، ۳۸۴۷، ۳۸۶۸، ۳۸۷۷، ۳۸۹۱، ۳۹۱۰، ۳۹۱۴، ۳۹۱۶، ۳۹۱۸، (ج_۸) ۴۵۵۵، (ج_۹) ۵۳۱۲، ۵۵۳۴، (ج_۱۰) ۵۶۴۴، ۵۸۸۱_۵۸۸۲، ۵۹۵۰، ۵۹۵۳، ۵۹۵۶، ۶۰۵۶

ک

کابل: (ج_۱) ۳۲، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۸،
۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۶۶، ۳۹۷، ۴۰۱، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۲۲،
(ج_۳) ۱۳۶۵، ۱۳۸۹، (ج_۴) ۲۰۳۰ ۲۰۴۶، ۲۰۶۳، ۲۱۴۶،
۲۱۸۴، ۲۲۶۳، ۲۲۹۳، ۲۳۱۹، ۲۳۸۶، ۲۵۰۳، (ج_۵) ۲۵۶۰،
۲۶۶۸، ۲۶۹۲، ۲۸۰۷، ۲۸۱۱، ۲۸۱۸، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۳۳۵،
۳۳۳۶، ۳۳۳۸، ۳۳۴۲_۳۳۴۴، ۳۴۱۸، ۳۴۴۶، ۳۵۴۳_
۳۵۴۴، ۳۵۷۴، ۳۶۲۳، ۳۷۶۴، ۳۸۲۷_۳۸۲۸، ۳۸۳۲،
۳۸۴۷، ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، ۳۸۴۷، ۳۸۵۱، ۳۸۶۱، ۳۸۶۸،
۳۸۷۷، ۳۸۹۳، ۳۸۹۸، ۳۹۱۶ (ج_۷) ۴۰۱۰، ۴۰۵۴،
۴۰۶۱، ۴۰۸۹، ۴۱۶۹_۴۱۷۰، ۴۱۸۵، ۴۲۲۲، (ج_۸)
۴۵۰۱، ۴۵۰۹، ۴۵۶۲، ۴۸۳۲، ۴۸۶۹_۴۸۷۰، (ج_۹)
۵۰۱۳، ۵۰۲۱، ۵۰۹۴_۵۰۹۵، ۵۱۲۴، ۵۱۴۷، ۵۱۵۶،
۵۱۸۷، ۵۲۲۶، ۵۳۱۲، ۵۳۲۹ _ ۵۳۳۰، ۵۳۷۰،
۵۳۷۰ _ ۵۳۷۱، ۵۳۸۳، ۵۵۲۷، ۵۵۵۱، ۵۵۵۶،
(ج_۱۰) ۵۶۱۶، ۵۶۲۷، ۵۶۳۵، ۵۶۴۴، ۵۶۸۷،
۵۸۰۰، ۵۸۴۹، ۵۸۷۰_۵۸۷۳، ۵۸۷۵، ۵۸۷۹،
۵۸۸۱_۵۸۸۲، ۵۸۸۹، ۵۹۱۳، ۵۹۳۳، ۵۹۴۷،
۵۹۵۹، ۵۹۹۷، ۶۱۲۵، ۶۱۲۸

کاٹھیاواڑ: (ج_۶) ۳۳۳۷، ۳۴۴۲، ۳۵۶۶، ۳۵۷۰، (ج_۸)
۴۵۷۳، (ج_۹) ۵۵۷۳

کاث: (ج_۱۰) ۵۹۳۷

کاچھاوابن: (ج_۶) ۳۶۹۶

کازکستان: (ج_۱۰) ۵۷۹۶

کاشغر: (ج_۱) ۸۸، (ج_۲) ۵۱۰، ۷۸۴، (ج_۴) ۱۹۸۶،
(ج_۸) ۴۵۶۰، (ج_۹) ۵۰۲۴، ۵۱۲۶، ۵۵۳۱،
(ج_۱۰) ۵۷۶۹، ۵۸۷۷

کاشہ: (ج_۱۰) ۵۹۹۷

کاکشال: (ج_۶) ۳۸۴۲

کالاباغ: (ج_۴) ۲۴۵۹، (ج_۱۰) ۶۰۴۳_۶۰۴۴

کالادیو: (ج_۶) ۳۸۱۶_۳۸۱۷، ۳۸۲۱، ۳۸۲۳

کالس: (ج_۵) ۲۷۲۵

کالو: (ج_۱۰) ۵۸۷۶

کالوخورد: (ج_۱۰) ۵۹۳۳

کالوکوٹھ: (ج_۱۰) ۵۹۳۳

کامہ: (ج_۱۰) ۵۸۸۹، ۵۸۹۱

کان پور: (ج_۱) ۵۴، ۱۲۹، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۴۰، (ج_۲)
۱۲۲۹، (ج_۳) ۱۲۹۷ _۱۲۹۸، ۱۷۲۲، (ج_۴) ۲۲۸۱، ۲۲۲۳،
۲۲۳۲، ۲۲۴۴، ۲۲۵۵، ۲۲۸۶، (ج_۵) ۲۵۷۴، ۲۵۷۸، ۲۵۸۱،
۲۶۴۹ _۲۶۵۰، ۲۷۲۵، ۲۷۳۸، ۲۷۹۳، (ج_۶) ۳۵۲۴،
۳۶۰۳، ۳۹۵۱، (ج_۷) ۴۲۳۲، (ج_۸) ۴۸۶۱،
۴۸۶۳_۴۸۶۴، ۴۹۰۹، (ج_۹) ۵۰۳۹ _۵۰۴۰،
۵۰۴۸ _۵۰۴۹، ۵۰۷۰، ۵۱۱۹، ۵۴۲۳، (ج_۱۰)
۵۶۳۲، ۵۶۹۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۷، ۵۸۹۰، ۵۹۵۹،
۶۱۳۳، ۶۲۴۳

کان گڑھ: (ج_۴) ۱۹۷۰، ۱۹۷۶، ۲۰۵۴

کانڈل: (ج_۶) ۳۷۴۷

کانشیاں: (ج_۱۰) ۵۸۸۴

کانک: (ج_۱۰) ۵۹۵۸

کانگڑہ: (ج_۹) ۵۳۶۶، ۵۳۶۸، ۵۳۸۹، ۵۴۰۷،
۵۴۱۹، ۵۵۴۶، (ج_۱۰) ۵۶۴۵، ۵۶۵۱

کاہنہ نو: (ج_۶) ۳۷۸۷

کاھی کنڈ: (ج۔۶)۳۴۸۵

کپورتھلا: (ج۔۱)۴۰۴

کچی (قندھار) (ج۔۶)۳۷۲۵

کچھ: (ج۔۶)۳۴۵۲

کدیزائی: (ج۔۶)۳۷۱۸

کڈ بالہ (مجاہدآباد) (ج۔۲)۴۸۳، (ج۔۴)۱۸۹۱، (ج۔۵) ۲۵۳۱، (ج۔۷) ۳۹۸۷، (ج۔۸) ۴۴۸۳(ج۔۹) ۴۹۹۵، (ج۔۱۰)۵۵۸۷

کڈاریو: (ج۔۶)۳۶۹۶

کرنیغال: (ج۔۱۰)۵۹۹۶

کراچی: (ج۔۱)۲، ۳، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۲، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۴، ۷۶، ۸۹، ۹۰، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۰، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۸۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۵۳، ۲۶۱، ۲۶۴، (ج۔۲) ۴۸۲_۴۸۳، ۵۰۳، ۵۱۱، ۷۱۴، ۷۲۹، ۷۳۱_۷۳۵، ۷۵۲، ۷۷۱، ۸۵۴، ۹۰۸، ۹۳۲، ۹۵۵، ۹۹۸، ۱۰۱۴، ۱۰۳۰_۱۰۳۲، ۱۰۳۷، ۱۰۹۲_۱۰۹۳، ۱۱۵۸، ۱۱۷۷، ۱۲۳۱، ۱۲۶۰_۱۲۶۳، (ج۔۳) ۱۲۶۷، ۱۲۸۴، ۱۲۹۸، ۱۳۶۵، ۱۳۶۷، ۱۴۰۷، ۱۵۰۱، ۱۶۵۷، ۱۷۲۲_۱۷۲۳، ۱۸۰۹، ۱۸۶۸، ۱۸۷۳_۱۸۷۴، (ج۔۴) ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۹۰۹، ۱۹۱۴_۱۹۱۵، ۲۰۵۷، ۲۲۱۴، ۲۲۱۷، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳_۲۲۲۴، ۲۲۹۰، ۲۲۹۵، ۲۳۰۱، ۲۳۰۶، ۲۳۰۸، ۲۳۱۱، ۲۴۰۲، ۲۴۱۱، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۷، ۲۴۵۴، ۲۴۵۶، ۲۴۷۴، ۲۴۹۲، ۲۵۱۳_۲۵۱۴، (ج۔۵) ۲۵۳۰_۲۵۳۱، ۲۵۵۳، ۲۵۷۴_۲۵۷۷، ۲۵۷۹_۲۵۸۱، ۲۵۹۷_۲۵۹۸، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۱۴، ۲۶۲۰، ۲۶۲۹_۲۶۳۰، ۲۶۴۶، ۲۶۴۹_۲۶۵۰، ۲۶۷۳، ۲۶۷۷، ۲۶۸۱، ۲۶۸۴، ۲۶۹۲، ۲۶۹۶، ۲۷۰۱، ۲۷۰۴، ۲۷۲۲، ۲۷۲۴، ۲۷۲۶، ۲۷۳۲، ۲۸۱۷_۲۸۱۸، ۲۸۴۲_۲۸۴۳، ۲۸۷۱، ۲۸۸۳، ۲۸۹۴_۲۸۹۵_۲۸۹۷، ۲۹۰۶_۲۹۰۷، ۲۹۱۰_۲۹۱۴، ۲۹۳۳_۲۹۳۵، ۳۰۰۷_۳۰۰۸، ۳۰۱۰_۳۰۱۱، ۳۰۱۳_۳۰۱۴، ۳۰۳۹_۳۰۴۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۷، ۳۱۰۹_۳۱۱۰، (ج۔۶) ۳۲۰۴، ۳۲۳۷، ۳۳۳۹، ۳۳۵۱، ۳۳۶۱، ۳۳۶۵، ۳۳۷۶، ۳۳۸۵_۳۳۸۶، ۳۳۹۲_۳۳۹۵، ۳۴۳۹، ۳۴۴۵، ۳۴۴۷_۳۴۴۸، ۳۴۶۲، ۳۴۹۳، ۳۵۰۰، ۳۵۳۲، ۳۵۳۴، ۳۵۴۴، ۳۵۵۳_۳۵۵۴، ۳۵۹۲، ۳۶۰۱، ۳۶۱۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۷، ۳۶۴۰، ۳۶۴۳_۳۶۵۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۷، ۳۶۶۹، ۳۶۷۱_۳۶۷۲، ۳۶۷۵_۳۶۷۶، ۳۶۸۵_۳۶۸۶، ۳۶۹۱، ۳۶۹۷، ۳۶۹۹_۳۷۰۲، ۳۷۰۵_۳۷۰۸، ۳۷۲۹، ۳۷۴۰، ۳۷۵۷، ۳۷۶۱، ۳۷۹۹، ۳۸۲۷، ۳۸۵۲، ۳۸۵۴، ۳۸۵۶، ۳۸۷۰، ۳۹۰۶، ۳۹۲۴، ۳۹۳۸_۳۹۳۹، ۳۹۴۱_۳۹۴۳، ۳۹۴۶، ۳۹۴۸_۳۹۵۳، ۳۹۵۷، ۳۹۶۰، ۳۹۶۴_۳۹۶۵، ۳۹۶۷_۳۹۷۳، (ج۔۷) ۳۹۸۵_۳۹۸۷، ۴۰۰۷، ۴۰۱۰، ۴۰۶۳، ۴۰۸۵، ۴۱۶۳، ۴۱۶۵، ۴۱۶۷، ۴۲۲۰_۴۲۲۱، ۴۲۳۰، ۴۲۳۲، ۴۲۳۵، ۴۲۷۸، ۴۳۲۴، ۴۳۲۷، ۴۳۳۸، ۴۳۴۳، ۴۳۵۵، ۴۳۶۲، ۴۳۹۵، ۴۴۳۴، ۴۴۴۶، ۴۴۵۱، (ج۔۸) ۴۴۸۱_۴۴۸۳، ۴۵۰۲، ۴۵۷۶_۴۵۷۷_۴۵۷۹، ۴۵۹۹_۴۶۰۰، ۴۶۱۶_۴۶۱۷، ۴۶۵۴، ۴۶۵۹، ۴۶۷۹_۴۶۸۰، ۴۸۰۸، ۴۸۳۳، ۴۸۴۰، ۴۸۵۳، ۴۸۶۱_۴۸۶۴، ۴۸۷۰، ۴۸۹۸_۴۸۹۹، ۴۹۰۷، ۴۹۱۱، ۴۹۲۵، ۴۹۳۵، ۴۹۴۵_۴۹۴۶، (ج۔۹) ۴۹۹۳_۴۹۹۵، ۵۰۱۱، ۵۰۱۴، ۵۰۱۷، ۵۰۲۸، ۵۰۳۹، ۵۰۴۸، ۵۰۶۵، ۵۰۶۹_۵۰۷۰، ۵۰۸۷، ۵۱۵۵، ۵۱۸۳، ۵۳۱۹، ۵۵۷۴، ۵۵۷۶_۵۵۷۸، (ج۔۱۰) ۵۵۸۵_۵۵۸۷، ۵۶۱۳، ۵۶۱۷، ۵۶۲۱، ۵۶۳۰_۵۶۳۳، ۵۶۶۹_۵۶۷۱، ۵۶۸۷، ۵۶۹۴_۵۶۹۶، ۵۷۵۹،

۵۷۶۲ _ ۵۷۶۳، ۵۸۰۸، ۵۸۱۰ _ ۵۸۱۱، ۵۸۴۷، ۵۸۸۵، ۵۸۹۳؛ ۵۸۹۵، ۵۹۰۸، ۵۹۲۳، ۵۹۲۶، ۵۹۳۳، ۵۹۳۶ _ ۵۹۳۷، ۵۹۵۶، ۵۹۵۹، ۵۹۷۴، ۶۰۱۸، ۶۰۳۰ _ ۶۰۳۱، ۶۰۳۵، ۶۰۵۷، ۶۰۷۸، ۶۰۸۴، ۶۱۰۳ _ ۶۱۰۵، ۶۱۱۰، ۶۱۱۲، ۶۱۲۶ _ ۶۱۲۷، ۶۱۵۴، ۶۱۵۷، ۶۱۶۳، ۶۲۱۵ _ ۶۲۱۸، ۶۲۲۲، ۶۲۲۶، ۶۲۳۷، ۶۲۴۳ _ ۶۲۴۵، ۶۲۷۳ _ ۶۲۷۵، ۶۳۰۲ _ ۶۳۰۳، ۶۳۱۳ _ ۶۳۱۵، ۶۳۱۷ _ ۶۳۱۸، ۶۳۲۰، ۶۳۲۶، ۶۳۲۹ _ ۶۳۳۰، ۶۳۳۲ _ ۶۳۳۳، ۶۳۳۶، ۶۳۴۱ _ ۶۳۴۸، ۶۳۵۲، ۶۳۵۶، ۶۳۵۹ _ ۶۳۶۱، ۶۳۶۳ _ ۶۳۶۹، ۶۳۷۲ _ ۶۳۷۳، ۶۳۷۸ _ ۶۳۷۹، ۶۳۹۹، ۶۴۲۲، ۶۴۲۴، ۶۴۲۸، ۶۴۳۰، ۶۴۳۹، ۶۴۹۰، ۶۴۹۲

کرانی: (ن_۶)۳۷۲۹

کربلا: (ن_۲) ۷۸۸، (ن_۶) ۳۷۰۶، ۳۷۶۰، ۳۸۳۳، ۳۸۸۴

کرتارپور: (ن_۱)۴۰۳

کردستان: (ن_۴) ۲۳۸۸، ۲۵۰۶، ۲۵۱۰، (ن_۵) ۲۷۶۲، ۳۱۱۸، (ن_۶) ۳۲۶۳ _ ۳۲۶۷، ۳۲۷۵ _ ۳۲۷۹، ۳۲۸۱ _ ۳۲۸۲، ۳۲۸۴ _ ۳۲۸۵، ۳۲۸۹، ۳۹۱۷، (ج_۷) ۴۰۱۰، (ج_۸) ۴۵۰۱، (ج_۹) ۵۰۱۳، (ج_۱۰) ۵۶۱۶، ۶۳۹۳

کرم پور: (ن_۶)۳۶۹۶

کرمال: (ج_۱۰)۵۹۴۱

کرمان: (ن_۵)۲۸۴۶_۲۸۴۷

کرمانوالہ: (ن_۶) ۳۷۸۹، ۳۷۹۱، (ج_۱۰) ۶۰۷۵، ۶۰۷۷_۶۰۷۸، ۶۴۳۹

کرنال: (ن_۶)۳۷۹۶

کروڑ: (ج_۱۰)۵۶۴۴، ۵۸۹۸، ۵۹۰۲، ۶۰۳۰

کروڑ لعل حسین: (ن_۶)۳۷۹۵، (ج_۱۰)۵۸۹۷، ۵۹۰۲

کریم پور: (ن_۶)۳۵۱۶

کڑتوبہ: (ن_۶)۳۷۴۷

کڑیالہ: (ن_۶)۳۷۹۴

کشتواڑ: (ج_۱۰)۵۶۴۵

کشم (علاقہ بدخشاں) (ن_۴) ۲۳۶۸، ۲۳۸۴، (ج_۸) ۴۸۳۳، (ج_۱۰) ۵۷۲۳

کشمیر: (ن_۴) ۲۳۸۶، (ن_۵) ۲۷۳۶، ۲۸۰۶، ۲۸۰۸، ۲۸۱۱، ۳۱۱۹، (ن_۶) ۳۳۳۶ _ ۳۳۳۷، ۳۵۷۴، ۳۶۶۳، ۳۶۸۳، ۳۷۶۵، ۳۷۷۲، ۳۷۸۱، ۳۷۸۳، ۳۷۹۲، ۳۸۰۳ _ ۳۸۰۴، ۳۸۰۸ _ ۳۸۰۹، ۳۸۱۱ _ ۳۸۱۵، ۳۸۲۲، ۳۸۲۴، ۳۸۶۰ _ ۳۸۶۱، ۳۸۶۴، ۳۹۳۱، ۳۹۵۱، (ج_۷) ۴۰۱۰، ۴۰۵۴، (ج_۸) ۴۵۰۱، ۴۹۳۶، (ج_۹) ۵۰۱۳، ۵۰۲۲، ۵۳۶۷، ۵۳۹۴، ۵۴۸۳، ۵۵۸۰، (ج_۱۰) ۵۶۱۶، ۵۶۴۳ _ ۵۶۴۴، ۵۶۶۵، ۵۷۸۸، ۵۸۶۷، ۵۸۷۸، ۵۸۸۴، ۵۸۸۸، ۵۹۱۳، ۵۹۲۵ _ ۵۹۲۷، ۵۹۴۰، ۵۹۵۰، ۵۹۹۸_۵۹۹۹، ۶۰۰۲_۶۰۰۳، ۶۰۳۸

کشن گنج: (بہار)(ن_۶)۳۳۹۲

کلاخان: (ن_۶)۳۸۹۵

کلانور: (ن_۶)۳۷۹۰

کلات نصیر: (ن_۱)۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۶

کلاچی: (ج_۱۰)۵۹۳۶

کلاچی (ضلع ڈیرہ اسماعیل خان): (ن_۶)۳۸۸۵، ۳۹۱۸

کلکتہ: (ن_۳) ۱۲۹۷ _ ۱۲۹۸، ۱۷۲۲، (ن_۴) ۱۹۲۱، ۲۰۳۴، ۲۰۳۶، ۲۳۳۱_۲۳۳۲، ۲۳۳۴، (ن_۵) ۲۵۷۳، ۲۵۷۸، ۲۵۷۹،

۲۷۹۰، ۲۸۱۶، ۳۰۲۶، (ج۔۶) ۳۳۳۷، ۳۳۸۶، ۳۳۹۴، ۳۴۴۱، ۳۸۵۱، ۳۹۴۰، ۳۹۵۳، ۳۹۵۵، (ج۔۹) ۵۰۳۹، ۵۰۴۲، ۵۰۴۸، ۵۱۵۳، ۵۱۵۵، (ج۔۱۰) ۶۲۴۳، ۶۲۹۸
کلہوڑا: (ج۔۶) ۳۵۶۳، ۳۵۷۱
کلی حاجزی: (ج۔۶) ۳۷۲۴
کلی سلیمانزئی: (ج۔۶) ۳۷۴۷
کلیہ: (ج۔۵) ۲۷۹۳
کمال زئی: (ج۔۱۰) ۵۸۷۸
کمالیہ: (ج۔۶) ۳۷۹۴
کمبوہ شریف: (ج۔۱۰) ۵۹۰۳، ۵۹۰۷
کنجاہ شریف: (ج۔۶) ۳۷۹۶
کندی باغ: (ج۔۱۰) ۵۸۸۷
کندیاں: (ج۔۴) ۲۵۰۳، (ج۔۵) ۲۵۹۸، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۷۳۸، ۲۷۴۶، (ج۔۱۰) ۸۹۴، ۶۴۹۰
کنڈھا: (ج۔۶) ۳۴۴۱
کنگری: (ج۔۶) ۳۷۴۲، (ج۔۱۰) ۵۹۵۸
کنیاں کلاں: (ج۔۶) ۳۹۳۱
کواس: (ج۔۶) ۳۷۱۵
کوپن ہیگن: (ج۔۶) ۳۳۰۰
کوٹ تیرھی: (ج۔۱۰) ۵۸۶۸
کوٹ حلیم خان: (ج۔۶) ۳۷۸۴
کوٹ عبدالخالق: (ج۔۶) ۳۷۹۸
کوٹ عثمان خان: (ج۔۶) ۳۷۸۵
کوٹ غلام محمد خاں: (ج۔۶) ۳۷۸۵
کوٹ مراد خاں: (ج۔۶) ۳۷۸۴
کوٹ مٹھن: (ج۔۱۰) ۵۸۹۴
کوٹ نجیب اللہ: (ج۔۱۰) ۶۴۹۰
کوٹری کبیر: (ج۔۶) ۳۵۶۵، ۳۵۶۷، ۳۵۷۰
کوٹری: (ج۔۱۰) ۶۰۱۸
کوٹلہ رحم شاہ: (ج۔۱۰) ۶۰۴۵
کوٹلہ شریف: (ج۔۶) ۳۷۶۷۔۳۷۶۸، ۳۷۷۰
کوٹلہ کیرت پور: (ج۔۱۰) ۶۴۰۶
کوٹلہ محسن خان: (ج۔۶) ۳۸۴۷، (ج۔۱۰) ۵۸۷۶۔۵۸۷۷
کوٹلی: (ج۔۶) ۳۸۰۵۔۳۸۰۶، ۳۸۱۴۔۳۸۱۵، ۳۸۱۸۔۳۸۲۲، ۳۸۲۴، (ج۔۱۰) ۵۸۸۶، ۵۹۴۳، ۵۹۷۵، ۶۲۴۲، ۶۲۴۴، ۶۲۸۷
کوٹلی سیداں: (ج۔۱۰) ۵۹۳۹
کوٹلی لوہاراں: (ج۔۸) ۴۸۶۹، (ج۔۱۰) ۵۸۰۶، ۵۹۴۰، ۵۹۶۵
کوٹھہ: (ج۔۱۰) ۵۸۸۴، ۵۸۹۲
کوچک: (ج۔۱۰) ۵۹۶۱
کودیلی (سیالکوٹ): (ج۔۲) ۱۲۴۴
کورومنڈل: (ج۔۴) ۲۰۴۶
کوڑہ: (ج۔۸) ۴۶۲۷
کوفہ: (ج۔۵) ۳۰۵۰، (ج۔۶) ۳۸۸۴
کولاب پنجبر: (ج۔۶) ۳۵۲۶

کوٹلی: (ج_۱۰) ۶۰۰۱

کوئٹہ: (ن_۱) ۳۷، ۳۸، ۱۰۱، ۴۶۳، (ن_۴) ۲۵۱۳، (ن_۵)
۲۶۸۱، ۲۹۰۹، (ن_۶) ۳۳۶۷، ۳۳۸۰، ۳۵۵۹، ۳۶۰۴_
۳۶۰۶، ۳۶۱۳، ۳۶۶۲_۳۶۶۳، ۳۶۶۶، ۳۷۱۰_۳۷۱۱،
۳۷۱۷، ۳۷۲۶_۳۷۲۹، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۸_۳۷۳۹،
۳۷۴۲، ۳۷۴۵، ۳۷۴۷، ۳۷۵۳، ۳۷۵۷، ۳۷۶۱_۳۷۷۷، ۳۸۴۳،
۳۹۳۱، ۳۹۳۷، (ج_۷) ۴۰۸۴، ۴۲۲۰، (ج_۸)
۴۵۰۴، ۴۸۶۱، (ج_۱۰) ۵۶۲۹، ۵۸۹۴، ۵۹۴۸_
۵۹۴۹، ۵۹۵۳_۵۹۵۹، ۶۰۱۸، ۶۰۵۶، ۶۱۴۰

کوہ آبو: (ن_۵) ۲۸۴۶

کوہ سلیمان (ن_۶) ۳۷۶۸، ۳۹۱۵، ۳۹۲۰

کوہ شین م (ن_۶) ۳۹۱۴

کوہ گنجہ (ن_۶) ۳۴۹۳، ۳۵۰۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۹، ۳۶۶۶

کوہ ہمالیہ (ن_۶) ۳۷۷۲

کوہاٹ (ن_۶) ۳۷۹۵، ۳۸۵۶، ۳۸۷۹_۳۸۸۰،
۳۸۹۷، ۳۹۲۳، (ج_۱۰) ۵۸۶۷، ۵۸۸۸_۵۸۸۹،
۵۹۲۶، ۵۹۳۷

کوہستان (ج_۷) ۴۱۷۰، (ج_۸) ۴۵۰۹، (ج_۱۰)
۵۸۴۹، ۵۸۷۰

کوہستان چنار: (ج_۹) ۵۳۱۹

کویت (ن_۴) ۲۵۱۴، (ن_۶) ۳۳۶۶، ۳۹۴۳، ۳۹۵۷،
(ج_۹) ۵۲۶۲، (ج_۱۰) ۶۴۳۳

کہوٹہ (ن_۶) ۳۷۸۲، (ج_۱۰) ۵۹۴۲، ۵۹۴۷

کہیاں شریف (ج_۱۰) ۵۹۳۷، ۶۰۰۳

کھاریاں (ن_۶) ۳۷۵۳، ۳۷۷۴_۳۷۷۵، (ج_۱۰)
۵۹۳۷، ۶۰۰۱

کھاہی: (ن_۶) ۳۴۴۱

کھپرو: (ن_۶) ۳۶۳۶

کھڑہ: (ن_۶) ۳۷۰۴_۳۷۰۵

کھمبائت: (ن_۴) ۲۰۴۶

کھنڈسیال: (ج_۱۰) ۵۹۳۷

کھنہ (ن_۱) ۴۰۴

کھوکھراں کلاں (ج_۱۰) ۵۹۴۰

کھیم کرن (ن_۲) ۱۲۴۵، (ن_۶) ۳۵۹۱_۳۵۹۲، ۳۵۹۵

کھینگر کلاں (ج_۱۰) ۵۹۴۱

کیپ ٹاؤن (ج_۷) ۴۴۱۸

کیتھل شریف ۰ (ج_۸) ۴۵۳

کیلیانوالہ (ن_۶) ۳۷۷۰، ۳۷۸۷

کیمبرج (ن_۵) ۲۸۴۱

کیمبل پور (ن_۶) ۳۷۷۱، ۳۹۰۶، (ج_۱۰) ۵۸۷۳،
۵۹۲۹، ۵۹۳۷، ۵۹۴۷

کینیڈا (ج_۴) ۲۲۱۶، (ج_۵) ۲۵۷۷، ۲۸۳۳، ۲۸۴۲،
(ج_۶) ۳۲۵۰، (ج_۸) ۴۵۰۶، (ج_۱۰) ۵۶۳۰،
۶۴۲۹، ۶۴۳۳، ۶۴۴۲، ۶۴۴۶

کیاں شریف (ن_۶) ۳۷۷۲

گ

گانگڑئی (ن_۶) ۳۷۲۴

گجرگڑھی: (ن_۶) ۳۸۹۹

گجرات (ن_۱) ۳، ۱۰۸، ۳۸۵، ۴۰۱، ۴۸۳، (ن_۳) ۱۲۶۷،
(ن_۴) ۱۸۹۱، ۱۹۸۲، ۲۰۴۸، ۲۰۵۱، ۲۰۶۳_۲۰۶۴، ۲۱۴۶،

۲۱۸۷، ۲۳۰۰، ۲۳۰۶، ۲۳۵۶، (ج_۵) ۲۵۳، ۲۶۲۸، ۲۶۵۰، ۲۸۹۲، ۲۹۲۵، (ج_۶) ۳۳۳۹، ۳۳۵۱، ۳۵۶۶، ۳۷۵۳، ۳۷۶۹_۳۷۷۰، ۳۷۷۴_۳۷۷۵، ۳۷۹۰، ۳۷۹۵_۳۷۹۶، ۳۷۹۹_۳۸۰۰، ۳۸۲۴، ۳۸۴۶، ۳۹۳۲، ۳۹۳۹، (ج_۷) ۳۹۸۷، ۴۱۰۰، ۴۳۷۲(ج_۸) ۴۴۸۳، ۴۵۶۲، ۴۸۴۹_۴۸۵۰، ۴۸۷۰، (ج_۹) ۴۹۹۵، ۵۰۹۳_۵۰۹۴، ۵۵۱۳، ۵۵۱۶، ۵۵۷۳، (ج_۱۰) ۵۵۸۷، ۵۶۴۴، ۵۶۴۷، ۵۶۸۴، ۵۷۵۶، ۵۸۹۰، ۵۸۹۴، ۵۹۲۵، ۵۹۳۷، ۵۹۳۹_۵۹۴۰، ۵۹۷۰_۵۹۷۲، ۵۹۷۶_۵۹۷۷، ۵۹۹۴، ۶۰۱۳_۶۰۱۴

گجو. (ج_۶)۳۳۱۵

گدوباغ: (ج_۶)۳۶۹۶

گدگور: (ج_۶)۳۸۰۱

گرگان: (ج_۸)۴۸۶۵

گردسواگ: (ج_۱۰)۵۹۰۱

گرجور (ج_۶)۳۵۰۴، ۳۵۰۷_۳۵۰۸، ۳۵۱۰

گڑگانوہ: (ج_۶)۳۶۷۸

گرگوبی. (ج_۱۰)۵۸۹۴

گڑھ میلو: (ج_۱)۲۹۶

گڑھی خیر محمد کریٹہ: (ج_۶)۳۷۳۶

گڑھی مومن: (ج_۶)۳۸۳۲

گڑھی یٰسین: (ج_۶)۳۵۰۰

گلشن آباد: (ج_۴)۲۱۸۳

گلگت: (ج_۶)۳۸۵۴

گلھار: (ج_۱۰)۶۲۸۷

گمٹالہ: (ج_۱۰)۵۹۷۰

گنج (ج_۶)۳۸۸۸، ۳۸۹۴

گنج دروازہ: (ج_۶)۳۸۴۱

گنجابہ (بلوچستان تابع کچھی): (ج_۱)۲۸۱_۲۸۲

گنجونکر: (ج_۶)۳۵۴۲، ۳۶۹۲۹

گندڑھ: (ج_۱۰)۵۹۴۴

گنگوہ. (ج_۸)۴۹۳۷

گنیاکی (محمود آباد): (ج_۶)۳۶۳۰

گوالیار: (ج_۱)۳۱۵، ۳۹۸، (ج_۳)۱۳۹۳، ۱۸۵۹، (ج_۴) ۱۹۸۷، ۲۰۲۷، ۲۰۲۹، ۲۰۳۱، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰_۲۰۴۱، ۲۰۵۶، ۲۰۶۳، ۲۱۸۳، ۲۳۰۶، ۲۳۵۰، ۲۰۴۸، ۲۳۱۸ (ج_۵) ۲۵۶۷، (ج_۶) ۳۶۷۴_۳۶۷۵، ۳۶۷۷، ۳۹۳۵، (ج_۹) ۵۱۳۹، ۵۱۴۱_۵۱۴۲، ۵۳۲۲، ۵۳۳۳، ۵۳۶۱، ۵۳۶۳، ۵۳۹۰، ۵۴۲۶، ۵۴۶۴، ۵۴۸۲_۵۴۸۳، ۵۴۹۲، ۵۴۹۳، ۵۵۱۸، ۵۵۴۵، ۵۵۶۷، (ج_۱۰) ۵۶۴۲، ۵۶۴۴، ۵۶۶۰_۵۶۶۱، ۵۶۸۷، ۵۸۶۳، ۵۸۸۵

گوٹھ ابڑو: (ج_۶)۳۷۴۷

گوٹھ پیر جھنڈو: (ج_۶)۳۴۴۲_۳۴۴۳، ۳۵۶۲

گوٹھ رحیم ڈنہ: (ج_۶)۳۵۶۳، ۳۵۷۱

گوٹھ صاحبداد: (ج_۶)۳۶۶۷

گوٹھ گلزار خلیل: (ج_۶)۳۴۶۲

گوجر خان (ج_۶)۳۸۱۱، ۳۸۱۴، (ج_۱۰)۵۹۳۹

گوجرانوالا: (ج_۱)۳۷، ۶۲، ۱۰۱، (ج_۲)۶۵۲، ۷۳۲، ۷۳۴، ۱۲۴۴، (ج_۵) ۲۶۳۰، ۲۶۷۳، ۲۷۰۰، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۲، (ج_۶)۳۷۷۰، ۳۷۷۵، ۳۷۸۷_۳۷۸۸، ۳۸۰۰،

۳۹۵۰، ۳۹۶۵، (ج_۷) ۴۴۷۳، (ج_۸) ۴۸۶۹، (ج_۱۰)۵۸۹۱، ۵۹۰۹، ۵۹۱۱_۵۹۱۲، ۵۹۳۷، ۵۹۴۰، ۵۹۷۹، ۵۹۹۹، ۶۰۰۳، ۶۰۰۷، ۶۰۱۵، ۶۰۴۱، ۶۱۶۳، ۶۲۲۸، ۶۳۰۸، ۶۳۲۸، ۶۳۳۱

گوجرہ: (ج_۲)۱۲۴۷

گورزنگ: (ج_۱۰)۵۸۴۸

گورکھڑی: (ج_۶)۳۸۹۰، (ج_۱۰)۵۸۷۳

گورایہ: (ج_۱)۴۰۴

گورداسپور: (ج_۴)۲۱۸۶، (ج_۶)۳۴۸۶، ۳۷۶۶_۳۷۶۷، ۳۷۶۹، ۳۷۷۹، (ج_۱۰)۵۹۳۷، ۶۰۸۰

گورکھپور: (ج_۴)۲۴۸۶، (ج_۱۰)۶۲۹۷۔

گوشکی (ج_۶)۳۷۱۸_۳۷۱۹

گولڑہ شریف: (ج_۵) ۲۷۰۲، (ج_۶) ۳۹۴۷، ۳۸۵۹، ۳۸۶۹، (ج_۷) ۴۴۱۷، (ج_۱۰) ۵۹۴۵، ۵۹۷۴، ۶۰۱۰، ۶۰۷۶

گولکنڈہ: (ج_۹) ۵۵۵۲، (ج_۱۰) ۵۶۴۳، ۵۶۴۵، ۵۸۸۱

گوہ گنجہ: (ج_۸)۴۸۶۹

گوہڑہ سیداں: (ج_۱۰)۵۸۸۵

گہار: (ج_۶)۳۸۱۸

گھپی: (ج_۱۰)۵۹۹۶

گھڑیا غباناں: (ج_۶)۳۸۷۱

گھمکول شریف: (ج_۵)۳۱۱۹، (ج_۶)۳۹۲۳_۳۹۲۵، ۳۹۲۷، ۳۹۳۷، (ج_۷)۴۰۱۰، (ج_۸)۴۵۰۱، (ج_۹)۵۰۱۳، (ج_۱۰)۵۶۱۶، ۵۸۶۲

گھنگ شریف: (ج_۶)۳۷۷۰، ۳۷۸۷

گھوسی: (ج_۶)۳۴۰۷

گیمنکراں بدایوں: (ج_۱۰)۵۹۴۷

ل

لاڑ: (ج_۶)۳۵۶۶

لاڑکانہ: (ج_۶) ۳۴۴۲، ۳۶۹۶، (ج_۱۰) ۵۰۵۷، ۶۰۱۸_۶۰۱۹، ۶۰۲۱، ۶۰۵۵، ۶۰۵۹، ۶۰۶۲، ۶۰۶۸_۶۰۶۹

لالہ موسیٰ: (ج_۵)۲۷۲۹، (ج_۶)۳۷۹۰، ۳۸۰۰

لانگھ: (ج_۱۰)۵۸۹۴

لاڈووال: (ج_۱)۴۰۴

لائل پور: (ج_۵)۲۸۸۲، (ج_۶)۳۹۱۱، (ج_۱۰)۵۹۶۵_۵۹۶۶

لاہور: (ج_۱)۳، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۶۰، ۶۲، ۷۵، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۴۰، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۲۵۶، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۷، ۳۳۲، ۳۵۲، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۵۷، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۹۶، ۴۰۳، ۴۴۲، ۴۲۵، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۵۰، ۴۶۰، (ج_۲) ۴۸۳، ۴۹۸، ۵۰۸، ۶۹۲، ۷۲۱، ۷۲۲_۷۲۳، ۷۲۹_۷۳۱، ۷۳۳، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۶۷_۷۷۰، ۹۰۸، ۹۹۸، ۱۱۳۱_۱۱۳۲، ۱۱۳۹، ۱۲۱۶، ۱۲۴۴_۱۲۴۷، ۱۲۵۳، ۱۲۶۰_۱۲۶۳، (ج_۳) ۱۲۸۵_۱۲۸۶، ۱۲۹۱، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷_۱۲۹۹، ۱۳۶۷_۱۳۶۸، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲، ۱۳۸۶، ۱۴۰۵، ۱۴۱۵، ۱۶۵۸_۱۶۵۹، ۱۶۶۱_۱۶۶۲، ۱۶۷۴_۱۶۷۵، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۸۴۲، ۱۸۴۴، ۱۸۵۷، ۱۸۶۸_۱۸۶۹، ۱۸۷۸،

۱۸۸۰، ۱۸۸۲، (ج_۴) ۱۸۹۱، ۱۹۱۴، ۱۹۱۸، ۱۹۲۰، ۱۹۵۲، ۱۹۷۳، ۰
۱۹۸۳، ۱۹۸۸، ۲۰۱۸، ۲۰۳۳، ۲۰۳۸، ۲۰۴۰، ۲۰۴۸، ۲۰۵۷_
۲۰۵۸، ۲۰۷۲، ۲۰۸۵، ۲۱۶۵، ۲۱۷۳، ۲۱۹۷، ۲۲۰۲_۲۲۰۳،
۲۲۱۸، ۲۲۲۳، ۲۲۴۹، ۲۲۹۰، ۲۳۵۱، ۲۳۷۱_۲۳۷۲، ۲۳۷۵،
۲۳۹۳، ۲۴۲۳، ۲۴۲۹، ۲۴۳۲_۲۴۳۴، ۲۴۳۷، ۲۴۴۴،
۲۴۵۴ ۲۴۵۵، ۲۴۷۵، ۲۴۸۶، ۲۴۹۱_۲۴۹۲، ۲۵۱۲_۲۵۱۳،
۲۵۱۵، (ج_۵) ۲۵۳۱، ۲۵۵۲، ۲۵۵۴، ۲۵۵۵، ۲۵۵۶، ۲۵۶۴،
۲۵۷۳، ۲۵۷۴، ۲۵۷۵_۲۵۷۸، ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۲۵۷۹،
۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۶۰۳، ۲۶۰۵، ۲۶۰۸، ۲۶۱۱، ۲۶۱۴، ۲۶۲۰،
۲۶۲۶، ۲۶۲۷، ۲۶۲۹، ۲۶۳۰، ۲۶۳۸، ۲۶۴۶، ۲۶۴۸_
۲۶۵۱، ۲۶۶۳، ۲۶۶۵، ۲۶۶۸، ۲۶۶۹، ۲۶۸۱، ۲۶۸۳،
۲۶۹۲، ۲۷۰۱، ۲۷۰۲، ۲۷۲۵_۲۷۲۷، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۴۰،
۲۷۶۳، ۲۷۶۶، ۲۷۹۱، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۲۴، ۲۸۴۱_۲۸۴۳،
۲۸۴۵، ۲۸۵۴، ۲۸۵۸، ۲۸۸۲، ۲۸۹۱، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶،
۲۸۹۷، ۲۹۰۴، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۱۰_۲۹۱۴، ۲۹۲۵، ۲۹۴۳_
۲۹۴۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۱۰_۳۰۱۲، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۲۲،
۳۰۲۶، ۳۰۲۹، ۳۰۳۳، ۳۰۴۰_۳۰۴۶، ۳۰۴۹، ۳۰۵۲،
۳۰۸۳، ۳۱۰۹_۳۱۱۰، (ج_۶) ۳۲۵۲، ۳۲۶۷، ۳۳۳۷_
۳۳۳۹، ۳۳۴۵، ۳۳۵۰_۳۳۵۱، ۳۳۶۸، ۳۳۶۶، ۳۳۸۹،
۳۳۹۴، ۳۴۱۲، ۳۴۱۸، ۳۴۴۲، ۳۴۴۵_۳۴۴۶، ۳۴۴۸،
۳۴۵۲، ۳۵۴۸، ۳۵۵۵_۳۵۵۶، ۳۵۹۵، ۳۶۰۲، ۳۶۲۹،
۳۶۸۵، ۳۶۹۸، ۳۷۰۱_۳۷۰۲، ۳۷۰۶_۳۷۰۸، ۳۷۱۳،
۳۷۳۹، ۳۷۴۷، ۳۷۵۲_۳۷۵۴، ۳۷۶۲، ۳۷۶۵_۳۷۶۶،
۳۷۷۰، ۳۷۷۵_۳۷۷۶، ۳۷۷۹_۳۷۸۰، ۳۷۸۳_
۳۷۸۷، ۳۷۹۰_۳۷۹۱، ۳۷۹۳، ۳۷۹۵، ۳۷۹۹_۳۸۰۰،
۳۸۰۲_۳۸۰۳، ۳۸۱۱، ۳۸۱۹، ۳۸۲۴، ۳۸۳۳، ۳۸۵۱،
۳۸۶۰_۳۸۶۱، ۳۸۶۷، ۳۸۹۵، ۳۹۰۰، ۳۹۰۵، ۳۹۱۰_
۳۹۱۱، ۳۹۱۴، ۳۹۲۲_۳۹۲۳، ۳۹۳۵_۳۹۴۷، ۳۹۴۹_
۳۹۷۲، (ج_۷) ۳۹۸۷، ۴۰۰۲، ۴۰۰۶، ۴۰۱۲، ۴۰۶۱_
۴۰۶۲، ۴۰۸۴، ۴۱۰۰، ۴۱۶۳، ۴۱۷۶، ۴۲۲۰، ۴۲۳۲،
۴۲۷۷_۴۲۷۸، ۴۳۴۷، ۴۴۰۶، ۴۴۱۱، ۴۴۱۷،
۴۴۵۲، (ج_۸) ۴۴۸۳، ۴۴۹۳، ۴۵۰۰، ۴۵۲۲،
۴۵۵۲، ۴۵۵۹، ۴۵۷۶_۴۵۷۹، ۴۵۹۹_۴۶۰۰،
۴۶۱۶_۴۶۱۷، ۴۶۱۹، ۴۷۲۴، ۴۷۸۸، ۴۸۰۸،
۴۸۳۲_۴۸۳۳، ۴۸۴۴، ۴۸۵۰_۴۸۵۲، ۴۸۵۴،
۴۸۶۱_۴۸۶۴، ۴۸۶۷_۴۸۶۹، ۴۸۷۳، ۴۸۹۷_
۴۸۹۸، ۴۹۰۲، ۴۹۰۷، ۴۹۰۹_۴۹۱۰، ۴۹۲۳، ۴۹۲۶،
۴۹۴۶، ۴۹۴۸، ۴۹۷۰، ۴۹۸۴، ۴۹۹۰، (ج_۹)
۴۹۹۵، ۵۰۰۰، ۵۰۱۲، ۵۰۱۵، ۵۰۲۳_۵۰۲۴، ۵۰۲۸،
۵۰۳۹، ۵۰۴۱_۵۰۴۲، ۵۰۴۸، ۵۰۵۶_۵۰۶۳،
۵۰۶۵، ۵۰۶۹_۵۰۷۰، ۵۰۷۲، ۵۰۸۸، ۵۰۹۴،
۵۰۹۹، ۵۱۱۹، ۵۱۲۵، ۵۱۵۴_۵۱۵۵، ۵۱۸۱، ۵۱۸۳،
۵۲۱۹، ۵۲۲۷، ۵۳۰۷، ۵۳۶۱، ۵۳۷۴، ۵۵۱۸،
۵۵۳۱، ۵۵۶۹_۵۵۷۰، ۵۵۷۷_۵۵۷۸، ۵۵۸۷،
۵۵۹۶، ۵۶۱۳، ۵۶۱۷_۵۶۱۸، ۵۶۲۰، ۵۶۲۲، ۵۶۳۰،
۵۶۳۲، ۵۶۳۶، ۵۶۵۱، ۵۶۷۴، ۵۶۹۴، ۵۶۹۶،
۵۶۹۹، ۵۷۰۷_۵۷۰۸، ۵۷۲۱، ۵۷۶۰_۵۷۶۱،
۵۷۶۳، ۵۷۷۰، ۵۷۷۶، ۵۸۰۲_۵۸۰۴، ۵۸۰۶،
۵۸۱۰_۵۸۱۱، ۵۸۲۰، ۵۸۲۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۶_
۵۸۶۷، ۵۸۶۹_۵۸۷۵، ۵۸۷۷، ۵۸۸۵_
۵۸۹۵، ۵۸۹۹، ۵۹۰۲، ۵۹۰۷_۵۹۰۸، ۵۹۱۳_
۵۹۱۴، ۵۹۲۴_۵۹۲۷، ۵۹۳۰_۵۹۳۲، ۵۹۳۴_
۵۹۳۵، ۵۹۳۹، ۵۹۴۵_۵۹۴۷، ۵۹۵۵، ۵۹۵۹_
۵۹۶۱_۵۹۶۳، ۵۹۶۵، ۵۹۶۷_۵۹۷۰، ۵۹۷۷،
۵۹۹۰، ۶۰۱۴، ۶۰۱۶، ۶۰۳۲_۶۰۳۳، ۶۰۳۷، ۶۰۴۱،
۶۰۴۸، ۶۰۵۶، ۶۰۷۳، ۶۰۷۷، ۶۰۸۶، ۶۰۹۳،
۶۰۹۶، ۶۱۰۶، ۶۱۱۷، ۶۱۲۸، ۶۱۵۲، ۶۱۵۵، ۶۱۵۸،
۶۱۶۳_۶۱۶۴، ۶۲۰۹_۶۲۱۴، ۶۲۳۰، ۶۲۳۲_۶۲۳۳،

۶۲۳۵ _ ۶۲۳۶ ، ۶۲۳۸ _ ۶۲۳۹ ، ۶۲۴۲ _ ۶۲۴۵ ،
۶۲۷۲ ، ۶۲۸۷ ، ۶۲۹۰ _ ۶۲۹۱ ، ۶۲۹۵ _ ۶۲۹۶ ، ۶۲۹۹ ،
۶۳۰۸ ، ۶۳۱۲ ، ۶۳۱۶ ، ۶۳۲۱ _ ۶۳۲۲ ، ۶۳۲۶ ، ۶۳۲۸ _
۶۳۲۹ ، ۶۳۳۳ _ ۶۳۴۱ ، ۶۳۵۳ ، ۶۳۵۶ ، ۶۳۶۲ _
۶۳۶۶ ، ۶۳۷۵ ، ۶۳۷۸ _ ۶۳۸۱ ، ۶۳۹۸ ، ۶۴۰۶ ،
۶۴۰۹ ، ۶۴۲۵ ، ۶۴۲۸ _ ۶۴۲۹ ، ۶۴۳۳ ، ۶۴۳۵ _
۶۴۳۶ ، ۶۴۴۰ _ ۶۴۴۲ ، ۶۴۴۴ ، ۶۴۴۶ ، ۶۴۹۳

لبنان (ن_۲) ۹۳۳ ، (ن_۵) ۲۶۸۱ ، ۲۶۹۹ ، ۲۷۰۲ ، (ن_۶)
۳۲۱۸ ، ۳۲۴۳ _ ۳۲۴۴ ، ۳۲۴۸ _ ۳۲۴۹ ، ۳۲۵ ، ۳۹۳۹ ، ۳۹۴۲
(ن_۷) ۴۳۴۴ ، ۴۴۷۶ ، (ج_۹) ۵۰۲۰ ، (ج_۱۰)
۶۲۰۶ _ ۶۲۰۸

پتھراے (ن_۱۰) ۵۸۸۴

لدھیانہ (ن_۱) ۳۹۵ ، ۴۰۴ ، (ج_۱۰) ۵۹۶۲ ، ۶۰۰۲

[illegible] شریف (ن_۶) ۳۷۸۹

لکھنو (ن_۱) ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۵۲ ، ۲۹۰ ، ۴۳۰ ، ۴۳۳ ، (ن_۲)
۷۴۳ ، ۷۵۲ _ ، ۱۰۳۰ ، (ن_۳) ۱۲۹۷ ، ۱۲۹۸ ، ۱۶۷۵ ، ۱۷۸۵ ،
(ن_۵) ۲۵۷۴ _ ۲۵۷۵ ، ۲۵۷۷ ، ۲۵۷۹ _ ۲۵۹۰ ، ۲۶۴۹ ،
۲۶۵۱ ، ۲۷۲۵ ، ۲۷۹۲ ، ۲۸۱۶ _ ۲۸۱۹ ، ۲۸۸۵ ، ۳۰۷۲ ، (ن_۶)
۳۲۰۷ _ ۳۲۰۸ ، ۳۳۳۵ ، ۳۳۵۸ ، ۳۳۸۹ ، ۳۶۹۸ ، ۳۹۴۰ ،
۳۹۵۰ ، ۳۹۵۳ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۶۱ ، ۳۹۷۰ _ ۳۹۷۱ ، (ج_۸)
۴۸۴۲ ، ۴۸۵۲ ، (ج_۹) ۵۰۲۸ ، ۵۰۳۸ ، ۵۰۴۰ ،
۵۰۴۶ ، ۵۰۴۹ ، ۵۰۸۷ ، ۵۱۱۸ _ ۵۱۱۹ ، ۵۱۵۳ _
۵۱۵۵ ، ۵۱۵۹ ، ۵۱۸۳ ، ۵۲۲۷ ، ۵۲۵۴ ، ۵۲۹۳ ، ۵۳۱۱ ،
۵۳۵۴ ، (ج_۱۰) ۵۶۰۵ ، ۵۶۳۲ ، ۵۸۰۷ ، ۶۰۵۶

لاھی (ن_۶) ۳۳۴۱

للیاری (ن_۶) ۳۵۶۲

لله شریف : (ن_۶) ۳۷۶۸ ، ۳۷۷۳ ، ۳۷۷۹ ، ۳۷۹۷ ،

(ج_۱۰) ۶۰۳۳

لندن (ن_۱) ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، (ن_۳) ۱۸۷۴ ، (ن_۴)
۲۰۵۹ ، ۲۲۱۴ ، ۲۲۳۵ ، ۲۳۳۰ ، ۲۳۳۵ ، ۲۴۵۷ ، ۲۵۱۳ ، (ن_۵)
۲۵۷۴ _ ۲۵۷۵ ، ۲۵۷۷ ، ۲۵۷۹ _ ۲۵۸۱ ، ۲۶۶۳ ، ۲۷۰۳ ،
۲۸۲۰ ، ۲۸۳۵ ، ۲۸۶۲ ، ۳۰۲۲ ، ۳۰۴۴ ، (ن_۶) ۳۲۱۸ _ ۳۲۱۹ ،
۳۲۵۲ ، ۳۵۳۸ ، ۳۵۴۴ ، ۳۶۵۶ ، (ج_۹) ۵۳۴۴ ، ۵۳۵۹ ،
۵۳۰۵ ، (ج_۱۰) ۵۶۳۱ ، ۵۶۹۳ ، ۵۷۸۱ _ ۵۷۸۷ ، ۶۲۴۴

لدی (ن_۱۰) ۵۶۱۶ ، ۵۸۶۹

لکا (ج_۱۰) ۵۹۱۱

[illegible] (ن_۱۰) ۶۰۵۹

لواری شریف (ن_۶) ۳۰۳۷ ، ۳۳۵۱ ، ۳۳۵۸ ، ۳۳۷۶ _
۳۳۷۷ _ ۳۴۰۹ ، ۳۵۰۳ _ ۳۵۰۴ ، ۳۵۰۶ _ ۳۵۰۸ ، ۳۵۸۰ _
۳۵۸۱ ، ۳۵۸۶ _ ۳۵۸۸ ، ۳۶۲۲ _ ۳۶۲۳ ، ۳۶۳۸ ، ۳۶۶۴ ،
۳۷۰۲ ، ۳۷۰۵

لورالائی (ن_۶) ۳۶۳۶ ، ۳۷۱۳ ، ۳۷۱۸ ، ۳۷۴۲ ، ۳۷۵۴ ،
۳۷۶۰ ، (ج_۱۰) ۵۹۵۱ ، ۵۹۵۸

لوہر (ن_۶) ۳۳۲۱

لونی (ن_۶) ۳۶۸۵

لونی (ن_۶) ۳۹۱۸

لیبیا : (ن_۴) ۲۵۱۴ ، (ن_۶) ۳۶۹۳ ، ۳۹۳۱

لیڈن (ن_۵) ۲۸۴۱ ، ۲۸۴۳ ، ۲۸۵۴ ، ۲۸۵۸ ، (ج_۹)
۵۰۲۴

لیسٹر : (ج_۸) ۴۸۴۳

لیہ : (ن_۶) ۳۷۹۵ ، (ج_۱۰) ۵۸۹۷ ، ۵۹۰۲ ، ۵۹۰۸ ،
۵۹۵۷

م

ماتلی: (ج۔۶)۳۴۴۲

ماچھی: (ج۔۱۰)۵۹۰۹

مارہرہ شریف: (ج۔۵)۲۸۷۹

ماڑی کنجور: (ج۔۶)۳۷۹۰

ماشوگر: (ج۔۶)۳۹۰۶، (ج۔۱۰)۵۸۶۹

ماکی (ج۔۹)۵۴۸۳

مالوہ: (ج۔۳)۱۸۳۹، (ج۔۴)۱۹۸۲، ۲۰۴۶، ۲۱۴۶، ۲۱۷۹، (ج۔۸) ۴۵۶۲، (ج۔۹) ۵۰۹۴، (ج۔۹) ۵۵۱۳، (ج۔۱۰)۵۶۴۴، ۵۶۸۴

مانچسٹر (ج۔۲)۱۱۹۵، ۱۲۴۵

مانڈو: (ج۔۱)۳۱۰، (ج۔۵)۲۶۰۹، (ج۔۱۰)۶۱۱۶

مانڑیال: (ج۔۹)۵۳۸۳

مانسہرہ: (ج۔۶) ۳۸۱۹، (ج۔۱۰) ۵۸۷۸، ۵۸۸۱، ۵۸۸۴۔۵۸۸۵، ۵۹۴۴، ۶۴۳۴

مانک پور: (ج۔۴)۲۳۹۰، (ج۔۹)۵۰۲۴، ۵۱۲۷

مانکی شریف: (ج۔۴)۲۲۰۰، (ج۔۶)۳۸۶۶

مانگل: (ج۔۱۰)۵۸۷۸

ماوراء النہر: (ج۔۲)۵۰۹، ۶۷۸، ۶۱۷، (ج۔۴)۱۹۵۱، ۱۹۸۶، ۲۲۱۱، ۲۲۵۰، ۲۲۷۳، ۲۲۸۲، ۲۳۶۵، ۲۶۰۱، (ج۔۵) ۲۶۰۲، ۲۶۴۴، ۲۶۹۲، ۲۸۲۷، (ج۔۶) ۳۳۴۴، ۳۳۴۶، ۳۸۶۵، (ج۔۷) ۴۰۳۶، ۴۰۵۳، ۴۰۷۸، ۴۰۸۹، (ج۔۸) ۴۵۱۳، ۴۵۶۰، ۴۵۷۵، ۴۸۳۲، ۴۹۴۷، (ج۔۹) ۵۰۶۱، ۵۲۳۰، ۵۲۵۰۔۵۲۵۱، ۵۳۸۷، ۵۴۷۰، ۵۴۹۹، ۵۵۱۰، ۵۵۱۷، (ج۔۱۰) ۵۶۳۹، ۵۶۷۰، ۵۷۵۶، ۵۸۷۲

ماہی سیال: (ج۔۶)۳۷۹۰

متحدہ امریکہ: (ج۔۸)۴۵۰۱، (ج۔۹)۵۰۱۳

متحدہ عرب امارات: (ج۔۴)۲۵۱۴

متعلوی: (ج۔۶)۳۴۶۹، ۳۵۰۰

متھرا: (ج۔۴)۲۱۵۹

متہ مغل خیل: (ج۔۶)۳۸۷۰، ۳۸۹۶، (ج۔۱۰)۵۸۷۰

متھی: (ج۔۶)۳۶۳۶۔۳۶۳۷، ۳۶۴۳

مٹیاری: (ج۔۶)۳۵۰۰، ۳۵۳۰۔۳۵۳۱، ۳۵۳۳، ۳۵۳۹، (ج۔۸)۴۸۷۰

مثلث میان مکہ و مدینہ: (ج۔۸)۴۸۶۵

مجاہد آباد: (ج۔۹)۴۹۹۵

مجیٹھہ: (ج۔۱۰)۵۹۶۹۔۵۹۷۱، ۵۹۷۸

محسن آباد: (ج۔۶)۳۷۴۲، (ج۔۱۰)۵۹۵۸

محمود کامہ: (ج۔۱۰)۵۸۶۸، ۵۸۹۱

مدائن (ج۔۴)۲۲۴۳، ۲۲۵۶

مدراس: (ج۔۴)۲۴۹۱، (ج۔۵)۲۶۹۵، ۲۸۵۴، (ج۔۶) ۳۹۶۰، ۳۹۶۹

مدینہ منورہ: (ج۔۱)۶، ۴۲، ۵۳، ۷۸، ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۴۸، ۱۷۳، ۲۱۸، ۲۵۴، ۲۷۰، ۴۶۳، (ج۔۲)۶۹۴، ۷۸۸، ۸۰۲، ۱۱۵۶، ۱۱۷۷، (ج۔۳) ۱۲۷۵، ۱۴۹۷، ۱۵۵۳، ۱۵۷۹، ۱۶۰۰، ۱۶۶۵، ۱۷۷۶، (ج۔۴) ۱۹۰۴، ۱۹۸۴، ۲۲۴۲۔۲۲۴۴، ۲۲۵۵۔۲۲۵۷، ۲۲۷۸، ۲۳۱۶، ۲۳۷۰، ۲۳۳۶، ۲۳۵۱، ۲۳۸۷، ۲۳۹۱، ۲۵۰۷، ۲۵۱۰، (ج۔۵) ۲۵۷۶، ۲۵۹۷، ۲۵۹۸، ۲۶۰۵، ۲۶۱۳، ۲۶۶۵، ۲۶۷۶، ۲۶۷۹، ۲۶۸۱، ۲۶۸۴، ۲۶۸۵، ۲۶۸۷۔۲۶۹۰، ۲۶۹۲، ۲۶۹۴،

۲۶۹۵، ۲۶۹۶، ۲۷۰۰، ۲۷۰۳، ۲۷۹۹، ۲۹۰۵، ۲۹۱۵، ۲۹۱۹،
(ن_۶) ۳۲۰۲_۳۲۰۳، ۳۲۰۶، ۳۲۱۹، ۳۲۲۹، ۳۲۳۲، ۳۲۵۹،
۳۳۱۵_۳۳۱۷، ۳۳۶۳، ۳۳۶۵، ۳۳۷۷، ۳۴۱۶، ۳۴۲۵،
۳۴۲۷، ۳۴۴۰، ۳۴۴۶، ۳۴۷۵، ۳۴۸۰، ۳۴۹۱، ۳۵۰۰، ۳۵۳۱،
۳۵۴۶، ۳۵۹۴_۳۵۹۵، ۳۶۰۸، ۳۶۲۱_۳۶۲۲، ۳۶۲۸،
۳۶۴۰، ۳۶۵۴، ۳۶۶۴، ۳۷۳۰، ۳۷۳۹، ۳۷۴۱، ۳۷۴۳،
۳۷۵۵_۳۷۵۶، ۳۷۶۵_۳۷۶۶، ۳۷۷۲، ۳۷۹۱، ۳۸۱۰،
۳۸۴۸، ۳۸۵۲، ۳۸۵۹، ۳۸۶۳_۳۸۸۴، ۳۸۸۶، ۳۹۰۲،
۳۹۱۵، ۳۹۲۱، ۳۹۳۴، ۳۹۵۸، (ج ۷) ۴۰۰۳، ۴۰۱۳،
۴۰۲۳_۴۰۲۴، ۴۰۸۵_۴۰۸۶، ۴۲۰۰، ۴۲۰۸، (ج_۸)
۴۶۰۲، ۴۷۰۸، ۴۸۶۵، ۴۸۶۷، (ج_۹) ۵۰۲۱،
۵۱۵۶، ۵۱۸۷، ۵۲۰۷، ۵۳۴۱، ۵۳۵۰، ۵۵۱۳، ۵۵۱۹،
۵۵۲۶، ۵۵۳۰، ۵۵۴۶، ۵۵۴۷، (ج_۱۰) ۵۵۹۰،
۵۵۹۸، ۵۶۰۵، ۵۶۲۷، ۵۶۲۹، ۵۶۹۲، ۵۷۵۸،
۵۷۶۰_۵۷۶۲، ۵۷۹۱، ۵۸۰۹_۵۸۱۰، ۵۸۷۵،
۵۹۳۲، ۵۹۴۰، ۵۹۵۶، ۵۹۹۱، ۶۰۱۸، ۶۰۵۲، ۶۰۵۶،
۶۰۷۷، ۶۱۱۲، ۶۱۲۰، ۶۱۶۲، ۶۲۶۶، ۶۳۹۳

مراد آباد (ن_۲) ۲۹۷، ۲۴۳۶، (ن ۶) ۳۹۶۸، (ج_۱۰)
۵۸۰۵، ۵۸۰۷، ۵۹۲۵، ۶۰۵۶، ۶۱۲۳، ۶۲۴۳

مراکش (ن_۵) ۲۶۸۰، ۲۶۸۵، ۲۶۹۳، ۳۱۷۹، (ن_۶)
۳۱۹۹، ۳۲۱۱_۳۲۱۲، ۳۲۲۹

مردان (ن_۱) ۲۸۸، (ن_۶) ۳۷۸۳، ۳۸۴۳، ۳۸۹۶،
۳۸۹۹، (ج_۱۰) ۵۸۷۸، ۵۸۸۴، ۵۸۸۷

مریسہ (ج_۹) ۵۲۷۰

مرشد آباد: (ن_۶) ۳۸۸۵

مرغز: (ج_۱۰) ۵۸۷۷_۵۸۷۸

مرو (ہمدان) (ن_۴) ۲۲۴۶، ۲۲۵۹

مری: (ن_۶) ۳۵۴۸، ۳۷۷۲، ۳۸۱۱، ۳۸۲۵، ۳۹۲۴،
(ج_۱۰) ۵۹۴۴_۵۹۴۵

مست: (ن_۵) ۲۶۹۱

مستال (ج_۱۰) ۵۹۴۳

مستونگ (ن_۶) ۳۷۲۷_۳۷۲۸، ۳۷۳۰_۳۷۳۱_
۳۷۳۲، ۳۷۴۷، ۳۷۵۱، (ج_۱۰) ۵۹۵۳، ۵۹۵۶،
۵۹۵۸_۵۹۵۹

مسجد اقصیٰ (ن_۶) ۳۷۶۰

مسجد پل پختہ (ن_۶) ۳۸۶۵

مسجد حرام (ن_۶) ۳۹۳۴

مسجد خوردہ فروشاں (ن_۶) ۳۸۶۰

مسجد شاہ ولایت (ن_۶) ۳۷۹۶

مسجد شیخاں (ن_۶) ۳۸۵۱

مسجد موچی ڈرہ: (ن_۶) ۳۸۶۵

مسجد مہابت خاں (ن_۶) ۳۸۴۳_۳۸۴۴، ۳۸۵۴،
۳۹۰۷

مسجد نبوی (ن_۶) ۳۷۴۱، ۳۸۳۹، ۳۹۳۴

مسجد نگین (ن_۶) ۳۸۶۴

مسقط: (ن_۶) ۳۸۹۱، (ج_۱۰) ۶۰۰۲، ۶۴۳۱

مسکین پور: (ج_۱۰) ۶۰۴۵، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۶۰،
۶۰۶۹

مشرقی پاکستان: (ن_۶) ۳۸۵۰

مشرقی پنجاب: (ن_۲) ۱۳۳۵، (ن_۴) ۲۳۵۴_۲۳۵۶، ۲۵۱۲،
(ن_۶) ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۷۷۹، ۳۷۹۰، ۳۹۳۱، (ج_۸)
۴۵۱۰، (ج_۹) ۵۰۴۹، ۵۰۴۳، (ج_۱۰) ۵۶۳۵،

۵۶۳۹،۵۶۷۵،۵۷۷۷،۵۶۸۹

مشرقی عراق: (ج_۹)۵۳۱۲،۵۳۱۴

مشتی: (ج_۱۰)۵۸۷۴

مشہد: ۲۲۷، ۴۲۷(ج_۳)۱۸۷۲، (ج_۴)۲۲۳۵، (ج_۸)
۴۵۱۳، (ج_۹) ۵۴۹۹، (ج_۱۰) ۵۶۷۰، ۵۸۰۱،
۵۹۵۷

مصر: (ج_۲)۱۱۱۲، (ج_۴)۲۰۵۰، ۲۲۸۶، ۲۵۱۴، (ج_۵)۲۵۹۸،
۲۶۷۴، ۲۶۷۶، ۲۶۷۸، ۲۶۸۶_ ۲۶۸۰، ۲۷۶۱، ۲۸۰۴،
۲۸۴۱، ۲۸۵۹، ۳۰۲۲، ۳۰۲۹، ۳۰۷۲، (ج_۶)۳۱۲۳، ۳۲۰۶_
۳۲۱۰، ۳۲۱۴_ ۳۲۱۶، ۳۲۱۸_ ۳۲۱۹، ۳۲۲۶، ۳۲۳۰_ ۳۲۳۱،
۳۲۳۸، ۳۲۴۵_ ۳۲۴۶، ۳۲۵۱، ۳۲۵۹، ۳۲۶۱، ۳۲۷۲،
۳۳۷۸، ۳۴۰۴، ۳۶۲۱، ۳۶۴۲، ۳۶۸۳، ۳۷۶۰، ۳۹۳۰،
۳۹۵۱، ۳۹۵۷، (ج_۷)۴۰۵۳، ۴۰۰۶، ۴۱۵۴، ۴۲۶۲،
۴۲۶۸، ۴۳۲۵، ۴۳۶۴، ۴۳۸۵، ۴۳۹۵، ۴۴۱۳،
(ج_۸) ۴۹۰۶، ۴۹۴۸، (ج_۹) ۵۲۵۴، ۵۲۶۴،
۵۳۶۷، (ج_۱۰) ۵۶۳۲، ۵۶۴۵، ۵۶۶۸، ۵۶۹۵،
۵۷۷۷، ۵۷۷۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۹، ۵۹۵۶، ۶۳۷۹

مصطفیٰ آباد: (ج_۶)۳۳۶۳، ۳۷۹۴

مظفر گڑھ: (ج_۵) ۲۶۵۰، (ج_۶) ۳۷۹۵، ۳۹۴۹،
(ج_۱۰) ۶۰۴۵، ۶۰۴۹، ۶۰۵۲، ۶۰۵۶، ۶۰۶۰،
۶۰۶۷، ۶۰۶۹

مظفرنگر: (ج_۸)۴۹۴۸

مغربی پاکستان: (ج_۶)۳۸۵۰، ۳۹۳۲

مغل کوٹ: (ج_۶)۳۹۱۴

مکان شریف (ضلع گورداسپور): (ج_۶) ۳۳۶۸، ۳۳۷۲،
۳۷۶۶_ ۳۷۶۷، ۳۷۷۹، (ج_۸) ۴۸۶۸، (ج_۱۰)
۵۹۳۷

مکران: (ج_۶)۳۴۴۵، ۳۵۵۶، ۳۶۶۷، ۳۷۳۳

مکلی: (ج_۶) ۳۴۴۷، ۳۴۵۹_ ۳۴۶۰، ۳۴۷۲، ۳۴۷۴،
۳۵۷۷_ ۳۵۷۸، ۳۶۵۵، ۳۶۵۹، ۳۷۰۰

مکھڑ: (ج_۱۰)۵۹۴۳

مکۃ المکرمہ: (ج_۱)۵۵، ۷۸، ۸۶، ۸۸، ۹۹، ۱۴۷، ۲۰۶، ۲۰۹،
۲۱۰، ۲۱۲، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۶، ۴۵۸، (ج_۲) ۱_ ۶، ۷۳۰،
۷۳۳، ۸۰۲، (ج_۳) ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۸۴، ۱۶۹۲،
(ج_۴)۱۹۸۰، ۱۹۸۲_ ۱۹۸۳، ۱۹۹۱، ۲۰۹۸، ۲۱۰۸، ۲۱۹۶، ۲۲۲۳،
۲۲۴۳، ۲۲۵۵_ ۲۲۵۶، ۲۲۹۵، ۲۳۷۰، ۲۴۰۲، ۲۴۵۳، ۲۴۸۷،
(ج_۵)۲۵۷۰، ۲۶۱۱، ۲۶۲۰، ۲۶۴۵، ۲۶۷۴، ۲۶۷۶_ ۲۶۷۸،
۲۶۸۴، ۲۶۸۷_ ۲۶۹۳، ۲۶۹۶، ۲۶۹۷، ۲۷۶۵، ۲۸۰۴،
۲۸۳۳، ۲۸۴۲، ۲۹۱۵، ۳۰۵۳، (ج_۶)۳۱۹۹_ ۳۲۰۲، ۳۲۰۶،
۳۲۱۳_ ۳۲۱۶، ۳۲۱۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۱، ۳۳۱۵، ۳۳۱۸، ۳۳۳۴،
۳۳۴۹، ۳۳۵۹، ۳۳۶۵، ۳۴۲۹، ۳۴۷۷، ۳۵۰۰، ۳۵۷۹_
۳۵۸۰، ۳۵۹۸، ۳۷۹۶، ۳۷۳۹، ۳۷۵۵، ۳۷۶۰، ۳۸۴۲،
۳۸۸۳، ۳۸۹۱، ۳۹۳۴، ۳۹۳۹_ ۳۹۴۰، ۳۹۵۳_ ۳۹۵۵،
۳۹۵۷، ۳۹۶۴، ۳۹۶۶، ۳۹۶۸_ ۳۹۶۹، ۳۹۷۲، (ج_۷)
۴۰۲۰_ ۴۰۲۱، ۴۰۲۴، ۴۰۸۰، (ج_۸) ۴۵۷۶، ۴۵۹۷،
۴۶۰۲_ ۴۶۰۳، ۴۶۵۰، ۴۷۵۳، ۴۸۳۳، ۴۹۰۷،
۴۹۱۰، (ج_۹) ۵۰۶۷، ۵۰۷۰، ۵۱۳۳، ۵۱۸۷،
۵۲۰۷، ۵۳۳۵، ۵۳۴۱، ۵۴۲۱، ۵۵۱۹، ۵۵۲۶،
۵۵۴۶_ ۵۵۴۷، (ج_۱۰) ۵۶۲۷، ۵۶۳۰، ۵۷۵۷،
۵۷۶۰_ ۵۷۶۲، ۵۷۹۱، ۵۶۹۵، ۵۷۹۷، ۵۷۹۹،
۵۹۲۵، ۵۹۹۱، ۶۱۶۳، ۶۳۹۴، ۶۳۷۹

ملاں بہادر گڑھی: (ج_۱۰)۵۹۳۷

ملاں منصور: (ج_۱۰)۵۸۷۴

ملائشیا: (ج۔۲)۷۲۸، (ج۔۶)۳۲۲۶، ۳۲۲۷، (ج۔۱۰)۶۴۳۱

ملایا: (ج۔۵)۲۵۶۶

ملتان: (ج۔۱)۴۵۹، (ج۔۲)۶۶۳، ۱۲۴۔، (ج۔۳)۱۸۴۲، (ج۔۳)۲۰۳۶۔۲۰۳۸، ۲۰۵۰، ۲۰۶۲۔۲۰۶۳، ۲۰۷۹، ۲۰۸۵۔۲۰۹۹، ۲۲۰۰، ۲۳۹۷، ۲۴۸۶، (ج۔۵)۲۶۹۲، (ج۔۶)۳۳۶۹، ۳۴۵۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۶، ۳۵۹۱، ۳۶۴۷، ۳۷۷۰، ۳۷۹۳۔۳۷۹۵، ۳۷۹۹، ۳۹۴۰، ۳۸۶۹، ۴۰۷۲، ۱، (ج۔۷)۴۲۴۹، ۴۲۶۳، ۴۲۷۷، ۴۳۳۵، ۴۳۵۱۔۴۳۵۲، ۴۴۰۰، ۴۴۲۷، (ج۔۸)۴۸۷۰، (ج۔۱۰)۵۶۴۳، ۵۸۲۳، ۵۸۹۴، ۵۹۰۷، ۵۹۳۵، ۵۹۶۳، ۶۰۰۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۷، ۶۰۲۵، ۶۰۳۱، ۶۰۵۹، ۶۰۶۷۔۶۰۶۸، ۶۰۹۰، ۶۳۰۷، ۶۴۴۳

ملغان: (ج۔۳)۲۰۴۶، ۲۰۶۳

ملک پور: (ج۔۱۰)۶۰۰۲

ملک شاہو: (ج۔۶)۳۶۰۴

ملکوال: (ج۔۱۰)۶۰۰۲

منڈوونہ: (ج۔۱۰)۵۸۷۴

منڈی بہاء الدین: (ج۔۱۰)۵۹۸۰

منڈی گوبند گڑھ: (ج۔۱)۴۰۴

منزلہ: (ج۔۵)۲۶۹۱

منگل کوٹ: (ج۔۴)۲۲۷۷، ۲۳۴۷، (ج۔۸)۴۸۶۷

منگلور: (ج۔۴)۲۰۵۴

مودو: (ج۔۴)۲۲۷۰

موسیٰ پور: (ج۔۶)۳۷۸۸

موسیٰ خیل: (ج۔۶)۳۷۴۲، (ج۔۱۰)۵۹۵۷۔۵۹۵۸

موسیٰ زئی: (ج۔۱)۳۵، (ج۔۵)۳۱۱۹، (ج۔۶)۳۷۸۲۔۳۷۸۳، ۳۷۹۵، ۳۸۵۲۔۳۸۵۳، ۳۸۸۵۔۳۸۸۷، ۳۹۱۰، ۳۹۱۴۔۳۹۱۵، ۳۹۱۸، ۳۹۲۰۔۳۹۲۱، ۳۹۷۰، (ج۔۷)۴۰۱۰، (ج۔۸)۴۵۰۱، ۴۸۶۸، (ج۔۹)۵۰۱۳، (ج۔۱۰)۵۶۱۶، ۵۸۸۲۔۵۸۸۳، ۵۸۹۴، ۵۹۰۲، ۵۹۰۴، ۵۹۴۲۔۵۹۴۳، ۶۰۴۳۔۶۰۴۴، ۶۰۵۶، ۶۰۶۹، ۶۱۰۷۔۶۱۰۸، ۶۱۶۳، ۶۲۲۰، ۶۳۷۱

موصل: (ج۔۶)۳۸۸۴

موہل: (ج۔۵)۲۶۸۸

مونگھیر: (ج۔۱۰)۵۹۵۳

موہری شریف: (ج۔۶)۳۷۵۳، ۳۷۷۵، ۳۷۷۹، (ج۔۱۰)۵۹۴۰

موہڑہ شریف: (ج۔۶)۳۴۹۵، ۳۸۵۹، ۳۷۷۲، ۳۷۷۹، ۳۸۰۷، ۳۸۱۰۔۳۸۱۱، ۳۸۳۵، ۳۹۲۴، (ج۔۸)۴۸۶۹، (ج۔۱۰)۵۹۴۴۔۵۹۴۵، ۵۹۵۷، ۶۰۰۲

مہاباد: (ج۔۴)۲۵۱۰

مہاراشٹر: (ج۔۶)۳۴۱۱، ۳۵۷۲، ۳۹۳۶

مہارشریف (سیالکوٹ): (ج۔۲)۴۹۵

مھوچھاؤنی: (ج۔۱۰)۵۸۰۷

میانٹلی: (ج۔۶)۳۲۵۷

میانوالی: (ج۔۴)۲۵۱۳، (ج۔۶)۳۷۹۱۔۳۷۹۲، ۳۷۹۵، ۳۸۸۶، (ج۔۱۰)۵۸۹۴، ۵۸۹۷، ۵۸۹۹، ۶۰۴۴، ۶۰۴۳

میانی: (ج۔۶)۳۷۶۶، ۳۷۶۸، ۳۷۸۶

میاں وڈا: (ج۔۱۰)۵۹۰۳

میبل شریف: (ج۔۶)۳۷۹۱۔۳۷۹۲

میراں والی: (ج-۱۰) ۵۹۳۷، ۵۹۳۹
میر پور خاص: (ج-۵) ۲۸۴۳، (ج-۶) ۳۴۲۵، ۳۶۳۶،
(ج-۹) ۵۵۷۳، (ج-۱۰) ۶۳۵۶
میر پور ساکرو: (ج-۶) ۳۴۱۵
میر پور ماتھیلہ: (ج-۶) ۳۵۷۰
میر پور (آزاد کشمیر): (ج-۶) ۳۸۰۵، ۳۸۰۸، ۳۸۱۸، ۳۸۲۱،
(ج-۱۰) ۵۸۸۵
میرٹھ: (ج-۱) ۲۹۶، (ج-۶) ۳۷۵۸، (ج-۱۰) ۵۶۴۴
میروخان: (ج-۶) ۳۷۳۵
میسور: (ج-۴) ۲۱۹۰-۲۱۹۱
میل: (ج-۶) ۳۴۷۸، ۳۴۸۷
میواڑ: (ج-۱۰) ۵۶۴۵
میہڑ: (ج-۶) ۳۴۴۷، ۳۶۹۶

ن

نابلس: (ج-۶) ۳۲۰۸
نابھہ: (ج-۱) ۴۰۳
نارووال: (ج-۲) ۱۲۴۴، (ج-۶) ۳۷۷۱، ۳۷۸۰، ۵۸۰۷،
۵۹۷۵، ۶۴۴۳
ناگپور: (ج-۶) ۳۶۸۵
ناوہ ترکیاں: (ج-۶) ۳۹۱۴
نبور: (ج-۱۰) ۵۷۶۱، ۵۸۶۵، ۵۸۶۷
نتھیال شریف: (ج-۱۰) ۵۹۹۶، ۶۰۰۱
نجد: (ج-۶) ۳۸۳۷، ۳۸۳۹
نجف اشرف: (ج-۶) ۳۷۶۰، ۳۸۸۴
نربدہ: (ج-۱۰) ۵۷۵۷
نسف: (ج-۱) ۲۲۷، (ج-۷) ۴۰۹۴-۴۰۹۵
نصرپور: (ج-۶) ۳۴۴۷
نصیرآباد: (ج-۱) ۲۸۲، ۲۸۳
نکودر: (ج-۶) ۳۹۳۱
نگرکوٹ: (ج-۴) ۲۱۲۴، (ج-۹) ۵۴۱۶-۵۴۱۷، ۵۴۲۲
نگرہار: (ج-۶) ۳۸۹۶
ننگر ٹھٹھہ: (ج-۶) ۳۵۷۶
ننگرہار: (ج-۵) ۲۶۶۸، (ج-۹) ۵۵۲۷، (ج-۱۰) ۵۸۶۸
نواب شاہ: (ج-۶) ۳۴۴۱، ۳۵۳۲، ۳۶۲۸، ۳۶۹۴، ۳۶۹۶،
۳۷۹۰
نواپس: (ج-۶) ۳۷۲۳
نواں پنڈ: (ج-۶) ۳۸۰۲
نوچغانیاں: (ج-۸) ۴۸۶۶
نوح: (ج-۶) ۳۳۸۱
نورآباد: (ج-۷) ۴۴۷۳
نورپورنورنگا: (ج-۱۰) ۶۰۸۶
نورمحل اُچ: (ج-۹) ۵۰۱۰، (ج-۱۰) ۵۸۸۰، ۶۱۲۵
نوشارہ تھل کلاں: (ج-۱۰) ۵۹۰۸
نوشہرو فیروز: (ج-۶) ۳۴۴۱، ۳۴۸۵، (ج-۱۰) ۶۰۶۷-
۶۰۶۸
نوشہرہ: (ج-۶) ۳۴۹۵، ۳۹۱۰، (ج-۱۰) ۵۸۶۵، ۵۸۶۹-
۵۸۷۳، ۵۸۷۶، ۵۸۸۷، ۵۹۳۰، ۵۹۳۳

نول کشور: (ج_۳)۱۷۸۵
نوی کلی: (ج_۶)۳۸۴۱
نئی دہلی: (ج_۹)۵۰۱۵، ۵۰۲۷
نیانہ: (ج_۴)۲۰۴۹
نیپال: (ج_۴)۲۰۵۶
نیاں شریف (ج_۲) ۱۳۳۷، (ج_۶) ۳۷۷۲، ۳۸۰۵، ۳۸۰۸_۳۸۱۰، ۳۸۱۲، ۳۸۱۴_۳۸۱۵، ۳۸۴۴، ۳۹۴۴، (ج_۸)
۳۸۷۰
نیشاپور (ج_۱۰)۵۶۹۵
نیاب (سندھ) (ج_۴)۲۰۳۸
نیوزی لینڈ (ج_۸)۴۶۷۹، ۴۹۰۷، (ج_۱۰)۵۶۳۰
نیویارک (ج_۱) ۳، ۴۲، ۹۶، ۱۹۲، (ج_۵)۲۵۳۱، ۲۸۴۱_
۲۸۴۲، (ج_۷)۳۹۸۷، (ج_۹)۴۹۹۵

و

وارہ (ج_۱۰)۶۰۶۹
واشنگٹن: (ج_۵)۲۵۷۶، ۲۵۷۹_۲۵۸۰، ۲۸۴۰، ۲۸۴۳،
(ج_۶)۳۲۵۰
والانوا: (ج_۴)۲۲۱۵
واں بھچراں: (ج_۱۰)۵۸۹۹
واہگارڈن: (ج_۱۰)۵۹۳۲
واہگہ (ج_۶)۳۵۹۵، (ج_۸)۴۸۶۶
وخش: (ج_۸)۴۸۶۶
ودربھ: (ج_۶)۳۴۱۱
وزیر آباد: (ج_۶) ۳۷۰۳، ۳۷۸۰، ۳۹۰۶، (ج_۱۰)
۵۸۶۸، ۵۸۸۸، ۶۰۱۳
وسط ایشیاء: (ج_۹)۵۰۴۷
وسین: (ج_۶)۳۴۴۱
وبھڑو شریف: (ج_۶)۳۶۶۸، ۳۶۹۶_۳۶۹۷

ہ

ہالینڈ (ج_۱۰)۵۶۳۰
ہارون آباد: (ج_۶)۳۷۹۰
ہالا: (ج_۶)۳۴۴۱
ہالا کنڈی: (ج_۶)۳۴۳۵
ہالینڈ: (ج_۵)۲۸۴۱_۲۸۴۳، (ج_۶)۳۶۴۲
ہڈا خیل: (ج_۱۰)۵۸۶۷
ہریانہ: (ج_۱۰)۵۷۷۷
ہرات: (ج_۱)۲۲۶، (ج_۴)۲۲۶۲، (ج_۶)۳۸۴۱، ۳۸۴۷،
۳۸۷۶_۳۸۷۷، ۳۹۱۷، (ج_۷)۴۰۶۱، ۴۰۶۴، (ج_۸)
۴۵۱۳، ۴۸۶۶، (ج_۱۰)۵۸۴۸_۵۸۴۹، ۵۹۲۸
ہری پور: (ج_۶) ۳۷۴۷، ۳۸۴۶، (ج_۱۰) ۵۹۴۷،
۵۹۵۳، ۶۴۳۴
ہریانہ: (ج_۶)۳۸۱۶
ہزارہ: (ج_۶)۳۷۴۷، ۳۸۷۴، ۳۹۱۱، (ج_۱۰)۵۸۷۸،
۵۸۸۱، ۵۸۸۴_۵۸۸۵، ۶۰۰۱
ہشت نگر: (ج_۱۰)۵۸۷۱
ہل کوٹ: (ج_۱۰)۵۸۸۴
ہلقو: (ج_۸)۴۸۶۶
ہلمند وارغنداب: (ج_۱۰)۵۹۵۱

ہمدان: (ج_۴) ۲۲۴۶، ۲۲۵۹، ۲۵۰۴؛ (ج_۱۰) ۵۹۴۱
ہندوستان: (ج_۲) ۴۹۸، ۵۰۳_۵۰۴، ۶۴۷، ۶۷۸، ۷۲۸،
۷۷۷، ۹۲۲، ۹۸۴، ۹۹۰، ۱۱۰۱، ۱۱۱۲، ۱۱۴۳، ۱۲۱۲، ۱۲۴۰، ۱۲۴۶،
۱۲۵۱_۱۲۵۳، (ج_۴) ۱۹۰۹، ۱۹۱۱، ۱۹۱۶، ۱۹۲۱، ۱۹۲۶_۱۹۲۸،
۱۹۴۵_۱۹۴۸، ۱۹۵۱، ۱۹۵۵، ۱۹۶۲، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲، ۱۹۸۹، ۲۰۰۲_
۲۰۰۳، ۲۰۰۶_۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳، ۲۰۴۵_۲۰۴۶،
۲۰۴۸_۲۰۵۳، ۲۰۵۶، ۲۰۶۲_۲۰۶۵، ۲۰۶۷، ۲۰۷۲_۲۰۷۴،
۲۰۷۹_۲۰۸۳، ۲۰۸۵، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۵، ۲۰۹۹، ۲۱۰۵،
۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۳_۲۱۱۴، ۲۱۱۹، ۲۱۲۳، ۲۱۲۵، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۴۶،
۲۱۷۴_۲۱۷۵، ۲۱۸۰، ۲۱۸۵، ۲۱۸۷_۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۲۱۱،
۲۲۱۳_۲۲۱۶، ۲۲۱۸، ۲۲۲۱، ۲۲۲۵، ۲۲۶۱، ۲۲۶۹، ۲۲۷۲،
۲۲۷۴، ۲۲۸۶، ۲۲۸۹، ۲۳۵۲_۲۳۵۶، ۲۳۶۵، ۲۳۷۴، ۲۳۷۹،
۲۳۸۱، ۲۳۸۴، ۲۳۹۶، ۲۴۰۸، ۲۴۲۰، ۲۴۴۳، ۲۴۵۱، ۲۴۶۱،
۲۴۶۲، ۲۴۶۳، ۲۴۷۶، ۲۴۸۵، ۲۴۸۷، ۲۴۸۸، ۲۵۱۴، ۲۵۱۸،
۲۵۱۹، ۲۵۲۲، (ج_۵) ۲۵۳۱، ۲۵۴۷، ۲۵۵۳_۲۵۵۵، ۲۵۵۹_
۲۵۶۰، ۲۵۶۴_۲۵۶۵، ۲۵۶۷_۲۵۶۸_۲۵۷۰، ۲۵۷۲_
۲۵۷۷، ۲۵۷۹_۲۵۸۱، ۲۵۹۵_۲۵۹۶، ۲۶۰۳، ۲۶۱۳، ۲۶۱۶،
۲۶۲۳، ۲۶۴۳_۲۶۴۴، ۲۶۵۱_۲۶۵۲، ۲۶۶۶، ۲۶۷۳،
۲۶۷۹_۲۶۸۰، ۲۶۸۴_۲۶۸۵، ۲۶۸۷، ۲۶۹۵_۲۶۹۶،
۲۷۱۰، ۲۷۱۲_۲۷۱۳، ۲۷۲۰، ۲۷۲۳، ۲۷۲۴، ۲۷۵۸، ۲۷۶۱،
۲۷۶۵_۲۷۶۷، ۲۷۶۹، ۲۷۸۲، ۲۷۸۸_۲۷۸۹، ۲۷۹۱، ۲۷۹۳،
۲۷۹۵_۲۷۹۶، ۲۷۹۹، ۲۸۰۳، ۲۸۱۰_۲۸۱۱، ۲۸۱۵، ۲۸۱۷_
۲۸۱۹، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۳_۲۸۳۶، ۲۸۳۸، ۲۸۴۰، ۲۸۴۳،
۲۸۴۵_۲۸۴۶، ۲۸۵۹، ۲۸۷۴، ۲۸۸۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۵_۲۸۹۶،
۲۹۰۶، ۲۹۰۹_۲۹۱۱، ۲۹۱۶، ۲۹۲۰، ۲۹۲۳، ۲۹۲۶_۲۹۲۷،
۲۹۲۹، ۲۹۳۸، ۲۹۴۴، ۲۹۴۹، ۲۹۶۰، ۳۰۱۹_۳۰۲۰، ۳۰۲۶_
۳۰۲۷، ۳۰۳۲، ۳۰۳۵_۳۰۳۶، ۳۰۳۹، ۳۰۴۳، ۳۰۵۴، ۳۰۹۰،
۳۱۱۳_۳۱۱۶، ۳۱۱۸، (ج_۶) ۳۲۰۴_۳۲۰۵، ۳۲۰۷_۳۲۰۸،
۳۲۱۲، ۳۲۲۵، ۳۲۲۹، ۳۲۳۸، ۳۲۴۶، ۳۲۷۶، ۳۲۷۸،
۳۳۰۸، ۳۳۱۴، ۳۳۲۳، ۳۳۲۵، ۳۳۳۱، ۳۳۳۷، ۳۳۴۲،
۳۳۴۴، ۳۳۴۹_۳۳۵۱، ۳۳۵۹، ۳۳۶۵، ۳۳۶۸، ۳۳۷۳،
۳۳۷۷، ۳۳۸۶، ۳۳۸۹_۳۳۹۰، ۳۳۹۳_۳۳۹۵، ۳۳۹۸_
۳۴۰۵، ۳۴۰۸، ۳۴۱۰، ۳۴۱۲، ۳۴۱۵_۳۴۱۷، ۳۴۶۶، ۳۴۷۷،
۳۴۸۴، ۳۴۸۹، ۳۵۲۶، ۳۵۳۳، ۳۵۳۶_۳۵۳۷، ۳۵۴۲_
۳۵۴۴، ۳۵۴۸_۳۵۵۱، ۳۵۵۵، ۳۵۷۳_۳۵۷۴، ۳۵۹۱،
۳۵۹۴_۳۵۹۵، ۳۶۰۰_۳۶۰۲، ۳۶۰۹_۳۶۱۱، ۳۶۱۴،
۳۶۲۳_۳۶۲۴، ۳۶۳۴، ۳۶۴۱، ۳۶۴۳_۳۶۴۴، ۳۶۵۲،
۳۶۷۸، ۳۶۸۴_۳۶۸۶، ۳۶۹۸، ۳۷۲۵، ۳۷۴۰، ۳۷۴۷،
۳۷۵۸، ۳۷۶۴، ۳۷۶۶، ۳۷۸۵_۳۷۸۶، ۳۷۸۹، ۳۷۹۰_
۳۷۹۳، ۳۷۹۶، ۳۸۰۷، ۳۸۱۶، ۳۸۲۳، ۳۸۴۱_۳۸۴۲،
۳۸۴۵، ۳۸۴۷، ۳۸۵۱، ۳۸۵۷، ۳۸۶۷، ۳۸۶۹، ۳۸۷۲،
۳۸۸۰، ۳۸۸۳_۳۸۸۴، ۳۸۹۰، ۳۸۹۸، ۳۹۰۶، ۳۹۱۳،
۳۹۱۵، ۳۹۲۲، ۳۹۲۶_۳۹۲۷، ۳۹۵۹، ۳۹۶۹، (ج_۷)
۳۹۸۷، ۴۰۰۰، ۴۰۰۵_۴۰۰۶، ۴۰۱۴، ۴۰۵۴، ۴۱۰۴،
۴۱۶۸_۴۱۷۰، ۴۱۷۵، ۴۱۸۸، ۴۲۰۰، ۴۲۰۷، ۴۲۲۶_
۴۲۲۷، ۴۳۲۹، ۴۳۵۸، (ج_۸) ۴۵۰۶، ۴۵۰۹_
۴۵۱۰، ۴۵۱۳، ۴۵۱۶، ۴۵۲۲، ۴۵۴۰_۴۵۴۱، ۴۵۵۹_
۴۵۶۰، ۴۵۷۵، ۴۶۰۲، ۴۶۰۵، ۴۷۶۸، ۴۸۱۱، ۴۸۱۳،
۴۸۲۶، ۴۸۳۲_۴۸۳۳، ۴۸۷۴، ۴۸۷۶_۴۸۷۸،
۴۸۸۶، ۴۸۸۸_۴۸۹۱، ۴۸۹۳_۴۸۹۴، ۴۸۹۷،
۴۹۰۱_۴۹۰۳، ۴۹۰۵_۴۸۰۸، ۴۹۱۲، ۴۹۲۳، ۴۹۲۹،
۴۹۴۷، (ج_۹) ۴۹۹۸، ۵۰۱۵_۵۰۱۶، ۵۰۲۱، ۵۰۲۷،
۵۰۳۳، ۵۰۴۰، ۵۰۴۳_۵۰۴۴، ۵۰۴۶_۵۰۴۸،
۵۰۵۱، ۵۰۵۷، ۵۰۵۹_۵۰۶۰، ۵۰۶۲، ۵۰۶۵_
۵۰۶۹، ۵۰۸۹، ۵۰۹۶، ۵۱۰۹، ۵۱۱۸، ۵۱۲۴، ۵۱۲۶_
۵۱۲۹، ۵۱۳۱، ۵۱۳۳، ۵۱۳۶، ۵۱۳۹، ۵۱۴۶_۵۱۴۷،
۵۱۵۰_۵۱۵۱، ۵۱۵۴، ۵۱۵۶، ۵۱۶۰، ۵۱۶۷، ۵۱۶۹،

۵۲۰۳، ۵۲۱۳، ۵۲۱۶، ۵۲۳۱، ۵۲۳۹ ـ ۵۲۵۰،
۵۲۵۶ ـ ۵۲۵۷، ۵۲۶۲، ۵۲۹۳ ـ ۵۲۹۵، ۵۲۹۷ ـ
۵۲۹۸، ۵۳۲۱، ۵۳۳۹، ۵۳۴۲، ۵۳۶۲، ۵۳۶۹،
۵۳۷۴ ـ ۵۳۷۶، ۵۳۷۸ ـ ۵۳۸۱، ۵۳۸۴، ۵۳۸۵،
۵۳۸۷ ـ ۵۳۸۸، ۵۳۹۶، ۵۴۰۸، ۵۴۱۱ ـ ۵۴۱۵،
۵۴۱۷، ۵۴۲۲ ـ ۵۴۲۳، ۵۴۶۷ ـ ۵۴۶۹، ۵۴۷۱،
۵۴۷۵، ۵۴۸۲، ۵۴۸۹، ۵۴۹۹، ۵۵۰۸، ۵۵۱۰،
۵۵۱۲ ـ ۵۵۱۳، ۵۵۱۵، ۵۵۱۷، ۵۵۱۹، ۵۵۲۵،
۵۵۲۷، ۵۵۲۹، ۵۵۳۱، ۵۵۳۷، ۵۵۵۶، ۵۵۶۷،
۵۵۶۹ ـ ۵۵۷۲، ۵۵۷۶(ج۔۱۰) ۵۶۱۳، ۵۶۲۰،
۵۶۲۵، ۵۶۳۰، ۵۶۳۵، ۵۶۳۹ ـ ۵۶۴۰، ۵۶۴۲ ـ
۵۶۴۷، ۵۶۴۹ ـ ۵۶۵۰، ۵۶۵۲، ۵۶۵۴ ـ ۵۶۵۶،
۵۶۶۰ ـ ۵۶۶۱، ۵۶۶۵ ـ ۵۶۶۷، ۵۶۸۹، ۵۶۹۳،
۵۶۹۹، ۵۷۰۰ ـ ۵۷۰۱، ۵۷۰۶ ـ ۵۷۰۷، ۵۷۲۳،
۵۷۵۷ ـ ۵۷۵۸، ۵۷۶۶، ۵۷۶۸ ـ ۵۷۷۲،
۵۷۷۷، ۵۷۸۸، ۵۷۹۴ ـ ۵۷۹۶، ۵۸۰۰ ـ ۵۸۰۱،
۵۸۰۸، ۵۸۲۱ ـ ۵۸۲۵، ۵۸۲۷ ـ ۵۸۲۹، ۵۸۳۱ ـ
۵۸۳۳، ۵۸۳۸، ۵۸۶۳، ۵۸۶۶، ۵۸۷۲ ـ ۵۸۷۳،
۵۸۷۵، ۵۸۸۰ ـ ۵۸۸۲، ۵۸۸۴ ـ ۵۸۸۵، ۵۸۹۴،
۵۹۱۵، ۵۹۲۷ ـ ۵۹۲۸، ۵۹۳۲، ۵۹۳۶، ۵۹۴۴،
۵۹۴۶ ـ ۵۹۴۷، ۵۹۴۹، ۵۹۵۱، ۵۹۵۶، ۵۹۶۵،
۵۹۷۷، ۵۹۸۳، ۵۹۹۹، ۶۰۰۱، ۶۰۳۰، ۶۰۳۳ ـ
۶۰۳۴، ۶۰۴۳، ۶۰۵۰ ـ ۶۰۵۱، ۶۰۵۵، ۶۰۸۰، ۶۱۰۰،
۶۱۴۷ ـ ۶۱۴۸، ۶۲۵۷، ۶۲۹۰

ہوزہ: (ج۔۱۰)۶۲۹۸

ہوشیار پور: (ن۔۶)۳۷۹۰، ۳۷۹۸

ہیبت پور شریف: (ن۔۶)۳۷۸۸

ہیگ: (ن۔د)۲۵۸۰

ی

یارکند: (ج۔۹)۵۳۱۲

یاغستان: (ن۔د)۲۷۲۶

یثرب: (ن۔۲)۴۹۶

یزد: (ن۔د)۲۸۴۶

یکہ توت شریف: (ج۔۸)۴۴۴۷، ۴۸۵۲

یمامہ: (ج۔۱)۸۰

یمن: (ج۔۲)۷۳۸، ۷۸۴، (ج۔۵)۲۶۷۶، ۲۶۸۹،
۲۶۹۶ ـ ۲۶۹۷، (ج۔۶) ۳۲۰۲، ۳۲۰۴ ـ ۳۲۰۵،
۳۲۰۷ ـ ۳۲۰۸، ۳۲۱۰، ۳۲۱۲ ـ ۳۲۱۴، ۳۲۱۷، ۳۲۱۹،
۳۴۷۹، ۳۵۱۵، ۳۶۲۰ ـ ۳۶۲۲، ۳۷۴۷، (ج۔۸)
۴۵۶۰، ۴۹۰۳، (ج۔۹)۵۱۲۶، ۵۱۹۹، ۵۵۲۶، ۵۵۳۱،
(ج۔۱۰)۵۶۲۶، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۶۹، ۵۹۹۲

یوپی: (ن۔۶)۳۳۳۵، ۳۷۸۵، ۳۷۹۳، ۳۸۷۲، (ج۔۱۰)
۵۹۴۷، ۶۰۳۴، ۶۲۳۴

یورپ: (ن۔۱)۴۱، ۶۷، ۹۲، ۹۷، ۲۵۰، ۳۴۹ (ن۔۳)۱۳۴۲،
۱۷۲۱، ۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۴، (ن۔د)۲۵۵۵، ۲۶۸۶، ۲۷۵۹، ۲۸۱۵،
۲۹۴۷، ۲۹۷۳، ۲۵۹۴، ۳۳۴۶، ۳۳۵۰، ۳۵۷۳، (ج۔۸)
۴۹۰۶، (ج۔۹) ۵۰۵۸، ۵۲۶۴، (ج۔۱۰) ۵۶۳۵،
۵۷۷۸، ۶۳۲۹، ۶۳۳۲، ۶۳۳۵، ۶۳۴۶

یوسف زئی: (ن۔۶)۳۸۴۳، ۳۸۹۰، ۳۹۰۲، (ج۔۱۰)
۵۸۷۷، ۵۸۸۲، ۵۸۸۹، ۵۹۳۰، ۶۱۰۷

یوسف: (ج۔۱۰)۵۸۲۸، ۵۹۵۰

یوگوسلاویہ: (ن۔د)۲۹۰۰

یونان: (ن۔۲)۹۸۴

Asma' al-Amakin

Afghanistan: 2222, 3030
Africa: 1371
Agra: 2175
Alepp: 3245
Aligarh: 2789, 2791
Arabia: 3030
Ashkhabad: 3305
Asia: 3242
Asiatic Russia: 3030
Aurangabad:4876
Baghadad: 3290-3291
Berlin: 3305
Black Forest: 3246
Bombay: 2794
Bonndarf: 3246
Boston: 6428, 6437
Breisgau: 3243
Canada: 3255, 3290
Cario: 2842
Caucsus: 3270
Causcasia: 3257
Cawnpore: 3305
Central Asia: 3030
Charshamba: 3270
Cherkay: 3257
China: 3243
Crimea: 263
Damascus: 3255, 3290
Delhi: 3, 483, 1267, 1891, 2531, 2829, 3123, 3987, 4483, 4995, 5587
Edinburagh:4897
Edrine: 3258, 3260-3261
Ethiopia: 5777
Fenton (Michigon): 3250, 3252
Freiburg: 3243
Homs: 3245
India 2222, 3030, 5559
Indonasia: 3243
Indonesia: 1371
Indoor (India): 3, 483, 1267, 1891, 2531, 3123, 3987, 4483, 4995, 5587
Instanbul: 103, 3257, 3290
Kabul: 3305
Karachi: 3, 111, 483, 1260- 1263, 1267, 1891, 2224, 2531, 2842, 3123, 3987, 4483, 4899, 4995, 5587, 6366-6369, 6379, 6423
Lafka: 3243
Lahore: 1260-1263, 1403, 2817, 2841-2842, 3001, 3008, 3043-3044, 4897-4898, 6366-6369, 6379, 6425, 6428, 6436
Larnake: 3245
Leiden (Holland): 2843, 2854, 2858, 4897, 6379,6422
London: 111, 191-192, 2817, 2842, 2858, 3253, 3305, 4898, 5834
Los Atlos: 3250
Louvain (Belgium): 3249
Lucknow: 111
Macedonia: 263
Malkara: 3258
Maraco: 3242
Miatli: 3257
Middle East: 3243
Montreal: 2842, 2854, 2858, 4898
Moscow: 2790
Nablus: 4877
New Delhi: 2843
New Jersey:4897
New York: 3, 192, 483, 1267, 1891, 2223, 2531, 2841-2842, 3123, 3305, 3987, 4483, 4898, 4995, 5587
Ottoman Bulkans: 263
Oxford: 111, 4898
Palestine: 3255
Rome: 2223
Saint Petersburg: 3305
Sharqpur Sharif:6424-6425
Sheikhupura: 6424-6425
Sirhind: 3, 483, 1267, 1891, 2531, 3123, 3987, 4483, 4995, 5587
Smethwich (U.K.): 3, 483, 1267, 1891, 2531, 3123, 3987, 4483, 4995, 5587
Sumatra: 264
Sydney: 3305

Syria: 93
Tehran: 3305
Toronto, (Canada): 2842
Trabzon: 3261
Transoxiana: 2222
Tripoli: 3246, 325

Turkey: 114, 1371, 3243
U.S.A.: 193, 3255, 6379
Villanova(USA): 2843
Virginia: 3252
Washington: 2223, 2843



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

کشورِ پنجم

تنہا غنیؔ نہ نغمۂ مدح تو ساز کرد
کرّوبیانِ عرش ہمیں گونہ گفتہ اند
(شاہ عبدالغنی)


لا حول ولا قوة الا بالله
العلی العظیم
کتبہ گوہر قلم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

جہانِ امامِ ربانی

پروفیسر محمد حسین آسی

☆☆

رہے زبان پہ شانِ امامِ ربانی
سنا اے کلک بیانِ امامِ ربانی

ورائے عقل زمانِ امامِ ربانی
محیط صدیوں پہ آنِ امامِ ربانی

ہنوز بتکدے باطل کے تھرتھراتے ہیں
کبھی جو گونجی اذانِ امامِ ربانی

بُھلاسکے گی نہ سرہند کو کبھی دنیا
امٹ ہے نام و نشانِ امامِ ربانی

مجدد الف بھی، بحرین میں صلہ بھی ہیں
عجب ہے شان عیانِ امامِ ربانی

یہ شرح تحت قبائی ہیں، کیا نظر آئے
جمال سرِ نہانِ امامِ ربانی !!

خداگواہ کہ ’’یتکلّم‘‘ کا مظہر ہے
ہر ایک حرف زبانِ امامِ ربانی

عجب جو کفر کے نقش و نگار ہیں تو کیا
غضب ہیں تیغ و سنانِ امامِ ربانی

بلائیں آتی ہیں، آ آکے چوک جاتی ہیں
نہ چوکا تیر کمانِ امامِ ربانی

ہمیشہ ساتھ رہی ہے جہاد والوں کے
نگاہ فیض رسانِ امامِ ربانی

جناب قائداعظم کہ شاعر مشرق
ہر اک ہے شیر ژیانِ امامِ ربانی

تمام شاہوں کے نعمت کدے جو مفت ملیں
نہ لوں بہ پارۂ نانِ امامِ ربانی
الٰہی مجھ کو بھی ایمان کی حرارت بخش
بسوزِ قلبِ تپانِ امامِ ربانی
مجھے بھی عشقِ نبی (ﷺ) سے نواز دے یارب
بجاہِ عشقِ جوانِ امامِ ربانی
مجھ ایسے مردے کو بھی عمرِ جاوداں دے دے
طفیلِ روحِ روانِ امامِ ربانی
الٰہی قوم کو پھر ولولۂ تازہ بخش
بہ قبرِ خلد نشانِ امامِ ربانی
اب اس جہان میں اپنا توجی نہیں لگتا
کہ سامنے ہے جہانِ امامِ ربانی
قبول میری طرف سے کریں مبارکباد
''تمام کارکنانِ'' امامِ ربانی
خصوصی شکریہ پہنچے مسعود ملت کو
دکھایا مجھ کو 'جہانِ امامِ ربانی
وہ بالیقین ہے مسعود جس کی ہر قوت
ہے وقفِ مدحتِ شانِ امامِ ربانی
میں اپنے شیخ کی نسبت پہ شکر کرتا ہوں
ہے آسیؔ یہ بھی امانِ امامِ ربانی

☆……☆……☆



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

جامِ جم

’’نورٌ علیٰ نور‘‘ اور ’’جہان امام ربانی‘‘ کی چھ جلدوں کی اشاعت اور اجراء پر ملک و بیرونِ ملک سے موصولہ تبصروں، پیغامات اور مبارک باد کے خطوط سے اقتباسات...... (مرتب)

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

ہوے جس سے مسرور اہل طریقت
وہ تازہ خبر ہے جہان مجدد
(غلام مصطفیٰ)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

عجب رنگ پر ہے جہانِ مجدد

☆☆

عجب رنگ پر ہے جہانِ مجدد   فروغ قمر ہے جہانِ مجدد
یہ ہے شیخ احمد کی روشن کہانی   کمال بشر ہے جہانِ مجدد
ہر اک لفظ سے راز تحقیق ظاہر   عروج نظر ہے جہانِ مجدد
گمان و تشکک کی تاریکیوں میں   اذان سحر ہے جہانِ مجدد
نشانِ ہدایت، بیانِ عنایت   محبت اثر ہے جہانِ مجدد
یہ مسعودؔ ملت کا حسن تصور   یہ اقبالؔ گر ہے جہانِ مجدد
ہوے جس سے مسرور اہلِ طریقت   وہ تازہ خبر ہے جہانِ مجدد
مری منزل زندگی شہر طیبہ   مرا راہبر ہے جہان مجدد
چلے آؤ تشنہ لبو، غم کے مارو   ولایت کا گھر ہے جہانِ مجدد
غلام در مصطفیٰ کو مبارک   امیدوں کا در ہے جہانِ مجدد

(پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی)

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

علماء و مشائخ کرام

☆☆

۱......خواجہ محمد صادق نقشبندی مجددی	(اگہار، آزاد کشمیر، پاکستان)
۲......علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی	(بہاول پور، پاکستان)
۳......علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	(لاہور، پاکستان)
۴......علامہ جمیل احمد نعیمی	(کراچی، پاکستان)
۵......حضرت ابوحفص عمر مجددی	(کوئٹہ، پاکستان)
۶......خواجہ محمد عبداللہ جان نقشبندی	(پشاور، سرحد، پاکستان)
۷......حکیم سید اکرام حسین چشتی سیکری	(میرپورخاص، سندھ، پاکستان)
۸......علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	(دہلی، بھارت)
۹......علامہ ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر	(حیدرآباد، سندھ، پاکستان)
۱۰......علامہ عبدالمبین نعمانی	(مبارکپور، اعظم گڑھ، بھارت)
۱۱......علامہ مفتی محمد علیم الدین نقشبندی	(جہلم، پاکستان)
۱۲......علامہ محمد منشا تابش قصوری	(لاہور، پاکستان)
۱۳......علامہ محمد صدیق ہزاروی	(لاہور، پاکستان)
۱۴......مولانا قاری محمد میاں نقشبندی	(ملتان، پاکستان)
۱۵......مولانا محمد قمرالدین نقشبندی	(سنام گنج، بنگلہ دیش)
۱۶......مولوی ابوالحسن سلطان احمد مسعود چشتی	(حافظ آباد، پنجاب، پاکستان)
۱۷......علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی	(کراچی، پاکستان)
۱۸......علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی	(لاہور، پاکستان)

۱۹...... ابو قاسم سید جلال الدین پاشا قادری	(جدہ، سعودی عرب)
۲۰...... صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	(لاہور، پاکستان)
۲۱...... پیر طریقت عبدالعزیز صدیقی نقشبندی	(اندور، بھارت)
۲۲...... علامہ مفتی محمد احمد نعیمی	(ملیر کراچی، پاکستان)
۲۳...... صاحبزادہ سید محمد طاہر مظہری	(اسلام آباد، پاکستان)
۲۴...... میاں فضل احمد حبیبی	(گجرات، پنجاب، پاکستان)
۲۵...... علامہ محمد اسد رضا	(بیلہ، آزاد کشمیر، پاکستان)
۲۶...... علامہ محمد رضوان احمد خان نقشبندی	(کراچی، پاکستان)
۲۷...... مولانا جمیل احمد قادری	(لورالائی، بلوچستان، پاکستان)
۲۸...... مولوی محب اللہ تراہی	(کوہاٹ، سرحد، پاکستان)
۲۹...... مولوی جمیل احمد الوری نوحی	(دہلی، بھارت)
۳۰...... مولانا محمد اقبال سعیدی	(سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان)
۳۱...... مفتی محمد نصیر الدین نصیر	(شورکوٹ، پنجاب، پاکستان)
۳۲...... مولانا احمد القادری	(حیدرآباد، سندھ، پاکستان)
۳۳...... مفتی محمد خالد مجددی	(گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان)
۳۴...... علامہ حافظ اللہ دتہ نقشبندی	(پاک پتن، پنجاب، پاکستان)
۳۵...... مولانا حافظ سخی محمد مہربان سکندری	(سانگھڑ، سندھ، پاکستان)
۳۶...... مولانا معاذ احمد صدیقی	(کراچی، پاکستان)
۳۷...... مولانا محمد نجم الحسن نقشبندی مجددی	(ڈیرہ اسماعیل خان، سرحد، پاکستان)
۳۸...... مولانا مجاہد عبدالرسول خان	(لاہور، پاکستان)

دانشوران

☆☆

۱...... سردار علی احمد خان	(لاہور، پاکستان)

۲......سید انور علی ایڈووکیٹ	(کراچی، پاکستان)
۳......پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی	(لاہور، پاکستان)
۴......محمد عالم مختار حق	(لاہور، پاکستان)
۵......شاہ انجم بخاری	(حیدرآباد، سندھ، پاکستان)
۶......پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی	(کوئٹہ، پاکستان)
۷......پروفیسر حافظ سید مقصود علی	(کراچی، پاکستان)
۸......پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	(شکرگڑھ، پنجاب، پاکستان)
۹......پروفیسر عبدالقدوس جان سرہندی	(میرپور خاص، سندھ، پاکستان)
۱۰......پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	(لاہور، پاکستان)
۱۱......پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق نقشبندی	(لاہور، پاکستان)
۱۲......پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد	(شیخوپورہ، پنجاب، پاکستان)

خواصِ اہل سنت

☆☆

۱......محمد فیاض صدیقی	(گجرات، پنجاب، پاکستان)
۲......محبوب احمد بھٹی نقشبندی	(لیہ، پنجاب، پاکستان)
۳......محمد یونس نوشاہی	(حافظ آباد، پنجاب، پاکستان)
۴......محمد وسیم قادری	(لاہور، پاکستان)
۵......نوخیز انور صدیقی	(اسلام آباد، پاکستان)
۶......محمد زبیر اختر القادری	(کراچی، پاکستان)
۷......ڈاکٹر شیر محمد مسعودی	(لاہور، پاکستان)
۸......منیر حسین مسعودی	(برمنگھم، یو۔ کے)
۹......شاہ ذوالفقار علی مسعودی	(ٹورنٹو، کینیڈا)
۱۰......فواد عرفان شیخ	(ابوظہبی)

۱۱......شہزاد احمد اعوان قادری	(بھکر، پنجاب، پاکستان)
۱۲......خلیل احمد رانا	(جہانیاں منڈی، پنجاب، پاکستان)
۱۳......ملک محبوب الرسول قادری	(لاہور، پاکستان)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

جامِ جم

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد صادق نقشبندی مجددی

(جامع مسجد فردوس، اگھار شریف، آزاد کشمیر)

☆

مقام مسرت ہے کہ آپ کی کوشش اور محنت کامیاب رہی اور ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی چھے جلدیں تیاری کے مرحلے میں ہیں۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ نے مزید رنگین فلموں والی جلد کا بھی ذکر کیا ہے کیا اس جلد کی تکمیل کے بعد کتاب تقسیم کی جائے گی؟ ان چھے جلدوں کا حجم کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مزید شرح صدر فرمائے اور آپ مزید صحت اور توانائی سے سلسلہ کی خدمت جاری رکھ سکیں۔ یہی امور باقیات صالحات ہیں۔ (محررہ: ۲ر فروری ۲۰۰۵ء)

شیخ الحدیث علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی

(جامعہ اویسیہ رضویہ، بہاولپور)

☆

(۱)

آپ کا عطیہ ''جہان امام ربانی'' موصول ہوا اور ساتھ ہی مدرسہ کی لائبریری کے لیے بھی، شکریہ فقیر اس کے مطالعہ میں مصروف ہے جو کچھ پڑھا روحانی کیف نصیب ہوا، آپ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک اہل اسلام کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ فقیر کی دعا ہے کہ مولیٰ عزوجل بطفیل حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مع صاحبزادہ والا شان و رفقاء کار آپ کو سلامت باکرامت رکھے آمین بجاہ حبیبہ الکریم الامین

صلی اللہ علیہ وسلم۔ (محررہ: ۷/جولائی ۲۰۰۵ء)

(۲)

جہان امام ربانی کی سات مجلدات فقیر کو حضرت مسعود الملت ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے تحفہ باصرہ نواز ہوئیں۔ فقیر چونکہ سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ کے ساتھ قلبی عقیدت رکھتا ہے اور اسی میں الحمدللہ امید رکھتا ہے کہ اس کی نجات ہے۔

ارادہ تھا کہ ان مجلدات کو بالاستیعاب پڑھوں لیکن مصروفیات نے وقت نہ دیا لیکن ان کے مطالعہ سے محروم بھی نہ رہا۔ چند مخصوص مقامات کا مطالعہ کیا کتاب کی ہر جلد کو تحقیق سے لبریز پایا۔ طرفہ یہ کہ دور حاضر کے تعصب سے بالاتر ہو کر یہ مجموعہ تیار کیا گیا ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جو بعض متعصب نقشبندیوں نے غلط تاثرات پھیلا رکھے ہیں انہیں محققانہ طور پر زائل کر کے علمی تحقیق کا حق ادا کیا گیا ہے۔ حضرت مسعود الملۃ ڈاکٹر محمد مسعود احمد دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور ساتھ ہی آپ کے رفقاء ابوالسرور محمد مسرور احمد، جاوید اقبال مظہری اور ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری کو جنہوں نے یہ عظیم تحفہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء بجاہ حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم

علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری

(سابقہ شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

☆

(۱)

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی کی طرف سے اس موقع پر بیس سے زیادہ کتب کا شائع ہو جانا اور امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، کراچی کی سے جہان امام ربانی کی سات جلدوں کا چھپ جانا جہان امام ربانی مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی کی کرامت اور اہل سنت و جماعت کی بیداری کی علامت ہے وہاں آپ کی زندہ و پایندہ کرامت بھی ہے۔ فقیر کے نزدیک آپ کا یہ کارنامہ بڑا ہی خوش آیند ہے کہ آپ نے نقشبندیوں اور رضویوں کے درمیان پائے جانے والے فاصلے کی خلیج کو ختم کر کے رکھ دیا، اور یہ عصر حاضر کا اہم ترین تقاضا ہے، آج کا دور اکبر کے دور سے کم تاریک نہیں، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غیر اسلامی قوتیں

اسلام اور مسلمانوں کو کچل کر صفحۂ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت متحد، منظّم اور بیدار ہو کر اسی جذبہ کے ساتھ اسلام کی شمع فروزاں کریں جس جذبہ کے ساتھ امام ربانی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام احمد رضا خاں اور ان کے تلامذہ و خلفا نے روشن کی تھی۔

جہان امام ربانی قومی کانفرنس لاہور بھی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئی، مقالہ نگار حضرات اور سامعین نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی، راقم بھی اس میں شریک ہوا، اس کانفرنس کی کامیابی کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، آپ کے تشریف فرما نہ ہونے کی وجہ سے بہت خلا محسوس ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔

(محررہ: ۲۵/ اپریل ۲۰۰۵ء)

(۲)

امت مسلمہ کی بقا اور ترقی کا راز اس امر میں مضمر ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھام کر اپنا ایمانی تعلق خالق کائنات جل جلالہٗ کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کر لیں۔ عقائد، اعمال، احوال اور اخلاق کا قبلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں درست کریں، یہ وہ فریضہ ہے جس کی طرف مجددین امت اور اولیاء کاملین راہنمائی فرماتے رہے ہیں، یہی ارشاد ربانی ”اُدْخُلُوْا فِی السِّلْمِ کَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّیْطٰنِ“ کا مطلب ہے۔

اصلاح اور تجدید دین کا فریضہ انجام دینے والے قائدین کی طویل فہرست میں امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا نام بڑا نمایاں ہے، ان کی اتباع شریعت اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اتنی زوردار تھی کہ اس کے اثرات دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور آج بھی اس کی برکات سر کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج جب کہ فسق و فجور، گمراہی اور بدعقیدگی کا منہ زور سیلاب عروج پر ہے، عوام تو عوام حکمران تک اس کی سرپرستی کو سرمایۂ فخر جانتے ہیں، ضرورت ہے کہ اولیاء کاملین اور خاص طور پر امام ربانی قدس سرہٗ کے ارشادات کی بھرپور اشاعت کی جائے اور علامہ اقبال کے اس قول پر عمل کیا جائے ؎

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر باو نہ رسیدی تمام بولہبی ست

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی دورِ حاضر کے وہ عظیم دانشور، مفکر، شیخ طریقت، مصلح اور قلم کار ہیں جن کی تحریرات نے ان گنت قارئین اور متعلقین کی علمی اور فکری راہنمائی کی اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کردیا، تیس سال کا طویل عرصہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہٗ کی علمی، اعتقادی، ادبی اور سیاسی مسائی جمیلہ پر اتنا لکھا کہ تنہا ان کا کام پوری اکیڈمی پر بھاری ہے، بے شمار ارباب علم ان کی شستہ اور معقول و مدلل نگارشات کو پڑھ کر شکوک وشبہات کی فضا سے نکل آئے اور انھوں نے تسلیم کرلیا کہ امام احمد رضا بریلوی واقعی مسلک اہل سنت و جماعت اور مذہب حنفی بلکہ سیدھے سادے لفظوں میں اسلام کے ترجمان اور پاسبان تھے۔

اب انھوں نے ''جہان امام ربانی'' کی دس (بارہ) جلدوں کا سیٹ مرتب اور شائع کرکے پورے ادارے کا کام تن تنہا انجام دیا ہے اور امام ربانی قدس سرہ العزیز کے علمی، ایمانی، عرفانی اور تجدیدی کارناموں کی دنیا کو اس کتاب میں جمع کردیا ہے یہ ان کا وہ زندۂ جاوید کارنامہ ہے جو اللہ نے چاہا تو صدیوں تک زندہ رہے گا اور ان کا نام بھی روشن رکھے گا۔

ساتویں جلد حسین اور نادر تصاویر پر مشتمل ہے جس میں امام ربانی مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی کے مزارات اور ان کے حوالے سے نایاب تصاویر جمع کردی گئی ہیں اور تصویروں کی زبانی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان حضرات اور علامہ اقبال کا مسلک ایک ہی ہے، یہ ایسی فکر ہے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ جمع ہوسکتی ہے۔ جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی اور ان کے معاونین صاحبزادہ مسرور احمد، ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری اور جناب جاوید اقبال مظہری اور دیگر تمام تعاون کرنے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یارب العالمین بحرمۃ سیدنا ومولانا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین (محررہ: ۷؍ ذیقعدہ ۱۴۲۶ھ/ ۱۰؍ دسمبر ۲۰۰۵ء)

علامہ جمیل احمد نعیمی چشتی صابری ضیائی

(استاذ الحدیث وناظم تعلیمات دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)

☆

غالباً ۲۰۰۵ء کی بات ہے کہ مخدوم ومحترم سرمایۂ اہل سنت، نازش ملت، محقق ومفکر، پروفیسر ڈاکٹر

محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی مظہری دہلوی دامت برکاتہم القدسیہ نے بوقتِ ملاقات احقر کو یہ خوش خبری سنائی کہ عنقریب قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، عالم باعمل، صوفی باصفا، ہند میں سرمایہء امت کے نگہباں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہم اللہ القوی کی حیات مبارکہ و دینی خدمات جلیلہ پر ایک جامع و مانع انسائیکلو پیڈیا متعدد جلدوں میں بنام وعنوان ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' منصہء شہود پر آرہی ہے۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ ۲۰۰۶ء کے آخر میں عزیزم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری زید مجدہ سے یہ مژدہ جان فزا سن کر بے حد مسرت ہوئی کہ اب یہ انسائیکلو پیڈیا بارہ حسین جلدوں میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم اور اس کے محبوب وکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے جس میں ایک جلد مرقعات امام ربانی کے نام سے نایاب نوادرات پر مشتمل ہے۔ احقر کے ناقص علم ومطالعہ سے علماء کرام ومشائخ عظام کی اس موضوع پر متعدد کتب گزری ہیں مگر احقر یہ کہہ سکتا ہے کہ محققِ دوراں، نبہانی زماں، مسعود ملت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی مظہری دہلوی دامت فیوضاتہم العالیہ کی سرپرستی میں جوان کے سعادت مند فرزند ارجمند اور لائق جانشین صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد نقشبندی مجددی مظہری زید مجدہ نیز ان کے احباب بالخصوص مخدوم ومحترم مولانا جاوید اقبال مظہری دام ظلہ العالی بانی امام ربانی فاؤنڈیشن اور عزیزم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری زید مجدہ قابل صد تحسین وتقلید ہیں۔

مولائے کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام حضرات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتے ہوئے تادیر صحت وعافیت اور سلامتی دین وایمان کے ساتھ قایم ودایم رکھے۔

آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الامین

احقر یہ سمجھتا ہے کہ مسعود ملت کی سرپرستی میں اس مختصر مدت میں اتنے عظیم علمی، فکری، تحقیقی وتخلیقی اور حسن صوری ومعنوی کے ساتھ کام کا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کا تصرف نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

ذٰلک فضل اللّٰہ یؤتیہ من یشاء واللّٰہ ذو الفضل العظیم.

احقر اس شعر پر اپنی تحریر کا اختتام کرتا ہے۔

ہر گز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

(محررہ: ۲۱/ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ/۱۲/جنوری ۲۰۰۷ء)

حضرت ابوحفص عمرالمجد دی

(سجادہ نشین خانقاہ خیریہ، کوئٹہ، بلوچستان)

☆

۱۲/ربیع الانور سے قبل آپ کی مرسلہ کتب جہان حضرت امام ربانی کا مکمل سیٹ اور نسخہ ''نورٌ علیٰ نور'' موصول ہوئے ''**طوبا لکم ثم طوبا وھنینالکم**'' قابل صد ستائش ہے آپ کا ادارہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے احوال مبارکہ و سیرت طیبہ و مساعیٔ جلیلہ سے اللہ کی مخلوق کو روشناس کرا رہا ہے۔ **جزی اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزاء** اور ان ذوات مقدسہ کے مذکرے سے دلوں کو جلا وثبات ایمان کی تقویت ویقین کا حصول ہوگا۔ جیسے کہ فرمان رب جلیل ہے۔ ''**وکلا نقص من انباء الرسل مانثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین**'' اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کے نام نامی پر ہماری جانیں اور روحیں فدا ہوں۔ ''**عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من کان مستنا فلمستن لمن قدمات**'' یعنی گزری ہوئی مبارک ہستیوں کی راہ پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اور بحمدہٖ تعالیٰ اس خدمت جلیلہ کو آپ حضرات بوجہ احسن سرانجام دے رہے ہیں۔

پھر حضرت مجدد الف ثانی کے احوال سبحان اللہ۔

قولِ او قولِ قبول فعلِ او فعل رسول
شانِ او شانِ نزول اے تحفہ دارِ یثربی
رضوانِ او رضوان ہو احسانِ او احسان ہو
حرمانِ او حرمانِ ہو اے تحفہ دارِ یثربی
ترغیبِ او وعد سعید تہیبِ او مثلِ وعید
تلقینِ او حمدِ حمید اے تحفہ دارِ یثربی

بادائی دین ملقب فاروقی اعلیٰ نسب
پیرِ عجم میرِ عرب اے نائبِ پیغمبری

ابوالخیر خواجہ محمد عبداللہ جان نقشبندی

(سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مرشد آباد شریف، پشاور، سرحد)

☆

محقق عصر رئیس التحریر، محسن اہل سنت، شیخ طریقت، مسعود ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد دامت برکاتہم العالیہ لائق صد تحسین ومبارکباد ہیں کہ ان کی سرپرستی میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کے حوالے سے عظیم الشان علمی وتاریخی انسائیکلو پیڈیا بنام ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی سات ضخیم جلدیں زیور طباعت سے مزین ہو کر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک جلد ''نورٌ علیٰ نور'' آرٹ پیپر پر چار رنگی طباعت ہے اور ٹائٹل پر مزارات ومقامات مقدسہ کی خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اولیائے کرام اور مشائخ عظام کے مزارات ومقاماتِ متبرکہ کی نہایت خوبصورت اور جاذب نظر رنگین تصاویر موجود ہیں اس کے علاوہ مغلیہ بادشاہوں کی بعض اہم تاریخی مقامات کی یادگار تصاویر بھی دی گئی ہیں۔

عنقریب مزید تین جلدیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ محترم المقام حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب عرصہء دراز سے جہاد بالقلم میں مصروف عمل ہیں۔ ان کے نوک قلم سے مختلف اہم موضوعات پر تصنیفات وتالیفات کا جو ذخیرہ منصۂ شہود پر آیا ہے وہ بلاشبہ اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا علمی وتاریخی سرمایہ ہے لیکن ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' پر کام کر کے انھوں نے اپنے آپ کو زندۂ جاوید بنا دیا ہے۔ نقشبندی مجددی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر تو چھوٹی بڑی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس قدر اہتمام وانصرام کے ساتھ مفصل کام آج تک نہیں ہوا۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔

ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشآء۔

ایں سعادت بزور بازو نیست۔ تانہ بخشد خدائے بخشندہ

حکیم سید اکرام حسین سیکری

(سجادہ نشین خانقاہ چشتیہ میر پور خاص وحید آباد، سندھ)

☆

میں اس خصوصی عنایت اور کرم فرمانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں جو باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کام کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائے۔

حضرت مجدد الف ثانی کی سیرت پر مزید کام ہونا چاہیے ان کے دور حیات میں ارباب اختیار نے دین کے معاملات میں جو شورش پیدا کی تھی اس کی مکمل تفصیل شائع ہونی چاہیے۔

(محررہ: ۲۲ رمئی ۲۰۰۵ء)

مفتی اعظم علامہ ڈاکٹر محمد مکرم احمد نقشبندی

(امام وخطیب شاہی مسجد فتح پوری، دہلی (بھارت))

☆

(۱)

اللہ تبارک وتعالیٰ کا شکر بے حساب ہے اور حضرت مجدد الف ثانی محبوب سبحانی، حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت اور فیوض وبرکات کے صدقہ میں آج کراچی کے انٹرنیشنل اجلاس میں اس ناچیز کی شرکت ہو رہی ہے۔ کہاں ہندوستان کی راجدھانی دہلی اور کہاں پاکستان کا مرکزی شہر کراچی۔ فخر اہل سنت عالم اسلام کے نامور محقق ومفکر عارف باللہ مجدد دین وملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی اور حضرت آغا فضل الرحمٰن مجددی خانوادۂ مجددیہ کے روشن چراغ کی سرپرستی میں علماء ومشائخ، عقیدتمندوں اور عاشقوں کی اس محفل میں شرکت کر کے جتنی خوشی ہو رہی ہے بیان سے باہر ہے، انہی ایام میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرہند شریف میں بارگاہ مجدد میں ہزاروں عقیدتمند اپنی جھولیاں پھیلائے عرس منور کی محفل میں حاضر ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں بلکہ سارے جہان میں حضرت مجدد الف ثانی کے عرس شریف کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ سب ہی حضرات جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں اور ایسی مبارک محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کے ذکر کی محفل میں اور اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے والے کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوتے، یہ ہی عقیدت ومحبت اس

زندگی میں بھی کام آتی ہے اور آنے والی زندگی میں بھی کام آئے گی، ان شاء اللہ سب کی مرادیں پوری ہوں گی، ان کا فیض قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔

اس وقت تعلیمات مجددیہ کی اشاعت کے لیے خانقاہوں کا فعال ہونا ضروری ہے جس کے لیے مشائخ مجددیہ کو اپنے اپنے دائروں سے نکل کر ایک بڑے دائرے میں آنا ہوگا تاکہ آفاقی سطح پر کام ہو سکے اور اتحاد بین المسلمین کا خواب شرمندۂ تعبیر ہو سکے، اخلاص عمل وقت کی اہم ضرورت ہے، جہان امام ربانی کی تیاریوں میں اسی جذبہ کے تحت کام ہوا ہے اور یہ انٹرنیشنل محفل تشکر بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ مجدد قرن حاضر مسعود الملت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہٗ امام ربانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب صاحبزادہ مسرور احمد صاحب مدظلہ اور سب ہی رفقاء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان تھک کوششوں سے اس آفاقی سطح پر کام کی داغ بیل ڈالی، مکتوبات شریف میں سے انتخاب کر کے عوامی آگاہی کے لیے انہیں ہر زبان میں لایا جائے اور اتنی وافر تعداد میں انہیں شایع کیا جائے کہ ایک ایک نسخہ ہر گھر میں موجود ہو، آپ کے مکتوبات شریف کا امتیاز یہ ہے کہ خط میں ذاتی غرض ظاہر نہ فرمائی، ہم لوگ بھی خط لکھتے ہیں، جن میں خانگی حالات اور ذاتی زندگی سے متعلق مسائل کا ذکر ہوتا ہے، بس! حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے خط لکھنے کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا جبکہ دور جدید میں بعض علماء و مشائخ بادشاہوں اور وزیروں کی قربت سے ذاتی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوشامدی انداز اپناتے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی کسی وزیر یا سربراہ مملکت سے اللہ کے لیے ملتا ہوگا۔ بادشاہوں وزیروں سے ملنا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ان کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جب اصلاح کی قدرت یا ضرورت ہو تو ان کو تنہا چھوڑ دینا دانائی نہیں دانائی یہ ہے کہ ان سے مل کر ان کو بنایا جائے، سنوارا جائے، تاکہ وہ اللہ کی مخلوق پر جابر و قاہر نہ ہوں بلکہ رحم دل و کرم فرما ہوں، نیز ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حوالے سے کام کرنے والوں اور ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ عقیدت رکھنے والوں کے لیے مژدہ یہ ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمایا:

> جو لوگ ہمارے طریقے میں قیامت تک بالواسطہ یا بلا واسطہ داخل ہوں گے، خواہ مرد ہو یا عورتیں سبھوں کو ہماری نظر کے سامنے لایا گیا،

نام ونسب، مولد ومسکن بتایا گیا۔ اگر میں چاہوں سب کو ایک ایک کر
کے بیان کر دوں۔ (ص ۲۲، نورٌ علیٰ نور)

لٰہذا جتنے حضرات ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان پر کام کر رہے ہیں، ان کے سلسلہ میں داخل ہیں یہ ان کے لیے مژدہ ہے، ان شاء اللہ سب ہی حضرت مجدد سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور یہ فیض خاندانی خوشحالی کا ذریعہ ہوگا۔

ان بارگاہوں سے جڑنے والے خوش نصیب ہیں انہیں شیخ طریقت کی صحبت ملی جس سے انہیں اس راہ کا پتا لگا، بغیر رہنما کے رہنمائی کی تکمیل نہیں ہوتی، ۱۹۶۶ء میں احقر اپنے جد امجد مرشد کامل شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت وشفقت سے انہی کی معیت میں پہلی مرتبہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ تب ہی سے الحمدللہ یہ فیض جاری ہے، ہمہ وقت فیض وکرم کا سلسلہ جاری ہے پچھلے سال ۸ رمئی ۲۰۰۴ء کو احقر زادے حافظ قاری مولوی محمد انس احمد مسعود سلمہٗ اپنے مرشد و جد امجد حضرت مسعود الملت مجدد قرن الحاضر علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی صحبت میں بارگاہ مجدد رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوئے اللہ تبارک وتعالیٰ انہیں اور سب ہی صاحبزادوں کو اسلام کے نقش قدم پر گامزن فرمائے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خدمات انجام دینے کی مزید توفیق ارزانی فرمائے۔

پاکستان کے سب ہی احباب خوش نصیب ہیں مسعود ملت کی صحبت عظیم المرتبت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں مجھے کامل یقین ہے ان شاء اللہ یہ فیض مجددی مظہری مسعودی ہمارے لیے دین و دنیا کی سعادت وشادمانی کا ذریعہ ہوگا۔

جو حضرات جہان امام ربانی جیسے عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر کام غیب سے ہوا اور غیب سے ہوتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے، جتنا عظیم کام جتنے کم وقت میں انجام پایا ہے یہ بھی حضرت مجدد کا فیض اور مسعود الملت کی عظیم الشان کرامت ہے جس نے بہت سوں کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ آپ تیس سال سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اور مجدد مأۃ سابقہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ پر تصنیف وتحقیق کا کام سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی مجددیت کے منصب پر فائز ہیں جس روز سے آپ نے ان مجددوں کی حیات اور خدمات پر کام شروع کیا تھا اسی روز سے آپ مجدد مأۃ حاضرہ کے جلیل القدر منصب پر فائز ہیں کہ آپ کا فیض سالہا سال سے ہمہ وقت

جاری وساری ہے۔ آپ نے سب کے ساتھ فراخدلی کا معاملہ فرمایا ہے اور اپنے علم سے کبھی کنجوسی نہیں کی، ہر ایک کو فیض پہنچایا جو آپ کے در پر آیا آپ نے خوش اخلاقی سے استقبال کیا آج کے دور میں آپ سا فراخ دل فاضل اور شریعت وسنتوں کا پیکر نہیں ملے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ خطوط لکھتے ہیں خط کے برابر جواب دیتے ہیں اور اس پر بھی آپ معقول صرفہ ہر مہینے فرماتے ہیں، جدید وسائل کا آپ بھرپور استعمال فرما کر فیض رسانی فرما رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعہ، فیکس کے ذریعہ، فون کے ذریعہ، ای میل کے ذریعہ غرض ہر طریقہ سے آپ خلق خدا کی رہنمائی فرما رہے ہیں، سیکڑوں رسائل اور کتابیں آپ نے لکھیں کبھی اس پر رائلٹی نہیں لی، آپ نے علم کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا، ادارۂ مسعودیہ اور امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے احباب لاکھوں روپے کا مذہبی لٹریچر شایع کر کے مفت تقسیم کرا رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں مسعود ملت اور مجدد برحق کا فیض جاری ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں آپ کا لٹریچر نہ پہنچا ہو، یہی تو شان مجددیت ہے، حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے مریدین، خلفاء اور مکتوبات شریف کے ذریعہ فیض ہدایت کو عام فرمایا، وہی خدمت آج حضرت مسعود ملت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے اور فیض مجددی جاری رہے۔

(محررہ ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء)

(۲)

احقر بھی آپ کی دعاؤں سے جہان امام ربانی کے تعارف میں اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ومعارف کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک نیشنل کانفرنس کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، ہندوستان میں اس طرح کی کانفرنسوں کا رواج کم ہے، سرہند شریف میں خلیفہ صاحب سے رابطہ کیا ہے وہ مستعد ہیں ہندوستان کی سطح پر نقشبندی مجددی حضرات سے رابطہ کرنا ہے تاکہ یہ کانفرنس عظیم الشان ہو، اس سلسلہ میں احقر ایران کے سفر سے واپسی پر ان شاء اللہ سرہند شریف حاضر ہوگا۔

جہان امام ربانی نے دھوم مچا رکھی ہے، جو بھی دیکھتا ہے بے حد متاثر ہوتا ہے، آج کل مولانا جمیل نوحی مدرس مدرسہ عالیہ اس کا لفظاً لفظاً مطالعہ فرما رہے ہیں۔ مسلم احمد نظامی سے بھی مولانا کا کافی قرب ہے۔ وہ اپنا تأثر لکھیں گے۔ میں نے درخواست کی ہے ملے گا تو ارسال خدمت کروں گا۔ امام ربانی کی ایک برانچ دہلی میں قائم کی جائے تو کیسا ہوگا، آپ کا، مشورہ ضروری ہے۔ (محررہ: ۱۲/جولائی ۲۰۰۵ء)

(۳)

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر برسوں سے تحقیق ہورہی ہے بارہ تحقیقی مقالات پر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں مل چکی ہیں، فقیر نے بھی عربی میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حالات وخدمات پر تحقیقی مقالہ قلمبند کیا ہے جو تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے جسے ان شاء اللہ ادارۂ مسعودیہ، کراچی عنقریب شائع کرے گا۔ امام ربانی فاؤنڈیشن کا قیام اور جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی تدوین واشاعت اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری (جن کی مساعی جمیلہ اور ان کے رفیق کار صوفی غلام سرور صاحب کی جدوجہد سے نصف صدی سے پاکستان میں مجدد علیہ الرحمۃ کے ذکر وفکر کا چرچا ہے) نے لاہور میں حوزہ نقشبندیہ ایک علمی ادارہ قائم کیا ہے جس کے سیکرٹری محمد مختار عالم حق ہیں۔ جس نے کام شروع کردیا ہے اس کے معاونین میں پروفیسر محمد اقبال مجددی جیسے محقق ہیں اس سے اس کے کام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، امام ربانی فاؤنڈیشن نے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حالات وافکار وخدمات پر ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا سات جلدوں میں شایع کیا ہے اور دو مزید جلدیں آئندہ سال منظر عام پر آجائیں گی۔ ان شاء اللہ۔ اس طرح یہ انسائیکلو پیڈیا تقریباً چھ ہزار صفحات پر محیط ہوگا۔ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے بعد آپ کے غلاموں میں کسی بھی شخصیت پر اتنا عظیم کام نہ ہوا ہوگا، بے شک یہ ایک تاریخ ساز کام ہے۔ (محررہ: ۲۴ اپریل ۲۰۰۵ء)

ڈاکٹر مفتی صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الازہری

(الشہادۃ العالیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ/ ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی/ رکن قومی اسمبلی، اسلامی جمہوریہ پاکستان)

☆

میں سب سے پہلے تو ''جہان امام ربانی'' کی اشاعت پر مسعود ملت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، ان کے رفقائے کار اور اس عظیم کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ان کے احباب ومحبین اور مخلصین کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ سات جلدوں پر مشتمل ''جہان امام ربانی'' کو شایع کرکے انھوں نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جیسی عظیم ذات کے محاسن ومحامد کا جو جہاں آباد کیا ہے اور اس طرح ان کی بارگاہ میں جس خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے وہ تصوف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اور بارگاہ مجدد سے

دنیا و آخرت میں بہت بڑے انعام و اکرام کا موجب بنے گا۔ (محررہ: ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء)

علامہ عبدالمبین نعمانی قادری

(المجمع الاسلامی، مبارکپور اعظم گڑھ، بھارت)

☆

اب آخر میں ڈھیروں تہنیتیں اور مبارکبادیں قبول فرمائیں جہان امام ربانی مجدد الف ثانی جیسی ضخیم و عظیم کتاب کی ترتیب و تالیف و اشاعت پر جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، پیرزادہ مولانا اقبال احمد فاروقی نے اپنے مکتوب اور جہان رضا کے ذریعہ یہ خوشخبری سنائی ہے، یہاں جامعہ اشرفیہ کی امام احمد رضا لائبریری، یا المجمع الاسلامی کی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ آجاتا تو نگاہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوتیں۔ (محررہ: ۱۸/جولائی ۲۰۰۵ء)

علامہ مفتی محمد علیم الدین نقشبندی

(شیخ الحدیث دارالعلوم سلطانیہ، جہلم، پنجاب)

☆

(۱)

یہ کتاب آپ کے مؤقر ادارہ اور آپ کی طرف سے بارگاہ مجددی میں منفرد اور عدیم النظیر نذرانۂ عقیدت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبولیت کی امید ہے۔ اتنی جامعیت، اتنے تنوع، اتنی انفرادیت اور اتنی ضخامت کے باوجود دل یہ کہتا ہے

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور اس طرح کے کارناموں کی انجام دہی آپ کی قسمت میں کرے اس کارنامے کو سر فرمانے کی مبارکبادی کے ساتھ گزارش ہے کہ اس کے بعد بارگاہ مجدد الف ثانی قدس سرہٗ میں پیش کرنے کے لیے ایک نئے اور اس سے بہتر نذرانہ کی فکر فرمائیں اور اس کی طرح ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ گزارش قبول ہو۔ (محررہ: ۴/ستمبر ۲۰۰۵ء)

(۲)

''جہان امام ربانی''، جیسی وقیع کتاب امام ربانی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مرتب ہو کر شائع ہوئی۔ یہ

ایک فقید المثال کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ فقیر عفی عنہ کے خیال میں فاؤنڈیشن نے ابھی اپنے کام کا آغاز کیا ہے جو اس کے شاندار اور تابناک مستقبل کی نشان دہی کرتا ہے۔ کیوں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کی سیرت مبارکہ اور کارناموں کی بہت سی جہتوں پر بہت سا کام ابھی ان کے نام لیواؤں کے ذمہ قرض ہے۔ ابھی تو قرض کی ایک قسط ادا ہو پائی ہے اس کام کے لیے مختلف محققین سے آپ کی سیرت اور کارناموں کی مختلف جہات پر عنوانات کی نشان دہی کرائی جائے اور پھر ان عنوانات پر ملک اور بیرون ملک علماء و محققین سے مقالات تیار کرا کے انہیں شائع کرنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔

علامہ محمد منشا تابش قصوری

(استاد جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، پاکستان)

☆

(۱)

''جہان امام ربانی'' کی تاریخی اشاعت پر ھدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازتے ہوئے مزید فیوضات مجددیہ کا قاسم بنائے۔ آمین۔ (محررہ: ۱۴؍ستمبر ۲۰۰۵ء)

(۲)

شریعت وطریقت کے مرج البحرین، دنیائے اسلام کی نامور روحانی شخصیت، عارف ربانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کی ذات بابرکات کے عالم اسلام پر جو ناقابل فراموش احسانات ہیں ان کا احاطہ ممکن نہیں، آپ پیکر تبلیغ بن کر ظہور پذیر ہوئے، شاہان وقت کو ان کی بے دینی و بے راہروی پر للکارا۔ تنبیہ فرماتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر چلنے کی طرح ڈالی، جرأت وعزیمت کے نئے جہان آباد کیے مکتوبات مبارکہ سے تبلیغ کو ایک نئی جہت سے متعارف کروایا، اس پر اکابر اسلام نے خراج عقیدت ومحبت پیش کرتے ہوئے برملا اعلان کیا کہ قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ ہے مکتوبات امام ربانی۔

''ان اللہ یحب المحسنین''

بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے ان محسنین میں بلاشبہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ

شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے محسن کا شکرادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ امام ربانی علیہ الرحمۃ تو براعظم ایشیاء میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے محسن ہونے کی وجہ سے یقیناً ہزار ہا شکریہ کے مستحق تھے ایسے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جاتا، ان کے سنہری کارناموں سے نئی نسل کو روشناس کراتے، ان کی متعین کردہ راہوں کو حرز جان بناتے، ان کی سیرت کے نقوش نوریہ سے اپنے قلب ونظر منور کرتے اور اپنی صورت وسیرت کو ان کے پاکیزہ افکار وکردار سے سنوارتے، مگر ہم دیکھتے رہ گئے اور غیر بازی لے گئے۔

تاہم پھر بھی شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی نگاہ کرامت نے نازش لوح وقلم حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد مظہری مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ستودہ صفات سے وہ کام لیا جو کسی اور سے نہ ہوسکا۔ مسعود ملت کا خاندان نسل بہ نسل علمی وروحانی، دینی ومسلکی، تاریخی وتحقیقی، خدمات سرانجام دیتا آرہا ہے۔ اس فیض بار خاندان عالیہ کی تاریخ بڑی روشن ہے ایک سے ایک بڑھ کر شخصیت کا ظہور ہوا مگر مسعود ملت نے دینی، ملی، علمی، عملی، روحانی، قلمی، تاریخی خدمات سے نہ صرف اپنی بلکہ خاندانی وجاہت وثقافت کو بھی چار چاند لگا دیے۔

حضرت مسعود ملت مدظلہ بڑی بے نیازی وبے لوثی سے خدمت لوح وقلم میں مصروف ہیں، نام ونمود سے انہیں کوئی غرض نہیں، یہی وجہ ہے کہ موصوف نے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ پر اتنا وقیع کام کیا کہ آج یگانے، بیگانے سبھی رطب اللسان ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ پر بیس سے زائد کتب لکھنے کے بعد اب امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر نہ صرف کام کا آغاز کیا ہے بلکہ ان کی زیر سرپرستی جہان امام ربانی کے مقدس نام سے چھ ضخیم مجلدات بڑی آب وتاب سے منصۂ شہود پر جلوہ افروز ہوچکی ہین جو اہل تحقیق کے لیے نہایت تاریخی شاہکار ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کے مرتبین میں صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری اور ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ ازیں قبل تحریک مجدد الف ثانی کے بانی شیخ المشائخ حضرت الحاج میاں جمیل احمد نقشبندی مجددی شرقپوری زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت میاں شیر محمد المعروف شیر ربانی (رحمۃ اللہ علیہ) نے شرقپور شریف پنجاب پاکستان نے ماہ نامہ نور اسلام شرقپور کے مجدد الف ثانی نمبر اور اولیائے نقشبند نمبر پانچ ضخیم جلدوں میں شائع کر کے حضرت مجدد الف ثانی کی بارگاہ عظمت میں نذرانۂ عقیدت ومحبت پیش کیا۔ یہ دونوں نمبر اہل علم وقلم

کو بالکل مفت دیے گئے۔

اب حضرت مولانا جاوید اقبال مظہری مدظلہ نے بشارت دی ہے کہ حضرت مسعود ملت مدظلہ ''جہان امام ربانی'' کی تین مزید جلدیں مرتب فرما چکے ہیں جو عنقریب اشاعت پذیر ہوا چاہتی ہیں۔ اللہ کرے یہ مژدہ ایمان افروز، روح پرور جلد ظہور پذیر ہو۔ اور طالبین ان سے جلد مستفید و مستفیض ہوں۔ راقم الحروف امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے ارباب حل وعقد کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوا دعا کرتا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت مسعود ملت مدظلہ کے علمی وروحانی، قلمی تاریخی تحائف مبارکہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بہرہ مند فرماتا رہے اور موصوف کا سایہ برقرار رہے۔ آمین (محررہ: ۲۹ر شوال المکرم ۱۴۲۶ھ/۲ر دسمبر ۲۰۰۵ء)

علامہ محمد صدیق ہزاروی

(جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

☆

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علم وآگہی کے موجزن سمندر امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے زیر اہتمام، نامور محقق علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کی سرپرستی میں ملک اور بیرون ملک کے معروف مذہبی، ادبی اور تاریخی اسکالرز کے مضامین پر مشتمل ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا موسوم بہ ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ'' کے چھ اقلیم (چھ مجلدات) نہایت خوبصورت طباعت، عمدہ کاغذ اور مضبوط و دیدہ زیب جلد کی شکل میں منظر عام پر آئے اور ارباب علم ودانش کے لیے نہایت قیمتی علمی ذخیرہ مہیا ہوا۔

کسی کتاب کی عظمت کے لیے عمدہ موضوع کا انتخاب اور مصنف یا مقالہ نگار حضرات کی بھاری بھرکم شخصیات کا چناؤ بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ نیز قدم قدم پر راہنمائی کے لیے اخلاص اور جدوجہد کے ساتھ ساتھ بہترین صلاحیتوں کی حامل شخصیت کا وجود غیبی تائید کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

اس کتاب کا موضوع ایک ایسی شخصیت کا تعارف پیش کرتا ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی فکری اور سیاسی راہنمائی کا فریضہ باحسن طریق انجام دیا، دوقومی نظریہ جس کی بنیاد پر وطن عزیز پاکستان وجود میں آیا، کے خلاف ہندوؤں کی گھناؤنی سازش کا قلع قمع کر کے ملت اسلامیہ کو صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے

اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا حوصلہ دیا۔

اگرچہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کی شہرت دو قومی نظریہ کے تحفظ کے حوالے سے بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے لیکن فقہی بصیرت، اسرار و رموز طریقت سے آگاہی، اصلاح احوال امت، محبت واتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلامیہ کی پاسداری اور حسن طریقت کی حفاظت ایسے اہم اوصاف آپ کی حیات طیبہ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی نہ صرف اس عظیم مذہبی سکالر اور مصلح و مدبر کے حالات و خدمات پر مشتمل ہے، بلکہ اس کے متنوع موضوعات نے اس عظمت کو مزید چار چاند لگا دیئے ہیں۔ مثلاً دیگر اکابر صوفیہء نقشبند کے تذکرے، تصوف کے صحیح رخ کی پہچان، برصغیر میں حق و باطل کے معرکے، مختلف حوالوں سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور علمی مقام، دنیائے عرب کے نقشبندیہ مجددیہ مشائخ کا تعارف، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں نقشبند حضرات اور ان کی خدمات وغیرہ موضوعات پر نہایت قیمتی اور وقیع مقالات جو علمی اور فکری دنیا کے معروف قلمکاروں کی کاوشوں کا ثمرہ ہیں، اس کتاب کا طرۂ امتیاز ہیں۔

مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں فکر اور قلم کے استعمال کی جو صلاحیتیں آپ کو خالق کائنات کی طرف سے ودیعت ہوئی ہیں آپ نے کسی بخل کے بغیر ملت اسلامیہ کو ان سے بہرہ ور کیا۔

اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے اور آپ کا صحیح تعارف سامنے لانے کو فرض منصبی کی طرح خیال فرمایا اسی طرح مجدد ملت حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے آگاہی اور آپ کے خلاف تعصب پر مبنی پروپیگنڈہ کا ازالہ کر کے تاریخی کارنامہ سرانجام دیا۔

بنابریں ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ'' کی وقعت اور جامعیت کے حوالے سے جہاں دیگر عوامل کو رد کرنا مشکل ہے وہاں اس انسائیکلو پیڈیا کے عمدہ مضامین کے ساتھ ساتھ اس کی شاندار ترتیب اور دیدہ زیب طباعت میں حضرت مسعود ملت کی سرپرستی اور تحریک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

یقیناً وہ تمام حضرات مبارک باد کے مستحق ہیں جنہوں نے برصغیر بلکہ عالم اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس گوہر نایاب کے حصول کے لیے شب و روز محنت کی اور امت مسلمہ کی علمی پیاس بجھانے اور ان کی فکر کو جلا بخشنے کے لیے اس عظیم راہ نما کتاب کا تحفہ پیش کیا۔

اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کتاب مستطاب کو ملت اسلامیہ کی راہنمائی کے لیے مفید اور ممد و معاون بنائے۔ آمین بجاہ نبیہ الکریم علیہ التحیۃ و التسلیم.

قاری محمد میاں نقشبندی مجددی

(سجادہ نشین خانقاہ حامدیہ، مہتمم جامعہ اسلامیہ خیر المعاد، قلعہ کہنہ قاسم، ملتان)

☆

یہ حقیقت ہے کہ ''جہان امام ربانی'' حضرت امام ربانی کا ذکر نزول رحمت کا سبب ہے اور معناً صحبت کا حکم رکھتا ہے۔ خاص کر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں رابطہ اور صحبت و محبت مشائخ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ طریقہ انعکاسی ہے۔ اس میں وصول الی اللہ کا بڑا ذریعہ اپنے مشائخ کی صحبت اور محبت ہی ہے۔ ''جہان امام ربانی'' میں مقالات و مضامین کا مطالعہ کرنے سے صحبت معنوی کا لطف حاصل ہوگا۔ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ سے محبت و انس بڑھے گا اور آپ کے ساتھ ارتباط روحانی پیدا کر کے ظاہری اتباع کی توفیق میسر ہوگی اور مراد حقیقی یعنی رضائے رب حاصل ہوگی۔ ان شاء اللہ

آپ نے جلد اول صفحہ ۴۴ پر تحریر فرمایا ہے کہ:

> ''جہان امام ربانی جہان نہیں بہت بڑا جہان ہے جس میں سارا جہان سمایا ہوا ہے''

جہان امام ربانی کے مطالعہ کے بعد مندرجہ بالا تحریر حقیقت کے بہت قریب ہے۔

مولانا قمر الدین نقشبندی

(سنام گنج، بنگلہ دیش)

☆

(۱)

بعد نہایت تاخیر سے مطبوعات مذکورہ مل گئی ہیں سات جلد میں مطالعہ سے دل کا بھید کھل گیا ہے

حضرت قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک زندہ رکھیں، واللہ میرے استاد شارح بخاری جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ کا فقیہ علامہ قاضی عبدالواحد صاحب قبلہ اور اس جامعہ احمدیہ سنیہ عالیہ کا محدث میرے استاد سلیمان انصاری دونوں نے جہان امام ربانی ایک ایک سیٹ کے لیے رغبت کیا ہے لہٰذا اگر ممکن ہو تو ان دو حضرات کے عنوان میں دو سیٹ جہان امام ربانی روانہ فرما دینا آپ کا مرضی ہے۔ (محررہ: اکتوبر ۲۰۰۵ء)

(۲)

اولاً قدمبوسی قبول فرمانا، مجھے یقین ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، بعد الحمد للہ جہان امام ربانی کے مطالعہ سے فارغ ہوا اور الصبح ہر وقت نظارہ کرتا ہوں الحمد للہ میں آپ کی تحقیقات میں ڈوب گیا ہوں میں حتی المقدور دو ایک نسخہ مطبوعات ترجمہ کر رہا ہوں دعا فرمانا۔ (محررہ: ۴؍رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ)

إلـــــى،

شيخ الطريقة ماهر الرضوية مجدد المأة الحاضرة لأحياء تراث أهل السنة والجماعة فروفيسر الدكتور محمد مسعود أحمد الموقر، مدير السابق بالكلية العالية الحكومية بالسنده، الباكستان.

الموضوع : كتاب جهان إمام ربانـــي مجدد ألف ثانـــي شيخ أحمد فاروقي سرهندى رضي الله تعالى عنه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقبيل القدم،

قد فرحنا على خطواتك المجيدة لتأسيس المؤسسة العديدة لإحياء تراث الأولياء بالمؤلفات القيمة فالأخص منها المشار إليها فنهنىء لك أجمل التهانـــيء من عمق القلب وترحيبا بالغا على ذلك.

ثم أما بعد ،

أفيدك علما فد طالعت الكتاب المذكورة بالذوق من المجلد الأول إلى المجلد الأخر أعني فرغت من لطاع الكتاب " جهان إمام ربانـــي مجدد ألف ثانـــي شيخ أحمد فاروقي سرهندى رضي الله تعالى عنه" سبع مجلدات فعلمت لها حقائق الأولياء لإرشاد الأمة فإنهم فتحوا ممالك الدنياء

بالتحريكات الروحانيات وأقاموا الدين كله لله بدون القتل .

فرحمك الله إنك أريت بها الباحثين طريق الهدى ولو أقول إليك تنتهي رياسة أهل السنة والجماعة شرقا وغربا ،شمالا وجنوبا لقلت حقا، بلغ سلامي إلى أرباب أهل السنة والجماعة، مع التحية والسلام.

التاريخ: ۲۸/۰۲/۲۰۰۶م

ابوالحسن مولوی سلطان احمد مسعود چشتی

(حافظ آباد، پنجاب)

☆

(۱)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں سات جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے یہ پڑھ کر بہت خوشی اور دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ ایسے عظیم بابرکت اور مقدس کام سرانجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے، نیک، مخلص، متقی، پرہیزگار، خداترسی کرنے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے والے، مسلک سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے عوام الناس کو مطلع کرنے والے اور لوگوں کے دلوں میں محبت و عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے والوں کو منتخب کر لیتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے ایسے کام سرانجام پاتے ہیں۔

ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشآء واللہ ذوالفضل العظیم .

این سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد، خدائے بخشندہ

حضرت مسعود ملت دامت برکاتہم نے اعلیٰ حضرت بریلوی کے مسلک کو پوری دنیا میں اجاگر کیا اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ان کی دینی خدمات اور ان کے کشف و کرامات سے عوام الناس کو روشناس کرایا جو کہ ایک بہت بڑا اجہاد، کارنامہ، شاہکار اور ملک و قوم پر ایک بڑا احسان ہے جو

کہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ (محررہ: ۱۴ر ستمبر ۲۰۰۵ء)

(۲)

آپ کی اس محققانہ کاوش کو جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے ملفوظات مقدسہ جو ان کے تقرب الی اللہ کے سبب سے ان کے بکثرت ذکر الٰہی سے ان کو روحانی عروج و ارتقاء و عرفانی توانائی کے سبب سے ان کے دل پر بذریعہ کشف و خواب، الہامات اور ارتقاء من عند اللہ وارد ہوئے ان کو تحریر فرمایا ہے جن کا مطالعہ قارئین کے لیے بالیدگی روح کو تازگی اور علم کا مصاحب ہے اور جن کا مطالعہ متلاشیان راہ حق کے لیے مشعل راہ کے مترادف ہے۔

واجب الاحترام قبلہ پروفیسر صاحب دامت برکاتھم آپ کا سات جلدوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے ملفوظات اور ان کی سیرت کا مرتب کرنا ایک نادر المثال تاریخی کارنامہ ہے اور اس عظیم کارنامہ کی بدولت ہر دور میں مؤرخ، مؤلف، مصنف اور رائیٹرز مخلصین اسلام پسند اور انصاف پسند سنہری حروف سے آپ کا نام لکھتے رہیں گے۔

قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتھم العالیہ پوری دنیا میں دینی تبلیغ و اشاعت، اعلیٰ حضرت بریلوی کی شخصیت سے عوام الناس کو متعارف کروانا اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی سیرت سات جلدوں میں چھاپنا آپ جناب کی زندہ کرامت ہے۔ قبلہ حضرت صاحب احقر العباد فقیر پُرتقصیر جناب کی دینی خدمات کے محیر العقول کارناموں سے متاثر ہو کر آپ سے عقیدت و محبت وانس اور ملاقات کی چاہت اور تمنا دل میں ہر وقت رکھتا ہے اور آپ کی طرف وقتاً فوقتاً خط لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ (محررہ: ۲۴ر اکتوبر ۲۰۰۵ء)

علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی

(مولانا اوکاڑوی اکادمی، کراچی)

☆

برِ اعظم میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ مجددیہ کا عنوان جانا پہچانا ہے، یہ نسبت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے ہے۔ حضرت الحاج پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مظہری خاندان نقشبندیہ مجددیہ کے روحانی وارثان اور وابستگان میں سے ہیں۔

تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ انھوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی تحریرات و تعلیمات اور تذکرکار وافکار کے حوالے سے وہ عمدہ تحریری خدمات انجام دیں کہ انھیں ماہر رضویات کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اس سال ان کی طرف سے سات ضخیم جلدیں ''جہان امام ربانی'' کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی سیرت و سوانح کا یہ کام بھی ان سے یادگار رہے گا۔

علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی

(جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر اسلام، لاہور)

☆

مقبولان بارگاہ ایزدی سے کائنات کا بھرم بھی ہے اور ریشہ ہستی کا نم بھی۔ ان کی آہ سحر گاہی سے شبستان وجود میں چراغاں بھی ہوتا ہے اور کاروان ہست و بود کے لیے نجات کا سامان بھی۔ یہ خالق کائنات کی قدرتوں کا مظہر بھی ہوتے ہیں اور مخلوق کی تمناؤں کا سپر بھی۔ ان کا کردار معمار سیرت بھی ہوتا ہے ان کی گفتار بہار بصیرت بھی۔ ان کی صحبت اکسیر بھی ہوتی ہے اور ان کا تذکرہ سراج منیر بھی۔

ترجمان اسرار تصوف، برہان رموز حقیقت، امام علم و حکمت، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی گراں قدر شخصیات میں سے ہوتا ہے۔

آپ کے سوانح، افکار و نظریات اور کردار و خدمات سے آگہی، یہ ملت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ کی شخصیت اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا گیا تھا لیکن تشنگی پھر بھی محسوس کی جارہی ہے۔

قلم و قرطاس کے دیرینہ رفیق، نیر افق تحقیق قبلہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے ''جہان امام ربانی'' مرتب کروا کر سرمایہ ملت کی نگہبانی کے ایک روشن عہد اور تابناک تاریخ کو یوں جامہ تحریر عطا کیا ہے کہ موضوع کو اپنے حق کی خاطر کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کے رفقاء کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ آمین

Abul Qasim Syed Jalaluddin Pasha Quadri

(Jeddah, Saudia Arabia)

☆

I recieved seven volumes of "Jahan -e-Imam Rabbani Mujaddid

Alf-e-Sani" and other valuable compilation through your disciple Mr. Humood al-Rehman. Execellent and quite impressive work & Great service you have extended ahle Tariqa and specially to Mujaddidi silsila. May Allah SWT bless you health and keep you long to get khairat of your Ilm and piety. I have been conveying salat wa Salaam on behalf of your family, I am indebted & nbsp, with your kindness. I do not find appropriate words to extend my gratitude for your love, care and sarparsati.

(محررہ: ۲۹/ اگست ۲۰۰۵ء)

صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی
(صدر مجدد الف ثانی سوسائٹی، لاہور)

☆

میں جملہ اراکین ادارہ و معاونین ادارہ بالخصوص محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد دام ظلہ اور ان کے رفقاء حضرت صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد، حضرت مولانا جاوید اقبال مظہری اور حضرت ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری کو "جہان امام ربانی" کی بارہ جلدوں کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باد اور ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کی اس سازش کو، کہ نیا فکری، دینی اور سیاسی نظام وضع کر کے نعوذ باللہ لوگوں کے دلوں سے اسلام اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و دلبستگی کو ختم کر دیا جائے، آپ نے جرأت مندانہ اور مجاہدانہ بروقت مساعی جمیلہ سے ناکام بنا دیا اور ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ ملت اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ بالکل منفرد اور جداگانہ حیثیت کی حامل ہیں اس طرح آپ نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ نظریہ مملکت خداداد پاکستان کی اساس ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیف "اثبات النبوۃ" لکھ کر رسالتمآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرزندان توحید کی وابستگی کو مستحکم کیا اور دشمنوں کے ہر

قسم کے شکوک و شبہات کا عالمانہ انداز میں ازالہ فرمایا۔

درحقیقت اہل اسلام کی اجتماعی، انفرادی، دینی، سیاسی و روحانی، مشکلات اور فقہی مسائل کا حل حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کے مکتوبات شریفہ اور دیگر تصانیف میں موجود ہے۔ یہ مشکلات و مسائل دور حاضر کے ہوں یا مستقبل میں رونما ہونے والے ہوں، مکتوبات امام ربانی اور آپ کی دیگر تصانیف آپ کے اصلاحی، تبلیغی اور تجدیدی جہاد کی ولولہ انگیز دستاویزات ہیں۔ تعلیمات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نظریہ پاکستان کے تحفظ اور فروغ کی ضامن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے اتحاد و ترقی کی ضامن ہیں۔ اس لیے تعلیمات مجددیہ کو حکومتی سطح پر ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے عام کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک اخبارات و جرائد و رسائل میں شائع کروانے کی بھی کوشش وقت کا اہم تقاضا ہے۔

مکتوبات امام ربانی علم و تصوف کو خزینہ ہیں، ان کی ترویج و اشاعت دور حاضر کی اہم ضرورت ہے اس لیے مکتوبات امام ربانی کے تراجم مروجہ زبانوں میں کرنے کا اہتمام اور ترویج و اشاعت دور حاضر کی ضرورتوں اور اذہان کو سامنے رکھ کر اس قدر عام فہم کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کے ہر فرد کی رسائی اس تک آسانی سے ممکن ہو۔ اس کام کے لیے مسلسل اور منظم جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہر خیر خواہ اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے ہر عقیدت مند کو اس میں اپنی بساط کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔

بلاد اسلامیہ میں تعلیمات حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت کا انتظام بھی کیا جائے اور ان پر ریسرچ اور مخطوطات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک منظم ادارہ قایم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مکتوبات امام ربانی کو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ایم۔ اے عربی اور ایم۔ اے اسلامیات کے نصاب میں شامل کروانے کے لیے ارباب بسط و کشاد سے رابطے کیے جائیں اور ان کو نصاب میں شامل کروایا جائے۔

وقت کا تقاضا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی تعلیمات کو عام کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو ابھارا جائے۔ مسلمانوں کے ملی تشخص کو

اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں میں بیداری کی لہر اور ولولہ تازہ پیدا کیا جائے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے علمی اور روحانی فیض سے مسلمانوں کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین

پیر طریقت عبد العزیز صدیقی نقشبندی مجددی

(بانی، سینٹ عبد الغنی میموریل اسکول، اندور، بھارت)

☆

رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا زبردست کارنامہ جناب کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچایا یہ احسان عظیم ہے، چند لفظوں میں تعریف کر دینا اس محنت و جانفشانی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ احقر تو سرمایۂ علم و عمل کی کمی کے باعث یہ حق بھی ادا کرنے سے قاصر ہے اس کا صلہ تو مولیٰ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مستقبل میں نہ جانے اور کتنے عظیم الشان معرکے جناب کے مبارک ہاتھوں سر ہونے ہیں وہ علام الغیوب ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ خدمت خلق ہے جسے اگر کرامت سے تعبیر کروں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ پروردگار اس سعیٔ بلیغ کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے آمین اور صحت و تندرستی کے ساتھ جناب کے وجود مسعود کو حیات خضر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ (محررہ: ۱۷/ اگست ۲۰۰۵ء)

علامہ مفتی محمد احمد نعیمی

(دار العلوم انوار مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ، کراچی)

☆

امام ربانی فاؤنڈیشن اور ادارۂ مسعودیہ کے سرپرست اعلیٰ، حضرت علامہ محقق اہل سنت و جماعت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد زید مجدہ ودامت برکاتہم العالیہ نے ''جہان امام ربانی'' تصنیف فرما کر امت محمدیہ اہل سنت و جماعت پر بالعموم اور مجددیوں نقشبندیوں پر بالخصوص احسان عظیم فرمایا ہے۔ حضرت کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے اور اجر عظیم سے بہرہ ور فرمائے اور جہان امام ربانی سے امت مسلمہ تا دیر مستفید ہوتی رہے۔ ایں دعا از من واز جملہ جہان آمین باد۔

صاحبزادہ سید محمد طاہر مظہری

(سابق ناظم اعلیٰ، ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا، اسلام آباد برانچ)

☆

حضرت عم عالی مرتبت، مسعود ملت، مجد دامت، منبع صد برکت، مدظلہ العالی نے فرمایا کہ یہ فقیر ہیچمدان اس صدی کے مایہء ناز انسائیکلو پیڈیا، شاہکار مسعود ملت ''جہان امام ربانی'' پر اپنے تاثرات تحریر کرے۔ یکلخت اپنی بے بضاعتی پر دل بجھ کے رہ گیا لیکن پھر...... ''الامر فوق الادب'' کے تحت اور خریداران حضرت یوسف میں شمولیت کے ادراک کے ساتھ اس فقیر نے اپنے رب غفور الرحیم کے اسم کریم ونعیم کے ساتھ معروضات رقم کرنے پر کمر باندھ لی کہ جس نے اپنے بندۂ بزرگ و برتر کو نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنا محبوب بنایا جسے ہم پر رؤف رحیم بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا جن پر ہم سب فدا، ہمارے والدین فدا، ہمارے اہل وعیال فدا، بلکہ پوری کائنات فدا...... بے شمار درود ان پر اور بے حساب سلام ان پر۔

پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جسے چاہتا ہے نواز لیتا ہے۔

''واللّٰہ یختص برحمتہ من یشآء''

اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص بنالیتا ہے۔

لہٰذا اس بندۂ عالی وقار وامتی، خاص الخاص پے بے شمار رحمتیں ہوں اور درجات عالیہ منتہی ہوں کہ جسے اس منعم کریم جل شانہٗ نے اس دور پرفتن میں، اس دور فرقہ واریت میں، اس دور قتل وغارت گری میں اور اس دور انحطاط وانتشار میں آخری امید اور نجات دہندہ بنا کر بھیجا جس سے امت مسلمہ کو گڑھے میں گرتے دیکھا نہ گیا، جسے ملت کفر کی یلغار اور ملت اسلامیہ پر دہشت گردی کی تہمت برداشت نہ ہوئی...... جس نے امت مسلمہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بھانپ لیا کہ یہ امت محبت کی بھوکی ہے، تیر ونشتر کی نہیں...... امن کی متلاشی ہے، جنگ وجدل کی نہیں...... تعمیر کی متمنی ہے، تخریب کی نہیں...... خندہ پیشانی کی خواہشمند ہے، درشت روئی کی نہیں...... کشادہ دلی اور سینے سے لگائے جانے کی ضرورت مند ہے، تنگ دلی اور دھتکارے جانے کی نہیں...... مذہبی رواداری کے ساتھ حمیت دینی کی محتاج ہے، مذہبی تعصب اور مذہبی بے غیرتی کی نہیں...... لہٰذا اس مصلح امت نے تمام ممکنہ جہانوں کو چھان مارا لیکن امت کے مرض کہن کا چارہ کہیں نظر نہ

آیا کہ جو ماضی قریب کا ہو اور جو قلوب و اذہان مردہ میں ایک نئی روح پھونک دے۔

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ

رحمت باری جوش میں آئی اور پھر۔۔۔نظر ایک ایسے جہاں پر پڑی جو اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے چشم عالم کو دکھانے کے قابل تھا اس لیے کہ وہ قریب ترین زمانے کا تھا اور ایسا درخشاں تھا کہ جس پر بدعقیدہ کی خشم گیں نگاہیں بھی ٹھہر نہ سکتی تھیں اور جس پر نت نئے فرقوں کے علمبردار بھی انگلی تک اٹھا نہ سکتے تھے اور وہ تھا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی''۔ ہم میں کسی کو بھی یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے کہ زندہ قومیں ہی اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں۔ جہان امام ربانی چشم عالم سے اگر بالکل پوشیدہ نہیں تھا تو گہرے دھندلکوں میں ضرور تھا کہ جہان مظہریہ و مسعودیہ کے افق سے اک مہر مستنیر طلوع ہوا جس نے مسجد جامع فتحپوری دہلی کے رفیع الشان میناروں کے سائے میں شباب منزہ کے مہ و سال گزارے اور جس نے ایک پیکر اسوۂ حسنہ، ایک عاشق رسول مقبول، اک بطل جلیل اور ولی کامل مفتیء اعظم ہند شاہ محمد مظہر اللہ قدس سرہ العزیز جیسے علم و عرفان کے مینارۂ نور کی آغوش میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کیے۔ اور مملکت اسلامیہ پاکستان کے فلک پر جلوہ گر ہوا اور سال ہا سال اس امت مسلمہ پر اسوۂ حسنہ کے نور میں ڈوبی ہوئی علم و حکمت کی بھینی بھینی کرنیں بکھیرتا رہا جو قلوب و اذہان میں جذب ہوتی چلی گئیں اور اپنے پرائے اس کی صدائے حق پر لبیک کہتے چلے گئے۔

جہان امام ربانی کے آثار گم گشتہ کی تلاش کوئی آسان کام نہ تھا حضرت مسعود ملت، مجدد امت، شیخ طریقت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کا تصور ''جہان امام ربانی'' مشیت الٰہی کے تحت آسمان دنیا کے اسلام پر اس طرح چمکا کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ اور آج دنیا انگشت بدنداں ہے کہ یہ عدیم المثل کام کب، کس نے اور کیسے کر لیا؟

پہلی دو جلدوں کے مطالعے اور باقی جلدوں کے سرسری جائزے سے جو تاثرات ذہن پر چھاتے چلے گئے ان میں کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

ا...... اتنے قلیل عرصے میں اس شان کی ''سرپرستی و نگرانی'' ایسی تدوین و تحقیق اور ایسی طباعت و اشاعت کبھی نہ سنی۔ بلاشبہ تائید الٰہی کے بغیر یہ محیر العقول کارنامہ ممکن نہ تھا۔

۲ بعض حضرات نے اس جہان کو اپنے مخصوص عقائد کی نگاہ سے دیکھا ہے لہٰذا وہ اس جہان کی حقیقت تک رسائی نہ پا سکے۔ مگر قوی امید ہے کہ اس بحر زخار میں غوطے کھائیں گے تو دھل کے ایسے نکلیں گے کہ پہچانے نہ جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ

۳ فقیر اپنے نسخے پر کتابت کی اغلاط کی نشاندہی کر رہا ہے اور حواشی پر کہیں کہیں اشارات بھی قابل قدر ہو تو باعث سعادت ہوگا ورنہ نظر انداز کر دیا جائے۔

۴ ہر اہل قلم نے اپنی جانب سے حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کی حیات طیبہ کے احاطے کی کوشش کی ہے لہٰذا تکرار مضامین ایک عام قاری کے لیے اکتاہٹ کا باعث بنتا ہے لہٰذا تکرار مضامین کے اخراج کا اہتمام کیا جائے۔

۵ ایک ایسی تالیف کی شدید ضرورت محسوس ہوئی جو تلخیص جہان امام ربانی یا رہنمائے جہان امام ربانی جیسے نام سے شائع کی جائے۔

۶ جہان امام ربانی پر تحریر کردہ مقالات کے اہم نکات کتابچے میں شایع کیے جائیں جس سے ہر شخص کو اپنی زندگی اسوۂ حسنہ کے مطابق گزارنے کا لائحہ عمل بنانے میں آسانی محسوس ہو۔

۷ حکام بالا تک لٹریچر پہنچانے کا معقول انتظام کیا جائے، ایک بار اس جہان کی سیر کرا دی گئی تو روح پرور مناظر بھلائے نہ بھولیں گے اور حضرت مسعود ملت مدظلہ العالی کی سرپرستی میں اتحاد امت اور نظام اسلامی کا خواب شرمندۂ تعبیر ہو سکے گا۔ ان شاء اللہ العزیز

۸ عربی اور فارسی عبارات کے ترجمے سے عام قاری کی تشنگی بجھ جائے گی۔

۹ مکاتیب کے اسرار و معانی، اصطلاحات کے مفاہیم، مشاہدات، مکاشفات کی تعبیر اور روحانی مدارج کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے اور اسوۂ حسنہ کے انوار پر استخراج کیا جائے تاکہ روحانیت کی اس ایٹمی قوت سے امت مسلمہ کو لیس کیا جائے جسے محروم بصیرت لوگوں نے افیون سے تعبیر کیا تھا۔

درحقیقت جہان امام ربانی کے فلک کا چاند جو مسجد جامع فتح پوری دہلی کے افق سے طلوع ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فلک پر نمودار ہوا، جو نصف صدی سے زائد عرصے سے چمک رہا ہے اور مجددی نور و نکہت کی ٹھنڈی مگر حرارت عشق نبوی میں ڈوبی ہوئی ایسی شعاعیں بکھیر تا رہا ہے جو اپنے پرائے، دوست دشمن، موافق و مخالف، عالم و جاہل سب کے دلوں میں جذب ہو کر عبقری روح پھونک رہی ہیں کیونکہ جو

شمع رسالت کا پروانہ بن گیا وہ سارے جہان کے لیے رحمت بن گیا۔ آیئے اس جہان کے چند مناظر کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں، جسے دیکھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں جس کا خیال آتے ہی دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے اور وہ ہے ''جہان مسعود ملت مجد دامت'' یہ اس مرد درویش کا جہان ہے جس کے سینے سے نکلتی آہوں کی تپش ہر مرحلے پر اس فقیر نے اپنے سینے میں محسوس کی ہے اور اٹھتا دھواں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹھتے اٹھتے، سوچتے بولتے، چلتے پھرتے، جاتے آتے، پڑھتے لکھتے، ملتے جلتے یہ فیضان ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینۂ اقدس سے بلند ہونے والی آہوں کا کہ جن پر رحمت باری جوش میں آگئی، کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ امت کے غم میں تن من دھن کی بازی لگا دینا، دل و دماغ گھلا دینا، اپنی جان ہلکان کر دینا، جان کے درپے لوگوں کی خیر خواہی کرنا، اذیت دینے والوں کو راحت پہنچانا، غرضیکہ ہمہ وقت مخلوق پر رحمت کی گھٹا بن کر چھائے رہنا اور علم و حکمت اور روحانیت کی پھوار برساتے رہنا۔

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ

اس وقت چشم تصور ماضی کے دھندلکوں میں کھوگئی اور چند مناظر روز روشن کی طرح سامنے آگئے، چند جھلکیاں اس جہان گم گشتہ کی ملاحظہ فرمائیں جو جہان امام ربانی کی رویت کا پیش خیمہ ہیں۔

قیام پاکستان کے وقت ریاست بہاولپور اسلامی تہذیب کا گہوارہ تھی بہاولپور ایک شہر نما گاؤں تھا جب کھلے آسمان تلے بغیر کسی شیڈ کے پلیٹ فارم پر تیل کے دیے ٹمٹما رہے تھے تو اندرون شہر کا کیا حال ہوگا...... موسم گرما کی شدت، آگ برساتی اور جھلساتی لو پھر چلچلاتی دھوپ الامان والحفیظ...... تانگوں کے گھوڑے تک چکرا چکرا کر گرے پڑتے تھے۔ ایسے میں انسانوں پر کیا گزرتی ہوگی لیکن عین عصر کے وقت جبکہ شاہی بازار آتشیں سورج کی زد میں ہے ایک جوان رعنا کریم کلر کی شیروانی میں ملبوس سر پر قراقلی ٹوپی روشن و حسین چہرے پر سیاہ داڑھی ایک خاندانی اور خاص قسم کی رواداری کے ساتھ کشاں کشاں چلا جا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے دوطرفہ دکانوں سے لوگ اٹھ اٹھ کر گویا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کوئی سلام کر رہا ہے کوئی دوڑ کر دست بوسی کر رہا ہے اور دور تک دیکھتا چلا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ وہ تھے جو ریاست میں داخل ہونیوالوں کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے ''مہاجر'' اور ''پناہ گیر'' کے الفاظ گالی کے

مترادف تھے لیکن اس حقیقت سے قطعی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حکمران طبقے کے ساتھ بیشتر حضرات جو دیندار اور تعلیم یافتہ تھے انھوں نے نہ صرف عزت دی بلکہ ہرممکن تعاون کیا جسے کبھی بھلایا نہیں جاسکتا۔ غرضیکہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز وہ پیکرِ عزم ویقیں کس لیے اپنا آرام تج رہا ہے اور پارے کی مانند کیوں بے چین ہے اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہے وہ دیوانہ وار اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی تعلیمات واحکام کا سراپا نمونہ بن کر دین اسلام پر مکمل عبور سے عمل پیرا ہونے کی تجدید کرنی چاہتا ہے۔

عین دوپہر کا وقت ہے بہاولپور کے مکان کی بالائی منزل کے کمرے میں جو تندور کی طرح تپ رہا ہے کسے خبر تھی کہ یہ آئندہ دنیائے اسلام کے فلک پر چمکنے والا چاند ہے جو اس تندوری کمرے میں سفید چاندنی میں بقعہ ٔ نور بنا بیٹھا علم وحکمت کے موتی چن رہا ہے۔ اردگرد کتابیں ہیں، پسینے میں شرابور، سود وزیاں سے کوسوں دور، عشق رسالت میں مخمور فرش پر بیٹھا گویا عرش کی جانب رواں دواں ہے اور ''دست بکار و دل بیار'' کا مصداق بنا بیٹھا ہے۔ ہاں ہاں کسی نے آپ ہی کے لیے کہا تھا کہ

دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی

پھر چشم عالم نے دیکھا کہ جس نے کئی جہانوں کی سیر کرائی، وہ جہان جو نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا یا عمداً کر دیا گیا تھا یعنی جہان امام ربانی لکھ کر عالم کو آشکار کیا، وہ خود سراپا جہان بن گیا اور کیوں نہ بنتا کہ انہی عشاق رسالت مآب میں سے ہی تو ہے جنہوں نے دین متین کے لیے ایسے ایسے کارہائے عظیم سرانجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔

''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' حضرت قبلہ مسعود ملت مجدد مأۃ حاضرہ شیخ طریقت وعلم وفضیلت کا ایسا شاہکار انسائیکلوپیڈیا ہے جس کا سہرا آپ ہی کے سرِاقدس کو زیب دیتا ہے۔ جن کی تربیت وتلمذ نے موافق تو موافق مخالفین ومنافقین کو لکھنے پڑھنے اور بولنے کا سلیقہ سکھایا لیکن افسوس بعض حضرات منفی جذبوں کے سبب بزرگوں کے احسانات بھی فراموش کر جاتے ہیں۔ **فاعتبروا یا اولی الابصار**

ایسے دور میں جہاں الحاد و بے دینی، مذہبی تعصبات، فرقہ واریت اور مذہبی منافقت نے امت کا شیرازہ منتشر کر کے رکھ دیا تھا حضرت قبلہ مسعود ملت مدظلہ العالی نے امت کی مرض کی ایسی تشخیص کی اور ایسا علاج دریافت کیا کہ افراط وتفریط میں شدت سے مبتلا فریقین کے مابین ''صلہ'' بن گئے اور روز روشن کی

مانند عیاں ہوگیا کہ نور بصیرت عام ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مجدد ملت مدظلہ العالی کا سایۂ گرانمایہ سلامت رکھے اور امت کے نشاۃ ثانیہ کا سامان ہو جائے۔ آمین

قال الحمد للہ والمنة والصلوة والسلام علی سید المرسلین رحمة للعالمین سیدنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم

میاں فضل احمد حبیبی

(نورِ علیٰ نور فاؤنڈیشن، گجرات)

☆

(۱)

لاہور ایوان اقبال میں منعقدہ قومی کانفرنس میں شامل ہونے کا موقع ملا، مقالہ جات کا جب تجزیہ کیا جائے تو یہ امر عیاں ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں، امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے متبع اور ان کی تعلیمات کے ناشر ہیں۔ یہ تاثر ان مقالہ جات سے ملتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے لکھے ہوئے تھے، ایوان اقبال میں جانے سے قبل مجھے پیرزادہ اقبال احمد فاروقی کے گھر جانا ہوا، تقریباً دو گھنٹے وہاں ٹھہرا اسی دوران محمد عالم مختار حق صاحب بھی وہاں تشریف لے آئے ۱۰:۳۰ بجے ہم تینوں فاروقی صاحب کی گاڑی میں ایوان اقبال پہنچے تھے، کانفرنس کے اختتام تک وہیں رہے، پھر واپسی بھی تینوں کی اکٹھی ہوئی۔ جہان امام ربانی کی اشاعت نے فکر و سوچ کا دھارا بدل دیا ہے۔ نیز جلد اول کا مطالعہ ابھی جاری ہے، اس کے آغاز میں جس خوبی سے آپ کی بالغ نظری کے باعث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں سلسلہ مجددیہ کا حصہ نظر آتے ہیں اور ایک عظیم فرد ہیں۔ یہ فکری تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ قوی سے قوی تر ہوتی جائے گی، ان شاء اللہ

آپ نے پورے دھارے کو بدلنے میں کمال حکمت سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لطف و کرم سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اس تبدیلی کو کامل طور پر کامیاب کرنے میں معاونت میں پیش پیش رہیں اس ضمن میں جو کام سپرد فرمائیں اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔

(محررہ: ۷؍ مئی ۲۰۰۵ء)

(۲)

جلد اول (جہان امام ربانی) کا بیشتر حصہ نظر سے گزر چکا ہے، مضامین کی ترتیب میں آپ نے جن

آداب کی پاسداری قائم کی ہے وہ ازلی سعادت جو آپ کو حاصل ہے اس کی شہادت ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اور امام ربانی رضی اللہ عنہما کے معاملات میں جن آداب کو سامنے رکھ کر ''جہان امام ربانی'' کو مرتب کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں پروٹوکول کے معنی کی سچی تصویر ہے۔ رموز سلطنت شاہ بداند۔ جب تک اہل کمال کی صحبت کو نہ دیکھا ہو ان کی صحبت سے استفادہ نہ کیا ہو یہ رموز شہنشاہی کب ہاتھ آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو عمر طویل عطا فرمائے اور صحت کاملہ کے ساتھ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔

(محررہ: ۶ رمئی ۲۰۰۵ء)

علامہ محمد اسد رضا

(خطیب جامع مسجد بیلہ، محمد نگر، آزاد کشمیر)

☆

آپ کا عطا کردہ جہان امام ربانی کا خوبصورت تحفہ وصول ہوا۔ طلبہ واساتذہ کا شوق دیدنی تھا۔ خوبصورت طباعت اور جلد بندی اور سب سے بڑھ کر جس حسن عقیدت سے مرتبین نے اسے سنوارا وہ ناقابل بیان ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول ولی سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی سیرت وتعلیمات کا مرقع ہمارے لیے ایک یادگار کوہ نور ہے۔ آپ کے ادارے نے دور دراز رہنے والوں کو محبت میں شامل فرمایا اللہ عزوجل آپ کو دونوں جہان میں مالا مال فرمائے۔ باقاعدہ مطالعہ جلد شروع کریں گے ابھی تک اس حسین تحفے کے سحر میں گرفتار ہیں، الفاظ کی زباں آپ کی احسان مند ہے۔ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کاش دیگر اشاعتی ادارے بھی مشائخ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پر خوبصورت تصانیف امت کو پیش کریں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ادارے کے تمام اراکین کو مزید ترقیاں و برکات عطا فرمائے۔ آپ کی برکات اور نوازشیں ہم پر سایہ گستر رہیں۔

علامہ محمد رضوان احمد خان نقشبندی

(ناظم تعلیمات وصدر مدرس، نصرۃ العلوم استاد اسلامک مشن یونیورسٹی، کراچی)

☆

حضرت مجدد الف ثانی، امام ربانی شیخ خواجہ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہٗ النورانی عالم اسلام کی ان نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں جن کو اہل دنیا ہمیشہ اپنے درمیان محسوس کرتے رہیں گے۔ اور وقت

کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جنکی اہمیت وضرورت کا احساس دوچند ہوتا چلا جائے گا۔ زمانہ کی آندھیاں اور حالات کا مدوجذر انکے ثبت کردہ نقوش کو کبھی مٹا نہ سکے گا اور انکی محبت اور عقیدت کے چراغ دلوں کی تاریک، ویران اور افسردہ دنیا میں ہمیشہ روشنی کا انتظام کرتے رہیں گے نیز انکی تعلیم کی روشنی فکر ونظر اور شعور وآگہی کی راہوں پر گم گشتہ راہ لوگوں کی ہمیشہ دستگیری کرتی رہے گی۔

سنہ ہجری کے دوسرے ہزاریئے کے آغاز پر امام ربانی، قیوم زمانی مجدد الف ثانی (رحمۃ اللہ علیہ) جیسی علمی، فکری اور روحانی شخصیت کا منصۂ مشہود پر جلوہ گر ہونا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ یہ انسانی تاریخ کے اس نئے موڑ پر امت مسلمہ کی دیرپا، دوررس اور وسیع پیمانے پر رہنمائی کرنے کا خدائی انتظام ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے فیضان کے دھارے شرق سے غرب تک بہتے چلے گئے اور ہر کشت کو سیراب کرکے ہر طبقہ فکر کو فیضیاب کردیا، علماء وصلحاء، اصفیاء واتقیاء، حکام وسلاطین اور مبلغین ومصلحین میں سے ہر ایک نے آپ کے چشمۂ صافی سے فیضیاب ہوکر اپنی تشنہ لبی کو سیرابی بخشی اور آپکے منارۂ نور سے روشنی حاصل کرکے اپنی تیرہ شبی کو روشن ومنور کیا۔ آپکی ہمہ جہت تعلیمات اور ہمہ گیر اثرات پر نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص آپ کو مجدد الف ثانی کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عرب کا مشہور شاعر متنبّی اگر آج زندہ ہوتا تو اپنے اشعار کو آپ ہی کی نذر کرتا۔

کالبحر یقذف للقریب جوارا　　جوداً ویبعث للبعید سحائبا

(وہ مثل سمندر کے ہے جو اپنے قریب پر جواہر کی دولت لٹاتا ہے اور
اپنے بعید کو بادل بھیج کر فیضیاب کرتا ہے)

کالشمس فی کبذ السماء وضوءھا　　یغشی البلاد مشارقا ومغاربا

(وہ وسط آسمان میں آفتاب کی مانند ہے جسکی روشنی زمین کے مشارق
ومغارب میں ہر جگہ چھائی ہوئی ہے)

حقیقت یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے ابتک جتنے انقلابات برپا ہوئے، جتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور جتنے بھی اعلیٰ وارفع کارنامے انجام دیئے گئے ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی طور آپ ہی کا دست فیض رساں کارفرما ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے بقول گرمئ احرار آپ ہی کے نفس گرم سے قائم ہے اور محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس خطۂ ہند کی مساجد کے میناروں سے سنائی

دینے والی اذانیں، یہاں کے مدارس میں بپا قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں، یہاں کی مقدس خانقاہوں میں لگائی جانیوالی حق ہو کی ضربیں اور میدانہائے کارزار میں مجاہدین اسلام کی للکاریں بھی آپ ہی کی مساعی جمیلہ اور خدمات جلیلہ کا ثمرہ ہیں۔

جہان را دگر گوں کرد یک مرد خود آگاہے

غرض آپکی ذات مبارکہ خود ایک جہان ہے جسکی وسعتوں اور پہنائیوں کو پانا آپ کے بعد تا ایں دم کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہیں، حقائق و اسرار کا ایک خزانہ ہیں۔ آپکی روحانی، تعلیمی اور تبلیغی مساعی کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے اور پہنچیں گے۔ اسکا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ البتہ آپکی شخصی عظمت، روحانی مقام اور اعلیٰ و ارفع خدمات کا کسی حد تک اندازہ اس کام سے لگایا جا سکتا ہے جو ابتک آپ پر کیا جا چکا ہے۔

مکتوبات شریف کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے اور شروحات لکھی گئیں آپ کی علمی وفکری کارناموں، احیاء اسلام کے سلسلے میں آپکی کاوشوں اور اسکے نتیجے میں خاص طور برصغیر کی تاریخ وسیاست پر مرتب ہونے والے اثرات ونتائج پر متعدد پی۔ ایچ۔ ڈی ہو چکے ہیں علاوہ ازیں سینکڑوں کتب و رسائل آپکے تذکارے معمور ہیں۔

اسی سلسلے کی ایک نہایت اہم کڑی "جہان امام ربانی" ہے۔ جو درحقیقت آپکے حالات زندگی، فضائل و کمالات، افکار ونظریات، تبلیغ وارشاد، مکتوبات ومصنفات، اولاد و احفاد خلفاء وسفراء اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پر علمی وفکری اور تحقیقی مقالات اور مضامین کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اسی لیے بجا طور پر اس کا نام "جہان امام ربانی" رکھا گیا ہے۔ یقیناً یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ابتک کسی بھی شخصیت کے بارے میں اتنا مواد یکجا نہیں کیا گیا۔ یہ ایک عظیم منصوبہ عہد حاضر کی مایہ ناز شخصیت، سرمایہ دین وملت، فخر مجددیت، صاحب علم وعرفان، پیکر رشد وہدایت مسعود ملت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (دامت برکاتہم العالیہ) کی توجہ اور عنایت سے پایۂ تکمیل کو پہنچا۔

اس مختصر سے وقت میں کتاب کا مکمل تعارف تو پیش نہیں کیا جا سکتا البتہ اجمال واختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے طائرانہ انداز میں ایک تعارفی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم اسکی اصل قدر وقیمت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔

جہان امام ربانی چھ ضخیم اقالیم یعنی جلدوں پر مشتمل تقریباً چار ہزار صفحات کا ایک شاندار سوانحی اور تاریخی مجموعہ ہے۔ جبکہ ساتویں جلد نورٌ علیٰ نور (مرقعات امام ربانی) کے نام سے علیحدہ سے شائع کی گئی ہے جو کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے روحانی، تاریخی اور علمی وفکری آثار کے خوبصورت اور دیدہ زیب عکوس کا مجموعہ ہے۔

اس جہان کو چھ اقالیم پر قائم کیا گیا ہے۔ اور ہر اقلیم کو پانچ کشوروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اقلیم سے مراد جلد ہے اور کشور سے مراد فصل لی گئی ہے۔ پھر ہر کشور علمی و تحقیقی شہ پاروں سے مزین و آراستہ ہے۔

مثلاً اقلیم اول کی پہلی کشور کا جائزہ لیں تو ہمیں آپکی آمد مبارکہ سے پہلے صاحبان نظر بزرگوں کی آپ سے متعلق بشارات اور پیش گوئیوں اور آمد مبارکہ کے بعد اہل علم وفضل کی طرف سے آپ کے حضور خراج عقیدت ومحبت کا پیش کیا جانا معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری کشور تصوف اور اسکی بنیاد اور روح اسلام جیسے اہم مضامین کا مجموعہ ہے۔ کشور سوم میں قافلہ سالار نقشبند سیدنا حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) اور خواجگان نقشبندیہ کا روح پرور اور ایمان افروز تذکرہ پایا گیا ہے۔ کشور چہارم آپ کے مرشد پاک حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کی گئی ہے کشور پنجم قاری کو دیار ہند کی سیر کراتی ہوئی نظر آتی ہے نیز تاجدار سرہند کے حالات زندگی، امتیازات، لباس وحلیہ شریف اور خانقاہی ماحول سے پردہ اٹھاتی ہے۔

دوسری اقلیم کی کشور اول خاص طور پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی وادبی اور علمی خدمات نیز مکتوبات میں وارد احادیث کی تخریج جیسے علمی وفنی مضامین کا مرقع ہے۔ جبکہ کشور دوم میں آپ کی دعوت وتبلیغ آپ کے تصور سنت وبدعت اور آپ کے معمولات شریفہ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کشور سوم آپ کے روحانی اور باطنی حالات اور خدمات در باب علم لدنی، جذب وسلوک، تزکیۂ نفس، صحو وسکر اور آپکے علم النفس وعلم الآفاق سے متعلق بیان کردہ حقائق پر روشنی ڈالتی ہے۔ کشور چہارم آپکی مجددیت، نظریۂ قیومیت، شان قیومیت، اور منصب قیومیت کی مظہر ہے۔ کشور پنجم وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود نیز ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے نظریات کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے۔

پھر اقلیم سوم کی پہلی کشور ہمیں آپکے روحانی وعرفانی مقامات کی سیر کراتی ہے اور کشور دوم آپکی خدمات کے ان پہلوؤں سے آگاہ کرتی ہے جنکا تعلق نبوت ورسالت اور عقیدۂ ختم نبوت سے ہے۔ کشور سوم میں

رد روافض، تقلید ائمہ مجتہدین اور رفع سبابہ جیسے مسائل پر مقالات پیش کیے گئے ہیں۔ کشور چہارم میں عقائد و معمولات اہلسنت نیز مسلک اور آپ کے طریقۂ نماز اور آپ کی تعلیم و تبلیغ کے انداز پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کشور پنجم میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ علم اور علماء دین سے متعلق آپکے خیالات نیز آپ کے ارشادات، ملفوظات، کرامات اور اوراد و وظائف کی تفصیل مندرج ہے۔

اقلیم چہارم بعد از تمہیدات اپنی کشور اول میں آپکی سیرت و کردار کے تاریخی و سیاسی پہلوؤں کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ اور کشور دوم برصغیر کی تاریخ کا اہم ترین مسئلہ یعنی دو قومی نظریہ کے حوالہ سے آپکی تحریکات و تاثیرات کے نقوش کا پتا بتاتی ہے۔ جبکہ اقلیم مذکور کی تیسری کشور میں سلطنت مغلیہ پر آپکی تحریک و تبلیغ کے اثرات اور پھر آگے چل کر بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کا بعینہٖ اسی تحریک سے متاثر ہونا اور آپ ہی کے قائم کردہ خطوط اور راستوں پر کام کو آگے بڑھانا نیز اہل علم و دانش کی نظروں میں اسکا سراہا جانا ہمیں نظر آتا ہے۔ کشور چہارم آپ کے سفر آخرت کے دلدوز اور روح فرسا تذکرہ سے معمور ہے نیز آپ کی اولاد امجاد، خلفاء کرام اور معاصر علماء و مشائخ عظام کی یادوں کے دیئے بھی یہیں روشن ہیں۔

کشور پنجم آپ کے بعد تشریف لانے والے ان مخصوص مشائخ سلسلہ کے تذکرہ سے معمور ہے جن کی سیرت و کردار اور روحانی تعلیمات نے دنیا کے مختلف گوشوں میں ایمان و عرفان اور رشد و ہدایت کی روشنی عام کی اور عرب و عجم میں اس سلسلہ پاک کے فروغ و ارتقا میں اہم کردار ادا کیا جن میں مرزا مظہر جانجاناں، حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی، حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نمایاں ہیں۔

اقلیم پنجم کے پانچوں کشوروں میں جن اہم موضاعات پر خامہ فرسائی کی گئی ہے وہ یہ ہیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تالیفات، مکتوبات شریفہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، مکتوبات کا عربی ترجمہ، آپ کے دفاع میں لکھی جانیوالی کتابیں، مغربی دنیا میں آپکی رسائی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال نیز اقبال کے فلسفہ پر حضرت مجدد کی تعلیمات کا اثر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نظر میں اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی نظر میں۔

جہان امام ربانی کی اقلیم ششم بھی اس حوالہ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسمیں خصوصیت کے ساتھ سلسلہ عالیہ مجددیہ کے بلاد عرب و عجم میں روحانی اثرات اور ان علاقوں میں موجود حضرات مشائخ نقشبندیہ

کے حالات وواقعات نیز انکی اعلیٰ وارفع خدمات کا بڑی وسعت کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔

جہان امام ربانی واقعی ایک جہان ہے اب آپ کی حیرانی یقیناً یقین میں بدل گئی ہوگی کہ ایک ایسا جہان جو ایمان و عرفان، علم و ادراک، فقہ و اجتہاد، تاریخ و سیاست، عشق ومحبت، سیر و سلوک، حقائق و معارف، روحانیت و وجدانیت اور جذب وکیف کے حسین اور دلکش نظاروں سے معمور ہے ''جہان امام ربانی'' کو اپنے موضوع پر یقیناً ایک انسائیکلو پیڈیا کا درجہ دیا جاسکتا ہے کسی ایک شخصیت پر اتنا مواد جمع ہو جانا عجائبات سے ہے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہٗ النورانی کی شخصیت کا اعجاز اور کمال ہے کہ آپکے بارے میں معلومات کا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔

قابل صد مبارک باد ہیں وہ تمام لوگ جنھوں نے اس مقدس مجموعہ کی تصنیف وتالیف، ترتیب وتدوین، تسوید وتبویب اور نشر واشاعت میں حصہ لیا۔ مولیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جہان امام ربانی کو شرف قبولیت عطا فرما کر اسے مقبول خاص وعام بنائے۔

مولانا جمیل احمد الوری نوحی

(مدرس مدرسہ عالیہ عربیہ مسجد فتح پوری، دہلی)

☆

''جہان امام ربانی'' یہ کتاب عہد اکبری کی ایک عظیم عہد آفریں ہستی کی سوانح حیات کا ایک اہم انسائیکلو پیڈیا اور نہایت قیمتی مقالات کا قابل قدر مجموعہ ہے، یہ سات ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد معلومات کا ایک دفتر معلوم ہوتی ہے۔ ''امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی'' نے اسے شائع کیا ہے جس کے سرپرست جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب ہیں۔ یہ کتاب جدت طرازی وندرت ترتیب اور طرز نگارش میں اپنی مثال آپ ہے۔ خاکسار نے اس کے جستہ جستہ مضامین دیکھے ہیں، بالاستیعاب دیکھنے کا موقع نہ مل سکا البتہ جو کچھ پڑھا اور جن جن مقالات پر نظر پڑی مجھے تو مختلف الانواع پھولوں کے ہار ہی نظر آئے

نظر اپنی اپنی خیال اپنا اپنا

ان مقالات کو اگر معارف وحقائق اور اسرار وحکم کے نوادرات کہا جائے تو برمحل ہوگا۔ جو مختلف نقطہائے نظر کے حاملین وماہرین فن قلم کاروں کے رشحات وقلم کے نتائج ہیں۔ کتاب میں مختلف مکتب فکر

کے مضامین وتاثرات کی شمولیت سے نہ صرف اس کی مقبولیت کا دائرہ وسیع تر ہوا ہے بلکہ اس کے مرتبین کی بلند حوصلگی اور عالی ظرفی کا پتا بھی چلتا ہے اس لیے ان کی دقت نظری وجدت طرازی بھی قابل داد ہے۔ کتاب کو ''جہان'' سے اور مجلدات ہفت کو ''ہفت اقلیم'' سے اور اس میں پھیلے ہوئے مضامین وابواب اور فصول کو ''کشور'' سے تعبیر کرنا ان کی فکری اور ذہنی لطافت کا مظہر ہے، معلوم ہوتا ہے ان کی دور حاضر کے ذوقی رجحانات اور جدید تقاضوں پر گہری نظر ہے۔ یوں تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے سوانح وخصائص اور ان کے احیاء دین اور تجدیدی کارناموں کا تذکرہ تاریخ ہند کے تقریباً سبھی مورخوں نے اپنے اپنے مذاق اور زاویہ نگاہ کے اعتبار سے بڑے تزک واحتشام اور شد و مد کے ساتھ کیا ہے لیکن جس بسط وتفصیل اور ہمہ جہتی جامعیت کے ساتھ ''جہان امام ربانی'' میں کیا گیا ہے اور جن تنوعات و نادر مقالات سے مزین ہوکر یہ کتاب معرض وجود میں آئی۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء دین وتجدید میں ان کی اولوالعزمی اور مساعی پیہم اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی فتح عظیم اور محیر العقول کامرانی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نبوت کا جب یہ اعلان ہوا کہ **''ولکن رسول اللّٰہ و خاتم النبیین''** تو اس نے اپنے حبیب فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بھی اس کے متبادل نظم کا یہ کہلوا کر اعلان کرادیا کہ **''ان العلماء ورثۃ الانبیاء''** کہ تبلیغ دین اور دعوت وارشاد کی ذمہ داری اب انبیاء علیہم السلام کے وارثین ونائبین پر ہے، اب احیاء دین کا عمل بجائے انبیاء کے آخری نبی کی آخری امت کے صلحاء اور علماء ربانیین کیا کریں گے، یہی مضمون ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ وضاحت سے وارد ہوا ہے **''علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل''** میری امت کے علماء ربانیین عملاً انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جن علماء وصلحاء امت کو وراثت انبیاء کا اعزاز بخشتا ہے اور اس عظیم الشان پیغمبرانہ منصب پر فائز فرماتا ہے ان کی عملی زندگی انبیاء کی زندگیوں کا پرتو اور عکس ہوتی ہے، رجال اللہ کی یہ جماعت کار نبوت کی انجام دہی پر بطور تکوین مامور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمایت ونگرانی میں اپنے فرائض انجام دیتی ہے اور قیامت تک دیتی رہے گی، یہ اپنی جرأت وہمت اور عزم واستقلال میں انبیاء کی آئینہ دار ہوتی ہے یہ اسلام دشمن طاقتوں پر اس قدر بھاری ہوتی ہے کہ بڑی سے

بڑی قوت وشوکت بھی ان کے پائے استقلال میں ذراسی جنبش پیدانہیں کرسکتی اور بڑے سکون وتندہی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹی رہتی ہے۔

اسلام کے قرن اول سے لے کر پہلے ہزار سال کے اختتام تک کوئی قرن، کوئی صدی اور اسلام پر نازک سانازک کوئی وقت ایسانہیں گزرا جوان وارثین نبوت کی قربانیوں سے خالی رہا ہو۔ ان عظیم شخصیات کے عظیم کارناموں سے ملت اسلامیہ کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ سبھی ہستیاں مجددین کہلانے کی مستحق ہیں بلکہ بعض کو مجدد کہا بھی گیا۔ قرن ہجری کے پہلے ہزارے میں اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے ہزارے میں بھی کچھ ایسی عظیم المرتبت مقتدر شخصیات ہوگزری ہیں جن کے روح پرور، عظیم الشان کارناموں کی وجہ سے ان کے حلقہ ٔ اثر کے لوگ آج بھی انہیں مجدد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح بے غبار ہے کہ فرق مراتب کی جو نسبت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین میں ہے وہی نسبت ان کے جانشین، علماء وارثین میں بھی ہونی چاہیے تمام انبیاء کرام آسمان نبوت کے تابندہ ماہ وانجم اور روشن ستارے تھے، دنیا والے ان کی روشنی سے رہنمائی اور کسب فیض کرتے تھے لیکن جب سلسلہ نبوت کے ختم پر مطلع عالم پر سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب عالم تاب بن کر طلوع ہوئے تو بساط عالم پر پھیلے ہوئے فضاء نبوت کے تمام ستارے (انبیاء) غائب ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے جانشین علماء ربانیین بھی اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے لیے منارۂ نور اور اپنے حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے شہرۂ آفاق اور آسمان دعوت وارشاد کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، لیکن جب سنہ ہجری کے دوسرے ہزارے کے آغاز میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مطلع برصغیر سے عالم اسلام کے افق پر ماہتاب بن کر طلوع ہوئے تو اس کی تابانی کے سامنے دوسرے ستاروں کی روشنی مدھم نظر آنے لگی اس لیے دوسری شخصیات باوجود شہرۂ آفاق ہونے کے تجدیدی مقام سے ورے ورے نظر آنے لگیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجدد کے نام پر جو عام اور تام تلقی قبول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا وہ دوسری شخصیات کو حاصل نہیں ہوسکا، بلکہ ''مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ'' آپ کا علم خاص بن گیا اور اب یہ لفظ لوگوں کی زبانوں پر بطور علم استعمال ہو رہا ہے اصل نام سے بہت سے لوگ واقف نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت اور عبقری شخصیت کے سوانح اور حالات زندگی محفوظ و مرتب کرنا، قومی و ملی فریضہ ہے، صلحاء امت علماء ربانیین کی حیات صالحہ ایک قومی اثاثہ اور عملی توارث کا چشمہ فیض ہوتی ہے، یہ چشمہ ان کی وفات کے بعد بدستور جاری رہنا چاہیے ورنہ عملی توارث کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اس لیے توارث کی بقا ضروری ہے تاکہ جس طرح لوگ ان سے ان کے زمانہ حیات میں کسب فیض کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان سے فیض یاب ہوتے رہیں، اس کی ممکن صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے سوانح و حالات زندگی محفوظ کر لیے جائیں تاکہ یہ امانتی ورثہ محفوظ ہو سکے اور آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں اور سنبھال رکھیں۔ الحمد للہ، ''امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی'' نے اس قومی ورثہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی اور کتاب ''جہان امام ربانی'' شائع کر کے قوم کو اس گراں باری سے سبک سار کر دیا۔ چونکہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، ظاہری و باطنی بے شمار خوبیوں کا ایک مرقع تھی اور علمی و فنی کمالات، عملی پایہ، تقدس و طہارت، شریعت، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، دعوت و عزیمت غرض ان تمام روحانی و اخلاقی عطریات کا مجموعہ تھی اس لیے اس کتاب میں بھی تصوف کے ان مذکورہ سارے اجزاء ترکیبیہ کا احاطہ کیا گیا ہے، بطور خاص اس میں آں موصوف کے مخطوطات، ملفوظات، محفوظات، وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، صحو و سکر وغیرہ کی بھی بحثیں ہیں، یہ کتاب کیا ہے؟ بس رنگارنگ مقالات و مضامین سے سجائی گئی ایک خوبصورت بزم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تلقی قبول نصیب کرے اور اس کے سرپرست، منتظمین، مرتبین، معاونین کو دونوں جہاں میں ترقی درجات اور فضیلت حسنات سے نوازے آمین یارب العالمین۔ ایک آخری عرض، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط نظر سے گزرا، یہ خط حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا، اس کی تمہید کا خلاصہ یہ ہے:

> ''میری یہ تاب و تواں کہاں کہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثناء کر سکوں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے میرا بیان و مقالہ قابل تعریف ہو جائے گا''

پھر یہ شعر ہے:

ماان مدحت محمد ابمقالتی
ولکن مدحت مقالتی بمحمد

راقم سطور نے بھی اس جذبہ کے تحت ان تاثرات کا اظہار کیا ہے ورنہ بے مایہ علم کی یہ ہمت کہاں کہ آں موصوف پر کچھ اظہار خیال کر سکے، اور اس لیے بھی شاید یہ خاکسار بھی آپ کے ارادت مندوں کی صف میں شامل ہونے کا اہل ہو جائے۔

یا اللہ! یہ خاکسار ان چند ناہموار سطور کا انتساب حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی کی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی تجدید کے جذبہ میں ڈوبی ہوئی روح کے نام کرتا ہے۔

(۲)

اس وقت یہ خاکسار حیرت واستعجاب کے ایک خوبصورت اور حسین تصور میں کھو گیا جس وقت اچانک اور غیر متوقع طور پر جہان امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کی طرف سے ہدیۃ کتاب جہان امام ربانی کا چھے جلدوں کا سیٹ دست یاب ہوا اور مدیر حکومی نے وصول یابی پر دستخط کرنے کو کہا، ہاں اس سے پہلے کتاب مذکور مولانا مفتی محمد مکرم احمد امام شاہی مسجد فتحپوری دہلی کے توسط سے دیکھ چکا تھا اور اس پر بطور تہنیت وتقریظ کچھ سطریں بھی تحریر کی تھیں، اس موقع پر ضرور خیال ہوا تھا بلکہ تمنا وآرزو ہوئی تھی کہ کاش یہ کتاب میرے پاس اپنی ہوتی، لیکن اس کے بعد یہ دلی تمنا دل ہی میں رہ گئی اور پھر بھولی بسری یادوں کے ساتھ رل مل کر ختم ہوگئی اب تو یہ وہم وگمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نعمت غیر مترقبہ وہی نعمت ہوتی ہے جس کا وہم وگمان بھی نہ ہو، اس حالت میں آپ کا یہ نادر تحفہ میرے لیے ایک عظیم نعمت غیر مترقبہ ہے، ظاہر ہے اس موقع پر قلب جو فرحت وسرور کی کیفیات طاری ہوں گی ان کا کیا عالم ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کے اظہار کے لیے نہ زبان میں سکت نہ قلم میں ہمت دونوں کا دامن تنگ ہے۔ آپ کے جذبۂ حسن سلوک و اخلاص اور اس بے پناہ شفقت وعنایات کو دیکھ کر امت مسلمہ کے اسلاف واکابرین کے دور کی یاد تازہ ہوگئی اور آپ کے اس پُرخلوص جذبۂ اخوت میں ان کے اخلاق حسنہ کا عکس جمال اور ان کی سیرت وکردار کے عملی نمونے نظر آرہے ہیں۔ معلوم نہیں حضرت پروفیسر صاحب اور ان کے رفقاء کار کو میری دیرینہ دلی تمنا کی بھنک باوجود طویل فاصلے کے کیسے پہنچ گئی؟ لیکن یہ حق ہے خلوص ومحبت میں برقی تاثیر ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی خوشبو مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں محسوس ہوتی تھی۔

ایسے ہی خلاف عادت امور کو کشف و کرامات کہا جاتا ہے۔ بہر حال یہ چند سطور بطور شکر و امتنان کے طور پر حاضر خدمت ہیں باقی آپ کے اس احسان و حسن عمل کا حقیقی اجر و صلہ تو مالک حقیقی ہی دے گا۔ دست بدعا ہوں اللہ تعالیٰ اس دینی کاروان (ادارہ) کو، سالار کارواں کو اور دیگر تمام متعلقین کو دائمی ترقیات و لازوال برکات و ثمرات سے نوازے۔ آمین

مولوی محب اللہ ترابی

(دار العلوم قاضی حسام الدین، کوہاٹ، سرحد)

☆

فقد وصل الی من حضرتکم العالیة الکتاب المنیف المسمی باسمه الشریف "جهان امام ربانی" الذی قامت بتالیفة وطباعة ادارة الامام الربانی (امام ربانی فاؤنڈیشن) التی تحت الاشراف الشیخ الفاضل المحسن الاکرام علی جماعة نقشبندیة مجددیة مولانا و والانا بروفیسر الدکتور محمد مسعود احمد لازالت شموس فیوضات البازغة. ففرحت بوصوله ومطالعته غایت الفرح وقد وفقهم اللّٰه تعالیٰ توفیقاً عظیماً وفتح اللّٰه عز و جل فتحا مبینا حیث اختار واموضوعا جوهریا وروحیا تحتاج الیه الامة المسلمة عامة والامة الجماعة الصوفیة النقشبندیة المجددیة خامة فی الظروف الراهنة وبذلوا فی جمع سیرة الامام الاکرام المحبوب السبحانی الغوث الصمدانی الامام الربانی الشیخ احمدالفاروقی السرهندی مجدد الف ثانی رحمة اللّٰه تعالیٰ علیه ونظم الدرر الفریدة فی سلک التالیف والطباعة جهودا مشکورة ماجورة فها فقد طلع هذا البدر الاتم فی اللیل الادلهم علی سیرة الامام الاکرم. وان الامة المسلمة عامة والامة الروحانیه خاصة وهونا لمنتکم العالیه. ارجو من اللّٰه عز و جل قبول مساعیکم الجمیلة فی خدمة طریق الروحانیة.

واللّٰه اسأل مزید توفیق فی هذه الطریق المستقیم وینفع به الامة المحمدیة انه سمیع مجیب الدعوات وصلی اللّٰه تعالیٰ علی خیر خلقه واشرف رسله وخاتم انبیائه وعلی اله وصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین.

مولانا محمد جمیل احمد قادری

(لورالائی، بلوچستان)

☆

آپ کی تحریر کردہ کتب دنیا بھر میں پہنچ کر ان سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کے زیر سرپرستی تصوف اور امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام پہلوؤں پر ایک جامع شاہکار انسائیکلو پیڈیا ''جہان امام ربانی'' نے شایع ہو کر خاص و عام میں قبولیت حاصل کی، اہل علم نے اس سے استفادہ کر کے قابل ستائش قرار دیا۔ (محررہ ۳۰/اکتوبر ۲۰۰۵ء)

مولانا محمد اقبال سعیدی

(مدرس جامعہ نعمانیہ رضویہ، سیالکوٹ)

☆

آپ کی طرف سے خوشخبری نے واقعۃً خوش کیا کہ آپ نے (جہان امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کی اشاعت کا عظیم الشان بیڑا اٹھایا ہے فقیر حقیر دعا گو ہے کہ جن کے نام کو عام کر رہے ہو قدم قدم پر وہ آپ کا کام آسان بناتے جائیں اور تمہیں اور ہمیں خدا سے ملواتے اور بخشواتے جائیں اور خدا کرے کہ شمع رسالت کے ہزاروں پروانے اور فیضان مجددی کے لاکھوں دیوانے تمہارے قدم بقدم ہو جائیں فقیر آپ کے تمام رفقاء کار کو اس انوکھی اور نرالی کاوش کی کامیابی پر ہدیۂ تبرک پیش کرتا ہے اگر چہ فقیر کے ہاتھ میں غزالی زماں رازی دوراں امام عاشقاں السید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دامن رحمت ہے مگر برصغیر پاک و ہند میں وہ کون سا مسلمان ہے جو محبت و عقیدت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مرۃ بعد اخری سے خالی ہو اور کاظمی کریم کی عقیدتوں سے تو آپ خوب واقف ہونگے۔

مفتی محمد نصیر الدین نصیر

(جامعہ سلطانیہ، شورکوٹ ضلع جھنگ)

☆

آپ جناب کی کاوش کے متعلق پڑھکر بہت زیادہ فرحت وانبساط ہوئی۔ عالم اسلام کی اس بے مثال شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں مایہ خدمات اب تک اس امت پر فرض چلی آ رہی تھیں

کہ آپ نے اس جد و جہد کے ذریعے امت مسلمہ پر عموماً اور اہالیان سلسلہ نقشبندیہ پر خصوصاً احسان عظیم فرما کر اس فرض سے سبکدوش کیا۔

پیر طریقت مولانا احمد قدر القادری

(امیر جماعت اہلسنت حیدرآباد حلقہ ۴۹، سندھ)

☆

رسالہ ضیاء الاسلام کی وساطت سے "جہان امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ" کی تکمیل و اشاعت کا پتا چلا اس عظیم کام کی تکمیل پر مبارکباد۔ اتنا بڑا کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ آپ پر رب العزت کا خاص کرم ہے اور آپ کے مشائخین سلسلہ کی خاص توجہ ہے جو اس کی تکمیل آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔

مفتی محمد خالد مجددی

(مہتمم، جامعہ فاطمۃ الزہرہ، گوجرانوالہ)

☆

ماہنامہ رضائے مصطفیٰ میں آپ کے ادارہ کی شائع کردہ کتاب بنام جہان امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اشتہار پڑھا۔ انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک کام سرانجام دیا ہے اور یہ خوبصورت انسائیکلوپیڈیا ترتیب دلوا کر سلسلہ مجددیہ پر احسان فرمایا ہے۔

علامہ حافظ اللہ دتہ نقشبندی مجددی

(مدرس جامعہ رضویہ نور الاسلام، عارف والا ضلع پاکپتن)

☆

ہمیں بے حد فرحت محسوس ہوئی جب کہ ہم نے پڑھا کہ آپ، محبوب سبحانی، قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات زندگی و فضائل و کمالات، افکار و نظریات، تبلیغ و ارشادات، مکتوبات و مصنفات، اولاد و احفاد، خلفاء کبار، اور اولیاء نقشبندیہ مجددیہ پر تحقیقی مقالات کا، انسائیکلوپیڈیا جہان امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شائع فرمانے کی سعی جمیلہ فرما رہے ہیں، ہمیں

بہت ہی مسرت قلبی ملی کہ اس حوادث کے دور میں آپ ایسا کارنامہ حسین سرانجام دینے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ جس سے جہالت و برائی کا خاتمہ اور شان اولیاء کاملین کے عقیدت مندان کے عقائد کو پختگی و شائستگی اور ایمان وایقان کو مزید پزیرائی حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور امام ربانی فاؤنڈیشن کے تمام اراکین و معاونین ومحبین ومحسنین کو اس عظیم محنت شاقہ کے بدلے اجر عظیم اور سعادت دارین اور جزا کے دن امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ نصیب فرمائے آمین۔

مولانا حافظ سخی محمد مہران قادری

(خطیب جامع مسجد، راؤتیانی ضلع سانگھڑ، سندھ)

☆

آج جلد ششم تک حرف بحرف مطالعہ کر چکا ہوں۔ واللہ! آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ جیسا عظیم کام تھا ویسا ہی آپ نے اس کو نبھایا ہے۔ ہر پہلو سے اس کو سمیٹا گیا ہے۔ سبحان اللہ جزاکم اللہ

اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو اپنے مرشدان عظام کی پیروی اور عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ناچیز بندہ کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرے۔ الفاظ نہیں ملتے جو کہ لکھوں۔ محبا! مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا ۱۹۷۷ء سے شوق تھا۔ اب تک نہیں دیکھ سکا۔ آپ نے کافی مواد کا مطالعہ کرا دیا۔ ماشاء اللہ یہ تو ایک بحر زخار ہے۔ امید ہے کہ اب خود مکتوبات شریف ہی مل جائے گی۔ تصوف سے شغف رہا ہے اس لیے ''فصوص الحکم'' کا شوق تھا۔ نظریہ وحدۃ الوجود کی غلط تشریح سے اب ابن العربی علیہ الرحمۃ کے نظریہ وحدۃ الوجود سے میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ کافی تحریریں ملی تھیں پڑھی ہیں۔ علامہ اقبال کے بال جبریل نے تو کئی دفعہ رلا دیا۔ اللہ اللہ اقبال کو تو مجدد علیہ الرحمۃ نے اقبال کیا تھا۔

میرے مرحوم والد کم پڑھے تھے لیکن حافظہ تیز تھا۔ ان سے حضرت باقی باللہ کا نام شاید پانچ چھ برس کی عمر میں سنا تھا۔ اب بھی جب ''باقی باللہ'' کا اسم گرامی آتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی اولاد سے کوئی بزرگ ہوں گے۔ کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا شہرہ بچپن سے سن رکھا تھا۔ مٹیاری شریف میں حضرت صاحبزادہ غلام مجدد سرہندی علیہ الرحمۃ جو

کہ میرے والد مرحوم کے زمیندار سید حاجی ولی محمد شاہ (ڈگری) کے مرشد کریم تھے۔ ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی تھی ان سے بہت ہی متاثر ہوئے تھے۔

آپ سب حضرات کو اس عظیم کام کی دل کی گہرائیوں سے مبارک باد دیتا ہوں۔ جب ''قال الفاروقی السرہندی'' کے الفاظ پر پہنچا تو آنکھوں کے بند بے اختیار ٹوٹ پڑے اور آپ کے حق میں بے ساختہ دعائیہ کلمات نکلے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ سب کو اور معاونین حضرات کو دارین میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین

مولانا محمد معاذ احمد صدیقی قادری

(جامع مسجد بہار بغداد، بفرزون، کراچی)

☆

رايت الكتاب "جهان امام ربانى" مع "نورٌ على نور" وطالعت بعض مقاماة فوجدته افرد فى موضوعه واعظم ماصنف فى سيرت الشيخ الامام احمد سرهندى المعروف بمجدد الف ثانى عليه الرحمة الربانى من الكتب المشهورة نفعاً واحسن منها ترتيباً واتم منها تحريرًا واكثر منها لجمع حالات الشيخ رحمة الله عليه ومناقبة وبيانات متعلقاته جمعاً. ذالک الكتاب لاريب انه كامل بل اكمل ، بلى انه مستفيض بفيوض العلامة النهير مسعود الملة دكتور محمد مسعود النقشبندى المظهرى دامت فيوضهم وانه لمشتمل على كثيرا من الفوائد والزوائد، وانه لمفيد جد الكل الخواص وللعوام من المسلمات والمسلمين.

هذ اوحد فى محاسنة
ليس احد فى مقابله

رايت ان وضع هذالكتاب فى البيت و مطالعة بالاستيعاب لازم على الفاضلين بالعلوم النقلية والعالمين بالعلوم الشرعية والراغبين عن الشرور الدنيوية والسالكين الى الحسنات الاخروية.

مولانا محمد نجم الحسن نجم نقشبندی

(دربار عالیہ کبوہ شریف، ڈیرہ اسماعیل خان، سرحد)

☆

امام ربانی مجدد الف ثانی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ پر آپ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ جس محنت اور جانفشانی سے بزرگوں کے حالات اکٹھے کیے گئے ہیں اور جس حسن ترتیب و تحقیق سے مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے فیوض و برکات اور شخصیت و فن کو جہان امام ربانی میں مرتب کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ گراں قدر کتاب آنے والے دور کے محققین و مؤرخین کی رہنمائی میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کرے گی۔

مولانا مجاہد عبد الرسول خان

(جامعہ جلالیہ، مغل پورہ، لاہور)

☆

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کا یہ عظیم کارنامہ ہمیشہ داد تحسین حاصل کرتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے اہلسنت نے کافی تحریری و تقریری کام کیا۔ ان کی کتب کو عام کیا اور شخصیت کے اعتبار سے کافی حد تک تعارف کروایا۔ مگر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بعض واقعات اور چند کرامات کی حد تک تو تھا مگر اتنی تفصیل و تحقیق کے ساتھ غالباً اب تک کسی نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ سعادت ہی سعادت ہے کہ آپ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اتنا مواد پیش فرما دیا ہے۔ اور ہر جلد کو ''اقلیم'' کے نام سے اور ہر باب ''کشور'' کے نئے نام سے متعارف کروایا ہے۔ اور ہر جلد کے اول میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعت مبارک کو داخل فرما کر ذوق میں مزید اضافہ فرما دیا ہے۔ اور اقلیم اول میں تمام اقلیمات کا تعارف کشور سے دیکر کتاب کا مطالعہ اور معلومات کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ادارے کو مزید ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔

☆……☆……☆

سردار علی احمد خان

(معروف دانشور، لاہور)

☆

چھ ضخیم جلدوں پر مشتمل دستاویز موسومہ بہ ''جہان امام ربانی'' مطالعہ سے گزری، مرتبین کی کاوش لائق تحسین ہے جنہوں نے اوریجنل ماخذات یعنی مخطوطات، مطبوعات اور مستند دستاویزات سے استفادہ کیا ہے۔ معلومات افزاء مقالوں نے کتاب مذکورہ نہایت اہم بنا دیا ہے۔ اور علم وفضل سے بھرپور یہ مجموعہ قاری کے لیے ایمانی تقویت کا باعث ہے۔ دورِ جدید کے معاشرے کے علمی اور روحانی ترقی کے سلسلے میں ''جہان امام ربانی'' ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ اس قابل مطالعہ پیشکش سے بہت سے قارئین اور محققین مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔

فاضل اہل قلم اور ارباب دانش کی تحریریں بڑی دلنشیں اور خیال آفریں ہیں اور امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے توسط سے کتاب کا اجراء نہایت قابل قدر کارنامہ ہے مذکورہ تصنیف لطیف اس پرفتن دور میں کہ اغیار واعداء نے ہماری دینی اور روحانی تمدن وتہذیب کو گھیر رکھا ہے اور نئر ادنو پر شعائر دین کی گرفت ڈھیلی پڑتی جارہی ہے یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت ہے اس میں تصوف کے علمی، عملی، روحانی اور معنوی پہلو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مرتبین وناشرین کو جزائے خیر سے نوازے کہ انھوں نے حد درجہ مفید معلومات کا خزینہ جمع کر دیا ہے۔

سراپا کہ مملو زِ دُرِ دَری است
مشرف نامہء احمد سرہندی

کتاب کے مطالعہ کے دوران اور بعد میں میرا تخیل برابر سرہند شریف اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی جانب پرواز کرتا رہا اور ہاتھ حضرات نقشبندیہ کے لیے دعائے خیرِ کثیر کے لیے اُٹھے رہے۔

مغیث جہاں سرور اتقیا
کہ خاک درِ روضہء عنبر اُست

کفیل نجات است خاکِ درش
کہ باراں از آں فیض رحمانی است
ہرآں کس کہ دارد تولا بدو
زنجد گہی حق تعالیٰ ازو

(محررہ: ۲۰ ذی القعدہ ۱۴۲۶ھ/ ۵ دسمبر ۲۰۰۵ء)

سید انور علی ایڈووکیٹ

(آن ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان، کراچی، سندھ، پاکستان)

☆

تعارف: پاکستان کے معروف مصنف و محقق جنہوں نے انگریزی میں قرآن کریم کی عظیم تفسیر قلم بند کی، کتب احادیث اور کتب فقہ کے انگریزی میں ترجمے کیے اور انگریزی میں اسلامی موضوعات پر متعدد کتابیں لکھیں۔

(۱)

"Jahan-e-Imam Rabbani" is an extra ordinary contribution of Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed to the Literature relating to the life and Services of Hazrat Mujaddid Alf-e-Sani for the cause of Islam.

Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed is a Prominenrt Muslim Mystic, scholar and writer of the present era, He already has to his credit hundreds of books and articles on Islamic Topics of which some have also been included in the Encyclopaedia of Islam. On the life and works of the great Muslim Mystic, scholar and writer of the twentieth century A.D. Imam Ahmed Raza Khan of Bareily, Professor Dr,

Muhammad Masud Ahmed is an authority and is generally known as the "Mahir-e-Rizwiyaat". In fact through his writings he has introduced Imam Ahmed Raza Khan to the world at large, and it is due to his efforts that in many prominent Universities of the world research work is going on the life and works of Imam Ahmed Raza Khan.

"Jahan-e-Imam Rabbani" is an encyclopaedic compilation in 9 volumes. Volumes 1 to 6 and 8, named as "Aqaleem", each divided in five sections, known as "Kishwar", contains the opinions and articles of great Mystics and scholars on the life and services of Hazrat Muaiddid Alf-e-Sani, volume 7 contains pictures of tombs, mosques and other sacred places, and is named as "Noorun Ala Noor" and volume 9 contains an Index of all the volumes as well as opinions of the learned one's. So far volumes 1 to 7 have been published, and volumes 8 and 9 are under print.

Volume 1 deals with the forecasts relating to the birth of Hazrat Mujaddid Alf-e-Sani before his birth, and the tributes paid to him by religious personality during his life time. It explains Mysticism and gives the narrations about Hazrat Abu Bakar Siddique, the first worthy Caliph of the Holy Prophet (peace be upon him), to whom the Naqshbandia Order owes its origin. It also speaks about many Mystics of the Naqshbandia Order, particularly Hazrat Khawaja Bahauddin Muhammad Naqshband who gave naqshbandia order the form of an institution and is accordingly known as its founder as well as Hazrat Baqi Billah the spiritual teacher of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani. There are also details regarding Sarhand, the birth place of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani as well his life history. In this volume there is also an Introduction by Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed himself which elaborately deals with the life and mission of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, his influence on the world at Large, the services rendered by his followers for the cause of Islam through the Naqshbandia Order, and the books written on him.

Volume 2 deals with the Literary and spiritual knowledge and services of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani,and also gives his views about Mysticism, Fiqah, Mujiddadiyat, Qayyumiat and Wahdatul Wujood which was introduced by Ibnul Arabi.

Volume 3 deals with his spiritual status, his veiws about the belief in "Khatm-e-Nubawwat" refutation of "Rawafiz", importance of the "Aimmah", as well as the Ulama, It also contains his sayings, spiritual miracles and practices.

Volume 4 deals with the history of the Sub-Continent, the influence of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani,on the Mughal Emperors, and the development of two nation theory. It also gives the narration about his death and also makes mention of his descendants and Mystics of his time.

Volume 5 deals with those of his descendants and followers who played important role in the propagation and expansion of his Mystic order, particularly Mirza Mazhar Jane

Janan, Shah Ghulam Ali and Shaikh Khalid. It also deals with his "Maktubaat" and their Translations, his influence on Imam Ahmed Raza Khan and Allama Iqbal, and his views about Imam Abu Hanifah and Hazrat Ghosal Azam Shaikh Abdul Qadir Jeelani.

Volume 6 deals with the spiritual infunence of the Naqshbandia order in the "Arab and Ajam" and the life and services of Naqshbandia Mystics in these countries.

Volume 7, as stated earlier, contains pictures of tombs and other sacred places.

Volumes 8 and 9 are under print.

Hazrat Mujiddid alf-e-Sani was a great Muslim Mystic of the Naqshbandia order of the 10th and 11th centuries Hijrah.He was born in 971 A.H. at Sarhind in the progeny of Hazrat Umer the second worthy caliph of the Holy Prophet (peace be upon him). He got his early education of Quran, Hadees and Mysticism from his father Shaikh Abdul Ahad and other prominent teachers of his time, and finally from Hazrat Baqi Billah of Delhi and reached high status in Mysticism through him. He got prominence in the History of the Sub-Continent on account of his opposing the Un-Islamic activities of Akbar and Jehangir the two great Mughal Monarchs of the Sub-Continent of India and Pakistan.

In his early life Akber was a true Muslim. He used to follow the Islamic practices, make the call for prayers and offer reguler prayers, clean the mosque, respect the Ulama and issue orders on basis of their "Fatwaas", appoint Muftees and Qazis, honour the Mystics, pass his time in meditations at Fatehpur Seekri near the "Khaniqah" of Hazrat Saleem Chisti (Serrat Mujiddid Alf-e-Sani, by Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed).

But Later, under the influence of his Hindu wives, prominent Courtiers-Hindus as well as Muslims inculding Abul Fazal and Faizi, Akbar altogether changed and introduced " Deen -ilahi" a new religion which was a mixture of all religions, with the result that Un-Islamic practices were introduced. In short worship of the sun, fire, water, trees, stones and cowdung was started, "Qashqah" was applied "Zunnar" was worn, fleah of swine and dog was made lawful, cow slaughter was banned, wine drinking was allowed, adultery was permitted gambling was made lawful, "purdah" was banned, marriage between paternal and maternal cousins was disallowed, gold and silk were made lawful for men,"Jizyah" was abolished, beards were shaved, dead bodies were ordered either to be drowned in the rivers or burnt instead of burying, " Sajdah-e-Tazeemi"(prostration of repect) for the king was made obligatory for everybody, and so on (ibid). .

After the death of Akber his son Jahangir also followed the same practices. He used to take part in the Hindu festivals, think the fire as the light of God, drink wine, declare the sun as "Nayyar-e-Azam" and the stars as reflection of the light of God and respect them, adopt the Shia views under the influence of his Shia wife Noorjehan (ibid).

Akber tried his best to impose the "Deen-e-Ilahi"by force, and those of Ulama who opposed it, and issued "Fatwas" against it, were either imprisoned or put to death. But inspite of all this the people at large Muslims as well as Hindus, did not accept it, and among the courtiers of Akber also there were very few who had accepted it and followed the Un-Islamic commands of Akber. Most of the Courtiers were righteous and remained true to Islam and under the guidance of Hazrat BAqi Billah, tried to mend the king and prevail upon him to give up the Un-Islamic practices and re-establish the Islamic Shariah.

In these circumstances, after the death of Hazrat Baqi Billah in 1010 A.H., when many of the Ulama and Sufis kept silet and remained aloof, and many suffered on account of opposing the Deen-e-Ilahi. Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, at the risk of his life and property, stood up to face the Deen-e-Ilahi and stop its unislamic practices, not at the point of sword but at the point of pen, through preaching and propagation of the Islamic Shariah. He wrote letters to the prominent courties of Akber, who were at heart true Muslims and had close relation with Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, laying emphasis on strict following of Isalm, and asking them to make the king realise the importance of Islam and give up the Un-Islamic practices. In this connection, Shaikh Farid Bukhari, Qleej Khan, Mirza

Aziz Kokaltash, Khan-e-Azam, Merran Sadar Jehan and Abdul Rahim Khan Khan-e-Khanan, at the instance of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani did their best, and it is said that, to some extent, the atmosphere was changed.

In 1014 A.H. Akber died and his son Jehangir became the king. In order to mend the ways of Jehangir also and to make him inclined towards Islam, Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani,continued his mission and through his letters laid emphasis on the Courtiers of jehangir to make him understand the importance of Islam and give up the Un Islamic practices. In this connection, Jehangir's prominent courtiers Shaikh Farid Bukhari, Jabbar Khan, Hakeem Fatehullah, Khan-e-Khanan , Kan-e-Azam, Mirza Qaleej Beg, Lala Beg, Sadar jehan, Khan Jehan, Sikandar Khan Lodhi, Bahadur Khan and Khizr Khan, played the important role, and under the guidance of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani,succeded in bringing Jehangir tc the right path.

But before the final sucess could be achieved, some of the evil-minded enemies of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani,also infected the mind of Jehangir against him and he was summoned by the King to his court to clear his position in respect of the allegations that had been made against him. He came to the court and answered each and every allegation, but since, while entering the court he had not offered the prostration of respect for the king, the enemies prevaded upon the king and he put him in Jail in the fort of

Gwalyar, and also confiscated all his properties. Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, remained in Jail for one year. But this proved to be a blessing for him. In the jail many evil ones repented at his hands and became righteous ones. There also arose un-easiness among the people and he, by his letters, calmed them down and stopped them from standing against the king, when all this came to the knowldge of Jehangir, he realised his fault, repented and freed him from the confinement, became his follower and requested him to stay with him. This also gave him the chance to himself mend the king, with the result that the king finished the prostration of respect for king, allowed the cow slaughter, started building the mosques, made the Sunni Hanfi Fiqah as the law of the country, appointed the Ulama so that all matters could be decided according to the Islamic shariah.. Thus the whole atmosphere was totally changed in favour of Islam and Deen-e-llahi was finished for ever.This continued during the rein of shahjehan and reached its climax in the days of Aurangzab. All this was due to the endeavour of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani and after him, his worthy sons.

Besides changing the hearts of the King and his courtiers, and reviving the Islamic way of life, Hazrat Mjiddid Alf-e-Sani also used his pen against the Un-righteous Ulama and Sufees, misguided intellectualist, enemies of the Ahle Sunnat, and the holy prophet (peace be upon him), the Ghair Muqallids, the oponents of Hanafiah, and the Bidaat (innovations). By opposing the Deen-e-Ilahi Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani also made unsuccessful the attempt to merge Islam in Hinduism, and thus laid the foundation of Two-Nation theory which ultimately became the slogan of the Indian Muslims and resulted in the achievement of Pakistan.

Due to his extra -ordinary services for the cause of Islam in the sub-continent, Hazrat Alf-e-Sani was declared as Reviver of Isalm for the next one thousand years, and from time to time, the ulama, the sufees and the scholars have been acknowledging his high status in Mysticism and his unique services, and paying tribute to him as reviver of Islam through their opinions and writings, which have been published in large number of books and journals.

Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed deserves high commendation that, inspite of his old age, after completing hundreds of his other pen-works, he undertook to put together all those opinions and writings in the form of an Encyclopaedic Compilation, and with the assistance of his worthy son Abus Surur Muhammad Masrur Ahmed, and able followers Maulana Jawed Iqbal Mazhari and Dr. Iqbal Ahmed Akhter Qadri, succeeded in competing this gigantic adventure, and named it as "Jahan-e-Imam Rabbani" and in fact, it is a "Jahan" or a "world", not of persons but of ideas, thoughts, opinions, historical facts and expressions in appreciation and acknowledgement of the extra-ordinary services of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, also known as

Imam-e-Rabbani, as well as his worthy sons and followers, for re-establishment of the Islamic Shari'ah in the sub-continent after the attempt of Akber and Jehangir to replace it by Akber's religion Deen-e-Ilahi.

This unique compilation will, on one hand, always serve as a Munumental work on the life and service of Hazrat Mujiddid Alf-e-Sani, and on the other hand, it will also keep the name of Professor Dr. Muhammad Masud Ahmed alive in the annals of Islamic History. (محررہ ۳، دسمبر ۲۰۰۵ء)

(۲)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی زندگی اسلام کی خاطر ان کی خدمات کے متعلق تحقیقی مواد میں ''جہان امام ربانی'' پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب موجودہ دور کے بڑے ممتاز مسلم روحانی بزرگ، عالم اور مصنف ہیں۔ اسلامی موضوعات پر ان کی سیکڑوں کتب اور مقالہ جات موجود ہیں جن میں بعض Encyclopaedia of Islam میں بھی شامل کی گئی ہیں، بیسویں صدی کے عظیم مسلم روحانی بزرگ، عالم اور مصنف امام احمد رضا خاں بریلوی کی زندگی اور کارناموں پر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی ذات کو حرف آخر تسلیم کیا جاتا ہے اور آپ ماہر رضویات کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ درحقیقت آپ کی تحریروں کے ذریعے ہی پوری دنیا میں امام احمد رضا خاں کا تعارف ہوا اور آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی کئی ممتاز جامعات میں امام احمد رضا خاں کی زندگی اور کارناموں پر تحقیقی کام ہو رہا ہے۔

''جہان امام ربانی'' نو جلدوں پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا ہے۔ جلد اول تا جلد ششم اور آٹھویں جلد کو ''اقالیم'' کا نام دیا گیا ہے ہر جلد پانچ حصوں پر مشتمل ہے جنہیں ''کشور'' کہا گیا ہے۔ ان جلدوں میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی حیات اور خدمات کے متعلق عظیم صوفیہ اور علماء کے تاثرات اور مقالات شامل ہیں۔ نویں جلد میں تمام جلدوں کی فہرست اور مختلف فضلاء کے تاثرات موجود ہیں۔ اب تک پہلی سات جلدیں شائع ہو چکی ہیں جبکہ آٹھ اور نو زیر طبع ہیں۔

جلد اول میں حضرت مجدد الف ثانی کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کے بارے میں پیش گوئیوں نیز ان کے دور حیات میں مذہبی اشخاص کی جانب سے ان کو پیش کردہ خراج عقیدت کا بیان ہے۔ اس میں تصوف کی وضاحت کی گئی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد ہیں اور جن سے سلسلۂ نقشبندیہ کی ابتداء ہوئی، کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سلسلہ نقشبندیہ کے متعدد صوفیہ بالخصوص حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کو ایک ادارے کی شکل دی اور جو اس کے بانی کہلاتے ہیں نیز حضرت باقی باللہ جو حضرت مجدد الف ثانی کے روحانی پیشوا تھے، کا تفصیلی بیان ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی جائے پیدائش سرہند کے بارے میں تفصیلات اور آپ کی سوانح حیات رقم کی گئی ہے۔ اس جلد میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی جانب سے پیش لفظ بھی موجود ہے۔ جس میں حضرت مجدد الف ثانی کی زندگی اور مشن، سارے عالم پر ان کے اثرات، ان پر لکھی گئی کتب اور اسلام کے لیے سلسلہ نقشبندیہ کے ذریعے ان کے مریدین کی خدمات کا تفصیلی بیان ہے۔

جلد دوم میں حضرت مجدد الف ثانی کے ادبی اور روحانی علم اور خدمات کا ذکر ہے نیز تصوف، فقہ، مجددیت، قیومیت اور وحدۃ الوجود (جو ابن عربی نے پیش کیا تھا) کے بارے میں ان کے تاثرات پیش کیے گئے ہیں۔

جلد سوم میں ان کے روحانی مرتبہ اور عقیدہ ختم نبوت، رد روافض اور ائمہ وعلماء کی اہمیت کے بارے میں ان کے خیالات کا ذکر ہے نیز اس میں ان کے اقوال، روحانی کرامات اور معمولات کا بیان ہے۔

جلد چہارم میں برصغیر کی تاریخ مغل بادشاہوں پر حضرت مجدد الف ثانی کے اثرات اور دوقومی نظریہ کا ارتقاء پیش کیا گیا ہے اس میں آپ کی وفات کی تفصیلات، آپ کے جانشین اور خلفاء اور اس دور کے صوفیہ کا بھی بیان ہے۔

جلد پنجم میں آپ کے ان خلفاء اور مریدین کا تذکرہ ہے جنہوں نے صوفیانہ سلسلے کی ترویج واشاعت میں اہم کردار ادا کیا بالخصوص مرزا مظہر جان جاناں، شاہ غلام علی اور شیخ خالد کردی۔ اس میں آپ کے مکتوبات اور ان کے تراجم، امام احمد رضا خاں اور علامہ اقبال پر آپ کے اثرات اور امام ابو حنیفہ و حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہم الرضوان کے بارے میں آپ کے تاثرات کا بیان ہے۔

جلد ششم میں عرب وعجم پر سلسلہ نقشبندیہ کے روحانی اور ان ممالک کے صوفیہ نقشبند کی حیات اور خدمات کی تفصیل ہے۔ جلد سات میں مزارات اور دیگر مقامات مقدسہ کی تصاویر ہیں اور جلد آٹھ اور نو زیر طبع ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ دسویں اور گیارہویں صدی ہجری میں سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی بزرگ تھے۔ آپ کی پیدائش ۹۷۱ھ میں سرہند میں ہوئی، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے قرآن، حدیث اور تصوف کی ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ عبدالاحد اور اس دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی اور بالآخر دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے ذریعے تصوف میں درجہ کمال کو پہنچے۔ تاریخ میں آپ کی وجہ شہرت اکبر اور جہانگیر (جو برصغیر پاک وہند کے دو بڑے مغل شہنشاہ تھے) کی غیر اسلامی سرگرمیوں کی شدت سے مخالفت تھی۔

ابتدائی زندگی میں اکبر ایک سچا مسلما تھا۔ وہ شعائر اسلامی پر عمل کرتا، اذان دیتا، پابندی سے نماز پڑھتا، مسجد میں صفائی کرتا، علماء کی عزت کرتا اور ان کے فتاوٰی کی روشنی میں احکام جاری کرتا، صوفیہ کا احترام کرتا اور اپنا وقت فتح پوری سیکری میں حضرت سلیم چشتی کی خانقاہ کے نزدیک مراقبہ میں گزارتا۔ (سیرت مجدد الف ثانی: ڈاکٹر محمد مسعود احمد)

تاہم بعد میں ہندو بیویوں اور ہندو مسلم درباریوں (جن میں ابوالفضل اور فیضی جیسے لوگ شامل تھے) کے زیر اثر اکبر مکمل طور پر بدل گیا اور اس نے دین الٰہی کے نام سے ایک نیا مذہب شروع کیا جو تمام مذاہب کا آمیزہ تھا۔ نتیجۃً غیر اسلامی شعائر کو فروغ ملا مختصراً یہ کہ سورج، آتش، پانی، درختوں، پتھروں اور گائے کے گوبر کی پوجا ہونے لگی، قشقہ لگایا جانے لگا، زنار پہنا جانے لگا، کتے اور خنزیر کے گوشت کو جائز قرار دیا گیا، گائے کی قربانی پابندی لگادی گئی، شراب نوشی جائز ہوگئی، بدکاری کی اجازت دیدی گئی، جوا جائز قرار دیا گیا، پردے پر پابندی عائد کردی گئی، چچازاد، ماموں زاد بہن بھائی کے ساتھ شادی ناجائز قرار دے دی گئی، مردوں پر سونے اور چاندی کو حلال کردیا گیا، جزیہ ختم کردیا گیا، داڑھیاں منڈادی گئیں، مردوں کو دفنانے کی بجائے دریا میں بہانے یا جلانے کا حکم دیا گیا، بادشاہ کو سجدۂ تعظیمی ہر ایک پر لازم کردیا گیا وغیرہ وغیرہ (ایضاً)

اکبر کی موت کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے بھی اس طریقے کو جاری رکھا وہ ہندوؤں کے تہواروں کو مناتا، آگ کو نور الٰہی سمجھتا، شراب پیتا، سورج کو نیر اعظم قرار دیتا، ستاروں کو نور الٰہی کا عکس جانتا اور ان کی تعظیم کرتا، اس نے اپنی شیعہ بیوی نور جہاں کے زیر اثر شیعہ نظریات کو اپنا لیا۔ (ایضاً)

اکبر نے ''دین الٰہی'' کو طاقت کے ذریعے لاگو کرنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ جنھوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا انہیں یا تو قید کر دیا گیا یا قتل۔ اس سب کے باوجود مسلمانوں اور ہندوؤں کی اکثریت نے غیر اسلامی احکامات پر عمل کیا۔ اکبر کے درباریوں میں بھی ایسے کم ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کیا اور اکبر کے غیر اسلامی احکامات پر عمل کیا۔ زیادہ تر درباری نیک اور سچے مسلمان تھے اور انھوں نے خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی راہنمائی میں بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے غیر اسلامی شعائر چھوڑنے اور اسلامی شریعت کی احیاءِ نو کی ترغیب دی۔

ان حالات میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی وفات (سنہ ۱۰۱۰ھ) کے بعد جبکہ علماء اور صوفیہ نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور کنارہ کش ہو گئے تھے جبکہ متعدد علماء نے دین الٰہی کی پاداش میں صعوبتیں اٹھائیں، ایسے میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اپنی جان و مال کی پروا کیے بغیر ''دین الٰہی'' کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اس کے غیر اسلامی شعائر کو روکنے کے لیے انھوں نے تلوار کو نہیں قلم کی نوک کا سہارا لیا جس کے ذریعے انھوں نے غیر اسلامی رسوم کی تبلیغ و اشاعت کی۔ انھوں نے اکبر کے ممتاز درباریوں کو جو دل سے سچے مسلمان تھے اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ سے قریبی تعلق رکھتے تھے، مکتوبات تحریر فرمائے جس میں انھیں اسلام پر سختی سے عمل پیرا رہنے، اکبر کو اسلام کی اہمیت کا احساس دلانے اور اسے غیر اسلامی شعائر چھوڑنے پر مجبور کرنے کی تلقین کی۔ اس معاملے میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی ترغیب پر شیخ فرید بخاری، مرزا قلیچ خاں، مرزا عزیز کوکلتاش، خان اعظم، میراں سردار جہاں عبد الرحیم خان خاناں نے بھرپور کوشش کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماحول میں قدرے تبدیلی آئی۔

سنہ ۱۰۱۴ھ میں اکبر کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا۔ جہانگیر کے اطوار کی اصلاح کرنے کے اور اسے اسلام کی طرف راغب کرنے کی خاطر حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنا مشن جاری رکھا۔ انھوں نے اپنے مکتوبات کے ذریعے جہانگیر کے درباریوں پر زور دیا کہ وہ اسے اسلام کی اہمیت کا احساس دلائیں اور غیر اسلامی شعائر کو ترک کرنے کی ترغیب دیں۔ اس معاملے میں جہانگیر کے نمایاں درباریوں

میں شیخ فرید بخاری، جبار خاں، حکیم فتح اللہ، خان خاناں، خان اعظم، مرزا قلیج بیگ، لالہ بیگ، سردار جہاں، خاں جہاں، سکندر لودھی، بہادر خاں اور خضر خاں نے اہم کردار ادا کیا اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی رہنمائی میں جہانگیر کو صحیح راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن حتمی کامیابی حاصل ہونے سے قبل حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے کچھ دشمنوں نے جو شری ذہن رکھتے تھے، جہانگیر کے ذہن کو پراگندہ کر دیا۔ اس نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کو دربار میں بلوایا کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی صفائی پیش کریں آپ دربار میں تشریف لائے اور آپ نے ہر ہر الزام کی صفائی پیش کی تاہم چونکہ آپ دربار میں داخل ہوتے وقت بادشاہ کو سجدۂ تعظیمی نہ کیا اس لیے بادشاہ نے دشمنوں کی باتوں میں آکر آپ کو قلعہ گوالیار میں قید کر دیا اور آپ کا تمام مال و متاع ضبط کر لیا۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ایک سال تک قید میں رہے تاہم یہ آپ کے لیے نعمت ثابت ہوئی، قید کے دوران بہت سے گناہ گار آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر صالح ہو گئے آپ کی قید پر عوام میں بے چینی پھیلی تاہم آپ نے مکتوبات کے ذریعے عوام کو اشتعال میں آنے اور بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے سے منع کیا۔ جب یہ معاملہ جہانگیر کے علم میں آیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ تائب ہوا اور آپ کو قید سے آزاد کر کے آپ کا معتقد ہو گیا اور آپ سے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ اس سے آپ کو جہانگیر کی اصلاح کا موقع ملا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے سجدۂ تعظیمی متروک کرا دیا، گائے کے ذبح کی اجازت دی، مساجد کی تعمیر کرائی، سنی حنفی فقہ کو ملک کا قانون بنا دیا، تمام معاملات کا فیصلہ اسلامی شریعت کی روشنی میں کرنے کے لیے علماء کا تقرر کیا۔ اس طرح پورا ماحول اسلام کی موافقت میں بدل گیا اور دین الٰہی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ ماحول شاہجہاں کے دور میں جاری رہا اور اورنگ زیب کے دور میں عروج پر پہنچا۔ یہ انقلاب حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ تھا۔

بادشاہ اور اس کے درباریوں کے قلوب کی اصلاح اور اسلامی طریقۂ حیات کے احیاء کے ساتھ ساتھ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنا قلم علماء سو، صوفیاء بد، گمراہ فضلا، اہل سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان، غیر مقلدین، (حنفیہ کے مخالفین) اور بدعات کے خلاف استعمال کیا۔ دین الٰہی کی مخالفت کے ذریعے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اسلام کو ہندومت میں ملا دینے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد ڈالی۔ جو آگے چل کر مسلمانوں کا نعرہ بن گیا اور آخر کار تشکیل

پاکستان کی وجہ بن گیا۔ برصغیر میں اسلام کی خاطر اپنی غیر معمولی خدمات کی بنا پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو اگلے ہزار سال کا مجدد قرار دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً علماء، صوفیہ اور فضلاء تصوف میں آپ کے مرتبہء کمال اور گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے آئے ہیں۔ اور اپنے تاثرات اور تحریروں میں جو متعدد کتب اور مجلوں میں شائع ہوئیں آپ کو مجدد اسلام کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد لائق صد تحسین ہیں کہ اپنی سیکڑوں تصانیف مکمل کرنے کے بعد اس ضعیف العمری میں آپ نے ان تاثرات اور خیالات کو ایک انسائیکلو پیڈیا کی شکل میں تالیف کیا۔ آپ نے اپنے گرامی قدر صاحبزادے ابو السرور محمد مسرور احمد اور لائق مقلدین مولانا جاوید اقبال مظہری اور ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری کی معیت میں اس عظیم مہم کو سر کیا اور اسے جہان امام ربانی کے نام سے موسوم کیا۔ درحقیقت یہ جہان ہی ہے افراد کا نہیں نظریات کا، خیالات کا، تاثرات کا، تاریخی حقائق اور اظہار آراء کا جو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ان کے صاحبزادگان اور معتقدین کی برصغیر میں اسلامی شریعت کی جگہ ترویج کی گئی اکبر اور جہانگیر کی سازش کے مقابلے میں کیں۔

یہ منفرد تالیف ایک طرف حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی حیات اور خدمات پر ہمیشہ ایک تاریخی یادگار شاہکار کا کردار ادا کرے گی، دوسری طرف اسلامی تاریخ کے دریچوں میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کا نام ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ (انگریزی سے اردو ترجمہ: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی)

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی

(نگران مرکزی مجلس رضا، لاہور)

☆

''جہان امام ربانی'' کی ترتیب و اشاعت اتنا بڑا کارنامہ ہے جو پوری صدی پر حاوی رہے گا۔ اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے علمی اور روحانی فیضان کو بکھیرتا رہے گا۔ سات مجلدات پر مشتمل یہ انسائیکلو پیڈیا سارے کا سارا نور علیٰ نور ہے۔ آپ نے ایک طرف حضرت سیدی مجدد الف ثانی کی بارگاہ میں نذرانہء عقیدت پیش کیا ہے، اور دوسری طرف خیابان نقشبندیت اور گلستان مجددیت کے گلہائے رنگا رنگ چار دانگ عالم میں پھیلا دیے ہیں۔ میں کن الفاظ میں آپ کو ہدیہء تبریک پیش کروں اور کن الفاظ میں نذرانہء عقیدت پیش کروں۔ اور کن الفاظ میں بیان تشکر ادا کروں۔ آپ نے، آپ کے احباب نے، آپ

کے معاونین نے جس قابلیت سے "جہان امام ربانی" کو مرتب کیا، اس پر جتنی داد دی جائے کم ہے، پھر آپ حضرات نے جس کشادہ دلی سے اسے اہل علم وفضل میں تقسیم کیا اس کی مثال اس زمانہ میں نہیں ملتی، لوگ مختلف انداز میں دینی لٹریچر شائع کر کے مفت تقسیم کر رہے ہیں عالم اسلام کی کئی انجمنیں، پاک و ہند کے کئی ادارے اعزازی طور پر لٹریچر شائع کر رہے ہیں، مگر آپ نے جس انداز سے اسے اہل محبت میں پھیلایا ہے اسے دیکھ کر لب حیران ہیں۔

خوباں شکستہ رنگ خجل ایستادہ اند

میں کراچی میں تقریب رونمائی پر حاضر نہ ہو سکا اور آپ کی زیارت سے محروم رہا مگر جو لاہور میں تقریب رونمائی ہوئی ماشاء اللہ اہل علم وفضل خصوصاً مجددی اور نقشبندی اسکالرز قطار در قطار نظر آئے، مقالے پڑھے گئے اظہار خیال کیا گیا حوصلہ ہوا کہ اس ملک میں نقشبندی اہل علم کی کمی نہیں صرف یہ بکھرے بکھرے موتی، یہ کھلے کھلے غنچے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے بہت عظیم الشان کام کیا اس کے اثرات دور رس ہوں گے اس کے اثرات دیرپا ہوں گے اس کے اثرات دل نشیں ہوں گے۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ (محررہ ۱۷ مئی ۲۰۰۵ء لاہور)

محمد عالم مختار حق

(معروف محقق، لاہور)

☆

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کے سلسلہ میں منعقدہ امام ربانی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد صاحب سے معلوم ہوا کہ جناب طبیعت کی ناہمواری اور جسمانی نقاہت کے سبب اس پروقار تقریب سعید میں شرکت سے قاصر رہے۔ دعا ہے کہ مولائے کریم آپ کو صحت کاملہ وعاجلہ سے ہم کنار فرمائے اور آپ کو تادیر سلامت باکرامت رکھے تاکہ آپ امام ربانی انسائیکلوپیڈیا کی پیش کش کی آرزو بھی پوری کرسکیں وما ذلک علی اللّٰہ بعزیز۔

جہان امام ربانی اپنی نفاست، حسن طباعت، گیٹ اپ، جلد سازی اور ترتیب کے لحاظ سے ایسا بدیع الشال مرقع ہے جو تعریف سے بے نیاز ہے ہم نے ایک محاورہ پڑھ سن رکھا ہے کہ "دیر آید درست آید" مگر آپ نے شبانہ روز محنت سے اتنا بڑا پروجیکٹ کم سے کم مدت میں مکمل کر کے اس محاورہ کو مقلب کر دیا،

یعنی ''جلد آید درست آید'' ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کنند۔

صاحبزادہ صاحب نے میری بڑی عزت افزائی کی اللہ تبارک وتعالیٰ انہیں خوش رکھے، میں ان کا سپاس گزار ہوں۔ (محررہ: ۲۵/اپریل ۲۰۰۵)

شاہ انجم بخاری

(مدیر مجلہ الصداق، حیدرآباد، سندھ)

☆

سبحان اللہ! آپ کی سرپرستی میں صاحبزادہ مسرور احمد دامت برکاتہم اوران کی ٹیم نے تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے مولیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دینی و علمی خدمت کو قبول فرمائے آمین۔ اور دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم اہل سنت پر تادیر قائم ودائم رکھے آپ کے وجود مسعود سے فیوضات حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق ارزانی فرمائے۔ (محررہ: ۵/جولائی ۲۰۰۵ء)

پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی

(سابق چیئرمین، ٹیکسٹ بک بورڈ، کوئٹہ، بلوچستان)

☆

تخلیق کائنات کے ساتھ اللہ جل شانہٗ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہر وقت کی ضرورت کے مطابق اپنے اولوالعزم انبیاء اور رسول بھیجے اور یہ سلسلۂ ہدایت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ دین اسلام کی تکمیل کے بعد پھر کسی نبی ورسول کے اس دنیاء دنی میں بھیجے جانے کی ضرورت نہ رہی، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق خدا کو دین اسلام سے آشنا رکھنے کے لیے صحابۂ کرام، ائمہ اہلبیت مطہرین، اولیائے عظام وعلماء ربانی کا سلسلہ چلا آرہا ہے جنہوں نے دین ابراہیمی وملت مصطفوی کی رہنمائی کو قرآن وسنت کی روشنی میں جاری رکھا ہوا ہے۔

وقت کی رنگا رنگ لہروں، مختلف مذاہب کے نافہم بکھیڑوں، مفکرین کے گوناگوں نظریات وآراء سے ہر معاشرہ اپنے اصل فکر وفلسفہ کو گرد آلود کر بیٹھتا ہے، اس لیے قدرت کی طرف سے ایک ایسی شخصیت کا ورود ہوجایا کرتا ہے جو دین خالص کا احیاء کرتا ہے اسے تازگی وجدت عطا کرتا ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں

حضرت سید عبد القادر جیلانی محی الدین کا اور دسویں صدی ہجری میں حضرت سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی کا ورودِ مسعود ہوا۔ مسلمانوں کے دورۂ مغلیہ پاکستان و ہند و افغانستان میں اکبر اعظم جیسا قوی با ہوش بادشاہ مختلف فرقوں کے تنازعات اور فروعی الجھنوں میں ایسا الجھا کہ اس نے بالآخر سیاسی مقاصد کے لیے ایک نیا مذہب ''دین الٰہی'' ترتیب دیا۔ اکبر کا دین الٰہی اگر چہ صرف اس کے چند مقربین تک ہی کار فرما رہا مگر مستقبل میں عوام پر اس کے برے اثرات مرتب ہونے کے خدشات رونما ہو گئے تھے، دورۂ جہانگیری میں فرقے اور فتنے مزید بڑھے۔ اس نازک دور میں حضرت مجدد الف ثانی کا قدم باعث برکت و سعادت ہوا۔ انھوں نے اپنے صوفیانہ خطبات اور عارفانہ مکتوبات سے نہ صرف یہ کہ ایسے ماحول کو پاک کر دیا بلکہ دین اسلامی کا احیاء مشیت ایزدی کے مطابق کر دیا انھوں نے اپنے کلام و مواعظ سے کفر و دین کے درمیان بنیادی فرق کو بھی ظاہر فرما دیا جو آگے چل کر مسلمانوں کے معاشرہ کو غیر مسلم معاشرہ سے الگ مملکت قایم کرنے میں ممد ثابت ہوا۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے کلام و آثار اور زندگی پر ایک وقیع و دقیق کام کرنے کی اشد ضرورت تھی جیسے امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی اور مجدد الف ثانی سوسائٹی لاہور نے جہان امام ربانی مجدد الف ثانی انسائیکلو پیڈیا کی آٹھ ضخیم جلدیں شائع کر کے پورا کر دیا۔ اس سلسلہ میں دونوں اداروں کے منتظمین اور محققین و اہل قلم کو صمیم قلب سے مبارک دی جاتی ہے۔

اس شاندار کاوش پر مبارک ہو، میں نے ایک متلاشی حقیقت کی نظر سے ہر کشور علم و فن کو غور سے دیکھا تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ سے متعلق تمام بنیادی عنوانات موجود تھے جن میں بالخصوص ان کے احوال، ان کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کا تعارف، مجدد، فقہ، سلوک و تصوف پر آپ کے افکار، آپ کی خدمات، عقائد، ارشادات و مقامات پر سیر حاصل تذکرہ، مزید واقعات اخلاف و خلفاء و مشائخ سلسلہ، تصانیف و مکتوبات پر مضامین، مجدد و غوث الاعظم میں فکری و روحی قرب، مزید برآں سلاسل نقشبند کا تمام عالم میں اور بالخصوص پاکستان کے ہر صوبے میں ترویج پر معلوماتی مضامین دیکھے۔ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ سے متعلق مطالعہ کتب کے لیے کتابیات کی فہرست بھی بڑی مفید جمع ہو گئی ہے۔ بہر حال امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی نے جس طرح مواد کی تلاش و جمع آوری میں وسعت قلبی دکھائی ہے اسی طرح کتابوں کے کاغذ، کمپوزنگ، تزئین اور جلد بندی میں بھی پوری وسعت قلبی کا اظہار کیا ہے جس کے لیے تہ دل سے مبارک کے مستحق ہیں۔ (محررہ: ۲۸ر نومبر ۲۰۰۵ء، کوئٹہ)

پروفیسر حافظ سید مقصود علی

(سابق پرنسپل، پاکستان گورنمنٹ کالج، خیر پور۔ سندھ)

☆

بعض ہستیاں ایسی ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہوتیں بلکہ ان کا ذکر کرنے والا خود قابل تعارف بن جاتا ہے ان کی مقدس زندگیاں روح پرور تصورات، ایمان افروز افکار و اعمال سبق آموز بھی ہوتے ہیں اور سبق آمیز بھی، ان کی پاک زندگی میں ہدایت کا وہ نور ملتا ہے جس کے فیض سے زندگی کی راہیں روشن اور کامیابی و کامرانی کی منزل قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور خدا ان کا ہوتا ہے، ان نفوس قدسیہ کو اپنے معبود اور اعمال صالحہ کی بدولت رب کریم اپنے بندوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

ان الذین امنوا ....(مریم) بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔

ان مقبولان بارگاہ الٰہی میں آفتاب ولایت، رہبر شریعت، پیر طریقت، مجدد ملت، اسلامی تعلیمات اور شعائر اسلام کے محافظ، فکری گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں علم و عرفان کا روشن چراغ جس کی روشنی سے ظلمت شب ختم ہوئی اور رشد و ہدایت کا وہ سورج طلوع ہوا جسکی کرنوں سے گمراہوں کو ہدایت اور قرب رب اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت ملی، یہ مقدس پاکباز اور بابرکت ذات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی ہے جن کے بارے میں آپ کے مرشد کامل حضرت باقی باللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا!

''شیخ احمد سرہندی ایسا چراغ ہیں جن سے ایک جہان روشن ہوگا''۔

خالق کائنات نے ان حضرات کے راستے کو اپنا راستہ بتایا ہے جس پر چل کر ایک گناہ گار بندہ بھی قرب الٰہی اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر اچھائیوں اور نیکیوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوبیاں عام ہوں بھلائیوں کی بالا دستی ہو لوگوں کو ذہنی سکون اور اطمینان قلب کی دولت میسر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے تعلق رکھیں ان کے ملفوظات، نظریات و خیالات اور آثار علمیہ سے استفادہ کریں، اگر وہ

حیات ہوں تو ان کی مقدس اور بابرکت صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔

ادارۂ امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی قابل صد مبارکباد اور لائق تحسین ہے کہ اس نے شب و روز کی محنت شاقہ اور جہد مسلسل سے ۲ سال کے ایک مختصر وقت میں ساڑھے تین ہزار صفحات پر مشتمل حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں اس قدر وسیع معلومات اکٹھی کر کے اس کو قارئین تک پہنچایا۔ یہ کام تائید الٰہی کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شاید اس پیمانے پر جس لگن اور جذبے کے ساتھ جو کام بھی ہوا ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے، حقیقت میں حضرت مجدد الف ثانی کی ذات بابرکات اتنی ہمہ گیر ہے کہ سیرت مبارکہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا فرد واحد کے بس کی بات نہیں پھر بھی ہر فاضل مقالہ نگار نے اعلیٰ درجے کی فنی تحقیقات اور مستند مآخذ اور حوالوں سے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں اپنی نگارشات پیش کر کے بیسویں صدی کا ایک عالمانہ محققانہ انسائیکلوپیڈیا پیش کرنے میں ادارے کی مدد فرمائی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے ذکر خیر کے ساتھ قارئین کو بے شمار دوسرے مشائخ نقشبند کے حالات و تعلیمات سے بھی آگاہی کا سنہری موقع ملا ہے۔

ہمیں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ کے نظریات اور تعلیمات میں بے حد مماثلت نظر آتی ہے دونوں نے سلف صالحین کے عقائد و افکار کی ترویج کی، دونوں نے شریعت و طریقت میں فرق روا رکھنے والوں کا محاسبہ کیا، دونوں نے اہل بدعت اور باطل فرقوں کے خلاف قلمی اور علمی جہاد کیا، دونوں نے گستاخان رسول، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کا تعاقب کیا، دونوں نے اپنے اپنے مکاتیب کے ذریعے حق و صداقت کا بول بالا کیا اور عوام و خواص کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا غرضیکہ دونوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور دونوں نے کثیر تصانیف کا بیش بہا اور گراں قدر سرمایہ چھوڑا ،الغرض دونوں عالم اسلام کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔

جہان امام ربانی کی اشاعت و ترتیب اور دوسرے تمام امور دنیائے اہل سنت کے تاجدار سعادت لوح و قلم، ماہر رضویات، فخر ملت جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم کی ذاتی نگرانی میں سرانجام پائے ہیں یہ ادارے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور عظیم سعادت ہے۔ روح حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ موصوف اور تمام مقالہ نگاروں، مرتبین، محققین سے کس قدر خوش اور مسرور ہوئی ہوگی۔ یہ چیز

بیان کرنے سے زیادہ محسوسات سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں جنہوں نے انسانوں کو سنوارا بنایا اور اپنے مولیٰ سے نزدیک کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدتمندوں کی اس حقیری کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب کے علم وعمل میں برکت اور صحت وتندرستی عطا فرمائے جنہوں نے اپنی عمر عزیز کا گراں قدر سرمایہ اس کار خیر کے لیے وقف کر دیا کہ فکر مجدد عام ہو جائے اور کوئی بھی متلاشی حق فیض مجدد سے محروم نہ رہے۔

پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی

(گورنمنٹ کالج، شکر گڑھ، پنجاب)

☆

سلام مسنون! حضرت علامہ محمد اقبال مظہری صاحب کا خط باصرہ نواز ہوا، انھوں نے یہ مژدہ جاں فزا سنایا کہ جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی مزید تین جلدیں تیار ہو رہی ہیں، گویا یہ دس جلدوں پر مبنی عظیم سرمایہ علم وعرفان ”تِلْکَ عَشَرَۃٌ کَامِلَۃٌ“ کا منہ بولتا ثبوت ہوگا، اب اس عظیم کام پر مجھ جیسا بے مایہ انسان کیا تبصرہ کرے۔

کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے

حضور والا! لوگ تو شاید اسی بات کو کرامت سمجھتے ہیں کہ آدمی ہوا میں اڑ کر دکھائے، آگ پھانکے، پانی پر مصلے بچھا کر نماز ادا کرے، اس کی ایک نماز بیت المقدس میں ہوتی ہو تو دوسری کعبہ مشرفہ میں، میرے نزدیک یہ کمال تو ہے لیکن ہمارے مشائخ نقشبندیہ کے عظیم معیار ولایت میں اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ کمال استقامت کے ساتھ دین حنیف کی ترویج واشاعت میں مصروف عمل رہنا ہے، آپ نے اس استقامت کی درخشاں مثال قایم کر کے اپنے جلیل القدر اسلاف کی وراثت کا حق ادا کر دیا ہے۔

پروفیسر عبدالقدوس جان سرہندی

(میر پور خاص، سندھ)

☆

حضرت نے مجھ ناچیز پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ بدست برادر عزیزم پروفیسر حاجی نثار احمد سرہندی ”جہان

امام ربانی'' کا ایک مکمل سیٹ ارسال فرمایا جس کے لیے میں آنجناب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے آمین، تا کہ آپ مسلک حق کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں۔ (محررہ: ۲۹/ جمادی الثانی ۱۴۲۶ھ)

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

(شعبہء اسلامیات، گورنمنٹ کالج، لاہور)

☆

انسان سازی اور کردار سازی کا جو فریضہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے سرانجام دیا تاریخ دعوت میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ کی سعی جمیلہ کے نتیجے میں ایک باطل فکر اپنے تمام تر جاہ و جلال اور سطوت و قوت کے باوجود نیست و نابود ہو گئی۔ موجودہ پرآشوب دور میں ہمیں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے پیغام کو عام کرنا ہوگا تا کہ ''دور حاضر کے باطل افکار'' اسلام کے بارے میں نام نہاد دانشوروں کی غلط فہمیاں، اور فروغ تعلیم کی آڑ میں پھیلائی جانے والی جہالت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ''جہان امام ربانی'' ایک ایسی علمی کوشش ہے جس نے ''افکار مجدد'' کو ایک مربوط فکری منہج کی صورت میں اہل علم و دانش کے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلہ میں جن افراد نے کوششیں کیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں خصوصاً قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد زید مجدہٗ اور قبلہ صوفی غلام سرور نقشبندی مدظلہ العالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کی شب ظلمت کو افکار مجدد کی روشنی میں صبح نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق نقشبندی

(استاد، گورنمنٹ ایم۔ اے۔ او۔ کالج، لاہور)

☆

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت، آپ کے افکار، آپ کے کارنامے معجزاتی شان کے حامل ہیں جن سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صداقت اسلام جھلکتی ہے اور اب ۱۴۲۶ھ/ ۲۰۰۵ء میں جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا منظر عام پر آنا، حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی کرامت اور سرکار دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کی مثال سابقہ چار صدیوں میں نظر نہیں آتی

اور یہ سعادت، مجدد مأۃ حاضرہ، محبوب ملت، مسعود ملت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد دامت برکاتہم العالیہ کے حصے آئی، جنھوں نے آج سے پینتیس سال قبل امام اہل سنت مجدد دین وملت پر قلم اٹھایا تو پورے عالم میں افکار رضا کی دھوم مچادی اور ماہر رضویات قرار پائے۔ اور اب حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے ایک منفرد ولازوال کارنامہ سرانجام دیا۔ جس سے چمن علم نبوت کی یاد تازہ ہوگی اور افکار مجدد سے کائنات میں اجالا ہوگا۔ نفرتوں کی دیواریں گر جائیں گی، محبت کا چمن آباد اور اسلامی امت ارتقاء پذیر ہوگی۔ ان شاء اللہ۔ (محررہ: ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء)

پروفیسر سید شبیر حسین شاہ

(گورنمنٹ گورونانک ڈگری کالج، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ)

☆

الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ نے ایک بار پھر اپنے ہونے کا احساس دلا دیا، جہان امام ربانی فاؤنڈیشن اس پلیٹ فارم سے ''جہان امام ربانی'' انسائیکلوپیڈیا کی تخلیق کا منصوبہ، کتب جمع کرنے کی سعی سعیدہ، جہان امام ربانی کی ترتیب وتسوید کے لیے محنت شاقہ، مریدین ومنتسبین کا بورڈ، جو اس کام کے کرنے کی اہلیت کے حامل ہوں۔ شیخ مجدد پر جاری، مکمل آئندہ ہونے والے کام تک رسائی، اس سارے علمی منصوبے کی آپ ایسے دانشور، مدبر، صحیح العقیدہ عالم دین اور قدیم وجدید پر نظر رکھنے والے محقق کی نگرانی۔ بفضل ایزدی یہ سب مکمل ہوا اور خوب مکمل ہوا، میری طرف سے آپ کی خدمت والا میں بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مزید کام کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی خدمت عظیم کو بحرمت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔

آپ کی علم پروری، وسعت نظری، ذرہ نوازی اور احسان کیشی کا نمونہ ''جہان امام ربانی'' بھی مجھے لاہور کی تقریب رونمائی میں عطا کیا گیا۔ شکر اللہ واشکر لک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے مال، اولاد، اثاثے نیک نیتی، اجر خیر اور درجات روحانیہ میں برکت دے آمین یارب العالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ (محررہ: ۳/مئی ۲۰۰۵ء)

☆ ☆ ☆

محمد فیاض صدیقی

(گجرات، پنجاب)

☆

حضرت صاحب ''جہان امام ربانی'' پڑھ کر بہت سکون میسر آیا، صاحب علم و عمل نے حضرت امام ربانی کی ذات اقدس پر جو کچھ لکھا کمال لکھا، خصوصاً آپ کے لکھے مقالہ جات۔

(محررہ: ۳/ جون ۲۰۰۵ء)

محبوب احمد بھٹی نقشبندی

(ضلع لیہ، پنجاب)

☆

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی خدمات و تعلیمات پر ایک عرصہ سے اس طرح کے کام کی ضرورت تھی بندہ آپ کی کتب عرصہ دراز سے پڑھ رہا ہے جب آپ کی تحقیقی کتب حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متعلق نظر سے گزرتیں تو دل سے یہ سرد آہ نکلتی کہ کاش ڈاکٹر صاحب نقشبندی مجددی ہونے کے ناطے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی زندگی مبارک اور حالات و واقعات پر بھی ایک اس طرح کی تحقیقی کتاب شایع کرتے کیونکہ نقشبندی رشتہ کی وجہ سے ہم سلسلہ والوں کا ڈاکٹر صاحب پر زیادہ حق بنتا ہے بنسبت بریلویوں کے مقابلہ پر۔ کئی مرتبہ سوچا کہ آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں عرض کی جائے لیکن آپ کا پتا دستیاب نہ ہوا۔

دیر سے ہی سہی لیکن جتنا کام حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر اب ہوا تو دل کو سکون حاصل ہو گیا ہے بندہ کی طرف سے ڈھیروں مبارک باد قبول فرماویں۔

محمد یونس نوشاہی

(حافظ آباد، پنجاب)

☆

عزت مآب، عالی جناب، عالم ابن عالم، ولی ابن ولی، عالم باعمل، پروردۂ آغوش ولایت، مخدوم اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مجدد العصر، ماہر رضویات و نقشبندیات، مسعود ملت،

حضرت العلامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی مظہری مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ

امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ بصد ادب عرض ہے کہ آپ کے فرمان عالیشان پر حضرت مولانا جاوید اقبال مظہری کی جانب سے ارسال فرمودہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ پر ترتیب دیا گیا انسائیکلو پیڈیا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' سات ضخیم جلدوں پر مشتمل ۱۴ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو موصول ہو گیا ہے اس کرم بے پایاں پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ قبول فرمائیے۔ آنجناب کی زیر نگرانی عظیم الشان علمی و تحقیقی مقالات پر مشتمل یہ انسائیکلو پیڈیا مستقبل میں مؤرخین کے لیے بڑا علمی ماخذ ثابت ہوگا میرے خیال میں جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی موجودگی میں سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ پر محققین کو مواد مزید کی ضرورت محسوس نہ ہوگی کیونکہ اس میں اندرون ملک و بیرون ملک میں تمام اکابرین نقشبندیہ مجددیہ کے حالات طیبات اور ان کے کارہائے نمایاں کو محفوظ کر دیا گیا ہے قوی امید ہے کہ یہ علمی ارمغان آنجناب سمیت تمام معاونین کے سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ثابت ہوگا، اس کے ساتھ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کی رضامندی کا شرف بھی پا لیا ہے۔

آنجناب پر مولیٰ کریم جل جلالہٗ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فضل و کرم ہے کہ علمی میدان میں ایسے عظیم الشان کارہائے نمایاں سرانجام دیے جا رہے ہیں جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ (۳۱/ اکتوبر ۲۰۰۵ء)

محمد وسیم قادری

(علمی پبلشرز، لاہور)

☆

عہد حاضر میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں عقائد حقہ کو عالمی پیمانے پر جدید انداز میں پہنچانے میں آپ نے تجدید کی ہے اور آپ کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے تعارف اور خدمات سے مسلمانوں کو روشناس کرانے کے لیے آپ نے انتھک محنت اور جد جہد سے کام لیا ہے۔ ''جہان امام ربانی'' کی طرز پر اگر اپنی زیر سرپرستی اعلیٰ حضرت پر کام کروائیں تو بے شمار مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ویسے عمر کے اس حصے میں بھی تحریری

کام سرعت سے کرنا آپ کی کرامت ہے۔ (محررہ: ۱۲/ نومبر ۲۰۰۵ء)

Naukhaiz Anwar Siddiqui

(Deputy Secretary Implementaion & Coordination)

S.G.A & C.D

☆

A treasur "jahan-e-Imam Rabbani" (7 Volumes) by Imam-e-Rabbani Foundation has enriched a number of people seeking relevant knowledge. It would be kind enough if this book is complimentarily (7 volumes) bestowed, togetner with "Hayat-e-Ilmi wa Deeni Khidmat" of Prof. Dr. Masood Ahmed paper for Doctorate # Bihar University (Patna).

May Allah Tabarak Watala enhance His blessing to you worldly and eternally.(02-04-2005)

محمد زبیر اختر القادری

(مادرِ علمی، اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ، نارتھ کراچی)

☆

محترم و مکرم مولانا ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری مدظلہ العالی کے ذریعے یہ خبر ملی کہ الحمد للہ جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا عظیم منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا اور کتاب شائع ہو چکی ہے۔
رب کریم مرتبین و معاونین اور ناشر کو اجر عظیم سے خوب خوب نوازے اس عظیم کام کا تمام تر سہرا تو مجدد عصر مسعود ملت حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد زید مجدہٗ کے سر اقدس پر ہے۔ ان کا تمام عالم اسلام اور خاص کر ارباب طریقت پر احسان تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح انھوں نے فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ پر عظیم کام کیا اس طرح حضرت مجدد الف ثانی پر بھی کام کر دکھایا اور آنے والوں کے لیے کام کی بنیاد ڈال دی۔ ماشاء اللہ

ڈاکٹر شیر محمد مسعودی

(فزیشن اینڈ سرجن و سابق میڈیکل آفیسر میو ہسپتال، لاہور)

☆

اب ذکر مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ اور ذکر مسعود ملت مدظلہ العالی و جہان امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ لازم و ملزوم ہیں، فقیر حقیر کو توفیق عطا ہوئی کہ ''جہان امام ربانی'' کی تقریباً تمام جلدوں کا سرسری مطالعہ کیا یہ کتاب اپنے حجم و جسامت کی نسبت وزن میں بہت ہلکی ہے، فقیر حقیر جب بھی ہاتھوں میں مطالعہ کے لیے اٹھاتا ہے اس کا وزن نہایت کم محسوس ہوتا ہے کیوں نہ ہو یہ نورانی حضرات کی نورانیت لیے ہوئے ہے یہ مرشد کریم کی نورانیت سے معمور ہے، نورانیت تو ہے ہی لطیف شے، تو پھر یہ کتاب وزن میں ہلکی کیوں نہ محسوس ہو۔ جو موضوع دل میں ہوتا ہے وہی جلد ہاتھ میں آتی ہے اور ایک دو صفحات کے آگے پیچھے کرنے سے دلپسند عنوان کا مقالہ سامنے ہوتا ہے اپنی پسند کا مقالہ تلاش کرنا نہیں پڑتا۔

(محررہ: ۱۱/ جولائی ۲۰۰۵ء)

Munir Hussain

(U.K)

☆

Pleas also send two copies of Maarif-e-Raza. Also, if possible, please enclose audio recordings of Hadrat Sahib's speech at Jahan-e-Imam Rabbani Conference and at other occasions. I really enjoy Listening to them, his sincerity and spirituality is so evident in these talks. Alhamdu-Lillah we are all so fortunate to belong to this dynamic Tariqa, and to be associated with a true versatile genius.

(محررہ: ۸/ اگست ۲۰۰۵ء)

Shah Zulfiqar

(Canada)

☆

(I)

My Congratulations on the sucsess of the Volumes and its inaugral sessions. I will be calling you very soon on your given numbers. Till then I beg your leave, till then, Allah Hafiz.

(محررہ: ۱۷/جون ۲۰۰۵ء)

(II)

First of all thanks for sending books, one got from spiritual (Mureed) sister and finally from Musrat Hussain recently visited Pakistan went for Umra. I glad to see that books and trying to read as soon as possible and get spirituals knowledge about " Hazrat Mujaddid Sarhindi" and his work done for Muslim Uma. I also feel pleaser to see my name in the messenger's list thanks a lot for at that time remembering a poor knowledge person I am nothing but, I have a strong shade and reference of your sprituals those thing make my soul satisfaction here and after Allah' will give you beter reward Ameen.

(محررہ: ۲۸/جولائی ۲۰۰۵ء)

Fawad Irfan Shaikh

(Abu Dhabi, United Arab Emirates)

☆

I came to know about Hadrat Mujaddid Alf-e-Sani through your

book "Seerat Mujadid Alf-e-Sani" it was one of the early books that I had read, from you. You are doing a great work, may Allah give you good health and Barkah in your time and Ajr-e-Azeem. We are busy in worldly affairs and I miss my time in Pakistan---when i used to work with Fatima on the translation work of your book. It was a splendid time and I cant tell in words the feeling of satisfaction and pleasure that I got from it.

Only 3 weeks left in April. I remember that you told us there will be a big event in April for Mujadid Alf Sani Conf. Dr. Sahib it will be a privilge for me if I can contribute something in good cause. Please inform me is there any bank A/c. or shall I sent it by name.

(محررہ ۸/ مارچ ۲۰۰۵ء)

شہزاد احمد اعوان قادری

(اسلامک لائبریری، کلورکوٹ، بھکر، پنجاب)

☆

(۱)

''جہان امام ربانی'' بہت ہی بے مثال کتاب ہے میرے علم کے مطابق اب تک اس سے بہتر سوانح حیات سامنے نہیں آئی جس میں حضور امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی زندگی کے تمام گوشے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہوں۔ اور لطف یہ کہ صرف اہل سنت کے قلمکار حضرات ہی نہیں مختلف خیال رکھنے والے قلمکار حضرات کے مقالہ جات شامل بھی کیے گئے ہیں اگر بعض مقالہ نگار نے نظریات اہل سنت سے ہٹ کر کوئی بات لکھی تو اسی جلد میں اہل سنت کی ترجمانی میں مقالہ شامل کر دیا گیا میرے خیال میں جہان امام ربانی کی اشاعت کے بعد انقلاب کی ایک لہر بپا ہوگی جو بہت سوں کو عقائد و نظریات کے بارے میں نظر ثانی کا جھنجھوڑا دے گی۔ جہان امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ میں جگہ جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کا ذکر کرنا یہ انداز مجھے ادارہ کے اراکین کا بہت پسند آیا بلکہ بہت

ضروری تھا۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے آپ کو اور ادارے کے اراکین کو مالا مال کرے۔ آمین (محررہ: ۱۲؍ اگست ۲۰۰۵ء)

(۲)

سب سے پہلے تو امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام کی مبارک باد قبول کریں۔ پھر جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی اشاعت کی مبارک باد قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ ایسی کتب شائع کریں جس سے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک و خوشی ہو۔ راقم نے اہل سنت کی ابتدائی حالت کا مطالعہ کیا اہل سنت میں جان ڈالنے کی تحریک حضور مسعود ملت مدظلہ نے ڈالی حضور مدظلہ کی تحریک مجددانہ تحریک تھی مگر ابھی تک دل میں یہ خیال رہا کہ حضور قبلہ مسعود ملت کو مجدد نہیں کہا گیا کیوں؟ حالانکہ ان کا جو کام تھا وہ معمولی نہ تھا۔ گمراہوں کو ہدایت کی طرف لانا، اہل سنت میں جان ڈالنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے تو میں اپنے احباب سے حضرت قبلہ مسعود ملت مجدد مأۃ حاضرہ موید ملت طاہرہ کو مجدد کہا کرتا تھا اور دلی زبان میں، بعد میں خیال آیا کہ جھنگ میں ایک مولانا کو صرف اس لیے مجدد العصر کہا گیا کہ اس نے۔۔۔ کا نعرہ دیا۔ مولانا۔۔۔ کو صرف اس لیے مجدد کہا گیا کہ اس نے چند نعرے دیے (مجلہ خصوصی حق چار یار قاضی نمبر) چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر مجدد کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ حضور مسعود ملت نے جو کام کیا عام الناس کی فکر کیا بڑے بڑے محققین کی فکر میں انقلاب برپا کیا۔

دل تو بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ لکھوں پھر کسی موقع پر تفصیلی خط لکھوں گا۔ ان شاء اللہ

ملک محبوب الرسول قادری

(ماہنامہ سوئے حجاز، لاہور)

☆

امام ربانی فاؤنڈیشن، اے ا، پلاٹ نمبر ۳۳، سٹیڈیم لین نمبر ۴، خیابان شمشیر فیز 7، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے برصغیر میں اسلامی دنیا کے عظیم بزرگ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمۃ کی گراں قدر خدمات، جدوجہد، کارناموں اور افکار و نظریات کے حوالے سے اہل علم و قلم کی تحقیقات، مضامین، مقالات اور منظومات پر مبنی چھ جلدوں پر مشتمل بہت خوبصورت، معلومات افروز اور مفید کتاب بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ ''جہان امام ربانی'' کے نام سے شائع

کرنے کا اعزاز پایا ہے۔

یہ کام الرابطہ انٹرنیشنل پاکستان کے صدر اور مشہور ادیب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی زیر نگرانی تکمیل کو پہنچا۔ جب کہ دیگر مرتبین میں صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری اور ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری کے ساتھ نظر ثانی کے لیے محمد مختار حق کے اسمائے گرامی درج ہیں۔ یہ مکمل ٹیم ورک ہے جسے بڑے نظم کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ اظہار تشکر میں ۷۷ شخصیات کے اسمائے گرامی شامل ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بڑے اور اہم کام کے لیے کس قدر اہل علم و قلم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ کہ اپنے موضوع پر یہ کتاب حاصل مطالعہ ہے اور اس موضوع کا خلاصہ۔

اس ایک کتاب کا وجود اس موضوع پر اپنے قارئین کو بہت ساری دیگر کتب کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گا کیونکہ چھ جلدوں کے ۳۹۸۴ صفحات پر بکھرے ہوئے اس علمی اور تحقیقی مواد کو نہ صرف یکجا کیا گیا ہے بلکہ تحقیق کے تمام تقاضے پورے کر کے تحقیق کا حق ادا کر دیا گیا ہے۔ ساتویں جلد ہنوز باقی ہے جس میں اسی علمی کام پر تاثرات اور دیگر اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے قبل اس موضوع پر اس خوبصورت اور وقیع انداز میں کوئی کام نہیں ہوا اور اپنی نوعیت کا یہ منفرد اور پہلا کام ہے۔ جہان امام ربانی کی اشاعت سے نئے لکھنے والوں کو رہنمائی ملے گی پرانے قلمکاروں کی طرف سے ناشر و مرتبین کو داد اور دعا ملے گی اور آئندہ کام کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔

خلیل احمد رانا

(جہانیاں منڈی، پنجاب، پاکستان)

☆

آپ نے فقیر پر کرم فرمایا، آج کی ڈاک سے مرسلہ کتاب ''جہان امام ربانی'' سات جلد موصول ہوئی، انتہائی ممنون ہوں، اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں برکت دے، میں تو خیال کر بیٹھا تھا کہ اب کتاب تقسیم ہو کر ختم ہو چکی ہے، اب کہاں

بہر حال یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کریم جس سے لے، زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے، لیکن با مقصد زندگی خوش بختی ہے، اس روسیاہ کو کبھی دعا میں یاد رکھنا۔ (محررہ: ۲۹/اگست ۲۰۰۵ء)

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

تقدیم	صاحب زادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	۴۱
ابتدائیہ	مولانا سید اقبال مظہری	۵۹
افتتاحیہ	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۶۹

کشورِ اوّل

اشعارِ مبارکہ	امام ربانی مجدد الف ثانی	۱۱۹
حمد باری تعالیٰ	کیف بنارسی	۱۲۰
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۲۱
منقبت	علامہ حسنین عابد سہوانی	۱۲۳
نذرانۂ عقیدت	خواجہ عبداللہ بن خواجہ باقی باللہ	۱۲۵
رحمت کے دریچے		۱۲۷
فوزِ عظیم		۱۲۷
اخبارِ غیبیہ		۱۲۸
نورِ عظیم الشان		۱۲۹
مقام شفاعت		۱۳۰
حدیثِ صلہ		۱۳۱

تشکر و امتنان ۱۳۲

نوید محبوبیّت ۱۳۳

۞......مثنوی شریف در شان مجدد الف ثانی — خواجہ محمد ہاشم کشمی ۱۳۵

۞......آمد آمد سے پہلے ۱۴۰

القائے ربّانی بہ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ ۱۴۰

شیخ احمد جام علیہ الرحمۃ ۱۴۰

شیخ خلیل اللہ بدخشی علیہ الرحمۃ ۱۴۱

شیخ عبد اللہ قطب علیہ الرحمۃ ۱۴۱

شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ ۱۴۲

القائے ربانی بہ شیخ سلیم چشتی، شیخ نظام نارنولی

شیخ عبد اللہ سہروردی ۱۴۲

تعبیر خوابات ارکان سلطنت اکبری ۱۴۳

۞......منقبت — خواجہ محمد ہاشم کشمی ۱۴۴

۞......آمد آمد کے بعد ۱۴۵

شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۵

شیخ نور الحق علیہ الرحمۃ ۱۴۶

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۷

امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۷

مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمۃ ۱۴۸

کشورِ دوم

۞...... تصوف اور اس کی بنیاد — صاحبزادہ محمد عمر بیربلوی ۱۵۱
۞...... روح اسلام — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۶۷

کشورِ سوم

۞...... قصیدہ در مدح خواجہای نقشبندیہ — شیخ محمد شعیب ۲۰۱
۞...... قافلہ سالار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ — صاحب زادہ محمد محب اللہ نوری ۲۰۴
۞...... حضرت خواجہ نقشبند اور طریقت نقشبندیہ — پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد ۲۲۳
۞...... خواجگان نقشبندیہ اور تبلیغ اسلام — پروفیسر عبدالحکیم مراد، مترجم: ڈاکٹر علی سرفراز مسعودی ۲۵۸

کشورِ چہارم

۞...... خواجہ محمد عبدالباقی کابلی (حیات، مناقب و کرامت) — مولانا محمد صادق کابلی، مترجم: مولانا سید محمد دہلوی ۲۶۹
۞...... حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہٗ — پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ۲۹۳
۞...... حضرت خواجہ محمد باقی باللہ (مختصر حالاتِ زندگی) — شاہ ابوالحسن زید فاروقی ۳۱۶
۞...... حضرت خواجہ محمد باقی باللہ (ایک تعارف) — محمد عبدالمجید یزدانی ۳۲۵

مکتوبات شریف حضرت خواجہ محمد باقی باللہ بنام حضرت مجدد الف ثانی	حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ	۳۵۳
حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور	۳۶۵
مقام حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر سید محمد کبیہ مظہر	۳۷۷

کشورِ پنجم

مرکز نور و تجلی ہے دیارِ سرہند	قاری غلام صابر قدری سندیلوی	۳۸۹
شانِ سرہند بزبان مجدد سرہند	امام ربانی مجدد الف ثانی	۳۹۱
دیارِ سرہند	ڈاکٹر اقبال سرہندی	۳۹۲
اللہ والوں کی سرزمین	جمیل اطہر سرہندی	۳۹۳
سرہند شریف ایک نظر میں	صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین مجددی	۴۰۳
امام ربانی مجدد الف ثانی کے حالات زندگی	ڈاکٹر سراج احمد خاں	۴۰۵
امتیازات امام ربانی مجدد الف ثانی	علامہ محمد ذاکر اللہ نقشبندی	۴۳۵
حضرت مجدد الف ثانی لباس اور حلیہ شریف	محمد احسان مجددی سرہندی	۴۴۱
خانقاہ مجددی کا علمی ماحول	مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی	۴۴۲
نگارخانہ	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۴۵۵
مرقعات		۴۶۵

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم دوم

☆☆

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم …… امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۱
مناقب …… سید فیض الحسن، شاہ عبدالغنی، ڈاکٹر محمد اقبال ۱۴
ابتدائیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۹
تأثرات …… نواب صدیق حسن خاں، ابوالحسن علی ندوی
رشید احمد گنگوہی، شیخ محمد اکرام ۲۱

کشورِ اوّل

ماہ وسال ……
(سیرتِ مجدد الف ثانی) علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری ۲۷
تخریجِ احادیث ……
(مکتوباتِ مجدد الف ثانی، جلد سوم) پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی ۳۲
حضرت مجدد کی فقہی خدمات …… ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس ۱۸۳
حضرت شیخ احمد سرہندی کی ……
عربی زبان وادب میں خدمات ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی ۲۵۸

کشورِ دوم

دعوت الی اللہ میں مجدد الف ثانی کا کارنامہ …… ڈاکٹر خالد علوی ۲۹۵
سنت، حضرت مجدد کی نظر میں …… پیر عبداللطیف نقشبندی ۳۲۵
بدعت کیا ہے؟
(بحوالہ خصوصی حضرت مجدد الف ثانی) …… پیر عبداللطیف نقشبندی ۳۲۹
امام ربانی مجدد الف ثانی کا تصور بدعت …… پروفیسر حافظ سید مقصود علی ۳۵۷
حضرت مجدد الف ثانی اور مسلک اہل سنت …… علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی ۳۷۵
ذکر الٰہی کی اہمیت
(حضرت مجدد کے مکتوبات کی روشنی میں) …… مولانا نور الحسن نوری چشتی ۳۹۳
حضرت مجدد الف ثانی کے معمولات …… سید زوار حسین شاہ ۴۰۷
معمولات حضرت امام ربانی …… پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد ۴۲۵

کشورِ سوم

امام ربانی اور علم لدُنی …… شیخ الحدیث ابن الصدیق محمد ہادی بخش ۴۳۱
جذب وسلوک …… شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ۴۵۲
امام ربانی کی تعلیمات تصوف …… صاحب زادہ ڈاکٹر ساجد الرحمٰن ۵۰۰
عہدِ اکبری کے صوفیہ کی اصلاح میں
مکتوبات امام ربانی کا کردار …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری مجددی ۵۱۰
حضرت مجدد الف ثانی، تزکیہ نفس اور اخلاص …… پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی ۵۱۹
صحو وسکر مکتوبات امام ربانی کے آئینے میں …… ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۵۳۵

✿ …… امام ربانی اور علم النفسیات	ڈاکٹر محمد اقبال مرتبہ: ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۵۵۳
✿ …… امام ربانی اور علم الکائنات	فضل احمد حبیبی	۵۵۸

کشورِ چہارم

✿ …… امام ربانی کا لقب ''مجدد الف ثانی''	علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی	۶۱۷
✿ …… ''مجدد الف ثانی'' (ایک تحقیقی جائزہ)	ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر	۶۳۳
✿ …… امام ربانی کا نظریہ قیومیت اور لفظ ''قیوم'' پر امام احمد رضا کے فتوے کی فقیہانہ تحقیق	مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری	۶۵۱
✿ …… حضرت مجدد الف ثانی کا مرتبہ قیومیت	مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی	۶۶۰
✿ …… امام ربانی کا منصب قیومیت	پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی	۶۷۲
✿ …… امام ربانی مجدد الف ثانی کی شان قیومیت	علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی	۶۹۰

کشورِ پنجم

✿ …… امام ربانی ...... عرفان کے مجتہدِ اعظم	پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	۷۱۵
✿ …… حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الشہود	ڈاکٹر سراج احمد خاں	۷۴۰
✿ …… ابن عربی اور امام ربانی کے بعض نظریات (ایک تقابلی جائزہ)	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	۷۵۳
✿ …… وحدۃ الوجود	محدث اعظم علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی	۷۵۸
✿ …… نگارخانہ		۷۶۳
✿ …… مرقعات		۷۶۹

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم سوم

☆☆

- ...... نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم — امام احمد رضا محدث بریلوی — ۱۱
- ...... مناقب — قمر یزدانی، خواجہ احمد حسین، کلیم عثمانی
  اعزاز الدین، عبدالحکیم اختر — ۱۳
- ...... ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۱۹
- ...... تأثرات — ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں
  ڈاکٹر حفیظ ملک، ڈاکٹر زبید احمد
  ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی — ۲۱

کشورِ اوّل

- ...... شیخ احمد سرہندی — ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ و سید نذیر نیازی — ۲۵
- ...... مجدد نامہ — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی — ۳۵
- ...... مقاماتِ مجدد — مولانا محمد عبدالاحد — ۱۱۱
- ...... مقام مجدد الف ثانی — ڈاکٹر محمد اختر چیمہ — ۱۲۱
- ...... حضرت مجدد الف ثانی کا مقامِ تجدید — علامہ محمد جلال الدین قادری — ۱۴۴
- ...... حضرت مجدد الف ثانی کے مقاماتِ روحانی کی چند جھلکیاں — ڈاکٹر الف۔ د۔ نسیم — ۱۵۳

۞ …… حضرت مجدد الف ثانی کی ملی و دینی خدمات پروفیسر محمد عارف اظہر ۱۷۶

کشورِ دوم

۞ …… نبوت و رسالت کا اثبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۱۹۹
۞ …… شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی و تجدیدی تحریک
کا مرکز و محور نبوتِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ڈاکٹر اے۔ الف۔ ایم۔ ابوبکر صدیق
پر ایقان و ایمان مترجم، ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی ۲۳۷
۞ …… عقیدۂ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی پروفیسر سید شبیر حسین زاہد ۲۴۰
۞ …… وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی ۳۰۴

کشورِ سوم

۞ …… ردِّ روافض حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۳۰۹
۞ …… حضرت مجدد الف ثانی اور تقلید ائمہ مجتہدین علامہ محمد جلال الدین قادری ۳۲۹
۞ …… امام ربانی اور رفع سبابہ علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری ۳۳۹

کشورِ چہارم

۞ …… مکتوب امام ربانی
در طریقِ ایصال ثواب و وسیلہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۳۵۵
۞ …… بعض عقائد و معمولات اہل سنت
(مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں) پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۳۵۷
۞ …… عقائد و تعلیمات حضرت مجدد الف ثانی قاضی غلام محمد ہزاروی ۴۰۰

مسلکِ مجدد الف ثانی ...... صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری ۴۱۲

نماز کا جائزہ (مکتوبات و معمولات امام ربانی کی روشنی میں) ...... مولانا بدرالاسلام صدیقی ۴۳۰

حضرت مجدد الف ثانی کا طریقہ نماز ...... مولانا بدرالاسلام صدیقی ۴۴۶

حضرت مجدد کا اندازِ تعلیم و تبلیغ اور اس کے اثرات و نتائج ...... پروفیسر پیر نثار احمد جان سرہندی ۴۵۳

کشورِ پنجم

علم اور علماء حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں ...... مفتی محمد علیم الدین نقشبندی ۴۶۳

حضرت مجدد الف ثانی کے تعلیمی افکار ...... ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس ۵۰۷

چالیس ارشادات امام ربانی ...... علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری ۵۱۳

حضرت مجدد کے اوراد ...... مولانا بدرالاسلام صدیقی ۵۲۳

راہِ ہدایت ...... صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۵۳۸

ملفوظات حضرت مجدد الف ثانی ...... مولانا جاوید اقبال مظہری ۵۴۶

ملفوظات امام ربانی ...... [illegible] مفتی نذیر مجددی ۵۶۶

کرامات امام ربانی مجدد الف ثانی ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۵۷۲

نگارخانہ ۶۰۷

مرقعات ۶۱۱

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم چہارم

☆☆

۞ ...... نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم — امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳
۞ ...... مناقب — نظام الدین سرہندی، عبدالاحد وحدت
خواجہ احمد حسین، قمر یزدانی ۱۷
۞ ...... ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۵
۞ ...... تأثرات — حکیم محمد سعید، پروفیسر عزیز احمد
پروفیسر خورشید حسین، پروفیسر محمد عارف اظہر
پروفیسر محمد رضا خان، پروفیسر محمد اسلم ۲۷

کشورِ اوّل

۞ ...... آفتابِ شرف — محمد ابوالشرف مجددی ۳۳
۞ ...... امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی — شاہ ابوالحسن زید فاروقی ۵۰
۞ ...... حضرت مجدد الف ثانی — کوثر نیازی ۵۸
۞ ...... حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی — نواب محمد صدیق حسن خاں بھوپالی ۶۳
۞ ...... حضرت مجدد مطلع تاریخ پر — آبادشاہ پوری ۶۵
۞ ...... اکبر و جہانگیر اور مجدد الف ثانی — قاضی ظہور احمد اختر ۱۰۱

کشورِ دوم

- برصغیر میں حق و باطل کے معرکے …… پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ۱۵۷
- دو قومی نظریہ اور حضرت مجدد الف ثانی …… پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ۱۷۲
- حضرت مجدد الف ثانی اور دو قومی نظریہ …… پروفیسر محمد اسلم ۱۸۴
- برصغیر میں دو قومی نظریہ کی بنیاد اور تحریک مجدد الف ثانی …… سردار علی احمد خان قادری ۱۹۱

کشورِ سوم

- خاندان مجدد کا زریں کردار …… سردار علی احمد خان قادری ۲۸۵
- شیخ احمد سرہندی، سلسلہ مجددیہ کا نقطۂ آغاز اور سلطنت مغلیہ پر اس کے اثرات …… پروفیسر ڈاکٹر آرتھر بیولر سالم عبداللہ، مترجم: ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی ۳۰۶
- حضرت مجدد اور محمد علی جناح …… محمد بخش مسلم ۳۱۴
- سرمایۂ ملت کا نگہبان …… ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ۳۱۵
- حضرت مجدد دانشوروں کی نظر میں …… پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۳۲۰

کشورِ چہارم

- حضرت مجدد الف ثانی کا سفر آخرت …… خواجہ بدرالدین سرہندی، مترجم: اعزاز الدین احمد ۳۳۹
- اشک باری و دل فگاری …… خواجہ محمد ہاشم کشمی ۳۵۲

تاریخہای وصال حضرت مجدد	خواجہ محمد ہاشم کشمی	۳۵۳
حضرت مجدد کے سلسلہ عالیہ کے حضرات قدسیہ	خواجہ بدرالدین سرہندی مترجم: اعزازالدین احمد	۳۵۴
مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی	۳۶۷
وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان	پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی	۳۷۹
خواجہ محمد معصوم، مقاماتِ آدمیہ کی روشنی میں	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	۳۸۷
خواجہ محمد معصوم اور اورنگ زیب عالم گیر کے تعلقات پر ایک نظر	پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری	۳۹۲
مکتوبات معصومیہ، شاہ اورنگ زیب عالمگیر کے نام اور مکتوبات خواجہ محمد سیف الدین، شاہ اورنگ زیب عالمگیر، شہزادہ محمد معظم اور شہزادی روشن آراء کے نام	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۴۰۱
تذکرہ خلفائے مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی فاروقی	۴۷۱
حضرت مجدد اور علماء عصر	ڈاکٹر سراج احمد خاں	۵۰۹
حضرت مجدد کے معاصر علما و مشائخ سے اختلاف کا تحقیقی جائزہ	ڈاکٹر محمد انصار خاں نقشبندی	۵۵۰

کشورِ پنجم

سلسلۂ مجددیہ کے نامور شیخ مرزا مظہر جان جاناں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۵۷۱
حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری	۵۸۸

۞ …… ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی — شاہ رؤف احمد مجددی — ۶۰۵

۞ …… مولانا شیخ خالد نقشبندی — ڈاکٹر مبینہ خت معتمدی

مترجم الحاج محمد یونس باڑی مظہری — ۶۱۶

۞ …… نگارخانہ — ۶۲۳

۞ …… مرقعات — ۶۲۸

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم پنجم

۞ .. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم — امام احمد رضا محدث بریلوی — ۱۱
۞ .. مناقب — تاج الدین تاج، غلام مصطفیٰ مجددی — ۱۴
۞ .. ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۳
۞ .... تأثرات — ابوالکلام آزاد، ابوالاعلیٰ مودودی
محمد سعید احمد مجددی، شاہ حسین گردیزی
داؤد غزنوی، عبداللہ روپڑی — ۲۶

کشورِ اوّل

۞ ...... تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد — ۳۱
۞ ...... تصانیف امام ربانی مجدد الف ثانی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ — پروفیسر خورشید حسین بخاری — ۶۳
۞ ...... تکملہ، تصانیف امام ربانی کا تحقیقی جائزہ — محمد عالم مختار حق — ۹۸
۞ ...... مکتوبات امام ربانی ...... ایک تحقیقی جائزہ — حکیم محمد موسیٰ امرتسری — ۱۰۳
۞ ...... مکتوبات کی فہم وتفہیم میں حضرات مجددیہ کی کوششیں — پروفیسر محمد اقبال مجددی — ۱۳۱

۞ …… مکتوبات امام ربانی کا عربی ترجمہ — عبدالحق انصاری — ۱۴۵

۞ …… مکتوبات امام ربانی
حضرت ضیاء المشائخ کی نظر میں — ضیاء المشائخ محمد ابراہیم مجددی — ۱۷۷

۞ …… مقدمہ شرح مکتوبات امام ربانی — مولوی نصر اللہ ہوتکی — ۱۸۷

۞ …… قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی
(مکتوبات شریف کا ایک مترجم) — محمد عالم مختار حق — ۱۹۵

کشورِ دوم

۞ …… زبدة المقامات اور
حضرات القدس کا تقابلی مطالعہ — پروفیسر سید خورشید حسین بخاری — ۲۰۷

۞ …… سلسلۂ مجددیہ کا ایک ترک مصنف — ڈاکٹر امین وثیر — ۲۲۹

۞ …… حضرت مجدد الف ثانی اور مارکسی مؤرخین — ڈاکٹر جمال محمد صدیقی — ۲۳۹

۞ …… حضرت مجدد الف ثانی کے دفاع میں
لکھی جانے والی کتابیں — پروفیسر محمد اقبال مجددی — ۲۶۷

۞ …… حضرت مجدد کے اقوال پر مبنی دو تصانیف
تعلیمات مجددیہ اور ارشاداتِ مجددیہ — وقار انبالوی — ۲۹۱

کشورِ سوم

۞ …… حضرت مجدد مغرب میں — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد — ۲۹۹

۞ …… افکارِ مجدد الف ثانی کا ایک مأخذ
(امام شہاب الدین فضل اللہ تورپشتی) — پروفیسر محمد اقبال مجددی — ۳۱۷

۞…… الاجابة الربانيه اور الاشارات السنيه
(ایک تعارف) ڈاکٹر شیخ ممتاز سدیدی ۳۳۱

کشورِ چہارم

۞…… حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ۳۴۳
۞…… حضرت امام احمد رضا اور حضراتِ نقشبندیہ صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۳۷۰
۞…… امام ربانی اور امام اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد مکرم احمد (مفتی اعظم دہلی) ۳۸۷
۞…… حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۳۹۴
۞…… فلسفۂ اقبال پر حضرت مجدد کے اثرات ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی ۴۱۹
۞…… تصانیفِ اقبال میں ذکرِ مجدد ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی ۴۹۱

کشورِ پنجم

۞…… امام اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری ۵۲۱
۞…… حضرت غوث اعظم، حضرت مجدد کی نظر میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۵۴۶
۞…… حضرت غوث اعظم اور حضرت مجدد الف ثانی مرزا مظہر جان جاناں ۵۵۰
۞…… حضرت غوث اعظم، شاہِ نقشبند اور حضرت مجدد صوفی صدیق ضیاء انجینئر ۵۵۶
۞…… حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت غوث الاعظم مولانا محمد اقبال سعیدی ۵۶۷
۞…… نگارخانہ ۵۷۹
۞…… مرقعات ۵۸۳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم ششم

☆☆

۞…… نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم — امام احمد رضا محدث بریلوی — ۱۳

۞…… مناقب — سید انیس احمد نقشبندی، غلام مصطفیٰ مجددی
بشیر حسین ناظم، ابوالطاہر فدا حسین فدا — ۱۵

۞…… ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۲۱

۞…… تأثرات — عبدالمجید سالک، جمیل اطہر سرہندی
اکبر شاہ خان نجیب آبادی، سید انور علی ایڈووکیٹ
انسائیکلوپیڈیا پاکستانیکا — ۲۴

کشورِ اوّل

۞…… حضرت مجدد الف ثانی — شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق محدث دہلوی — ۲۹

۞…… دنیائے عرب کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ — عبدالحق انصاری — ۳۴

۞…… عرب دنیا کے نقشبندی علماء و مشائخ — عبدالحق انصاری — ۷۱

۞…… تیرھویں صدی کے
عرب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ — عبدالحق انصاری — ۱۰۵

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں حضراتِ نقشبندی	انا لے بوشر مترجم: ڈاکٹر ثروت ندیم مسعودی زیب النساء مسعودی	۱۲۲
حافظ عمر ضیاء الدین داغستانی	مترجم: کمانڈر محمد ظفر مجددی	۱۳۷
شیخ محمد معصوم ضیائے نقشبندی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۱۴۴
ترکی کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	مترجم: کمانڈر محمد ظفر	۱۵۰
کردستان میں سلسلہ خالدیہ مجددیہ	فرہاد شکیلی مترجم: ڈاکٹر صفی الدین صدیقی مسعودی	۱۵۵

کشورِ دوم

افغانستان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ	جناب بوتاس (Boutas) مترجم: الحاج محمد یونس باڑی مظہری	۱۷۵
افغانستان کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۱۸۸
شاہان کابل و افغانستان سرہند شریف میں	صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین شاہ	۲۲۱
دہلی کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	مولانا جاوید اقبال مظہری	۲۲۳
مولانا غلام نقشبند گھوسوی (بھارت)	فروغ احمد اعظمی مصباحی	۲۸۷
مولانا شاہ آل محی الدین ہادی نقشبندی	اشرف خان ایم۔اے	۲۸۹

کشورِ سوم

سندھ کے اولیائے نقشبند …… پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ۲۹۵

سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ …… تحریر: ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر
ترتیب: صاحبزادہ محمد مسرور احمد ۳۲۹

ضمیمہ، سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۵۶۲

کشورِ چہارم

بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر انعام الحق کوثر ۵۹۱

ضمیمہ، بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۶۳۵

پنجاب کی نقشبندی خانقاہوں پر ایک طائرانہ نظر …… پیرزادہ اقبال احمد فاروقی ۶۴۲

تکملہ، پنجاب کی نقشبندی خانقاہیں …… محمد صادق قصوری ۶۵۹

مولانا محمد حسین پسروری نقشبندی …… محمد یونس ۶۸۱

کشمیر کے چند مشائخ نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۶۸۳

کشورِ پنجم

سرحد کے بعض صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۰۷

خانقاہ نقشبندیہ موسیٰ زئی شریف …… پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۷۹۳

حضرت زندہ پیر گھمکول شریف …… مولانا محمد رفیق مجاہد نقشبندی ۸۰۳

۞…… نگارخانہ — صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۸۰۹
۞…… آئینۂ جمال — مرتبین ۸۱۴
۞…… کتابیات — محمد عبدالستار طاہر مسعودی
(مآخذ و مراجع) — سیدہ حنا مسعودی، سیدہ صبا مسعودی ۸۱۸
۞…… مناجات — مولانا خالد کردی شامی نقشبندی ۸۵۸

صلی اللہ علیہ وسلم
۱۴۰۷ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

اقلیم ہفتم

☆☆

نعت شریف ...... امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۱

مناقب ...... خواجہ احمد حسین مجددی، ڈاکٹر اقبال سرہندیؒ،
مولانا محمد حسن نوبافی، حمید صدیقی، فیض لدھیانی ۱۳

ابتدائیہ ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۳

تاثرات ...... جسٹس پیر کرم شاہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ڈاکٹر مفتی محمد مکرم،
پیر سید عاشق حسین مجددی، محمد خالد مجددی، منیر حسین ۲۷

کشور اول

خلیفہء اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ...... ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ۳۳

خواجہ بہاء الدین نقشبند ...... شیخ محمد شعیب ۴۹

تصوف کی ضرورت واہمیت ...... علامہ رشید احمد مرتضائی ۵۳

تبلیغ دین اور اشاعت تصوف میں
خواجہ بہاء الدین نقشبند کا کردار ...... ڈاکٹر محمد شریف سیالوی ۶۹

ارشادات شاہِ نقشبند ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۹

✡......کراماتِ شاہ نقشبند ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۰۱

کشور دوم

✡......خواجہ محمد باقی نقشبندی اویسی محمد صادق دہلوی کشمیری ہمدانی
مترجم: ڈاکٹر محمد سلیم اختر ۱۱۹
✡......تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی علامہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر ۱۸۳
✡......امام ربانی اور فیضانِ کمالاتِ نبوت ابوالسرور محمد مسرور احمد ۲۳۷

کشور سوم

✡......تفسیر مظہری میں معارف واذکارِ امام ربانی علامہ مفتی محمد جان نعیمی ۲۵۱
✡......افکار مجدد الف ثانی اور تفسیر روح المعانی پروفیسر قاری محمد رفیق مسعودی ۲۷۷

کشور چہارم

✡......تخریج احادیث در مکتوبات (فارسی) ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی ۲۹۷
✡......تخریج احادیث مکتوبات امام ربانی ابوکلیم محمد صدیق فانی ۳۳۹
✡......حضرت مجدد اور تحفظ ناموس رسالت ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی ۴۳۱
✡......حضرت مجدد اور عشق رسول (ﷺ) ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ۴۳۵

کشور پنجم

حضرت مجدد اور ترویج شریعت	پروفیسر محمد احسان قادری	۴۴۳
شریعت، طریقت، حقیقت حضرت مجدد کی نظر میں	پروفیسر قاری مشتاق احمد نقشبندی	۴۵۳
امام ربانی اور تنفیذ شریعت	علامہ ذاکر اللہ افغانی	۴۶۹
مرقعات		۴۹۱
مختصر تعارف اقلیم ہشتم		

* * *



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

اقلیم ہشتم

☆☆

......نعت شریف — امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۱

......مناقب — خواجہ عبداللہ ابن خواجہ باقی باللہ

محمد جان العمری، محمد سلیم جان مجددی ۱۳

......ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۹

......تاثرات — ابو حفص عمر مجددی، علامہ مفتی علیم الدین نقشبندی،

ڈاکٹر محمد اسحاق ابڑو، سید ذوالفقار شاہ ۲۳

کشور اول

......امام ربانی مجدد الف ثانی — محمد صادق قصوری ۲۹

......حضرت مجدد بحیثیت فقیہ اسلام — علامہ محمد صدیق ہزاروی ۱۳۹

......مسئلہ اشارہ سبابہ — مولوی سید احمد علی نقشبندی ۱۴۷

......حضرت مجدد پر اعتراضات اور جوابات — ابو الرضا مفتی محمد نیر مجددی ۱۶۹

کشور دوم

......قطعات تاریخ طبع مکتوبات امام ربانی — عبداللہ نقشبندی مجددی ۱۷۷

......تاریخ مکتوبات امام ربانی — ابو السرور محمد مسرور احمد ۱۷۹

۞...... جواہر مکتوبات مقدسہ — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۹۷
۞...... نرمی و آسانی
(مکتوب امام ربانی کی روشنی میں) — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۲۸۵
۞...... مسلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی — علامہ عبدالحکیم شرف قادری ۳۰۹
۞...... احمد بن عبدالاحد کے نزدیک عقائد اہل سنت — ڈاکٹر محمود احمد غازی
مترجم: پروفیسر عبدالرسول ۳۲۱

کشور سوم

۞...... امام ربانی کا سلسلۂ نسب — سید زوار حسین شاہ ۳۵۷
۞...... حضرت مجدد کا شجرہ طریقت قادریہ صابریہ — مرزا غلام جیلانی پشاوری ۳۶۱
۞...... حضرت مجدد کے سلسلہ ہائے طریقت — سید محمد عبداللہ قادری ۳۶۳
۞...... حضرت مجدد کے اربعہ سلاسل طریقت — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۳۷۳
۞...... مشائخ نقشبندیہ
(ماہ و سال کے آئینہ میں) — محمد یوسف مجددی ۳۸۵

کشور چہارم

۞...... شیخ احمد سرہندی اور مستشرقین — ڈاکٹر محمد سلطان شاہ ۳۹۳
۞...... عہد حاضر اور حضرت مجدد الف ثانی
(کام کی رفتار کا سرسری جائزہ) — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۲۱
۞...... دور حاضر میں درپیش چیلنجز اور ان کا مقابلہ
(حضرت مجدد کی دعوت حق اور طرز تبلیغ و ارشاد کی روشنی میں) — پروفیسر محمد عامر بیگ ۴۳۱

حضرت مجدد اور ذرائع ابلاغ ...... صوفی غلام سرور نقشبندی ۴۴۳

کشور پنجم

حضرت مجدد کا کارنامہ ......
(علماء سوء کے کردار و عمل کے حوالے سے) صاحبزادہ محمد عبدالسلام ۴۴۹
طالبان علم کے لیے مینارۂ نور ...... صاحبزادہ محمد بدرالاسلام صدیقی ۴۵۹
حضرت مجدد کا حسن ادب ...... پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۴۷۱
مجدد الف ثانی کا پیغام ...... مفتی علی احمد سندیلوی ۴۷۷
مرقعات ۴۹۳
مختصر تعارف اقلیم نہم ......

☆……☆……☆



مختص الله الرافة والبذل والجود

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم نہم

☆☆

......نعت شریف	امام احمد رضا محدث بریلوی
......مناقب	نظام الدین سرہندی، اختر شاہجہانپوری، عبدالحفیظ کاردار
......ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری
......تاثرات	علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ یٰسین اختر مصباحی، مولانا شیر محمد خان رضوی، حاجی معراج الدین

کشورِ اوّل

......شیخ احمد سرہندی (سوانحی خاکہ)	ڈاکٹر ظفر الاسلام
......احمد سرہندی مجدد الف الثانی	دکتور جمال الدین الشیال اردو ترجمہ: ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد
......الجنات الثمانیہ (سوانح مجدد الف ثانی پر نادر عربی مخطوطہ)	پروفیسر عبدالباری
......حضرت مجدد لاہور میں	پروفیسر محمد اقبال مجددی
......لاہور سے امام ربانی کی نسبت	ابوالسرور محمد مسرور احمد

کشورِ دوم

- فکرِ مجدد الف ثانی میں
  خلفاء راشدین کا مقام و مرتبہ — محمد یٰسین مظہر صدیقی — ۸۱
- شیخ احمد سرہندی اور
  اہلِ حکومت میں شریعت کی ترویج — ڈاکٹر ظفر الاسلام — ۹۷
- شیخ احمد سرہندی
  اصلاحی و تجدیدی خدمات کی روشنی میں — محمد شمیم اختر قاسمی — ۱۲۹

کشورِ سوم

- مجدد الف ثانی کی عربی نگارشات
  اور کارِ تجدید میں ان کی اہمیت — جمشید احمد ندوی — ۱۷۵
- مجدد الف ثانی کی علم پروری اور علماء نوازی — صاحبزادہ بدر الاسلام صدیقی — ۱۹۳
- امام احمد رضا پر حضرت مجدد کے اثرات — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی — ۲۰۷
- خدمتِ خلق اور صوفیائے نقشبند — ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس — ۲۱۷

کشورِ چہارم

- حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقدین — شاہ ابوالحسن زید فاروقی — ۲۳۳
- شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبدالحق دہلوی — خلیق احمد نظامی — ۴۳۳

- شیخ عبدالحق دہلوی کے ایک معاصر، مجدد الف ثانی — ڈاکٹر علیم اشرف خاں — ۴۷۱

کشورِ پنجم

- خاندان مجددیہ اور فارسی ادب — ڈاکٹر ادریس احمد — ۴۷۵
- خاندان مجددیہ سے قائداعظم کے اجداد کی عقیدت — سید صابر حسین شاہ قادری — ۵۷۴
- نگارخانہ — ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی — ۵۸۷
- مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم دہم — ۵۹۰

☆……☆……☆

الحسد یأکل الحسنات
کما تأکل النار الحطب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم دہم

☆☆

نعت شریف ...... امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳

مناقب ...... عابد حسین سہسوانی، قمر یزدانی
پروفیسر محمد حسین آسی، خالد محمود ۱۹

ابتدائیہ ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹

تاثرات ...... مفتی محمد مکرم احمد، مفتی محمد جان نعیمی،
ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، پروفیسر قاری محمد رفیق ۳۵

کشورِ اول

شیخ احمد سرہندی ...... پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۱

مفکر اسلام شیخ احمد سرہندی ...... پروفیسر محمد وکیل احمد ۴۹

شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی ...... ڈاکٹر ابواعجاز رستم ۹۱

مقام مجدد الف ثانی ...... ابوالسرور محمد مسرور احمد ۱۰۵

کشورِ دوم

شیخ احمد سرہندی کی تحریک احیائے دین ...... پروفیسر محمد اقبال مجددی ۱۱۵

اعلیٰ عربی زبان وادب کی مثال مکتوبات امام ربانی	اورنگ زیب اعظمی	۱۲۵
مکتوبات خواجہ ہاشم کشمی بنام حضرت مجدد الف ثانی (فارسی قلمی)	خواجہ محمد ہاشم کشمی	۱۳۹
خواجہ محمد معصوم حرمین شریفین میں	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۱۷۱
شاہجہاں واورنگ زیب کے مرشد کریم	ڈاکٹر محمد ادریس	۱۸۱

کشورِ سوم

نقشبندیہ سلسلہ تصوف	محمد حنیف رامے	۱۹۳
قادری شہرت پانے والے مشائخ نقشبندیہ	محمد صادق قصوری	۲۱۷
ارشادات سید امام علی شاہ مکان شریفی	سید شعیب افتخار مسعودی	۲۲۹
مرزا مظہر جان جاناں، تصوف، ادیان و مذاہب کے درمیان وسیلہ	ڈاکٹر محمد تعظیم	۲۳۷
ملفوظات مرزا مظہر جان جاناں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۵۱

کشورِ چہارم

شاہ امان اللہ نقشبندی افغانی	مولانا عبدالباقی نقشبندی	۲۶۳
خواجہ فیض محمد شاہ قندھاری	پروفیسر غلام سرور رانا	۲۶۷
تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ (سرحد)	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	۲۷۹
خواجہ غلام حسن نقشبندی (سواگ شریف)	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	۳۱۳

خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی	قاری محمد شریف کمبوہ	۳۱۹
خواجہ رکن الدین صدیقی نقشبندی	کوکب زمان	۳۲۵
شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی (خطہء پوٹھوہار میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اولین کرن)	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	۳۲۹
تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پوٹھوہار	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	۳۴۳
بلوچستان میں نقشبندی خانقاہیں	ڈاکٹر سلطان الطاف علی	۳۶۵
علامہ محمد نور بخش توکلی	صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی	۳۷۷
مولانا سید حبیب اللہ نقشبندی توکلی	پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر	۳۸۵
مولانا سید محمد یوسف نقشبندی	پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر	۳۹۳
حافظ محمد رانجھا نقشبندی مجددی	شاہد احمد خان مسعودی	۳۹۹
چند ممتاز مشائخ نقشبندیہ (خواجہ محمد نامدار، صوفی محمد علی، خواجہ سید امین)	ابوالبیان علامہ محمد سعید احمد مجددی	۴۱۱
خواجہ محمد سعید نقشبندی المعروف پیر مٹھا	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	۴۳۳
مولانا غلام محی الدین قصوری	پیرزادہ اقبال احمد فاروقی	۴۴۹
خواجہ محمد فضل علی مجددی	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	۴۵۹
خواجہ محمد عبدالغفار فضلی نقشبندی	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	۴۷۵
علامہ سید حبیب احمد حبیب نقشبندی	پروفیسر شاہ انجم بخاری	۴۸۷
حضرت کرماں والے	ملک بشیر احمد	۴۹۱
پروفیسر محمد حسین آسی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	۴۹۵

۞......سلسلہ نقشبندیہ کے مخطوطات کی اشاعت میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی خدمات — ڈاکٹر مسرور احمد زئی — ۵۱۵

کشورِ پنجم

۞......مرقعات علمی — ابوالسرور محمد مسرور احمد — ۵۵۳
☆......اکابر مشائخ نقشبندیہ — ۵۵۵
☆......اکابر مجددیہ — ۵۶۹
☆......حضرت مجدد الف ثانی کی تصانیف — ۵۷۷
☆......حضرت مجدد الف ثانی پر تصانیف — ۶۵۷
☆......صاحبزادگان، خلفاء و دیگر مشائخ کی تصانیف — ۷۷۱
☆......دیگر تصانیف — ۷۹۳
۞......مرقع جرائد نقشبندیہ — ملک محمد سعید مجاہد آبادی — ۸۴۳
۞......نقشبندیہ مآخذ و مراجع (Naqshbandia Bibliography) — ویکا گارڈنر (Vika Gardner) — ۸۶۳
۞......نگارخانہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۹۰۵
۞......مختصر تعارف اقلیم یازدہم — ۹۰۷

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

اقلیم یازدہم

☆☆

نعت شریف …… امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳

مناقب …… ابوالبیان پسروری، سید یونس جمشید پوری، طارق سلطانپوری، محمد حفیظ نقشبندی، سید شبیر حسین شاہ ۱۷

ابتدائیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹

تاثرات …… ڈاکٹر سید محمد عارف، ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی، عبدالحی لکھنوی، محمد عظیم نقشبندی ۳۷

کشورِ اول

تجلیات امام ربانی …… پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۵

امام ربانی حضرت حضرت مجدد الف ثانی …… ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی ۶۵

شیخ احمد سرہندی …… پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی، مترجم: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی ۹۹

ایک مردِ حق آگاہ …… ڈاکٹر عبدالوارث خاں ۱۰۹

شجرۂ مصافحہ …… ۱۳۲

حقیقۃ محمدیہ، حقیقۃ احمدیہ اور حقیقۃ کعبہ مکتوبات کی روشنی میں …… صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر ۱۳۳

علم الکلام میں حضرت مجدد کے اجتہادات …… پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۱۵۱

عنوان	مصنف	صفحہ
مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے سلاطین کی ارادت وعقیدت	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	۲۰۱
مکتوب خواجہ محمد سعید بنام والیِ یمن امام اسماعیل	خواجہ محمد سعید	۲۰۵
شیخ محمد ناظم عادل قبرصی	مرتبین	۲۱۹
مولانا نورالدین نورانی نقشبندی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	۲۲۷
توضیحات	پروفیسر سید کبیر احمد مظہر	۲۳۷

کشورِ دوم

عنوان	مصنف	صفحہ
محفل تشکر بسلسلۂ اجراء جہان امام ربانی، کراچی (یکم ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۱۰/ اپریل ۲۰۰۵ء)		۲۶۹
☆ ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۷۰
☆ تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن	مولانا جاوید اقبال مظہری	۲۷۱
☆ خطبۂ صدارت	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	۲۷۶
☆ روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۸۴
قومی جہان امام ربانی کانفرنس، لاہور (۱۴/ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۲۴/ اپریل ۲۰۰۵ء)		۲۹۱
☆ خطبۂ صدارت	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	۲۹۳
☆ روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۹۸
☆ اظہار خیال	پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد	۳۰۶
حضرت مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس، دہلی (۳۱/ مارچ ۲۰۰۶ء)		۳۰۹
☆ روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۳۱۱

کشورِ سوم

……آئینۂ مجدد — شہزاد احمد مسعودی ۳۱۹

……ماخذ و مراجع جہان امام ربانی (اردو، عربی، فارسی، انگریزی) — صوفی محمد عبدالستار طاہر، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، صبا مسعودی، حنا مسعودی ۳۲۷

کشورِ چہارم

……اشاریۂ رجال جہان امام ربانی — مولانا شجاع الرحمٰن، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، پروفیسر سید مقصود علی، مولانا نصیر احمد مولوی غلام جیلانی، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ، حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ شاہد، سمیعہ شاہد ۳۹۱

……اشاریۂ کتب جہان امام ربانی — پروفیسر قاری محمد رفیق، صوفی عبدالستار طاہر مسعودی، سید زبیر حسین جیلانی، حاجی امجد افضل، حاجی محمود، محمد شریف اعوان، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، مدثر چوہدری، محمد عثمان، حافظ محمد سعید، حافظ محمد انس، محمد سجاد، محمد اشفاق، اسامہ امجد، حافظ شرافت، محمد عاطف، عامر اسلم، محمد عامر، محمد ہارون، حافظ بلال ساجد، بشریٰ، صبا مسعودی، حنا مسعودی ۶۱۷

……اشاریۂ اماکن جہان امام ربانی — محمد عاصم مسعودی، محمد سہیل، ثروت، صبا مسعودی، حنا مسعودی، سمیعہ شاہد، ربیعہ شاہد، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ ۷۲۳

کشورِ پنجم

- ......جہان امام ربانی (منظوم) — پروفیسر محمد حسین آسی ۷۷۵
- ......جام جم (جہان تبریک وتشکر) — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۷۷
- ......فہارس جہان امام ربانی (اقلیم اول تا یازدہم) — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۸۶۳
- ......اختتامیہ — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۹۰۳
- ......آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی (منظوم) — پروفیسر محمد حسین آسی ۹۲۴
- ......مرقعاتِ کتب — حکیم عبدالحی لکھنوی وابوالحسن علی ندوی ۹۲۹
- ......مرقعات — ۹۵۱
- ......مناجات — شیخ خالد کردی، مولوی وکیل احمد سکندر پوری ۹۷۹

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدهٗ و نصلی علٰی رسوله الکریم

منقبت

حضرت شاہ عبدالغنی مہاجر مکی

(م۔ ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۸ء)

☆☆

اے خاک پاک روضہ ، عبیری و عنبری   کہ اہلِ جہاں زبوئے تو مدہوش گشتہ اند
ساقی فشاند بر تو خوش آبے کہ اہل دہر   عاقل بہ پیشت آمدہ مخمور رفتہ اند
سرّے زخاکِ خلد تو داری کہ اہلِ ارض   یک نفحۂ از تو یافتہ بر چرخ رفتہ اند
نے نے تراز تربت یثرب گرفتہ اند   پنہاں ز روم و شام بہ سرہند ہشتہ اند
ایں خاکِ احمدی است بذاتْ احمد نگر   نے یک کہ صد ہزار ازیں خاک جستہ اند
اھلاً و مـــرحبـــاً پے زوّار تو بسے   اقفاں بُعد بر رُخ اعدات بستہ اند
یارب مکن خلاص ازیں خاک در مرا   بدحال آں کساں کہ ازیں خاک رستہ اند
شیرے بخواب ناز بہ پہلوئے دو شبل[1]   یارب چہ راز ہا است کہ ایں جا نہفتہ اند
تنہا غنؔی نہ نغمۂ مدح تو ساز کرد
کرّوبیان عرش ہمیں گونہ گفتہ اند

(محمد عظیم نقشبندی مجددی فیروز پوری: ذکر مجدد، مطبوعہ حمیدیہ اسٹیم پریس، لاہور ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء، ص ۱۰۵)

.(۱) خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ (م۔ ۱۰۲۵ھ/ ۱۶۱۶ء)، خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ (م۔ ۱۰۷۰ھ/۱۶۵۰ء) فرزندان گرامی حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اختتامیہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

☆☆

چار سال ہوئے ۲۰۰۴ء میں فقیر نے ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کا افتتاحیہ قلم بند کیا تھا، اب ۲۰۰۶ء میں اس کام کا سمیٹا جا رہا ہے تو کہا گیا کہ اس پر اختتامیہ بھی فقیر ہی لکھے اور اس عرصے میں جو علمی فتوحات ہوئیں ان کا بھی شذرات کی صورت میں سرسری ذکر کر دے چنانچہ اس طرف متوجہ ہوا۔

برصغیر کی الوالعزم ہستیوں میں جن کا پیغام برصغیر کے باہر پہنچا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ (م۔ ۱۰۳۴ھ/ ۱۶۲۴ء) کی شخصیت نہایت ہی ممتاز ہے۔ آپ کا سلسلۂ طریقت اور تعلیمات عرب و عجم میں پھیلیں اور آج بھی آپ کا ظاہری و باطنی فیض ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہم کسی بھی شخصیت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ علوم و فنون کی فراوانی اور تصانیف کی کثرت سے لگاتے ہیں مگر علم و دانش کا وہ جہان ہم سے پوشیدہ رہتا ہے جس کو ''علم لدنّی'' کہا جاتا ہے، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اس جہان کے بادشاہ تھے، ان کے بعض افکار و خیالات اور نظریات کے فہم و ادراک سے ہماری عقلیں عاجز ہیں۔

☆

جہاں تک حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض اور تعلیمات کا بیرونی دنیا میں اشاعت کا تعلق ہے اس کی ایک جھلک امام ربانی مجدد الف ثانی بین الاقوامی کانفرنس (منعقدہ ایوان غالب، ۳۱ر مارچ ۲۰۰۵ء، نئی دہلی) میں خواجہ حسن ثانی نظامی کے خطاب میں نظر آئی...... انھوں نے فرمایا:

> ''شیخ ناظم قبرصی نقشبندی سلسلے کے وہ بزرگ ہیں جن کے لاکھوں مریدین امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں''

نقشبندی فاؤنڈیشن امریکہ کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مرزا نے اطلاع دی کہ ۱۴۲۷ھ/۲۰۰۶ء میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلیک برن (یو۔کے) میں ۳۰ر کلومیٹر طویل جلوس نکالا گیا جس

میں آخری خطاب شیخ ناظم قبانی کے داماد شیخ ہاشم قبانی نقشبندی مجددی نے فرمایا اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ پر فاضلانہ تقریر فرمائی...... اس میں شک نہیں کہ حضرات نقشبندیہ مجددیہ بڑے فعال ہیں، آزادی کی تحریکوں میں ان کا اہم کردار رہا ہے، اسلام کی تبلیغ واشاعت میں یہ سلسلہ نہایت ہی ممتاز ہے، اس دور میں بھی ایسے حضرات نقشبندیہ مجددیہ موجود ہیں۔ پاکستان میں حضرت پیر محمد ابراہیم جان سرہندی علیہ الرحمۃ کے دست حق پرست پر سیکڑوں غیر مسلم مشرف باسلام ہوئے، اب ان کے جانشین پیر محمد ایوب جان سرہندی زید مجدہ کے دست حق پرست پر سیکڑوں غیر مسلم مشرف باسلام ہو رہے ہیں، اخلاص کا یہ عالم کوئی تشہیر نہیں، سندھ کے لوگوں کو بھی اس عظیم کام کا علم نہیں......

☆

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی تدوین کے اختتامی مرحلے پر یہ علمی فتوحات اور معلومات ہوئیں...... ستمبر ۲۰۰۶ء میں دہلی سے مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی مکرم احمد (شاہی امام وخطیب مسجد فتحپوری، دہلی) نے اطلاع دی ہے کہ آزاد لائبریری (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) کے لائبریرین نے شیخ عبدالاحد بن شیخ محمد سعید بن شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے مجموعہ رسائل کے ایک نادر مخطوطے کی سی۔ ڈی بھیجی ہے یہ مخطوطہ ہجری سال کے ہر ماہ کی عبادات اور امور خیر وغیرہ سے متعلق ہے جو تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، سیر وغیرہ کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ فقیر نے صاحبزادہ بدر الاسلام صدیقی، دار العلوم سلطانیہ جہلم کو اس کی نقل بھیج دی ہے، موصوف اس مجلّہ پر تحقیق کر رہے ہیں۔ گلاسکو یونیورسٹی، امریکہ سے ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس کا فون آیا کہ وہ اس مخطوطے کو ڈاکٹریٹ کے لیے ایڈٹ کر رہے ہیں۔

لیوٹن (انگلستان) میں ایک نقشبندی مجددی خانقاہ ہے۔ ۱۹۶۳ء میں خواجہ صوفی محمد اسلم نقشبندی نے اس کی بنیاد رکھی، اب یہ خانقاہ صوفی محمد حنیف نقشبندی چلا رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ بھی ہے:

www.naqshbandi org.uk

ایک نقشبندی مجددی خانقاہ بیت المقدس میں بھی ہے جس کا نام

The Naqshbandia Centre in Jeraualem

ہے۔ ۱۶۱۶ء میں بخاری خاندان نے اس کی بنیاد رکھی، یہ خاندان بخارا (ازبکستان) سے سلسلۂ نقشبندیہ کی اشاعت اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اس خانقاہ میں

ایک مسجد، لائبریری اور قبرستان بھی ہے۔ جہاں سابق سجادہ نشین الشیخ عبد العزیز موس البخاری (م۔ ۱۹۷۳ء) مدفون ہیں۔

حال ہی میں معلوم ہوا ایک معروف امریکی فاضلہ و قلمکار سیاح خاتون نقشبندی مجددی درگاہ موہری شریف (پاکستان) سے مشرف باسلام ہوکر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہوئیں۔ الغرض حضرات نقشبندیہ مجددیہ اشاعت اسلام میں بہت ہی سرگرم ہیں۔

جامعہ ازہر (قاہرہ، مصر) کے استاذ شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد ابراہیم قندیل نے ایک ملاقات (جنوری ۲۰۰۷ء) میں فرمایا کہ جامعہ ازہر میں بہت سے نقشبندی مجددی اساتذہ ہیں اور وہ بھی خود نقشبندی مجددی ہیں۔ اصل میں نقشبندی حضرات بالعموم اپنے نام کے ساتھ نسبت کو ظاہر نہیں کرتے اس لیے ان کی نسبت مخفی رہتی ہے۔ فقیر کو بعض حضرات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ پر مسلسل ۳۳ سال تحقیق کی وجہ سے قادری سمجھتے ہیں حالانکہ فقیر نقشبندی مجددی ہے گو بحمد اللہ تعالیٰ چاروں سلاسل میں اجازت حاصل ہے۔

☆

دربار عالیہ مرشد آباد شریف (پشاور، سرحد، پاکستان) سے خواجہ محمد عبد اللہ جان نقشبندی مجددی نے اپنے کتب خانے کے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے یہ نادر مخطوطات ارسال فرمائے۔

☆……تاریخ مکتوبات امام ربانی

☆……حالات میر محمد نعمان برہانپوری خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی علیہما الرحمۃ

☆……مکتوبات خواجہ محمد ہاشم کشمی خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی علیہما الرحمۃ بنام حضرت مجدد الف ثانی

☆

جناب قاری احسان اللہ (کوئٹہ، بلوچستان، پاکستان) نے ازبکستان سے لائے ہوئے سلسلہ نقشبندیہ کے مندرجہ ذیل مخطوطات کے عکس ارسال فرمائے۔

☆……شرح قصیدۂ مولانا یعقوب چرخی

☆……شرح رباعیات ابو سعید ابو الخیر

☆……شرح رسالہ سعید الدین کاشغری

- ☆......رسالہ محبت، خواجہ عبید اللہ احرار
- ☆......مقاصد السالکین، عبد الخالق غجدوانی
- ☆......جامع الکلم، عبد الخالق غجدوانی
- ☆......رسالہ خواجہ عزیزاں
- ☆......رسالہ خواجہ علی رامیتنی
- ☆......رسالہ قدسیہ، خواجہ محمد پارسا
- ☆......رسالہ محبوبیہ، خواجہ محمد پارسا
- ☆......رسالہ انسیہ، مولانا یعقوب چرخی
- ☆......رسالہ والدیہ، خواجہ عبید اللہ احرار
- ☆......مقالات شاہ نقشبند مع مقامات امیر کلال
- ☆......رسالہ سلوک، خواجہ عبید اللہ احرار وغیر وغیرہ

خدا کی شان ۲۰۰۵ء میں محبی شیخ صبور احمد (مینجنگ ڈائریکٹر کراچی کیمیکل انڈسٹریز، کراچی) سرکاری دورے پر روس گئے، فقیر کی خواہش پر بخارا (ازبکستان) سے اکابر نقشبندیہ کے مزارات مقدسہ کے مندرجہ ذیل عکس لے کر آئے جو فقیر کی کتاب سیرت مجدد الف ثانی (مطبوعہ کراچی ۲۰۰۵ء) کے آخر میں شامل کر دیے گئے۔ تفصیل یہ ہے:

☆......مزار مبارک شیخ عبد الخالق غجدوانی	(م۔ ۵۷۵ھ/ ۱۱۷۹ء)
☆......مزار مبارک خواجہ عارف ریوگری	(م۔ ۶۱۶ھ/ ۱۲۱۹ء)
☆......مزار مبارک خواجہ محمود انجیر فغنوی	(م۔ ۷۱۱ھ/ ۱۳۱۱ء)
☆......مزار مبارک خواجہ علی رامیتنی	(م۔ ۷۱۵ھ/ ۱۳۱۶ء)
☆......مزار مبارک خواجہ محمد بابا سماسی	(م۔ ۷۵۵ھ/ ۱۳۵۴ء)
☆......خواجہ سید امیر کلال	(م۔ ۷۷۲ھ/ ۱۳۷۰ء)
☆......مزار مبارک خواجہ بہاء الدین نقشبند	(م۔ ۷۹۱ھ/ ۱۳۸۹ء)

☆

مارچ ۲۰۰۶ء میں لاہور میں پروفیسر محمد کبیر احمد مظہر نقشبندی مجددی (ریٹائرڈ پروفیسر شعبۂ عربی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور) سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگوں پر یہ کتابیں عنایت فرمائیں۔

☆......خواجہ محبوب عالم، احوال وآثار: از پروفیسر محمد کبیر احمد مظہر، لاہور ۲۰۰۵ء

☆......ذکر محبوب از صدیق احمد، راولپنڈی ۱۹۹۹ء

☆......خیر الخیر مرغوب السلوک، از: محبوب عالم، راولپنڈی ۱۹۹۵ء

☆......ذکر کثیر: از محبوب عالم، راولپنڈی

☆......ذکر خیر المعروف صحیفۂ محبوب: از محبوب عالم، لاہور

محترم افتخار احمد حبیبی کے اہتمام میں ایک نادر کام ہو رہا ہے۔ مکتوبات امام ربانی (مطبع مجددی امرتسر ۱۳۲۷ھ) کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ (از زوار حسین شاہ) حواشی (از صوفی محمد علی نقشبندی و حافظ محمد اشرف مجددی) اور تخریج احادیث (از ڈاکٹر بابر بیگ مطالی) آستانہ حبیبیہ، گجرات (پاکستان) سے بڑے سائز میں شائع ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی جلد جو چالیس مکتوبات شریفہ پر مشتمل ہے ۱۴۲۵ھ میں شائع ہوئی۔ دوسری جلد جو اکیاسی مکتوبات شریفہ پر مشتمل ہے ۱۴۲۷ھ میں گجرات سے شائع ہوئی اس طرح رفتہ رفتہ کئی مجلدات شائع ہوں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

۲۰/اگست ۲۰۰۶ء کو میر پور خاص (سندھ) جانا ہوا وہاں عزیزم محترم پروفیسر نثار احمد جان سرہندی نے اپنے یہاں سرہندی منزل میں مدعو کیا اور ایک نادر مخطوطہ "وثیقۃ الابرار" (صفحات ۱۱۶) کا عکس عنایت فرمایا۔ یہ مخطوطہ حاجی فقیر اللہ نقشبندی مجددی بن عبد الرحمٰن حنفی قرشی ہاشمی نے ۲۱/صفر المظفر ۱۱۶۵ھ/ ۱۷۵۱ء میں شکار پور (سندھ) میں قلم بند کیا گیا۔ مخطوطہ کے کاتب فرید الدین محمد ہیں۔

ہم نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حالات، افکار و خدمات پر طریقہ نقشبندیہ سے متعلق بہت سے اولیاء کرام پر "جہان امام ربانی مجدد الف ثانی" کے عنوان سے یہ انسائیکلوپیڈیا بارہ جلدوں میں شائع کیا اور یہ خیال کیا کہ ہم نے بہت کچھ کام کر لیا ہے مگر دور جدید کی ایجاد کمپیوٹر پر ویب سائٹوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ حال ہی میں صرف ایک ویب سائٹ

www.naqshandi.com سے ہم کو مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

طریقہ ءنقشبندیہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے بالخصوص al-kukaz، بخارا، سمرقند، اور ترکمان میں جو سابقہ سوویت یونین کا ایک ریگستان تھا۔ طریقہ ءنقشبندیہ کے اکابر اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ عرب کے بیشتر علاقوں میں پھیلا خصوصاً ملک شام دمشق میں اور اس کے مضافات میں شیخ احمد گفتار و علیہ الرحمۃ نے پھیلایا۔ Aleppo کے علاقے میں شیخ بدرالدین حسنہ، نے الجزیرہ میں شیخ غزنوی نے، دیر الزور کے علاقے میں شیخ محمد امین العواد نے، ان کے علاوہ شیخ محمد عثمان سراج الدین دوم (۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء۔ ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۷ء) کے مریدین دنیا کے مختلف ممالک میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کر رہے ہیں مثلاً لبنان کے علاقے میں، عراق بالخصوص بغداد میں جو شیخ عثمان، سراج الدین کی جائے پیدائش ہے یہاں ان کا مدفن بھی ہے۔ سلیمانیہ، ایران، عرب امارات، سعودی عرب میں جب شیخ سراج الدین تشریف لے گئے تو شہزادہ عبد اللہ نے شایان شان میزبانی کی۔ اردن، عمان، دیار غبار جہاں محفل ذکر و فکر کا مرکز بھی ہے، مصر، جرمنی، بالخصوص برلن، اٹلی، سرزمین شیشان (چیچنیا) جہاں حالت جنگ، محاصروں کے باوجود شیخ شامل طریقہ ءنقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کرتے رہے۔ فرانس، امریکہ، کینیڈا وغیرہ الغرض دنیا کے اکثر علاقوں میں طریقہ ءنقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت ہو رہی ہے۔

نقشبندی مجددی مشائخ مثلاً شیخ پاہانگ نقشبندی مجددی (ملایا) شیخ ریو نقشبندی مجددی (انڈونیشیا) ملایا کے بادشاہوں کے مشیر رہے یعنی بادشاہ ان سے مشورے لیتے رہے۔

(بحوالہ برقی خط انڈونیشیا، ۲۹/ستمبر ۲۰۰۶ء)

☆

جناب محمد غزال خاں مسعودی کی عنایت سے دہلی کے قیام (مارچ، اپریل ۲۰۰۶ء) کے دوران پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اطہر عباس رضوی (استاد شعبہ ءایشیائی تہذیب، آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، کینبرا، آسٹریلیا) کی انگریزی کتاب کی دو جلدیں ملیں جس کا عنوان

"A History of Sufism in India (Delhi)"

اس کتاب میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا تفصیلی ذکر ہے۔ دہلی ہی میں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الحفیظ کاردار (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر ایک منقبت عنایت

فرمائی۔

نقشبندی فاؤنڈیشن (امریکہ) کے چیئر مین ڈاکٹر احمد مرزا نقشبندی فقیر کے پاس کراچی تشریف لائے اور بتایا کہ کیمبرج یونیورٹی کے پروفیسر عبدالحکیم مراد ترکی کے مشائخ نقشبندیہ پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ وکٹوریہ یونیورسٹی (نیوزی لینڈ) کے امریکن نومسلم پروفیسر آرتھر بیولر مکتوبات امام ربانی کے انتخاب کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ سید جلال الدین قادری زید عنایتہٗ نے ۶؍اکتوبر ۲۰۰۶ء کو برقی خط کے ذریعے شکاگو (امریکہ) سے اطلاع دی ہے کہ حضرت سید سعد اللہ حسینی علیہ الرحمۃ پہلے نقشبندی مجددی بزرگ ہیں جو حیدر آباد دکن تشریف لائے، آپ کا گنبد شریف اگروال کالج کے پاس حیدر آباد میں ہے۔ (غالباً آپ سے بہت پہلے نقشبندی مجددی بزرگ آچکے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی نے میر محمد نعمان کو سب سے پہلے حیدر آباد دکن بھیجا تھا، مسعود) محدث دکن سید عبداللہ شاہ علیہ الرحمۃ کے آپ دادا پیر ہیں آپ کے حالات محدث دکن کی تصنیف گلزار اولیاء وغیرہ میں مطالعہ کیے جا سکتے ہیں۔

حال ہی میں ایک فاضل محقق جناب ارشاد عالم (امریکہ) نے مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی کی جلد اول کے مکتوب نمبر ۲۶۶ فارسی سے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو ایک کتاب کی صورت میں بعنوان:

"Faith Practice and piety"

۲۰۰۶ء میں شائع ہوئی۔ ترجمہ پر نظر ثانی کرتے ہوئے پروفیسر گونسیری (Giv Nassiri) استاد فارسی زبان وادب، کیلیفورنیا یونیورسٹی (امریکہ) لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ ڈاکٹر عبدالحق انصاری اور سلیمان حلمی ایشیق کے مکتوبات کے منتخب ترجموں کے مقابلے میں کامل واکمل ہے کیوں کہ اس میں متن کی پوری پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ اس کتاب پر مندرجہ ذیل محققین نے بھی تبصرے کیے ہیں:

۱......ڈاکٹر عبدالحق گوڈلاس، پروفیسر مذہبیات جارجیا یونیورسٹی، امریکہ
۲......پروفیسر حامد الگر، پروفیسر معارف اسلامیہ وفارسی زبان وادب کیلی فورنیا یونیورسٹی، برکلے (امریکہ)

فقیر کی کتاب حضرت مجدد الف ثانی......حالات وافکار وخدمات کا انگریزی ترجمہ (قاضی عبدالمنان) اور فارسی ترجمہ (صاحبزادہ محمد زبیر مجددی) امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی نے ۲۰۰۶ء میں شائع کر دیا ہے۔

علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد کی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ پر عربی میں تحقیقی کتاب

''شیخ احمد السرھندی حیاتہٗ و آثارہٗ''

دارالعلوم سلطانیہ، جہلم (پاکستان) کے صاحبزادہ بدرالاسلام کی نگرانی میں علامہ مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی شائع کر رہے ہیں۔

جناب منیر حسین مسعودی نے برمنگھم (انگلستان) سے سر رچرڈ برن کی مرتبہ کیمبرج ھسٹری آف انڈیا (کیمبرج ۱۹۳۷ء) کے چھٹے باب مغلیہ عہد کی عکسی کاپی ارسال فرمائی جو اکبر بادشاہ سے متعلق ہیں۔

مرمرا یونیورسٹی (ترکی) کے شعبہ الٰہیات کے ایسوی ایٹ پروفیسر نجدت طوسون (Necdt Tason) نے اطلاع دی ہے کہ انھوں نے ترکی زبان میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی مندرجہ ذیل کتابوں کا ترجمہ کیا ہے جو چھپ گیا ہے:

۱...... مبداء و معاد

۲...... معارف لدنیہ

۳...... مکاشفات غیبیہ

پروفیسر ڈاکٹر نجدت طوسون نے ترکی میں حضرت مجدد الف ثانی پر کتاب لکھی ہے جو انھوں نے از راہ عنایت فقیر کو بھیج دی۔ اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بڑی محنت کی ہے۔

☆

مفتی محمد جان مجددی نعیمی مہتمم دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ (کراچی) نے از راہ عنایت حکیم عبدالحئی لکھنوی اور ان کے بیٹے ابوالحسن علی ندوی کی یہ دو عربی کتابیں عنایت فرمائیں جو بیروت سے شائع ہوئی ہیں۔

☆...... **عبد الحی: نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، المجلد الثانی، دار ابن حزم، بیروت ۱۹۹۹ء**

☆...... **ابو الحسن علی ندوی: رجال الفکر و الدعوة فی الاسلام، الامام السرهندی، الجزء الثالث دار ابن کثیر، دمشق، ۱۹۹۸ء**

عبدالحئی لکھنوی نے نزھۃ الخواطر میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ جس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی ہر دل میں جگہ ہے، ایسی شخصیت کی تعلیمات مسلمانوں اور مسلمان کہلانے والے فرقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں اور رہنمائی کر سکتی ہیں جو مقبول و ہر دلعزیز ہو۔

غالباً علماء اہل سنت و جماعت میں کسی نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نام نامی کے ساتھ وہ القاب و آداب نہیں لگائے جو عبدالحی لکھنوی نے ندوی ہونے کے باوجود لگائے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔

> الشیخ احمد بن عبد الاحد السرهندی
>
> الشیخ الاجل، الامام العارف، بحر الحقائق و الاسرار والمعارف، محی السنن النبویة، ناصر الشریعة البیضاء السنیة، مشید مبانی الطریقة، مجدد معالم الحقیقة، برهان العارفین و المحققین، وحجة الاولیاء المتقین، مفتخر الاعصر والدهور، و معتمد الفارغین الیه فی جزل الامور، آیة من آیات اللّٰه العظام، و نادرة من نوادر الایام، الذی اخذبید العلم لمازلت به القدم، وکاد ان یهوی فی مهاوی العدم، حتی جاء مجدد للألف الثانی، وبرهاناً ساطعا علی اشرفیة النوع الانسانی.
>
> (عبدالحی لکھنوی، نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، ج ۲، مطبوعہ دار ابن حزم، بیروت ۱۹۹۹ء، ص ۳۷۹)

ان القابات و آداب سے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت، حالات، خدمات، نظریات اور مقامات کا بغور مطالعہ کیا ہے......

*

مارچ ۲۰۰۶ء میں مفتی اعظم ڈاکٹر محمد مکرم احمد (شاہی امام و خطیب مسجد فتحپوری دہلی) سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔ موصوف نے ایک عرب عالم جمال الدین شیال کی کتاب ''العالم الاسلامی فی فجر الحدیث'' سے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ پر ایک اقتباس اور اس کا مطبوعہ اردو ترجمہ عنایت فرمایا...... اس کے علاوہ سرہند شریف کے علماء، ادباء اور شعراء کی فارسی خدمات پر ایک دقیع مقالہ ڈاکٹریٹ دکھایا جو بعد میں

دہلی سے خریدا گیا اور اس کا ایک باب جہان امام ربانی میں شامل کیا گیا۔ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ سے شائع ہونے والے ایک مجموعۂ مقالات کا بھی ذکر کیا جو بعد میں آپ ہی کی عنایت سے مل گیا...... ادارۂ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مارچ ۲۰۰۴ء میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا۔ عنوان تھا:

''فکر اسلامی کے فروغ میں شیخ احمد سرہندی کی خدمات''

جس میں مختلف جامعات کے فضلاء و محققین نے حصہ لیا اور انگریزی و اردو میں مقالات پیش کیے گئے...... انگریزی مقالات کا مجموعہ بعنوان

"Contribution of Shaikh Ahmed to Islamic Thought"

اور اردو کے منتخب مقالات کا مجموعہ بعنوان

''فکر اسلامی۔ کے فروغ میں شیخ احمد سرہندی کی خدمات''

کے نام سے اسی یونیورسٹی سے شائع ہوا۔ اس میں تقریباً ۱۴/ مقالات ہیں...... یہ مجموعہ پروفیسر ظفر الاسلام نے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعض مقالات جہان امام ربانی میں شامل کیے گئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین مارہروی (سجادہ نشین مارہرہ شریف) نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ دینیات کا مجلّہ دراسات دینیہ (۲۰۰۵ء) ارسال فرمایا تھا جس میں پروفیسر محمد شمیم احمد قاسمی کا ایک دقیع مقالہ ہے جو جہان امام ربانی میں شامل کیا گیا ہے۔

☆

۳۱/ مارچ ۲۰۰۶ء کی امام ربانی بین الاقوامی کانفرنس (ایوان غالب، نئی دہلی) میں خانقاہ معصومی، رام پور کے سجادہ نشین حضرت پیر عبدالمجید مجددی باوجود کبرسنی کے خود تشریف لائے اور فقیر کو ایک نادر کتاب ''ہدیہ احمدیہ مع اضافہ ذریہ'' (مطبوعہ دہلی)، (شیخ ابوالخیر مکی) عنایت فرمائی جس میں ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء تک اور اس کے بعد ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء تک حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی اولاد و احفاد کا تفصیل سے ذکر ہے...... دہلی ہی میں جناب ضیاء الحق سوز کی عنایت سے پروفیسر خلیق احمد نظامی کتاب ''حیات شیخ عبدالحق، دہلی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۳ء'' ملی جس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے استفسارات پر مبنی اس قلمی خط کا عکس ہے جو آپ نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نام ارسال فرمایا تھا...... حضرت شیخ

عبدالحق محدث دہلوی کے خط کا یہ عکس جہان امام ربانی میں شامل کیا گیا ہے۔

☆

ربیع النور ۱۴۲۳ھ/ ۲۰۰۲ء کی گھڑی کتنی مبارک تھی جب مولانا جاوید اقبال مظہری نے کراچی میں امام ربانی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی پھر وہ مبارک وسعید گھڑی آئی جب امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حالات، افکارونظریات اور خدمات پر ایک عظیم انسائیکلوپیڈیا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کا آغاز ہوا، گویا آفتاب طلوع ہوا، پھر روشنی بڑھتی گئی اور پھیلتی چلی گئی۔ وہ کریم جب کرم فرماتا ہے تو کرم کا دریا بہتا ہی رہتا ہے۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دیے ہیں دُر بے بہا دیے ہیں

☆

۲۰۰۵ء میں جہان امام ربانی کی سات جلدیں تیار ہوئیں تو ۱۰؍اپریل ۲۰۰۵ء کو کراچی میں اظہار تشکر کی ایک شاندار محفل منعقد کی گئی جس میں پاک و ہند کے علماء وفضلاء شریک ہوے اور مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد زید عنایتہٗ نے صدارت فرمائی...... پھر ۲۴؍اپریل ۲۰۰۵ء کو لاہور میں ایوان اقبال میں صوفی غلام سرور نقشبندی کے تعاون سے ایک عظیم الشان محفل ہوئی...... یہ محفل بھی جہان امام ربانی کے حوالے سے ہوئی اور اس کی صدارت بھی مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد دام عنایتہٗ نے کی۔ پاکستان کے معروف فضلاء ومحققین نے مقالات پیش کیے۔ پاکستان کی ان کانفرنسوں کی آواز بازگشت دنیا میں سنی گئی بالخصوص ہندوستان میں...... مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے دہلی میں المجدد اکیڈمی قایم کی پھر نصرۃ الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کی سرپرستی میں ۳۱؍مارچ ۲۰۰۶ء میں ایوان غالب (نئی دہلی) میں ایک عظیم الشان امام ربانی کانفرنس منعقد کی جس میں فقیر کو بھی دعوت دی گئی فقیر بھی شریک ہوا۔ کانفرنس بہت ہی کامیاب ہوئی......

اس کانفرنس کے لیے جو سفر کیا گیا اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس سے اندازہ ہوا کہ جہان امام ربانی کا ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ پھر مواد کی آمد کا تسلسل بھی قایم رہا۔

عبدالحق محدث دہلوی کے خط کا یہ عکس جہان امام ربانی میں شامل کیا گیا ہے۔

☆

ربیع النور ۱۴۲۳ھ/ ۲۰۰۲ء کی گھڑی کتنی مبارک تھی جب مولانا جاوید اقبال مظہری نے کراچی میں امام ربانی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی پھر وہ مبارک وسعید گھڑی آئی جب امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حالات، افکار ونظریات اور خدمات پر ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کا آغاز ہوا، گویا آفتاب طلوع ہوا، پھر روشنی بڑھتی گئی اور پھیلتی چلی گئی۔ وہ کریم جب کرم فرماتا ہے تو کرم کا دریا بہ ہی رہتا ہے۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہا دیے ہیں دُر بے بہا دیے ہیں

☆

۲۰۰۵ء میں جہان امام ربانی کی سات جلدیں تیار ہوئیں تو ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء کو کراچی میں اظہار تشکر کی ایک شاندار محفل منعقد کی گئی جس میں پاک و ہند کے علماء وفضلاء شریک ہوئے اور مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد زید عنایتہ نے صدارت فرمائی...... پھر ۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء کو لاہور میں ایوان اقبال میں صوفی غلام سرور نقشبندی کے تعاون سے ایک عظیم الشان محفل ہوئی...... یہ محفل بھی جہان امام ربانی کے حوالے سے ہوئی اور اس کی صدارت بھی مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد دام عنایتہ نے کی۔ پاکستان کے معروف فضلاء ومحققین نے مقالات پیش کیے۔ پاکستان کی ان کانفرنسوں کی آواز بازگشت دنیا میں سنی گئی بالخصوص ہندوستان میں...... مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے دہلی میں المجدد اکیڈمی قایم کی پھر نصرۃ الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کی سرپرستی میں ۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء میں ایوان غالب (نئی دہلی) میں ایک عظیم الشان امام ربانی کانفرنس منعقد کی جس میں فقیر کو بھی دعوت دی گئی فقیر بھی شریک ہوا۔ کانفرنس بہت ہی کامیاب ہوئی......

اس کانفرنس کے لیے جو سفر کیا گیا اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس سے اندازہ ہوا کہ جہان امام ربانی کا ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ پھر مواد کی آمد کا تسلسل بھی قایم رہا۔

جو خیال تھا الحمد للہ! اس سے بڑھ کر کام ہوا اور وہ بھی اتنے قلیل عرصے میں، بقول کسے جو کام صدیوں میں نہ ہو سکا وہ اللہ کے فضل و کرم سے چار پانچ سال میں ہو گیا، جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ سوچا یہی تھا کہ جہان امام ربانی جد دالف ثانی کی دو تین جلدیں مرتب ہو جائیں گی یہ ۲۰۰۲ء کی بات ہے مگر توفیق الٰہی سے دو تین جلدوں کے بجائے گیارہ جلدیں مرتب ہو گئیں جن میں ایک اضافی مصوّر جلد ''نورٌ علیٰ نور'' بھی ہے اس طرح اگر اضافی جلد کو شامل کریں تو بارہ جلدیں ہیں ورنہ گیارہ جلدیں...... ان دونوں اعداد کی نسبت بہت عالی ہے۔ ایک اور نسبت امام ربانی فاؤنڈیشن کے بانی مولانا جاوید اقبال مظہری نے بتائی۔ محبوب رب العالمین کے نام نامی محمد (ﷺ) کے اعداد ۹۲ ہیں یعنی دو عدد ہیں تو ۱۱ میں بھی دو عدد ہیں اور ۲۔ میں بھی دو عدد ہیں، یہ باتیں اہل محبت کی ہیں، اہل عقل کی نہیں، نسبتوں کی قدر و قیمت کا انہیں اندازہ نہیں۔

☆

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کی تدوین کے دوران انعامات و عنایات الٰہیہ کا سلسلہ جاری رہا...... ۲۰۰۵ء میں عمرہ اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کر ۲۰۰۶ء میں ملتان اور لاہور کی زیارات سے مستفیض ہونے کے بعد دہلی روانہ ہوا، یہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ ابو بکر طوسی، خواجہ سماء الدین سہروردی، خواجہ باقی باللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ غلام علی، فقیہ الہند شاہ محمد مسعود، مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہم الرحمۃ کے مزارات کی زیارات سے مشرف ہوا۔ دوسرے علماء و مشائخ کے مزارات کی بھی زیارت ہوئی...... پھر اجمیر شریف حاضری ہوئی وہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت میر حسن خنگ سوار علیہما الرحمۃ کے مزارات کی زیارت کی، اس کے بعد سرہند شریف حاضری ہوئی اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے دربار گہر بار میں حاضری ہوئی۔ خواجہ محمد صادق، خواجہ محمد سعید اور صاحب زادی ام کلثوم علیہم الرحمۃ کے مزارات کی بھی زیارت ہوئی جو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی قبر شریف کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کے بعد خواجہ محمد معصوم اور آپ کے صاحبزادگان خواجہ محمد صدیق، خواجہ سیف الدین کے مزارات کی زیارت کی اور خواجہ محمد زبیر کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی علیہم الرحمۃ۔

عنایات کا سلسلہ جاری رہا، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ،

فقیہ الہند شاہ محمد مسعود، مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہم الرحمۃ کے مزارات مقدسہ کی چادریں بھی عطا ہوئیں۔ پھر سید فرقان علی رضوی (گدی نشین دربار خواجہ غریب نواز) ایک اور چادر لے کر تشریف لائے، اور جناب محمد برہان مسعودی گونزو (چین) سے صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کی چادر شریف لے کر آئے۔ مدینہ منورہ سے شیخ محمد عارف مدنی قادری ضیائی نے فقیر اور فقیر زادے ابوالسرور محمد مسرور احمد سلمہ کے لیے دوائیں بنا کر بھیجیں...... احقر زادہ محمد مسرور احمد سلمہٗ (چیئر مین امام ربانی فاؤنڈیشن) بھی اللہ کے فضل و کرم سے محروم نہ رہے۔ جہان امام ربانی کے آخری مرحلہ پر اللہ تعالیٰ نے ۹ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ/ ۲۹ جنوری ۲۰۰۷ء فرزند عطا فرمایا جس کی بشارت مدینہ منورہ سے ملی اور جس کا فقیر نے نام محمد سعود احمد رکھا۔ نام رکھتے وقت یہ خیال رکھا کہ الفاظ قرآن کریم میں ہوں اور صنعت غیر منقوطہ میں ہوں چنانچہ مسرور، سرور، محمد، احمد سب قرآن کریم میں ہیں اور صنعت غیر منقوط میں ہیں کہ رب کریم اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مقدسہ اس صنعت میں ہیں۔ یہ عنایات اپنی جگہ خوابات کی دنیا میں بڑے حسین خواب دیکھے گئے لیکن چوں کہ آجکل خوابات کو تشہیر کا ذریعہ بنالیا گیا ہے اس لیے صرف اشارہ ہی کافی سمجھتا ہوں...... رجوع خلائق یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فقیر خلوت گزیں ہے مگر پھر بھی تلاش کرنے والے تلاش کر کے پہنچ جاتے جاتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ حضرت مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خاں نوری علیہ الرحمۃ کے ایک دیرینہ مرید نے جن کو فقیر جانتا بھی نہ تھا غیبی اشارہ پا کر ایک محفل منعقد کی فقیر کا نام بھی لکھ دیا پھر دعوت دینے آئے، فقیر حیران تھا مگر غیبی حکم کے آگے سرخم کرنا پڑا اور محفل میں حاضر ہوا، یہ ساری باتیں بطور تحدیث نعمت لکھی گئی ہیں کہ انعام و احسان کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ورنہ نہ لکھی جاتیں۔

۲۰۰۵ء میں عمرہ اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، یہی نہیں پے درپے دربار سرہند میں بھی حاضری نصیب ہوگئی، ۲۰۰۴ء میں پہلی بار حاضری ہوئی، ۲۰۰۶ء میں دوسری بار حاضری ہوئی، سجادہ نشین حضرت خلیفہ محمد یحییٰ علیہ الرحمۃ نے بڑی شفقت و کرم فرمایا اور سجادگان دربار سرہند کا اپنا خاندانی شجرہ بھی عطا فرمایا، جس میں خلیفہ صاحب کے اجداد میں ان سجادہ نشینوں کا ذکر ہے......

☆......خلیفہ سید شیر علی

☆......خلیفہ سید عبدالرحیم

☆……خلیفہ سید شفیع اللہ

☆……خلیفہ سید عبدالقادر

☆……خلیفہ سید فیض علی شاہ

☆……خلیفہ سید محبوب علی شاہ

☆……خلیفہ سید محمد حسین شاہ (ان کی اہلیہ خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ نبیرۂ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی پوتی تھیں)

☆……خلیفہ محمد صادق

☆……خلیفہ محمد یحییٰ

☆

یہ تھی مختصر روئداد جہان امام ربانی کے آخری مراحل کی جس سے تائید الٰہی اور غیبی امداد کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے…… جہان امام ربانی کی تدوین بھی عجب انداز سے ہوئی، بالعموم ہوتا یہ ہے کہ پہلے مواد اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر خاکے کے مطابق مرتب کیا جاتا ہے، پھر صاف کیا جاتا ہے…… جہان امام ربانی کی تدوین لنگر کی طرح ہوئی کہ جو مواد آتا گیا، جہان امام ربانی میں شامل ہوتا گیا اس لیے جہان امام ربانی کی تمام جلدیں مربوط نہیں، ہر جلد اپنی جگہ مکمل ہے، اس طرح قاری جو بھی جلد مطالعہ کرے گا تشنگی محسوس نہیں کرے گا، غالباً اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے جس کی بارہ جلدوں میں کوئی جلد کسی جلد کی محتاج نہیں…… البتہ فضلاء و محققین کے لیے جہان امام ربانی کے حوالے سے ایک کتاب شائع کی جائے گی جو صوفی محمد عبدالستار طاہر (لاہور) مرتب کر رہے ہیں۔ تا کہ کسی بھی موضوع پر لکھنے والے محقق کو تمام جلدیں تلاش نہ کرنی پڑیں…… اس کتاب کا عنوان ہے:

''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا موضوعاتی جائزہ''

ایک ہی موضوع پر مختلف جلدوں میں جو مقالات ہوں گے اس کتاب میں ان کی نشاندہی کر دی جائے گی اس طرح محققین کا کام آسان ہو جائے گا۔

جہان امام ربانی کی تدوین میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیشتر لکھنے والے، کمپوز کرنے والے، تصحیح کرنے والے، مدوّن کرنے والے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ ہیں یا اس سلسلے میں صاحب اجازت ہیں۔ تدوین کے دوران حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا روحانی فیض جاری رہا اور کوئی

قابل ذکر رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔

مقالات کی تدوین و تصحیح اپنی جگہ اہم ہے مگر اشاریات کی تدوین بڑی اہم ہے، یہ بڑی جانکاہی اور دیدہ ریزی کا کام ہے۔ الحمد للہ تقریباً ۳۰ حضرات و خواتین نے معاونت کی اور کمانڈر محمد ظفر صاحب کی نگرانی میں یہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ اشاریہ کی تیاری جلد کی طباعت کے بعد ہوتی ہے، چوں کہ گیارہویں جلد کی طباعت کے بعد کوئی جلد نہ تھی اس لیے اس جلد کا اشاریہ تیار نہ ہو سکا۔ ان شاء اللہ آیندہ اڈیشن میں یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔

جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کے اشاریہ کی صبر آزما کام کی انجام دہی میں مخلصین و محبین کی ایک جماعت شریک رہی اور الحمد للہ اس کام میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے اور ماہرین سے رجوع کیا جاتا وہ کام اخلاص و محبت کے طفیل بلا معاوضہ ان حضرات نے انجام دیا جنھوں نے پہلے کبھی یہ کام نہ کیا تھا۔ امام ربانی فاؤنڈیشن کے پاس اتنا اثاثہ بھی نہ تھا کہ یہ کام ماہرین سے کرایا جاتا البتہ ایک نقشبندی مجددی امریکی فاضل ڈاکٹر آرتھر بوہیلر نے ازراہ کرم انگریزی مآخذ و مراجع کی نظر ثانی فرمائی۔ بہر حال اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کٹھن مرحلہ مخلصین و محبین نے بحسن و خوبی طے کیا اور ایک عظیم اشاریہ تیار کیا جس کی تفصیل یہ ہے:

۱..... اشاریہ رجال: یہ تقریباً سات ہزار مصنفین و مؤلفین اور عوام و خواص کے ناموں کا اشاریہ ہے۔

۲..... اشاریہ اسماء الکتب و رسائل: یہ تقریباً پانچ ہزار عربی، فارسی، اردو، انگریزی کتب و رسائل کی فہرست کا اشاریہ ہے۔

۳..... اشایہ اماکن: یہ تقریباً ڈیڑھ ہزار ملکوں، شہروں علاقوں کا اشاریہ ہے۔

اس کے علاوہ فہرس مآخذ و مراجع الگ ہے جو تقریباً پانچ ہزار کے لگ بھگ کتب و رسائل پر مشتمل ہے۔ جن سے جہان امام ربانی میں محققین نے استفادہ کیا۔ اہل علم کا خیال ہے کہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں بارہ ضخیم جلدوں میں آٹھ ہزار صفحات پر مشتمل سوانح تاریخ میں نظر نہیں آتی، یہ اہم کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگان دین کی توجہات عالیہ سے ممکن ہوا۔ اشاریہ کا کام ماہرین نے نہیں کیا، مخلصین نے کیا ہے اس لیے عین ممکن ہے کہ ماہرین خامیاں محسوس کریں، ان کے لیے گزارش ہے کہ امام ربانی فاؤنڈیشن کو مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔

جہان امام ربانی میں دو قسم کے صفحات نمبر دیے گئے ہیں۔ ایک نمبر داخلی ہیں، جو ہر جلد کے صفحات

کے حساب سے ڈالے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر خارجی ہیں جو پہلی جلد سے آخری جلد تک مسلسل ہیں۔ پہلے نمبر صفحہ کے اوپر ڈالے گئے ہیں اور دوسرے نمبر صفحہ کے نیچے ڈالے گئے ہیں یہی نمبر اشاریہ میں ڈالے گئے ہیں اور بیچ بیچ میں جلد نمبر کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ قاری کو مطلوبہ مقالہ تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔

☆

جہان امام ربانی کی طباعت کے بعد اس کی چودہ ہزار چار سو ضخیم مطبوعہ مجلدات کے ذخیرہ کرنے کا مرحلہ آیا تو الحمدللہ! یہ مسئلہ بھی محبی شیخ صبور احمد (مینجنگ ڈائریکٹر کراچی کیمیکل انڈسٹریز، کراچی) نے حل کر دیا، انھوں نے نہ صرف ذخیرے کے لیے اپنی فیکٹری کا ایک ہال مخصوص کیا بلکہ اپنے ملازمین کو بھی خدمت کے لیے مستعد کر دیا، بنڈلات کا لانا، لے جانا ان کے ذمہ کیا، اللہ تعالیٰ تمام ملازمین بالخصوص محمد سہیل مسعودی کو اس کارِ خیر کا اجر عطا فرمائے۔ آمین، جو فرض شناسی سے اس کام کی نگرانی کرتے رہے۔

☆

جہان امام ربانی کی سات جلدوں کی طباعت کے بعد ۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء کو کراچی میں محفل تشکر کے بعد اس کا اجراء کیا گیا پھر ۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء کو لاہور میں صوفی غلام سرور نے ایوان اقبال میں شاندار کانفرنس منعقد کی۔ اس کے بعد ۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء کو نئی دہلی میں مفتی اعظم ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی امام وخطیب مسجد فتحپوری، دہلی) نے امام ربانی مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس منعقد کی۔ الحمدللہ! ایک سال کے اندر اندر جہان امام ربانی کا پوری دنیا میں تعارف ہو گیا، اس کی جلدیں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، روس، چین، افریقہ، کینیڈا، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، افغانستان، ماریشس وغیرہ وغیرہ مختلف براعظموں اور ملکوں میں پہنچ چکی ہیں...... اس کتاب کی اشاعت سے سب ہی حیران بھی ہیں اور خوش بھی، جو کام صدیوں میں نہ ہو سکا، اللہ کے فضل وکرم سے وہ کام چار پانچ سالوں میں ہو گیا، الحمدللہ! تمام سلاسل کے مشائخ طریقت نے کشادہ دلی اور وسعت قلبی کے ساتھ اس شاندار اشاعت پر خوش آمدید ہی نہیں کہا بلکہ تعاون کا یقین دلایا، ۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء کو دہلی کانفرنس میں مارہرہ شریف کے سجادہ نشین پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین مارہروی نے اپنی صدارتی تقریر میں دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا، ملک اور بیرون ملک سے جو پیغامات اور خطوط مل رہے ہیں ان سے بھی جہان امام ربانی کی ہمہ گیر مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ''امام جم'' کے عنوان سے بعض تاثرات جہان امام ربانی کی آخری جلد میں

شامل کیے گئے ہیں۔

☆

کوشش کی جارہی ہے کہ جہان امام ربانی کی سی۔ڈی تیار کرلی جائے، اس سلسلے میں سید شعیب افتخار مسعودی کوشش کررہے ہیں چوں کہ جہان امام ربانی کی کمپوزنگ مجلدات کے حساب سے نہیں ہوئی اس لیے سیٹنگ میں وقت لگے گا پھر ان شاء اللہ اس کو ویب سائٹ میں ڈال دیا جائے گا یہ اہم فریضہ محترم چراغ الدین مسعودی، محمد عمیر احمد خاں مسعودی اور محمد ابراہیم مسعودی انجام دے رہے ہیں۔ جس کا ایڈریس یہ ہے۔ ”www.Aimazhar.com“ اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں کسی جاندار کی تصویر نہیں۔ جہان امام ربانی اردو میں ہے جو دنیا کی اہم زبانوں میں ایک زبان ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ اس عظیم انسائیکلو پیڈیا کو دنیا کی دوسری اہم زبانوں میں بھی پیش کیا جائے۔ قاضی عبدالمنان نقشبندی نے انگریزی ترجمہ کا کام شروع کیا ہے۔

☆

جہان امام ربانی کا کام سات جلدوں میں مرتب ہونے کے باوجود ختم نہ ہوا اور توفیق الٰہی سے مزید پانچ جلدیں مرتب ہوگئیں جو ۲۰۰۷ء میں منظر عام پر آئیں گی۔ یہ سلسلہ کچھ ایسا شروع ہوا کہ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں نئے نئے افق سامنے آتے جاتے ہیں۔ بہرحال ارادہ یہی ہے کہ بارہ جلدوں کی طباعت کے بعد کام ختم کر کے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس وعدے کی تکمیل کی جائے جو ۲۰ ربرس پہلے کیا تھا۔ بہت سا مواد جمع بھی کرلیا گیا تھا فائل بھی تیار کر لیے تھے۔ سیرت پر یہ کتاب غیر مسلموں کے لیے لکھی جائے گی اور عنوان ہوگا ”جان جہاں“ مولیٰ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو مکمل فرما کر چراغ ہدایت بنائے۔ آمین لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جہان امام ربانی کی ایک اور جلد ”باقیات جہان امام ربانی“ کے عنوان سے مرتب ہوگی جس میں وہ مقالات شامل ہوں گے جو وعدے کے باوجود بروقت ہم کو نہیں مل سکے۔ ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

١......عبدالحق انصاری	(ریاض، سعودی عرب)	چودہویں صدی کے عرب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ
۲......عبدالحق انصاری	(ریاض، سعودی عرب)	مولانا خالد الکردی البغدادی
۳......ڈاکٹر حازم محفوظ مصری	(قاہرہ، مصر)	مصر کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ

۴...... ڈاکٹر احمد مرزا (امریکہ)	امریکہ کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ
۵...... منیر حسین مسعودی (یو۔ کے)	انگلستان کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ
۶...... ڈاکٹر غلام جابر مصباحی (ممبئی، بھارت)	مکتوبات رضویہ میں اذکار امام ربانی
۷...... فاضل جلیل پروفیسر شمسی طہرانی (ٹونک، بھارت)	تفردات امام ربانی
۸...... ڈاکٹر اعجاز انجم لطیفی (بریلی، بھارت)	جہان امام ربانی میری نظر میں
۹...... ڈاکٹر منظور احمد سعید (کراچی، پاکستان)	جہان امام ربانی کا تنقیدی جائزہ
۱۰...... ڈاکٹر سید محمد عارف (بہاول پور، پاکستان)	اشارے کنایوں میں حضرت مجدد پر تنقیدات کا جائزہ
۱۱...... پروفیسر محمد کبیر احمد مظہر (لاہور، پاکستان)	وجود عدم، مکتوبات کی روشنی میں
۱۲...... علامہ محمد ذاکر اللہ نقشبندی (کراچی، پاکستان)	عرب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ
۱۳...... مولانا محمد صدیق ہزاروی (لاہور، پاکستان)	امام ربانی اور سنت کی اہمیت
۱۴...... محمد صادق قصوری (قصور، پاکستان)	رد قادیانیت میں حضرات نقشبندیہ مجددیہ کی خدمات
۱۵...... پروفیسر پیر نثار احمد جان سرہندی (میر پور خاص، سندھ)	عہد اکبری مکتوبات کے آئینے میں

☆

صاحب زادہ میاں جمیل احمد شرقپوری کا ماہنامہ نور اسلام، لاہور کا امام ربانی نمبر کی تین جلدیں، جہان امام ربانی کے لیے محرک ثابت ہوئیں۔ اس نمبر میں صوفی غلام سرور نقشبندی کا خون جگر بھی شامل ہے۔ جہان امام ربانی کے معاونین میں میاں صاحب کے علاوہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد (شاہی امام وخطیب مسجد فتحپوری، دہلی)، پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، محمد عالم مختار حق، شیخ صبور احمد، صوفی غلام سرور نقشبندی دام عنایتہم قابل ذکر ہیں۔ امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) کراچی کے عہدیداران اور دوسرے معاونین جو شروع سے سرگرم عمل رہے یا بعد میں شامل ہوئے ان میں یہ حضرات ہیں۔ صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری، حاجی معراج الدین مسعودی، حاجی محمد الیاس مسعودی، ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری، سید محمد منصور شاہ مسعودی، ڈاکٹر صفی الدین مسعودی، حاجی محمد اسلم مسعودی، جناب

اقبال الرحمٰن مسعودی، جناب وسیم الرحمٰن، جناب محمد شاہد، قاری محمد شریف مسعودی، پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق مسعودی، جناب شعیب افتخار مسعودی، جناب نور احمد مسعودی، جناب محمد سہیل مسعودی، جناب عبدالراشد مسعودی، جناب محمد عارف مسعودی اور جناب عبدالسلام قریشی مظہری زید مجدہم....

عزیزم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری نے جہان امام ربانی کی تدوین میں اور کمانڈر محمد ظفر نے اشاریات کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ ان حضرات نے اپنے دن رات ایک کر کے کام کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ حضرات تعاون نہ فرماتے تو جہان امام ربانی اتنی جلدی شائع نہ ہوتی، ان کا تعاون بھی اللہ کا فضل وکرم ہے۔

مولیٰ تعالیٰ امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی کے تمام عہدیداران اور تمام معاونین کو اپنے فضل عمیم سے اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی بے لوث مخلصانہ خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین

محترم جناب محمد عالم مختار حق زید لطفہ سے فقیر کے دیرینہ مراسم ہیں، وہ علمی ذوق رکھتے ہیں، اہل علم سے محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی علمی خدمات ہیں، کئی سال تک روابط منقطع رہے لیکن جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کے طفیل روابط کی تجدید ہوئی اور یہ بھی اندازہ ہوگیا کہ طویل غیر حاضری محبت و اخلاص کو مضمحل نہ کرسکی۔ ۲۰۰۲ء میں جہان امام ربانی کی تدوین کا آغاز ہوا، مقالات آنے شروع ہوئے، کمپوزنگ ہوئی، تصحیح کا مرحلہ آیا جو مختلف حضرات نے انجام دیا جن کا فقیر ممنون ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے ایسے مصحح کی تلاش تھی جس کی تصحیح کے بعد متن قابل اعتبار ہوجائے تو اچانک نظر محترم محمد عالم مختار حق زید عنایتہ پر پڑی، وہ ملک کے مشہور، قابل اعتماد و باوقار مصحح ہیں لیکن علالت وضعف اور مصروفیات کی وجہ سے یہ فریضہ ترک کردیا تھا لیکن جب ان سے فقیر نے عرصہ دراز کے بعد رابطہ کیا تو معلوم ہوا محبت تازہ ہے اور وہ کسی ادنیٰ تذبذب کے بغیر اس فریضہ کی انجام دہی کے لیے فوراً تیار ہوگئے اور وہ بھی بغیر کسی ادنیٰ معاوضے کے...... ۲۰۰۳ء سے ۲۰۰۷ء تک مسلسل چار سال یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا ایثار تھا۔ مولیٰ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ فقیر اور جملہ اراکین امام ربانی فاؤنڈیشن تہ دل سے ان کے ممنون ہیں۔ جہان امام ربانی کے پرنٹر شوکت حسین، فوائل پرنٹر جناب مختار اور بائنڈر جناب محمد سلیم سواتی نے بھی ہر مرحلے پر بھرپور تعاون فرمایا۔ مولیٰ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ (آمین)

☆

اس وقت عالمی سطح پر صاحب کردار شخصیت کا فقدان ہے جو جدید نسل کے لیے مثالیں اور نمونہ بن سکیں۔ بدعہدی، بے وفائی، خودغرضی، خودنمائی، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے اس لیے کردار سازی کے لیے صاحب کردار شخصیات کی جتنی اس وقت ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی گزشتہ ایک صدی کے اندر اندر حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مال و دولت وقت کی ضرورت نہیں، حمیت و غیرت اور ایثار و قربانی وقت کی ضرورت ہے اور وہ دین اسلام کی سچی محبت اور سچے لگاؤ کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔ گفتگو کا محور مال و دولت، ملازمت رہ گیا جس کا حاصل آخرت سے غفلت کے سوا کچھ نہیں، آخرت کا ہوش زندگی کو متوازن بناتا ہے، جو آخرت سے غافل ہوگیا اس نے سب کچھ پانے کے باوجود سب کچھ کھودیا......

دنیا میں مختلف انسان ہیں، ایک وہ ہے جن پر ایک دو سطریں لکھنا مشکل ہے ایک وہ ہیں جن پر مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں، جانا سب کو ہے مگر وہ جانے والے مبارک ہیں جو نشان قدم چھوڑ گئے اور مردوں کو زندہ کر گئے مختصر سا انسان کتنا عظیم ہے، عظیم انسانوں کی سیرتیں ہی مطالعہ کر کے انسان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک معما کھلتا چلا جاتا ہے اور حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان تو سب ہیں مگر اس بھیڑ بھاڑ میں جب وہ بلند ہونے لگتا ہے تو بلند ہوتا چلا جاتا ہے، موت بھی اس کی بلندی کو نہیں چھوسکتی، وہ زندہ ہیں، وہ زندگی کی سوغات لٹاتے ہیں۔

ہو اگر خودنگر و خودگر و خودگیر خودی
یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے

جہان امام ربانی میں ہمیں ایک عظیم انسان کے نقش قدم نظر آئیں گے جس پر چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت سے اہل طریقت بھی اچھی طرح واقف نہ تھے۔ الحمد للہ! جہان امام ربانی کی اشاعت کے بعد معرفت و پہچان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ جس نے دیکھا حیرت کا اظہار کیا، جس نے پڑھا خوشگوار مسرت کا اظہار کیا، سچ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل) کے جملہ عہدیداران اور معاونین کے اخلاص و محبت کی کرامت ہے اللہ تعالیٰ ہی اس ایثار و اخلاص کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی

پروفیسر محمد حسین آسی

☆☆

یہ نظم پروفیسر محمد حسین آسی کی وہ غیر مطبوعہ منقبت ہے جو کہ انھوں نے تقریباً تیس برس قبل حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے عرس شریف پر سیالکوٹ کی مسجد ملا کمال میں پڑھی تھی، ملا کمال الدین علیہ الرحمہ حضرت مجدد الف ثانی کے اساتذہ میں سے تھے اور یہ مسجد انہی سے منسوب ہے، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اس مسجد میں زیر تعلیم رہے اور ملا کمال الدین سے اکتساب علم کیا۔ (مرتبین)

جانتا ہے جس کے پہلو میں دلِ بیدار ہے
حق سے باطل ابتدا ہی سے سرِ پیکار ہے
منزلِ مقصود کیا ہے؟ شوق وصلِ یار ہے
عیش و غم، سود و زیاں کی فکر ہی بے کار ہے
وقت کے حاکم بنا سکتے نہیں محکوم اسے
جو دل وجان سے غلام احمد مختار ہے
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیمِ جاں ہے زندگی
جانے کیا، مرنا رہِ حق میں جسے دشوار ہے

گنج عظمت رنج و کلفت کے سوا ملتا نہیں
جس کا سر ہے دار پر، سمجھو وہی سردار ہے
چاہیے عشق نبی میں زندگی قرباں کرے
جس کو دنیا میں حیاتِ جاوداں درکار ہے
مردِ مومن یوں سمجھتا ہے کہ منزل ہے قریب
دیکھتا ہے جب یہ دنیا درپئے آزار ہے
غیرِ حق کے سامنے انساں جھکے ممکن نہیں
یعنی وہ انساں جو تخلیق کا شاہکار ہے
دنیا بھر کی ترشیاں بھی کیا اُتاریں گی اسے
دل میں یہ جو نشہ عشقِ شہِ ابرار ہے
سخت مشکل ہے یہ تسلیم ورضا کا مرحلہ
آدمیت کا یہی کرتا ہے لیکن فیصلہ
جانتے ہیں اس حقیقت کو سبھی تاریخ داں
چار صدیاں قبل تھی کیا حالت ہندوستاں
ملتِ اسلامیہ پر سخت نازک دور تھا
جب جلال الدین اکبر کی حکومت تھی یہاں

فیضی و بوالفضل جیسے لوگ تھے اس کے مشیر
جن کے دل میں زندقہ کی آگ تھی شعلہ فشاں
خود فروشوں کو اگر ضد تھی تو محض اسلام سے
وہ مٹانا چاہتے تھے دین کا نام ونشاں
چھا رہی تھیں ہر طرف گویا گھٹائیں جور کی
چل رہی تھیں چار سو ظلم و ستم کی آندھیاں
اہلِ ایماں گویا اہلِ کفر کے نرغے میں تھے
مضطرب تھے ہرطرف پیر و جواں، خرد و کلاں
اہل دیں سہمے ہوئے تھے کفر کی یلغا سے
لٹ رہا تھا غیرتِ دین ہدیٰ کا کارواں
الغرض الحاد تو ہر شکل میں آزاد تھا
اور عائد ہورہی تھیں دین پر پابندیاں
یہ تھا پس منظر کہ غیرتِ حق جوش میں
عشق نے انگڑائی لی سرہند کی آغوش میں
جانتے ہوکون آیا دین کے اس وقت کام
کس کے سوزِ آہ نے بدلا یہ طاغوتی نظام

کس کے پیکر میں ڈھلا اس وقت کا فقرِ غیور
کفر پہ لہرائی گویا کس کی تیغِ بے نیام
کس کی ہیبت لے رہی ہے آج تک شاہوں سے باج
کس کی عظمت کو جہانگیری بھی کرتی ہے سلام
آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی
آج تک گرما رہا ہے زندگی کو کس کا نام
ہاں وہ جس کے تن بدن میں تھا لہو فاروق کا
بندۂ رب الانام و نائب خیرالانام
شیخ احمد حضرت عبدالاحد کا نور عین
الف ثانی کا مجدد، الف مانی کا امام
مہرِ عالمتاب غوث الورٰی کی ذات پاک
اور یہ چرخِ ولایت کا ہوا ماہِ تمام
جس کے مکتوبات کی ہر سطر ہے دریائے نور
ہو رہے ہیں آج تک سیراب جس سے خاص و عام
ہاں وہی شیخِ مجدد ہاں وہی شیخ الشیوخ
جس کو بخشی ہے نبی کے عشق نے عمرِ دوام

آؤ کچھ ہم بھی تو سیکھیں اس کی سیرت سے سبق
لانے والے اس طرح لاتے ہیں اسلامی نظام
میں تہہِ دل سے مبارکباد دیتا ہوں تمہیں
صوفی صاحب قابل تعریف ہے یہ اہتمام
مسجد ملا کمال و مجمع اہل کمال
ملک وملت کے لیے آتی ہے یہ بھی نیک فال

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

من ترک الصلوٰۃ متعمدًا فقد کفر

۴۲۲ے

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

مرقعات کتب

☆☆

☆......عبد الحی: نزھة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر،
المجلد الثانی، دار ابن حزم، بیروت ۱۹۹۹ء

☆......ابو الحسن علی ندوی : رجال الفکر والدعوة فی الاسلام،
الامام السرھندی، الجزء الثالث دار ابن کثیر ،
دمشق ،۱۹۹۸ء

الإعلام

بمن في تاريخ الهند من الأعلام

المسمّى

بـ«نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر»

لمؤرّخ الهند الكبير العلّامة الشريف عبد الحيّ بن فخر الدين الحسني
أمين ندوة العلماء العام بلكهنؤ - الهند - سابقاً
المتوفى سنة ١٣٤١هـ

MAKTABA MUJADDADIA NAEEMIA
ESTB. 1950
MALIR
KARACHI
PAKISTAN

الجزء الخامس

يتضمن تراجم علماء الهند وأعيانها

في القرن الحادي عشر

دار ابن حزم

٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

**الكتب والدراسات التي تصدرها الدار
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها**

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان - ص.ب: ١٤/٦٣٦٦ - تلفون: ٧٠١٩٧٤

٤٣٢٥

وقد ذكره الحر العاملي في أمل الآمل وقال إنه فاضل فقيه صالح، من مصنفاته شرح الإرشاد للعلامة الحلي وله غير ذلك من المصنفات، كما في النجوم السماء(١).

٦٨ ـ مولانا أحمد بن سليمان الكجراتي

الشيخ العالم الكبير العلامة: أحمد بن سليمان الكردي الكجراتي، أحد الرجال المعروفين في العلم، قدم والده من بلاد كرد إلى أرض الهند وسكن بكجرات، وولد بها أحمد بن سليمان، وتربى في مهد والده، وقرأ أكثر الكتب الدرسية على مولانا محمد شريف، وقرأ شرح المواقف وسائر الفنون الحكمية على مولانا ولي محمد حسن، وأخذ التصوف عن الشيخ فريد الدين الكجراتي، والفنون الرياضية عن شاه قباد المشهور بديوان جي، وأخذ الحديث وبعض الفنون عن والده، ثم تصدر للتدريس، أخذ عنه الشيخ نور الدين بن محمد صالح الكجراتي صاحب المصنفات المشهورة.

وكان ممن تفرد في العلوم الحكمية ونشرها بأرض كجرات، وله مصنفات في أكثر العلوم، منها فيوض القدس كتاب مفيد في علم الكلام.

توفي وقت العصر من يوم الاثنين لتسع ليال بقين من جمادى الأخرى سنة اثنتين وتسعين وألف، فأرخ لوفاته صاحبه نور الدين من قوله: «شمعى كه بود ز انجمن علم گل شده» دفن بمقبرة الشيخ موسى بمدينة أحمدآباد، كما في «مرآة أحمدي».

٦٩ ـ الشيخ أحمد بن شيخ الكجراتي

الشيخ العالم: أحمد بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني الحضرمي الشافعي ثم الكجراتي البروجي الولي القطب المكاشف، ذكره الشلي في تاريخه وقال إنه ولد بمدينة تريم في سنة تسع وأربعين وتسع مئة، وصحب جماعة من أكابر عصره منهم السيد عبد الرحمن بن شهاب والشيخ الإمام أحمد بن علوي باجحدب والشيخ أحمد بن حسين العيدروس، ثم قدم إلى والده بالديار الهندية وأقام عنده بمدينة أحمدآباد، ولاحظته عناية أبيه، ثم

٧٠ ـ الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي

الشيخ الأجل الإمام العارف، بحر الحقائق والأسرار والمعارف، محيي السنن النبوية، ناصر الشريعة البيضاء السنية، مشيد مباني الطريقة، مجدد معالم الحقيقة، برهان العارفين والمحققين، وحجة الأولياء المتقين، مفتخر الأعصر والدهور، ومعتمد الفارغين إليه في جل الأمور، آية من آيات الله العظام، ونادرة من نوادر الأيام، الذي أخذ بيد العلم لما زلت به القدم، وكاد أن يهوي في مهاوي العدم، حتى جاء مجدداً للألف الثاني، وبرهاناً ساطعاً على أشرفية النوع الإنساني.

دنيا بها انقرض الكرام فأذنبت
وكأنما بوجوده استغفارها

شيخ الإسلام والمسلمين: أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين رضي الله عنه، ولد بسرهند في شوال سنة إحدى وسبعين وتسع مئة، وأخذ أكثر العلوم والطريقة الجشتية عن أبيه، واستفاد بعض العلوم العقلية عن الشيخ كمال الدين الكشميري، وأسند الحديث عن

---

(١) موقف المؤلف في ذكره هذه المراتب موقف ناقل محض وجامع لما جاء في كتب التراجم. (الندوي)

الشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري الذي أخذ عن الشيخ شهاب ابن حجر الهيتمي المكي، ثم تناول الحديث المسلسل بالأولية عن القاضي بهلول البدخشي عن الشيخ عبد الرحمن فهد عن أبيه الشيخ عبد القادر وعمه الشيخ جار الله عن أبيهما الحافظ عز الدين عبد العزيز عن جده الحافظ الرحلة تقي الدين محمد بن فهد العلوي الهاشمي والحافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وللشيخ أحمد إجازة برواية الكتب الحديثية وغيرها عن القاضي المذكور.

ولما فرغ من تحصيل ما تيسر له من العلوم الظاهرة وكان إذ ذاك ابن سبع عشرة سنة اشتغل بالتدريس والتصنيف، ومما صنفه في تلك الأيام رسالة في إثبات النبوة وأخرى في الرد على الشيعة الإمامية وغير ذلك مما أثنى عليه العلماء، وألبسه أبوه خرقة الخلافة.

فلما توفي أبوه عام سبعة وألف ارتحل إلى دهلي يريد الحج فقاده قائد توفيق من الله عز وجل إلى الشيخ الأجل رضي الدين عبد الباقي النقشبندي رضي الله عنه، فأخذ عنه الطريقة النقشبندية، واشتغل بها وتدرج في أيام معدودات إلى أوج القطبية والفردية ثم إلى ما شاء الله تعالى، حتى بشره الشيخ بحصول رتبة التكميل والترقي إلى مدارج القرب والنهاية، وثم أجاز له بإرشاد الطالبين وألبسه خرقة الخلافة، ولم يزل يكرمه ويجله ويفتخر به ويثني عليه بما لا يبلغ وصفه.

فرجع إلى سرهند وجلس على مسند الإرشاد، وأخذ في الدرس والإفادة، وكان يدرس في علوم شتى من الفقه والأصول والكلام والتفسير والحديث والتصوف، وربما يشتغل بالهداية والبزدوي وشرح المواقف و «البيضاوي» و «المشكاة» و «البخاري» و «العوارف»، وله مكتوبات في ثلاثة مجلدات، وهي الحجج القواطع على تبحره في العلوم الشرعية، وفيها ما لا يتبادر إلى الأذهان لمن ليس لهم درك في مقامات العرفان، فشدوا النطاق في خصامه، وسعوا إلى جهانگير بن أكبر سلطان الهند، فأمر بإحضار الشيخ ورضي بجوابه، فعرضوا عليه أن الشيخ ما سجد للسلطان تكبراً مع أنه ظل الله وخليفته، بل لم يتواضع تواضعاً جزيلاً، فغضب عليه السلطان وحبسه في قلعة گوالیار. وكان شاهجهان ولد جهانگیر مخلصاً للشيخ فأرسل إليه أفضل خان والمفتي عبد الرحمن من رجاله مع بعض كتب الفقه قبل أن يحضر عند السلطان وقال إن سجدة التحية تجوز للسلاطين. فإن تسجدوا للسلطان عند اللقاء فأنا ضامن من أن لا يصل إليكم ضرر منه. فلم يقبل الشيخ وقال: هذه رخصة والعزيمة أن لا يسجد لغير الله سبحانه. فلبث في السجن ثلاث سنين وحفظ القرآن في تلك المدة، ثم أخرجه السلطان من السجن بشرط أن يقيم في عسكره ويدور معه، فأقام الشيخ في معسكره ثماني سنوات، وبعد وفاة السلطان رخصه ولده شاهجهان المذكور، فعاد إلى سرهند وصرف عمره بالدرس والإفادة.

ومن مصنفاته «الرسالة التهليلية» ورسالة في إثبات النبوة ورسالة في المبدأ والمعاد، وله رسالة في المكاشفات الغيبية، ورسالة في آداب المريدين، ورسالة في المعارف اللدنية، ورسالة في الرد على الشيعة، وتعليقات على «عوارف المعارف» للسهروردي، ومكتوبات في ثلاث مجلدات: المجلد الأول يشتمل على ثلاث مئة وثلاثة عشر مكتوباً، والثاني على تسعة وتسعين مكتوباً، والثالث على مئة وأربعة عشر مكتوباً. وله غير ذلك من المصنفات الرشيقة الممتعة. وفي كل ذلك كشف القناع عن وجوه الحقائق والمعارف مما لم يتيسر لأحد قبله.

قال الشيخ محسن بن يحيى البكري التيمي في «اليانع الجني»: ولقد بلغه الله سبحانه من الولاية منزلة لا يراه فوقها، وهدى الله بعهده ثم بأصحابه من بعده خلقاً لا يحصيهم إلا من أحصى رمل عالج عدداً، فلا ترى ناحية من نواحي المسلمين في بلاد الهند وخراسان وما وراء النهر من بلاد الترك والتتر إلى أقصى ثغر بالمشرق ثم أرض العراق والجزيرة وبلاد الحجاز والشام والقسطنطينية وما والاها إلا وقد نمى فيها طريقته وجرى على ألسنة أهلها ذكره، إليه ينتمون وبه يتبركون، بل دخل طريقته إلى أقصى المغرب مثل فاس وغيرها، يعرف ذلك بمراجعة «المنح البادية» لمحمد بن عبد الرحمن الفاسي وغير ذلك، وفي هذا حجة واضحة على جليل شأنه عند الله ورفيع مكانه في

أولياء الله، حيث أشاع طريقته في مشارق أرضه ومغاربها، وعم هذه الأمة برغائب فيوضه وغرائبها، «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».

ومن مصنفاته المشهورة الأسفار الثلاثة من مكاتيبه، بحر من العلم والحقائق وكنز من الرموز والدقائق، ورسائل مفردة «كالمبدأ والمعاد» و «المعارف اللدنية» والمكاشفات الغيبية وغير ذلك، وله رضي الله عنه في بيان المعتقد على مذهب الماتريدية وتهذيب طريقة الصوفية النقشبندية لسان أي لسان! ومن أياديه على رقاب كثير من الناس أنه أوضح الفرق بين وحدة الوجود وبين وحدة الشهود، وبين أن وحدة الوجود شيء يعتري السالك في أثناء السلوك، فمن ترقى مقاماً أعلى من ذلك يتجلى له حقيقة وحدة الشهود، فسد بذلك طريق الإلحاد على كثير ممن كان يتستر بزي الصوفية ويتأول كلامهم على أهوائه الزائغة، ومنها أنه باحث الملاحدة الذين كانوا في زمانه وجادلهم جدالاً حسناً بقلمه ولسانه، وكذلك رد على الروافض ونقض بُدعاتهم، ورد على الضعفاء مكايدهم، فحمى بذلك حمى الدين، وحرس بيضة المسلمين، ومنها أنه حقق الفرق بين البدعة والسنة وتقية المجتهدين، واستحسانات المتأخرين، والتعارف عن القرون المشهود لها بالخير، وما أحدثه الناس في القرون المتأخرة وتعارفوه فيما بينهم، فرد بذلك مسائل استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه، ومنها أنه كان يأمر بما يراه معروفاً وينهى عن ضده، ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف من ذي سطوة في سلطنته، فكان ينكر على الأمراء ويرشدهم إلى مراشد دينهم، وينفرهم من صحبة الروافض ومن شاكلهم من أعداء الدين، ويبذل لهم نصحه، فنفع الله كثيراً منهم بذلك، وصلحت بصلاحهم الرعية، فسد الله به ثلمة ظاهر الدين كما رقع به خرق باطنه، فهذب به وبأصحابه في البلدان النائية فئام ممن وفق لسبيل القوم، وذلك لأنه كان فقيهاً ماتريدياً زكي النفس، حريصاً على تتبع السنن مجتهداً فيه، شديد النصح لأبناء زمانه، فجاءت لذلك ـ والله أعلم ـ طريقته وعلومه وشمائله محمودة عند المحققين وأهل الإنصاف، ورغب فيها الناس وقل ما تعقب به ورد من قوله، والمسائل التي شدد بها النكير عليه بعض أهل العلم، والحق أنه مصيب في بعضها وله تأويل سائغ في البعض الآخر، وقد شاركه فيها غيره من هذه الطائفة ممن لا يحصى كثرة، فليس إذاً بخصه الإنكار، ولو أخذناهم بأمثال ذلك لم ينج أكثر المتأخرين منهم، ولا يتعين القول بالخطاء فيها إلا في مسألة أو مسألتين من باب السنن قد اعتذروا عنه في أحدهما والعذر فيهما واحد، وقد شهد له بما ذكرت فضائله أو بما يقرب منه، وأجاب عن شبهات المتقشفة وذب عنه الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي وأنعم الثناء عليه، فلم يترك فيه مجالاً لعائب ولا مقالاً لرائب، وكفاك به إماماً يشهد لإمام، والقول ما قالت به حذام، انتهى.

وأما مخالفوه فمنهم الشيخ محمد صالح الاورنگ آبادي ومحمد عارف وعبد الله السورتي من أصحاب الشيخ محمد صالح، فإنهم صوروا سؤالاً وذكروا فيه أقوالا، وزعموا أنهم استخرجوها من مكتوبات الشيخ أحمد، ثم عربوها بقدر معرفتهم ومقتضى مرادهم وأرسلوها إلى السيد محمد البرزنجي أحد مجاوري المدينة المنورة، ثم بعد وصول ذلك السؤال إليه علق رسالة بتكفير الشيخ أحمد بسبب الأقوال المكتوبة في السؤال بملائمة خاطر المرسل إليه وتصدى لإثبات كفره بها، وسأل قاضي المدينة المنورة ومفتيها وعلماءها أن يكتبوا على تلك الفتوى على وفق مراده، فامتنعوا عن ذلك وردوا عليه كلاماً وأجوبة تليق بالعلماء العاملين لعلمهم، ثم بعد ذلك أتى إلى مكة المشرفة فسأل الكتابة على السؤال المذكور من قاضيها ومفتيها وعلمائها أيضاً، فما وافقه على ذلك أحد فأجابوه بقولهم: هذا الأمر الذي ارتكبته عظيم، فلا يوافقك في تكفير مسلم إلا كل هالك، وما وافقه بالكتابة من العلماء على ذلك إلا آحاد من الناس ممن لا معرفة له بالطريقة، وبعضهم وافقه لملائمة هواه، وبعضهم لا علم له رأساً ولا حقيقة، فحصل ما حصل من القيل والقال، فاحتاج الناس إلى تتبع مكتوبات الشيخ المذكور وتعريب ألفاظه من الفارسية إلى العربية على وجه يتضح الحق على الناس، ولذلك صرف الشيخ الأجل العالم الفاضل نور الدين محمد بيگ همته

العلية وطلب جميع مكتوبات الشيخ وقابل الأقوال التي في ورقة السؤال مع مكتوبات المرحوم، فوجد بعضها غير موافق معها بسبب التحريف وترك بعض الألفاظ وزيادة أخرى، فكتب رسالة وبين فيها اصطلاحات السادة النقشبندية ومقاصد الشيخ أحمد، فعرب ألفاظه إلى العربية وأحسن واهتم وأتقن، وارتفع من أهل الحق سوء الظن، وندم كثير ممن كتب على السؤال المذكور، وصححه الشيخ عبد الله الآفندي والشيخ أحمد الهشيشي والسيد الأسعد المفتي المدني الحنفي والإمام علي الطبري المفتي الشافعي وعبد الرحمن بن محمد الصالح الإمام المالكي ومحمد بن القاضي الحنفي والشيخ الحسن الحنفي ومرشد الدين بن أحمد المرشدي والسيد محمد الآفندي والشيخ عبد الله الآفندي عناقي زاده.

ثم تصدى لشرح كلماته الطيبات الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي الدمشقي في رسالة «نتيجة العلوم ونصيحة علماء المرسوم»، ألفها سنة اثنتي عشرة ومئة وألف، ثم تصدى للرد على البرزنجي الشيخ فرخ شاه بن محمد سعيد السرهندي في رسالة سماها «كشف الغطاء عن وجوه الخطاء».

وممن خالفه الشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي فإنه ألف رسالة في تعقبه وأورد إيرادات شتى على مقالاته، فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن ولي الله العمري الدهلوي، والشيخ غلام علي العلوي الدهلوي وخلق كثير من العلماء والمشايخ، وقيل إن الشيخ نور الحق بن عبد الحق الدهلوي أيضاً خالف أباه في ذلك، بل استفاد الطريقة عن الشيخ محمد معصوم والشيخ محمد سعيد ابني الشيخ أحمد، والمشهور أن الشيخ عبد الحق رجع في آخر عمره عن الإنكار عليه، وكتب في رسالة له إلى الشيخ حسام الدين بن نظام الدين البدخشي الدهلوي أن محبة الفقير في هذه الأيام للشيخ أحمد سلمه الله تعالى متجاوزة عن الحد ولم تبق فيما بيننا الحجب البشرية والغشاوة الجبلية أصلاً، ومع قطع النظر عن رعاية أخوة الطريقة والإنصاف وحكم العقل كيف ينبغي الإنكار والخصومة مع أمثال هؤلاء الأعزة والأكابر! ولقد وقع في باطني شيء أحسه بطريق الذوق والوجدان، يعجز عن تقريره اللسان، سبحان الله مقلب القلوب ومبدل الأحوال ونحن أهل الظاهر يستبعدون ذلك، وإني لا أدري كيف هذا الحال وعلى أي منوال، انتهى⁽¹⁾.

وفي «الكشف الغطاء»: وقد رأيت بخط سند العلماء أفضل الفضلاء مولانا عبد الحكيم السيالكوتي في رد بعض شبهات المحققين على كلامه ـ قدس سره ـ هذه العبارة⁽²⁾ «القدح في كلام الشيوخ على غير مرادهم جهل وعاقبته وخيمة، فرد كلام الشيخ الأجل العارف الكبير الشيخ أحمد إنما هو من السفاهة وقلة الفهم، كتبه الفقير عبد الحكيم» وإن أردت تصديق ذلك فذلك الخط عند إمام العصر الشيخ محمد النقشبندي نجل قدوة الأولياء الشيخ محمد معصوم ـ قدس الله سره ـ **فعليك به**. انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن ولي الله العمري الدهلوي في رسالة له إلى الحافظ صدر الدين الحيدرآبادي: «ولما رسخت هذه المعرفة» التوحيد الوجودي «وتدرج أصحاب العقول الزائغة في طريق الإلحاد، واتخذوا هذه المعرفة الغامضة وسيلة لإبطال الشرائع والتكليفات، وشاع مذهب الشيخ محب الله الإله آبادي الذي ظاهره الإلحاد، وراج رواجاً عظيماً، قيض الله للإصلاح الشيخ الكبير أحمد السرهندي، وألهمه علوماً غريبة ليعتدل الحار بالبارد والرطب باليابس حتى تتزن الأفكار ويزهق الباطل

---

(١) وهذه عبارته الفارسية [illegible] فقير محبة ميان شيخ أحمد سلمه الله از حد متجاوز است أصلاً پرده بشريت وغشاوه جبليت درميان نمانده، نمي داند كه از كجا است قطع نظر از رعايت طريقه انصاف وحكم عقل كه چنين بزرگان را چه بايد بود، ودر باطن بطريق ذوق ووجدان وعلماً چيزي شده است كه زبان از تقرير آن لال است، الله مقلب القلوب ومبدل الأحوال، شايد ظاهر بينان را استبعاد است من نمي دانم كه حال چيست ووجه مآل است، انتهى.

(٢) قدح كردن در سخن بزرگان بي مراد ايشان جهل است ونتيجه بد دارد پس رد كلام مشيخت پناه عارف آگاه شيخ أحمد از جهل وابلهي است، كتبه الفقير عبد الحكيم.

الممزوج بالحق وذلك معنى التجديد هذا ما قيل فيه(١).

ومن إفاضاته القدسية ما قاله في المعارف الصوفية:

اعلم أن معارفهم وعلومهم في نهاية سيرهم وسلوكهم إنما هي علوم الشريعة لا أنها علوم أخر غير علوم الشريعة، نعم تظهر في أثناء الطريق علوم ومعارف كثيرة ولكن لا بد من العبور عنها، ففي نهاية النهايات علومهم علوم العلماء، وهي علوم الشريعة، والفرق بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظرية واستدلالية، وبالنسبة إليهم كشفية وضرورية.

وقال في الشريعة:

اعلم أن الشريعة متكفلة بجميع السعادات الدنيوية والأخروية، ولا يوجد مطلب يحتاج في تحصيله إلى غير الشريعة، وأما الطريقة والحقيقة فهما خادمتان للشريعة، وتحصيلهما لتكميل الشريعة لا غير، وأما الأحوال والمواجيد والمعارف التي تظهر للصوفية في أثناء الطريق فليست من المقاصد، بل هي أوهام وخيالات تربى بها الأطفال فلا بد من العبور عنها في النهاية.

وقال في التوحيد:

اعلم أن التوحيد قسمان: توحيد شهودي، وتوحيد وجودي، والذي لا بد منه هو التوحيد الشهودي الذي يتعلق به الفناء، والتوحيد الشهودي لا يخالف العقل ولا الشرع بخلاف التوحيد الوجودي فإنه يخالفهما ويتضح ذلك بمثال، وذلك أنه قال شخص عند طلوع الشمس واختفاء الأنجم: ليس في السماء إلا الشمس، فهذا القول صحيح لا يخالف العقل ولا الشرع، إذ لا يرى حينئذ إلا الشمس لضعف بصره، فلو أعطى حدة البصر لرأى النجم مع الشمس، بخلاف ما لو قال ذلك قبل طلوع الشمس فإنه يكذبه العقل والشرع وأما أقوال المشايخ التي وردت في التوحيد فلا بد أن تحمل على التوحيد الشهودي حتى لا تخالف العقل والشرع.

يقول الإمام السرهندي في رسالة كتبها إلى الشيخ فريد البخاري.

«إن التوحيد الذي يحصل للصوفية في أثناء سلوكهم ينقسم قسمين:

التوحيد الشهودي، والتوحيد الوجودي. التوحيد الشهودي: عبارة عن رؤية واحد: أي أن لا يكون شهود السالك إلا فرداً أحداً. والتوحيد الوجودي عبارة عن اعتقاد وجود واحد، وفناء كل ما سواه وعدمه.

ثم يقول:

«مثل أن يطمئن قلب إنسان على وجود الشمس، فلا يستلزم استيلاء هذا اليقين أن يعتقد عدم النجوم وفناءها، ولكن هو عندما رأى الشمس ولا يرى النجوم، فإن مشهوده ـ حينئذ ـ ليس إلا الشمس، ولكن رغم ذلك لا يعتقد أن النجوم فانية معدومة، بل يكون على يقين من أنها مختفية ومغلوبة بضوء الشمس وشعاعه»(٢).

وهكذا حقق الإمام السرهندي وأثبت «أن وحدة الوجود» مقام يعرض للسالك خلال السلوك، فيشاهد ـ عند ذلك ـ عياناً وجهاراً أنه لا وجود هناك إلا لواجب الوجود، وكل ما يراه الإنسان من وجود، فهو وجود واحد، وما سواه فليس إلا «تنوعاته وتلويناته» وفي تعبير المتذوقين لهذا المشرب الوجودي «تنزلاته».

ولكن لو حالف التوفيق الرباني، ورافق الهدى النبوي وكان السالك صاحب طموح وعلوهمة، فإنه

---

(١) وهرگاه این معرفت بحته شد رفته رفته در فهم کنمت عارفان طریقه مرده کج فهمان الحاد پیمود وبی معرفت غامضه را وسیله ابطال شرع وتکذیبات نمودند ومذهب شیخ محی الدین به آزادی که ضعفش نمه در وادی إلحاد می زند شیوع نمه وزوح ما لا کلام یافت عنایت خداوندی حضرت شیخ أحمد سرهندی را بر روی کار آورد وعلوم غریبه بریشان القاء نمود من قبیل تعدیل اعتدال بانبارد واثر صفاتیه تا هیئت عندلیه در اذهان مرده جا گیرد وباطل ممزوج بحق از نفع واقعه بدید وهمین است مصداق معنی مجددیت. انتهى ما قيل فيه.

(٢) الرسالة رقم ٤٣ المجموعة الأولى من رسائل الإمام السرهندي.

يفوز بمقام آخر وهو مقام وحدة الشهود(١).

---

(١) وذلك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (م ٧٢٨هـ) وحققه قبل الإمام السرهندي بثلاثة قرون، في رسالته «العبودية» فقال:

«وأما النوع الثالث: مما قد يسمى فناءً فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد، الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ المستقيمون على هدي الكتاب والسنة كالصحابة والأئمة المهتدين (رسالة العبودية ص ٨٨)، ويقول:

«وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به (رسالة العبودية ص ٨٥).

وقد جاءت مثل هذه الإشارات في كلام بعض العرفين السابقين كالإمام الشيخ شرف الدين يحيى المنيري (م ٧٨٦هـ) وغيره، ولكن الذي حمل لواء الإنكار على نظرية وحدة الوجود و «التوحيد الوجودي» الذي ألح عليه ودعا إليه الشيخ ابن عربي ومن كان على مذهبه، وأثبت وحدة الشهود ببراهين ساطعة، وأثبت أن السالك يتوصل إليه بتوفيق الله تعالى والتقدم في السلوك والرياضة. كما اتفق له ولشيخه الشيخ عبد الباقي النقشبندي الدهلوي (م ١٠١٤هـ) فكان لهذا التحقيق والمعرفة رواج وانتشار، وشيوع وازدهار، والفضل في ذلك يرجع إلى الإمام السرهندي رحمه الله وأثابه.

وليكن على بال أنه نشأ هناك بين القائلين بنظرية «وحدة الوجود» والحاملين للوائها والدعاة المتحمسين إليها - في عصر الإمام السرهندي وقبل عصره - عدد كبير من الصوفية المتزعمين الذين تحرروا من كل القيود والحدود الشرعية، وخلعوا ربقة الفرائض، والواجبات الإسلامية، واعتقدوا أن كل شيء من عند الحق بل كله عين الحق، فلماذا هذا التفريق والتمييز بين الحق والباطل والكفر والإيمان والحلال والحرام؟ وأن غاية أنفسهم مقام أسمى وأرفع لا يحظى بها إلا الكاملون الواصلون إلى حضرات القدس وهو مقام وحدة الوجود وقد كانت هذه الصبغة الوجودية - في القرن العاشر، العصر الذي ولد فيه الإمام السرهندي وعقل ووعى ونضج روحياً وفكرياً - هي السائدة في الهند حتى كان الشعراء المتذوقون لهذه المعاني يتغنون بهذه العقيدة، ويساوون بين الكفر والإيمان بل قد يتعدون حدود ذلك إلى ترجيح الكفر على الإيمان وكان الناس يرددون أبياتاً معناها:

«الكفر والإيمان قريبان فمن لم يتمتع بالكفر لم يتمتع بالإيمان».

وقال في وجود الحق وفي سنة سيد ﷺ وما جاء به.

فعلم أن وجود الحق تعالى وكذا وحدته من سنة محمد ﷺ من حسب ما جاء به من عند الله تعالى لا يحتاج إلى فكر ولا دليل، والنظر والفكر فيه ما دامت العلة موجودة والآفة ثابتة. وبعد الصحة من مرض القلب ودفع الغشاوة البشرية لا يبقى غير البداهة. مثلا الصفراوي ما دام مبتلى بعلة الصفراء فحلاوة السكر عنده تحتاج إلى دليل، والأحول يرى الشخص الواحد اثنين ويحكم بعدم وحدته فهو معذور، ووجود الآفة فيه لا يخرج وحدة الشخص من البداهة ولا يجعله نظرياً، ومعلوم أن مبدأ الاستدلال ضيق واليقين الذي يحصل من طريقة الأدلة متعسر جداً، فلا بد من تحصيل الإيمان اليقيني من إزالة المرض القلبي، كما أن السعي في إزالة علة الصفراء للصفراوي لتحصيل اليقين له بحلاوة السكر أهم من السعي في إقامة الأدلة لتحصيل اليقين بحلاوته. فكذلك ما نحن فيه فإن النفس الأمارة منكرة بالذات للأحكام الشرعية ومحكمة بالطبع بنقيضها، فتحصيل اليقين بهذه الأحكام الصادقة بالأدلة مع وجود إنكار وجحود النفس متعذر جداً. فلا بد في تحصيل اليقين من تزكية النفس، وتحصيل اليقين من غير تزكيتها صعب لأنه ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾، فعلم أن منكر هذه الشريعة الباهرة والنعمة الظاهرة معذور مثل منكر حلاوة السكر.

---

* ثم قال في بعض الكتب شرحاً لهذا البيت وبيتاً بعده:
البيت من تحت الإسلام في الكفر، والكفر في الإسلام
يعني «[illegible] حسن في [illegible]، [illegible] في [illegible]» [illegible]
[illegible] هو الكفر [illegible] الإسلام»
ويقول في موضع آخر بيتاً معناه:
«العشق مع الكفر صنعة وقرابة، الكفر يتحلى في عشق
الإشراق والمشرق»

هذه هي الخلفية الحضارية التي حمل الإمام السرهندي على كتفه مسؤولية محاربة هذه العقيدة، وقد وهبه الله قسطاً كبيراً من الحكمة الدينية الحاذقة، والغيرة العمرية الشديدة، وحتى كانت تتحقق به تلك السنة العظيمة في الحديث المشهور، التي قيل فيها: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (المشكاة، مصابيح، كتاب العلم، الندوي).

والمقصود من السير والسلوك وتزكية النفس وتصفية القلب إزالة الآفات المعنوية والأمراض القلبية، كما قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾. حتى يتحقق بحقيقة الإيمان، فإن وجد الإيمان مع وجود هذه الآفات فهو بحسب الصورة فقط، فإن وجدان الأمارة حاكمة بخلافه ومصرة على حقيقة كفرها. ومثل هذا الإيمان والتصديق الصوري مثل يقين الصفراوي بحلاوة السكر، فإن وجدانه شاهد بخلافه. لكنه لا يحصل اليقين الحقيقي بحلاوة السكر إلا بعد إزالة مرض الصفراء، فكذلك لا تحصل حقيقة الإيمان إلا بعد تزكية النفس والاطمئنان، وحينئذ يكون وجدانياً. وهذا القسم من الإيمان محفوظ من الزوال. ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ صادق في شأنهم. شرفنا الله تعالى شرف هذا الإيمان الكامل الحقيقي.

وقال في فضل الطريقة النقشبندية:

اعلم أن طريقة الخواجگان - قدس الله أسرارهم - مبنية على اندراج النهاية في البداية. قال الشيخ النقشبند: نحن ندرج النهاية في البداية، وهذه الطريقة بعينها طريقة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن الصحابة تيسر لهم في بداءة صحبتهم مع النبي ﷺ ما لم يتيسر لغيرهم في نهايتهم، فلهذا لما تشرف وحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما في بداية إسلامه مرة بصحبة النبي ﷺ كان أفضل من أويس القرني الذي هو خير التابعين، فالذي تيسر لوحشي في بداءة تلك الصحبة ما تيسر لأويس القرني في نهايته.

وقال في بيان أن الجذبة التي قبل السلوك ليست من المقاصد:

اعلم أن للوصول طريقتين: الجذبة، والسلوك، وبعبارة أخرى: التزكية، والتصفية. والجذبة التي قبل السلوك ليست من المقاصد، والتصفية التي قبل التزكية ليست من المطالب، والجذبة التي تكون بعد تمام السلوك، والتصفية التي تكون بعد حصول التزكية الكائنة في السير في الله من المقاصد المطلوبة، فالجذبة والتصفية السابقة لأجل تسهيل السلوك على السالك، وبدون السلوك لا ينال المطلوب، وبلا قطع المنازل لا يظهر جمال المحبوب، فالجذبة الأولى كالصورة للثانية وفي الحقيقة لا مناسبة بينهما، فالمراد من اندراج النهاية في البداية اندراج صورة النهاية وإلا فحقيقة النهاية لا تسعها البداية - وتحقيق هذا المبحث مفصل في رسالة الجذبة والسلوك، فلا ينبغي الاكتفاء عن الحقيقة بالصورة بل لا بد من العبور عن الصورة إلى الحقيقة - انتهى ما في المعربات للشيخ يونس ملخصاً.

أما بيان وحدة الوجود ووحدة الشهود:

أما بيان وحدة الوجود على ما ذكره الشيخ الأكبر وأتباعه ووحدة الشهود على ما ذكره الشيخ أحمد والفرق بينهما فيلخص ذلك من المكتوب المدني للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي يتضح لك ما قيل فيه:

اعلموا أن وحدة الوجود ووحدة الشهود لفظتان تطلقان في موضعين، فتارة تستعملان في مباحث السير إلى الله عز وجل فيقال: هذا السالك مقامه وحدة الوجود، وذلك مقامه وحدة الشهود، ومعنى وحدة الوجود ههنا الاستغراق في معرفة الحقيقة الجامعة التي تعين العالم فيها بحيث تسقط عنه أحكام التفرقة والتمايز التي معرفة الخير والشر مبنية عليها، والشرع والعقل مخبران عنها مبينان لها أتم بيان وأوفى إخبار، وهذا مقام يحل فيه بعض السالكين حتى يخلصه الله تعالى منه، ومعنى وحدة الشهود: الجمع بين أحكام الجمع والتفرقة، فيعلم أن الأشياء واحدة بوجه من الوجوه كثيرة متباينة بوجه آخر، وهذا المقام أتم وأرفع من الأول، وهذا الاصطلاح مأخوذ من بعض أتباع الشيخ آدم البنوري قدس سره».

ومما يدل على شدة تمسكه بالشريعة الغراء وغيرته عليها أشد الغيرة، واستنكافه عن كل ما عارضها من أقوال الصوفية وكلام المشايخ، ما جاء في رسالة له إلى معاصر كتب إليه أن الشيخ عبد الكبير اليمني قال:

«إن الله عليم بالكليات فقط» فقال في الرد عليه:

«يا سيدي! إن هذا الفقير لا يكاد يحتمل سمع مثل هذا الكلام، إن عرقي الفاروقي ينبض عند ذلك، سواء كان ذلك كلام عبد الكبير اليمني أو محيي الدين ابن

عربي، نحن في حاجة إلى محمد العربي لا ابن عربي، إن الفتوحات المدنية[١] أغنتنا عن الفتوحات المكية[٢] عمدتنا النص لا الفص[٣].

وقد أنكر وجود بدعة حسنة، وقال: إن رسول الله ﷺ أطلق القول فقال: كل بدعة ضلالة، فلا يستثنى من هذا الإطلاق بدعة، وله رسائل قوية واضحة في الإنكار على أعمال شركية وتقاليد وعادات تسربت في مسلمي الهند عن أهل البلاد الوثنيين[٤].

وكانت وفاة الشيخ أحمد المجدد لليلتين بقيتا من صفر سنة أربع وثلاثين وألف بمدينة سرهند، فصلى عليه ابنه محمد سعيد ودفنه بها، وقبره هناك مشهور.

٧١ - الشيخ أحمد بن عبد الله الحضرمي

الشيخ العالم الفقيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله الشافعي الحضرمي الحيدرآبادي، أحد من يشار إليه في العلم والمعرفة، ذكره الشلي في «المشرع الروي» قال: إنه حفظ القرآن عن الشيخ عبد الله بن عمر باغريب، ثم حفظ عدة متون في عدة فنون، وأخذ عن كثير من علماء عصره، فأخذ عن والده الحديث والفقه والتصوف وألبسه الخرقة الشريفة، وأخذ عن الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب، وصحب السيد زين بن محمد باحسن الجحبي والسيد محمد بن أحمد الشاطري وغيرهم، وجد في الطلب حتى ملك أعنة المحاسن، ثم اشتاق إلى الشهرة في البلاد فكان أول رحلته إلى حضرة خاله الشيخ جعفر الصادق فلازمه زماناً بأحمدآباد، ثم توجه إلى بلاد الدكن ولازمه بعض الأمراء، فمكث عنده إلى أن انقضت مدة ذلك الأمير وأقام في تلك البلاد، وكان كثيراً ما يتبع قوله بفعله، ما خاب من أمه ببره وقصده، وجمع من الأدب والفقه والحديث وغيرها من الفضائل، ودرس فأفاد الطالبين، وسلك بالمريدين سبيل المشايخ الأقدمين، وله نظم ملك فيه زمام البلاغة والفصاحة مع الفهم الجيد في معاني السنة والكتاب، ومعرفة تامة باللغة والإعراب، ولم أقف على منظومه ولا منثوره. انتهى.

مات سنة ثلاث وسبعين وألف بحيدرآباد فدفن بها في فناء المسجد قوة الإسلام كما في «المحبوب ذي المنن».

٧٢ - السيد احمد بن عبد اللطيف البلكرامي

الشيخ العالم: أحمد بن عبد اللطيف بن محمود الأصغر الحسيني الواسطي البلگرامي، كان ينتسب إلى عمه عبد الله بن محمود لأنه رباه وتبناه فاشتهر بتلك النسبة ونقش على خاتمه «أحمد بن عبد الله»، وكان كثير الفضائل حسن الشمائل حسن الخط ماهراً في الحساب، لم يزل يشتغل بالكتابة بعد صلاة الإشراق، وقد قلد الحكومة في بهسوه من قرى مكره خان بن

---

(١) إشارة إلى الرسالة المحمدية والشريعة الغراء التي استفيدت منها.

(٢) كتاب الشيخ ابن عربي المشهور.

(٣) إشارة إلى كتاب الشيخ محيي الدين ابن عربي «فصوص الحكم».

(٤) يرجع إلى قصة مقاومة الإمام السرهندي لثورة الملك «أكبر» على الإسلام ومحاولة توجيهه للبلاد إلى وحدة الأديان، والانتصار للديانة البرهمية، والحضارة الهندية القديمة البائدة، وعدائه لشعائر الإسلام، وإنكاره أنه هو الدين الخالص الذي لا يقبل الله سواه، وتقريبه للبراهمة، والقساوسة، والملحدين، وتحريمه ذبح البقرة إرضاءاً للهنادك عباد البقر، والعقوبة عليه بالإعدام، وتحليله للخمر تباع وتشرب، وكراهيته لتسمية الابن محمداً، إلى غير ذلك مما يدل على بغضه للإسلام، وشعائره، وقضاء الإمام السرهندي على خطر الردة العقائدية والحضارية على بلاد الهند والشعب المسلم، وأسلوبه الحكيم في هذه المقاومة، ونجاحه المنقطع النظير في إبقاء هذا القطر والأمة على الإسلام وعقيدته وشعائره، ونجاحه في جهوده، حتى خلف الملك أكبر شاه التيموري، ابنه الملك نور الدين جهان گير وهو أحسن منه حالاً، وأسلم ديانة وعقيدة، وخلفه الملك شهاب الدين شاهجهان (باني تاج محل) وهو أقوى منه ديانة وأكثر منه صلاحاً، وخلفه الملك المسلم، المصلح المجاهد، الملك محيي الدين عالمگير اورنگ زيب، الذي لقبه بعض المؤرخين العارفين بسادس الخلفاء الراشدين (يرجع في ذلك إلى ترجمته في هذا الكتاب) والفضل في كل ذلك يرجع بعد توفيق الله تعالى وأمره إلى جهود الإمام السرهندي وأنجاله وأحفاده.

يرجع في كل ذلك إلى الجزء الثالث من كتاب صاحب التعليق (رجال الفكر والدعوة في الإسلام الجزء الثالث الخاص بالإمام السرهندي) طبع دار القلم الكويت. (الندوي).

۹۴۰

أبو الحسن علي الحسني الندوي

رجال الفكر والدعوة
في الإسلام

MAKTABA MUJJADDADIA NAEEMIA
ESTB. 1960
MALIR
KARACHI
PAKISTAN

الإمامُ السَّرْهنْدِيّ
« حياته وأعماله »

الجزء الثالث

دار ابن كثير
دمشق . بيروت

۷۴۴۴

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى
الخاصة بدار ابن كثير
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

وزارة الأعلام - مديرية الرقابة رقم: ٤٣٤٠٢
تاريخ: ٢/ ١٢/ ١٩٩٨م

دار ابن كثير
دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي
ص.ب: ٣١١ - تلفون: ٢٢٢٥٨٧٧ - ٢٢٤٣٥٠٢
بيروت - برج أبي حيدر - خلف دبوس الأصلي
ص.ب ١١٣/٦٣١٨ - تلفون ٨١٧٨٥٧ - ٠٣/٢٠٤٤٥٩

٤٣٣٥

فهرس الموضوعات

بين يدي الكتاب ٥

الباب الأول

العالم الإسلامي في القرن العاشر ١٩

الوضع السياسي ٢٠

الوضع الديني والروحي ٢٥

الوضع العلمي ٣٥

الاضطراب في الأفكار ٤٠

المهدوية ٤٩

أسباب القلق والفوضى في الأفكار ٥٤

فتنة القرن العاشر الكبرى ٥٨

الباب الثاني

عهد الملك أكبر والفترتان المتعارضتان في حياته ٦٨

تحول في نفسية الملك أكبر وطبيعته ٧٥

المقارنة بين الديانات والبحث فيها ٧٧

مسؤولية علماء البلاط ٨٢

علماء البلاط ٨٤
أركان الدولة ومستشارو البلاط ٨٩
ملا مبارك وولداه ٩٠
تأثير زوجات الملك الهندكيات ١٠١
مذكرة الاجتهاد والإمامة ١٠٢
نظرة على هذه المذكرة ١٠٣
سقوط مخدوم الملك ١٠٥
الإعداد للألف الثاني ١٠٦
أوج الانحراف الطبيعي والضلال الديني ١٠٨
عبادة النار ١٠٨
عبادة الشمس ١٠٨
ماء نهر «كنكا» ١٠٩
الرسم والتصوير ١٠٩
مواقيت العبادة ١١٠
سجدة التحية والعظيم ١١٠
البيعة والسلوك ١١٠
آداب المقابلة ١١٠
كراهية التاريخ الهجري ١١١
الأعياد والمهرجانات غير الإسلامية ١١١
فرمان منع الزكاة ١١٢
أكل اللحوم ١١٣
الخنزير ١١٤
شرب الخمر ١١٤
التقاليد والطقوس الهندية ١١٤
إنكار المعجزات ١١٤
استنكار الختان وكراهيته ١١٥

٩٣٣

قوانين الزواج ١١٥
رؤية السلطان ١١٥
إعلان التقويم الإلٰهي ١١٥
الازدراء بالدين الإسلامي ١١٦
السخرية من الإسراء والمعراج ١١٦
إهانة مكانة النبوة ١١٧
النفور من أسماء النبي ١١٧
المنع من الصلاة ١١٧
الاستهزاء بأركان الإسلام ١١٨
مفترق صعب خطير في تاريخ الهند ١١٨

الباب الثالث

مجدد الألف الثاني الإمام السرهندي ١٢٠
العارف الشيخ عبد الأحد السرهندي ١٢٤
ولادته وقصة حياته ١٢٨
استكمال التربية والسلوك ١٣١
البيعة والتكميل الباطني ١٣٧
شهادة الشيخ المرشد ١٤٠

الباب الرابع

أهم الأحداث وسنة الوقائع ١٤٢
الإقامة بسرهند ١٤٢
رحلته إلى لاهور ١٤٣
التنظيمات الواسعة للدعوة والتبليغ ١٤٤
موقف السلطان جهانكير مع الإمام ١٤٦
أسباب اعتقاله في كواليار ١٥٠
الإقامة الجبرية ١٥٢

A-59 (11) امام ربانی

٢٣٨ھ

إحياء سنة سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ ١٥٤

لذائذ ومواهب وراء الأسلاك ١٥٥

الإمام في عسكر السلطان ١٥٧

التأثير على جهانكير ١٥٨

دنو الأجل والاستعداد له ١٥٩

عاداته وشمائله ١٦٣

حِليته وصفته ١٧٠

أبناؤه الأماثل ١٧١

الباب الخامس

تجديد الإيمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية ١٧٣

ما هو العمل التجديدي الذي قام به الإمام ١٧٣

إعادة الثقة والإيمان ١٧٧

عجز العقل والكشف وإخفاقهما ١٨٠

التساؤلات الأساسية ١٨٢

الخَطوة التجديدية في نقد العقل ١٨٣

قصور العقل وعجزه ١٩٠

سفاهات حكماء اليونان ١٩٠

لا كفاية لدى العقل في إدراك الحقائق الدينية ١٩٦

طور النبوة وراء طور العقل ١٩٦

لا يمكن حياد العقل وتجرده ١٩٧

أصحاب الإشراق وصفاء النفس ٢٠١

شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي ٢٠٣

العقل والكشف راكبا سفينة واحدة ٢٠٥

الخلط في الكشف ٢٠٦

التعارض بين تعاليم الفلاسفة ، وهدي الأنبياء ٢٠٧

لا تمكن التزكية الحقيقية بغير البعثة النبوية ٢١٠
الحاجة إلى بعثة الأنبياء ، وعدم كفاية العقل ٢١٠
البعثة هي الوسيلة لمعرفة ذات الله ٢١١
لا طريق إلى معرفة الله ـ تعالى ـ إلا الأنبياء ٢١٢
الوضع الصحيح في الترتيب والتدريج ٢١٢
المصدّق برسالة الانبياء من أصحاب الاستدلال ٢١٣
إخضاع أخبار الأنبياء للعقول إنكار للنبوة ٢١٣
فرق كبير بين ما يعارض العقل وما يكون وراء طوره ٢١٤
معرفة طريق الله محصورة في النبوة ٢١٤
مكانة النبوة وراء العقل ٢١٥
الأنبياء أفضل موجود ٢١٧
لا يحول توجه الأنبياء إلى الخلق دون توجههم إلى الحق ٢١٨
باطن النبي مع الحق ، وظاهره مع الخلق ٢١٩
الرد على من يقول: «بدايات الأولياء» ٢١٩
اقتصار دعوة الأنبياء على عالم الخلق ٢٢٠
في اتباع النبوة تحقيق التقرب ٢٢٠
مقامات الولاية لا شيء إزاء مقامات النبوة ٢٢١
وجه إصابة علوم العلماء وتحقيقاتهم ٢٢١
عظمة الأنبياء ٢٢٢
الإيمان بالغيب نعمة ٢٢٣
نزول الأنبياء دليل ٢٢٤
حماية الشريعة ٢٢٤
محاربة العقائد والتقاليد وشعائر أهل الجاهلية ٢٣٦
تعظيم مظاهر الشرك والوثنية ٢٣٧
الاستعانة بغير الله ٢٣٨
سيتله ٢٣٨

تعظيم أعياد الكفار والمشركين ٢٣٨
النذور وذبح القرابين للأولياء ٢٣٩
نذر الصيام ٢٣٩
النهي عن سجدة التحية ٢٤٠
رسالة إلى الشيخ نظام ٢٤١
نشر السنة ٢٤٢

الباب السادس

وحدة الوجود أو وحدة الشهود؟ ٢٥١
الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ٢٥١
شيخ الإسلام ابن تيمية ونقد عقيدة وحدة الوجود ٢٥٥
غلاة الدعاة لعقيدة وحدة الوجود ٢٥٧
عقيدة وحدة الوجود في الهند ٢٦٠
الشيخ علاء الدولة السمناني ٢٦١
وحدة الشهود ٢٦٢
الحاجة إلى شخصية تجديدية ٢٦٤
مركز الإمام السرهندي ٢٦٥
التجربة والمشاهدة الشخصية ٢٦٦
التوحيد الشهودي ٢٦٩
الرأي الوسط العادل عن الشيخ الأكبر ٢٧١
الحاجة إلى معارضة وحدة الوجود ٢٧٢
ميزة الإمام السرهندي وعبقريته ٢٧٥
موقف العلماء والمشايخ تجاه نظرية وحدة الوجود ٢٧٦
الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ٢٧٦

الباب السابع

جهود الإمام الذؤوبة الصامتة ٢٧٨

العلماء والمشايخ الشجعان الصرحاء ٢٧٨
ميزة الإمام السرهندي من بين هؤلاء ٢٨٢
جلوس السلطان جهانكير على عرش الدولة واستئناف الإمام عمله التجديدي ٢٨٣
المنهج الصحيح ٢٨٤
ما صدر من القلب نفذ إلى القلب ٢٨٩
الرسائل الدعوية ٢٩٠
المعجبون بالإمام السرهندي ٣٠١
تأثير الإمام الشخصي ٣٠٢
تأثر السلطان جهانكير ٣٠٣
عهد السلطان شاهجهان ٣٠٥
ولي العهد دارا شكوه ٣٠٨
السلطان محيي الدين وحميته الدينية ٣١٠

الباب الثامن

قيام خليفتي الإمام السرهندي ٣٢٣
مشاهير خلفائه ٣٢٣
الشيخ محمد معصوم السرهندي ٣٢٥
الشيخ آدم البنوري ٣٢٦
السلسلة المجددية المعصومية ٣٢٨
الشيخ سيف الدين السرهندي ٣٢٨
من الشيخ محمد زبير إلى الشيخ فضل رحمن ٣٣٠
الشيخ مرزا مظهر جان جانان ٣٣٤
الشيخ خالد الرومي ٣٣٦
الشيخ أحمد سعيد وخلفاؤه ٣٣٨
الشيخ عبد الغني ٣٤١

MAKTABA MUJADDADIA NAEEMIA MALIR KARACHI PAKISTAN

السلسلة الأحسنية ٣٤٣
الشيخ السيد علم الله ٣٤٤
الشيخ سلطان البليلوي ٣٤٦
الشيخ الحافظ السيد عبد الإله الأكبر آبادي ٣٤٦
الإمام أحمد بن عرفان ٣٤٨
مؤلفات الإمام السرهندي ٣٥١
الفهارس العلمية ٣٥٣
فهرس الآيات القرآنية ٣٥٤
فهرس الأحاديث النبوية ٣٥٩
فهرس الأعلام ٣٦١
فهرس الشعر ٣٧٦
فهرس الأماكن والبقاع ٣٧٧
فهرس الأمم والقبائل ٣٨٣
فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب ٣٨٤
فهرس الموضوعات ٣٩٢

سبحان الله وبحمده


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم
١٤٠٧

كلما سطرت سطرا ❁ ضاع من عمري سطر ❁

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مرقعات

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

۱...... مخطوطہ مجموعہ رسائل شیخ عبدالاحد:

۱...... رسالہ فیض العام
۲...... رسالہ الجنات الثمانیہ
۳...... رسالہ بدایع شرایع
۴...... رسالہ من الآثار فی قرأۃ النبی المختار
۵...... رسالہ برہان الجلی فی فضل الذکر الخفی
۶...... رسالہ اسرار الجمعہ
۷...... رسالہ نفی الاشارہ فی الصلوٰۃ

۲...... مخطوطہ: رسالہ وثیقۃ الابرار (صفحہ اول ودوم وآخر)
مصنفہ، فقیر اللہ بن عبدالرحمٰن الحنفی القرشی الہاشمی، مؤلفہ ۱۱۶۵ء،
مکتوبہ فرید الدین محمد منگریو، شکار پور (سندھ)
(عطیہ، پروفیسر پیر نثار احمد جان سرہندی، میرپورخاص، سندھ ۲۰۰۶ء)

عبدالاحد مجموعہ الرسایل الشیخ

شیفتہ عربیہ ٢/٦٥

LYTTON LIBRARY
ALIGARH
M.O. COLLEGE

University Library,
Aligarh
SHAIFTA COLLECTION

٢٥/٧٢

رسالة فيض عام من تصنيف الامام الالهام المحبوب سبحانه [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فهذه رسالة شريفة مشتملة متعلقة بكل شهر من شهور السنة القمرية مخبرة عما فيها من العبادات والادعية وفضائل الخيرات البهية مشعرة بسائر المواسم الدينية والمراسم الشرعية المحررة في كتب الحديث والفقه والتفسير السنية ولما كان الكتاب المستبين برهان شرح مواهب الرحمن للعلامة ابراهيم الطرابلسي متفقا معتمدا في المذهب بنيت رسالتنا عليه وزدنا فيها اشياء مقتبسا من الروايات والحكايات ولطائف النكات من المعتبرات [illegible] نسخة جامعة للخيرات مغنية عن المطولات ولما كانت نافعة لسائر الانام [illegible] سميتها فيض عام وهو تاريخها عند الكرام وفيها اثنا عشر روضا وفي كل روض منها من النجوم ما يناسبها بالخاتمة فيها بعض المسائل الناشية من الشهور الشمسية وبعدها حسن خاتمة في ايراد موعظة من المعارف العالية وانا الفقير الراجي الى كرم الله الحميد عبد الاحد بن خازن الرحمة شيخ محمد سعيد قدس سره والحمد والصلوة والسلام على ماحي الدلجة والسراج صاحب التاج واله ما دامت النجوم في البروج سائرة والشهور في الدهور دائرة [illegible] البروج في [illegible] رمضان اسمها سمي به لانه صادق الامام بحر الشدة والرمضاء الحر [illegible] وهو متضمن [illegible] سبعة نجوم الاول في فضله كما قال عليه السلام انه ما الشهر [illegible] امانة [illegible] عشرة [illegible] فرضا [illegible] صيام نهاره [illegible] عشره واخره [illegible] وجعل فيه ليلة خير من الف شهر وفيه تفتح ابواب الجنان [illegible] تغلق ابواب النيران [illegible] من النار وفيه [illegible]

[illegible] عذاب [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] الامام الرازي في تفسيره [illegible] ان [illegible] ابراهيم [illegible]

في ابتداء [illegible] رمضان [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] بعد [illegible]

الهجرة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

بعد الهجرة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] وعشرين [illegible] وكان [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من [illegible] الهجرة [illegible]

[illegible] [illegible] الى [illegible] [illegible] [illegible] في عشرين شهرا [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الى الصوم

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الاول [illegible]

[illegible] [illegible] قال [illegible] الاول [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] صوم [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] القبلة [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] وشرط [illegible] [illegible]

والعلماء [illegible] [illegible] الشافعي [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الفجر [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الزوال [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الشافعي [illegible] رمضان [illegible]

[illegible] رمضان

[illegible] اعتبارات پیدا شده است و در مرتبهٔ مدلول چون آن مجال مفقود است [illegible]
انبساط حسی پیدا کرده است ماضی و استقبال را گنجایش نیست [illegible]
مفهوم گفته اند که مدینه واحده را باعتبار وجود خارجی [illegible]
و باعتبار وجود ذهنی صفات متعدده در شیء واحد متباینه [illegible]
باعتبار تغایر وجود و هویت جایز باشد در دال و مدلول که فی الحقیقة [illegible]
[illegible] بطریق اولی مجوز شد و آنکه گفته شد که ازل و ابد [illegible]
است از تنگی عبارت است و الا آن نیز آنجا گنجایش ندارد [illegible]
رنگ زمان آنجا ثقیل است باید دانست که هر کس در مقامات [illegible]
جا سلطنت [illegible] دایره زدن بیرون می نهد ازل و ابد را [illegible]
حضرت خاتمیت در شب معراج رسالت خاتمیت علیه و علی آله [illegible]
والتحیة در شب عروج در مقامات عروج یونس [illegible]
حضرت نوح موجود بود علیهم الصلوة والسلام و اهل بهشت را در بهشت
دیده و دوزخیان را در دوزخ دیده و بعد از پانصد سال که نصف یوم [illegible]
دخول بهشت عبدالرحمن ابن عوف که از اغنیای صحابه است علیهم الرضوان [illegible]
درآمد و حضرت بیشتر از درآمدن او رسیدند او را از عقبات [illegible]
خبر دادند و این همه در یک آن مشهود گشته مضی و استقبال را گنجایش نبود [illegible]
حقیر در بعضی از اوقات بصدقهٔ حبیب الله علیه الصلوة والسلام آن ثابت
شده بود ملائکه را در عین سجود یافت که بحضرت آدم میکردند و هنوز از سجده
سر برنداشته بودند و ملائکه علیین را از آن جماعه جدا دیده که [illegible] سجده

تمت

[illegible] که [illegible]

[illegible] مشهود گشته [illegible] واقعه [illegible] سلسل

احوال [illegible] محافظه [illegible]

کاینجا [illegible] مشهود [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] احسن [illegible]

[illegible]

الروح والبصر [illegible]

المنزه من [illegible] والمکان [illegible]

لم یکن [illegible] الاعیان جمال [illegible]

[illegible]

[illegible] المقام [illegible]

وقدمت [illegible] المسیح [illegible] حضرت مجدد [illegible]

الهام حجة الله على الانام محبوب الصمد

سیدنا ومولانا شیخ عبد الاحد

[illegible] عفی عنه [illegible]

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك يا من يبعث على راس كل مائة سنة من هذه الامة من يجدد لها دينها
وزاد في كل آن وشان لشموس الهداية ونجوم الكرامة تنويرا وتجديدا
صل وسلم وبارك وكرم على سيد الانام وصحبه الكرام ما ركع راكع لله
وخشع خاشع بالمقام اما بعد فيقول اضعف البرية عبد الاحد بن الشيخ محمد
سعيد خازن الرحمة العمرية قدس نفسه العلية لما فزت بزيارة الحرمين
الشريفين زادهما الله بهجة وكرامة مع امام العصر وقطب الدوران
محمد نقشبند خلف قدوة العارفين غوث الواصلين الشيخ محمد معصوم قدس
سره وتشرفت بادراك صحبة الكرام فيها التمس جمع منهم ان اؤلف رسالة
مشتملة على احوال جدي المجدد للالف الثاني القطب الرباني الشيخ احمد الفاروقي
النقشبندي السرهندي قدس الله سره السامي حيث تكون تذكرة
لاصحابه وتبصرة لاحبابه فاستخرجت من مقامات الفارسية التي صنف
احد الثقات مثل الفاضل الكامل الشيخ بدر الدين السرهندي والله يرحم
احقق جوابه ثم سميتها تشنيع البرية بنفوس رسالة حاوية لما لا بد منه من احواله
مشتملة على جنبات ثمانية وخاتمة وحسن خاتمة الجنبة الاولى في البشارات
التي صدرت بوجوده المسعود قبل ظهوره الثانية في بيان ميلاده ونسبه الثالثة
في انتسابه في سلاسل المشايخ الكرام قدس اسرارهم الرابعة في طريقته
وسنده في الحديث وعلم القراءة وغيرها الخامسة في ذكر مصنفاته السادسة
في ذكر كراماته السابعة في ذكر بعض كلماته الطيبة المتضمنة لمكاشفاته العلية الثامنة

في والشبهات الواردة [illegible]

[illegible]

[illegible]

الاولى في الشبهات الواردة [illegible]

والافتراق [illegible]

ان [illegible]

[illegible]

كذلك [illegible]

المهدي [illegible] لم يطلع عليه [illegible]

العلم [illegible] فان [illegible]

[illegible] النبي صلى الله عليه وسلم [illegible]

فان [illegible] الكتاب [illegible] هذا الحديث

واخرج ابن [illegible]

[illegible]

وانت خبير [illegible]

في مكتوبه [illegible]

هذا اشارة الى انه [illegible]

والطريقة [illegible]

الذي [illegible] الاسلام احمد [illegible]

[illegible] كتاب الميزان [illegible] وقال عليه الصلوة والسلام [illegible]
[illegible] اذا خرجت [illegible] من [illegible] القوم فيها قسيس [illegible]
[illegible] تعالى كتب هذه [illegible] لاجل [illegible]
[illegible] وكان في ذلك الموضع [illegible] عليه السلام وكان [illegible]
[illegible] امور [illegible] له مقبول عند والده او سبط محبوب عند جده [illegible]
عليه [illegible] من معارف المجد قبل الاجابة اذ ذاك فان رسول الله صلى الله عليه [illegible]
نزل اليوم على [illegible] ومعارف [illegible] كمثل السلطان ينزل على امير [illegible]
نبي [illegible] فيه [illegible] ثم خاطبني صلى الله عليه [illegible]
من اسرار [illegible] ما يجري فيه [illegible] ودرايته عليه الصلوة والسلام يقول انا
اشفع يوم القيمة لجماعة من المذنبين اسود وجههم هذا الشيخ [illegible] حتى [illegible]
الاعيان بالامن والامان ثم يجي [illegible] جماعة اخرى [illegible]
ثم هكذا وهكذا اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على النبي الاكرم [illegible]
قاب قوسين او ادنى واله البررة وصحبه التقى

اما قربت [illegible] المروة
ارباب الصفا سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله
رب العالمين
هذه الرسالة
[illegible]
[illegible]
تم تم
تم

[illegible]

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى [illegible]

قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله [illegible]

[illegible] رسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة [illegible] وصوم رمضان رواه [illegible]

[illegible] فان قلت ما [illegible]

[illegible]

[illegible] فان قلت ما [illegible]

[illegible] قلت ليس [illegible]

[illegible] فان قلت ما [illegible]

[illegible] قلت [illegible]

[illegible]

فان قلت ما السر في تقديم الوضوء على الصلوة قلت [illegible]

[illegible] فلما كان ههنا ان العبد اذا اراد الدخول [illegible]

[illegible] فان قلت ما السر في [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] قلت لما كان العبد [illegible]

[illegible]

احراره [illegible] في نفسه حظا لحقارته المستحيي الذي لا يليق بحضرة المعبود

في ذكر ما اثنى به على المولى وكبريائه وعظمته احتاج الى التوسل التعرض [illegible]

واقرار بانه لا يعبد غيره فقيل قل اياك نعبد ثم لما راى اخلاص العبادة

ورجع عن طوقه احتاج الى اعانة المولى عليه ليتم ذلك باحسن وجه وقيل واياك نستعين

ثم لما استعان بالمولى ورجى الاجابة سأل ان يسأل الهداية والثبات

بقربه وان يهدي صراط المستقيم ويوكد ذلك بوسيلة من سبق عليهم

ورافقه السرمدية واستنزل رحمته بذكر فضله عليهم النعمة وخاضعا بهم السنة فقيل

اهدنا الصراط المستقيم الاية فان قلت ما السر في ختم السورة قلت لما فرغ من

رجع الى ثنا مولاه وذكره ليكون المبدا والمعاد اليه ولان الدعاء الوارد

يرجى ان يكون مقبولا غاية المال الكريم اذا اتقبل الاول والاخر لا جرم يتقبل

ما بينهما ان يرد [illegible] في ملال من الحضرة اكرمه واقدم عليه لحجوا

فان قلت ما السر في اختيار قراءة القران بالقيام دون الركوع والسجود قلت

لما قام العبد بين يدي المولى وجب عليه ثناؤه باحسن الثنا وليبسط وسعه فقدر

عليه بكلامه الذي هو على نعوته [illegible] بكلامه التام في جميع الاحكام ثم لما ادركن اخر

ذكره بنوع اخر اظهارا بان جميع مراتب الانسانية وهي [illegible] مختصة بحضرته المتعالية

التكبير لا نتقالات حالا فدل انه اكبر من ان يعبد حق العبادة تسبيح الركوع [illegible]

ما حصل الكمال في مقام من [illegible] والوصال ما توهم [illegible] فهو شيء [illegible]

مطلوب عينا بحسنه [illegible] فهو خطير فقدسه ما يستلزم النزول التكليف

فان قلت ما السر في افتراض الركوع قلت لما كان الكريم مقبولا مرضيا عند المولى

يتحقق به العبد المعشوق [illegible] بالقلوب النظر بحسب [illegible] من مولاه [illegible]

لا كا [illegible]

عان

فان قلت [illegible] في اقراره قلت لا بد [illegible] [illegible] كونه [illegible]
البينونة الاشيائية [illegible] ليس [illegible] وهو اعم [illegible] البعد عنه [illegible]
نفس من احاطته فان قلت ما السر في [illegible] قلت [illegible]
الصور [illegible] غاية الا [illegible] وانه كالمشيمة [illegible] قيود فان
[illegible] الشرك [illegible] واحديته [illegible] اشارة الى الجهة
الى ان تشكيك [illegible] بحجبها [illegible] بعض الكمال التي
[illegible] ذلك الا به
[illegible] الطبيعي
[illegible] يكون [illegible] الى الكل
[illegible] من الامور الثلاثة [illegible] الالهي [illegible]
[illegible] قلت [illegible] عليكم
[illegible] الا انه
فان قلت ما السر في اقتران [illegible] الجمع [illegible]
في تحقق الصورة [illegible] بان يكون الجميع
منتقلا بصفة الالوهية [illegible] في الاعمال [illegible]
بلا بركة [illegible] الموازين على جميع ما نقلت [illegible] الشريعة الكبرى والصلاة
على من [illegible] الهدى [illegible] التزم متابعة
المصطفى [illegible] وعلى آله من
الصحابة [illegible]
ومن التابعين
الكاملين
تم

رب يسر [illegible] بسم الله الرحمن الرحيم [illegible]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيقول العبد الراجي الى رحمة ربه الحميد عبد الله [illegible] ابن العارف بالله الشيخ محمد سعيد [illegible] هذه مختصر [illegible] مشتمل على ما ورد من الآثار في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والأتباع [illegible] الى دار القرار وبالله التوفيق [illegible] أخرج [illegible] الصحيفة الأولى [illegible] أخرج الشافعي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة [illegible] البخاري [illegible] ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه [illegible] وابن [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] قال [illegible] أخرج ابن أبي [illegible] قال [illegible] عبد الله بن عامر [illegible] يوسف أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب أن عمر [illegible] قرأ [illegible] وأخرج ابن سعيد عن صفية بنت أبي عبيد [illegible] عن أبي هريرة [illegible] [illegible]

بسورة



لكثرة فصوله وهو اي السبع قيل هو عندنا الاكثر من سورة الحجرات [illegible]
صلى الله عليه وسلم وقيل من الفتح او من ق الى البروج ويسن في وقتي الفجر والظهر
اوساطه منها الى لم يكن ويسن في المغرب قصاره الى آخره وقيل طواله من الحجرات
الى عبس واوساطه من كورت الى الضحى والباقية قصاره ذكره في شرح [illegible] والاصل
فيه ما كتب عمر الى ابي موسى الاشعري ان اقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط
المفصل وفي الصبح بطوال المفصل رواه عبد الرزاق في مصنفه والظهر كالفجر لمساواتهما في
سعة الوقت وقال في الاصل او دونه لما روي عن عمر انه كتب الى ابي موسى ان اقرأ في
الظهر باوساط المفصل ولان وقتها وان كان متسعا لكنه وقت اشتغال الناس
بمهماتهم بخلاف الصبح والعصر كالعشاء اذ يستحب التاخير فيستحب بها في التاخير فلو طولت
القراءة ربما وقعت الى الوقت في الوقت المكروه فكان اوسطه فيهما انسب واما
المغرب فمبناها على العجلة وكراهة التاخير فكان قصاره بها اليق ويقرأ في
الفجر حضرا بعد الفاتحة اربعين آية وخمسين او ما بين الستين الى المائة لما في الصحيحين من حديث
ابي برزة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين الى المائة آية ولفظ ابن
حبان بالستين الى المائة واخرج [illegible] عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم [illegible]
في الفجر بالصافات وفي مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بق ونحوها ووجه
التوفيق انه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى اربعين وبالاوساط ما بين خمسين الى
ستين وقيل ينظر الى طول الليالي وقصرها والى كثرة الاشتغال وقلتها ويسن في السفر
والضرورة بحسب الحال من العجلة والاقامة اذ قد روي انه صلى الله عليه وسلم
قرأ المعوذتين في الفجر ولان السفر مؤثر في اسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف
القراءة اولى انتهى كلامه وليعلم ان هذا الذي ذكرت من كلام الفقهاء لا يعارضه
ما ذكرت من الآثار لانهم حملوها [illegible] بما كان على الاكثر من جنس الصلاة [illegible]

الستين

الكرام وما اسلفنا كان بحثنا ثم ليعلم ان مراعات الآداب مستحبة للمصلي [illegible]
لا تتعلق بها صحة الصلوة ولا كراهتها لقوله
فاقرؤا ما تيسر من القرآن والسلام
على من اتبع الهدى والتزم
متابعة المصطفى صلى الله
عليه وآله وسلم الى
يوم القيام تمت
الكتاب بعون
الملك الوهاب
تم تم تم
تم تم
تم



رسالة برهان الجلي في فضل الذكر الخفي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فان احسن الحسنات
واقبح السيئات الغفلة عنه سبحانه فالواجب على العاقل ان يستغرق في بحر الذكر مهما امكن
ويجتنب عن محل الغفلة ما استطاع حتى يتشرف بتشريف [illegible] ذكره و
بكريم ذكر الله كالمصباح في البيت المظلم فيا شرف الذاكرين ويا فوز [illegible]
وينبغي ان يعلم ان للذكر انواعا ولكل نوع احكام عليحدة لا بد للطالب [illegible] علمها
فنذكر منها ما اقتضى الحال في هذه الرسالة وهي مشتملة على مقدمة
وخاتمة وخمس فصول المقدمة في انواع الذكر الفصل الاول في
مطلق الذكر الثاني في اثبات الذكر الخفي الثالث في فضل الذكر الخفي
على الجهر الرابع في فضل كلمة التهليل وبعض الادعية الماثورة بالسر
الخامس في بعض حقائق قلب العارف الكامل التي هي ثمرة [illegible] اختيار ذكر
الخفي [illegible] وجب على كل مسلم وفيها مسالك [illegible]
[illegible] وهذه الرسالة مسماة بالبرهان الجلي في فضل الذكر
الخفي المقدمة اعلم ان الذكر على ثلثة انواع الجهر والخفي [illegible]
[illegible] اسرار [illegible]
الاول فهو ان يتلفظ بكلمة تنبئ عن تعظيم الحق تبارك وتعالى
[illegible]
[illegible]

ذكر الله

[illegible]

سميت بالتقييد لقلة الوصول الى الله [illegible]

انعدام السالكين عنه [illegible]

على قدر شرف العلوم ولكن [illegible] ظهر [illegible]

ومن هذا القبيل ما روي عنه انه صلى الله عليه وسلم [illegible]

انشرح فقيل له هل لذلك من علامة فقال التجافي عن دار الغرور [illegible] لدار

البقاء والاستعداد للموت قبل نزوله وقد علم من حد الخفي [illegible]

قالوا قدس الله اسرارهم [illegible] الذكر [illegible]

هذا محل الشارح المحقق علي القاري [illegible] رضي الله عنه قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت

بي شفتاه [illegible] ولا ريب ان [illegible]

الفضل [illegible] الامام الرازي في تفسيره [illegible]

الاية تحتمل ان يكون [illegible] الذكر [illegible]

والا كان ان يكون [illegible] واعلم ان [illegible]

[illegible] الذكر [illegible] يختلف [illegible] عند علماء الحنفية

[illegible] ومنهم النقشبندية [illegible]

[illegible] وكتب الامام الرباني [illegible] النقشبندية [illegible]

[illegible] والاخبار الصحيحة والروايات [illegible] السالكين [illegible]

[illegible] الذكر [illegible]

[illegible]

[illegible] فوق [illegible] قيل له فيه وقال [illegible]
[illegible] له في ذلك وعرضت الى حضرة القدس [illegible]
[illegible] وقد دخل بعض الكبراء من اصحابه [illegible]
[illegible] وقصة التي جرت عليه اني كنت [illegible]
مدة [illegible] بيني وبينه عهدان السابق منا الى الموت يذكر صاحبه الآخر [illegible]
فنسيته فكنت كل ليلة بعد التطهر اصلي واستغفر له وما رايت شيئا [illegible]
حولين حتى انكشفت ليلة من الليالي اذا رايت انه دخل علي وهو مسرور
[illegible] من يخرج من حبس عظيم قلت ما شانك ولم استطعت عن ذلك [illegible]
قال يا اخي اني كنت محبوسا محاسا الى هذا اليوم فلما خلصت منه اتيت
اليك وكان سبب خلاصي عنه انه نزل علي اليوم الشيخ احمد السرهندي فما
زال متضرعا الى الله حتى خلصني فجئت عندك قال المجدد رضي الله تعالى عنه صاحب
فاستفسرت عن تاريخ ذلك المنام فاذا هو ذلك اليوم الذي جلس فيه المجدد رضي
الله تعالى عنه على قبره وكنت اذ ذاك معه

والله سبحانه اعلم بصدق المقال وهو
المستعان في سائر الاحوال والصلوة
والتحية على افضل البرية
والسلام تمت
الرسالة البرهانية
الثاني
فضايل
ذكر الشيخ
بالخير

٦٥/٢٢

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد لتحقيق [illegible] ما يحق المستحق [illegible]

[illegible] الأدلة [illegible] [illegible] المقام [illegible]

أما بعد فهذه [illegible] يوم الجمعة [illegible] الإمام [illegible] عبد الله [illegible]

والعموم [illegible] فضل [illegible] الكلام [illegible] الروضة [illegible]

[illegible] وجعل [illegible]

[illegible] إلى جميع بطريق [illegible] بكمال [illegible]

[illegible] يا أولي الأبصار ثم إنه سبحانه [illegible]

في [illegible] مما نزل [illegible] فأقول وبالله التوفيق

قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلوة

فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا

رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو

ومن التجارة والله خير الرازقين [illegible]

[illegible] الآية [illegible] إلى [illegible] البيع [illegible]

[illegible] الآية [illegible] وكذا لا [illegible]

بعد الصلوة [illegible] على [illegible]

[illegible] الدلالة [illegible] إلى [illegible]

[illegible] الإشارة [illegible] الكتابة [illegible]

[illegible] الإشارة [illegible]

[illegible] في حيته [illegible] عند ربهم يرزقون وبهم يطربون وهم الذين [illegible] ذكروا
في [illegible] [illegible] وبيانه طريق معلوم [illegible]
النبوة العينية وربما أخرج أبو داود [illegible] عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من
عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيمة بمكانهم من الله تعالى
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال
يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون
إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي رواية
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم
القيمة فقال أعرابي عرفنا رسول الله من هم فقال من عباد الله من بلدان شتى
وقبائل شتى لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها يتحابون بروح الله
يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من نور قدام عرش الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون
ويخاف الناس ولا يخافون ثم لما كانت الرسالة حاوية لأسرار الحقيقة لما سميته بها
والشكر [illegible] سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

رب العالمين ١٢
آمين ١٢
تمم

رسالة نفي الإشارة في الصلوة

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان من تنزهت الإشارات في جبروته وتحيرت العبارات في ملكوته والسلام على من [illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

University Libr
Aligar
AIFTA COLL

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا لتحمل الاسانيد والصلوة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وصحبه على التابيد فيقول اقل عباد الله خادم الفقراء نور الله بن عبد الرحمن الحنفي القرشي الهاشمي الرتاسي ثم الجلال آبادي الحصاري عامله الله تعالى بلطفه الخفي لما منح الله جل مجده علي باجازات العلوم الدينية المثمرة لمعارف اليقينية من الكتاب والسنة واصول الفقه وفروعها السيد الائمة والنحو والآداب والعقايد وطرق الصواب لبشارة ورثة مظهره الاتم عليه من الصلوة والتحيات الاتم منهم الخبير النحرير في التقرير والتحرير مولانا المحقق محمد صادق بن ويندار النيكنهاري الحصاري غفرهما الله تعالى وقد اجاز لي في المشكوة ومنهم الشيخ الامين رئيس المحدثين سالك مسلك النجاة مولانا محمد حيات السندي المدني رحمه الله تعالى وقد اجاز لي في الصحاح الستة وغيرها ومنهم الشيخ الفقيه الطيب خطيب بن عمر بن عبد اللطيف الناشري اليمني الحديدي وقد اجاز لي بجميع مروياته عن ابي زكريا يحيى ابن

[illegible] ولمن اختار مسلك اهل الفقه [illegible]

ثم

شرف النووي رحمه الله تعالى ومنهم العلامة مسند السند محمد هاشم بن عبد الغفور
التتوي غفره الله تعالى وقد اجازني في العلوم المذكورة ومنهم الشيخ الكامل
والعلامة العامل غنيمة العصر والاوان قطب الاقطاب في الزمان مولانا
محمد مسعود البشاوري رحمه الله وقد اجازني في ستة طرق واجازني بالطريقة الكبروية
ايضا فاردت تاليف اسانيدها في كراسات عديدة مع تحقيقات مزيدة
من كتب الائمة الاعلام من الثقات وعلماء الاسلام كالعسقلاني والاكمل
وصاحب فتح القدير وعقود المكان مؤثرا اثرهم ومكتفيا بذكر اسانيد جميع
ما اجازني العلامة التتوي اجازة لاشتماله على ما اجازني به المشايخ رحمهم الله تعالى
وسند الخطيب في جميع ما روى من الشيخ ابي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى
وسندي الطريقة من القطب ورتبتها [illegible] ذكر فيها ما ينبغي للتقديم وسند النحو
ايضا لكونه آلة التعلم والتعليم وثمانية [illegible] في سند اصول الدين
والعقائد مطلقا [illegible] في سند القرآن العظيم مع الروايات عن القراء
السبعة من طريق رواتهم الاربعة عشر المشهورين مسلسلا الى سيد الانبياء
والمرسلين عليه من الصلوة اتمها ومن التحيات اعمها وعليهم اجمعين والتفاسير
المجاز بها [illegible] في اسانيد الصحاح الستة وغيرها من كتب الاحاديث

جمع [illegible] بعض الكافة [illegible] بالارشاد [illegible]
[illegible] لعد ومعلوم من اوراق الكتب [illegible]
[illegible] عشر ورد [illegible]
فقير الله غفر عنه

صحبه وسلم كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى تمت النسخة المباركة المحركة
المسماة بوثيقة الاكابر في النكاربور من مدائن
السندية مولدا بالراجي رحمة ربه عشاء ليلة
السبت احدي عشرين من شهر صفر
المنتظم في سلك الشهور في سنة خمس
ستين ومائة الف بعون الله تعالى
كاتبه فقير الحقير خاكپاي اهل الله
فريد الدين محمد مكرم غفر الله
له ولوالديه ولجميع المو
منين والمومنات
والمسلمين و
المسلمات

ی بعد جامع
یت شیخ زاده
برادر نبی و مولانا حسین
عزیز
البصر
[illegible]
مشعوف
به
محجوب و قانه

[illegible] با ماه مهربان بست
[illegible] از
مست غیبت [illegible] باشد
[illegible] حالت
عاشق [illegible]
دوران زور [illegible]

[illegible]

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مناجات

قطبِ زمان مولانا خالد کُردی شامی نقشبندی

☆☆

خداوندا بحقِ اسمِ اعظم
بنورِ سیدِ اولادِ آدم
بسوزِ سینۂ صدیقِ اکبر
بسلمان و بقاسم بارِ دیگر

بشاہِ صفدرِ کرارؓ حیدر
کہ از نیروش واشد بابِ خیبر
نبد فصلی بروزِ کار زارش
ز عزرائیل و ضربِ ذوالفقارش

بآں سروِ گلستانِ نُبوت
بآن شمعِ شبستانِ فتوّت
حسن کز محض لطف و خیر خواہی
فرود آمد ز تختِ بادشاہی

بآن نوبادۂ باغِ رسالت
بآن یکتای میدانِ بسالت
حسین آن سرورِ جمعِ سعیدان
سپہ سالارِ افواجِ شہیدان

بآن چشم و چراغِ اهلِ بینش
که بروی بُد مدارِ آفرینش
علی ابن الحسین آن زینِ عُبّاد
که بود از غیر ذاتِ بحت آزاد
بآن کانِ صفا و منبعِ نور
که بود اندر قبای عز مستور
محمد باقر آن کوهِ مفاخر
که از نحریریش گفتند باقر
بحقِ مجمع البحرین انوار
که شد او را ز صدیق و علی بار
امامِ صادق و مصدوق جعفر
که این دو منصب او راشد میسر
بحقِ جمله اهلِ بیت اطهار
کلان و خورد مرد و زن بیکبار
که هر یک کشتیِ بحرِ یقین است
چه کشتی لنگرِ رویَ زمین است
بآن سرمستِ صهبایِ محبت
که بُدغواصِ دریایَ محبت
رئیسِ عشق بازان قطبِ بسطام
که در این ره نزد چون او کسی گام
بشرب بوالحسن از جامِ عشقت
که بُدشائسته اقدامِ عشقت

بحقِ بوعلی آن قطبِ فائق
بخواجہ یوسف آن غوثِ خلائق
بعبد الخالق آن البرز تمکین
امامِ پیشوایان رہبرِ دین
کہ پانہ نہادہ آن فرخندہ اخترِ
بجز اندر قدم گاہِ پیمبر
بحقِ خواجہ عارف کانِ معنی
بحقِ خواجہِ انجیر فغنی
بہ تمکینِ عزیزان پیرِ نسّاج
کہ برچرخِ برین سود از شرف تاج
بحقِ خواجۂ بابا سماسی
بآن خورشید برجِ حق شناسی
امیرِ شہ کلال آن پیرِ کامل
کہ فکرِ غیر نہ گزشتی است در دل
بحقِ پیرِ پیرانِ بخارا
کزوشد سنگِ خارا زرِّ سارا
بہاء الدین والدنیا محمد
کہ این راہِ ہدٰی زوشد ممہد
بہ بے نقشی چو کردی سربلندش
نہادی نام شاہِ نقشبندش
ز بس کزوی گرہ ازکار واشد
خطابش خواجۂ مشکل کشا شد

بقطب حق علاء الدین عطار
کہ از عالم کشادی قفلِ اسرار

بآن پیریکہ چرخ آمد مقامش
ازان یعقوب چرخی گشت نامش

بحقِ آبروی پیر احرار
کزوزیبِ دگر بگرفت این کار

چہ گویَم من بوصف آن گرامی
کہ در وصفش چنین گفت است جامی

مقام خواجہ برتر از گمان است
برون از حدِ تقریر و بیان است

دلش بحریست ز اسرارِ الٰہی
کزو یک قطرہ از مہ تا بماہی

بخواجہ زاہد آن پیرِ صفا کیش
بجان بازی مولانایٔ درویش

بحقِ خواجگی کاندر ہدایت
نمودی درجِ اسرارِ نہایت

بآن مہرِ سپہرِ ارجمندی
ختامِ خواجگانِ نقشبندی

کہ صہبایٔ محبت راست ساقی
دُرِ دریایٔ عرفان خواجہ باقی

بآن سیّار سیرِ بے نہایت
بآن سرہنگ اربابِ درائت

بآن ینبوعِ اسرارِ نہانی
بآن شہبازِ اوجِ لامکانی

بنور دیدۂ فاروقِ احمد
کزو شرعِ محمد شد مجدّد

ز نورش شد سوادِ ہند روشن
از و سرہند شد وادیِ ایمن

چراغِ محفلِ باریک بینان
سپہ سالارِ فوجِ پاک دینان

نسنجد ہر کہ داند ارتقائش
نگاہِ ہیچکس بانقشِ پائش

بہر دو دیدۂ آن غوث و قیوم
سعید و عروۃ الوثقیٰ و معصوم

بہ شیخ عبدالاحد آن نجمِ ثاقب
محمد عابد آن والا مناقب

بہ سیف الدین وآن نورِ محمد
بہ شمس الدین حبیب اللہ ارشد

بہ پیرِ ما کہ ہست اندر زمانش
ہدایت حصر اندر آستانش

نشد جز بندگی آرام گاہش
از ان شد نام عبداللہ شاہش

نگویم از کمالاتش کہ چون است
ز ہر وصفیکہ اندیشم فزون است

بحق بو سعیدِ شاہِ دوران
بحار فضل ایزد دُرِّ عرفان
بجوشِ عشق آن دل دادۂ حق
کہ شد احمد سعید اسمش محقق

امام و مقتدائے اہلِ عالم
ولیِ کامل و قطبِ معظم
غریب و بیکسم برمن بہ بخشا
چوکس مشکل کشا نبود تو بکشا

دری بکشای از خوشنودیِ خویش
برین سرگشتۂ مہجور دل ریش
بہرکس از کرم کردی نگاہی
دو عالم رانمی سنجد بکاہی

ز بحری کز فیوضت گشت ریزان
ز عینِ مکرمت بر این عزیزان
برحمت رشحۂ ہم بردلِ من
اگر ریز شود حل مشکلِ من

زمن ہرگز نشد کاری کہ باید
گنہ زین سان کہ در گفتن نیاید
ز اعمالِ بدِ خود شرمسارم
نہ طاقت نے زبانِ عذر دارم

چو بر خود بینم از بس شرمساری
بدوزخ خوشترم از رستگاری

بیامرز و مپرس از کارِ خام
به رسوائے نیرزد انتقام
اگرچہ بس ستم برخویش کردم
قباحتہای از حدبیش کردم
چومی اندیشم از دریای جودت
خوشم با این ہمہ نقضِ عہودت
بحقِ فضلِ تو امید دارم
تو خود فرمودۂ آمرزگارم

(مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات، مطبوعہ دہلی ۱۹۰۴ء)

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

مناجات

بدرگاہِ واہب العطیات بتوسّل بزرگانِ نقشبندیہ

مولوی وکیل احمد سکندر پوری نقشبندی

☆☆

خداوندا بحسنِ بے مثالت
برآتی کہ مے تابد جمالت

بحق سرورِ[1] ارض و سمٰوات
بچشمِ نوربینِ جلوۂ ذات

بصدقِ صافیِ صدیق اکبر[2]
بسلمانِ[3] حقیقت یاب داور

بنور قاسم[4] نیکو سرشتہ
بصدقِ جعفر[5] والا خجستہ

بحق بایزید[6] پیرِ بسطام
بحق بوالحسن[7] نیکو سرانجام

بخواجہ بوعلے[8] پیرِ کامل
بہ یوسف[9] داشت کو آئینہ سان دل

بعبد الخالق[10] ارشاد ایجاد
بخواجہ عارف[11] توحید بنیاد

بہ محمود[12] یکہ از اسرارِ باری
شدہ در دہر بحرِ فیض جاری

بحقِ فیض آن خواجہ[13] عزیزان
زبانِ او ز وحدت نکتہ ریزان

بآن باباسماسی[14] پیر حق بین
دلش جوہر کش آئینۂ دین

بآن سید امیر[15] پیرِ عارف
کہ بود از نکتہ ہائے راز واقف

الٰہی از فیوضِ پیرِ پیران
کہ ہست او دستگیر دستگیران

بہاء الدین[16] چو باب فیض بکشاد
درون عالمی شد وحدت ایجاد

از و سرِ حقیقت را پناہی
وزو توحیدِ حق را دستگاہی

بعالم تافت زو خورشید اسرار
نماید سینہ ہا سرِ مشق انوار

باو زیبد خطاب نقشبندے
کہ میدارد بعرفان ارجمندے

کشد بر لوحۂ دل نقشِ اسرار
بہر سو جلوہ آرا گشت انوار
بدل تا نقش بندِ راز گردید
زبانِ من ز وحدت باز گردید
بآن خواجہ علاء الدین[۱۷] عطار
کہ درعالم فشانداو عطرِ اسرار
بآن یعقوب چرخی[۱۸] پیرِ عارف
کہ دستش بودا ز اسرارِ کاشف
بآن خواجہ عبیداللہ[۱۹] احرار
کہ چشمش بود دائم محو انوار
ازو زیبا طریق نقشبندی
وزو والا مقامِ ارجمندی
دلش دریایٔ انوارِ حقیقت
لبش گویایٔ اسرارِ طریقت
محمد زاہدان[۲۰] پیرِ صفا خیز
دلش از نورِ عرفانی جلا خیز
بہ درویش محمد[۲۱] کز معارف
حقائق را زبانش بود کاشف
بآن خواجہ محمد[۲۲] کزہدایت
عیان می کرد اسرارِ ولایت

بآن سرمست نشۂ خمّ ساقی
حقیقت کیش عالم عبدِ باقی[۲۳]

دلش سیّاح دریایٔ حقیقت
تنش سیّاح صحرایٔ طریقت

بانوارِ مجدد الف ثانے[۲۴]
کہ بود او عارفِ رازِ نہانی

باسرارِ ولایت راز گوئی
بابوابِ حقیقت نکتہ جوئی

دلش از لوحۂ آفاق و انفس
تماشا بین انوارِ تقدس

بادراکاتِ جانِ خواجہ معصوم[۲۵]
کہ بود او حافظِ اسرارِ قیوم

بہ سیف الدین[۲۶] وآن نورِ محمد[۲۷]
کز ایشان قصرِ ایمان شد مُشیّد

بآن مظہر[۲۸] کہ بودہ جانِ جانان
بچرخِ زہد و تقوٰی ماہِ تابان

بہ عبداللہ[۲۹] آن بحرِ ہدایت
کزو سرسبز شد باغِ ولایت

بہ سعد اللہ[۳۰] آنِ پیر ملک خو
کہ جانش بود محوِ معنے ہو

بآن اشرف علی[31] پیرِ طریقت
دلش جوہرکشِ راز حقیقت

دلِ او مخزنِ انوار سبحان
زبانش مطلعِ اسرارِ سبحان

بحقِ این وفا کیشانِ جانباز
دل و جانم زعشقِ خویش بگداز

باین مستانِ بزم شاہدیت
باین گلہائ باغِ زاہدیت

الٰہی سینہ ام آئینہ زاکن
درون از نورِ خود جوہر نما کن

الٰہی من بغفلت آشنائم
بزلفِ مکرِ شیطان مبتلائم

دلِ من ازمی غفلت چو نوشید
بصد خواری بروئے خاک غلطید

ز عصیان در دلِ خود شرمسار
ز آہ و رنج در دل نالہ کارم

شرر ہائ خجالت سینہ ام سوخت
بُن مویم ہزاران برق افروخت

بہر اشکے کہ از چشم چکیدہ
شرر برخاک چون برقِ طپیدہ

گناہا نے کہ من دانستہ کردم
زخجلتہا نمودہ رنگ زردم
خیالی برکنم چون از گناہے
نجائد برق من نبضِ ---

زحیرانی پریشان کارم امروز
نگاہی بر غزالان دارم امروز
زمن جز خفتن و خوردن نیامد
زمن کارے نکو کردن نیامد

تمنایم ز لطفت بیکران است
ازین دستم بسوئ آسمان است
بلطفت احتیاجی دارم اینک
ز فضلِ تست یارب کارم اینک

خدایا عاجزم از دستِ عصیان
خدایا بودہ ام سرمستِ عصیان
مبیں کردار عصیان خیزیِ من
مبیں کارِہوس انگیزی من

مرادر غفلت و عصیان مپسند
کشا از دست و پایٔ من غل و بند
باین عاجز بدہ دستے کہ خیزد
ز دیدہ اشک خونابی بریزد

به آمد سویٔ تو افتان و خیزان
ز دامِ مکر شیطانے گریزان

امیدم باشد از فیضت ہزاران
بمن زابرِ عنایت قطرہ باران

طپان چون برق ازسوزش دلم را
چراغ طور گردان حاصلم را

زعشقِ این وآن جانم تہی ساز
سرمن کن بہ عشقِ خود جنون تاز

دلم محوِرموز ناز گردان
زبانم ترجمانِ راز گردان

چراغِ معرفت برسینہ برکن
بہرمویم تجلی پر شرر کن

ضمیرم کن تہی ازماسوائت
دلم پرکن زسرّنکتہ زائت

مرادور عشقِ خود مخمور گردان
دلم دریادِ خود مسرور گردان

خیالِ ماسوٰی باشد نہ مارا
ز بالم کن تجلّے آشکارا

خدایا بردلم بکشائے راہی
نگاہے آرزو دارم نگاہی

خدایا کن نگاهِ لطف برمن
ازین ماومنی مگذار درمن
دماغم را نہ باشد جز خیالت
حدیثِ نفسِ من باشد وصالت

دلِ عاجز برنگِ شرق بکشا
رگِ عرفانِ من چون برق بکشا
طپان در جانِ عاجز برق تنویر
دلش را کن بدامِ قدس تسخیر

بتوفیق خدائے سخن آفرین وتجلی بخش مضامین نور آگین اعنی مناجات بدرگاه قاضی الحاجات بامتثال امر جناب مولوی حکیم وکیل احمد صاحب سکندر پوری نائب عدالت صوبۂ شرقیہ دکن لازالت شموس کمالاتہ بازغۃ درمطبع مجتبائی واقع دہلی جناب مولوی حافظ محمد عبدالاحد صاحب باہتمام کارپردازان مطبعِ حسن انطباع یافتہ۔ مطبوع طبائع خاص وعام گردید (۱۹۰۴ء)

☆……☆……☆

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہیے اس بحرِ بیکراں کے لیے